جدید کمپوزنگ۔ خوبصورت ایڈیشن

القاموس الجدید

عربی۔ اردو لغت

پینتالیس ۴۵ ہزار سے زائد قدیم وجدید عربی الفاظ اور اُن کے مترادفات ومعانی، مروجہ تعبیرات، محاورات، ضرب الامثال اور جدید علمی، ادبی، فنی اصطلاحات پر مشتمل مشہور ومعروف لُغت۔

تالیف

مولانا وحید الزماں قاسمی کیرانوی

استاذ ادب عربی، دار العلوم دیوبند

القاموس الجدید

عربی۔ اُردو لُغت

پینتالیس ۴۵ ہزار سے زائد قدیم و جدید عربی الفاظ اور اُن کے مترادفات و معانی، مروجہ تعبیرات، محاورات، ضرب الامثال اور جدید علمی، ادبی، فنی اصطلاحات پر مشتمل مشہور و معروف لُغت۔

تالیف
مولانا وحید الزماں قاسمی کیرانوی
استاذِ ادب عربی، دار العلوم دیوبند

ادارۂ اسلامیات
پبلشرز، بک سیلرز، ایکسپورٹرز
لاہور — کراچی

فہرست

القاموس الجديد عربی۔اردو

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمہ طبع جدید اضافہ شدہ

حمدا و صلاۃ۔

القاموس الجدید عربی اردو کے متوسط وخورد سائز پر ہندو پاکستان میں بیس سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، عربی زبان وادب کی خدمت کے لیے جو حقیر کوشش کی گئی تھی اسے اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا فرمائی اور اس کی افادیت وضرورت مختصر ہونے کے باوجود عربی داں حلقوں میں محسوس کی گئی، عرصہ سے ارادہ تھا کہ اس قاموس میں جدید الفاظ کا مزید اضافہ کر کے اس کی افادیت کو دو چند کیا جائے، لیکن عدیم الفرصتی کی بنا پر یہ کام ٹلتا رہا، خدا کا شکر ہے کہ اب اس قاموس کو جدید الفاظ کے معقول اضافہ اور آفسیٹ کی کتابت وطباعت کے ساتھ ہدیۂ ناظرین کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ خدا تعالیٰ اس مزید کوشش کو بار آور بنائے۔

واللہ الموفق وھو المستعان

وحید الزماں کیرانوی
استاذ دار العلوم دیوبند
12 شوال 1409ھ

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمۂ طبع قدیم

حامدا ومصليا.

موجودہ ترقی یافتہ دور میں جس طرح زندگی کے ہر شعبہ اور گوشۂ عمل میں نمایاں تغیرات ہو رہے ہیں، اسی طرح زبان وادب، اسلوبِ نگارش اور طرزِ تعبیر میں بھی اہم تغیرات رونما ہوئے ہیں اور صنعتی، سائنسی، علمی، طبی، سیاسی وصحافتی میدانوں میں ہزارہا نئی اصطلاحات وتعبیرات وجود پذیر ہو رہی ہیں، زندہ زبان خواہ کوئی بھی کیوں نہ ہو وہ اپنی وسعتِ داماں کا ثبوت اسی وقت دیتی ہے جب کہ اس کے دامن اشتقاق میں ان نئی ضروریات کی تکمیل کے لیے بسہولت وبلاتکلف اصطلاحات وتعبیرات کو نمایاں جگہ مل جائے۔

انگریزی زبان، تو ان ممالک کی مادری زبان ہے جو زیادہ تر نئی ترقیات کا مرکز ومنبع ہیں، اس لیے اس زبان میں نئے دور کی ضروریات کے لیے اصطلاحات اور تعبیرات کا وضع ہونا قابلِ تعجب نہیں، بلکہ سہل بھی ہے اور ناگزیر بھی، لیکن عربی زبان چونکہ اپنی وسعت اور آفاقیت کے لحاظ سے دنیا کی زندہ اور وسیع تر علمی زبانوں میں ممتاز حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اس نے بھی اپنے دامنِ اشتقاق کو اس طرح پھیلایا کہ آج اس میں مختلف النوع اصطلاحات وتعبیرات خوبی اور بے تکلفی کے ساتھ سماتی جا رہی ہیں، جن کا اندازہ جدید لٹریچر اور جدید عربی معاجم کے مطالعہ سے کیا جا سکتا ہے۔

ہندوستان میں عربی اخبارات ومجلات اور جدید تالیفات کے سمجھنے کے لیے عربی داں طبقہ کو عرصہ سے ایک ایسی ڈکشنری کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی، جس میں خاص طور پر نئی عربی اصطلاحات یا قدیم الفاظ کے نئے معانی کی وضاحت اردو میں کی جائے۔

کاتب الحروف کی چونکہ اسی قسم کی طالب علمانہ کاوش "القاموس الجديد" (اردو عربی ڈکشنری) کے نام سے عربی داں حلقوں میں قدر کی نگاہوں سے دیکھی گئی تھی اور اسے بے حد سراہا گیا تھا، اس لیے خود بھی جرأت ہوئی اور ان حلقوں کی طرف سے بھی تقاضا کیا گیا کہ ایسی ایک مختصر ڈکشنری عربی سے اردو بھی تیار کی جائے، چنانچہ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد آج یہ مختصر ڈکشنری ہدیۂ نظر کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، توقع ہے کہ اس سے کم از کم طلبۂ مدارس جدید عربی لٹریچر سمجھنے میں بڑی حد تک استفادہ کر سکیں گے۔

اس کی ترتیب میں "القاموس العصری" (عربی انگریزی ڈکشنری) کو اساس بنایا گیا ہے، بلکہ

اگر یہ کہا جائے کہ ضروری اضافوں اور تغیرات کے ساتھ اس کا ملخص تیار کیا گیا ہے، تو بیجا نہ ہوگا۔ الفاظ و اصطلاحات کے ترجمہ وتعیین مراد کے لیے ڈاکٹر عبدالحق کی انگلش اردو ڈکشنری سے اور صلات وابواب اور وُحدان وجموع کی وضاحت کے لیے المنجد جدید سے بڑی حد تک مدد لی گئی ہے، اس طرح اس مختصر معجم میں نئی اصطلاحات کا معتد بہ ذخیرہ شامل ہو گیا ہے، اسی کے ساتھ ایسے الفاظ جو بظاہر عام مروجہ کتب عربیہ میں بکثرت استعمال ہوتے ہیں، لیکن ذہنوں میں ان کے ایک خاص معنی اور اشتقاقی ترجمے رچ بس گئے ہیں، وہ بھی معنی اور ترجمہ کے جدید لباس میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، الفاظ کے معنی اگرچہ قدیم وجدید کی صراحت کے بغیر بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہر معنی کا علیحدہ نمبر ڈال کر اختلافِ معانی کو واضح کر دیا گیا ہے۔

امید ہے کہ ناظرین اس پیش کش کے بارے میں اپنے مفید مشوروں سے آئندہ کے لیے مخلصانہ رہنمائی فرمائیں گے اور احقر کو دعاء خیر میں فراموش نہ فرمائیں گے۔

وما توفيقي الا بالله العلي العظيم

وحید الزماں کیرانوی
خادم تدریس دار العلوم دیوبند
6-ذیقعدہ 1385ھ

رموز واشارات

ـــــــ	شروع سطر میں سابقہ لفظ کے قائم مقام
(مع)	معرب کا مخفف یعنی غیر عربی الاصل
(د)	دارجہ کا مخفف یعنی عامی زبان کا لفظ
ـــُــ	علامت باب نصر وکرم (مضارع کا عین مضموم)
ـــَــ	علامت باب سمع وفتح (مضارع کا عین مفتوح)
ـــِــ	علامت باب ضرب (مضارع کا عین مکسور)
ج:	علامت جمع
و:	علامت واحد
الشیءُ اور بکذا:	فاعل اور مفعول اور مضاف الیہ کی وضاحت کے لیے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الف

أ: کیا، ہمزۂ استفہام۔
أقرأتَ كِتاباً: کیا تو نے کتاب پڑھی؟

ا .... ب

آبُ: ماہِ اگست
أبٌّ: گھاس
أبَّ إلَيهِ ـُ أبًّا و أبابًا: مشتاق ہونا۔
أبابَةٌ: شوقِ وطن۔
أبْجَدِيٌّ: حروفِ تہجی والا، حروفِ تہجی کے متعلق، ابجدی۔
أبَدَ بِالْمَكانِ ـُ أُبودًا: قیام کرنا۔
___ الحَيَوانُ ـُ ـَ أُبودًا و أبدًا: وحشی ہونا، جنگلی ہونا۔
أبَّدَ الشيءَ تَأبِيدًا: دوام عطا کرنا، دوامی بنا دینا، ہمیشہ قائم رکھنا۔
أبَدٌ: ہمیشگی
أبَدِيٌّ: لازوال، ہمیشہ رہنے والا، ازلی۔
إلَى الأَبَدِ: ہمیشہ، ہمیشہ کے لئے۔
إلَى أَبَدِ الآبِدِينَ: ہمیشہ ہمیشہ۔
مُؤَبَّدٌ: ہمیشہ، تازیست، تازندگی۔
أبَدًا: (۱) ہمیشہ
(۲) زمانہ ماضی میں فعل کی نفی کے لئے، نہیں، کبھی نہیں، بالکل نہیں ما رأيتُه أبدًا
(۳) مستقبل میں نفی کی تاکید کے لئے کبھی نہیں، ہرگز نہیں (لا آخذُه أبدًا)
(۴) مستقبل میں اثبات کی تاکید کے لئے، ضرور، یقیناً (آكُلُه أبدًا).
أبَدِيَّةٌ: دوام، ہمیشگی، دوامیت
أبَرَه ـِ أبرًا و إبارًا و إبارَةً: (۱) ڈنک مارنا، (۲) بچھو کا کاٹنا (۳) غیبت کرنا (۴) انجکشن لگانا (۵) ہلاک کرنا (۶) تہمت لگانا۔
إبْرَةٌ: (۱) سوئی (۲) ڈنک (۳) چغلخوری (۴) انجکشن ج: إبَرٌ، إبارٌ، إبَراتٌ.
إبْرَةُ الحِياكَةِ: بنائی کی سوئی۔
إبْرَةُ المَلّاحِينَ: (حق). قطب نما، سمت نما
إبْرَةٌ مَغْنَطِيسِيَّةٌ: مقناطیسی سوئی۔
أبّارٌ: سوئی ساز، سوئی فروش۔
مِئْبَرٌ، مِئْبارٌ: سوئی دان، فلیتہ ج: مآبِرُ۔
شُغْلُ الإبْرَةِ: کڑھائی، ایمبرائڈری، پھول نکالنے کا کام۔

اِبْرِیزٌ: خالص سونا۔
اِبْرَیْسَم: ریشم، سلک۔
اِبْرِیقٌ: لوٹا، پانی کا جگ ج: اَبَارِیقُ.
اِبْرِیقُ الشَّای: چائے دان، کیتلی، ٹی پوٹ ج: اَبَارِیقُ الشَّای.
اِبْرِیلُ: ماہِ اپریل (اپریل کا معرب)۔
اَوَّلُ اِبْرِیل (یَوْمُ الکَذِب) اپریل فول
اِبْزِیمٌ (بکسوا) ھُک ج: اَبَازِیمُ:
أَبَشَه ــــ أَبْشاً، وأَبَّش: جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔
اِبْطٌ: بغل ج: آباط۔
تَأَبَّط: بغل میں لینا
أَبَقَ، أَبَقٌ و اِبَاقٌ (س، ن، ض): فرار ہونا، غلام کا آقا کے پاس سے بھاگ جانا۔
اِبِلٌ: اونٹوں کی جماعت، اونٹ۔
اِبَالَةٌ: سیاست، پالیسی، حکمت عملی (۲) گانٹھ۔
اِبَّـــالَةٌ: گانٹھ، بنڈل، لکڑی اور گھاس وغیرہ کی بڑی گٹھڑی۔
ضِـغْـثٌ عَـلٰـی اِبَّـالَةٍ: بوجھ در بوجھ، مصیبت پر مصیبت۔
أَبَنَہ ــــ أَبْناً: عیب لگانا، الزام لگانا۔
أَبَّنَ الْمَیِّتَ تَأبِیناً: نوحہ کرنا، ماتم کرنا۔
تَأبِیْن: تعزیت۔
اِبْنُ بَطْنِه: پیٹ کا بندہ۔
أُبْنَة: لکڑی کی گرہ، گانٹھ ج: أُبَن۔
اِبَّان: وقت، موسم، اِبَّانَ کذا، فلاں وقت۔
أُبَّهَةٌ، أُبْهَةٌ: شان و شوکت، کروفر، عظمت، بڑائی۔
أَبٌ: باپ ج: آبَاء، أَبُونَ.
أَبَوِيٌّ: پدری، پدرانہ، باپ کا، باپ سے متعلق
أُبُوَّةٌ: پدری رشتہ، باپ ہونا۔
أَبَوَانِ: والدین۔
أَبیٰ ــــ اِبَاءً و اِبَاءَةً: رد کرنا، ناپسند کرنا، حقیر سمجھ کر رد کر دینا، انکار کرنا، نہ ماننا،
آبٍ: منکر، رد کنندہ، متنفر ج: آبُوْنَ.
اِبَاءٌ و اِبَاءَةٌ: خودداری، بڑائی، ترفع۔
اِبَاءُ الضَّیْم: ظلم بیزاری۔
أَبِیٌّ: خوددار، ناک والا۔

ا............ت

اِتَاوَة: مالگذاری، ٹیکس، تاوان، معاوضہ، ا۔ملکیت (۲) رائلٹی، حق تالیف (۳) رشوت۔
أُتْرُجٌّ: ترنج، لیموں، لیموں کا درخت
أَتَمَ ــُــ أَتْماً: دو چیزوں کو ملانا۔
أَتَمَ بالْمَکَان: قیام کرنا۔
مَأْتَم: محفلِ سوگ ج: مَآتِم.
أُتُمْبِیل: موٹر کار (معرب)
أَتَانٌ: گدھی ج: أُتُنٌ و أُتْنٌ.
أَتُّونٌ: تنور، بھٹی، اینٹ پکانے کا بھٹہ ج: أُتُن و أتَاتِینُ
أَتیٰ ــِــ اِتْیَاناً و أَتْیاً و مَأْتَاةً: آنا۔
ـــ الی الحُکم علی أَسِنَّةِ الحِرَاب: بزورِ شمشیر کرسیِ اقتدار پر آنا۔
ـــ به: لانا۔
ـــ الأَمْرَ: کرنا۔
ـــ الجُرْمَ: ارتکاب جرم کرنا۔
ـــ علی العَمَلِ: کام مکمل کرنا۔
تَأَتّٰی (منه و عنه): نتیجہ برآمد ہونا۔
آتَاه مُؤَاتَاةً: موافق آنا، موافقت کرنا۔

آتٍ: آئندہ، اگلا، آنے والا۔
اَلْجُمْلَةُ الآتِيَةُ: حسب ذیل جملہ
مُؤَاتٍ: موافق، سازگار

ا............ث

أَثَاثٌ: فرنیچر، گھر کا آرائشی سامان، سامانِ زینت۔
أَثَاثُ البَيْتِ: اسباب، گھریلو سامان۔
أَثَاثُ المَكْتَبِ: آفس فرنیچر۔
أَثَّثَ الحُجْرَةَ تَأْثِيثًا: (۱) آراستہ کرنا (۲) فرنیچر لگانا، سامان لگانا، بچھانا۔
مُؤَثَّثٌ: فرنیچر لگا ہوا، سامان سے آراستہ، فرش وغیرہ سے آراستہ۔
أَثَرَ (ن، ض) أَثْرًا وَ أَثَارَةً وَ أُثْرَةً: (۱) عزت و احترام کرنا (۲) بات نقل کرنا۔
مُتَأَثِّرٌ: اثر پذیر، احساس مند، باشعور
أَثَّرَ عليه تَأْثِيرًا: اثر کرنا، دباؤ ڈالنا۔
أَثَّرَ فِي النَّفْسِ: تاثر پیدا کرنا، دل میں نقش چھوڑنا، اثر قائم کرنا۔
مُؤَثِّرٌ: اثر انگیز
مُؤَثِّرٌ أَجْنَبِيٌّ: غیر ملکی اثر ورسوخ۔
آثَرَه عليٰ كَذَا إِيْثَارًا: ترجیح دینا۔
تَأَثَّرَ وَاسْتَأْثَرَ بِكَذَا: اثر قبول کرنا، اثر لینا، متاثر ہونا۔
الإِسْتِئْثَارُ: ترجیحِ نفس، خود غرضی، خود فضیلت۔
أَثَرٌ: نشان، نقش، دیرپا نشان، پرانی یادگار، قدیم عمارت، اثر ج: آثار
فِي أَثَرِ وَ إِثْرِ: پیچھے، بعد۔
إِثْرَ شَيْءٍ: کسی چیز کے نتیجے میں۔
عَلَى إِثْرِ شَيْءٍ: بعد میں
عَلَى أَثَرٍ: فوراً بعد، پیچھے پیچھے، فوراً
آثَارٌ: نشانات، پرانی یادگاریں، تاریخی عمارت، اثرات، نتائج، نقوش۔
اَلآثَارُ الأَدَبِيَّةُ: لٹریچر۔
آثَارٌ مَلْمُوسَةٌ: نمایاں اثرات، زندہ نقوش۔
دَارُ الآثَارِ: میوزیم، عجائب گھر۔
أَثَرِيٌّ: قدیم، ماہر آثارِ قدیمہ۔
أَثَرَةٌ وَ اسْتِئْثَارٌ: ترجیحِ نفس، خود فضیلت، خود غرضی۔
إِيْثَار: ترجیح، ایثار
أَثِيرٌ: ایتھر، ایک بے وزن لطیف مادہ۔
تَأَثُّرٌ: انفعالی کیفیت، احساس۔
سَرِيْعُ التَّأَثُّرِ: ذکی الحس، اعصابی انسان، جلد متاثر ہونے والا۔
سُرْعَةُ التَّأَثُّرِ: ذکاوتِ حس۔
قَابِلِيَّةُ التَّأَثُّرِ: اثر پذیری
اَلتَّأْثِيرُ المُبَاشِر عليٰ: بلاواسطہ اثر اندازی۔
مَدَّ التَّأْثِيرَ: اثر ورسوخ بڑھانا۔
لَايُؤَثِّرُ عليه المَاءُ: واٹر پروف۔
تَأْثِيرٌ: اثر، رسوخ، قوتِ نفوذ، دباؤ، کنٹرول، پاور، اقتدار، نفع۔
تَأْثِيرُ البِيْئَةِ: ماحول کا اثر۔
اَلتَّأْثِيرُ الهَدَّامُ: مہلک اثر، تباہ کن تاثیر۔
ذُوتَأْثِيرٍ: نفع بخش، اثر انگیز، بااثر، بارسوخ، بااقتدار ج: تَأْثِيرَات.
عَدَمُ التَّأْثِيرِ: بے اثری
مَأْثَرَةٌ: قابلِ تحسین عمل، کارنامہ، ج: مَآثِرُ
مَأْثَرَةٌ بَاهِرَةٌ: حیرت انگیز کارنامہ

مُتَأَثِّر: اثر پذیر، احساس مند، باشعور
غَيْرُ مُتَأَثِّرٍ: بے حس، بے شعور۔
أُثْفِيَةٌ: چولہے کی بڑھان ج: أَثَافِيُّ و أَثَافٍ
أَثَلَ ـِـ أُثُولاً و أَثُلَ ـُـ أَثَالَةً: زمین میں جڑ پکڑنا۔
أَثَّلَ تَأْثِيلاً: بچت کرنا، مال حاصل کرنا، مال کو بارآور بنانا، کاروبار کے ذریعہ روپے میں اضافہ کرنا۔
أَثِمَ ـَـ أَثْماً و إِثْماً و إِثَاماً و مَأْثَماً: گناہ کرنا، جرم کرنا۔
أَثِيمٌ: مجرم، گنہگار، فسادی (۲) مجرمانہ۔
إِثْمٌ: گناہ، جرم، فساد، شر: ج: آثَام۔
مَأْثَمَةٌ: بمعنی إِثْمٌ ج: مَآثِمُ
إِثْمِدٌ: سرمہ

ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ج

أَجَّ ـُـ أَجّاً و أَجِيجاً، و أَجَّةً: آگ بھڑکنا، دہکنا، آگ کا شعلہ دینا۔
أَجَّ الْمَاءُ ـُـ أُجُوجاً: پانی کا تلخ ہونا۔
أَجَّجَ النَّارَ تَأْجِيجاً: آگ بھڑکانا، دہکانا، آگ پر تیل چھڑکنا۔
أَجَّجَ على الْعَدُوِّ: حملہ کرنا۔
أُجَاجٌ: کھارا، تلخ، کڑوا زہر، تیز۔
مَاءٌ أُجَاجٌ: کھاراپانی، کڑواپانی۔
أَجَّاجٌ و مُتَأَجِّجٌ: دہکتا ہوا، بھڑکتا ہوا۔
أَجِيجُ النَّارِ: آگ کی لپٹ۔
أَجَرَ ـِـ ـُـ أَجْراً و أُجُوراً و آجَرَ إِيْجَاراً: کرایہ پر دینا۔
قِيمَةُ الإِيْجَار: کرایہ
عَامِلٌ بالأَجْرِ: تنخواہ پر کام کرنے والا۔

أَجَّرَهُ تَأْجِيراً: (۱) کرایہ پر لینا، مکان یا زمین کرایہ پر لینا (۲) کرایہ دینا۔
الْمُؤَجَّرُ لَهُ: کرایہ پر جس کو دیا جائے۔
تَأْجِيرُ الخَزَائِنِ: الماریوں کو کرایہ پر دینا۔
إِيْجَارٌ: کرایہ پر دینا۔
إِيْجَارٌ مَدْفُوعٌ مُقَدَّماً: پیشگی ادا کیا ہوا کرایہ۔
إِسْتِئْجَارٌ: کرایہ پر لینا۔
مُؤَاجَرَةٌ: مزدور بنانا، کرایہ پر لینا، کرایہ داری کا معاملہ کرنا۔
أَجْرٌ: (۱) ثواب، بدلہ (۲) کرایہ، تنخواہ مشاہرہ، روزینہ، مزدوری ج: أُجُورٌ و آجَارٌ
الأَجْرُ الأَسَاسِيّ: بنیادی تنخواہ
أَجْرٌ إِضَافِيّ: اضافی اجرت، زائد اجرت۔
الأَجْرُ بالقِطْعَة: بالقطع تنخواہ۔
أُجْرَة: کرایہ، مزدوری، حق محنت، ج: أُجَرٌ
الأُجْرَةُ الكَامِلَة: پوری قیمت، فل ریٹ
أُجْرَةُ البَرِيد: پوسٹیج
__ التَّعْلِيم: ٹیوشن فیس، تعلیمی فیس۔
__ الطَّبِيب: ڈاکٹر کی فیس
__ المُحَامِي: وکیل کی فیس اور وکیل کا محنتانہ
أُجْرَةُ المَدْرَسَة: اسکول فیس۔
__ السَّفَر: کرایہ
__ النَّقْلِ: فصول ٹرانسپورٹ۔
أَجِيرٌ: مزدور، نوکر، ملازم ج: أُجَرَاءُ
مَأْجُورٌ مُسْتَأْجَرٌ: کرایہ کا، وہ شخص جس سے کچھ مال کے بدلہ اپنی حسب منشا کام لیا جائے یا سیاسی اغراض کے لئے اسے

حسب منشا استعمال کیا جائے۔
مُؤَجِر: کرایہ پر دینے والا۔
مُؤَجَّرٌ لَهُ مُسْتَأجِرٌ مُوَاجِرٌ: کرایہ دار، کرایہ پر لینے والا۔
آجُرٌ: پختہ اینٹ، ٹائل و: آجُرَّةٌ.
آجِرٌ: ملازم، نوکر۔
إِجْرَاءٌ: (دیکھئے جری)
إِجَّاصٌ: آلو بخارا (PLUM)
و: إِجَّاصَةٌ
أَجِلَ ـَ أَجَلاً: ملتوی ہونا، مؤخر ہونا، ٹل جانا
تَأجِيلٌ: موخر کرنا، ملتوی کرنا، دوسرے وقت پر ٹلانا، التواء۔
تَأجِيلٌ إِلَى أَجَلٍ غَيْرِ مُسَمّىً: مدتِ غیر معینہ کے لئے ملتوی کرنا۔
تَأجِيلُ إِجْتِمَاعٍ: میٹنگ ملتوی کرنا۔
مُؤَجَّل: میعادی، ملتوی شدہ۔
أَجَلٌ: وقت مقرر، مدت، عرصہ، ٹرم (۲) موت کا وقت، موت ج: آجَالٌ
لِأَجَلٍ: کچھ عرصہ کے لئے، عارضی۔
قَصِيرُ الأَجَلِ: مختصر المیعاد۔
مَدُّ أَجَلِ شَيْءٍ: مدت میں توسیع کرنا۔
لِأَجَلٍ غَيْرِ مُسَمًّى: نامعلوم عرصہ کے لئے۔
لِأَجَلٍ غَيْرِ مَعْلُوم: نامعلوم عرصہ کے لئے۔
بَالأَجَلِ: علی الحساب
آجِلٌ: آخرت، موخر
آجِلاً أَمْ عَاجِلاً: جلد یا بدیر، نقد یا ادھار۔
أَجْلٌ: سبب (فَعَلْتُ ذٰلِكَ لِأَجْلِ فُلَانٍ)

أَجَمَةٌ: جھاڑی، گھنا درخت، ج: أَجَمَاتٌ وأَجَمٌ، وأُجُمٌ، وإِجَامٌ وآجَامٌ
أَجْنَبِيٌّ: غیر، غیر ملکی، پردیسی، پرایا، اوپرا، ج: أَجَانِبُ.

ا.........ح

أَحَدٌ ج: آحَادٌ: ایک، اکائی، اکیلا، یکتا، پہلا، کوئی۔
أَحَدِيَّةٌ: اکائی سے متعلق۔
أَحَدُمَا: کوئی بھی، کسے باشد۔
يَوْمُ الأَحَدِ: سنیچر، ہفتہ کا دن۔

ا.........خ

أَخَذَ ـُ أَخْذاً و تَأخَاذاً و مَأخَذاً: لینا، پانا، حاصل کرنا۔
أَخَذَ فِي ـُ أَخْذاً: شروع کرنا۔
__ بِهِ: پکڑنا، تھامنا، گرفت میں لینا۔
__ عَلَى نَفْسِهِ: ذمہ داری لینا
__ نَفَسَهُ: سانس لینا۔
__ عَلَى غِرَّةٍ: دھوکہ سے پکڑنا، غفلت میں پکڑنا۔
__ عَلَى عَادَةٍ: عادی بن جانا۔
__ عَلَيْهِ: عادی ہوجانا
__ إِسْماً: شہرت پانا، نام پانا۔
__ بِالتَّلابِيبِ: گریبان پکڑنا۔
__ حِذْرَهُ: چوکنا ہونا، محتاط ہوجانا۔
__ بِالخَاطِرِ: تسلی دینا، دل جمعی کرنا۔
__ الشَّيْئَ مَأخَذَ الجِدِّ: واقعیت پر محمول کرنا، سنجیدگی پر محمول کرنا، اہمیت دینا، حقیقت پر محمول کرنا۔
أَخَذَ الشَّيْءَ عَلَى العَاتِقِ: ذمہ داری لینا، ذمہ

لینا۔
__ الشئُ بعَینِ الإعْتبار: اہمیت دینا۔
__ بالطَّرِیْقَة: راستہ اختیار کرنا، طریقہ اپنانا۔
__ القَرار: تجویز پاس کرنا۔
__ الأقوَال: بیانات لینا۔
__ مَسَارَہ: اپنا راستہ لینا۔
__ مَکَانَ الصَدَارَة: مرکزی حیثیت اختیار کرنا۔
__ بالوَصِیَّة: مشورہ ماننا۔
اِتِخَاذُ الإجْرَاءِ: کارروائی کرنا۔
اِتِخَاذُ التَرْتِیبَات: تیاریاں کرنا۔
اِتِخَاذُ تَوْصِیات: سفارشات کرنا۔
اِتِخَاذُ قَرَار: فیصلہ کرنا، تجویز پاس کرنا، قرارداد پاس کرنا۔
اِتِخَاذُ مُبادَرَة: اقدام کرنا، پہل کرنا۔
اِتِخَاذُ مَوْقِف: اقدام کرنا، روش اختیار کرنا۔
أخْذٌ و عَطَاءٌ: لین دین۔
أخَّاذٌ: مسحور کن، دل گیر، جاذبِ نظر، دل کش
أخذَہُ العُجبُ: شیخی آ جانا، تکبر ہو جانا،
أخَذَہُ، و اٰخَذَہُ بِذَنْبِہ مُؤَاخَذَةً: گرفت کرنا، سزا دینا۔
لَاتُؤَاخِذْنِیْ: معاف کیجئے۔
اِتِّخَاذٌ: اختیار کرنا، ایک چیز کی صفت دوسری کے لئے ثابت کرنا۔
مَأخَذٌ: اصل، طریقہ، معنی ج: مَآخِذُ
المَأخَذُ: (أدَاةٌ للتَوْصِیل الکَهْرَبَائیّ): پلگ
مَأخُوذٌ: حاصل شدہ، گرفتار۔
مَأخُوذٌ بِه: معمول بہ

أخَّرَہُ تَأخِیراً: پیچھے کرنا، روکنا، رکاوٹ ڈالنا، ملتوی کرنا، موخر کرنا، گھڑی کو پیچھے کرنا، لیٹ کر دینا۔
تَأخِیرٌ: التواء، دیر
تَأخِیرُ الوَقْت سَاعَةً: وقت کو ایک گھنٹہ موخر کرنا۔
مُؤخَّرٌ: پیچھے، سست، پچھلا حصہ۔
مُؤخَّراً: کچھ عرصہ پہلے، ابھی کچھ روز ہوئے، گذشتہ دنوں۔
مُؤخَّرَةُ الجَیْشِ: فوج کا پچھلا دستہ
تَأخَّرَ: لیٹ ہو جانا، پیچھے ہو جانا، پیچھے رہ جانا، سست ہونا، پس ماندگی۔
التَأخُّرُ عن التَسْلِیم: حوالگی سے گریز۔
مُؤخِرُ العَیْن: گوشۂ چشم۔
مُتَأخِّرٌ: لیٹ، پیچھے، سست، پس ماندہ
مُتَأخِّر فی الآراءِ: قدیم طرز فکر کا، قدامت پسند، پرانے خیال کا۔
مُتَأخِّر فی المَجِیْ: لیٹ، دیر سے آنے والا۔
مُتَأخِّرَاتٌ: بقایا جات حساب۔
آخِر: آخری، آخری حصہ، آخر، انتہاء، اخیر، پچھلا حصہ، لاسٹ، انتہائی۔
بَلاغ أخِیر: الٹی میٹم
إلیٰ آخِرِ الشَئ: تا انتہا۔
آخِرُ الأنْبَاءِ: چھپتے چھپتے، اسٹاپ پریس
آخِرُ خَبَرٍ: چھپتے چھپتے۔
آخِرُ الطَّرِیْقِ: راستہ کا آخری حصہ۔
آخَرُ: دوسرا، غیر، اور کوئی۔

الآخَرُ ،هُوَ الآخَرُ: اس نے بھی، وہ بھی۔
أخِیر: لاسٹ، آخری
اَخِیراً: (۱) اخیر میں، سب کے بعد (۲) کچھ عرصہ پہلے، کچھ روز ہوئے، پچھلے دنوں، حال ہی میں۔
المَثوىٰ الأخِیرُ: قبر۔
أخٌ: بھائی ج: إخوَةٌ، إخوَانٌ.
__ شَقِیقٌ: سگا بھائی، ایک ماں باپ سے۔
__ مِن اَحَدِ الوَالِدَیْنِ: سوتیلا بھائی۔
__ مِنَ الأمّ: ماں شریک بھائی۔
__ مِنَ الأَب: باپ شریک بھائی۔
__ فِی الرَّضَاعَةِ: دودھ شریک بھائی۔
إخوَةٌ لعلّات: علاتی بھائی (باپ ایک مائیں مختلف)
أختٌ: بہن ج: أخوَات.
أُخُوَّةٌ إخَاءٌ و مُؤَاخَاةٌ: بھائی چارہ، رشتہ اخوت، برادرانہ تعلق، دوستی۔
الإخاءُ المُتبَادِلُ: باہمی دوستی
أخَوِیٌّ وَأخِیٌّ: برادرانہ، دوستانہ۔
تَوَخّیٰ وَتَاَخّیٰ: ارادہ کرنا، چاہنا۔
آخَاہ مُؤَاخَاۃً: دوستی کرنا، بھائی چارہ قائم کرنا۔
أخوَرٌ: اصطبل
أخِیَّةٌ: چھلے دار کیل، رنگ بولٹ۔

ا.........د

أدَبٌ: ج: آدَاب: تمیز، تہذیب، سلیقہ، طریقہ، شائستگی، قاعدہ، حسنِ عمل، اخلاق (۲) لٹریچر۔
الآدَابُ: لٹریچر۔
قلیل الأدَب: بے ادب، ناشائستہ۔
أدَبِیٌّ: لٹریری، اخلاقی، اصلاحی۔
أدَبِیّاً: اخلاقی طور پر۔
أدَبَ ـِ أدْباً: دعوت کرنا، طعام ضیافت تیار کرنا، کھانے پر مدعو کرنا۔
آدِبٌ: میزبان، ضیافت کرنے والا۔
أدِیبٌ: انشاء پرداز، ماہر زبان، ذی علم، قادر الکلام ج: أدَبَاءُ
أدَّبَهُ تَأدِیباً: اصلاح کرنا، مہذب بنانا، شائستہ بنانا، سزا دینا۔
تَأدِیب: آدمی بنانا، فہمائش، اصلاح، ادب سکھانا، سزا۔
تَأدِیبِیّ: تادیبی۔
مُتَأدِّباً و عن طَرِیقِ الأدَب: ادب سے۔
مَأدُبَةٌ: ضیافت، دعوت، طعامِ ضیافت ج: مَآدِبُ۔
مأدُبَةُ إفْطَار: دعوت افطار۔
مأدُبَةُ تَکْرِیمٍ للوَفْد: وفد کے اعزاز میں دعوت۔
مَأدُبَةٌ رَسمِیَّةٌ: سرکاری دعوت۔
مَأدُبَةُ عَشَا: ڈنر، عشائیہ۔
مَأدُبَةٌ فَاخِرَةٌ: شاندار دعوت۔
إدَامٌ: سالن، ہر وہ چیز جس کے ساتھ روٹی کھائی جائے۔ ج: أُدُمٌ، آدَامٌ
أدَمَ الخُبزَ ـِ أدماً: روٹی کو سالن میں ملانا۔
أدَاۃٌ: آلہ، حرف
أدَوَات: میٹریل، سامان، مواد، اجزائے ترکیبیہ، متعلقہ سامان، لوازم۔
أدَوَاتُ البِنَاء: سامانِ تعمیر، تعمیری میٹریل۔
أدَوَاتُ التَّرَف: زیب و زینت کا سامان۔

أدَوَاتٌ كِتَابِيَّةٌ: اسٹیشنری۔
أدَوَاتٌ كَهْرَبَائِيَّةٌ: بجلی کا سامان۔
أدَوَاتُ المَكْتَب: دفتری سامان۔
أدَوَاتٌ مَنْزِلِيَّةٌ: گھریلو ضروریات، سامانِ خانہ داری، متعلقاتِ خانہ۔
أدَوَاتٌ مَطْبَخِيَّةٌ: لوازم باورچی خانہ۔
أدَوَاتٌ مَكْتَبِيَّةٌ: اسٹیشنری، لکھنے اور پڑھنے کا سامان۔
أدَّى تَأدِيَةً: پورا کرنا، ادا کرنا، انجام دینا۔
__ إلىٰ: پہنچانا، کسی نتیجہ پر پہنچانا۔
__ الوَاجِبَ: فرض ادا کرنا۔
أدَّى الْوَظِيفَةَ: ڈیوٹی انجام دینا۔
__ الشَّهَادَةَ: گواہی دینا۔
__ التَّحِيَّةَ وَالسَّلاَمَ: سلامی دینا۔
__ اليَمِينَ: حلف اٹھانا۔
مِمَّا أدَّى الى: جس کا نتیجہ یہ ہوا۔
مُؤدَّى الشَّي: ماحصل
مُؤدَّى الكَلاَمِ: حاصل کلام، خلاصہ کلام
أدَاء: ادائیگی، کارکردگی۔
أدَاءُ الإِخْتِبَارِ: امتحان دینا۔
أدَاءٌ رَائِعٌ: شاندار کارکردگی۔
أدَاءُ رِسَالَةٍ: مشن پورا کرنا۔
أدَاءُ الشَّهَادَةِ: گواہی دینا۔
أدَاءُ مُهِمَّةٍ: مشن پر کام کرنا، ڈیوٹی انجام دینا۔
أدَاءُ الوَاجِبِ: فرض ادا کرنا۔
أدَاءُ اليَمِينِ: حلف اٹھانا۔
تَأدِيَةٌ: ادائیگی، انجام دہی۔
تَأدِيَةُ رَقْصَةٍ: ڈانس کرنا۔
ا........ذ

إذْ: (۱) جب، برائے زمانہ ماضی، اس کے بعد ہمیشہ جملہ ہوتا ہے (جب کہ جس وقت کہ) (۲) کیونکہ (ضَرَبْتُهُ إذْ أسَاءَ إليَّ) (۳) اچانک (كُنْتُ جَالِساً إذْ جَاءَ فُلاَنٌ.)
إذْ ذَاكَ: اس وقت۔
إذْمَا: اگر بمعنی إنْ و لَوْ (دو فعلوں کو جزم دیتا ہے۔
إذَا: (۱) اگر، جب، ظرف، برائے زمانہ مستقبل متضمن معنی شرط، فعل ماضی پر داخل ہو کر مستقبل کے معنی دیتا ہے۔ جیسے إذَا اجْتَهَدْتَ نَجَحْتَ
(۲) برائے مفاجت (خَرَجْتُ فَإذَا زَيْدٌ بِالْبَابِ)
إذَا مَا: جس وقت
إلَّا إذَا: جب تک کہ، مگر جب کہ
عَمَّا إذَا: اس صورت میں جبکہ
إذَنْ، إذاً: تب، اگر ایسا ہے تو، حرفِ جواب یا حرفِ جزاء (مثلاً کوئی شخص کہے) أنَا أجْتَهِدُ في عَمَلِيْ) جواب میں کہا جائے "إذَنْ تَنْجَح" تب تم کامیاب ہو گے۔
آذار: ماہ مارچ۔
أذِنَ لَهُ بكذا۔ إذْناً و أذِيناً: اجازت دینا، پرمٹ دینا، لائسنس دینا۔
إسْتَأذَنَهُ فِي الشَّيءِ: اجازت چاہنا۔
آذَنَ إيذَاناً: اعلان کرنا، باخبر کرنا۔
إذْنٌ: اجازت، لائسنس، پرمٹ، اجازت نامہ، پاس، پرمیشن
إذْنُ اسْتِيرَاد: امپورٹ لائسنس۔

إِذْنُ بَرِيْد: پوسٹل آرڈر۔
إِذْنُ تَسْلِيْم: ڈلیوری آرڈر D.O
إِذْنُ تَصْدِيْر: ایکسپورٹ لائسنس۔
عَنْ إِذْنٍ: اجازت سے۔
أُذُنٌ ج: آذَان: (۱) کان۔ (۲) ہینڈل، وہ حلقہ جس سے برتن وغیرہ کو اٹھایا جائے۔
آذِنٌ: سگنل، ریلوے سگنل (۲) دربان (۳) بڑے کانوں والا۔
مِيْذَنَة، مِئْذَنَة: مینار ج: مَآذِنُ
أَذِيَ ۔ أَذًى و تَأَذَّى بِالشَّيْءِ: تکلیف اٹھانا، زحمت اٹھانا۔
آذَاه إِيْذَاءً: تکلیف دینا، زحمت دینا۔
لَا يُؤْذِيْ: بے ضرر۔
أَذًى وَ أَذِيَّة: تکلیف، نقصان، کوفت۔
مُؤْذٍ: ضرر رساں، تکلیف دہ، باعثِ کوفت، خلافِ مصلحت۔
ا............ر
أَرَارُوْط: اراروٹ
أَرَبٌ: مقصد، ضرورت، مہارت۔
مَأْرَب (أَرَبٌ ج مَآرِبُ:
إِرْبًا إِرْبًا: علیحدہ علیحدہ، ٹکڑے ٹکڑے
أُرْبَةٌ: گرہ ج: أُرَبٌ
أَرِبَ فِي شَيْءٍ و بِه ۔ أَرَبًا: ماہر ہونا۔
أَرِبَ إِلَيْهِ: محتاج ہونا۔
أَرْبِعَاء، يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ: چہار شنبہ، بدھ
أَرِجَ ۔ أَرَجًا و أَرِيْجًا: خوشبو پھیلنا، مہکنا۔
أَرِيْجٌ: خوشبو
أُرْجُوَانٌ: گہرا لال رنگ۔
أُرْجُوَانِيٌّ: لال رنگ کا

أَرَّخَ تَأْرِيْخًا: تاریخ ڈالنا۔
أَرَّخَ بِتَارِيْخٍ مُتَقَدِّمٍ: واقعہ سے پہلے کی تاریخ ڈالنا۔
أَرَّخَ بِتَارِيْخٍ مُتَأَخِّرٍ: واقعہ سے بعد کی تاریخ ڈالنا۔
مُؤَرَّخٌ ب: ڈیٹیڈ، مورخہ۔
مُؤَرَّخٌ بِتَارِيْخٍ لَاحِقٍ: جس پر اگلی تاریخ پڑی ہوئی ہو۔
مُؤَرَّخٌ فِي: بتاریخ......، مورخہ......
تَارِيْخ: بیانِ واقعات، زمانہ اور وقت، تاریخ، ڈیٹ ج: تَوَارِيْخُ۔
تَارِيْخُ الْإِنْتِهَاءِ: مدت گذرنے کی تاریخ۔
تَارِيْخُ قَفْلِ الْحِسَاب: حساب بند کرنے کی تاریخ۔
خَتْمُ التَّارِيْخِ: ڈیٹر، تاریخ کی مہر۔
أَرْدُوَاز: سلیٹ
لَوْحُ أَرْدُوَازٍ: رائٹنگ سلیٹ
قَلَمُ أَرْدُوَازٍ: سلیٹ کا قلم
أُرْزٌ، رُزٌّ: چاول و: رُزَّة
أَرِسْطُقْرَاطِيّ: شاندار، طمطراق کا، شاہانہ۔
أَرِسْطُو، أَرِسْطُوطَالِس: ارسطو۔
أَرَّشَ بَيْنَهُمْ تَأْرِيْشًا: ایک کو دوسرے کے خلاف اکسانا، لڑائی کرانا۔
أَرَشَهُ ۔ أَرْشًا: بھڑکانا، دیت دینا۔
أَرْضٌ: ضد: بَحْر، خشکی، زمین، فرش جس پر پاؤں رکھے جاسکیں۔ ج: أَرَاضٍ.
أَرْضٌ بُوْرٌ: بنجر زمین۔
أَرْضٌ زِرَاعِيَّةٌ: زیرِ کاشت یا قابل کاشت زمین۔

أرْضٌ غَامِرَةٌ: افتادہ زمین۔
أرْضٌ فَائِضَةٌ: فالتو زمین۔
أرْضٌ قَاحِلَةٌ: اجاڑ زمین۔
أرْضٌ مَعْمُوْرَةٌ: آباد زمین۔
أرْضُ النَّعْلِ: جوتے کا تلا، نچلا حصہ۔
الأرْضُ والكُرَةُ الأرْضِيَّةُ: دنیا۔
تَحْتَ الأرْضِ: زیرزمین، زمین دوز۔
تَحْرِيْرُ الأرْض: سرزمین آزاد کرانا۔
قِطْعَةُ أرْض: پلاٹ
مَسَّاحُ الأرَاضِي: زمین کا سروے، سروے کرنے والا۔
مِسَاحَةُ الأرَاضِي: زمین کا سروے، پیمائش رقبہ(٢) رقبہ۔
أرْضِيٌّ: زمینی، کرۂ زمین سے متعلق، جائداد سے متعلق، دنیوی، زمین دوز۔
طَابِقٌ أرْضِيٌّ: زمین دوز منزل، نچلا حصہ۔
أرْضِيَّةٌ: فرش، زمین، ہر وہ جگہ جہاں پاؤں رکھے جائیں خواہ وہ حقیقی زمین ہو یا ریل جہاز وغیرہ کا فرش (أرْضِيَّةُ السَّفِيْنَةِ)
أرْضِيَّةُ (الصُّوْرَةِ): بیک گراونڈ، پس منظر۔
أرَضَةٌ: دیمک۔
أرِضَ الخَشَبُ ـَ أرْضاً وأُرِضَ: دیمک لگنا۔
أرْغُن: ارگن باجا۔
أرْغُوْن: ارگون (ایک گیس جو ہوا کی ترکیب میں داخل ہے)
أرِقَ ـَ أرَقاً: نیند نہ آنا، بے خوابی طاری ہونا۔
أرَقٌ: بے خوابی۔
أرِيْكَةٌ: صوفہ، آرام کرسی، کاؤچ، تکیہ دار چوکی یا تخت ج: أرَائِكُ و أرِيْكٌ
أرْمَةٌ: سائن بورڈ، سرکاری نشان
أرُوْ بَلاَن: ایروپلین (مع)
أرُوْبَا: یورپ (یورپ کا معرب)
أرُوْبِيٌّ: یورپین، یورپ کا رہنے والا۔
آرِيٌّ ج آرِيُّوْن: آریہ۔

ا............ز

أزَبَ المَاءُ ـُ أزْباً: پانی بہنا، جاری ہونا۔
مِيْزَابٌ وَمِئْزَابٌ: پرنالہ، پانی بہنے کا راستہ ج: مَآزِيْبُ
إزْبرتو: اسپرٹ۔
أزَّرَ تأزِيْراً: ڈھانپنا۔
آزَرَ مُؤَازَرَةً: مدد دینا، تقویت پہنچانا۔
إئْتِزَارٌ وَ تأزُّرٌ: قوت یا مدد حاصل کرنا۔
أزْرٌ: طاقت، پیٹھ۔
شَدَّ أزْرَهُ: مدد کی، پشت پناہی کی، پیٹھ ٹھونکی، ہمت دلائی۔
إزْرٌ وَ إزَارٌ: تن پوش، لبادہ ج: أُزُرٌ و آزِرَةٌ.
مِئْزَرٌ: تہبند، ج: مَآزِرُ
أزَّ ـِ أزًّا و أزِيْزاً، و أزَازاً: گونجدار آواز ہونا، سانس بولنا، آگ پر پکنے کی آواز ہونا، ہوا چلنے کی آواز ہونا۔
أزِيْزٌ: گونج، ہر قسم کی گونجدار آواز، زائیں زائیں، گھوں گھوں، بم کی آواز، ہوائی جہاز کی آواز، مشین کی آواز۔
أزِفَ ـَ أزُوْفاً: قریب ہونا، نزدیک ہونا۔
آزِفَةٌ: قیامت۔
أزِقَ المَكَانُ ـَ أزَقاً: جگہ تنگ ہونا۔
مَأزِقٌ: تنگ نائے، تنگ جگہ۔

مأزِق : دشواریاں و : مأزِق
أزَل : دوام، ہمیشگی
مِنَ الأَزَل : ازلی، ہمیشہ سے۔
أَزَمَ الأُمُورَ تَأزِيماً : پیچیدہ بنانا، مشکلات پیدا کرنا، بحران پیدا کرنا۔
التَأَزُّم : صورتِ حال بگڑنا، پوزیشن خراب ہونا۔
تَأَزُّمُ العَلاقَات : تعلقات بگڑنا۔
تَأَزُّمُ المَوقِف : صورتِ حال پیچیدہ ہونا۔
تَأزِيم : پیچیدہ بنانا، مصیبت بڑھانا۔
تَأزِيمُ الوَضع : صورت حال کو بگاڑنا، پیچیدہ بنانا۔
أَزمَةٌ : کرائسس، بحران، مصیبت، سختی، مسئلہ، پریشانی، تکلیف ج: أَزمَات.
تَسوِيَةُ الأَزمَة : بحران کا خاتمہ
أَزمَةٌ اِقتِصَادِيَّة : مالی پریشانی، اقتصادی بحران۔
أَزمَةٌ أُم : بنیادی مسئلہ
أَزمَةُ السَّكَن : آبادی کا مسئلہ، رہائش کی پریشانی۔
أَزمَةٌ مَالِيَة : مالی بحران، مالی پریشانی
إِزمِيلٌ : رانپی، موچی کا ایک اوزار
إِزَاء : مقابلہ، بدلہ۔
إِزَاءَ كَذَا : فلاں چیز کے مقابلہ میں، بدلہ میں بعوض۔
إِزُوت : نائٹروجن۔
أزَتَات : نائٹریٹ (ایسڈ)
أَزُوتِيك : نائٹروجنی، نائٹرک۔

ا.........س

أَسبَان : اسپانوی (اسپینی) لوگ، و: إِسبَانَوِيّ
إِسبَانِيَا : اسپین۔
أُستَاذ : لیکچرر (۲) مدرس، استاذ، ماسٹر، (۳) پروفیسر، فن کا ماہر ج: أَسَاتِذَة.
دَفتَرُ أُستَاذ : لیجر، کھاتہ نام دار۔
إِسبِتَالِيَة : ہاسپٹل، ہسپتال۔
الإِستَنسِل : اسٹینسل
وَرَقُ الإِستَنسِل : اسٹینسل پیپر۔
إِستِرَاتِيجِيَة : حکمت عملی، تدبیر، ترکیب، حال، حیلہ گری، انداز فکر، نقطۂ نظر۔
أَسَرَ ــ أَسراً و إِسَاراً : قید کرنا، غلام بنانا۔
أَسر : غلامی
أُسرَة : خاندان، فیملی ج: أُسَر
أُسرَةُ التَّحرِير : ادارۂ تحریر۔
الأُسرَةُ المَالِكَة : شاہی خاندان۔
أَسَّسَ تَأسِيساً : بنیاد رکھنا، قائم کرنا، ادارہ یا کمپنی وغیرہ قائم کرنا، سنگِ بنیاد رکھنا۔
أَسَاسٌ : بنیاد، عمارت کی نیو، فاؤنڈیشن، ہر چیز کی اصل، بیس، مبنیٰ، علت ج: أَسَاسَاتٌ.
أَسَاسٌ شَرعِيّ : قانونی بنیاد۔
أَسَاسٌ مَنطِقِيّ : عقلی بنیاد۔
أَسَاسِيٌّ : بنیادی، مین، اصولی، حقیقی، اصلی۔
حَجَرٌ أَسَاسِيٌّ : سنگِ بنیاد، بنیادی پتھر۔
دُستُورٌ أَسَاسِيٌّ : دستورِ اساسی، بنیادی ضابطہ۔
عَامِلٌ أَسَاسِيّ : بنیادی سبب، ج: عَوَامِلُ أَسَاسِيَّة.
قَانُونٌ أَسَاسِيّ : کانسٹی ٹیوشن، دستورِ اساسی۔
أَسَاسِيَات : ضروری چیزیں۔
تَأسِيسِيّ : بنیادی۔
مُؤَسِّس : بانی، قائم کنندہ۔
مُؤَسِّسُ المَشرُوع : کسی اسکیم یا

منصوبہ کا بانی۔
مُؤَسَّسَة: کارپوریشن، ادارہ، کارخانہ، ایجنسی، انسٹی ٹیوشن، فرم۔
اَلْمُؤَسَّسَةُ الاجْتِمَاعِيَّة: انسٹی ٹیوشن۔
مُؤَسَّسَةٌ تِجَارِيَّة: تجارتی فرم، تجارتی ادارہ۔
مُؤَسَّسَةٌ صُحُفِيَّةٌ: صحافتی ادارہ۔
مُؤَسَّسَة عَامَّة: پبلک ادارہ۔
المُؤَسَّسَةُ العَسْكَرِيَّة: فوجی ادارہ، فوجی محکمہ۔
إِسْطَبْل: اصطبل، اسطبل۔
أَسْطُرْلَاب: اسطرلاب۔
أَسْطُوَانَة: (گراموفون کا) ریکارڈ، اخبار کا کالم ج: أَسْطُوَانَاتٌ، سلنڈر، رولر۔
أُسْطُوَانَةُ الغَاز: گیس سلنڈر، گیس کی ٹنکی۔
أُسْطُوَانِيّ: خرطومی شکل کا، لمبوتری شکل کا۔
أُسْطُول: جہازوں کا بیڑہ (بحری وفضائی) ج: أَسَاطِيل۔
أَسِفَ ـــَ أَسَفاً و تَأَسَّفَ: افسوس کرنا، رنج کرنا، اظہارِ ندامت کرنا۔
آسِفٌ: رنجیدہ، غمگین، پشیمان، سوری۔
أَنَا آسِفٌ: مجھے افسوس ہے، ندامت۔
مُؤْسِف: افسوس ناک۔
يُؤْسَفُ لَه: قابلِ افسوس
وَا أَسَفَاه: آہ، ہائے افسوس۔
لِلأَسَفِ: افسوس۔
(أَمْرٌ) يُؤْسَفُ لَهُ: قابلِ افسوس۔
(۰) غَيْرُ مَأْسُوفٍ عَلَيْهِ: نا قابلِ افسوس۔

أَسْفَلْتٌ: ڈامر۔
إِسْفَنْج: اسپنج۔
إِسْفِيدَاج: سفید سیسہ
إِسْكَاف: موچی، جفت ساز، جوتہ بنانے والا۔
إِسْكُتْلَانْدَا: (معرب) إِسْكُتْلَنْدَة۔ اسکاٹ لینڈ، اسکاچستان۔
إِسْكُمْلَة: اِسٹول۔
إِسْكَنْدَرِيَّة: مصر کی ایک مشہور بندرگاہ۔
إِسْكَنْدَرُوْنَة الأَكْبَرُ: سکندرِ اعظم۔
إِسْكَنْدَرُوْنَة: شام کی ایک مشہور بندرگاہ۔
أَسَلَ تَأْسِيلاً: دھار رکھنا، تیز کرنا۔
مُؤَسَّلٌ: دھاردار۔
إِسْمَنْت و سِمِنْتُو: سمنٹ (معرب)
أُسْوَة: نمونہ ج: أُسىً و إِسىً
أُسْوَةً بِكَذَا: اس کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے۔
أَسِيَ عليه وله ـَــ أَسًا و أَسىً: رنجیدہ ہونا، رنج کرنا، غم کرنا۔
مَأْسَاة: ٹریجڈی، المناک حادثہ، دردناک داستان، المیہ ج: مَآسٍ
مَآسٍ: اندوہناک واقعات، داستان ہائے غم۔
آسٍ: طبیب، ڈاکٹر، معالج ج: أُسَاةٌ
المُؤَاسَاةُ: اظہارِ ہمدردی کرنا، تسلی دینا۔
مُؤَاسَاةٌ مُزَيَّفَة: جھوٹی تسلی۔
آسِيَة: براعظم ایشیا۔
آسِيَا الصُّغْرىٰ: ایشیائے کوچک۔
آسِيَة: ستون، مضبوط عمارت (فرعون کی بیوی کا نام۔ ج: أَوَاسٍ۔
آسِيَوِيّ: ایشیائی۔
المُؤَشِّر: ٹائپ رائٹر کا ڈائل۔

مُؤشِر: فہرست، انڈکس، علامت، دلیل نشان، آثار، ثبوت ج: مُؤشِرَات۔
مُؤشِرُ العَدَّاد: میٹر کی سوئی۔
مُؤشَّرٌ علیه بالأداء: ادائیگی کا نشان لگا ہوا۔
المُؤشِرُ فی الآلَة الكاتِبَة: پائنٹر۔

ا............ص

آصِرَةٌ ج: أوَاصِرُ: تعلق، رشتہ
أوَاصِرُ الصَّداقَةِ: دوستی کے رشتے۔
أوَاصِرُ مُشتَرَكَة: باہمی رشتے
مَأصِرٌ ج: مَآصِرُ: (ٹول گیٹ) چنگی، پھاٹک، چنگی خانہ۔
أصِيصٌ: گملا ج: أصُصٌ
أصُلَ ـُ أصَالَةً: خالص ہونا، عمدہ ہونا۔
بالأصَالَة عن نَفس: ......خود، اپنے آپ
الخَيلُ الأصَائِلِ: اصیل گھوڑے۔
اِستِئصَال: بیخ کنی۔
أصل: سرچشمہ، اصل کاپی۔
أصلِيّ: اوریجنل، اصلی۔
أصُوْل: اوریجنل، اصلی۔
أصُوْل: سرمایہ، اصول، قواعد۔
أصُوْلٌ حَاضِرَةٌ: موجودہ سرمایہ۔
أصُوْلٌ مَادِيَةٌ: ظاہری یا مادی سرمایہ۔
أصُوْلٌ مَوْقُوفَة: منجمد سرمایہ۔

ا............ط

إطَارٌ: فریم، چوکھٹا ج: أطُرٌ
إطَارُ النَّظَّارَةِ: چشمہ کا فریم۔
إطَارُ العَجَلَةِ: پہیہ کا فریم، گھیرا۔
إطَارُ العَجَلَة الخارِجِيُّ: ٹائر۔

فی هَذَا الإطَار: اس ذیل میں، اس دائرہ میں۔
فی إطَارِ كذا: ذیل میں، کسی چیز دائرے میں یا سلسلہ میں۔
التَّأطِيرُ: فریم لگانا، دائرہ میں کرنا۔

ا............غ

أغُسطُس: ماہ اگست (معرب)

ا............ف

أفرَقَة: افریقی بنا دینا۔
إفرَنج: اہل یورپ، انگریز لوگ فرنگی و: إفرَنجِيٌّ
بَلادُ الإفرَنج: یورپ
فَرنَجة: فرنگی بنانا۔
تفرَنُج: فرنگی بننا۔
خُبزٌ إفرَنجِيٌّ: ڈبل روٹی۔
أفرُوْ آسيَوِيّ: افریقی ایشیائی، افروایشین۔
إفرِيزٌ: کارنس ج: أفارِيز
أفَقَ ـِ أفقاً: گھومنا، سیاحت کرنا۔
أفرِيقيا الوُسطَى: وسطی افریقہ
أفرِيقَانِيّ: افریقن، افریقہ کا باشندہ۔
أفرِيكَانِيّ: افریقن۔
أفُقٌ ج: آفَاقٌ: کنارہ، کنارۂ آسمان، گوشہ، دائرہ، میدان، وسعت۔
أفُقِيٌّ: مُسَطّح: افقی سمت کا، چپٹا، دائرہ نما۔
أفَّاقٌ: جہاندیدہ، سیاح۔
أفَندِي: مسٹر، صاحب، جناب۔
أفيُوْن: افیم۔

ا............ق

أقحُوَان: گل بابونہ ج: أقَاحِيُّ
إقلِيم ج: أقَالِيمُ: ملک، صوبہ، ضلع، علاقہ۔

تَأَقْلُمٌ مَعَ أَحَد: کسی کے ساتھ گھل مل جانا، ہم آہنگ ہونا۔

ا.........ک

أُكْتُوبَر: اکتوبر۔

أَكَّدَ تَأْكِيداً: مضبوط بنانا، پختہ کرنا، ثابت کرنا، توثیق کرنا۔

أَكَّدَله: یقین دلانا، باور کرانا۔

تَأَكَّدَ: پختہ ہونا، یقینی ہونا، محقق ہونا، ثابت ہونا۔

تَأَكُّدُ الشُّبُهَات: شبہات صحیح ہونا۔

التَّأَكُّدُ من: تحقیق کرنا، یقین ہوجانا، مطمئن ہونا، یقین کرنا۔

تَأْكِيد: یقین دہانی، اصرار، زور (۲) تصدیق، تائید، وثوق ج: تاکیدات۔

تَأْكِيدٌ بكذا: یقین دلانا، توثیق کرنا،

تَأْكِيدُ التَّأْيِيد: حمایت کا اعادہ۔

تَأْكِيدُ الرَّفْض: مسلسل انکار۔

تَأْكِيدٌ على: زور دینا۔

تَأْكِيدٌ من كذا: اطمینان دلانا، اطمینان کرنا۔

أَكِيدٌ: پختہ، زبردست، ثابت شدہ۔

أَكَادِيمِيّ أَكَادِيمِيَّة: اکیڈمی، علمی ادارہ

الأَكْزِيمَا: اکزیما۔

إِكْسبرِسّ، إِكْسِبرِيْس: اکسپریس ٹرین۔

أُكْسِيجِيْن، مُصْدِئٌ: آکسیجن۔

أَكَلَ ـُ أَكْلاً: کھانا۔

أُكْلَة: کھانا، خوراک۔

أَكِلَة: خارش۔

أَكَلَ عليه الدَّهْرُ أَكْلاً: پرانا بنادینا۔

آكَلَ تَأْكِيلاً: کھلانا۔

تَأَكُّلٌ: زنگ لگ جانا، کیڑا لگ جانا، پرانا اور بوسیدہ ہوجانا۔

تَآكُلُ التُّرْبَة: ریہ لگنا۔

مَآكِلُ: کھانے۔

مَأْكُولٌ: کھانے کے قابل، کھانے کی چیز، کھانے کے لائق ج: مَأْكُولَات.

مَأْكُولَاتٌ مُنْعِشَة: ریفریش منٹ، فرحت بخش کھانے۔

مُؤَاكِلٌ: شریکِ دسترخوان، ہم نوالہ۔

إِكْلِينِيك: کلینک۔

أَكَمَة: ٹیلہ۔

ا.........ل

أَلاوُوظ، قَلاوُوظ: کیل، پیچ دار کیل، اسکرو (۲) اسپرنگ۔

أَلَاي: رجمنٹ، فوج کی ایک بڑی جماعت۔

أَلَبَ ـِ أَلْباً وَ تَأَلَّبَ: اکٹھا ہونا، یکجا ہونا۔

أَلْبُوم: البم، تصویروں کا مجموعہ۔

أَلُوبٌ: چست، مستعد۔

أَلِفَ الشَّيْئَ ـَ إِلْفاً و أَلْفاً، وإِلافاً: عادی ہونا، مانوس ہونا، پسند کرنا۔

تَآلَفَ: مل جل کر رہنا، باہم مانوس ہونا۔

تَأْلِيفٌ: (۱) مانوس بنانا، عادی بنانا، جانور کو سدھانا، کتاب لکھنا، (۲) تصنیف (۳) متحد بنانا، جوڑنا، یکجا کرنا۔

إِئْتِلَاف: متحد ہونا، جڑ جانا، مل جانا، عادی و مانوس ہوجانا، وفاق۔

إِئْتِلَاف حُكُومِيٌّ: سرکاری وفاق۔

وِزَارَةٌ إِئْتِلَافِيَّة: وفاقی وزارت، فیڈرل

گورنمنٹ۔
تَألَّف (مِنْ): مرکب ہونا۔
مُؤَلِّف: ایڈٹ کنندہ، اڈیٹر، مصنف۔
مُؤَلِّفُ الرِّوَايَات: ناولسٹ۔
مُؤَلِّفُ القِصَصِ الطَّوِيلَة: ناولسٹ
أَلْفٌ: ہزار۔
فِي الأَلْف: فی ہزار۔ ہر ہزار پر۔
خَطُّ المُؤَلِّف: آٹوگراف، مصنف کے دستخط۔
أُلْفَةٌ: دوستی، محبت، اتحاد۔
أَلِيفٌ: مانوس، پالتو، سدھایا ہوا، وحشی اور جنگلی کی ضد۔
مُؤَلَّفٌ: کتاب، تصنیف ج: مُؤَلَّفات۔
مَألُوف: مستعمل، رائج، جس کی عادت ہو، مروج، روزمرہ استعمال میں آنے والا
غَيرُ مَألُوف: اجنبی۔
أَلَقَ ـــ أَلْقاً وَ تَألَّقَ: چمکنا۔
مُتَألِّق: چمکدار۔
قِمَّةُ التَّألُّق: انتہائی چمک۔
إِلِكْتْرُون، كُهَيْرَب: الکٹرون۔
أَلَمٌ: درد، دکھ، تکلیف۔
أَلَمٌ مُبَرِّح: سخت درد۔
تَـألَّم: دردمند ہونا، تکلیف میں ہونا، درد یا تکلیف محسوس کرنا۔
إِيلَامٌ و تَألِيمٌ: تکلیف دینا۔
مُؤلِم: افسوسناک، تکلیف دہ۔
أَلْمَانِيَا: جرمنی، وسط یورپ کا مشہور ملک۔
أَلُوبَاثِيَا: ایلوپیتھک۔
أَلْمَاس و مَاس: ہیرا۔

أَلُومِنيُوم: ایلومینیم۔
أَلَّهَ تَألِيهاً: خدا بنانا، خدا کا درجہ دینا۔
تَألَّه: خدا بننا، خدا کا اعتقاد رکھنا۔
تَألِيه: خدا ماننا۔
إِلَى: تک، طرف، نزدیک، میں۔
الَى الآنَ: اب تک۔
إِلَى أَنْ: حتی کہ، نوبت بایں جا رسید کہ، جب تک کہ، تاوقتیکہ۔
الى دَرَجَةٍ لايُمكِنُ اِحتِمَالُهَا: ناقابل برداشت حد تک۔
إِلَى مَتىٰ: کب تک۔
إِلَيكَ: تمہارے لئے، تمہارے نام، تمہاری جانب۔
إِلَيكَ هٰذَا: یہ لو۔
إِلَيكَ عَنِّي: میرے پاس سے دور ہو، ہٹ جاؤ۔
أَلِيَّة ج: أَلَايَا: قسم۔
الأَلِّيُّ: بہت قسمیں کھانے والا۔

ا............م

إِمْبَرَاطُورٌ: امپائر، والی، شہنشاہ۔
إِمْبَرَاطُورَةٌ: ملکہ، امپائرس۔
إِمْبَرَاطُورِيَّة: شہنشاہیت
إِمْبَرَاطُورِيٌّ: شہنشاہی، امپیریل۔
الإِمْبَرَاطُورِيَّاتُ الإِستِعمَارِيَّة: سامراجی حکومتیں۔
إِمْبَرِيَالِيَّة: امپیریل ازم۔
أَمَرَهُ بِكَذا أَمْراً و آمِرَةً، وإِمَارَةً: حکم کرنا، حکم دینا۔
أَمَّرَهُ تَأمِيراً: حاکم بنانا، اختیار دینا۔
آمَرَهُ مُؤَامَرَةً: مشورہ کرنا۔

إِئْتِمَارٌ: باہم مشورہ کرنا۔
تَآمُرٌ: باہمی مشورہ، باہمی اسکیم، سازش۔
تَآمُرٌ علی: کسی کے خلاف سازش کرنا۔
تآمُرِيّ: سازش پر مبنی۔
أمْرٌ: حکم، آرڈر، وارنٹ، اتھارٹی ج: أَوَامِر.
___ : اختیار، مسئلہ، معاملہ، مسلک ج: أُمُوْر.
أمْرٌمَا: کچھ بھی، کوئی چیز بھی، کوئی معاملہ۔
الأمْرُ بشيءٍ: آرڈر دینا۔
أمْرٌ إداريٌّ: سرکاری آرڈر، انتظامی معاملہ۔
أمْرٌ بالوَقْف: اسٹے آرڈر۔
أمْرُ حَظْرٍ للتَّجَوُّل: کرفیو آرڈر۔
أمْرُ دَفْع: پیمنٹ آرڈر۔
أمْرٌ شَاذٌ: عجیب بات، غیر معمولی واقعہ۔
أمْرُ شِرَاء: خریداری آرڈر۔
أمْرٌ قَضائِيٌّ: حکم عدالت۔
أمْرٌ لا يَعْدُوْ كذا: بات اس سے زیادہ نہیں۔
أمْرٌ وَاقِعِيّ: امر واقعہ، حقیقتِ حال۔
أمْرُ تَوْقِيفِ الإجْرَاء: حکم امتناعی۔
أمْرُ هَدْم: حکم انہدام
أُمُوْرٌ تَافِهَةٌ: معمولی امور۔
الأُمُوْرُ الجَارِيَةُ: موجودہ معاملات،۔
أَوَامِرُ مُسْتَعْجَلَةٌ: ہنگامی آرڈر
إِسْتِمَارَة: فارم
مَلْءُ الإِسْتِمَارَة: فارم بھرنا۔
أمْرَكَة: امریکی بنانا۔
آمِرٌ: حکمراں، صاحبِ اختیار، کمانڈر۔
أمَّارٌ: اکسانے والا، مشتعل کرنے والا محرک
أَمَارَةٌ: علامت، نشان، راز، خفیہ بات ج: أَمَارَاتٌ.
إِمَـارَةٌ: اسٹیٹ، ریاست، حکومت، قلم رو، ج:
إمَارَات.
أمِيْرٌ: شاہزادہ، حاکم، صدر، ہیڈ، حکمراں، ج: أُمَرَاء.
أمِيْرُ الآي: کرنل، فوج کی ایک رجمنٹ کا اعلیٰ افسر، بریگیڈیر جنرل۔
أمِيْرُ البَحْرِ: افسر جہازات، افسر بحریہ، امیر البحر۔
أمِيْرَال: افسر جہازات، افسر بحریہ، امیر البحر۔
أمِيْرُ البِلَاد: سربراہِ مملکت۔
أمِيْرِكَا: امریکہ
أمِيْرِكِيّ، أمِيْرِيْكِيّ: امریکن۔
أمِيْرُ اللِّوَاء: بریگیڈیر جنرل۔
أمِيْــرِيٌّ: سرکاری حکومت کے متعلق، شاہی، ریاستی۔
أمِيْرِيَّةٌ: ریاست، حدودِ حکومت۔
أمِيْرَةٌ: شاہزادی، ج: أمِيْرَات
مِنْحَة أمِيْرِيَّة: شاہی عطیہ۔
إِسْتِمَارَةٌ: سادہ فارم، سارٹیفکٹ ج: إِسْتِمَارَات.
إِسْتِمَارَةُ الطَّلَب: آرڈر فارم۔
إِسْتِمَارَةُ القَبُوْل: داخلہ فارم۔
مُؤَامَرَة ج مُؤَامَرَات: سازش، ریشہ دوانی، پلاٹ۔
المُؤَامَرَةُ الكُبْرَى: زبردست سازش۔
المُتَآمِر: سازشی۔
مَـأمُوْر: ملازم، کسی کام کا پابند، محکوم، مکلّف، پابند، سرکاری افسر یا ملازم، نمائندہ
مَأمُوْرُ البَرِيْد: پوسٹ ماسٹر۔
مَـأمُوْرُ البُوْلِيْسِ: سپرنٹنڈنٹ پولیس، افسر پولیس۔
مَأمُوْرُ بَضَائِع: گوڈس منیجر

مَأمُورُ مَرْكَزِ البُولِيس: پولیس آفیسر
مَأمُورُ السِّجْن: افسر جیل، جیلر۔
مَأمُورُ الضَّرائب: اکسائز افسر۔
مَأمُورُ الهَاتِف: ۔ٹیلیفون آپریٹر۔
مَأمُورِيَّة: مہم، مشن، کمیشن، ڈیوٹی۔
مُؤتَمَرٌ: کانفرنس، کنونشن، مشاورتی اجتماع ج: مُؤتَمَرَاتٌ۔
مُؤتَمَرُ التَّضَامُنِ الأفْرُو ۔آسيَوِی: افریقی ایشیائی اتحاد کی کانفرنس۔
مُؤتَمَرُ السَّلام او الصُّلحِ: امن کانفرنس، صلح کانفرنس۔
مُؤتَمَرٌ سِيَاسِیٌّ: کانگریس، سیاسی کانفرنس
المُؤتَمَر الشَّعبِیّ: نیشنل کانفرنس۔
مُؤ تَمَرٌ صَحفِیّ: پریس کانفرنس۔
مُؤ تَمَر صُلح: امن کانفرنس
مُؤ تَمَرقِمَّة تَارِيخِیّ: تاریخی چوٹی کانفرنس۔
مُؤتَمَرٌ مُصغَّرٌ: چھوٹی کانفرنس۔منی کانفرنس
مُؤ تَمَر وَطَنِیّ: نیشنل کانگریس ۔
المُؤتمر الوطنی للشبعاب: یوتھ کانگریس
المُؤتَمَرُ لمُناقَشَةِ مَوضُوعٍ مُعيَّن: سمپوزیم۔
مُؤتَمَرُ المَائِدَة المُستَدِيرَة: گول میز کانفرنس۔
المُؤتَمَرُ المُزمِعُ عَقدُه فی الفَترَة ما بَينَ ۲۶.۲۴ يَنَايِر: ۲۴ سے ۲۶ جنوری تک ہونے والی کانفرنس۔
مُؤتَمَرٌ من السُّفَرَاء: سفراء کانفرنس۔
مُؤتَمَر المُنَظَّمَات: تنظیمات کی کانفرنس۔
مُؤتَمَر مُوَسَّعٌ: بڑی کانفرنس۔
مُؤتَمَر نَزعِ السَّلاح: تحفیفِ اسلحہ کانفرنس۔
أمسِ: کل گذشتہ
أمسِ الأوَّل: پرسوں گذشتہ۔
ألأمس: زمانہ گذشتہ، ماضی۔
إمَّعَة: ابن الوقت۔
أمَلٌ: امید، توقع، ارمان ج: آمال۔
خَيبَةُ أمَل: نامرادی، ناکامی۔
الأمَلُ الضَّئِيل: معمولی ارمان۔
عَقَدَ الأمَلَ بِفُلَانٍ: فلاں سے اُمید وابستہ کی۔
قَطَعَ الأمَلَ مِنْ فُلَانٍ: فلاں سے امید منقطع کی۔
تَأمُّل: غور کرنا، تردد کرنا۔
آمِلٌ، مُؤَمِّلٌ: امیدوار، توقع کنندہ، آرزومند۔
مَأمَلٌ وَمَأمُولٌ: امید ج: مَآمِلُ
المَأمُولُ فيه: متوقع۔
أمَّة: قوم، عوام، پبلک، نسل ج: أمَم۔
مَسِيرَةُ الأمَّة: قومی تحریک۔
تَأمِيم: نیشنلائز کرنا، قومیانا۔
تَأمِيمُ مِلكِيَّةِ الأرَاضِی: زمین کو قومی ملکیت میں لینا۔
أمَّ ۔ُ أمًّا: قصد کرنا، قیادت کرنا، امامت کرنا،

امام بننا، راہنما بننا۔
أَمَّ ـــ أُمُومَةً: ماں بننا۔
أُمّ :(۱) ماں ج: أُمّهات (۲) سانچہ (جس میں معدنیات ڈھالی جائیں) (۳) جڑ، اصل۔
أُمَم: اقوام و: أُمَّة.
الأُمَمُ المُتَحِدَةُ: اقوام متحدہ۔
عُضوٌ فی الأُمَم المتَّحِدَة: اقوام متحدہ کا ممبر۔
مَقَرُّ الأُمَمِ المُتَّحِدَةِ: اقوام متحدہ کا ہیڈ کوارٹر۔
مَبْعُوثُ الأُمَمِ المُتَّحِدَةِ: اقوام متحدہ کا نمائندہ۔
بِعثَةُ الأُمَمِ المتحدة : اقوام متحدہ کا کمیشن۔
الهَيئَةُ الأُمُّ: اصل باڈی، اصلی ادارہ۔
هَيئَةُ الأُمَمِ المُتَّحِدَة: ادارۂ اقوامِ متحدہ۔
أُمَمٌ مُتَحَضِّرَةٌ: متمدن قومیں۔
أُمَمٌ مُتَخَلِّفَةٌ: پسماندہ ممالک۔
أُمَمِيّ: انٹرنیشنل، بین الاقوامی۔
أُمِّيّ: ماں کا، اَن پڑھ، ناخواندہ۔
أُمِّيَّةٌ: ناخواندگی، جہالت۔
أَمَامَ: سامنے، مقابلہ میں، موجودگی میں، آنکھوں کے سامنے۔
أَمَامِيٌّ: اگلا، سامنے کا۔
إِلَى الأَمَامِ: آگے، سامنے کی طرف۔
إِمَامٌ: قائد، پیشوا، سربراہ ج: أَئِمَّةٌ
إِمَامَةٌ: قیادت، سربراہی، پیشوائی۔
أَمَّا: لیکن

إِمَّا: یا (إِمَّا هٰذَا أَوْ ذَاكَ:
أَمُنَ ـــ أَمَانَةً: دیانت دار ہونا۔
الأَمْنُ الجَمَاعِيُّ: اجتماعی حفاظت۔
الأَمْنُ الشَخصِيّ: ذاتی سلامتی اپنا تحفظ۔
الأَمْنُ علی النَّفس: جان کا خوف نہ ہونا۔
أَمِنَ ـــ أَمَاناً، وأَمْناً، و أَمَانَةً، و أَمْناً: بے خوف ہونا، محفوظ ہونا، مطمئن ہونا۔
أَمَّنَهُ تَأمِيناً: امان دینا، اطمینان دلانا۔
أَمَّنَ عَلَى الحَيَاةِ تَأمِيناً: زندگی کا بیمہ کرنا۔
مُؤَمَّن: بیمہ شدہ، انشورڈ۔
المُؤمِنُ بالفَوضَوِيَّة: انارکسٹ۔
المُؤَمَّنُ علی حَيَاتِهِ: جس کا بیمہ کیا گیا ہو۔
مُؤَمَّنٌ عليه: انشورڈ، محفوظ۔
خِطَابٌ مُؤَمَّنٌ عليه : انشورڈ لیٹر۔
المَبلَغُ المُؤَمَّنُ عليه: انشورڈ رقم، محفوظ رقم۔
إِئتِمَانٌ وَاسْتِئمَانٌ: اعتماد کرنا۔
آمَنَ بِهِ إِيمَاناً : اعتقاد رکھنا، یقین کرنا، مطمئن ہونا، ماننا۔
إِيمَانٌ بشيءٍ: یقین۔
إِيمَانٌ خَالِصٌ: مکمل یقین۔
أَمْنٌ وَ أَمَانٌ: امن، سلامتی، حفاظت، سیفٹی۔
أَمْنٌ عَامٌّ: حفاظتِ عامہ، عوامی تحفظ۔
أَمَانٌ: سیفٹی، حفاظت۔
أَمَانَةٌ: نظامت، سکریٹری شپ۔
أَمَانَةٌ عَامَّةٌ: جنرل سکریٹری کا دفتر۔
أَمَانٍ وَطَنِيَّةٌ: قومی تمنائیں۔
تَأمِين: انشورنس، بیمہ، کسی شے کی حفاظت کا ذمہ دار ہونا اور ضمانت لینا اور بصورت

نقصانات تاوان ادا کرنا۔
عَقْدُ تَأمِینٍ: انشورنس کا معاہدہ۔
عَقْدُ تَأمِینٍ علی الحَیاۃ: زندگی کا بیمہ کرانا۔
التَّأمِینُ علی شیٍ (ضَمانٌ بعقدٍ یَتعهَّدُ فیه أحدُ الفریقَین بأنْ یُعوِّضَ علی الآخر: انشورنس، بیمہ، حفاظت کرنا، محفوظ کرنا، ڈپازٹ، امانت۔
تَأمِینٌ إجتماعیٌّ: سوشل انشورنس، اجتماعی حفاظت کرانا۔
تَأمِینٌ جوِّیٌّ: فضائی حفاظت، فضائی انشورنس۔
تَأمِینُ الحُقُوق: حقوق کی حفاظت۔
تَأمِینُ السُّکنیٰ: رہائش کا بیمہ کرانا۔
التَّأمِینُ الصِّحِّیٌّ: صحت کا بیمہ۔
تَأمِینٌ ضِدَّ البَطالة: بے روزگاری کا بیمہ۔
تَأمِینٌ ضِدَّ الحَرِیق: فائر انشورنس
التَّأمِینُ ضِدَّ الحَوادِث: حوادث کا بیمہ
التَّأمِینُ ضِدَّ السَّرِقة: چوری کا بیمہ۔
التَّأمِینُ ضِدَّ المَرَض: ہیلتھ انشورنس۔
التَّأمِینُ العام: ہر خطرہ کا انشورنس۔
التَّأمِینُ علی البَضائع: سامان کا انشورنس۔
• تَأمِینٌ علی الحَیاۃ: لائف انشورنس، زندگی کا بیمہ۔
تَأمِینٌ مالِیٌّ: ضمانتِ مال، نقد ضمانت۔
التَّأمِینُ عن الأخطار: خطرات کا بیمہ
التَّأمِینُ مَدَی الحَیاۃ: تمام زندگی کا بیمہ، لائف انشورنس، زندگی بھر کا بیمہ۔

تأمین المرافق: ضروریات زندگی کی حفاظت۔
تَأمِینُ المُستَقبَل: مستقبل کی حفاظت
تَأمِینُ المَصالِح: مفادات کا تحفظ۔
تَأمِینُ المَعاشات: پنشن کا بیمہ۔
تَأمِینُ المُواصلات: ذرائع حمل ونقل کو محفوظ بنانا، گارنٹی دینا۔
تَأمِینٌ نَقدِیٌّ: مالی حفاظت۔
تَأمِینُ الوَفاۃ: موت کا بیمہ۔
تَأمِیناتُ العَطاءات: ٹینڈر ڈپازٹ۔
وُکَلاءُ التَّأمِین: انشورنس ایجنٹس
شَرِکَةُ التَّأمِین: بیمہ کمپنی۔
أَمَنَة: (۱) انتہائی قابل اعتماد (۲) دوسروں پر انتہائی اعتماد کرنے والا۔
آمِنٌ: پرامن، محفوظ، مطمئن، بے خوف، نڈر۔
أَمانَةٌ: دیانت، امانت، اعتماد۔
آمِینَ: قبول کر (اسم فعل)
أَمِینٌ: خزانچی، دیانت دار، وفادار، قابل اعتماد، بے ضرر، محفوظ، کسٹوڈین، ناظم، سکریٹری، ج: اُمَناءُ
أَمِینُ جَلسات المُؤتَمَر: میٹنگ افسر۔
أَمِینُ سِرٍّ: سکریٹری
أَمِینُ الصُّندُوق: خزانچی، کیشئر، تحویلدار۔
أَمِینُ العاصِمَة: گورنر۔
الأَمِینُ العامُّ: ناظمِ عمومی، ناظم اعلیٰ، جنرل سکریٹری۔
نائبُ الأَمِینِ العامِّ: نائب ناظم اعلیٰ۔
أَمِینٌ علی: محافظ، نگراں
أَمِینٌ علی الصُّندُوق: کیشیر، خزانچی،

تحویلدار۔
أمِينٌ علی المکتَبة: لائبریرین، ناظمِ کتبخانہ،
أمِينُ مَحفُوظَات: مہتمم محافظ خانہ، پرانے کاغذات کا محافظ۔
أمِينُ مَخزَن: اسٹور کیپر۔
أمِينُ المَکتبہ: لائبریرین، ناظم کتب خانہ
غَیرُ أمِين: نا قابل اعتماد، خائن
إيمَان: اعتقاد، یقین، عقیدہ۔
مَامَن: پرامن جگہ ج: مَآمِن
مَامُون: محفوظ، معتمد علیہ، سیف، قابل اطمینان
مامُون النتائج: جس کے نتیجے قابل اطمینان ہوں۔
مُؤتَمَن: قابل اعتماد، معتمد علیہ۔
غَیرُ مَامُون: غیر محفوظ، پرخطر۔
أمِیرِکا: أمرِیکا: امریکہ۔
أمرِیکَا اللاتِينِيَّةُ: لاطینی امریکہ۔
أمرِیکَا الوُسطی: وسطی امریکہ۔
أمرِیکَان و: أمرِیکِيّ: امریکن باشندے۔
أمرِیکِيّ: امریکہ کا باشندہ۔
تَأمرُک: امریکی باشندگی اختیار کرنا۔

ا.........ن

أنَّ: کہ (حرفِ مشبہ بالفعل، ناصب اسم) اپنے مدخول علیہ کو مصدر موؤل بناتا ہے۔
إنَّ: حرفِ تاکید (مشبہ بالفعل) ناصب اسم ابتدائے کلام میں آتا ہے۔
بِمَا أنَّ: کیونکہ، چونکہ، اس وجہ سے کہ۔
إن: حرفِ شرط، دو افعالِ مضارعہ کو جزم دیتا ہے۔ (پہلا شرط دوسرا اجزاء)
إنَّمَا: صرف، لیکن۔

أنَا: میں، ضمیر مرفوع منفصل۔
أنَا بَرِئٌ منه: میرا اس سے واسطہ نہیں۔
أنبَة: آم۔
أنبَج: آم۔
أنَا مَدِينٌ لَکَ: میں آپ کا ممنون ہوں۔
أنَانِيٌّ: خودسر، خودرائے۔
أنَانِيَّة: خودسری۔
أنَانَاس: اناناس (ایک پھل)
أنَّبَهُ تَأنِيباً: ملامت کرنا، سرزنش کرنا۔
تَأنِيبُ الضَّمِيرِ: ضمیر کا ملامت کرنا۔
أُنبَاشِي: کارپورل، دس فوجی سپاہیوں کا افسر (ترکی)، دفعدار۔
وکِيل أُنبَاشِي: سیکنڈ کارپورل۔
أُنبُوبَةٌ: گنے کی پوری، بانس کی دو گرہوں کا درمیانی حصہ، نلکی، پائپ ج: أنَابِيبُ
أُنبُوب: ٹیوب ج: أنَابِيب.
أُنبُوبٌ فَخَارِيٌّ: مٹی کا پائپ
أُنبُوبَة مَعجُون أسنَان: پیسٹ ٹیوب۔
إنبِيقُ التَّقطِيرِ: بھپکا۔
أنتَ: تم، آپ، (ضمیر مرفوع منفصل)
أنتَ مَسئُولٌ عَنْ أمرِکَ: آپ جانیں آپ کا کام۔
أنتَ وَاهِم: تمہارا خیال غلط ہے۔
أنتَ و شَأنَکَ: آپ جانیں آپ کا کام۔
أُنثی: مادہ
أُنثَوِيٌّ: زنانہ، نسوانی۔
أُنُوثَة: نسوانیت، زنانہ پن۔
أنجَاص، کُمَّثرَی: آلو بخارا، ناشپاتی۔
إنجِلِيز: انگریز۔

إنجليزيّ: انگریزی، انگریز
أَنِسَهٗ ـُ أُنساً: مانوس ہونا، دل لگنا۔
أَنِسَ به وَ إلَيْهِ أَنَساً وَ أَنَسَةً ـَ: مانوس ہونا، دل لگنا، تعلق ہونا، لگاؤ ہونا۔
دَاعٍ إِنْسانِيٌّ: جذبۂ انسانیت۔
آنَسَهٗ إِيْنَاساً: جاننا، انسیت بخشنا، محسوس کرنا، (۲) دل بہلانا، تسلی دینا۔
آنِسَةٌ: مس، نوجوان خاتون ج: آنِسات
أَنِفَ مِنْهُ ـَ أَنَفاً: نفرت کرنا، ناک چڑھانا۔
أَنْفٌ: ناک ج: أُنُوْف
أَنْفُ الْجَبَل: پہاڑ کا سمندر میں ابھرا ہوا حصہ۔
رَغْمَ أَنْفٍ:...... خواستہ ناخواستہ۔
أَنَفَةٌ: آن، غرور، بڑائی، کراہت، نفرت۔
آنِفاً: ابھی ابھی۔
مَذْكُوْرٌ آنِفاً: جس کا ابھی ذکر ہوا۔
عَرِيْضَةُ الإِسْتِئْنَافِ: درخواست، اپیل
مَحْكَمَةُ الإِسْتِئْنَافِ: اپیل کورٹ، عدالت مرافعہ، ہائی کورٹ۔
إِسْتِئْنَاف: اپیل، نئے سرے سے کرنا، اعادہ کرنا، تجدید کرنا، ازسرنو کرنا۔
إِسْتِئْنَافُ الحِوَار: نئے سرے سے بات چیت شروع کرنا۔
إِسْتِئْنَافُ الدَّعْوٰى: مقدمہ کی اپیل کرنا
استِئْنَافُ ضِدٍّ: کسی کے خلاف اپیل کرنا۔
إِسْتِئْنَافُ النَّشَاط: ازسرنو کام شروع کرنا۔
مُسْتَأْنِفٌ: اپیل کنندہ۔
مُسْتَأْنِفُ الدَّعْوٰى: اپیل کنندہ۔
مُسْتَأْنِفاً: ازسرِنو۔
المُسْتَأْنِفُ علی......: جس کے خلاف اپیل ہو۔

إِنْفِلُوَنْزَ (النَّزْلَةُ الوَافِدَةُ): انفلوئنزا۔
أَنِقَ ـَ أَنَقاً و أَنَاقَةً: خوبصورت ہونا، خوش منظر ہونا، مرتب وآراستہ ہونا، باسلیقہ ہونا، نستعلیق ہونا، کلام کا شستہ وپاکیزہ ہونا۔
آنَقَهُ الشَّيْئَ إِيْنَاقاً: پسند آنا۔
تَـأَنَّـقَ فِی الْعَمَلِ: کام کو احتیاط و دانشمندی سے انجام دینا، سلیقہ سے کرنا۔
تَأَنَّقَ فِي اللُّبْسِ وَالأَكْلِ: کھانے پینے میں نازک مزاج ہونا، باریکیاں نکالنا، خوش پوش وخوش خوراک ہونا۔
أَنَّقَ الشَّيْئَ: خوبصورت وشستہ بنانا۔
أَنَّقَ الشَّيْئُ فُلاناً: پسند آنا، بھانا۔
أَنَاقَة: حسن، نزاکت، سلیقہ، شستگی۔
أَنُوْقٌ: عقاب، ایک پرندہ۔
أَنِيْقٌ: خوبصورت، شستہ باسلیقہ۔
تَـأَنُّقٌ: نازک مزاج ہونا، باریک بیں، ہونا، باریکیاں نکالنا۔
تَأَنُّق: نازک مزاجی۔
مُتَأَنِّقٌ: تنک مزاج، باریک بیں محتاط۔
إِنْكِلْتَرا: انگلستان، انگلینڈ۔
إِنْكِلِيْزِيٌّ: انگریز، انگلش، انگریزی زبان۔
الإِنْكِيْزِيَّة البرِيْطَانِيَّة: برٹش انگلش۔
أُنْمُوْذَجٌ، نَمُوْذَجٌ: نمونہ، ماڈل، طرز، ڈیزائن ج: نَمَاذِج.
أَنِيْمُوْمِتْر: اینمامیٹر، ہوا کی رفتار اور رخ معلوم کرنے کا آلہ، بادپیما (معرب)
أَنَّ ـِ أَنّاً، و أَنِيْناً، و أُنَاناً و أَنَّةً: آہ بھرنا۔
أَنَّةٌ و أَنِيْنٌ: آہ وزاری کی آواز۔

أنی ــِ أنیاً و إنیً و أناۃً : قریب ہونا۔
إستأنی و تأنّی : توقف کرنا، رُک رُک کر کام کرنا، آہستگی اختیار کرنا۔
تأنّی علیہِ: مہلت دینا۔
أنِیسُون ، یَانِسُون: سونف، انیسون۔
أنِیطۃٌ ، طُبْنَۃٌ: جہازی بسکٹ، (ایک قسم کا سخت بسکٹ)
أناۃٌ: صبر، انتظار، توقف۔
طَوِیلُ الأناۃِ: انتہائی صابر۔
آنِیۃ، و: إناء: برتن۔
آنِیۃٌ خزفِیۃٌ: مٹی کے برتن۔
آنِیۃٌ زُجاجِیۃ: شیشے کے برتن۔
أنّی: کہاں، کب، کیسا۔

ا .... ہ

أھَبَ تأھِیباً : تیار کرنا۔
تأھَّبَ (لِ): تیار ہونا۔
أُھبۃٌ : تیاری ج: أُھَبٌ.
علیٰ أُھبۃِ السَّفرِ: پابہ رکاب۔
أخذُ الأُھبۃِ: تیاری کرنا۔
أھِلَ المکانُ ــَ أھلاً: آباد ہونا۔
أھَلَ إمرأۃً ــُ أھلاً و أُھُولاً: شادی کرنا۔
أھَّلَ تأھِیلاً: (لِ) لائق بنانا۔
أھّلَہٗ: بسانا، شادی کرانا۔
إستِئھال: واجب کرلینا، استحقاق حاصل کرنا، سدھانا، ہلانا۔
تأھِیل: قابل بنانا، کام کے قابل بنانا، صلاحیت سازی، قابلیت سازی۔
أھلٌ: فیملی، متعلقین، بیوی بچے، بیوی، رشتہ دار۔
أھلُ الدّار: اہل خانہ۔

أھلٌ: (لِ) لائق، مستحق، تجربہ کار، فٹ، مناسب۔
أھلِیٌّ: خانگی، گھریلو، شہری، ملکی، سول،
حَربٌ أھلِیۃٌ: خانہ جنگی۔
أھلِیۃٌ: لیاقت، صلاحیت، قابلیت، اختیار، استعداد، کالیفکیشن۔
ذُو أھلِیۃٍ: لائق، قابل۔
مدرسۃ أھلِیۃٌ: پرائیوٹ اسکول۔
مُؤھّلات: و: مُؤھِّلۃ): قابلیت، علمی لیاقت، کالیفیکشن۔
المُؤھِّلاتُ السّامِیۃ: اعلیٰ صلاحیتیں۔
مُؤھَّل: لائق، قابل۔
غیرُ مُؤھَّلٍ: اَن فِٹ، نااہل۔
مُؤھَّل ک: کوالیفائیڈ، مستحق۔
أھالٍ: باشندگان، عوام، پبلک۔
آھِلٌ: آباد۔
آھِلٌ بالسُّکّان: آباد۔
مَأھُول: آباد۔

ا .... و

أوْ: یا، جب تک۔
أوْب: واپسی (ن)
من کُلِّ أوْبٍ: ہر طرف سے۔
أوبِرا (دارُ التَّمثِیل): سینماہاؤس، اوبرا ہاؤس۔
أوْج: چوٹی، بلندی۔
بلَغَ الأوجَ ــُ بُلُوغاً: ترقی کرنا، کمال حاصل کرنا، بامِ عروج پر پہنچنا۔
أوجُ المجد: نقطۂ عروج۔
أُوتُوماتِیکِیّ: آٹومیٹک، خودکار۔
أُوتُمبِیل، أُوتُومُوبِیل: موٹر کار۔

أوْدٌ و أوْدَة: بوجھ،لوڈ۔
أُوْدَةٌ: کمرہ،بالاخانہ،چیمبر،(ترکی)
أُوَارٌ: گرمی،حدت،شدت،پیاس۔
أورطَةٌ: بٹالین،ایک ہزار سپاہیوں کی جماعت
أُوْرُطَة، أُوْرُطِـي: اورطہ(شریان اعظم جو قلب کے بائیں جوف سے نکلتی ہے)
أورنیک: سادہ فارم (کاغذ)
أُورُبّا: یورپ۔
أُورُبیٌّ: یورپین،یورپ کا۔
إوَزَّةٌ، وَزَّة: بطخ ج: إوَزٌّ، وَزٌّ،
أُوْضَةٌ: کمرہ
أُوغندا: یوگنڈا۔
أوْف، آفَةٌ: مصیبت۔
مَؤُوْفٌ: مصیبت زدہ،آفت کا مارا۔
أوّفَ تـأوِيفا: (۱) تکلیف میں بتلا کرنا۔(۲) براشگون نکالنا،کسی کے متعلق بری پیش گوئی کرنا۔
أُوقِيَّة: مساوی ۱۲/اپونڈ،اونس۔
أوقِيانُس: سمندر،ساگر،محیط۔
الأوقِيانُوس الأطْلَنطِي (بَحْرُ الظُّلُمات: بحر اٹلانٹک۔
___ البَاسِيفِيكى (المُحِيطُ الهادِئ): بحر کاہل۔
___ المُتَجمِّدُ الشِّمالِيُّ: بحر منجمد شمالی۔
___ الهِندِىّ (بَحْرُ الهِنْد): بحر ہند۔
___ المتجمّد الجنوبی: بحر منجمد جنوبی۔
أُولَمْبِيٌّ، أُلُنْبِيٌّ: اولمپین،اولمپک۔
آلٌ: خاندان،سراب،ماہر،تجربہ کار،
آلَةٌ: مشین، اوزار، ذریعہ عمل، آرگن
ج: آلات.
هَدِيرُ الآلاتِ و أزِيزُها: مشینری کی آواز۔
آلَةُ الاقْتِرَاع: ووٹنگ مشین۔
آلَةُ التَّصْوِير: کیمرہ،آلہ تصویر کشی۔
آلَةُ التَّصْوِيرِ الشَّمسِيّ: کیمرہ۔
آلَةٌ جهَنَّمِيَّةٌ: مہلک مشین یا ہتھیار۔
آلَةٌ حَاسِبَةٌ: حسابی مشین،شمار کرنے کی مشین، کلکولیٹر،کمپیوٹر۔
آلَةُ الخِيَاطَةِ: سلائی مشین،سینے کی مشین۔
آلَةٌ رَافِـعَةٌ: کرین،جیک،گاڑی کے پہیوں کواوپر اٹھانے کا آلہ۔
آلَةٌ رَافِعَةٌ لِلمِيَاهِ: پمپنگ انجن،پانی نکالنے کی مشین۔
آلَةٌ طَابِعَةٌ: پرنٹنگ پریس۔
آلَةٌ كـاتِبَةٌ: ٹائپ رائٹنگ مشین،ٹائپ رائٹر۔
آلَةٌ كَاتِبَةٌ كَهرَبائِيَّةٌ: الیکٹرک ٹائپ رائٹر۔
آلَةٌ مُحَرِّكَةٌ: انجن۔
آلِيٌّ: خودکار،روٹین،مشین سے چلنے والا مشین کا بنا ہوا،کل دار،میکانیکی۔
آلِيًّا: خود بخود
الآلِيَّةُ: خودکار آلات سے کام لینا۔
أوَّل: پہلا،ابتداء،آغاز،اہم،بڑا،شروع،فرسٹ۔
أوَّلُ دَرَجَة: نمبر اول،فرسٹ۔
أوَّلُ البَارِحَة: پرسوں گذشتہ۔
الأوَّل: متقدم،پہل کرنے والا،سبقت لے جانے والا،آگے رہنے والا۔
مِنَ الطِّرَازِ الأوَّل: کلاسیکل،پرانے

طرز کا۔
مُفَتِّش أَوَّلُ: چیف انسپکٹر
الرَّعِیلُ الأَوَّلُ: پہلی جماعت۔
الرَّجُلُ الأَوَّلُ: نمبرایک آدمی، شخصیت نمبرایک۔
مُلازِم أَوَّلُ: لیفٹیننٹ (ایک فوجی عہدہ)
أَوَّلِـيٌّ: پہلا، پہلے نمبر پر، ابتدائی، پرائمری، اصولی، بنیادی۔
أَوَّلُ العَهْد: ابتدائی دور۔
أَوَّلاً بأَوَّل: سب سے پہلے، فوری طور پر۔
أُولَمبِيَّة: اولمپک
أَوْلَوِيَّة: اولیت، فوقیت۔
أُولٰی: فرسٹ
الدَّرَجَةُ الأُولٰی: اپر کلاس، فرسٹ کلاس۔
أَوَّلِيَّة: مقررہ اصول، بنیاد، مسلمہ قضیہ۔
أَوَّلِيَّاتُ العِلْمِ: مبادیٔ علم
المَوادُّ الأَوَّلِيَّةُ: ابتدائی سامان، بنیادی میٹریل، خام مال۔
أُمْباشِي: دفعدار، فوج کا ایک چھوٹا عہدہ دار جس کے ماتحت سپاہی ہوتے ہیں، دس فوجی سپاہیوں کا افسر (ترکی)
أَوْنٌ و آنٌ و أَوَانٌ: سیزن، وقت، موسم ج: آوِنَة.
آوِنَة: اوقات، حالات
آوِنَةٌ مُرَوِّحَة: پرسکون حالات، اطمینان بخش احوال۔
آوِنَةٌ مُرَوِّعَة: خوفناک حالات، بھیانک اوقات۔
الآنَ: ابھی اس وقت، اب۔
الآنَ أَيْضاً: اب بھی (مَعَ ذٰلِکَ)
إِلَى الآنَ، لِغَايَةِ الآنَ: تا ایں دم، اب تک۔
آنَذَاکَ: اسی وقت۔
فِيْ أَوَانِهٖ: بروقت، موسم کا، موسم میں۔
فِيْ غيرِ أوانه: بے وقت، بے موسم۔
أَوْهِ: (اسم صوت) مرض یا حسرت وغم کی آواز
آهُ ج: آهات: آہ۔
تَأَوَّهَ: کراہنا (تکلیف سے آہ بھرنا)
أَوَى ــ إِلَى إِوَاءً وَأُوِيّاً: پناہ لینا،
آوَى إِيْوَاءً وأَوَّى تَأْوِيَةً: پناہ دینا، چھپانا، آباد کرنا۔
مَأْوًى: پناہ گاہ، ٹھکانا ج: مَآوٍ.

ا.........ی

إِيْوَانٌ: ہال، لابی، پبلک ہال، محل، بڑی عمارت۔
أَيٌّ: کونسا۔
أَيٌّ كَانَ: کوئی بھی ہو۔
أَيُّ شَيْءٍ كَانَ: کچھ بھی ہو، ہرچہ بادا باد۔
عَلٰى أَيِّ حَالٍ: بہرحال، بہرصورت، کچھ بھی ہو۔
آيَة: نشان، عبرت، پند ونصیحت، قرآن کریم کا ایک محدود حصہ۔
آيَةٌ في البَرَاعَة: مہارت کا نمونہ، انتہائی کمال۔
تَأْيِيد: حمایت، سپورٹ۔
تَأْيِيدُ الإِقْتِرَاح: تجویز کی حمایت۔
تَأْيِيدٌ قَوِيٌّ: زبردست حمایت۔
المُؤَيِّد: سپورٹر
الأَيْدِيُولُوجِيَّة العَقَائِدِيَّة: خیال پرستی، تصورات کا عالم۔
الأَيْدِيُولُوجِيَّة الشُّيُوعِيَّة: کمیونسٹ۔

آئیڈیالوجی۔
أَیَّارُ: ماہِ مئی۔
إِیَّاکَ: تجھ ہی کو، ضمیر منصوب منفصل۔
إِیَّاکَ أَنْ تَفْعَلَ کَذَا: خبردار ایسا نہ کرنا۔
إِیْطَالِیَا: ملک اٹلی۔
اَلإِیَّل، الأَیَّل، الأُیَّل: بارہ سنگھا، ج: أَیَایِلُ و أَیَائِلُ
أَیْلُوْلُ: ماہِ ستمبر
إِیَالَۃ: صوبہ (ترکی)۔

ب

ب............ا

بِ: (۱) ساتھ (۲) سے (۳) ذریعہ (۴) بدلہ (۵) سبب (۶) میں (۷) تعدیہ (۸) زائدہ

بَاعَ بالجُمْلَة: تھوک فروخت کیا۔

مَرَّ بالسُّوق: بازار سے گذرا

كَتَبَ بالقَلَم: قلم سے لکھا۔

صَعِدَ بالسُّلَّم: سیڑھی کے ذریعہ چڑھا۔

بَاعَ الكِتَابَ برُوْبِية: کتاب ایک روپے کی فروخت کی۔

فَشَلَ بالإهْمَال: لاپرواہی کی وجہ سے ناکام ہوا۔

أَخَذَ باليَد: ہاتھ میں لیا۔

بَاحَ بِسِرِّه: اس کا راز ظاہر کیا۔

لیس بجیّد: عمدہ نہیں ہے۔

بَأْبَأَ الوَلَدُ: بچہ کا بابا کہنا۔

بَابَا: عیسائیوں کا پوپ اعظم

بَابُور: دیکھئے وابور)

بَابُورُ البَحْرِ: سمندری جہاز

بَابُورُ سِكَّةِ الحَدِيْد: ریلوے انجن۔

بَاتَ (در بَيَتَ)

بَاتِيسته: باریک ململ۔

بَاثَالُوجِيَا: علم العلاج، علم ترکیب ادویہ

بَاحَ: (در بوح) بَاخَ (در بوخ)

بَاخِرَة: (در بخر)

باد (در بَیْک)

بَادِر: (در بدر)

بَاذِنْجَان: بیگن، و بَاذِنْجَانَة

بَأَرَ ــ بَأْرًا: کنواں کھودنا۔

بِئْرٌ: کنواں ج: آبَارٌ، أَبْؤُرٌ، و أَبْآرٌ. و بِئَارٌ.

بُؤْرَة: ج: بُؤَر بھنور (۱) نقطۂ اجتماع (۲) گڑھا

بُؤْرَةٌ خَطِيْرَة: خطرناک بھنور۔

بَار: (۱) شراب خانہ۔

بَارْلَمَان: پارلیمنٹ

بَارْنَامَج، بَرْنَامَج: پروگرام، فہرست

بَارُومِتْر: (مع) بارومیٹر، بیرومیٹر، آلہ باد پیما

بَارِيْس: پیرس

بَارِيْسِيٌّ: پیرسی، پیرس کا، پیرس کا باشندہ۔

بَازَار: بازار، مارکیٹ۔

بَأْس: طاقت، بہادری، قوت۔

ذُوْبَأْسٍ: طاقتور، بہادر۔

لابَأسَ بذلِکَ: کوئی مضائقہ نہیں
لابَأسَ بکذا: خاصی، خاصا (خِبرَۃ)
لابَأسَ بِھا: خاصا تجربہ۔
لابَأسَ عَلَیکَ: تم کو کوئی خوف نہیں۔
شیٔ لابَأسَ بہ: ناقابلِ اعتراض
بَئِسَ ـ بُؤساً، وبَاساً و بَئِیساً: تنگدست ہونا، بدحال ہونا محتاج وفقیر ہونا۔
بَؤُسَ ـ بَأساً و بَأسَۃً و بَآسَۃً: طاقتور ہونا، بہادر ہونا۔
بُؤسٌ بَاسَاءُ: بدحالی، تنگدستی، زبوں حالی، مصیبت
بَاسَابُورت، بَاسبُور: پاسپورٹ
بَائِسٌ: تنگدست، خستہ حال، مصیبت زدہ
بَاشَرَ: (دیکھیے بشر)
بَاش: چیف، صدر
بَاشَا: لقب، پاشا
بَاشکِیر: (دا) تولیہ۔
بَاطِسُ الحِذَاء: (دا) جوتے کا تلا
بَاصَۃٌ: (مع) بس ج: بَاصَات
بَاقَۃ: گلدستہ ج: بَاقَات
بَالَۃٌ إبَالَۃٌ: تجارتی بنڈل، کپڑے کی گانٹھ۔
بَالُوعَۃ: گندا نالہ، گندی نالی
بَالُو: بال کا معرب) (۱) گیند (۲) ڈانس
بَالُون: (مع) غبارہ: (مُنطَاد)
بَامِیا: (مع) بھنڈی
بَانِیُو: باتھ ٹب
بَاہَ للأمر ـ بَاھاً: سمجھنا، تاڑنا۔

ب......ب

بَبْرٌ: ہندوستانی شیر، شیر ببر ج: بُبُور

البَبغاءُ، و البَبَّغَاءُ: طوطاج: بَبْغَاوَات۔

ب......ت

بَتَّ ـ بَتّاً: قطع کرنا، کاٹنا۔
بَتَّ الأمروفیہ: آخری فیصلہ کرنا، فیصلہ کرنا، طے کرنا۔
بَتٌّ: فیصلہ، قطعیت۔
بَتَّۃَ البَتَّۃَ: یقیناً، قطعاً ہمیشہ۔
بَتاتاً: قطعی طور پر، آخری طور پر، بالکل
بَتَرَ ـ بَتْراً: کاٹنا، کترنا، حصہ جسم کاٹنا
بَتْرٌ: قطع وبرید، نقص
بَتَّار: تیز، قاطع
أبْتَرُ مَبْتُور: (۱) دُم بریدہ (۲) ناتمام ناقص، لاولد۔ (جُملَۃ مَبتُورَۃ) ناتمام جملہ۔
بِترُول: (مع) (۱) (پٹرول) (۲) مٹی کا تیل
بِترُولٌ خَام: غیر صاف شدہ پٹرول
بِترُول مُکَرَّرٌ: صاف شدہ پٹرول
بَتَّلَ تَبتِیلاً: قطع کرنا، دور کرنا
بَتَلَ و تَبَتَّلَ: شادی نہ کرنا، بے رغبت ہونا، متوجہ نہ ہونا
مَبتُول: غیر شادی شدہ، کنواری عورت۔
بِتنجَان: بینگن
بِتیّۃٌ: غسل کرنے کا ٹب، باتھ ٹب۔

ب......ث

بَثَّ ـ بَثّاً: پھیلانا، شائع کرنا، بکھیرنا، بھیجنا، اشاعت کرنا۔
بَثٌّ: اشاعت، بکھیرنا۔
بَثُّ الألغَام: سرنگ بچھانا۔
بَثُّ رُوحِ الذُّعر: دہشت انگیزی پھیلانا

بَثُّ السُّمُوم: زہرافشانی کرنا۔
بَثُّ الفِکْرَة: نظریہ کی اشاعت کرنا
اِنْبِثَاث: پھیلنا، شائع ہونا، بکھرنا۔
مُنْبَثٌّ: شائع، منتشر، بکھراہوا۔
بَثِرَ ـَـ بَثَرَ ـِـ بَثُرَ ـُـ بَثْراً و بُثُوراً: پھنسیاں نکل آنا، چہرہ پردانے نکل آنا۔
بَثْرَةٌ: پھنسی ج: بَثْر و بُثُور
بَثَقَ ـُـ بَثْقاً و بِثْقَ: شق کرنا، توڑنا، چاک کرنا، پانی کا نہر کو توڑنا۔
اِنْبِثَاق: نکلنا، شق ہونا، طلوع ہونا، پانی کا جاری ہونا، (۲) پنکچر ہونا۔
اِنْبِثَاقُ الشئ من كذا: نتیجہ کے طور پر نکلنا۔

ب .... ج

بَجِحَ بِه ـَـ بَجَحًا: خوش ہونا۔
بَجَّحَ تَبْجِيحًا: (۱) بے حیا ہونا، خوش کرنا۔
تَبَجَّحَ: فخر کرنا، اترانا۔
بَجَدَ ـُـ بُجُوداً: ب۔قیام کرنا، مقیم ہونا۔
بَجْدَة: اصل، اصلیت، حقیقت۔
اِبْنُ بَجْدَة: باخبر، حقیقت شناس
بَجِرَ ـَـ بَجَراً: بڑے پیٹ والا ہونا۔
بُجْرَة: ناف ج: بُجَر
أَبْجَرُ: بڑے پیٹ والا۔
بَجَسَ ـُـ بَجْسًا: جاری کرنا، بہانا، شق کرنا، چیرنا، پھاڑنا۔
اِنْبِجَاس و تَبَجُّس: پھٹنا، جاری ہونا۔
بَجَعَ ـَـ بَجْعًا: تلوار سے کاٹنا۔
بَجَعٌ: لمبی چونچ کا ماہی خوراک آبی پرندہ، حواصل و: بَجعَة
بُجُولٌ: (ن۔س) خوش ہونا، خوشحال ہونا۔

بَجُلَ ـُـ بَجَالَةً: معزز ہونا۔
تَبْجِيل: تعظیم کرنا، احترام کرنا۔
مُبَجَّلٌ: لائق احترام، معزز۔
بَجَمَ ـِـ بَجْمًا و بُجُوماً: ڈر کر خاموش ہوجانا۔
بَجَّنَ المِسْمَا رَتَبْجِينًا: کیل ٹھونکنا۔
البُوجِيَّة (عَرَبَة يَجُرُّها جَواد: بگھی۔

ب .... ح

بَحْبَحَة و تَبَحْبُح: باغ باغ ہونا، خوش ہونا۔
بَحْبُوحٌ: شریف الطبع (دا)
مُبَحْبِحٌ: فراخ، آرام دہ۔
بَحَتَ ـُـ بُحُوتَة: خالص ہونا۔
بَحْتٌ: خالص
بَحَثَ فی المَوْضُوع ـَـ بَحْثًا: تحقیق کرنا، غور کرنا، چھان بین کرنا۔
بَحَثَ الأَمْرَ: غور کرنا، اسٹڈی کرنا، ریسرچ کرنا۔
بَحَثَ عن: تلاش کرنا، جستجو کرنا۔
بَاحَثَ مَعَه فی و تَبَاحَثَ: بحث کرنا، گفتگو کرنا، مباحثہ کرنا۔
بَحْثٌ: تحقیق، ریسرچ، مطالعہ، اسٹڈی، تھسیز، علمی تحقیق، تحقیقی مقالہ، تحقیقی مضمون ج: أَبْحَاث و بُحُوث
بَحْثٌ إِسْتِقْرَائِيٌّ: تجرباتی ریسرچ۔
البَحْثُ عن البِتْرُول: پٹرول تلاش کرنا۔
بَحْثٌ فی الشئ: غور و فکر کرنا۔
بَحْثٌ عِلْمِيٌّ: ریسرچ
بَحْثُ المَسْئَلَة: مسئلہ پر غور کرنا
بَحْثٌ مُقَارِنٌ: تقابلی مطالعہ

بَحثٌ و مُناقَشةٌ: بحث ومباحثہ
بَحّاثة، بَحّاثٌ باحِثٌ: محقق
مَبحَثٌ: موضوع، موضوعِ تحقیق، موضوعِ مطالعہ ج: مَباحِث
المَباحِثُ الجِنائِيَّةُ: فوجداری تحقیقات
مُباحَثَة: استدلالی گفتگو، مناظرہ، مقابلہ کلام، بات چیت، گفتگو ج: مُباحَثات
مُباحَثات: بات چیت، گفتگو
مُباحَثاتٌ تَمهِيدِيَّة: ابتدائی گفتگو، ابتدائی بحث ومباحثہ۔
مُباحَثات مباشرة: گفتگو براہِ راست۔
مُباحَثاتٌ وَجهًا لِوَجهٍ: روبرو بات چیت
مَوضُوعُ مُباحَثات: بات چیت کا موضوع
بَحثَرَة: بکھیرنا، برباد کرنا
تَبَحثُر: بکھرنا، برباد ہونا
بَحَّ ـَ بَحًّا و بَحاحَةً و بُحُوحَةً و بُحاحًا: آواز بیٹھ جانا، گلا خراب ہو جانا۔
بَحَّحَ تَبحِيحًا و أَبَحَّ إِبحاحًا: گلا پڑنا یا گلا خراب کر دینا۔
بُحاح: گلے کی خرابی، آواز کا بھاری پن۔
أَبَحُّ، مَبحُوحٌ: بھاری آواز والا، خراب گلے والا۔
بَحِرَ ـَ بَحَرًا: مبہوت ہونا، حیران ہونا۔
إِبحارٌ: سمندر میں سفر کرنا، جہاز کی روانگی۔
بَحرٌ: سمندر، دریا ج: بِحار
البَحرُ الأَبيَضُ: دریائے روم، بحر روم
البَحرُ الأَحمَرُ: دریائے قلزم
البَحرُ الأَطلانطِيقِيُّ، البَحرُ الأَطلانطِيُّ: بحر اٹلانٹک جو افریقہ اور امریکہ کے درمیان واقع ہے۔
البَحرُ المُحِيطُ: محیط بحر، سمندر، بحر اعظم، ساگر۔
بَحرُ الظُّلُمات: دریائے اٹلانٹک
فی بَحرِ کذا: دوران، اثناء، درمیان
بِحارَة: جہاز رانی، سمندری سفر کی مہارت، کشتی رانی، ملاحی۔
بَحرِيٌّ: سمندری، دریائی، سمندر سے متعلق، جہاز رانی سے متعلق (۲) شمالی۔
بَحّارٌ و بَحّارَة: ملاح، جہازراں
مُلحَقٌ بَحرِيٌّ: بحری اتاچی، اتاچی برائے بحری امور
نَقلٌ بَحرِيّ: سمندری ٹرانسپورٹ
بَحرِيَّة: نیوی، بحری طاقت، بحریہ۔
بَحرَةٌ: جوہڑ، کچا برساتی تالاب، گڑھا ج: بُحَرٌ و بِحار
بُحَيرَة: جھیل وتالاب ج: بُحَيرات
بُحرانٌ: ہذیان، سراسیمگی، بے ہوشی، (دیوانگی کی حالت، بیماری کی شدت کا درجہ۔

ب............خ

بَختٌ: قسمت، نصیب
فَتحَ البَختَ: قسمت بتانا
کِتابُ فَتحِ البَختِ: نجومی کی کتاب جس سے وہ لوگوں کا انکا نصیب بتاتا ہے۔
فاتِحُ البخت: نجومی، جوتشی، فال بتانے والا۔

قَلِيلُ البَخت: کم نصیب
بَخِيتٌ و مَبْخُوت: صاحب نصیب
بَخْتَرَة، تَبَخْتَر: اترانا، اترا کر چلنا
بَخَّ ـُ بَخّاً فِي النَّوم: خراٹے لینا
بَخَّ الماء: پانی ٹپکانا
بُخَيْخة: پچکاری، سرنج
بُخَيْخةُ الحَدَائِق: باغبانی کا آب پاش
بُخَيْخة رَشَّاشَة: آب پاش (حجام کا)
بُخَيْخةُ العُطُور: گلاب پاش
بَخِرَ ـَ بَخَراً: گندہ دہن ہونا، منھ کا بدبودار ہونا۔
بَخَرَ الـمَاءُ ـَ بَخْراً و بُخاراً و تَبَخَّرَ: بھاپ بننا۔
بَخَّرَ القِدْرُ: دیگچی سے بھاپ اٹھنا۔
تَبَخُّر: دھونی لینا، بھاپ بننا۔
تَبْخِير: دھونی دینا، بھاپ بنانا
بَخَرٌ: بوئے دہن، بدبو
بُخَار: بھاپ، اسٹیم گیس، ج أبْخِرَة
بُخَارِيّ: دخانی، بھاپ دار
بُخَارِيَّة: اسٹیمر، بمپر
مَا سُورَةُ البُخَار: اسٹیم پائپ
مِيزَانُ ضَغط البُخَار: دخان پیما، جو بائلر میں لگا ہوتا ہے جس سے بھاپ کے دباؤ کی مقدار معلوم ہوتی ہے۔ ویپرومیٹر، بھاپ پیما، اسٹیم دیکھنے کا آلہ
وَابُور بُخَارِيّ: اسٹیم انجن
سَفِينَة بُخَارِيَّة: دخانی کشتی، اسٹیمر
القُوَّةُ الدُّخَانِيَّة: اسٹیم پاور، دخانی طاقت
بَخُور: دھونی ج: أبْخِرَة و بَخُورَات

بَاخِرَة ج: بَوَاخِر: اسٹیمر، دخانی جہاز
بَاخِرَة ج: بَوَاخِر: اسٹیمر، دخانی جہاز
بَاخِرَةُ البَضَائِع: مال بردار جہاز
بَاخِرَةُ التَّجَسُّس: جاسوسی جہاز
بَاخِرَةُ شَحن: بار برداری کا جہاز
مِبْخَرَة: (۱) دھونی دان ج: مَبَاخِر (۲) بھاپ کے ذریعہ صفائی کا آلہ
مِبْخَرَة: عوددان
بَخَسَ ـَ بَخْسًا: قیمت گرانا، کم کرنا
بَخَسَه حَقَّه: حق تلفی کرنا، ناانصافی کرنا
بَخَسُ قِيمَة: قیمت کم کرنا
بَخَصَ عَيْنَه ـَ بَخْصًا: آنکھ نکالنا
بَخَعَ نَفْسَه ـَ بَخْعًا: غم یا غصہ سے اپنے آپ کو گھلانا، ہلاک کرنا۔
بَخَقَ عَيْنَهُ ـَ بَخْقًا: آنکھ پھوڑنا
بَخُلَ ـُ بُخلاً بَخِلَ ـَ بَخلاً و بُخلاً و بُخُولاً: کنجوس ہونا

ب..........د

بَدَأَ ـَ بَدْأً و ابْتَدَأَ: شروع کرنا، آغاز کرنا، افتتاح کرنا۔
بَدَّأه تَبْدِئَة: مقدم کرنا، ترجیح دینا
بَادَأه مُبَادَأَة: پہل کرنا
___ بِالشَّرّ: جھگڑے کی ابتدا کرنا، چڑھائی کرنا۔
___ بِالكَلَام: گفتگو کی ابتدا کرنا، گفتگو میں پہل کرنا۔
بَدْء، بَدَاءَة، اِبْتِدَاء: آغاز، اول، شروع، اسٹارٹنگ، ابتداء۔
بَدَأَ اسْمُه يَخْبُو: اس کا نام مٹنے لگا۔

بَدَأ سِلسِلةً من الإنفِجارات: اس نے برسناشروع کردیا۔
بَدْءُ نَشَاط: سرگرمی جاری کرنا
بَدَأتِ الجَامِعَة بالإعْدادِ لِهٰذَا المُؤتمر: جامعہ نے اس کانفرنس کی تیاری شروع کر دی۔
بَدأت اللّجنَة عَملَها: کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا۔
بَدأتِ المُباحَثاتُ برِئاسةِ فُلاَن: فلاں کی صدارت میں بات چیت شروع ہوئی۔
بَادِئٌ: پہل کرنے والا، اول، آغاز کنندہ
بَادِئ ذِی بَدْء: شروع میں
البَادِئ بالشرّ: حملہ آور، چڑھائی کرنے والا
بَدَائِیّ: اصلی، بنیادی
إبتِدَائِیّ: پرائمری، ابتدائی
شَهادَة إبتِدَائِیة: پرائمری سارٹیفکٹ
مَدرَسة إبتِدَائِیَة: پرائمری اسکول
مَبْدَأ: اصول، قاعدہ، بنیاد، اصل، سرچشمہ
ج: مَبَادِئ
مَبادِئ: اصول و مَبدَأ
مَبادِئ تَوجِیهِیَّة: رہنما اصول
مَبَادِئُ الحِزْب: پارٹی کے اصول، جماعتی اصول
مَبادِئُ دِیمُقرَاطِیَّة: جمہوری اصول
مَبادِئُ عَدمِ الإنحِیاز: غیر جانبداری کے اصول
مَبادِئُ للتَّوجِیه والإرْشاد: رہنما خطوط
مَبَادِئُ النِّقَابَة: یونین کے اصول وضوابط
صَاحِبُ المَبدَأ: خاص اصول کا مالک، با اصول، صاحب اصول، اصول پسند
سَامِی المَبَادِئ: بلند اصول انسان
مَبَادِئُ العُلُوم: علم وفن کے بنیادی اصول
إعْتِنَاقُ المَبادِئ: اصول اپنانا
إنطِلاقاً مِنَ المَبادِئ: اصول کے تحت
مَبْدَئِی: بنیادی، اصولی، قانونی
مَبدَئِیاً: اصولی طور پر، بنیادی طور پر
بَدَّدَ تَبدِیداً: بکھیرنا، منتشر کرنا، برباد کرنا
تَبَدَّد: بکھر جانا، برباد ہو جانا
تَبدُّدُ النُّفُوذ: اقتدار مٹنا
تَبدِیدُ الإشَاعَات: افواہوں کی تردید کرنا
تَبدِیدُ الشُّکُوک: شبہات دور کرنا
تَبدِیدُ المَخَاوِف: خدشات دور کرنا
تَبدِیدُ النَّوَایَا: ارادوں پر پانی پھیرنا،
إستِبدَاد: مطلق العنان ہونا، خودمختار وخود رائے ہونا، مطلق العنانی، اقتدار پسندی، ظلم، ڈکٹیٹرشپ
إستِبدَادِیّ: ڈکٹیٹرانہ، ظالمانہ، مستبدانہ (۲) ڈکٹیٹر، ظالم وجابر
مُستَبِدّ: مطلق العنان، ظالم، خودرائے، ڈکٹیٹر، اقتدار پسند، جابرانہ، بے قاعدہ، بے اصول، ظالمانہ
بُدّ: چارۂ کار، چھٹکارا، خلاصی، حصہ
بِدَایَةُ الطَّرِیق: ابتدائی مرحلہ
بِدَایَةُ مَعَالِمِ الشئ: آثار نظر آنا
لابُدَّ مِنْ کُلِّ بُدّ: ضرور، یقیناً
لابُدَّ منه: ضروری، لازمی
بَدَرَ بُدُوراً الی: جلدی کرنا، دوڑنا
بَدَّرَ تَبدِیراً و بَادَرَ مُبادَرَة: عجلت کرنا،

سبقت کرنا، دوڑنا
بَدْرٌ: مہ کامل ج: بُدُوْر
بَدَارِ: جلدی کر
بَادِرَة ج بَوَادِرُ: مظہر، بدیہی چیز علامت
البَادِرَة الوُدِّيَّة: دوستانہ علامت
مُبَادَرَة: پہل، اقدام، نئی کوشش، پیغام، نیا قدم، نیا مشن
مُبَادَرَة الى: پیش قدمی کرنا
مُبَادَرَة بكذا: تجویز
مُبَادَرَة بالهُجُوم: حملہ میں پہل کرنا
مُبَادَرَةُ رَاجَرْس: راجرس مشن
مُبَادَرَةُ السَّلَام: امن مہم، امن مشن، امن اقدام۔
مُبَادَرَة لازِمَة: ضروری اقدام
مُبَادَرَات: شروعات، اقدامات
بَوَادِرُ: آثار، علامات، و بَادِرَةً
بَوَادِرُ تَمْهِيدِيَّة: ابتدائی آثار
بَوَادِرُ الخِلَاف: مخالفت کی علامتیں، آثارِ مخالفت۔
بَيْدَرُ الحِنْطَة: گیہوں کا کھلیان ج: بَيَادِرُ
بَدَعَ ـَ بَدْعًا و إِبْتِدَاع: ایجاد کرنا، گھڑنا، نئی بات پیدا کرنا۔
إِبْدَاع: بنانا، پیدا کرنا، کمال دکھانا ایجاد، اختراع
إِبْدَاعِيّ: جدت پسند
بَدْعٌ و إِبتداعٌ: اختراع، ایجاد
بَدِيع: عجیب، عمدہ، موجد، خالق، اچھا، اچھوتا ج: بَدائع

بَدُعَ ـُ بَدَاعَةً و بُدُوْعًا: باکمال ہونا
بَدَلَ ـُ بَدْلاً و بَدَّلَ تَبْدِيْلاً و أَبْدَلَ إِبْدَالاً: بدلنا، تبادلہ کرنا، باری باری کرنا
بَادَلَ الشيء مُبَادَلَةً: تبادلہ میں لینا
إِسْتِبْدَال: تبدیل کرانا، ایکسچینج
تَبَادُلُ الآرَاء: تبادلہ خیال کرنا
تَبْدِيْل: تبادلہ کرنا، ادلہ بدلہ کرنا، چینجنگ
تَبْدِيْلُ السُّرْعَة: انجن کا گیر لگانا
بَدَلٌ: عوض، متبادل
بَدَل: الاؤنس، معاوضہ، بدلہ، تبدیلی
بَدَلُ الإِشْتِرَاك: خریداری، اخبار یا رسالہ کی قیمت، اخباری چندہ
بَدَلُ إِقَامَة: کرایہ قیام، وظیفہ خورد ونوش، الاؤنس جو خورد ونوش کے لئے دیا جائے
بَدَلُ إِنْتِقَال: سفر الاؤنس، ٹی۔اے
بَدَلُ سَفَر: کرایہ سفر، سفر الاؤنس
بَدَلُ سَكَن: رہائشی بھتہ، رہائشی الاؤنس (۲) کرایہ مکان
بَدَلُ مَيْدَان: فیلڈ الاؤنس
بَدَلاً من كذا: بجائے اس کے
بَدَلات و بَدَل: الاؤنس
بَدْلَة: یونیفارم، سوٹ
بَدْلَةُ ثِيَاب: کپڑوں کا جوڑا، سوٹ ج: بَدَلات
بَدْلَةُ رِجَال: مردانہ سوٹ
البَدْمِنْتُن: بیڈمنٹن
بِدَالٌ (مِدْوَسٌ): پیڈل
بَدَّال: (۱) صراف، سکہ بدلنے والا، (۲) اشیائے خوردنی فروخت کرنے والا۔

بَدِیلُ شیٍ: متبادل، بدل
بَدِیلٌ صَالِحٌ: نعم البدل
بَدَّالَةُ التِلِیفُون: ٹیلیفون ایکسچینج
تَبَادُل و مُبَادَلَة: لین دین، تبادلہ، ادلا بدلا
تَبَادُلُ الآرَاء: خیالات کا تبادلہ
تَبَادُلُ اَرضٍ: زمین کا تبادلہ
تَبَادُلُ اَسرَی الحَرب: جنگی قیدیوں کا تبادلہ
تَبَادُلُ الاَفکَار: خیالات کا تبادلہ
تَبَادُلٌ ثَقَافِیٌّ: ثقافتی تبادلہ
تَبَادُلُ التَمثِیلِ الدِبلُومَاسِیِّ: سفارتی نمائندگی کا تبادلہ
تَبَادُلُ الخَوَاطِر: تبادلہ خیال کرنا
تَبَادُلُ کَلِمَاتِ التَرحِیب: ایک دوسرے کو خوش آمدید کہنا۔
تَبَادُلُ وِجهَاتِ النَظر: تبادلہ خیالات
تَبَادُلُ مُذَکِّرَات: خطوط کا تبادلہ
تَبَادُلُ النَظَرَات: آنکھوں آنکھوں میں بات کرنا
تَبَادُلُ نَقدٍ: مبادلہ زر
مُبَادَلَة: تبادلہ، ایکسچینج، مبادلہ
مُبَادَلَةٌ دَاخِلِیَّةٌ: ملکی ایکسچینج
مُتَبَادَل: مشترک، عام رائج، باہمی
بَدُنَ ـُ بَدَانَةً و بَدَانًا: بھاری جسم ہونا موٹے بدن کا ہونا
بَدَنِیّ: جسمانی
رِیَاضَة بَدَنِیَة: ورزش
عُقُوبَة بَدَنِیَّة: جسمانی سزا
بَدَانَة: موٹا پن، موٹاپا
بَدِین: موٹا، بھاری جسم کا
بَدَهَ ـَ بَدهاً: اچانک آنا
بَدَهَ ـَ بَدَاهَةً و ابتَدَهَ: برجستہ بولنا
بَدَاهَة: برجستگی، بے ساختگی
بَدِیهِیٌّ: ظاہر، واضح محتاجِ بیان نہیں
بَدوٌ: جنگل، دیہات، دیہاتی پن، گنوار پن
بَدَوِیّ: دیہاتی، غیر متمدن، غیر مہذب
بُدُوٌّ (ن): ظاہر ہونا، روشن ہونا
بَدَالِلفِکر ـُ بُدُوًّا: ذہن میں آنا
اِبدَاء مُبَادَاة: ظاہر کرنا
تَبَدَّی: ظاہر ہونا، دیہاتی زندگی اپنانا
بَادٍ: ظاہر، روشن، واضح
بَدَاوَة: بے تمدنی، ناشائستگی
بادیة: جنگل ج: بادیات، بَوَادٍ

ب .... ذ

بَذَأَ ـَ بَذءً و بَذَاءً: ناپسند کرنا، مذمت کرنا
بَذِيٌّ: برا، ناپسندیدہ
بَذِیُّ اللِسَان: بدزبان، بدکلام
بَذَاءَة: برائی، بدزبانی، بدکلامی
بَذَخَ ـَ بَذخاً: بلند ہونا، تکبر کرنا
بَاذِخ: بلند
بَذَّ ـُ بَذًّا: غالب ہونا، فوقیت لے جانا
بَذَّ ـَ بَذَاذًا و بَذَاذَةً: (س) بدحال ہونا
بَذَاذَة: پراگندگی، شکستہ حالی، گندگی
بَذَرَ الحَبَّ ـُ بَذرًا: (۱) بونا، بیج ڈالنا، تخم ریزی کرنا (۲) مال کو فضول خرچ کرنا
بَذر: بیج ج: بُذُور: نسل، گٹھلی
بَذَّرَ تَبذِیرًا: فضول خرچ کرنا
بَذَلَ ـُ بَذلاً: خرچ کرنا

بَذَلَ نَفْسَه: جان کی بازی لگانا، قربانی دینا
بَذَل. وُسْعَه: کوشش کرنا، جدوجہد کرنا
بَذُل. و اِبْتِذَال: ناجائز استعمال کرنا، غلط طور پر خدمت لینا، حقارت سے کام لینا
بَذْلٌ: خرچ، داد ودہش، قربانی، قربانی کرنا
بَذْلُ أَقْصَى جُهُوْدِ: آخری سے آخری کوشش کرنا
بَذْلُ التَّضْحِيَات مِنْ اَجْل تَحْقِيْق الأَهْدَاف: مقاصد کی تکمیل کے لئے قربانی دینا۔
بَذْلُ الذَّات: تن دہی، جاں بازی
بِذْلَةُ ثِيَاب: سوٹ، کپڑوں کا جوڑا
بِذْلَةُ السَّهْرَةِ: شام کا لباس
بِذْلَةُ العَمَل او الشُّغل: اوپری پوشاک جو بوقت کام پہنی جاتی ہے
بِذْلَة رَسْمِيَّة: سرکاری وردی
بِذْلَة حُكُوْمِيَّة: سرکاری یونیفارم
بِذْلَة مَلَكِيَّة: شاہی لباس
بِذْلَة نِظَامِيَّة: یونیفارم
بَذْلُ الدَّم: خون دینا، جان دینا، قربانی دینا
بَذْلُ المُحَاوَلَات: کوشش کرنا
مُبْتَذَل: حقیر، مستعمل، پرانا، ریڈی میڈ

ب .... ر

بَرَأَ ــ بَرْأ: پیدا کرنا
بَرِئَ المَرِيْضُ ــ بُرْءًا: صحت یاب ہونا
بَرِئَ الجُرْحُ: زخم بھرنا، اچھا ہونا
بَرِئَ من كذا: بری الذمہ ہونا سبکدوش ہونا، گناہ یا جرم سے پاک ہونا
بَرَّأَه تَبْرِئَة: بری کرنا، بے گناہ قرار دینا

تَبْرِئَة و اِبْرَاء: سبکدوش کرنا، بے قصور ٹھیرانا، بیمار کو شفا دینا
تَبَرَّأَ من: دست بردار ہونا، نجات پانا، ناپسند کرنا، اظہارِ براءت، بچنا
بُرْءٌ و بُرُوْءٌ: شفا، صحتیابی
بَرَاءَة: معصومیت (۲) سند، ڈپوما، خلاصی، چھٹکارا صفائی، لائسنس
بَرِئ: پاک، سبکدوش، دست بردار، شفایاب، صحت یاب
بَرِئ: معصومانہ
بَرِيْ ج أَبْرِيَاءُ: بے گناہ، معصوم،
بَرِيَّة: مخلوق ج: بَرَايَا
بَارِئ: خالق
اِبْرَاء و تَبْرِئَة: سبکدوشی، ڈسچارج
بَرْبَرَة: بڑبڑانا، بک بک کرنا، جھک کرنا، فضول باتیں کرنا
بَرْبَرَةٌ: وحشی، مغربی افریقہ کی ایک قوم
بَرْبَرِيَّة: وحشی پن
بُرْتُغَال (مع): پرتگال
بُرْتُقَالٌ: بُرْتُقَان: سنگترا، نارنگی
شَرَابُ البُرْتُقَال: شربتِ سنترہ
عَصَّارَةُ البُرْتُقَال وغیرہ: رس نکالنے کا آلہ
بُرُتُكُوْل: (مع) پروٹوکول
بُرْثُنٌ: پرندہ کا پنجہ ج: بَرَاثِنُ
بَرَاثِنُ الإِسْتِعْمَار: سامراجی پنجے
بُرْجٌ: قلعہ، محل، گنبد ج: بُرُوْج
بُرْجٌ: ٹاور، برج ج: أَبْرَاجٌ
بَارِجٌ: ماہر جہاز رانی، ماہر ملاح

بَـارِجَة: مسلح جہاز، جنگی جہاز، میدان جنگ ج: بَوَارِجُ

بَـارِجَةُ أمِيرِ البَحْرِ: جہاز جس پر امیر البحر کام کر رہا ہو

تَبَرَّج: عورت کا سنگار کرنا

بَرْجَلٌ: (دا) پرکار، دائرہ کش

بُرْجُمَةٌ: انگلی کا جوڑ ج: بَرَاجِمُ

بَرِحَ المَكَانَ و منه ـ بَرَحًا: الگ ہونا

مَابَرِحَ: لگاتار، برابر

بَرَّحَ تَبْرِيْحًا: تھکانا، پریشان کرنا

بَرَّحَ به الأَمْرُ: تکلیف میں مبتلا کرنا

بَرَاح: کشادہ زمین، فراخ جگہ

البَارِحَة: روزِ گذشتہ، شب گذشتہ

أوَّلُ البَارِحَة: پرسوں گذشتہ

مُبَرِّحٌ: اذیت رساں، سخت

أَلَم مُبَرِّح: سخت درد

بَرُدَ ـُ بُرُوْدَة و بَرَدَ ـُ بَرْدًا و بُرُوْدًا: ٹھنڈا ہونا، سردی لگنا، زکام ہونا

بَرَدَ ـُ بَرْدًا و بَرَّدَ و أَبْرَدَ: ٹھنڈا کرنا، حوصلہ پست کرنا

بَرَدَتْ هِمَّتُه: حوصلہ پست ہونا

بَرَّدَهِمَّتَه: حوصلہ پست کرنا

بَرَدَ الحَدِيْدَ ـُ بَرْدًا: ریتنا، ریتی کرنا

إِبْرَاد: ڈاک بھیجنا، ڈاک سے بھیجنا

بَرْدٌ: سردی

بَرَدٌ: اولہ و :بَرَدَة

بَرَّاد: (دا): فلٹر، ٹھیک بٹھانے والا (آلہ)

بَرَّادُ الشَّاي: چائے دان، ٹی پاٹ

بَرَّاد (وِعَاء لتَبْرِيْدِ السَّوَائل): (واٹر) کولر

بَارِد: کولڈ، ٹھنڈا

بَرَّادَة: ریفریجریٹر، ٹھنڈا کرنے کی مشین

بَرَّادِيَّة: (دا) واٹر کولر، پانی ٹھنڈا کرنے کا بکس

بُرَادَة: لوہے کا برادہ

بَرُوْد: پٹاخوں وغیرہ کا بارود

بَرُوْدَة و بَارُوْدَة: رائفل، بندوق

بَرِيْدٌ: (۱) قاصد (۲) ڈاک (۳) پوسٹ مین

بَرِيْدٌ بَحْرِيٌّ: بحری ڈاک

بَرِيْدٌ جَوِّيٌّ: ایرمیل، ہوائی ڈاک

بَرِيْدٌ صَادِرٌ: جانے والی ڈاک

بَرِيْدٌ عَادِيٌّ: معمولی ڈاک

بَرِيْدٌ مُسَجَّلٌ: رجسٹرڈ میل

بَرِيْدٌ وَارِدٌ: آنے والی ڈاک

أُجْرَة البَرِيْد: پوسٹیج، محصول ڈاک

خِدْمَاتُ البَرِيْد: میل سروس

طَابَعُ البَرِيْد: ڈاک ٹکٹ، اسٹامپ

صُنْدُوْقُ البَرِيْد: لیٹر بکس

خَتْمُ البَرِيْد: ڈاک مہر

مَصْلَحَةُ البَرِيْد: محکمہ ڈاک

مَكْتَبُ البَرِيْد: پوسٹ آفس

بَرِيْدِيّ: ڈاک کا، ڈاک خانہ کا

بَـارِدٌ: (۱) ٹھنڈا (۲) سست و کاہل (۳) بے حس (۴) کند

بَارِدُ الطَّبْع: نرم و مزاج، ٹھنڈے مزاج کا

مِبْرَدٌ: ریتی ج: مَبَارِدُ

مِبْرَدُ النَّجَّار: رندا

مِبْرَدٌ أُقْطُش: کند ریتی یا رندا

مِبْرَدٌ مُنكَّث: خم دار رندا

مِبْرَدُ نِصْفِ دَائِرَة: کماندار رندا

مُبَرِّد: خوشگوار، ٹھنڈا کرنے والا
المُبَرِّد: واٹر کولر، کولر، ریفریجریٹر
بِرْذَوْن: بار برداری کا گھوڑا ج: بَرَاذِين
بَـرَّرَ تبریرًا: جائز قرار دینا، سبکدوش کرنا، بری قرار دینا
تبْـرِیـر: صفائی، معصومیت، کسی کی طرف سے صفائی پیش کرنا، بے گناہ، ثابت کرنا، جائز قرار دینا۔
تَبْـرِیـرُ الـعَـمَـلِیَّةِ الإجْرَامِیَّة: مجرمانہ کارروائی کو جواز کا رنگ دینا۔
تَبْرِیْرٌ مَفْلُوجٌ: غدر لنگ
یُبَرَّرُ: لائقِ عفو، قابلِ معافی
لَا یُبَرَّرُ: نا قابلِ عفو
مُبَرِّرٌ: عذر، وجہِ جواز، سبب ج: مُبَرِّرَات
المُبَرِّرُ الکَافِي: بڑا جواز
مُبَرِّرَات: بہانے، صفائیاں
بَرَّہ ـِ بِرًّا: اطاعت کرنا، حسنِ سلوک کرنا، اچھا برتاؤ۔
بَرَّ فی قَوْلِہِ: ٹھیک بات کہنا، سچ بولنا
بَرَّ فِی الیَمِیْن: قسم پوری کرنا
بِرٌّ: نیکی، حسنِ سلوک، اطاعت، احسان
بُرٌّ: گیہوں
بَرٌّ: خشکی
نَقْلٌ بَرِّیٌّ: زمینی ٹرانسپورٹ
بَرٌّ و بَارٌّ: نیک، فرمانبردار، صالح
بَرًّا: (۱) خشکی کے راستہ سے، (۲) باہر
بَرًّا وبَحْرًا: بحر وبر سے
بَرَّانِی: بیرونی، اجنبی، خارجی
بِلَادُ البَرِّ: بیرونی ممالک

مَبَرَّة: نیکی احسان ج: مَبَرَّات
بَـرَزَ ـُ بُرُوزًا، بَرِزَ ـَ بَرَزًا: ظاہر ہونا، نمایاں ہونا، ممتاز ہونا، مشہور ہونا، ابھرنا
بَرَزَ علی غیرہ ـُ بَرَازَةً: فوقیت لیجانا
بَارَزَہ مُبَارَزَةً: مقابلہ کرنا
إِبْرَاز: ظاہر کرنا، نمایاں کرنا، نکالنا، پیشکش
إِبْرَازُ الحَقِیْقَة: اظہارِ حقیقت
تَبَرَّزَ: پاخانہ کرنا
بِرَازُ الإِنْسَان: پاخانہ، لید وغیرہ
بُرُوْزٌ (ن): ابھار، نمایاں ہونا
بُرُوْزُ العُرُوْقِ فِی الأَیْدِی النَّحِیْلَةِ: نازک ہاتھوں کی رگیں دکھائی دینا۔
بُرُوْز: ابھار، نمود
مُبَارِز: مقابل، مردِ میدان، جنگلی
مُبَرِّز: نمایاں، ممتاز
مُبَارَزَة: مقابلہ
بَرْزَخ: خاک نائے
بُرْش: پاندان
بَرْشَمَ فیہ بَرْشَمَةً: گھورنا
بَرْشَمَ الشَّیْئَ: سیل لگانا، کیل لگانا، مضبوط بند کرنا
آلَةُ البَرْشَمَة: کیل لگانے کی مشین
بَرَشُوْت: (مع) پیراشوٹ، فوجی چھتری
بَرَشُوْتِی: چھاتہ بردار سپاہی
بَرِصَ ـَ بَرَصًا: برص میں مبتلا ہونا
بَرَصٌ، أَبُوبُرَیْص: چھپکلی
بَرْطَلَة: رشوت دینا
تَبَرْطَل: رشوت لینا
بُرْطُلَة: چھتری

مُبَرْطَلٌ: چھت دار
بَرْطَمَة: غصہ سے پھول جانا، غصہ سے ہونٹ نکالنا
بَرْطمان: مرتبان
بَرِيطَانِيَا العُظمىٰ: برطانیہ عظمیٰ
بَرِيطَانِيَة: برٹش، برطانیہ
بَرَعَ ـــَــ و بَرِعَ ـــَــ و بَرُعَ ـــُــ بَرَاعَةً و بُرُوعًا: صاحبِ کمال ہونا، ماہر ہونا
تَبَرَّع فِي: کمال حاصل کرنا، مہارت پیدا کر لینا
تَبَرَّع بشيء: چندہ دینا، خیرات کرنا
بَارِع: ماہر، باکمال
بَرَاعَة: کمال، مہارت
بَرَاعَةٌ إدَارِيَّة: انتظامی مہارت
البَرَاعَة العَسْكَرِيَّة: فوجی مہارت
تَبَرُّع ج: تَبَرُّعَات: چندہ، عطیہ، چندہ دینا
تَبَرُّعًا: مفت، بلا قیمت
تَبَرُّعَاتٌ تَطَوُّعِيَّة: رضا کارانہ چندہ
مُتَبَرِّع: چندہ دہندہ، عطیہ دہندہ
بَرْغَثَ المَكَانُ بَرْغَثَةً: کسی جگہ پسو پڑنا
بُرْغُوثٌ: پسو ج: بَرَاغِيثُ
بُرْغِيٌّ: پیچ ج: بَرَاغِيُّ
مِسْمَارٌ بُرْغِيٌّ: پیچ دار کیل
بَرَقَ ـــُــ بَرْقًا و بُرُقًا و بَرَقَانًا و بَرِيقًا: چمکنا، ظاہر ہونا
بَرَقَتْ و أَبْرَقَت السَّمَاءُ: آسمان میں بجلی چمکنا
إبْرَاق إلى: تار دینا، برقیہ روانہ کرنا

بَرْقٌ: بجلی، چمک، ٹیلی گراف
البَرْقُ اللَّاسِلْكِيّ: وائرلیس، ٹیلی گراف،
بَرْقِيّ: بجلی سے متعلق، بجلی کا
بَرْقِيًّا: بذریعہ تار
بَرْقِيَّة: ٹیلی گرام، تار ج: بَرْقِيَّات
بَرْقِيَّة بالشِّفْرَة: کوڈڈ ٹیلی گرام
بَرْقِيَّةٌ جَوَابِيَّة: جوابی تار
بَرْقِيَّةٌ غَيْرُ مُسْتَعْجَلَة: معمولی تار
بَرْقِيَّةٌ لا سِلْكِيَّة: وائرلیس ٹیلی گرام
بَرْقِيَّةٌ مُسْتَعْجَلَة: ارجنٹ تار
بَرْقِيَّةٌ مُمَاثِلَة: ویسا ہی تار، سابق جیسا
بَرْقِيَّةٌ مُؤَجَّلَة: میعادی تار
بَرْقِيَّاتُ عَزَاء: تعزیتی تار
بَرَّاق: چمکدار، چمکیلا، بھڑکدار
عُيُونٌ بَرَّاقَة: چمکدار آنکھیں
بَارِقَة: بجلی والا بادل، کرن
بَارِقَةُ أَمَلٍ: شعاعِ امید، امید کی کرن
بَرِيق: آب و تاب
إبْرِيقٌ: لوٹا، جگ ج: أَبَارِيقُ
إبْرِيقٌ أُسْطُوَانِيُّ الشَّكْلِ: جگ
إبْرِيقُ الشَّاي: کیتلی، ٹی پوٹ
إبْرِيقُ القَهْوَة: کافی پوٹ
إبْرِيق وطَشْتٌ: لوٹا سلفچی
مُبْرِقَة، آلَةُ التِلغرَاف: ٹیلی گراف
المُبْرِقَةُ المُبَاشِرَةُ: ٹیلکس
بَرْقَشَة: رنگنا، رنگوں سے آراستہ کرنا
مُبَرْقَش: رنگین، آراستہ
بُرْقُع: نقاب، برقع، ج: بَرَاقِع
بُرْقُوق: آلوچہ، آلو بخارا، شفتالو

بَرَکَ ـُ بُرُوکًا و تَبرَاکًا : قیام کرنا، اونٹ کا بیٹھنا
بَرَکَ الماءُ فی الأرض: پانی جمع ہونا
بَرَّکَ و أبرَکَ الجملَ: اونٹ کو بٹھانا
بَارَکَ له و فیه و علیه مُبارَکةً: برکت دینا
تَبَرَّکَ و تبارَکَ به: برکت حاصل کرنا، نیک شگون لینا
تبارَکَ: بلند وباعظمت ہونا
بَرَّکه تبریکًا: مبارکباد دینا، برکت کی دعا کرنا
بُرکَان ج: بَرَاکِینُ: آتش فشاں، کوہ آتش فشاں
بُرکَانٌ ثائرٌ: آتش فشاں پہاڑ جس سے لاوا ابل رہا ہو
بُرکَانٌ ثائرٌ هادِرٌ: زبردست لاوا پھینکنے والا آتش فشاں
بُرکَانٌ خَامِدٌ: جس کا لاوا نکلنا بند ہوگیا
بُرکَانٌ سَاکِنٌ: جس سے لاوا نہ نکل رہا ہو
فُوهَةُ البُرکان: دہانہ آتش فشاں پہاڑ
مَقذُوفاتُ البُرکان: لاوا، آتشیں مادہ جو پہاڑ سے نکلتا ہے
بُرکَانِیٌّ: آتش فشاں پہاڑ کا
بِرکَة ج: بِرَک: حوض، تالاب، گڑھا
مُبارَک: خوشگوار، بابرکت
مُبارَکَةُ شیءٍ: سراہنا
بَارَکَ جُهُودَه مُبارَکَةً: خراجِ تحسین، پیش کرنا، سراہنا
بِرکَارٌ: پرکار (مع)
بَرلَمان: پارلیمنٹ
البَرلَمانُ السَّلِیمُ: صاف ستھری پارلیمنٹ
البَرلَمانُ المَحَلِّیُّ فی الوِلَایة: صوبائی پارلیمنٹ
إنتِخابات بَرلَمانِیة: پارلیمنٹ کے انتخابات
بَرَمَ ـُ بَرمًا و أبرَمَ الحَبلَ: بٹ دینا
بَرَمَ الأمرَ: مضبوط و مستحکم کرنا، برقرار رکھنا
بَرِمَ ـَ بَرَمًا و تَبَرَّمَ: تنگ دل ہونا
بَرمٌ و إبرَام: پختہ کرنا، مضبوط کرنا، استحکام و مضبوطی
إبرَامُ إتِّفاق: معاہدہ کرنا
إبرَامُ صَفقَة: سودا کرنا
بَرِیمَة: برما، سوراخ کرنے کا اوزار، ھیچکیش
بَرِیمَة لِفتحِ الزُّجاجات: ڈاٹ کھولنے کا پیچ
إبرَامُ المُعاهَدَة و الإتِّفاق: برقراری معاہدہ، استحکامِ معاہدہ
تَبَرُّم: تنگ دلی، ناگواری
التَّبَرُّمُ بشیءٍ: اکتاہٹ، ناگواری،
مُبرَمٌ: مضبوط، مستحکم
قَضاءٌ مُبرَمٌ: اٹل فیصلہ، تقدیر الٰہی
بِرمِیل ج: بَرامِیلُ: بیرل، ڈرام، تیل کا پیمانہ، پیپا، کنستر
نِصفُ البرمِیل: ٹب
بَرامِجُ التَّدرِیب: ٹریننگ پروگرام
بَرامِجُ التَّنمِیة: ترقیاتی پروگرام
بَرامِجُ الدِّراسَة بالمُراسلات: مراسلاتی کورس
البَرانْدِی (شَرابٌ مُسکِرٌ): برانڈی

بَرْنَامج: ایجنڈا، پروگرام، فہرست ج: بَرَامِج
بَرْنَامِج إصلاحِيّ: اصلاحی پروگرام
بَرْنَامج الدّراسة او التّعليم: نصابِ تعلیم
بَرْنَامج ذُو النّقاط العِشرِين: بیس نکاتی پروگرام
بَرْنَامج الغِذاء العَالَمِيّ: عالمی غذائی پروگرام
بَرْنَامج مَحَلِّيّ: مقامی پروگرام
بَرْنَامج المُرَاجعَة: آڈٹ پروگرام
بَرْنَامج المُسَاعَدَة الخارِجيَّة: بیرونی امداد کا پروگرام
برنس: (مع) پرنس، امیر، شہزادہ
بُرْنيطة ہیٹ (مع)
بُرْنيطَةُ اللّمبة: لمپ شیڈ
بُرْهة: وقت، پیریڈ، لحہ، تھوڑی دیر
بَرْهَنَ الشيء وعليه: دلیل قائم کرنا
بَرْهَنَةٌ على الوَطَنِيَّة: شہریت کا ثبوت پیش کرنا
بُرْهِيٌّ: تیز رفتار
بُرُوتُوكُول: دستاویز، معاہدہ، متعینہ طریقہ کار
بَرْوَزَة: (دا) فریم کرنا، چوکٹھا لگانا
بِرْواز: چوکھٹا، فریم (دا)
بُرُوفَةُ المَطْبُوعات: پروف
بَرَى القَلَمَ وَغيرہ ــِ بَرْيًا: تراشنا، چھیلنا، دُبلا کرنا، ہڈیاں نکالنا
بَارَاه مُبَارَاةً: مقابلہ کرنا، میچ کرنا
تَبارٍ: باہم مقابلہ، تسابق
إنْبراء: سامنے آنا، مقابلہ پر آنا، چیلنج کرنا

بَرِي: مٹی
بَرّاءَة، مِبْراة: قلم تراش، پنسل تراش
مُبارَاة: میچ، ٹورنامنٹ، مقابلہ
مُبارَاة: مقابلہ، میچ، میچ کرنا
المُبارَاة النِهائِيَّة: فائنل میچ
بَرِيطانِيا: برٹش، برطانیہ

ب.........ز

بَزَرَ ــُ بَزْرًا: بیج ڈالنا
بِزْر و بِزْرَة: بیج، تخم ج: بُزُوْر
بَزْرَاء: کثیرالاولاد عورت
بَزَّ ــُ بَزًّا و بِزَّةً منه: چھیننا، زبردستی لینا
بِزَّة: کپڑوں کا جوڑا، ڈریس، ہیئت، یونیفارم
بِزَّة عَسْكَرِيَّة: فوجی وردی
بَزّاز: پارچہ فروش، کلاتھ مرچنٹ
بَزّازَة الأَطْفَال: بچے کی دودھ پینے کی شیشی (رَضَّاعَة)
إبْتِزاز: لوٹ کھسوٹ
الإبْتِزاز التَهْدِيدِيّ: بلیک میل
إبْتِزازُ المَالِ بتَهْدِيد: بلیک میل کرنا
بَزَغَ ــُ بُزُوغًا: طلوع ہونا، روشن ہونا
بَزَقَ ــُ بَزْقًا و بُزَاقًا: تھوکنا
بُزَاق: تھوک
بَزّاقه، مِبْزَقَة: پیکدان، اگالدان ج: مَبازِق
بَزَلَ ــُ بَزْلًا: سوراخ کرنا، برمانا
بَزَلَ الزُجاجة: شیشی کی ڈاٹ کھولنا
بَزّال: ڈرام یا پیپے کی ٹینٹو
بِزَال: بوتلوں کی ڈاٹ کھولنے کا پیچ
مِبْــزَل: ٹروکر، ایک خاص قسم کا طبی آلہ جس کے ذریعہ مریض استسقاء کے جسم

۔۔رطوبت نکالی جاتی ہے

بَزِیٌّ: ۔۔۔ ہ شریک بھائی

بَازِیٌّ: باز، شکاری پرندہ

ب .... س

بُسْتَانٌ: باغ ج: بَسَاتِینُ

بُسْتَانِیٌّ: باغبان، مالی، گارڈنر

بَسَرَ الخبرَ ـُ بَسْرًا وَابْتَسَرَ: قبل ازوقت خبر دینا۔

بَسَرَ ـُ بُسُوْرًا: ترش رو ہونا، چہرہ پر شکن پڑنا

بُسْرٌ: ناپختہ کھجور

مُبْتَسَرٌ: قبل ازوقت، بے موسم

بَسَّ ـُ بَسًّا: اونٹ کو آہستہ چلانا، دھتکارنا

بَسٌّ و بَسَّةٌ: پوسی، بلی

بَسْ: بس، کافی ہے، فقط

بَسَطَ ـُ بَسْطًا: پھیلانا، کشادہ کرنا، بچھانا، وسعت دینا، ظاہر وواضح کرنا، ہاتھ پھیلانا

بَسَطَ المَائِدَةَ: دسترخوان بچھانا

بَسَطَ یَدَہٗ: سخاوت کرنا، فراخ دستی کرنا

بَسَطَ الرَّجُلَ: خوش کرنا

بَسَطَ و بَسَّطَ الحَدِیْدَ: لوہے کو کوٹنا

بَسَطَ و بَسَّطَ الأَمْرَ: آسان وسہل کرنا

بَسْطُ النُّفُوْذِ علی ...... (ن): اقتدار جمانا، رسوخ پھیلانا

بَسُطَ ـُ بَسَاطَةً: معمولی ہونا، سادہ ہونا صاف ہونا

إِنْبَسَاطٌ: پھیلنا، کشادہ ہونا، کھلنا، خوش ہونا

بَسْطٌ: کشادگی، وسعت، وضاحت

بِسَاطٌ: فرش، دری، وغیرہ ج: بُسُط

علی بِسَاطِ البَحْثِ: زیرغور، زیر بحث

بَسَاطَةٌ: سادگی، صاف دلی، بے تکلفی

بَسِیْطٌ: سہل، معمولی، سادہ، صحیح النیت، سادہ دل

بَسِیْطُ الکَفِّ: فراخ دست، سخی

مَعْرِفَةٌ بَسِیْطَةٌ: معمولی تعارف

مَبْسُوْطٌ: شائع، فراخ (۲) خوش طبع، بے تکلف

بَسَقَ ـُ بُسُوْقًا: بلند و دراز ہونا

بَاسِقٌ: بلند و دراز

بَاسِقُ الأَخْلَاقِ: بلند اخلاق

بَسْکُوْت و بَسْکُوِیْت: بسکٹ

بَسُلَ ـُ بَسَالَةً و بَسَالًا: بہادر ہونا

تَبَسَّلَ: ترش رو ہونا، تیوری چڑھانا

إِسْتِبْسَالٌ: لڑنے کے لئے آمادہ ہونا

بَسَالَةٌ: جرأت، بہادری

بَاسِلٌ: جری، بہادر، ج: بَوَاسِلُ

بَسَمَ ـِ بَسْمًا، تَبَسَّمَ و إِبْتَسَمَ: مسکرانا

مَبْسِمٌ: منھ ج: مَبَاسِمُ

مَبْسِمُ السِّیْجَارَةِ: سگریٹ ہولڈر

بَسْمَلَةٌ: بسم اللہ پڑھنا

ب .... ش

بَشِرَ ـَ بہ بِشْرًا: خوش ہونا

بَشَرَ العُوْدَ والثَّمَرَ ـُ بَشْرًا: چھیلنا

بَشَّرَہٗ تَبْشِیْرًا: خوشخبری دینا

بَاشَرَ الأَمْرَ مُبَاشَرَةً: خود انجام دینا، براہِ راست انجام دینا

بَاشَرَ الصِّنَاعَةَ: پیشہ اختیار کرنا، پریکٹس کرنا

بَاشَرَ العَمَلَ: کام پر لگنا، انجام دینا، شروع کرنا
إِسْتِبْشَار: خوش ہونا
الإِسْتِبْشَارُ با المُسْتَقْبَل: مستقبل کی بشارت دینا
بِشْرٌ: خوشی
بَشَرَة: کھال، ظاہری سطح
بُشْرىٰ و بِشَارَة: خوشخبری، مسرت بخش خبر
بَشَرِیٌّ: (۱) انسانی (۲) جلدانسانی سے متعلق
بَشَرِیَّة: نوعِ انسان، نسلِ انسان
أَعْطَابٌ بَشَرِیَّةٌ: جانی نقصانات
قُوَّة بَشَرِیَّة: افرادی طاقت
بِشَارَة: (۱) خوشخبری (۲) نیک شگون (۳) خیر (۴) انجیل (۵) حسن وجمال ج: بِشَارَات وبَشَائِرُ
بَشِیْرُ الوَجْه: خوب رو
بَشِیْرُ سَلام: امن کا پیغام بر
تَبْشِیْر: مسیحی تبلیغ
تَبْشِیْرِیّ: مشنری
تَبَاشِیْرُ: ابتدائی علامات، علامات، آثار
مُبَشِّر: (۱) خوشخبری دینے والا (۲) امرِ خیر کی دعوت دینے والا (۳) مذہبی واعظ، مشنری، مبلغ، عیسائی مذہب کا مبلغ
مِبْشَرَة: ج: مباشر: جلد صاف کرنے کا آلہ
مُبَاشِر: ڈائرکٹ، بلاواسطہ، براہ راست
رَئِیْس مُبَاشِرٌ: ڈائرکٹ آفیسر
مُبَاشَرَةً: براہِ راست، بلاواسطہ طور پر، ڈائرکٹ
مُبَاشَرَةٌ: آغاز، اتصال، اسٹارٹ کرنا
مُبَاشَرَةُ الحُقُوق البَرلَمَانِیَّة: پارلیمنٹری حقوق لینا
مُبَاشَرَةُ السُّلْطَة البَرلَمَانِیَّة: پارلیمنٹری اختیار حاصل کرنا
بَشِعٌ و بَشِیْع: بدشکل، بدرو
بَشْکِیْر: تولیہ

ب ....ص

بَصْبَص الکَلْبُ بِذَنَبِهِ بَصْبَصَةً: دم ہلانا
بَصْبَصَ الرَّجُلُ: چاپلوسی کرنا، تملق کرنا
بَصْبَصَ بعَیْنِهِ: آنکھ سے اشارہ کرنا
بَصِرَ ـَ و بَصُرَ ـُ الشئَ و به بَصَرًا و بَصَارَةً: دیکھنا، تہہ تک پہنچنا، جاننا
مَدَی البَصَر: حدِ نگاہ
بَصَرٌ: نگاہ، علم ج: أَبْصَار
طَوِیْلُ البَصَرِ: دوربین، وسیع العلم
قَصِیْرُ البَصَر: کوتاہ بین، کوتاہ علم
بَصَرِیٌّ: آپٹیکل، آنکھ کا، نگاہ کا
بَصِیْرَة: ذکاوت، فہم، نورِ قلب، علم، دور اندیشی ج: بَصَائِرُ
فَتْحُ البَصَائِر: آنکھیں کھولنا
بَاصِرَة: آنکھ
تَبَصَّر فی: بصیرت حاصل کرنا
مُبَاصَرَة: ٹیلی ویژن، غائب بینی، مشاہدۂ غائب، لاسلکی کے ذریعہ ان واقعات یا اشیاء کا مشاہدہ کرنا جو فاصلہ یا حجاب کی وجہ سے آنکھوں سے اوجھل ہوں
مِبْصَار: ٹیلی ویژن، آلہ غائب میں ٹیلی ویژن سیٹ
بَصَّ ـِ بَصًّا و بَصِیْصًا: چمکنا، روشن ہونا، پانی برسنا

بَصَّةُ نَارٍ ، بَصْوَة: شعلہ، چنگاری
بَصِيصٌ: چمک، روشنی، کرن
بَصِيصٌ من الأمَل: امید کی ایک کرن، امید کی جھلک، شعاعِ امید
بَصَّاصٌ: (دا) جاسوس، خبر رساں
بَصَّاصَةٌ: آنکھ (دا)
بَصَقَ ـُ بَصْقًا: تھوکنا
مِبْصَقَةٌ: اگالدان ج: مَبَاصِقُ
بَصَلٌ: پیاز و: بَصَلَة
بَصَلٌ طَازَج: تازہ پیاز
بَصَلٌ مُجَفَّف: خشک پیاز
بَصَلٌ مُخَلَّل: پیاز کی چٹنی، سرکہ ملی ہوئی پیاز
بَصَلِيٌّ: پیازی، پیاز والا
بَصْم: سیل
بَصْمَة: ج: بَصَمَات: نشانِ انگشت، نشانِ انگوٹھا

ب .... ض

بِضَاعَة: مالِ تجارت ج: بَضَائِعُ
بِضَاعَة تَالِفَة: (ضد: سَلِيمَة) خراب سامان
بِضَاعَةُ التِّجَارَة: سامانِ تجارت
بَضْعُ الجلد: نشتر زنی
بِضَاعَة تَحْتَ التَّشْغِيل: سامانِ زیرِ ترتیب زیرِ ترتیب سامان
بِضَاعَةٌ تَحْتَ الصُّنع: زیرِ تیاری سامان
بِضَاعَةٌ حَاضِرَة: تیار شدہ سامان
بِضَاعَةٌ سَلِيمَة: (ضد: تَالِفَة): اچھا سامان
البِضَاعَةُ فِي الطَّرِيق: سامان چل پڑا ہے (یعنی راستہ میں ہے)
البِضَاعَة المُؤَمَّنُ عليها: انشورڈ سامان
بَضَائِعُ بِقَالَةٍ: پرچون کا سامان
بَضَائِعُ بِالقِطْعَة: خوردہ سامان، سامان کے پیس
بَضَائِعُ بَلَاسْتِيك: پلاسٹک کا سامان
بَضَائِعُ ثَقِيلَة: ہیوی مال، بڑا سامان
بَضَائِعُ جِلْدِيَّة: چمڑے کا سامان
بَضَائِعُ حَدِيدِيَّة: لوہے کا سامان
بَضَائِعُ خَطِرَة: نازک سامان، پرخطر سامان
بَضَائِع رَاكِدَة: نہ بکنے والا مال، کنڈم سامان، کنڈم مال
بَضَائِعُ زُجَاجِيَّة: کانچ کا سامان
بَضَائِعُ غَيْرُ تَامَّةِ الصُّنع: نامکمل اشیاء
بَضَائِعُ قَابِلَةٌ للإشْتِعَال: آگ پکڑنے والا سامان
بَضَائِع قابلة لِلتَّلَفِ: خراب ہونے والا سامان
بَضَائِعُ قَابِلَةٌ للعَطَب: خراب ہونے والا سامان
بَضَائِعُ قَلِيلَةُ القِيمَة: کم قیمت چیزیں، کم قیمت مال
بَضَائِعُ كَاسِدَة: بے کار سامان
بَضَائِعُ كَبِيرَةُ الحَجم: بڑے عدد، بڑے سامان
بَضَائِعُ مُتَدَاوَلَة: چلنے والا سامان
بَضَائِعُ مُمْتَازَة: اعلیٰ قسم کا سامان
بَضَائِعُ مِنَ الدَّرَجة الأُولَى: اول درجہ کا سامان، ایک نمبر کا سامان
بَضَائِعُ مَنْزِلِيَّة: گھریلو سامان

اَلْبَضَائِعُ الْمُهَرَّبَةُ: غیر قانونی درآمد برآمد شدہ مال
بَضَائِعُ هَنْدَسِيَّة: انجینئرنگ کا سامان
بَضَائِعُ تُدْفَعُ عنها عَوَائِدُ جُمْرُكِيَّة: سامان جس پر کسٹم دیا جائے۔

ب..........ط

تَبَاطُؤ: تاخیر ڈھیلا پن
تَبَاطُؤ فی الإِنْتَاج: پیداوار میں کمی، ڈھیلا پن
تَبَاطُؤ مُعَقَّد: دانستہ تاخیر
مُبْطِئ: لیٹ
مُتَبَاطِئ فی الدَّفْع: ادائیگی میں سست
بَطَّارِيَّة: بیٹری
بَطَّارِيَّاتُ سَيَّارَات: موٹر کار بیٹریاں
بَطَّارِيَّات الصَّوَارِيْخ: راکٹوں کی بیٹریاں
بَطَاطَا، بَطَاطِس: آلو
بِطَاقَة: لیبل، چٹ، کارڈ ج: بَطَائِقُ بِطَاقَاتٌ
بِطَاقَةُ بَرِيْدٍ: پوسٹ کارڈ
بِطَاقَةٌ بَرِيْدِيَّة: پوسٹ کارڈ
بِطَاقَةُ تَحْقِيقِ الشَّخْصِيَّة: شناختی کارڈ
بِطَاقَةُ تَخْزِيْن: مال جمع کرنے کا کارڈ
بِطَاقَة الجرايَات: راشن کارڈ
بِطَاقَةُ الدُّخُول إِلَى حَفْلَةٍ أَوْ إِجْتِمَاع: داخلہ کارڈ، داخلہ پاس
بِطَاقَةُ الزِّيَارَة: وزیٹنگ کارڈ، ملاقاتی کارڈ
اَلْبِطَاقَةُ السِّيَاحِيَّة: ٹورسٹ کارڈ
بِطَاقَةُ شِرَاءٍ على الحِسَاب: کریڈٹ کارڈ
بِطَاقَةُ الصِّنْف: لیبل جس سے سامان کی قسم (کوالٹی) معلوم ہو

بِطَاقَةُ عُلْبَة: ڈبے کی چٹ
بِطَاقَةُ العَنَاوِيْن: ایڈریس بک
بِطَاقَةُ مُخَرَّمَة: سوراخ کیا ہوا سلپ
بِطَاقَةُ الهُوِيَّة: ایڈنٹی کارڈ، شناختی کارڈ
بَطَلَ ـُ بُطْلاً و بُطْلَانًا: فاسد ہونا، بیکار ہونا، باطل ولغو ہونا
بَطَلَ اسْتِعْمَالُه: رواج ختم ہونا
بَطَّلَ الشَّيْءَ تَبْطِيْلاً و أَبْطَلَ: (۱) فسخ کرنا، کینسل کرنا، منسوخ، ختم کرنا، (۲) ناقص بنانا
إِبْطَالُ صَحِيْفَة: اخبار بند کرنا
بَطُلَ ـُ بَطَالَة: دلیر ہونا، ہیرو بننا
بَطُلَ ـُ بُطُوْلَة: بیکار و بے مشغلہ ہونا
بَطَلٌ ج: أَبْطَال . م : بَطَلَة: (۱) بہادر (۲) ہیرو (۳) شہسوار (۴) ممتاز کھلاڑی، مجاہد، ممتاز چیمپین
بَطَلٌ سِيْنَمَائِيٌّ: فلمی ہیرو
اَلْبَطَل المِغْوَار: جانباز ہیرو
بَطَلٌ يُؤَلِّهُه قومُه: ہیرو جس کو اس کی قوم خدا مانتی ہے۔
بُطُوْلَات: بہادرانہ کارنامے
اَلْبُطُوْلَة: اعلیٰ کردار، کارنامہ، شجاعت، چیمپین شپ
بُطُوْلَةُ العَالَم: عالمی چمپین
بُطُوْلَة عَالَمِيَّة: عالمی چمپین شپ
بُطُوْلَة مَسْرَحِيَّة: ڈرامائی، ہیروشپ، ڈرامائی کردار
اَلأَبَاطِيْلُ: بے بنیاد باتیں
بَاطِل: (۱) حق کی ضد (۲) جھوٹا، (۳) بے قیمت، لغو، بے تاثیر، بے حقیقت، غلط

بِطَالَة: (۱) بیکاری، بے روزگاری (۲) چھٹی
بِطَالَة دَوْرِيَّة: وقفہ جاتی بے روزگاری
بِطَالَة مُزْمِنَة: دائمی بے روزگاری
بِطَالَة مُفْتَعَلَة: مصنوعی بے روزگاری
بِطَالَة مَوْسِمِيَّة: سیزنل بے روزگاری
بَطْلِيمُوس: اسکندریہ کا عالمِ فلکیات
بَطَنَ ـُ بُطُونًا: چھپنا، پوشیدہ ہونا
بَطَنَ الأَمْرَ ـُ بَطْنًا و اسْتَبْطَنَه و تَبَطَّنَه: معاملہ کی تہ کو پہنچنا، نوعیت واقعہ کو سمجھنا
بَطِنَ ـَ بَطَنًا و بَطُنَ ـُ بَطَانَةً: پیٹ بڑھنا، بڑے پیٹ والا ہونا
بَطِينٌ: (۱) بڑے پیٹ کا (۲) ندیدہ، بسیار خوردہ
شَأْوٌ بَطِينٌ: مسافتِ بعیدہ
بِطْنَة: بسیار خوری، حرص، زیادتی خوراک سے پیٹ کا پھولنا، ندیدہ پن
إِبْطَان: چھپانا، پوشیدہ کرنا
بُطِنَ ـَ بَطْنًا: (مجہول): پیٹ میں درد ہونا
مَبْطُون: دردِ پیٹ میں مبتلا
بَطْنٌ ج: بُطُون و أَبْطُن: (۱) پیٹ (۲) ہر چیز کا اندرونی حصہ
إِنْقِبَاضُ الْبَطْن: قبض ہونا
بَطْنُ الرِّجْل: پیر کا تلوا
بَطْنُ المِلْعَقَة: چمچہ کی گہرائی
إِبْنُ بَطْنِه: پیٹ کا بندہ، مطلبی
وَلَدَتْ ثَلَاثَةً فِي بَطْنٍ وَاحِدَةٍ: بیک وقت تین بچے جنے۔
بَاطِنٌ: (۱) اندرونی حصہ (۲) پوشیدہ
بَاطِنًا: دل دل میں، رازدارانہ طور پر
بَوَاطِنُ الأُمُورِ و ظَوَاهِرُها: معاملات کے مختلف پہلو، اسرار وظواہر
بِطَانَة ج: بَطَائِن: (۱) راز (۲) رازدار (۳) خاص آدمی
بِطَانَةُ الثَّوْبِ (ضد ظِهَارَة): استر، نیچے کا کپڑا
بِطَانَةُ الأَمِير: حاشیہ نشیں، مقربین، خاص لوگ
بِطَانَة: استر ج: بطانات
بَطَّانِيَّة: (۱) کمبل، بلانکٹ ج: بَطَّانِيَّات
بِطِّيخ: (در بطخ) خربوزہ
بَاطِيَة: ج: بَوَاطٍ: بڑا پیالہ

ب .... ظ

بَظَّ ـُ العُودَ بَظًّا: باجے کے تاروں کو بجانے کے لئے درست کرنا
إِبْظَاظ: موٹا ہونا (بَظِيظ موٹا)
بَظِرَ ـَ بَظَرًا: غیر مختون ہونا
أَبْظَر: غیر مختون ج: بُظْر. م: بَظْرَاءُ
تَبْظِير: ختنہ کرنا

ب .... ع

بَعْبَعَة: (ثَرْثَرَة): بک بک کرنا، جلدی اور لگاتار بولنا
بَعَثَ الشَّيْءَ وبه ـَ بَعْثًا: (۱) بھیجنا (۲) نکال پھینکنا، مردوں کو اٹھانا
بَعَثَ بالرِّسَالَة الى: خط بھیجنا، پیغام بھیجنا
بَعَثَ بالبَرْقِيَّة الى: تار بھیجنا
بَعَثَ من النَّوْم: بیدار کرنا
بَعَثَ من المَوْت: زندہ کرنا، جلانا، اُٹھانا
بَعَثَ على: آمادہ کرنا، مجبور کرنا، برانگیختہ کرنا
بَعَثَ على التَّفْكِير: سوچنے پر مجبور کرنا

بَعَث: (۲) وفد بھیجنا، کمیشن روانہ کرنا

إبتِعَاث: نمائندہ بنا کر بھیجنا

بَعْث: (۱) قیامت (۲) روانگی (۳) وفد

ج: بُعُوث

بَعْثَة: ڈپوٹیشن، ایجنسی، مشن، وفد جو کسی مقصد سے کہیں بھیجا جائے، نمائندہ، ادارہ، کمیشن، باختیار وفد، ڈیلی گیشن ج: بَعَثَات

بَعْثَةُ الأمَمِ المُتَّحِدَة: اقوام متحدہ کا کمیشن

بَعْثَةٌ تِجَارِيَّةٌ: تجارتی وفد کاروباری مشن

بَعْثَةٌ ثَقَافِيَّةٌ: ثقافتی مشن

البَعْثَةُ الجِيُولُوجِيَّة: جیالوجی کمیشن

بَعْثَة دِبْلُومَاسِيَّة: ڈپلومیٹک ایجنسی، سفارتخانہ، سفارتی مشن

بَعْثَةٌ طُلَّابِيَّةٌ: طلبہ کا وفد، طلبہ کی جماعت جو کسی خاص مقصد کے لئے بھیجی جائے

بَعْثَةٌ عِلْمِيَّةٌ: تعلیمی وفد

بَعْثَةٌ إكْتِشَافِيَّةٌ: تحقیقاتی جماعت، وفد بَاعِث

ج: بَوَاعِث: سبب، وجہ، علت

بَعْث ج: بُعُوث: پیغام، مشن (۲) وفد، شام وعراق کی برسراقتدار پارٹیاں، وہ جماعت جو کسی خاص مقصد کے لئے بھیجی جائے

بَعْثِيّ: بعث پارٹی سے تعلق رکھنے والا

مَبْعَث: سبب، باعث ج: مَبَاعِث

مَبْعُوث: (۱) نمائندہ (۲) پیامبر، بھیجا ہوا، قاصد، ڈیلی گیٹ، نائب، سفیر

مَبْعَثُ الذُّهُول والإسْتِغْرَاب: باعثِ حیرت واستعجاب

مَبْعُوث او وَزِير مُعْتَمَد: معتمد علیہ نمائندہ

مَبْعُوثُ الأمَمِ المُتَّحِدَة: اقوام متحدہ کا نمائندہ

مَبْعُوث دِبْلُومَاسِيّ: ڈپلومیٹک نمائندہ، سفارتی نمائندہ

مَبْعُوث رَسْمِيّ: سرکاری نمائندہ

المَبْعُوث الشَّخْصِيّ: ذاتی نمائندہ

مَبْعُوث فَوق العَادَة: نائب قونصل

مَبْعُوث فی مُهِمَّة خَاصَّة: سفیر، فرستادہ، کسی اہم کام کے لئے فرستادہ

مَبْعُوث قُنْصُلِيّ: کونسلر کا نمائندہ

مُبْتَعَث: مبعوث

مَجْلِسُ المَبْعُوثِين: پارلیمنٹ کا بورڈ، ہاؤس، ایوانِ نمائندگان

إنْبِعَاث: (۱) روانہ ہونا (۲) اٹھنا، پھیلنا

إنْبِعَاثُ الرَّائِحَةِ الكَرِيهَة: بدبو پھیلنا

إنْبِعَاث فی السَّيْر: تیز چلنا

بَعِث ـ بَعَثًا: بیدار ہونا

تَبَعَّثَ شيء: کسی چیز کا تیزی سے ظاہر ہونا

تَبَعَّثَ الشِّعْرُ منه: شعر کی آمد ہونا

بَعْثَرَة: بکھیرنا، پھیلانا، منتشر کرنا

مُبَعْثَر: پھیلا ہوا، منتشر

تَبَعْثَر: منتشر ہونا، بکھرنا، پھیلنا

تَبَعْثُرُ النَّفْس: طبیعت بے چین ہونا

بَعَجَ البَطْنَ ـ بَعْجًا: پھاڑنا، چاک کرنا

بَعُدَ ـ بُعْدًا: دور ہونا

إبْعَاد: (۱) دور کرنا (۲) معزول کرنا (۳) جلا وطن کر دینا (۴) زائل کرنا، برطرف کرنا، باہر نکالنا، پارٹی وغیرہ سے

نکالنا
إبعادُ الشيء عن الفِكر: ذہن سے نکالنا
أبعادُ شيء: فاصلے، وسعتیں، گہرائیاں، پہلو، حدود، اثرات
أبعادُ قَضِيَّة: مسئلہ کا نشیب وفراز
أبعادِيَّة: زمین، کھیت، فارم
إستبعاد: (۱) دور سمجھنا، (۲) ناممکن سمجھنا، خارج از امکان سمجھنا (۳) حذف کرنا، دشوار سمجھنا (۴) دور ہونا
إستبعادٌ عن: حذف کرنا، نکالنا
إبتعاد و تباعد عن: (۱) دور ہونا (۲) اجتناب کرنا، چھوڑنا
بُعد: (۱) دوری (۲) مسافت (۳) پہلو (۴) فاصلہ ج: أبعاد
بُعدٌ شاسِعٌ: طویل فاصلہ
بُعدُ النَّظر: دور اندیشی
عن بُعدٍ: دور رہ کر، دور سے
على بُعدٍ: دور، بہت دور، فاصلہ پر
بَعِيدُ المَدى: دوررس، طویل المیعاد، طویل الذیل
المُبْعَدُ: جلاوطن
بَعد: بعد، پھر
بَعدَ الآن: آئندہ، اب سے
بَعدَما: جب کہ، اس کے بعد کہ
بَعدُ (لِلآن): اب تک، ابھی تک، تا ایں دم
بَعَرَ الحَيَوانُ تبعيرًا: زیادہ مینگنی کرنا
مَبْعَرٌ: مینگنی نکلنے کی جگہ ج: مباعِرُ
بَعزَقَةٌ: پراگندہ کرنا، بکھیرنا

بَعض: حصہ، ٹکڑا ج: أبعاض
بَعضُ التَّبرِير: کسی حد تک وجہ جواز
بَعضُ الوَقت: پارٹ ٹائم
بَعُوضٌ: مچھر و: بَعُوضَة
بَعُوضُ المَلارِيَا: ملیریائی مچھر
بَعلٌ: ج: بُعُول: خاوند، شوہر

ب............غ

بَغتَهُ ــ بَغتًا و بَاغتَه مُبَاغتَةً: یکا یک آنا، تعجب خیز طریقہ سے آنا
إنبِغات: کسی چیز کے اچانک ظہور سے متاثر ہونا، ٹھٹا جانا
بَغتَةً: اچانک، یکا یک، لاعلمی میں، بلاتوقع، ایک دم، بے خبری میں
مُبَاغتَة: اچانک آنا، یکبارگی کوئی کام کرنا
بَغىٰ ــ بَغيًا و بغاءً: زنا کرنا
بَغىٰ عليه: ظلم کرنا، زیادتی کرنا، خلاف کرنا
إبتِغاء: پسند کرنا، چاہنا
مُبتَغٍ: آرزومند
يَنبَغِي: مناسب ہے، لازم ہے، چاہیے
بَغيٌ و بِغاءٌ: (۱) ظلم، ستم (۲) زنا
بَغِيٌّ ج بَغايَا: عصمت فروش عورت، زانیہ
بُغيَة: مطلوب، مقصد، حاجت
بَاغٍ ج: بُغاة: (۱) ظالم (۲) نافرمان

ب............ق

بَق: (در بقق)
بَقبَقَة: زیادہ بولنا، جھک کرنا
بَقبَاق: بسیار گو، جھکی آدمی
بُقجَة: (۱) بُقچی، پوٹلی، بنڈل
بُقجَةُ صَابُون: صابن کی ٹکیہ

بَقَرَ الشیءَ ـــُ بَقْرًا: پھاڑنا، کشادہ کرنا (۲) کھودنا

بَقَرٌ: (اسم جنس) گائے و بقرۃ ج: بقرات

بَقَرُالوَحْشِ و البَقَرُالوَحْشِیُّ: نیل گائے۔ جنگلی گائے

بَقَرُ الماء: دریائی گائے

بَقَرِیٌّ: گائے کا، گائے کی

بَقَّعَ الثَّوْبَ تَبْقِیْعًا: کپڑے پر دھبے ڈالنا، ایک دفعہ رنگ میں ڈبونا

تَبَقَّعَ: کپڑے پر رنگ کے دھبے پڑنا

بُقْعَة ج: بُقَع و بِقَاع: (۱) زمین کا ایک حصہ (۲) دھبہ، نشان، داغ (۳) رتبہ و منزلت (فُلانٌ حَسَنُ البُقْعَة عِنْدَ الأَمِیْر)

أَبْقَعُ اللَّوْن: سیاہ وسفید رنگ والا، داغدار ن: بُقْعٌ

باقِعة: ج: بَواقِعُ: دھوکہ نہ کھانیوالا

بَقَّ الماءَ ـــُ بَقًّا: (۱) منہ سے پانی کو آواز کے ساتھ نکالنا

بَقَّقَ البَیْتُ: کثرت سے کھٹمل ہونا

بَقٌّ: کھٹمل، پسو، و: بَقَّة

بَقُّ الفِرَاش: کھٹمل

بَقَّاق: بکواسی، بہت بولنے والا

بَقَّال: پرچون فروش

بَقَالَة: پرچون کی دکان جہاں خشک اشیاء فروخت ہوتی ہیں۔

بَقِیَ ـــَ بَقَاءً: (۱) باقی رہنا، باقی بچنا، (۲) دیرپا ہونا، ٹھہر جانا

تَبَقّی: بچایا جانا، باقی رہنا

إبْقَاء: (۱) باقی رکھنا (۲) رحم کھانا

إبْقَاءٌ علی الحَیَاة: امان دینا، جان محفوظ رکھنا

الإبْقَاءُ عَلَی القَوَاعِدِ الحَرْبِیَّةِ: جنگی اڈے محفوظ رکھنا

إسْتِبْقَاء: باقی رکھنا، محفوظ رکھنا

إسْتِبْقَاءٌ علی الحَیَاة: امان چاہنا

بَقَاءٌ: بقا، وجود

بَقَاءُ الشیءِ عَقَبَةً فی الطَّرِیْق: رکاوٹ بنا رہنا

بَقَاءُ الأَنْسَب: بقائے اصلح

بَاقٍ: (۱) موجود، بچا ہوا (۲) بیلنس (در حساب) (۳) فاضل و متروک (۴) لازوال، دیرپا (۵) ساکن، جامد، غیر متحرک

مُسْتَبْقَی: محفوظ، ریزرو

البَاقِی مِن الطَّلَب: بیک آرڈر، باقی ماندہ فرمائش

بَوَاقٍ: بقایاجات، و: باقِیَة

ب.........ک

بَکَالُوْرِیُوْس فی العُلُوْم التِّجَارِیَة: بیچلر آف کامرس، بی کام (B.Com)

بَکَالُوْرِیُوس فی الفُنُوْنِ والآدَاب: بی، اے (B.A)

بَکْبَاشِی: لفٹنٹ کرنل، (فوجی عہدہ دار)

بَکَّتَ تَبْکِیْتًا: ملامت کرنا، سرزنش کرنا

بَکَّتَ الضَّمِیْرُ: ضمیر کو ملامت کرنا

بَکَرَ ـــُ بُکُوْرًا و بَکَّرَ تَبْکِیْرًا: صبح سویرے اٹھنا، صبح کے وقت آنا، عجلت سے کرنا

إنْذَارٌ مُبَکِّرٌ: ابتدائی وارننگ

اِبْتِکَار: جدت، ایجاد کرنا، ابتدائی حصہ حاصل کرنا
مُبْتَکَرَات: نئی چیزیں
بِکْرٌ ج أَبْکَار: اکلوتا بیٹا، پہلا بچہ، کنواری، ہر نئی چیز، اچھوتا
بَکَرَة: ریل، چرخی
بَکَرَةُ البِئْر: ج: بَکَرَات) چرخی
بَکَرَةُ الخَیْط: دھاگے کی نلکی، تاگے کی ریل
بَکْرَة: جماعت
جَاءُوا علی بَکْرَةِ أَبِیهِمْ: سب کے سب آئے۔
بُکْرَةً، بَاکِرًا: (۱) صبح سویرے، صبح کے اول وقت میں (۲) کل آئندہ
بَکَرَة شریط (فی الالة الکابه) دبن اسپون
بِکْرِیٌّ (بِکْرِیَّة): پہلا بچہ، پہلوٹی کا بچہ
بِکْرِیَّةُ الوِلَادَة: پہلی بار بچہ جننے والی
بَکِیْرٌ: قبل از وقت اپنے وقت سے پہلے ظاہر ہونے والی چیز
بَکْرَجٌ (دا) غَلَّایَةُ المَاء: پانی اُبالنے کا برتن، سماور، کیتلی
بَکَلَ ـُ بَکْلًا و بَکَلَ: بکسوا لگانا
بَکَلُورِیَّة، بَکَالُورِیَّة: بیکالوریٹ، بی۔اے کی سند
بَکَلُورِیُوس: گریجویٹ
ــــ عُلُوم: بی ایس، بیچلر آف سائنس
ــــ فُنُون: بی۔اے، بیچلر آف آرٹس
بَکِمَ ـَ بَکَمًا و بَکَامَةً: گونگا ہونا
بَکُمَ ـُ بَکَامَةً: جان بوجھ کر گونگا بننا
بَکِیْمٌ و أَبْکَمُ ج: بُکْمَان و بُکْمٌ: گونگا
التَّبَاکِی علی شيٍ: کسی چیز کا رونا رونا
بُکَاءُ التِّمْسَاح: مگر مچھ کے آنسو

ب........ل

بَلَاتِیْن: (مع): پلاٹینم، ایک قسم کی دھات جو سونے سے قیمتی اور بھاری ہوتی ہے۔
بَلْبَلَة: بے چین بنانا، پریشان کرنا، ہنگامہ مچانا (۲) گڑبڑی، افراتفری
تَبَلْبَل: بے چین ہونا، مضطرب ہونا
مُبَلْبَلُ النَّفس او الخَاطِر: پریشان خاطر
بُلْبُلٌ: (دا) لٹو (۲) ایک پرندہ ج: بَلَابِلُ
بَلْبَلَة بَلْبَال: اضطراب، بے چینی، تشویش، اختلاط
بَلْبَلَةُ الأَفْکَار: ذہنوں کو پریشان کرنا
بَلْبَلَةُ الرَّأی العَامّ: رائے عامہ میں ہیجان پیدا کرنا
مُبَلْبَل: غیر یقینی، تشویشناک
بَلَجَ ـُ بُلُوْجًا و إِبْلَاج و إِنْبِلَاج و إِبْتِلَاج وتَبَلَّج: روشن ہونا، طلوع ہونا
بَلِجَ الحَقُّ ـَ بَلَجًا: ظاہر ہونا، واضح ہونا
بَلِجَ صَدْرُه: انشراح ہونا
بَلْجِیْکَا: بلجیم
بَلْجِیْکِیّ: ملک بلجیم کا باشندہ
بَلَحٌ و بَلَحَة: کچی کھجور
بَلَحُ البَحْر: ایک صدفی کیڑا، بحری صدفیہ
بَلُدَ ـُ بَلَادَة، بَلَدَ و تَبَلَّد: کند ذہن ہونا، ضعیف الرائے ہونا
بَلَّدَ الرَّجُلَ تَبْلِیْدًا: شہری آب و ہوا کا عادی بنانا
مُتَبَلِّدُ الحِسّ: ڈل
تَبَالُد: بے وقوفی کا مظاہرہ کرنا

بَلَدٌ ج: بِلَادو بُلْدَان: خطہٗ زمین، ملک
البِلَادُ تُوَاجِهُ أَزْمَةً كَبِيرَةً: ملک کو بڑا بحران درپیش ہے
بِلَادٌ تَحْتَ الإِنْتِدَاب: عارضی انتظام کے ماتحت ممالک
بِلَادُ العَجَم: غیر عربی ممالک
بِلَادُ الكُومُنْوِيلت: کامن ویلتھ ممالک
بِلَادٌ مُسْتَهْلِكَة: کھپت والے ممالک
بِلَادٌ مُصَنِّعَةٌ: صنعتی ممالک
بَلَادَة: بے حسی، کم عقلی، جمود، کٹرپن، سخت دلی، مردہ دلی
بَلَدٌ ذُوْ سِيَادَة: خودمختار ممالک
بَلَد و بَلْدَة: (۱) قصبہ، (۲) شہر
بَلَدِيٌّ: (۱) ہم وطن (۲) ملکی
بَلَدِيَّة: میونسپلٹی ج: بَلَدِيَّات
البَلَدُ فِي مِحَنٍ: ملک آزمائش میں ہے
البَلَدُ المُعْتَدِي: حملہ آور ملک
البُلْدَانُ المُنْتِجَة: پیداواری ممالک
مَجْلِسٌ بَلَدِيٌّ: میونسپل کونسل
بَلْوَرَة: بلور کے مانند ہونا، واضح کرنا، صاف و شفاف بنانا، وضاحت کرنا، انکشاف حقیقت کرنا
تَبَلْوُر: بلور کے مانند ہونا، واضح ہونا
بِلَّوْر: ایک قسم کا صاف شیشہ
بِلَّوْرِيّ، مُتَبَلِّر مُتَبَلْوِر: بلور کی مانند چمکدار، واضح وروشن
بَلْشَفَة: انتہاپسند اشتراکی بنانا
بُلْشُفِيّ: انتہاپسند اشتراکی ج: بَلَاشِفَة
بُلْشُفِيَّة: بالشوازم (BOLSHEVISM)
شَارَةُ البَلَاشِفَة: بالشویک بیج
الحِزْبُ البُلْشُفِيُّ: بالشویک پارٹی
بَلَصَ ـِ بَلْصًا: بزور لینا، غصب کرنا
بَلَصَ بالتَّهْدِيد: بلیک میل کرنا، کسی کو دھمکی دے کر کوئی کام لینا
بُوْلِيصَة: رسید، ہنڈی، بلٹی
بُوْلِيصَةُ تَأْمِين: بیمہ پالیسی، معاہدۂ بیمہ
بُوْلِيصَةُ تَأْمِين على الحَيَاة: لائف انشورنس پالیسی
بُوْلِيصَةُ خُرُوْج: مال کی بلٹی
بُوْلِيصَةُ شَحْنٍ: بلٹی
بَلَطَ ـُ بَلْطًا و بَلَّطَ: پختہ فرش بنانا، پتھر کا فرش بنانا، پلاسٹر کرنا، ٹائل لگانا
تَبْلِيط: (۱) تھکنا، عاجز ہونا
بَلَاطٌ و: بَلَاطَة: ٹائل، وہ پتھر جو فرش میں استعمال کیا جائے (۲) دربار
لُغَةُ البَلَاط: درباری زبان
بَلَاطُ المَلِك: قصرِ شاہی، شاہی محل، دربارِ شاہی
بَلَاطُ إِسْمَنْت: سمنٹ کا ٹائل
بَلْطُو، مِعْطَف: کوٹ، اوورکوٹ
بَلَعَ ـَ بَلْعًا و ابْتَلَعَ: نگلنا
بَلَعَ الإِهَانَة: توہین برداشت کرنا
تَبْلِيع و إِبْلَاع: نگلوانا
بَلَّعَه رِيْقَه: مہلت دینا، موقع دینا
بَلَّاعَة بَالُوعَة ج: بَلَالِيع و بَوَالِيع: نالی، موری، گندہ آب چک
بَلْعَمٌ . بُلْعُوم: ج: بَلَاعِم: حلق

بَـلَـغَ ـــ بُلُوغًا: (۱) پہنچنا، (۲) پالینا (۳) جاننا، کسی بات کا علم ہونا

بَلَغَ الوَلَدُ: بالغ ہونا

بَلَغَ الأَوْجَ: ٹاپ کرنا

بَلَغَ الثَّمرُ: پک جانا

بَلَغَ الحَضِيضَ: پستی کو پہونچنا

بَلَّغَ الخَبَرَ: اطلاع دینا، خبر بھجوانا، بتلانا

بَلَغَ الذِّرْوَةَ: ٹاپ کرنا

بَلَغَ الرُّشْدَ: بالغ ہونا، سنِ شعور کو پہنچنا

بَـلَـغَ سِنَّ الـرُّشْد: ہوش سنبھالنا، سن شعور کو پہونچنا

بَـلَـغَ السَّيْلُ الـزُّبَى: پانی سر سے گذرنا، معاملہ حد سے بڑھنا

بَلَغَ القِمَّةَ: ٹاپ کرنا

بَلَغَ ما تَمَنَّاه: آرزو برآنا

بَـلَـغَ إِرْتِـفَـاعُـه سَبْعَةَ أَمْتَار: اس کی بلندی سات میٹر ہوگئی

بَلَغَ مُنْتَهاه: وہ آخری حد پر پہنچ گیا

بَلَغَتِ السَّاعَةُ ثَمانِيَةً: آٹھ بجنا

بُلْغَة: بقدرِ کفاف، گذر بسر کے بقدر

بَلَغَ المِقْدارُ كذا: مقدار کا کسی حد کو پہنچنا

بَلَغَهُ كذا: کسی بات کا علم ہونا

بَـلَّـغَ الـخَـبـرَ و أَبْلَغَ ب: (۱) اطلاع دینا، (۲) خبر بھجوانا، بتلانا

بَلَّغَ الخَبَرَ عنه: (۱) رپورٹ دینا، (۲) کسی کے خلاف اطلاعات پہنچانا

إِبْلاغ: اناؤنس منٹ، نوٹس

بَـالَـغَ فى الْمُبْلَغ مُبالَغَة: غلو کرنا، حد سے بڑھنا

تَبَلَّغ: آگاہ ہونا، باخبر ہونا

تَبَلَّغَ بالشيئ: کسی چیز پر اکتفا کرنا

مَبْلَغ ج: مَبالِغ: رقم، مقدار، کسی چیز کی حد، منتہا

مَبْلَغٌ إِضَامِيٌّ: الاؤنس

الْمَبلَغُ الكُلِّيُّ: مجموعی رقم، ٹوٹل رقم

الـمَـبْـلَـغُ الـمَحْسُوْمُ: ڈسکاؤنٹ، وضع کردہ رقم

مَبْلَغ مَدْفُوْع مُقَدَّمًا: پیشگی ادا کردہ رقم

الـمَـبْـلَـغُ الـمُسْتَحَقُّ: مطالبہ کی رقم، واجب مطالبہ

المَبلَغُ المُوْدَعُ: امانت کی رقم، (بینک میں) جمع کی ہوئی رقم

الـمَـبْـلَـغُ الـمُؤمَّن عليه: انشورڈ رقم، محفوظ رقم

مُبالِغٌ فى الرَّأى الَّذى يَعْتَنِقُه: اصول پرست، نظریہ پرست

بَلاغ: خبر، اطلاع، (۲) اعلان (۳) اناؤنس منٹ، پیغام، فرمان (۴) دھمکی، نوٹس ج: بَلاغات

بَلاغ أَخِير أ و نِهَائِي: الٹی میٹم

بَلاغ رَسْمِيّ: اعلامیہ، پریس نوٹ

بَالِغ: پورا کامل، مراہق، حد نمو اور حد کمال عقل کو پہنچنے والا

بَالِغُ ذِرْوَةٍ: ہائی، انتہائی بلند

البَالِغُ قَدْرُه كذا: جس کی مقدار اتنی ہے۔

قَلَقٌ بَالِغ: زبردست تشویش

بَلَفَ ـــ بَلْفًا: وہم میں ڈالنا، دھوکہ دینا

بَلِقَ: (س، ک) سیاہ اور سفید داغوں والا ہونا

أَبْلَقُ: سفید وسیاہ داغوں والا
بُلُکّ: (دا) جماعت، فوج کی ایک کمپنی
بَلْکُون. (شُرْفَة): بالکنی
بَلَّ ـِ بَلًّا و بَلَلاً و بُلُولاً من مَرَضه: صحت یاب ہونا
بَلَّ بُلُولاً: بھیگی بھیگی سرد ہوا چلنا
بَلَّ ـُ بَلًّا و بِلَّةً، و بَلَلاً و بَلَّلَ: بھگونا، تر کرنا
إِبْتَلالُ: بھیگنا، تر ہونا
بَالُو: بال کا معرب، کرہ، گیند
بَلِهَ ـَ بَلَهًا و بَلَاهَةً: بے وقوف ہونا، کمزور رائے والا ہونا
أَبْلَهُ م: بَلْهَاءُ ج بُلْه: بے وقوف
بُلُوک: دیکھئے، بُلُک
بُلُوک أَمِین: کوارٹر ماسٹر (ایک فوجی عہدہ)
بَالُون: (مع) غبارہ
بَلُون، مُنْطَاد: غبارہ، غبارہ نما چیز
بَلِيَ ـَ بِلًى وبَلَاءً: پرانا ہونا، بوسیدہ ہونا
بَلَىٰ ـُ بَلْوًا: آزمائش میں ڈالنا، گرفتارِ مصیبت کرنا، پرانا کرنا، ابتداء آزمائش میں ڈالنا
بَالٍ: (۱) پرانا، گلا ہوا، کرم خوردہ، بوسیدہ، (۲) بدبودار، متعفن
بَالَى الأَمْرَ و به مُبَالَاةً: کسی چیز کو اہمیت دینا، پروا کرنا (اس کا اکثر استعمال منفی ہوتا ہے) (لايُبَالِي بكذا)
بَلْيُورَا: پھیپھڑے کی جھلی
بَلْيُون، أَلْفُ مِلْيُون: ایک ارب (۱،۰۰،۰۰،۰۰،۰۰۰) (امریکہ میں) (انگلستان میں) مِلْيُون: دس لاکھ
ج: بَلَايِين: اربوں

ب..........م

بَمْبَاشِي، بِكْبَاشِي: لفٹنٹ کرنل
بُمْبَة: (معرب) بم (قُنْبلة)

ب..........ن

بَنْج: ایک قسم کا زہریلا نبات جو جسم کو بے حس اور سن بنا دیتا ہے (۲) کلوروفارم، نیند آور دوا
بَنَّجَ تَبْنِيجًا: سن کرنا، بے حس کرنا
بَنْدٌ ج: بُنُود: (۱) بڑا جھنڈا (۲) قانون کی دفعہ، فقرہ، آئٹم
بُنُودُ الصَّرْف: مداتِ خرچ
بُنُودُ الإِيرَاد: مداتِ آمدنی
بَنْدَر: (مع) تجارتی شہر، مرکزِ تجارت، مرکزی شہر
بُنْدُقَة: کارتوس
بُنْدُقِيَّة: بندوق، گن
بُنْدُقِيَّةُ رَشّ: شوٹ گن
بُنْدُقِيَّةُ رَصَاص: رائفل
بُنْدُقِيَّةٌ مَحْشُوَّةٌ: بھری ہوئی بندوق، لوڈ گن
بُنْدُقِيَّةُ هَوَاء: ایر گن
بَنْدُول: (مع) گھڑی کا پنڈولم
بَنْزِين: پٹرول
بَنْس (بَنْسِي): پینی (ایک انگریزی سکہ)
بَنْطَغْرَاف: نقل نگار، (ایک آلہ)
بَنْطَلُون ج: بَنْطَلُونَات: پینٹ، پتلون
بَنْطَلُون قَصِير: نیکر
بُنْک: (۱) اصل شے (۲) رات کا ایک حصہ
بَنْک ج: بُنُوک: (۱) بینک، (۲) بینچ، سیٹ

بَنکَ النَّجّار: وہ میز جس پر بڑھئی لکڑی رکھ کر رندہ کرتا ہے
بَنکُ الإِصْدَار: سنٹرل بینک، بینک آف ایشو
بَنکَ أَهْلِیّ: نیشنل بینک
بَنکُ إِیْدَاع: بینک آف ڈپازٹ، ڈپازٹ بینک
بَنکٌ تِجَارِیٌّ: کمرشیل بینک
بَنکُ التَّسْلِیف: لون بینک
بَنکُ التَّسْلِیف الزِّرَاعِیّ: زرعی قرضہ بینک
بَنکُ التَّسْلِیف الصِّنَاعِیّ: صنعتی قرضوں کا بینک
بَنک الدّم: بلڈ بینک، خون بینک
بَنکُ الدَّوْلَة: گورنمنٹ بینک، اسٹیٹ بینک
البَنکَ الدُّوَلِیُّ: بین الاقوامی بینک، انٹرنیشنل بینک
بَنکٌ عَقَارِیٌّ: زمینوں سے متعلق بینک
البَنکُ المَرْکَزِیّ: سنٹرل بینک
البَنکُ الوَطَنِی: نیشنل بینک
بَنکُ الوِلَایَة: اسٹیٹ بینک
بَنکِیُو: مال دار، دولت مند
اَلبَنکنُوت: بینک نوٹ
بَنَّن الشَّاةَ تَبْنِیْنًا: بکری کو فربہ کرنے کے لئے باندھنا
بُنٌّ: کافی، Coffee
بُنِّیٌّ: کتھئی رنگ کا، کافی رنگ کا، براؤن
تَبَنَّی الشَّیْءَ: اپنانا، اختیار کرنا
تَبَنَّی مَشْرُوْعَ القَرَار: تجویز کا مسودہ بنانا
تَبَنَّی القَضِیَّةَ: مسئلہ کو اپنانا
بَنَی ـــِـ بِنَاءً وبِنَایَةً: (۱) تعمیر کرنا، عمارت کھڑی کرنا (۲) بنانا
بِنَاءٌ: ج: أَبْنِیَة، بِنَایَة ج: بِنَایَات، مَبْنیً ج: مَبَان: عمارت، بلڈنگ، بنیاد
مَبْنَی السِّفَارَة: سفارتخانہ کی عمارت
المَبْنَی العَالِي: ٹاور
مَبْنِیٌّ علی التَّعَاقُد: مبنی برمعاہدہ، معاہدانہ
مَبْنَی المَحْکَمَة: کچہری
المَبْنَی المُلَاصِقُ لمکَانَ: متصل عمارت
مَبْنَی الوِزَارَة: منسٹری ہاؤس، وزارتی بلڈنگ
بُنْیَان: عمارت
البُنْیَانُ العَسْکَرِیّ: فوجی طاقت
بُنْیَة الشَّيْ: میک اپ، ساخت کاٹھی، ڈھانچہ
بُنْیَة إِقْتِصَادِیَّة: اقتصادی ڈھانچہ
بِنْیَةٌ جَسَدِیَّة: جسمانی ساخت
بِنْیَةُ الجِسْم جسم کی ساخت، بناوٹ ج: بُنًی و بِنًی
بِنْیَةُ الکَلِمَة: کلمہ کی وضع، صیغہ
صَحِیْحُ البُنْیَة: سلیم الخلقت
بِنْتُ الشَّفَة: کلمہ، لفظ
لَمْ یَنْبِس بِبِنْتِ شَفَةٍ: وہ خاموش رہا، اس نے لب کشائی نہ کی
بِنْتُ الیَمَن: قہوہ، کافی
بِنْتُ العَیْن: آنسو
بِنْتُ الکَرْمَة: شراب
بِنْتُ العِنَب: شراب

بَنَاتُ الدَّهر: سختیاں، مصائب، شدائد ومصائب زمانہ
بَنَاتُ اللَّیلِ او الصَّدْر: افکار، ہموم
بَنَاتُ الصَّدْر: دل کی باتیں، راز
بَنَاتُ الأرض: چھوٹی چھوٹی نہریں
بِنتٌ ج: بَنَات (١) لڑکی، بچی، (٢) گڑیا
بِنْت (فی وَرَق اللَّعِب): ملکہ، رانی، کوئن (تاش کے پتے میں)
بَنَانٌ و: بَنَانَة: انگلیوں کے سرے، پوروے، مجازاً انگلیاں
طَوْعُ بَنَانِه: ہاتھ کے اشارہ پر کام کرنے والا، تابع دار
إِبنٌ: ج: أَبْنَاءٌ و بَنُوْن: لڑکا، بیٹا
___ الشَّرق: مشرق کا رہنے والا
___ السَّبِیل: مسافر، دربدر پھرنے والا
___ بَطْنِه: پیٹ کا بندہ
___ غَیرُ شَرعِیّ: ولدالزنا، حرام زادہ
___ بالتَّبَنِّی: منہ بولا بیٹا
بِنَاءٌ: (١) صنعت تعمیر (٢) عمارت کی ساخت، عمارت، بلڈنگ ج: أَبْنِیَة
بِنَاءً علیه: بنابریں
بِنَاءً علی طَلَبه: کسی کی فرمائش پر
بَنَّاءٌ: (١) معمار، جس کا پیشہ صنعتِ تعمیر ہو بلڈنگ ساز۔
بِنَاءُ الخُطَّة: منصوبہ سازی
بِنَاءُ الصَّدَاقَات: دوستیاں قائم کرنا
بِنَاءً علی: بربنا
بِنَاءً علی المَعرُوض المُقَدَّم من فُلَان: فلاں کی درخواست پر

بِنَاءُ عِمَارَةٍ سَکَنِیَّة: رہائشی بلڈنگ کی تعمیر
بِنَاءُ القُوَّات: فوجوں کو تیار کرنا، فوج کی تشکیل
بِنَاءُ النَّفس: خود کو تیار کرنا، خود سازی
بِنَاءُ الوَطَن: ملکی تعمیر
البَانِی: بلڈنگ ساز ج: بُنَاة
بَانٍ: ج: بُنَاةٌ: موسس، اپنے خرچ سے تعمیر کرنے والا
عَمَلٌ بَنَّاءٌ: تعمیر کام، ترقیاتی کام
أَعْمَالٌ بِنَائِیَّة: تعمیری کام
أَنْقَاضُ البِنَاء: تعمیری ملبہ
مَبَانٍ مُتَهَدِّمَة: شکستہ عمارتیں
مَبَانِی المَزْرَعَة: فارم کی عمارتیں
مَبْنِیٌّ: (١) تعمیر شدہ (٢) غیر منصرف

ب .... ھ

بَهَتَ ـَ و بَهُتَ ـُ و بُهِتَ بَهْتًا: ہکا بکا رہ جانا، چونک پڑنا، متحیر ہو کر خاموش ہو جانا
بَهَتَ ـَ بَهْتًا: چونکا دینا، اچانک پکڑنا
بُهِتَ اللَّوْنُ: رنگ اڑ جانا، رنگ فق ہو جانا
بَهَّتَ تَبْهِیتًا و بَاهَتَ مُبَاهَتَةً: حیرت و استعجاب میں ڈال دینا
بُهْتٌ و بُهْتَانٌ: کذب، جھوٹ، افتراء
بَاهِتٌ غَامِضٌ: ڈم، بہت ہلکا
بَهَجَ ـَ بَهْجًا و أَبْهَجَ: خوش کرنا
بَهِجَ بالشیء ـَ بَهَجًا و ابْتَهَجَ بشيء: خوش ہونا
بَهُجَ ـُ بَهَاجَةً و بَهْجَةً و بَهَجَانًا: خوبصورت ہونا، رونق آنا
بَهْجَة: رونق، بہار، جمال، خوبصورتی
___ و إِبْتِهَاج: خوشی، فرحت، سرور
بَهِیجٌ، بَهِجٌ، مُبْهِجٌ: فرحت بخش، روح

پروز

مُبْتَهِجٌ: مسرور، خوش، فرحاں، شاداں

بَهَرَا لنَّظَرَ ــ بَهْرًا: خیرہ کرنا، چکاچوند کرنا

بُهِرَ بَصَرُہ: چکاچوند ہونا، روشنی کی تاب نہ لاکر آنکھیں بند ہوجانا

اِنْبِهَارُ النَّفَس: ڈر وغیرہ کی وجہ سے سانس پھولنا

بُهْــرٌ: سخت تکان کے نتیجہ میں سانس منقطع ہوجانا

بُهَــارٌ: (۱) دُھنی ہوئی روئی، (۲) بُت، (۳) ابابیل (۴) ایک قسم کی مچھلی

بَاهِرٌ: خیرہ کن، لاجواب بنانے والا

نَجَاحٌ بَاهِرٌ: فائق وممتاز کامیابی

مَبْهُوْرٌ: ہانپنے والا، بے قابو ہونے والا

مُبْهِر: حیران کن

بَهْرَجَةٌ: مزین کرنا، سجانا

بَهْرَجَةُ الدِّرْهَم: کھوٹ ملانا

تَبَهْرُجٌ: آراستہ ہونا، (عورت کا)

__ الرَّجُل: تکبر کرنا

بَهْرَجٌ: (۱) باطل (۲) کھوٹا (۳) رفاہی

__ و مُبَهْرَجٌ: (۱) خوبصورت، (۲) آراستہ

بَهَظَ ــ بَهْظًا و أَبْهَظَ: بوجھل بنانا، مشقت میں ڈالنا

بَــاهِظٌ: (۱) باعث مشقت، وزن دار، گراں بار

ثَمَنٌ بَاهِظ: غیر معمولی قیمت

بَهَلَ ــ بَهْلًا: لعنت کرنا، لعنت بھیجنا

بَاهِلٌ: بادپیمائی کرنے والا، بیکار پھرنیوالا

بَهْلَوَان: مداری، رسی پر چل کر تماشا دکھانیوالا

بُهْلُوْلٌ: ج: بَهَالِيْل: (۱) بہت ہنسنے والا (۲) ہر قسم کی خوبیوں کا جامع سردار

بَهِيْمٌ: تیز سیاہ، سیاہ فام، تاریک ترین

حَائِطٌ بَهِيْمٌ: وہ دیوار جس میں کوئی سوراخ یا کھڑکی وغیرہ نہ ہو

مُبْهَمٌ: غیر واضح

بَهَا ـُـ و بَهِيَ ـَـ و بَهُوَ ـُـ بَهَاءً: خوبصورت ہونا، دلکش ہونا

بَهْوٌ: بڑا کمرہ، ہال ج: أَبْهَاء

بَهِيٌّ: خوبصورت، دل فریب، روشن، چمکدار، خوشگوار، خوش منظر، بارونق

ب.............و

بُوْءٌ (ن): لون

بَاءَ بِالْفَشَل: ناکام ہونا، ناکامی پر ختم ہونا

بَاءَتِ الْمُحَاوَلَةُ بِالْفَشَل: کوشش ناکام ہونا

تَبَوَّأَ: جگہ بنانا، جگہ لینا

__ الْعَرْشَ: تخت نشین ہونا

بِيْئَةٌ: ج: بِيْئَات ماحول، منزل، مقام، محل وقوع، (۲) حالت، گردو پیش کے حالات

بِيْئَةٌ طَبِيْعِيَّةٌ: فطری ماحول

بِيْئَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ: پرسکون ماحول

تَبَوُّؤُ الْعَرْشِ: تخت نشینی

بَابٌ: ج: أَبْوَاب: دروازہ، گیٹ

أَبْوَابٌ ثَابِتَةٌ فِي الْمَجَلَّةِ: رسالہ کے مستقل عنوانات

بَابٌ أَرْضِيٌّ: زمین دوز دروازہ

بَابٌ خَلْفِيٌّ: بیک ڈور، پچھلا دروازہ

___ دَوَّارٌ: گھومنے والا دروازہ
بَابُ دُوْمَصَارِيعَ قابِلَةٍ لِلطّيّ: فولڈنگ ڈور
البَابُ الرَّئِيْسِيّ: مین گیٹ، صدر دروازہ
بَابٌ سَقْفِيٌّ: چھت دار دروازہ
بَابٌ لَفَّافٌ: خودکار دروازہ، فولڈنگ دروازہ
البَابُ المُصَرَّعُ: کواڑوں والا دروازہ
بَاب و بَابَة: رتبہ، عہدہ
بَابُوْرُ البَحْرِ: سمندری جہاز
بَابُوْرُ سِكَّةِ الحَدِيْدِ: ریلوے انجن
بَوَّابٌ: دربان، گیٹ کیپر
بَوَّابَة: پھاٹک، بڑا دروازہ
بَوَّابَة خَارِجِيَّة: گیٹ
بَوَّابَة لِسِكَّةِ الحَدِيْدِ: ریلوے پھاٹک
مُبَوَّب: ابواب وار، قسم وار
بُوْتَاسًا: پٹاس، پوٹاس
___ كَاوِيَة: کاسٹک پٹاس
بُوْتَاسِيُوْم: پوٹاشیم
بُوْتَقَة: کٹھالی، وہ برتن جس میں چاندی وغیر پگھلائی جائے۔
بَوحٌ: (ن) ظاہر ہونا
بَاحَ بِهِ بَوْحًا و أَبَاحَ: ظاہر کرنا، آشکارا کرنا، افشائے راز کرنا
إِبَاحَة: (۱) عام کرنا، انفرادی ملکیت سے نکال کر پبلک کے لئے عام کر دینا (۲) حلال قرار دینا (۳) اجازت دینا
إِبَاحِيٌّ: انتہا پسند اشتراکی (کمیونسٹ)
إِبَاحِيَّة: بالشوازم، کمیونزم کی وہ قسم جس کے اصول انتہا پسندی پر مبنی ہیں
إِبَاحَة: (۱) رخصت (۲) وجہ جواز پیدا کرنا
إِسْتِبَاحَة: (۱) حلال وجائز سمجھنا (۲) غصب کرنا (۳) حد قانون یا شریعت سے خارج سمجھنا
بَاحَةٌ: کھلی جگہ، میدان
مُبَاح: پیٹنٹ، جائز، حلال، عمومی، پبلک کا
بَوْخ: (ن) تھکنا، سست پڑ جانا، دھیما ہونا
___ الغَضَب: غصہ ٹھنڈا پڑ جانا
___ الطَّعَام: ذائقہ خراب ہونا، مزہ بدل جانا
بَائِخ: (۱) تھکا ماندہ (۲) ٹھنڈا، سرد (۳) بجھا ہوا
بُوْدرَة (مَسْحُوْقُ الزِّيْنَة): پاؤڈر
عُلْبَةُ البُوْدرَة: پاؤڈر کا ڈبہ
فُوْرْشَةُ البُوْدرة: پاؤڈر برش
بُوْدَقَة: دیکھئے، بُوتقة
بُوْذَا: گوتم بدھ، بدھ مت کا بانی
بُوْذِيٌّ: بدھ مذہب کا پیروکار
بُوْذِيَّة: بدھ ازم
بَـوْرٌ: وہ زمین جو قابل کاشت بنانے کی غرض سے بلا کاشت چھوڑ دی جائے
أَرْضٌ بُوْرٌ: بنجر زمین
تَبْوِيْر: بنجر بنا دینا، بے کاشت چھوڑ دینا
بَارَ بُوْرًا و بَوَارًا: ہلاک ہونا
___ العَمَلُ: کام خراب ہو جانا، ضائع جانا
بَارَتِ السُّوْقُ: بازار کا مندا ہونا
___ السِّلْعَة: نا قابل فروخت ہونا
بَوَارٌ: تباہی، ہلاکت، عذاب
دَارُ البَوَار: دوزخ
بَوَاسِيْرُ: بواسیر
بُـوْرْصَة: (مع) تجارت گاہ، منڈی، ایکسچینج، محکمہ حسابات

___ الأَوْرَاقِ المَالِيَة: تبادلہ زر کی تجارت، ذخیرہ، زرِ مبادلہ
بُورصَةُ البِضَاعة: سامانِ تجارت کی خرید و فروخت
بُورَقٌ أُرْمَنِيٌّ: سوڈا
بُوسٌ (ن): بوسہ لینا، پیار کرنا
بُوسَة (مع) قُبلَة: پیار، بوسہ
بُوسْطَةٌ: (مع) ڈاک (۲) ڈاک خانہ
بَوَّشَ القَوْمُ تَبْوِيشًا: مل جل کر شور مچانا
بَوْشٌ ج: أَوْبَاش: (۱) بے ترتیب مجمع (۲) کمینوں کی ٹولی، رذیل طبقے کے لوگ
بُوصٌ: ریشمی کپڑا، سلک
بَاص: ج: بَاصَات: بس
بُوصَة: انچ (انگریزی ناپ) 1/12 فٹ، 2.54 سینٹی میٹر ج: بُوصَات
بُوصَلَة: قطب نما
بُوطَة: (بُوتَقَة دیکھئے)
بُوعٌ: وہ ہڈی جو ہاتھ پیر کے انگوٹھے نیچے ہوتی ہے۔
بَاعٌ: دو ہاتھ کے پھیلاؤ کے بقدر
طَوِيلُ البَاعِ: توانا، طاقتور
قَصِيرُ البَاعِ: ناتواں، کمزور، عاجز
بُوغَاز: (۱) تنگ نائے، دو سمندروں کے درمیان کی تنگنائی (۲) بندرگاہ، آبنائے، ج: بواغیز
بُوفِيه: (مقْصَف): برتنوں کی الماری (۲) ناشتہ خانہ (اسٹیشنوں وغیرہ پر)
بُوقٌ ج: أَبْوَاقٌ و بِيقَانٌ: بگل، ہارن
تَبْوِيق: بگل بجانا، ہارن بجانا

بَوَّاقٌ: بگل بجانے والا
بَاقَة ج: بَاقَات: خوشہ، گچھا
___ زُهُور: گلدستہ
بَائِقَة ج: بَوَائِق: مصیبت، ایذاء، شر
بَوْل: (۱) پیشاب (۲) پیشاب کرنا
بَالٌ: (۱) دل (۲) عقل (۳) حالت (۴) اہمیت
مُرْتَاحُ البَالِ، هَادِئُ البَالِ: مطمئن، پرسکون، غیر متفکر
مُشْتَغِلُ البَالِ: متفکر، مضطرب، پریشان خاطر، فکرمند
أَعْطَى بَالَه إِلَى: توجہ دینا، لحاظ رکھنا
غَابَ عن بَالِهِ: بھول گیا، یاد نہ رہا
خَطَرَ ببَالِهِ خُطُورًا: دل میں آنا، ذہن میں آنا
مَابَالُكَ: تیرا کیا حال ہے، تجھے کیا ہوا
ذُوبَالٍ: اہم، مہتم بالشان
بَالَة: عطر کی شیشی، چھوٹی شیشی
___ و إِبَالَة: سامان کا گٹھا، گانٹھ
بُوَال: ذیابیطس، بیماری کی ایک قسم جس میں پیشاب کے ساتھ شکر آتی ہے۔
البَوْلُ السُّكَّرِيّ: ذیابیطس، شوگر کی بیماری
مِبْوَلَة: (۱) پیشاب دان (۲) پیشاب خانہ
مُبْوِلَة: پیشاب لانے والی
بُولَاذ: فولاد، اسٹیل
البُولشفِيَّة (البُلشُفِيَّة): بالشوازم، روسی کمیونسٹوں کی تحریک
بُولِصَة: (مع) پالیسی، طریق عمل، طرز عمل
بُولِصَة، بُولِيْصَة ج: بُوَلِص: رسید،

ہنڈی
بُولِیس: (۱) نظم ملکی قائم کرنے والی جماعت
(۲) پولیس (۳) محکمہ پولیس، محکمہ کوتوالی
(۴) پولیس مین، کانسٹبل
البُولِیس الحربِیّ: جنگی پولیس
البُولِیس الدُّولِیّ: بین الاقوامی پولیس
بُولِیسٌ سِرِّی: خفیہ پولیس
رِوایَة بُولِیسِیَّة: جاسوسی ناول
بُولِیسَة: وثیقہ، دستاویز، ہنڈی، بلٹی
بُولِیسَةُ السّیکُورتاه (التامین): بیمہ کے ذریعہ محفوظ کرانے کا طریقہ
بُولِیسَةُ الشَّحنِ بالبَحر: جہاز کے مال کی بلٹی
___ بِسِکَّةِ الحَدِید: ریل کے ذریعہ بھیجنے کا طریقہ
بُویَة (صِباغ): روغن پینٹ، پالش
بُویَجیٌّ (مَسَّاحُ الاَحذِیَة): پالش کرنے والا
ب .... ی
بِیئَة: (دیکھئے بوأ)
بِیادَة: پیدل فوج
بِیادِیّ: پیدل فوج کا سپاہی
بَیان: دیکھئے بین
بَیَّتَ تبییتًا: رات میں کسی کام کو انجام دینا
بَاتَ ـــ بَیتُوتَة و بَیتًا و بَیَاتًا و مَبِیتًا: شب گذارنا، بمعنی (صار) ہونا
بَیت ـ بُیُوت و أبیات: ہاؤس، ہوم، لاج، رہائش گاہ، اقامت گاہ، (۲) خاندان، (۳) شعر
بُیُوتات: (جمع الجمع و: بیت) گھر

البُیُوتات التِجارِیَّة: بزنس ہاؤس
بَیتُ الأزیاء: فیشن یا ڈیزائن ہاؤس
بَیتُ الإصدَار: مرکز اجراء
بَیتٌ تِجارِیٌّ: کمرشیل ہاؤس، تجارتی گھر
بَیتُ الحِضانَة: نرسری
بَیتُ شَعر: خیمہ
بَیتُ شِعر: نظم کا ایک شعر، بیت، شعر کا جزء
بیت المال، خزانہ عامہ
بَیتُ مَالِ الدَّولَة: ٹریزری، خزانہ حکومت
بَیتٌ یَمُوجُ بالضُیُوف: مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا مکان
مَبِیت: رہائش شبینہ
بَیتِیٌّ: گھریلو، خانگی، خاندانی، پالتو، گھر کا بنا ہوا۔
بَیَاتٌ ج: بَیَاتَات: شب خون، رات کے وقت کا حملہ
البَیجُوم: بیگم
بَادَ ـ بَیدًا و بَیَادًا و بَیُودَة: ہلاک ہونا
بَادَتِ الشَّمسُ: سورج غروب ہونا
إبادَة: بیخ کنی، قتل عام، بربادی، صفایا کرنا
إبادَةُ الجِنس: نسل کشی
مُبِیدٌ للحَشَرات: کیڑے مار (دوا)
بِیادَة: پیادہ پا فوج
بِیادِیّ: پیدل فوج کا سپاہی
بَیدَ أنَّ (غیرَ أنَّ): لیکن، مگر یہ کہ، اس کے باوجود، تاہم، پھر بھی (فلانٌ کثیرُ المالِ بَیدَ أنّه بَخِیل)
بَیدَرٌ: کھلیان ج: بَیادِرُ
بَیدَق و بِیدَقُ الشِطرَنج: ج: بَیادِقُ شطرنج کا مہرہ جس کو پیادہ کہتے ہیں۔

بَیْرَق: ج: بَیَارِقُ: جھنڈا، پرچم
بَیْرَقُدَار: علم بردار
بَیَّضَ تبییضًا: سفید کرنا
__ البَیْتَ: سفیدی کرنا
__ القُمَاشَ: کپڑا دھونا
__ الکِتَابَ: مسودہ صاف کرنا
__ الآنِیَةَ: قلعی کرنا
__ الوَجْهَ: روشن کرنا، خوش کرنا، عزت بخشنا
بَیْضٌ و : بَیْضَة: انڈا
__ بِرِشْت: نیم برشت کیا ہوا انڈا
__ جَامِدٌ (مَسْلُوق): ابلا ہوا، خوب پکا ہوا انڈا
__ مَقْلِیٌّ: تلا ہوا انڈا، آملیٹ
إِفْرَاخُ البَیْض: انڈے کا بچے سے الگ ہونا
بَیْضَةٌ ج : بَیْضَات: (۱) خود (خصیہ)
بَاضَ ـــ بَیْضًا: انڈا دینا
أَبْیَضُ: سفید م :بَیْضَاءُ
اِبْیِضَاض: سفید ہونا
غَازٌ أَبْیَضُ: پٹرولیم
مَوْتٌ أَبْیَضُ: غیر متوقع موت
قِرْطَاسٌ أَبْیَضُ: وہائٹ پیپر
البَیْتُ الأَبْیَض: وہائٹ ہاؤس
بَیَاضٌ: سفیدی (۲) انڈے کی سفیدی
بَیَاضُ البَیْض: انڈے کی سفیدی
بَیَاضُ الحَائِط: سفیدی، چونا
بَیَاضُ الیَوْم: دن کی روشنی، تمام دن
تَبْیِیضَة، (مُبَیَّضَة): صاف کی ہوئی کاپی
مُبَیِّضُ النُّحَاس: قلعی گر
مُبَیِّضُ الأَقْمِشَة: دھوبی، کپڑا دھونے والا
مُبَیِّضُ الحِیْطَان: چونہ کرنیوالا، قلعی کرنے والا

__ القُمَاش (قَصَّار): دھوبی
بَیْطَار: (دیکھیے بطر)
بَاعَ ـــ بَیْعًا و مَبِیْعًا: بیچنا، فروخت کرنا، سیل کرنا، سپلائی، ڈیل
بَاعَ بالبَخْس: کم قیمت پر فروخت کرنا
بَاعَ با القَطَّاعِیّ: خوردہ فروشی کرنا، تھوڑا تھوڑا فروخت کرنا
__ بالمُنَادَاة: آواز لگا کر بیچنا
__ بالمَزَاد: نیلام کرنا
البَیْعُ بَأَسْعَارٍ مُخَفَّفَة: کم داموں پر بیچنا، کم ریٹ پر فروخت کرنا
البَیْعُ بالبَرِید: فروختگی بذریعہ ڈاک
البَیْعُ بالتَّجزِئَة: ریٹیل، خوردہ فروشی
البَیْعُ بالتَّقسِیط: قسطوں پر بیچنا
البَیع بالجُملَة: ہول سیل، تھوک فروشی
بَیْعُ البِضَاعَةِ إِجْبَارِیًا: سامان کی جبری فروختگی
البَیْعُ بَطرِیْقَةِ المُزَایَدَة: نیلامی کے ذریعہ بیچنا
البَیْعُ بالقَطَّاعِیّ: ریٹیل، خوردہ فروشی
بَیْع بالمُزَایَدَة: نیلامی
بَیْعٌ جَبْرِیٌّ: جبری فروختگی
البَیْع المُبَاشِر: ڈائرکٹ سیل، براہ راست فروختگی
المَبِیْع: برائے فروخت
إِبْتِیَاع: شاپنگ
بَیْعَة: فروختگی کا کام (۲) وفادار (۳) عہد وپیان
بَیْعَة جدِیْدَةٌ: نیا عہد وپیمان
بِیْعَةُ النَّصَارٰی ج: بِیَع: کنیسہ، چرچ
بِیْعَةُ الیَهُوْد: یہودیوں کا عبادت خانہ

بَـائِـعٌ بَيَّـاع: ڈیلر، سیلز مین، سیلر، تاجر، سوداگر، بزنس مین
بَـائِعُ أدَوَاتِ الكِتَابة: اسٹیشنر، لکھائی کا سامان فروخت کرنے والا
بـائـع بـالـتـجـزئـه: ریٹیل میں فروخت کرنے والا
بَـائِـعُ الـتَّـجـزِئة: ریٹیل میں فروخت کرنے والا
بَائِعٌ جَائِل: ہاکر، پھیری والا
بَائِعُ الصُّحُف: نیوز بوائے، اخبار فروش
بَائِعُ الكُتُب: بک سیلر
بَائِعٌ مُتَجَوِّل: پھیری لگا کر بیچنے والا
المُبَايَعَة: اظہارِ وفاداری
مُبَايَعَةُ احَد: وفاداری کا عہد کرنا
مَبِيعَات: سامانِ فروخت
مَبِيعَاتٌ آجِلَة: ادھار فروخت کی جانے والی اشیاء
مَبِيعَـاتٌ بـالجُملَة: تھوک فروخت ہونے والی اشیاء
مَبِيعَاتٌ بالعُمُولَة: کمیشن پر فروخت ہونے والی اشیاء
مَبِيعَاتٌ نَقدِيَّة: نقد فروختگیاں
بَيكٌ، بِک: ایک اعزازی لقب
بِيكَار: پرکار
بِيكَةُ النور الكهربائی: بلب، قمقمہ
بَانَ ـــ بَيَنًا: ظاہر ہونا، جدا ہونا
إبَانَة: ظاہر کرنا، جدا کرنا، فصاحت
تَبَيُّن: ظاہر ہونا، پتہ لگانا، معلوم کرنا
تبيين: ظاہر کرنا، بیان کرنا

تَبَايُنٌ: فرق، انتشار، اختلاف، تضاد
تَبَايُنُ الآراءِ و تَصَارُعُها: اختلافِ رائے
التَّبَايُن الظَّاهِر: کھلا تضاد
بَيْن: جدائی، فاصلہ
بَيْنَ بَيْنَ: بین بین، (كَانَ هو بَيْنَ بَيْنَ ذلك)
بَيْنَ يَدَيْه: اس کے سامنے، اس کے ساتھ
بَيْنَمَا، بَيْنَا: جب، دوران، درمیان
ذَاتُ البَيْن: دشمنی، عداوت
بَيَان ج : بَيَانَات: تفصیل، وضاحت، رپورٹ لائحہ عمل، پروگرام، اطلاع، اعلان، اشتہار، ریکارڈ، ڈکلریشن، لسٹ
مَلْءُ البَيَانَات: خانہ پری کرنا
بَيَانُ إرسَالِيَّة: ڈسپیچ لسٹ، روانگی سامان کی فہرست
بَيَانٌ تَوضِيحِيّ: وضاحتی بیان، وضاحتی نوٹ
بَيَانٌ رَسمِيّ: سرکاری اعلان
حُسْنُ البَيَان: فصاحت
بَيَانُ الشُمُول: بیانِ مندرجات
بَيَانٌ صَحَفِيّ: اخباری بیان
بَيَانُ مَوَاعِيدِ القِطَار: ریلوے ٹائم ٹیبل
بَيَانٌ صَادِقٌ: سچا بیان
بَيَانٌ كَاذِبٌ: جھوٹا بیان
بَيَانٌ مُشتَرَك: مشترکہ بیان
بَيَانُ المَصرُوفَات: بل
بَيَانٌ من جَانِبٍ وَاحِدٍ: یک طرفہ بیان
بَيَانُ المِيزَانِيَّة: بجٹ کی تفصیل
البَيَانُ اليَدَوِيُّ: ہینڈ بل
بَيَانَات: ریکارڈس، تفصیلات، وضاحتی بیان
بَيَانَاتٌ مُزَيَّفَة: فرضی بیانات

بَیَانِیّ: وضاحتی
بَیِّنَة: شہادت، دلیل
عَلٰی بَیِّنَةٍ: پوری واقفیت کے ساتھ

ت

ت..........أ

تَابُوت ج: تَوَابِيتُ: صندوق، بکس، وہ بکس جس میں مردہ جسم محفوظ کیا جائے

تَارَةً ج: تَارَات: (١) ایک دفعہ (٢) کبھی (٣) بعض اوقات

تَاشِيرَة: ویزا ج: تَاشِيرَات

تَاشِيرَةٌ بالاقَامَة: اقامتی ویزا

تَاشِيرَةُ دُخُولٍ: انٹری ویزا، داخلہ کا ویزا

تَاشِيرَةُ سَفَر ج: تَاشِيرَات: ویزا

تَاشِيرَةٌ عَلَى جَوَازِ سَفَرٍ: پاسپورٹ پر ویزا لگانا

تَاشِيرَةُ مُرُوْر: ٹرانزٹ ویزا

تَوأَم: جڑواں بچہ ج: تَوَائِم

أتأمَتِ المرأةُ إِتْآماً: جڑواں بچہ جننا

ت..........ب

تَبَّ ـِ تَبَاباً وِ تَبّاً، و تَبِيباً: ہلاک ہونا، برباد ہونا

إسْتَتَبَّ لَهُ الْأَمرُ إِسْتِبَاباً: کسی چیز کا سازگار ہونا، درست ہونا، فضا ہموار ہو جانا، قائم ہو جانا

إِسْتِتْبَابُ الْأَمْن: امن قائم کرنا یا ہونا

تِبْرٌ و: تِبْرَة: بے ڈھلا سونے کا ڈلا

تَبِعَ ـَ تَبَعًا، وَ اتَّبَعَ: (١) پیچھے چلنا (٢) ساتھ چلنا (٣) مطیع وفرمانبردار ہونا (۴) کسی کے بعد آنا (۵) ماتحت ہونا

إِتِّبَاعُ خُطَّة: پلان پر چلنا

إِتِّبَاعُ الطُّرُقِ الحَدِيثَةِ: نئے طریقے اختیار کرنا

تَابَعَ الشَّيْئَ مُتَابَعَةً: لگا تار کرنا، موافقت کرنا

تَابَعَ قَائِلاً: سلسلہ کلام جاری رکھنا

مُتَابَعَة: جائزہ، تعاقب، توجہ، دھیان، نظر رکھنا، جائزہ لینا، نگاہ رکھنا، تعاقب کرنا، جاری رکھنا، دیکھنا

مُتَابَعَةُ الاتِّصَالَات: رابطہ قائم رکھنا

مُتَابَعَةُ الإِجْتِمَاعَات: جلسے جاری رکھنا، ملاقاتیں جاری رکھنا

مُتَابَعَةُ التَّحْقِيق: تحقیق جاری رکھنا

مُتَابَعَةُ الحَدِيث: بات چیت جاری رکھنا، گفتگو جاری رکھنا

مُتَابَعَةُ مَسِيرَةِ البِنَاء: تعمیری مہم جاری رکھنا

مُتَابَعَةُ المُهِمَّات: فرائض انجام دینا
مُتَابَعَةُ الوَقائِع: حوادث کا جائزہ لینا
تِبَاعاً: مسلسل، لگاتار
تَابِعٌ ج تَبَعٌ و تُبَّاع: (۱) لاحق، متصل (۲) محکوم وماتحت (۳) شاگرد (۴) خادم
تَابِعٌ لکذا: کسی چیز سے متعلق، ماتحت
تَوَابِعُ و : تَابِعٌ: (۱) خدام، نوکر چاکر (۲) طفیلی (۳) مصاحب (۴) وہ سیارے جو دوسرے سیاروں کے گرد گھومتے ہیں
تَابِعَة ج تَوَابِعُ، تَبِعَة ج تَبِعَات: نتیجہ، انجام، ذمہ داری
تَابِعِيَّة: نیشنلٹی، شہریت
تَبَعِيَّة: دست نگری، غلامی، ماتحتی
بِالتَّتَابُع: مسلسل، پیہم، برابر
مُتَتَابِعًا: آگے پیچھے
يُتْبَعُ (لِلْكَلامِ بَقِيَّةٌ): "باقی آئندہ" کی طرح ناتمام مضمون کے آخر میں لکھتے ہیں
تَتَبُّعُ المَصْدَر: سرا تلاش کرنا۔
تِبْغ، تَبْغ، تَبَغ: تمباکو (پینے کا)
تَبَلَ الطَّعَامَ تَبْلاً و تَوْبَلَة: کھانے میں مصالحہ ڈالنا
تَوَابِلُ و تَابَل: مصالحہ
مُتَبَّلٌ: مصالحہ دار
تَبَّالٌ: مصالحہ فروش
تِبْنٌ و تِبْنَة: بھوسہ
تَبَّانٌ: بھوسہ بیچنے والا
تُبَّانٌ: نیکر، جانگیہ، لنگوٹ
تَبَوَّأ: دیکھئے بوء

ت.........ت

تَتَرٌ و تَتَرِيٌّ: قوم تاتار جو چین اور بحرِ قزوین کے درمیان آباد ہے
تَتْرَى: یکے بعد دیگرے، لگاتار
تُتُنٌ: تمباکو (یہ لفظ ترکی الاصل ہے)
تَنْتُوس: (مع) ٹیٹنس

ت.........ج

تَجَرَ ـُـ تَجْراً و تِجَارَةً: سوداگری کرنا تجارت کرنا۔
مُتَاجَرَةٌ و اِتِّجَارٌ: سوداگری کرنا، تجارت کرنا
اِتِّجَارٌ غَيْرُ شَرْعِيّ: ناجائز خرید و فروخت
تِجَارَةٌ، مَتْجَرٌ: (۱) سوداگری، (۲) سامانِ تجارت
التِّجَارَةُ بالجُمْلَة: ہول سیل
تِجَارَةُ جُمْلَةٍ: ہول سیل، تھوک فروشی
تِجَارَةُ تَجْزِئَة: ریٹیل سیل، خوردہ تجارت
التِّجَارَةُ الخَارِجِيَّة: غیر ملکی تجارت، بیرونی تجارت
تِجَارَةُ الصَّادِرَات: اکسپورٹ تجارت
تِجَارَةُ الغِلال: غلہ کی تجارت
تِجَارَةٌ مُحَرَّمَةٌ: ناجائز تجارت
تَاجِرٌ: تجارت پیشہ، ڈیلر ج: تُجَّار
تَاجِرُ الجُمْلَة: تھوک فروش، ہول سیلر
تَاجِرُ التَّجْزِئَة: خوردہ فروش
تَاجِرُ الخُرْدَوَات: خوردہ فروش
تَاجِرُ صَادِرَات: بیرونی اشیاء کا تاجر
التَّاجِرُ الفَرْدُ: واحد تاجر، سول ٹریڈر
تَاجِرُ القَطَّاعِي: ریٹیل ڈیلر، خوردہ

فروش، پرچون فروش
تـاجرٌ مُصَدِّرٌ: ایکسپورٹ کرنے والا تاجر
تَاجِرُ المُفرِّق: پرچون فروش
مَتْـجَـرٌ: مارکیٹ، شاپ، دوکان ج: مَتَاجِرُ
المَتْجَرُ التَّنوِيعِيُّ: ڈپارٹمنٹ اسٹور
مَتْجَرٌ عامٌّ: جنرل اسٹور
مَتَاجِرُ: اسٹورس، دوکانیں
مَتَاجِرُ الأَقْسام: ڈپارٹمنٹل اسٹورس
مَتَـاجِـرُ الـخِدْمَة الـذَّاتِيَّة: سیلف سروس اسٹور
مَتَـاجِـرُ ذَاتُ فُرُوْع: شاخوں والے اسٹور
الـمُتَـاجَرَةُ بكذا: خرید وفروخت، بیع وشراء
المُتَاجَرَةُ فی: کسی چیز کا کاروبار کرنا
الـمُتَـاجَـرَةُ فی السُّوق السَّوْداء: بلیک مارکٹنگ کرنا
الـعُرْفُ التِّجارِيُّ: تجارتی اصطلاح، تجارتی طریقہ کار
تِجارِيّ: تجارتی کمرشیل
مُـلْحَقٌ تِجارِيٌّ: تجارتی مشیر، کمرشیل اٹاچی
شَارِعٌ تِجارِيٌّ: کمرشیل اسٹریٹ

ت.........ح

تَحْتَ: نیچے، فَوْق کی ضد
تَحْتَانِيٌّ: نچلا، زیریں
تَحْتَ كذا: کم درجہ
تَحْتَ إِشْرَافِ: زیرنگرانی
تَحْتَ التَّجْرِبة: زیرتجربہ
تَحْتَ التَّحَفُّظ: زیرحراست
تَحْتَ التَّصَرُّف: زیراختیار
تَحْتَ التَّمْرِين: زیرمشق
تَحْتَ التَّنفِيذ: زیرعمل، زیرترتیب
تَحْتَ جُنحِ الظَّلَام: سخت اندھیرے میں
تَحْتَ الحِرَاسة: زیرحراست
تَحْتَ رَحْمَةِ فُلَان: اس کے رحم وکرم پر
تَحْتَ رِعَايَة: زیرنگرانی
تَحْتَ الرِّئَاسَة: زیرصدارت، زیرنگرانی
تَحْتَ سَطْحِ الأرض: انڈرگراؤنڈ
تَحْتَ الطَّلَب: حسب آرڈر
تَحْتَ العَشر: دس سے کم
تَحْتَ الفَحص: زیرمعائنہ، زیرجانچ
تَحْتَ الوِصَايَة: زیرنگرانی
تُحْفَة ج تُحَف: ہدیہ، تحفہ
أَتْحَفَهُ الشَّیْءَ و به إِتْحافاً: بطورتحفہ دینا
مُتْحَفٌ، مَتْحَفَة ج مَتَاحِفُ: عجائب گھر، میوزیم
تَحِيَّة: دیکھیے "ح ی"

ت.........خ

تَخْتٌ ج تُخُوت: بینچ
تَخْتُ الثِّيَاب: کپڑوں کی الماری
تَخْتُ الرُّقَاد: پلنگ، مسہری
تَخْتُ الكِتَابَة: ڈیسک
تَخْتُ المَلِك: تخت شاہی
تَخْتُ الحُكُومَة: دارالحکومت
تَخْتٌ مُوسِيقِيّ: میوزیکل بورڈ

تَخْتَةُ الكِتَابَةِ: ڈیسک

ت .... ر

تِرام: ٹراموے
مَرْكَبَةُ تِرام: ٹرام گاڑی
تَرِبَ ـَـ تَرَباً: غبار آلود ہونا، ذلیل ہونا، فقیر محتاج ہونا
تَتَرَّب: غبار آلود ہونا
تُرْبَة ج تُرَبٌ: مٹی (۲) زمین (۳) مقبرہ
تِـرْبٌ ج: أتْـرَاب: (۱) ہمسر (۲) ساتھی، معاصر
تُرَابٌ: مٹی
تُرَابِيٌّ: مٹیالا
تَرْبَنَة: کھوپڑی کا آپریشن کرنا
تِـرْبَـان ج: تَـرَابِيْنُ: کھوپڑی میں سوراخ کرنے کا آلہ
تَرْبِيْزَة، تَرَابِيْزَة: (مع) ٹیبل (کھانے کی)
تَرْجَمَة: ٹرانسلیشن، ترجمہ
تَرْجَمَةٌ فَوْرِيَّةٌ: برجستہ ترجمہ
تَرْجَمَةٌ حَرْفِيَّة: لفظ بلفظ ترجمہ
تَرِحَ ـَـ تَرَحاً: رنجیدہ ہونا
تَتْرِيْح: رنجیدہ کرنا
تَرَحٌ ج: أتْرَاحٌ: رنج، غم
تَرْزِيّ. طَرْزِيّ (دا): درزی، خیاط
تُرْس ج: أتْرَاس: ڈھال
تَرْسَانَة ج: تَرْسَانَات: (۱) میگزین اسلحہ خانہ (۲) جہاز سازی کا کارخانہ
تِرْسَة (دا): سمندری کچھوا
تَارِسٌ: ڈھال والا
تَرَّاسٌ: ڈھال بنانے والا

التَّتْرِيْسُ: انجن کا گیر لگانا
مِتْرَسٌ، مِتْرَاسٌ ج: مَتَارِيْسُ: دشمن سے محفوظ رکھنے والا قلعہ
تَرَسِيْنَة (شُرْفَة، بَلْكُوْن): بالکنی
تَرِعَ ـَـ تَرَعاً: بھر جانا (پانی سے)
إتْرَاع: بھرنا، پاٹنا۔
تُرْعَة ج: تُرَعٌ: (۱) نہر (۲) حوض کا دہانہ
تُـرْعَةُ إيْرَاد: آب پاشی کی نہر جو کسی جگہ سے کاٹ کر لائی جائے۔
تُرْعَةُ التَّصْرِيْف: پانی نکالنے کی نہر
تَرِفَ ـَـ تَرَفاً و تَتَرَّفَ: آسودہ حال ہونا، خوشحال ہونا
تَرَف تُرْفَة: آسودہ حالی، خوشحالی
إتْرَاف: آسودہ حال بنانا، خوشحال بنانا
مُتْرَف: خوشحال، آسودہ حال
تَرْقُوَة ج تَرَاق: ہنسلی کی ہڈی
تَرَكَ ـُـ تُرْكاً و تِـرْكاناً و اِتَّرَكَ: (۱) چھوڑنا، (۲) دست بردار ہونا (۳) غفلت برتنا
تَرَكَ إرْثاً: ترکہ چھوڑنا
تَرْكُ الأمْرِ لأحَدٍ: آزاد چھوڑنا
تَرْكُ الأمْرِ للزَّمن: حالات کے رحم وکرم پر چھوڑنا
تَرْكُ حُرِّيَةِ العَمَل لأحَد: کام کی آزادی دینا
تَرْكُ الخِدْمَة: ریٹائرمنٹ
تَـرَكَـهُ و شَأنَهُ: (۱) آزاد چھوڑنا، دخل نہ دینا، وقت پر ساتھ نہ دینا
تَارَكَهُ مُتَارَكَةً: مصالحت کرنا، صلح کرنا

تَرِکَةُ المُتَوَفِّی: مالِ وراثت۔
تُرْکِیَّا: ترکی (ملک)
تَرِیْکَةٌ: وہ عورت جو اپنے باپ کے گھر چھوڑ دی گئی ہو کوئی اس سے شادی نہ کرتا ہو
مُتَارَکَة: مصالحت، صلح
مَتْرُوْکَات: متروکہ سامان
تَرِهَ ـــ تَرَهاً: لغویات میں پڑنا، باطل چیزوں میں الجھنا
تُرَّهَةٌ: (۱) امر باطل (۲) مصیبت (۳) چھوٹا راستہ ج: تُرَّهَات

ت.........ش

تِشْرِیْنُ الأَوَّلُ: ماہِ اکتوبر
تِشْرِیْنُ الثَّانِي: ماہ نومبر
تَشِیْکُوْ سُلُوفَاکِیَا: چیکوسلواکیہ

ت.........ع

تَعِبَ ـــ تَعَباً: (۱) تھکنا، (۲) محنت کرنا
تَعِبَ مِنْه: اکتانا
إِتْعَابٌ: تھکانا، گرانبار کرنا
تَعَبٌ: (۱) تھکان، محنت، (۲) اکتاہٹ (۳) محنت فیس، محنتانہ ج: أَتْعَاب
أَتْعَابُ الْمُحَاسِب: اکاؤنٹنٹ فیس
أَتْعَابُ الْمُحَامِي أو الطَّبِيْب: وکیل یا ڈاکٹر کی فیس
أَتْعَابُ الْمُرَاجَعَة: آڈٹ فیس، حسابات کی جانچ کی فیس
تَعِبٌ، تَعْبَانٌ، مُتْعَبٌ: (۱) تھکا ہوا (۲) اُکتایا ہوا
مُتْعِبٌ: پریشان کن، تکلیف دہ
مَتَاعِبُ: مشکلات، پریشانیاں
مَتَاعِبُ اِقْتِصَادِيَّة: اقتصادی پریشانیاں
تَعِسَ ـــ تَعَساً: بدبخت ہونا
تَعْسٌ و تَعَاسَةٌ: شقاوت، بدقسمتی
تَعِسٌ و تَعِیْسٌ: (۱) شقی (۲) بدبخت
تَعْوِیْذ: (دیکھئے "عوذ")

ت.........ف

تُفَّاحٌ: سیب ج: تَفَافِیْحُ
تَفَّفَ تَتْفِیْفاً: تھوتھو کرنا، ج: تُف تُف کہنا
تَفَّفَ الأَظَافِرَ: ناخنوں کا میل صاف کرنا
تُفٌّ: ناخن کا میل ج: تِفَفَة۔
تَفَلَ ـــ تَفْلاً: تھوکنا
مِتْفَلَة: اُگالدان ج: مَتَافِلُ
تَفِهَ ـــ تَفَهاً: کم ہونا، بے حقیقت ہونا
تَفِهَ الطَّعَامُ: بے مزہ ہونا
تَفَاهَةٌ: بے لطفی، پھیکا پن، گھٹیا پن، معمولی پن، ہلکا پن (۲) بے حقیقت ہونا
تَافِهٌ، تَفِهٌ: (۱) بے مزا (۲) حقیر، گھٹیا
أُمُوْرٌ تَافِهَةٌ: معمولی امور
أُمُوْرٌ تَافِهَةُ القِيْمَة: معمولی قسم کے معاملات

ت.........ق

تَقَاوِی: بیج (دا)
تَقَنَ ـــ تَقَانَة، و أَتْقَنَ: ماہر ہونا، حاذق و کامل ہونا
إِتْقَان: (۱) مضبوط بنانا، (۲) مہارت، پختگی، (۳) مہارت حاصل کرنا
إِتْقَانُ القِيَادَة: ڈرائیوری میں ماہر ہونا، مہارت حاصل کرنا

بِاِتْقَان: (۱) مہارت کے ساتھ (۲) پختگی کے ساتھ (۳) خوبی کے ساتھ

مُتْقَنٌ: پختہ، بے عیب، کامل ودرست

تَقِنٌ، تِقْنٌ، مُتْقِنٌ: (۱) پختہ کار، (۲) ماہر وحاذق، (۳) کسی علم وفن میں اعلیٰ لیاقت رکھنے والا

ت..........ک

تَكْتَكَة: (۱) روندنا (۲) گھڑی کا ٹک ٹک کرنا، کھٹ کھٹ کی آواز

تَكَّ ـُ تَكًّا: روند کر کچل دینا

تِكَّةٌ: ازار بند ج: تِكَكٌ

مِتَكٌّ: ازار بند ڈالنے کی سلائی

تكية: دیکھئے وکأ

ت..........ل

تَلِيد: دیکھئے: ولد

تِلِسْكُوب (مع) مِقْرَابٌ: دوربین

تلغراف. (مع) ٹیلی گراف، ٹیلی گرام

تَلِغْرَاف لاَ سِلْكِيٌّ: بے تار کا برقی آلہ، آلہ پیام رسانی، وائرلیس، ٹیلی گراف

عَامِلُ التَلِغْرَاف: ٹیلی گراف کارکن، ٹیلیگرافر۔

تَلْغَفَة: (۱) تار دینا، (۲) ٹیلی گرام بھیجنا

تَلْغَفِيٌّ: ٹیلی گرام یا تار سے متعلق

تِلْغَافِيٌّ (عَامِلُ التِلِغْرَاف): تار بابو

تَلِفَ ـَ تَلَفًا: ہلاک ہونا، برباد ہونا

تَلَف: خرابی، تباہی

تَلَفُ المَحَاصِيلِ الزِرَاعِيَة: زرعی پیداوار کی تباہی

إِتْلاَف: ضائع کرنا، برباد کرنا، ضرر پہنچانا

إِتْلاَفُ الدَفَاتِرِ اوِ السِجِلاَّت: ریکارڈ ضائع کرنا

تَالِفٌ، مُتْلَفٌ مَتْلُوف: ہلاک شدہ، برباد شدہ

مُتْلِفٌ: مفسد، ضرر رساں، بربادکن، نقصان دہ

تَلْفَزَة: ٹیلی ویژن پر لانا

تَلْفَزَة: (مع) (مُبَاصَرَة) ٹیلی ویژن

تِلْفَاز: (مِبْصَار): ٹیلی ویزر (ٹیلی ویژن)

تِلْفُوْن: (مع) ٹیلی فون ج: تِلِفُوْنَات

عَامِلُ التِلِفُوْن: ٹیلی فون آپریٹر

تَلْفَنَةٌ: ٹیلی فون کرنا

مُخَابَرَةٌ تِلِفُوْنِيَّة: بذریعہ ٹیلیفون بات چیت، ٹیلی فون کال

تِلْقَاء: دیکھئے: لقی

تِلْكَ: (وہ) اسم اشارہ واحد مونث بعید کے لئے

تَلٌّ ج: تِلاَل: ٹیلہ، چھوٹی پہاڑی

تَلْمَذَة: (۱) شاگرد بنانا (۲) کسی کام کی مشق کرنا (۳) کردار وغیرہ کی آزمائش کرنا (۴) پڑھائی، تعلیم

تِلْمِيْذٌ ج: تَلاَمِيْذُ: (۱) شاگرد (۲) طالب علم

__ فی مَدْرَسَةٍ عَالِيَة: انڈر گریجویٹ

__ فی مَدْرَسَةٍ حَرْبِيَّة: فوجی اسکول کا طالب علم، ملٹری اسٹوڈنٹ

__ فی التَمْرِيْن: (۱) مبتدی (۲) ٹریننگ اسٹوڈنٹس

__ دَاخِلِيٌّ: دارالاقامہ میں رہنے والا طالب علم

__ خَارِجِيٌّ: (۱) بورڈنگ سے باہر رہنے والا طالب علم (غیر ملکی طالب علم)

تَلِهَ ــ تَلَهاً: حیران ہونا
تَالِهٌ ، مُتَلَّهٌ: حیران، حیرت زدہ
تَالِهُ العَقلِ: بے عقل، کودن
تَلاهُ ــُ تُلُوّاً: (۱) پیچھے چلنا، تابع ہونا (۲) کسی چیز کے نتیجہ میں کوئی بات پیدا ہونا
تَلاَ ــُ تِلاوَةً: پڑھنا، پڑھ کر سنانا۔
تِلْوٌ: جو چیز کسی دوسری چیز کے پیچھے ہو
مَرَّةً تِلوَ المَرَّه: بار بار
بِالتَّالِي: (۱) لہٰذا، نتیجہ یہ ہوا کہ (۲) نتیجہ کے طور پر

ت .... م

تَمْتَمَة: بڑبڑانا، منہ ہی منہ میں بولنا
تَمَرجِيٌّ (دا): تیمار دار (مُمَرِّض)
تِمسَاحٌ: ج: تَمَاسِيحُ: مگرمچھ، گھڑیال
تَمغَة: (دا) خطاب، اعزاز
تَمَّمَ تَتمِيماً: پورا کرنا، پایہ تکمیل کو پہنچانا
مُتَمِّم: سپلیمنٹری
تَمَّ ــِ تَمَاماً: پورا ہونا، انجام پانا، کام ختم ہو جانا
تَمَاماً : كُلِّيَةً: سب کا سب، کلی طور پر ٹھیک، بالکلیہ، یقیناً
تَمَاماً و بالتَّمَام: بالکل، یقیناً، سراسر
تَمِيمَة ج تَمَائِمُ: تعویذ
تَمُّوز (يُولِيُو): ماہ جولائی

ت .... ن

تَنَحَّى: دیکھیے نحو
تِنبَل و تَانبُول: پان
تَنِسٌ (مع) تِنِيسٌ: ٹینس، لان ٹینس
تَنِسُ الرِّيشَة: بیڈمنٹن
تَنِسُ المَائِدَة: ٹیبل ٹینس (پنگ پونگ)
مِضْرَبُ التَّنِس: راکٹ، ٹینس کا بلا
مَلْعَبُ تَنِسٍ: ٹینس کا میدان
تَنكَة : (غَلاَّيَة) کیتلی، کنستر
تَنكَة و تَنَك و تِنكَار: ٹین
تَنَكجِيٌّ: ٹین ساز
تَنُّورَة: (دا) پیٹی کوٹ
تِنِّينٌ ج: تَنَانِينُ: اژدھا، بڑا سانپ

ت .... ہ

تَهِمَ ــَ تَهَماً: بدبو ہونا، تعفن ہو جانا

ت .... و

تَوّاً : (۱) فوراً، اسی وقت (۲) براہِ راست
لِتَوِّهِ: حال ہی میں، ابھی ابھی، جیسے
ذَهَبَ لِتَوِّهِ: وہ ابھی ابھی گیا ہے۔
(توب) تَابَ ــُ تَوبَةً و مَتَاباً: نادم ہونا، پشیمان ہونا
تَابَ عن مَعْصِيَةٍ: گناہ سے باز آنا
تَابَ عن عَمَلٍ: چھوڑنا، باز آنا
تُوبُوغرَافِيا : جغرافی مطالعہ
تُوتِيَا: جست
تُوتِيا . زَرقَاء: نیلا تھوتھا
تَوَّجَ تَتوِيجاً: تاج پہنانا، تاج پوشی کرنا
تَتَوَّجَ: تاج پہننا، تخت نشین ہونا
تَاجٌ ج: تِيجَان: تاج، سہرا
تَــاجُ الـعَـمُود: عمارتی ستون کا بالائی نمایاں حصہ
تَاجُ القَلَنسُوَة: ٹوپی کا چندوا
مُستَعْمَرَة التَّاج: شاہی علاقہ، جو براہِ راست بادشاہ کے کنٹرول میں ہو
تَاجِيُّ الشَّكل: مخروطی

تُولِستُوی: ٹالسٹائی (روسی ناول نگار)
(توح) تَاحَ له ـِـ تَوحاً و تَیحاً: مہیا ہونا، مقدر ہونا
إتاحه : (۱) مہیا کرنا (۲) مقدر کرنا
إِتَاحَةُ الفُرصَة: موقع دینا
مُتَـاحٌ: (۱) ممکن الحصول (۲) مقدر، حاصل شدہ، میسر
تَوْرَاة: بائبل
تَوْرَاتِی: بائبل سے متعلق

ت............ی

تَیَّارٌ ج: تَیَّارَات: کرنٹ، ہوا کا جھونکا، رخ، ندی کا بہاؤ، دھارا، رو، ریلا، طوفان، حالات کا رخ، لہر، رجحان
تَیَّارٌ کَهُرَبَائِیٌ: برقی لہر، بجلی کا کرنٹ
تَیَّارٌ رَجْعِیٌ: قدامت پسندانہ رجحان
تَیَّارٌ سِیَاسِیٌ: سیاسی دھارا
تَیَّارُ الفِکر: ذہنی یا فکری رجحان
تَیَّارَاتٌ إِقْلِیمِیَّة: علاقائی رجحانات
تَیَّارَاتٌ ثَوْرِیَّة: انقلابی رجحانات
تَیَّارَاتٌ سِیَاسِیَّة: سیاسی رجحانات
تَیَّارَاتُ المَسَرَّة: خوشی کی لہریں
تَیَّارَاتٌ مُعَادِیَة: مخالف تحریکات
تَیفُود: (مع) ٹائی فائڈ (میعادی بخار)
تَیفُوس: (مع) ٹائفس، ایک قسم کا بخار
تَیَّهَ و تَوَّهَ: گمراہ کرنا، بھٹکانا
تَیَّهَ الفِکرَ: توجہ ہٹانا، خیال ہٹانا
تَاهَ ـِـ تَیهاً و تِیهاً: بھٹکنا، حیران و سرگشتہ پھرنا، گمراہ ہونا، ہلاک و برباد ہونا
تَـاهَ الـفِکرُ: ذہن منتشر ہونا، ذہن کا پراگندہ ہونا، خیال بٹنا
مَتَاهَة: گمراہی ج: مَتَاهَات
تَائِهُ الفِکر: پریشان حال، پراگندہ ذہن۔

ث

ث..........ا

ثَئِبَ — ثَئَباً و تَثَاءَبَ: جمائی لینا
ثَأَرَ — القتيل وبه ثَأْراً وأَثْأَرَ منه: مقتول کے خون کا بدلہ لینا، انتقام لینا۔
ثَائِرٌ: (۱) انتقام لینے والا (۲) باغی (۳) خون کا پیاسا (۴) انقلابی (۵) مشتعل
ج: ثُوَّار
الثَّائِرُ علی شیء: کسی چیز کا باغی، مخالف
ثَأْرِيٌّ: انتقامی
عَاطِفَةٌ ثَأْرِيَّةٌ: انتقامی جذبہ
ثَالِيُوم: (مع) تھیلیم، ایک کمیاب سفید نرم فلزی عنصر
ثَابَ: دیکھئے ثوب

ث..........ب

ثَبَتَ — ثَبَاتَةً و ثُبُوتَةً: بہادر ہونا، صاحب عزم ہونا
ثَبَتَ — ثَبَاتاً و ثُبُوتاً: (۱) ثابت قدم ہونا (۲) قائم رہنا (۳) ثابت وظاہر ہونا
ثَبَتَ علی: کسی چیز کے مقابلہ پر ڈٹنا، مقابلہ کرنا (۲) پابندی کرنا، قائم رہنا
ثَبَّتَ الشَّرِيطَ علی كذا تَثْبِيتاً: ٹیپ لگانا، کیسٹ لگانا
تَثْبِيت: جمانا، ثابت قدم بنانا، دلائل سے ثابت کرنا، مضبوط بنانا، فٹ کرنا، اطمینان دلانا، فکس کرنا، پختہ کرنا
تَثْبِيتُ الأَسْعَار: قیمتوں میں ٹھہراؤ پیدا کرنا
تَثْبِيتُ الحَقّ: حق ثابت کرنا
تَثْبِيتُ شيء بالإِسْمَنْت: سمنٹ سے جوڑنا
تَثْبِيتُ المَسِيرَة الأَمْنِيَّة: امن مشن کو مضبوط کرنا
تَثْبِيت و إِثْبَات: توثیق کرنا، تائید کرنا، کسی کے خلاف جرم ثابت کرنا، برقرار رکھنا، عارضی ملازم کو مستقل کرنا، استقلال، منظوری، اندراج، دلیل، ثبوت، تسلیم کرنا، نوٹ کرنا
إِثْبَاتُ البَيَانَات: خانے پر کرنا، تفصیلات درج کرنا
إِثْبَاتُ الذَّاتِيَة او الشَّخْصِيَة: شناخت کرانا، شخصیت منوانا، حیثیت عرفی بتانا
الإِثْبَاتُ فی دَفْتَرِ اليَوْمِيَّة: روزنامچہ میں

درج کرنا
إِثْبَاتَاتٌ لَازِمَةٌ: ضروری ثبوت
تَثَبَّتَ: جام ہونا، جم جانا
اَلتَّثَبُّتُ بِالمَوْقِفِ: پالیسی پر قائم رہنا
تَثَبَّتَ مِن كذا: وثوق حاصل کرنا، حقیقت معلوم کرنا، پہچاننا
تَثَبَّتَ فی كذا: احتیاط برتنا، غور وفکر سے کام لینا
ثَبَتٌ: حجت، برہان، ثبوت
ثَبَات: (۱) استقلال، صبر (۲) پختگی، دوام
ثَبَاتُ الأَسْعَار: نرخوں کا ٹھہراؤ
ثَبَتٌ: لسٹ، فہرست
ثَابِتٌ: (۱) غیر منقول یا غیر متحرک (۲) جامد (۳) تسلیم شدہ (۴) واضح و ظاہر (۵) قائم، باقی، مستقل مزاج
ثَابِت: قائم، نا قابل منتقلی، ہارڈ، اٹل، پائدار، مستقل، مقررہ، منجمد، فکسڈ
ثَابِتُ الجَأْش: حوصلہ مند، بیباک
ثَابِتُ العَزْم: پختہ عزم انسان، ارادہ کا پکا
لَوْنٌ ثَابِتٌ: پختہ رنگ، نہ زائل ہونے والا
أَمْلَاكٌ ثَابِتَة: غیر منقولہ جائداد
القِيمَةُ الثَّابِتَةُ: ٹھہری ہوئی قیمت
بِمَثَابَةِ كذا: بمنزلہ اس کے
شَاهِدُ إِثْبَاتٍ: گواہ عینی، عینی گواہ
ثَبَجَ ـُـ ثَبْجًا و ثُبُوجًا الخَطَّ: بدخط لکھنا، گھسیٹواں لکھنا
ثَبِجٌ: غیر واضح تحریر
خَطٌّ ثَبِجٌ و مُثَبَّجٌ: گھسیٹواں تحریر، غیر واضح تحریر

ثَبَرَهُ ـُـ ثَبْرًا و ثُبُورًا: (۱) لعنت کرنا، دھتکارنا، ہلاک کرنا، (۳) ناکام ونامراد بنانا
ثَابَرَ علی، مُثَابَرَةً: پابندی کرنا، قائم رہنا، مداومت کرنا
ثُبُورٌ: ہلاکت، بربادی
ثَبَطَ ـُـ ثَبْطًا و ثَبَّطه عن الأَمْر: بازرکھنا، روکنا، ہٹانا
ثَبَّطَ العَزْمَ: حوصلہ پست کرنا
مُثَبِّطُ العَزْم: حوصلہ شکن، ہمت شکن
مُثَبَّطُ العَزْم: پست ہمت
تَثَبَّطَ عن كَذَا: رکنا، توقف کرنا، باز آنا
ثُبْنَة: گودبھر
ثِبَانٌ ج: ثُبَنٌ: (کپڑے کا) دامن
مَثْبَنَة ج: مَثَابِنُ: عورتوں کا سنگاری تھیلا، سنگار بٹوا، وینٹی بیگ

ث............خ

ثَخُنَ ـُـ ثِخَنًا و ثُخُونَةً و ثَخَانَةً: (۱) سخت ہونا، (۲) موٹا ہونا
أَثْخَنَ فِي الأَمْر إِثْخَانًا: مبالغہ کرنا
أَثْخَنَ فِي الأَرْضِ: خونریزی کرنا، کشتوں کے پشتے لگا دینا۔
أَثْخَنَتْهُ الجِرَاحُ: زخموں نے اسے نیم جاں کردیا

ث............ر

ثَرَبَهُ ـِـ ثَرْبًا و ثَرَّبَه تثرِيبًا: ملامت کرنا، فعل کی مذمت کرنا
ثَرْبٌ ج: ثُرُوب و أَثْرُب: باریک جھلی جو آنتوں پر چڑھی ہوتی ہے
ثَرْثَرَة: فضول بولنا، بکواس کرنا
ثَرْثَارٌ: جھکی، بہت بولنے والا

ثِرْمُومِتر: (مع) تھرمامیٹر
ثَرْوَة، ثَرَاءٌ: دولت، دولتمندی، مالداری
ثَرَاءٌ غَيْرُ مَشْرُوعٍ: ناجائز دولت
الثَّرْوَةُ المَعْدِنِيَّة: معدنی دولت، معدنیاتی ذخائر
الثَّرْوَةَ السَّمَكِيَّة: مچھلیوں کا ذخیرہ، مچھلیوں کی دولت
ثَرِيَ الرَّجُلُ ثَرَاءً (س ،ن) و اَثْرَى إِثْرَاءً: مالدار ہونا، دولتمند ہونا، متموّل ہونا
إِثْرَاءُ شيءٍ: مالامال کرنا
ثَرِيٌّ (ج) أَثْرِيَاءُ و مُثْرٍ و ثَرْوَان: دولتمند، مالدار، متموّل
ثُرَيَّا ج: ثُرَيَّاتٌ: (۱) جھاڑ (۲) سات ستاروں کے مجموعہ کا نام
ثَرِيَ التُّرَابُ ـَ ثَرِيً: (۱) تر ہونا، (۲) نرم وملائم ہونا، (۳) نمناک ہونا
ثَرىً ج: أَثْرَاءٌ: (۱) نمناک مٹی (۲) خیر

ث..........ع

ثَعَبَ المَاءَ ـَ ثَعْباً: پانی بہانا
مَثْعَبٌ ج: مَثَاعِبُ: (۱) نالی، پرنالہ، (۲) خم دار نلی
ثَعَبَ عَلَيْهِمُ الغَارَةَ ـَ ثَعْباً: حملہ کرنا
ثُعْبَانٌ ج: ثَعَابِينُ: سانپ

ث..........غ

ثَغَرَ ـَ ثَغْراً: منہ کھولنا، شگاف ڈالنا
ثَغَرَ الإِنَاءَ: سوراخ یا شگاف کرنا (۲) توڑنا
ثَغَرَ الثُّلْمَةَ: سوراخ یا شگاف بند کرنا
ثَغَرَ السِّنَّ: دانت نکالنا
أَثْغَرَ الغُلَامُ: دانت نکل آنا
ثُغُور: حدود، سرحدیں
ثَغْرٌ ج: ثُغُورٌ: (۱) منہ، (۲) اگلے دانت (۳) بندرگاہ (۴) پہاڑ یا وادی کا منفذ، رشتہ وہ جگہ جہاں سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا خطرہ ہو (۵) دراڑ، شگاف، سرحد
ثُغْرَة ج: ثُغَر: سوراخ، شگاف، آسان راستہ
ثَغَتِ الشَّاةُ أو الخَرُوفُ ـُ ثُغَاءً: ممیانا، بکری یا مینڈھے کا آواز نکالنا

ث..........ف

ثُفْلٌ، ثَافِلٌ: تلچھٹ، نیچے بیٹھی ہوئی گاد

ث..........ق

ثَقَبَ ـُ ثَقْباً: سوراخ کرنا، چھیدنا، برمانا، پنچ کرنا
اِنْثِقَاب وَتَثَقُّبٌ: سوراخ ہونا، آرپار ہونا۔
ثَقْبٌ و ثُقْبَة ج: أَثْقُب و ثُقُوبٌ: چھید، آرپار سوراخ، پنکچر
ثَقْبُ البِطَاقَة: کارڈ کو پنچ کرنا، سوراخ کرنا
ثِقَابٌ، ثُقُوبٌ: دیا سلائی
ثَاقِبٌ: تہ کو پہنچا ہو، کُنہ کو پہنچا ہوا، نافذ، آرپار
ثَاقِبُ الفِكْرِ: بیدار مغز، ذہن رسا رکھنے والا
رَأْيٌ ثَاقِبٌ: عمدہ رائے
مِثْقَبٌ: سوراخ کرنے کا آلہ، برما
ثَقِفَ ـَ ثَقَفَ ـُ ثَقَفاً و ثَقَافَةً: دانشمند ہونا، زیرک ہونا
تَثْقِيف: (۱) ذہنی تربیت دینا (۲) تعلیم یافتہ بنانا، مہذب بنانا (۳) کجی دور کرنا
مُثَاقَفَة: پٹا کھیلنا، تیغ بازی کرنا
ثَقَافَة، تَثْقِيفٌ: تہذیب، کلچر، تعلیم
ثَقَافَةٌ عُمَّالِيَّة: لیبر ایجوکیشن

ثَقافَةُ الغَرْب: مغربی تہذیب
ثَقافَةٌ فَنِیَّة: فنی تعلیم
ثَقافَةٌ عالِیَة: اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تہذیب
ثَقافِیٌّ: ثقافتی، تعلیمی، کلچرل
مُلحَقٌ ثَقافِیٌّ: کلچرل اتاچی جو سفارت خانہ میں ثقافتی امور کا نگراں ہوتا ہے
مُثَقَّفٌ: تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ
طَبَقَةٌ مُثَقَّفَة: تعلیم یافتہ طبقہ
المُثَقَّفُوْن: تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ، ایڈوانس لوگ
ثَقُلَ ـُ ثِقَلاً و ثَقالَةً: وزنی ہونا، بھاری ہونا، بوجھل ہونا
ثَقُلَ السَّمْعُ: ثقل سماعت پیدا ہونا، قوت سامعہ میں نقصان آنا
أثْقَلَ الشئَ إثْقالاً: لوڈ پڑنا
تَثْقِیل: بھاری بنانا، بوجھل بنانا
تثقیل علیٰ: مشقت میں ڈالنا، زیر بار کرنا، لادنا، تھکانا
تَثْقِیل و تَثاقُل علی: پریشان کرنا، دق کرنا
تَثاقُل: (۱) بھاری ہونا، زیر بار ہونا (۲) سست ہونا
ثِقَلٌ: بھاری پن، ضد خِفَّة
ثِقْلٌ ج: أثْقال: (۱) وزن، بوجھ، لوڈ (۲) زحمت، تکلیف
الثِقَلُ النَّوعِیُّ: (سائنس میں) کثافت، کثافت نوعی
مِیْزانُ الثِقَلِ النَّوعِیِّ: کثافت نوعی کا پیمانہ

أثْقالُ الأرْض: زمین کے مخفی ذخیرے
ثَقْلَة و ثَقَلَة: (۱) تعب (۲) مشقت
ثَقِیْلٌ ج: ثُقَلاء و ثِقال: (۱) وزنی، بھاری، ہیوی، ضد خفیف (۲) پریشان کن
ثَقِیْلُ الحَمْل: وزن دار، تکلیف دہ
ثَقِیْلُ السَّمْع: اونچا سننے والا، کم سننے والا
ثَقِیْلُ الفَهْم: غبی، کند ذہن، کم فہم
ثَقِیْلُ الهَضْم: دیر ہضم
بِثِقْل: مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ
مُثْقَلٌ: (۱) زیر بار، (۲) لدا ہوا، تھکا ہوا
مِثْقال ج: مَثاقِیْلُ: (۱) وزن کا پیمانہ، وزن کرنے کا باٹ (۲) تقریباً ڈیڑھ درہم کے برابر
المِثْقَلَة (تُوضَعُ عَلَی الأوْراق لِمَنعِها من التطایُر): پیپر ویٹ۔

ث .... ک

ثُكْنَةٌ ج: ثُكَنٌ و ثُكُنات: فوجی بارک، پولیس کا مرکز، چھاؤنی۔

ث .... ل

ثَلَبَ ـِ ثَلْباً: (۱) عیب لگانا، ملامت کرنا، گالی دینا، سب وشتم کرنا۔
مَثْلَبَة ج: مَثالِبُ: عیب، برائی۔
ثَلَّثَ الشئَ تَثْلِیثاً: سہ گنا بنانا۔
ثَلَّثَ المَساحَةَ: مثلثوں کی شکل میں تقسیم کرنا۔
ثُلاثاء، یَوْمُ الثُلاثاء: منگل، سہ شنبہ۔
ثُلاثِیٌّ: (تین سے مرکب) سہ نفری، سہ اجزائی، سہ رکنی۔
ثُلاثِیُّ الحُرُوف: سہ حرفی۔

___ الأرجل: تین پاؤں کا، سہ پایہ۔
___ الأضلاع: سہ پہلو۔
___ الألوان: سہ رنگا۔
___ الألسن: سہ لسانی۔
تثلیث: (۱) عقیدۂ تثلیث (۲) سہ کونہ بنانا، سہ رنگی بنانا۔
مُثلّث: تین ضلعوں والی شکل، سہ کونہ۔
مثلوث: تین سے بنا ہوا۔
ثلجت السماء ـُ ثلجاً و أثلجت: آسمان سے برف گرنا۔
ثلجت النفس بشیء: دل ٹھنڈا ہونا، مطمئن ہونا، خوش ہونا۔
تثلیج: (۱) ٹھنڈا کرنا (۲) برف بنانا، برف سے جمانا۔
أثلج صدرہ: دل ٹھنڈا کرنا۔
ثلج: برف، آئس ج: ثلوج۔
ثلج رخو: شدتِ سردی سے گری ہوئی برف جو زمین کو ڈھانک لیتی ہے، آسمانی برف۔
ثلج جامد: جمی ہوئی برف جو مشین وغیرہ کے ذریعہ بنائی گئی ہو۔
ثلجی: برفانی، برف سا، برف کا۔
العصر الثلجی او الجلیدی: برفانی دور۔
ثلج، مثلوج، مثلّج: ٹھنڈا کیا ہوا، برف ملایا ہوا۔
ثلاج: برف فروش۔
ثلاجة ـ جات: آئس بکس، برف رکھنے کا صندوق، کولر۔
مثلجة ج: مثالج: ریفری جریٹر، ٹھنڈا کرنے کی مشین۔

ثلّ عرشهم ـُ ثلاً: سلطنت کا تختہ الٹ دینا۔
ثُلّ عرشهم: عزت جاتی رہی، سلطنت زائل ہوگئی۔
ثَلّة ج: ثِلَل: ہلاکت، ویرانی، بربادی۔
ثُلّة ج: ثُلَل: جماعت، گروہ، جتھا۔
ثلم الحائط ـِ ثلماً و ثلّم تثلیماً: رخنہ ڈالنا، شگاف ڈالنا، کند کرنا۔
ثلم الصیت او السمعة: شہرت کو داغ دار بنانا، بدنام کرنا۔
ثلم ـَ ثلماً، تثلّم و انثلم: (۱) کند ہونا (۲) بے حس ہونا۔
ثلْم و ثُلْمة ج: ثُلَم: رخنہ، شگاف، خلل۔
ثالم: بے حس، کند۔
منثلم الصیت: بدنام، بے عزت۔

ث.........م

ثمّر مالهُ تثمیراً: اضافہ کرنا، بڑھانا۔
استثمر الشیء استثماراً: نفع اٹھانا، بار آور بنانا، نتیجہ نکالنا، کسی کام میں رقم لگا کر اسے بڑھانا۔
الإستثمار: سرمایہ کاری۔
المستثمرون: سرمایہ کار۔
إستثمارات: منافع، فائدے۔
ثمر ج: ثمار: پھل، پیداوار، نتیجہ، نفع، حاصل (۲) فروٹ۔
ثمر القلب: محبت، مودّت۔
بلا ثمر: بے نتیجہ، غیر مفید، بے فائدہ۔
مُثمر: نفع بخش، بار آور، مفید، نتیجہ خیز۔
ثمل ـ ثملاً: نشہ میں ہونا، مست ہونا، مدہوش

ہونا۔
إِثْمال: مدہوش بنانا، نشہ چڑھانا۔
ثَمَلٌ: مدہوشی، نشہ، مستی۔
ثَمِلٌ: مدہوش، مست، نشہ والا۔
ثُمالَة: گاد، تلچھٹ، جھاگ۔
ثَمَّ، ثَمَّة: وہاں۔
مِنْ ثَمَّ: اسی وجہ سے۔
ثُمَّ: پھر، تب، اس کے بعد۔
ثَمَّنَ الشَّیْءَ تَثْمِیناً: قیمت لگانا (۲) قیمت کا اندازہ کرنا (۳) قدر کرنا۔
تَثْمِین: قدر کی نگاہ سے دیکھنا، سراہنا، خراج تحسین (۲) اسٹیمیٹ (۳) قیمت لگانا۔
تَثْمِینُ الضَّرِیبَة: ٹیکس کی مقدار متعین کرنا۔
لا یُثَمَّنُ: گراں قیمت، غیر قیمتی، بے قیمت۔
ثَمَنٌ ج: أَثْمانٌ: قیمت، بھاؤ، ریٹ۔
ثَمَنٌ أَساسِیٌّ أو أَصْلِیٌّ: اصلی ریٹ، بنیادی قیمت۔
ثَمَنٌ شامِل: عمومی قیمت۔
ثَمَنٌ باهِظ: حد سے زیادہ قیمت۔
أَثْمانُ التَّجزِئَة: ریٹیل قیمت، خردہ قیمت۔
ثامِنٌ م: ثامِنَة: آٹھواں۔
الثَّامِنَ عَشَرَ: اٹھارواں۔
الثَّامِنَةَ عَشَرَ: اٹھارویں۔
مُثَمَّن: آٹھ اٹھ، ہشت پہلودار۔
مُثَمَّنُ الأَرْكان: ہشت پہلووالا۔
مُثَمِّنٌ رَسْمِیٌّ: سرکاری قیمت لگانا والا۔

ث............ن

ثَنٰی ـَ ثَنْیاً: (۱) لپیٹنا، طے کرنا (۲) موڑنا۔
ثَنٰی و أَثْنٰی (أَحَداً) عن كَذا: ہٹانا، روکنا، باز رکھنا۔
أَثْنٰی عَلَیْهِ إِثْناءً: (۱) تعریف کرنا (۲) سراہنا، خراج تحسین ادا کرنا، اداد دینا۔
ثَنّٰی تَثْنِیَةً: ڈبل کرنا، دوگنا کرنا۔
ثَنّٰی العَمَلَ: اعادہ کرنا، لوٹانا۔
ثَنّٰی الثَّوبَ: (۱) زور ڈال کر نچوڑنا (۲) چُنَّٹ ڈالنا، شکن ڈالنا۔
ثَنّٰی علی اسْتِدْعاءٍ: تائید کرنا، مدد کرنا۔
إِنْثِناء: مڑ جانا عن: باز رہنا، رکنا، ہٹ جانا۔
إِسْتِثْناء: (۱) عام قاعدہ سے علیحدہ کرنا، کسی کے حکم سے الگ کر دینا (۲) پاک کرنا، بری کرنا۔
الإِسْتِثْناءُ عن الضَّرِیبَة: ٹیکس معاف کرنا۔
ثِنْیٌ، ثِنْیَةٌ ج: أَثْناءٌ: تہ، پیچ، شکن۔
فی أَثْناءِ العَمَل: اون ڈیوٹی، دوران ڈیوٹی۔
ثَنِیَّة ج: ثَنایا: اوپر کے اگلے اور پچھلے دو دانت۔
ثَناءٌ: تعریف، مدح، شکریہ۔
ثَنائِیٌّ: مدحیہ، تعریفی۔
ثُنائِیٌّ: ڈبل، دوہرا، دورکنی، دونفری۔
ثُنائِیُّ العُیُون: دو چشمی۔
العَقِیدَةُ الثُّنائِیَّة: (عَقِیدَةُ الإِلٰهَیْن) خیر و شر کی دو مستقل قوتوں کا قائل ہونا۔
المُراقَبَةُ الثُّنائِیَّة: ڈبل نگرانی۔

ثَنوِيَّة: دوئی، دو خداؤں کو ماننا۔
ثَانَوِيٌّ: دوسرے درجہ کا، سکنڈری۔
الثَّانَوِيُّ العَالِي: ہائر سکنڈری۔
الثَّانِي: سیکنڈ، دوسرا، دوم۔
ثَانِيَة ج: ثَوَانٍ: سیکنڈ۔
مَدْرَسَة ثَانَوِيَّة: سکنڈری اسکول، ہائی اسکول۔
ثَانِياً، ثَانِيَةً: (۱) دوسرا، دوم، اس کے علاوہ (۲) نیز، اس کے ساتھ ساتھ (۳) دوسرے یہ کہ، دوسری دفعہ۔
الدَّرَجَةُ الثَّانِيَة: سیکنڈ کلاس۔
إِثْنَان: دو۔
يَوْمُ الاِثْنَيْن: پیر، دوشنبہ۔
إِسْتِثْنَائِيّ: خصوصی، غیر معمولی۔
حَالَة إِسْتِثْنَائِيَّة: ہنگامی حالت، مخصوص حالت۔
إِسْتِثْنَائِياً: خصوصی طور پر، خاص طریقہ پر، پرائیویٹ طور پر۔
مُثَنًّى: ڈپلی کیٹ۔
مُثْنِيّ: طے کیا ہوا، لپٹا ہوا۔

ث .... و

ثَابَ ـُ ثَوْباً، و ثُؤُوْباً، ثَوَبَاناً: لوٹنا، واپس ہونا۔
ثَابَ اِلَيْهِ رُشْدُهُ: ہوش آنا۔
ثَابَ المَرِيْضُ: صحت یاب ہونا، اچھا ہونا۔
ثَابَ المَاءُ: حوض وغیرہ میں پانی جمع ہونا۔
ثَوْبٌ ج: أَثْوَابٌ و ثِيَابٌ: (۱) کپڑا (۲) چادر (۳) خارجی مظہر، ظاہری لباس۔
ثِيَابٌ جَاهِزَة: تیار شدہ کپڑے، سلے ہوئے کپڑے، ریڈی میڈ کپڑے۔
ثَوْبٌ حَرِيْرِيّ: سلک۔
ثَوْبٌ دَاخِلِيٌّ أو تَحْتِيٌّ: انڈر ویر۔
ثَوْبُ السَّهْرَةِ: ایوننگ ڈریس۔
ثَوْبُ الحِدَادِ: ماتمی لباس۔
ثَوْبٌ نِسَائِيّ: فراک۔
ثَوَابٌ، مَثُوْبَة: جزاء، بدلہ، جزائے خیر۔
مَثَابٌ، مَثَابَة: مقام اجتماع۔
بِمَثَابَةِ كَذَا: بمنزلہ اس کے۔
(أَنْتَ بِمَثَابَةِ أَخٍ) تم بمنزلہ برادر ہو۔
ثَوْرٌ ج: ثِيْرَان: بیل۔
ثَوْرَة: (۱) گائے (۲) ہیجان، جوش، بغاوت، انقلاب ج: ثَوْرَاتٌ۔
ثَوْرَةُ التَّصْحِيْح: اصلاحی انقلاب۔
ثَوْرَةٌ ثَقَافِيَّةٌ: ثقافتی انقلاب۔
ثَوْرَةٌ لَمْ تُرَقْ فِيهَا الدِّمَاءُ: پرامن انقلاب، بغیر خوں ریزی کے انقلاب۔
ثَوْرَةٌ لَمْ تَنْجَحْ: ناکام بغاوت، ناکام انقلاب۔
ثَوْرَةٌ مُجْهَضَةٌ: ناکام یا نا تمام بغاوت۔
ثَوْرَةٌ مُسَلَّحَةٌ: مسلح انقلاب۔
الثَّوْرَةُ المُضَادَّةُ: مخالف یا برعکس انقلاب۔
ثَوَرَان: اشتعال۔
ثَارَ ـُ ثَوْراً و ثَوَرَاناً و ثَوْرَةً: (۱) مشتعل ہونا، چراغ پا ہونا (۲) باغی ہونا۔
ثَارَ الشَّعْبُ: عوام میں ناراضگی پھیلنا۔
ثَارَ الغُبَارُ: گرد اڑنا۔
ثَارَ البُرْكَانُ: کوہ آتش فشاں کا پھٹ پڑنا۔
ثَارَ الخِلَافُ ـُ ثَوْرَةً: اختلاف پیدا ہو جانا۔
ثَارَ غَضَباً: آپے سے باہر ہونا، آگ بگولا

ہونا۔

ثَارَ ثَائِرَهُ: آگ بگولا ہونا، مشتعل ہونا، غضب ناک ہونا، بھڑک اٹھنا۔

ثَارَتْ نَارُ الحَمَاسَةِ فِی کَذَا: آتشِ جوش بھڑکنا، جوش آنا۔

ثَارَتْ نَفْسُه: اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔

ثَوْرِیٌّ، ثَائِرٌ ج: ثُوَّارٌ: (۱) باغی (۲) انقلابی (۳) شورش پسند، انقلاب سے متعلق۔

حُکُومَةٌ ثَوْرِیَّةٌ: انقلابی حکومت۔

ثَائِر ج: ثُوَّار: (۱) سرکش (۲) مشتعل (۳) غضبناک۔

ثَائِرَة ج: ثَوَائِرُ: شور، ہنگامہ، چیخ و پکار۔

إِثَارَة: (۱) جوش دلانا، مشتعل کرنا، اشتعال پیدا کرنا، اکسانا، بھڑکانا (۲) کسی چیز کا سبب بننا۔

إِثَارَةُ الأَزْمَة: بحران پیدا کرنا۔

إِثَارَةُ الإِضطرابات: ہنگامے برپا کرنا۔

إِثَارَةُ الثَّوْرَة: ہیجان پیدا کرنا۔

إِثَارَةُ الدَّهْشَة: تعجب خیز بنانا۔

إِثَارَةُ الرُّعْبِ فِی النُّفُوس: دہشت پیدا کرنا۔

إِثَارَةُ السُّخط: نفرت پیدا کرنا۔

إِثَارَةُ الشُّبهات: شکوک پیدا کرنا۔

إِثَارَةُ الفَوْضَی: انارکی پھیلانا، لاقانونیت پیدا کرنا۔

إِثَارَةُ القَضَایَا: مسائل پیدا کرنا۔

إِثَارَةُ القَلَق: تشویش پیدا کرنا۔

إِثَارَةُ المَسْئَلَة لِلمُنَاقَشَة: بحث کے لئے مسئلہ اٹھانا۔

إِثَارَةُ النُّقْطَة: نکتہ پیدا کرنا، شوشہ چھوڑنا۔

إِثَارَةُ الوَعْی: شعور پیدا کرنا۔

مُثِیر: ہیجان انگیز، سنسنی خیز، مسئلہ اٹھانے والا، محرک، سبب۔

مُثِیرُ الفِتَن: شرانگیز، فتنہ انگیز، فسادی، فسادانگیز۔

مُثِیرُ الإِضْطِرَاب: فسادانگیز۔

مُثِیرُ الذُّعر: دہشت انگیز، ہوپچی جو ذرا ذرا سی بات پر شور مچائے۔

مُثِیرُ الفِتْنَة: فتنہ انگیز، شرارت انگیز۔

مُثِیرٌ لِلاِنْتِبَاه: قابل توجہ۔

مُثِیرُ الاِنْزِعَاج: ہوپچی جو ذرا ذرا سی بات پر شور مچائے۔

المُثِیرُ لِلاِنْشِقَاق: افتراق انگیز۔

مُثِیرُ الدَّهْشَة: تعجب انگیز۔

مثیر لِلسُّخر: مضحکہ خیز

مُثِیرٌ لِلفِتَن: فتنہ انگیز۔

مُثِیرٌ لِلقَلَاقِل: فسادانگیز، پریشان کن۔

مُثَارُ تَعْلِیقَاتٍ: تبصروں کا سبب

مُثَارُ قَلَق: باعث تشویش۔

اِنْثِیَالُ المَعَانِی: مضامین کی آمد۔

ثَوَی المَکَانَ ـــ ثَوَاءً و أَثْوَی فِیه و بِه: قیام کرنا، مقیم ہونا (۲) مرنا، موت آنا (۳) دفن کرنا، درگور کرنا۔

أَثْوَی صَاحِبَهُ إِثْوَاءً: ضیافت کرنا، ٹھیرانا، مقیم بنانا۔

أَثْوَی فِیه و بِه: قیام کرنا، مقیم ہونا، مرنا، موت آنا، دفن کرنا، درگور کرنا۔

ثُوَّةٌ ج: ثُوًی: وہ پتھر جو بطور علامت راستہ میں

نصب کیا جاتا ہے۔
المَثْوىٰ ج: مَثَاوٍ: قیام گاہ، منزل، ٹھکانہ، ہاسٹل، بورڈنگ ہاؤس۔
المَثْوىٰ الأخِيرُ: قبر۔

ج

ج.........ا

جَاجَاةٌ: اونٹ کو جئی جئی کہہ کر پکارنا، بلانا۔

تَجَاجَأَ عن: رُکنا، باز رہنا۔

جُؤْجُؤُ السَّفِينَةِ ج: جَآجِئُ: کشتی پیش، جہاز یا کشتی کا اگلا حصہ۔

جَأَرَ ـَـ جَأْرًا و جُؤَارًا: گڑگڑانا، تضرع کرنا۔

جَار الی: دستِ دعا بلند کرنا۔

جَأَرَ الی: دست دعا بلند کرنا۔

جَأَرَ الثَّوْرُ: ڈکارنا۔

جَأَرَ: گرجنا، گرجدار آواز نکالنا۔

جَأَشَ ـَ جَأْشًا: مضطرب ہونا۔

جَأْشٌ ج: جُؤُوش: (۱) دل (۲) سینہ۔

رَابِطُ الجَأْش: بہادر، نڈر، بے خوف۔

جَالُوت: دیو۔

جَالُون: گیلن، ارطل (مع)۔

جَالِيَة: (دیکھیے: جلو) جام (دیکھیے: جوم)۔

جَامُوس: (دیکھیے: جمس) جاہ (دیکھیے: جوہ)۔

جَاوِيش: سارجنٹ، ایک فوجی عہدہ۔

ج.........ب

جَبَّ ـُ جَبًّا: کاٹنا، غالب ہونا۔

جُبٌّ ج: أَجْبَابٌ، جِبَابٌ، جِبَبَةٌ: (۱) گڑھا (۲) گہرا کنواں۔

جَبَخَانَة، جَبَخَان: میگزین، اسلحہ خانہ۔

جَبَذَ ـِ جَبْذًا، و اجْتَبَذَ: کھینچنا۔

جَبَرَ العَظْمَ ـُـ جَبْرًا و جُبُورًا و جَبَّرَ تَجْبِيرًا: جوڑنا، ہڈی درست کرنا۔

__ المَكْسُورَ: ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا۔

__ الخاطِرَ: دلجمعی کرنا، راضی کرنا، خوش کرنا۔

__ القَلْبَ: غم خواری کرنا، تسلی دینا، دلاسا دینا۔

__ عليه، و أَجْبَرَ: مجبور کرنا، جبر کرنا۔

إِجْبَار: مجبور کرنا، لازم کرنا۔

الإِجْبَارُ عَلَى الإِسْتِسْلَام: گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا۔

إِجْبَارِيّ: لازمی، کمپلسری، جبری۔

إِدِّخَارٌ إِجْبَارِيٌّ: جبری بچت۔

جَبْرٌ: (۱) علم ریاضی کی ایک قسم (۲) اللہ کا فیصلہ۔

جَبْرًا و بالجَبْر: زبردستی، قہرًا، مجبورًا۔

جَبْرِيٌّ: علم الجبرا سے متعلق (۲) غیر اختیاری۔

جَبَّارٌ: (۱) سرکش (۲) زبردست، عظیم۔
مَجْهُودٌ جَبَّارٌ: زبردست کوشش۔
جَبَّسَ الحَائِطَ تَجْبِيساً: دیوار وغیرہ پر کھریا پھیرنا، لیپنا، پوتنا۔
جَبَّسَ العُضْوَ: حصہ جسم پر پلاسٹر چڑھانا۔
جِبْسٌ: کھریا، مصالحہ جس کا پلاسٹر چڑھایا جائے۔
جَبَلَ ـُ ـِ جَبْلاً: (۱) ڈھالنا، صورت بنانا (۲) پیدا کرنا، گوندھنا۔
جَبَلٌ ج: جِبَالٌ: پہاڑ۔
جَبَلُ نَارٍ: کوہِ آتش فشاں۔
جَبَلُ جَلِيدٍ: برف کی چٹان، برف کا تودہ۔
جَبَلِيٌّ: پہاڑی، پہاڑ ہ، وہ جگہ جہاں کثرت سے پہاڑ ہوں۔
جِبِلَّةٌ، جِبْلَّةٌ: خلقت، فطرت۔
جَبُنَ ـُ جُبْناً وَ جَبَانَةً: (۱) بزدل ہونا، کمزور ہونا (۲) کم ہمت ہونا۔
تَجْبِينٌ: بزدل بنانا (۲) پنیر بنانا۔
جُبْنٌ، جُبْنَةٌ: پنیر۔
جُبْنٌ و جَبَانَةٌ: بزدلی، ضعفِ ارادہ۔
مَاءُ الجُبْنِ: چھاچھ۔
جَبِينٌ و جَبَانٌ: بزدل، کمزوردل۔
جَبِينٌ ج: أَجْبِنَة و أَجْبُنٌ: پیشانی۔
جَبَّانٌ: پنیر فروش۔
جَبَّانٌ و جَبَّانَةٌ ج: جَبَابِينُ: قبرستان۔
جُبَيْنٌ: فرنٹ، اگلا حصہ۔
جَبَهَ ـَ جَبْهاً: سامنے آنا، پیش آنا، منھ در منھ ہونا۔
مُجَابَهَةٌ: مقابلہ، مقابلہ آرائی، محاذ آرائی۔
جَبْهَةٌ ج: جِبَاهٌ و جَبَهَاتٌ: پیشانی (۲) محاذ۔
جَبْهَةُ الإِسْتِفْتَاءِ: محاذِ استصواب۔
الجَبْهَةُ الدَّاخِلِيَّةُ: اندرونی محاذ۔
جَبْهَةُ القِتَالِ: محاذِ جنگ۔
جَبْهَةُ المُتَشَدِّدِينَ: تشدد پسندوں کا محاذ۔
جَبْهَةٌ مُعَارِضَةٌ: مخالف محاذ۔
جَبْهَةٌ مُوَسَّعَةٌ: وسیع تر محاذ۔
الجَبْهَةُ الوَطَنِيَّةُ: نیشنل فرنٹ۔
الجَبْهَوِيُّ: محاذ کا، محاذ سے متعلق۔
جَبَا ـُ جَبْواً و جَبْواً و جِبَاوَة، جَبَى ـِ جِبَايَةً: جمع کرنا، وصول کرنا۔
جِبَايَةُ الأَمْوَالِ والضَّرَائِبِ: ٹیکس وصول کرنا، وصولیٔ مال۔
جَابٍ ج: جُبَاةٌ: محصل، وصول کنندہ، کلکٹر۔
جَابِي الضَّرَائِبِ: ٹیکس افسر۔
مَجْبًى: ٹیکس، خراج۔

ج .... ث

جَثَّ ـُ جَثّاً و اجْتَثَّ إِجْتِثَاثاً: جڑ سے اکھاڑنا، دور کرنا، ہٹا دینا، مٹا دینا۔
جُثَّةٌ ج جُثَثٌ: (۱) جسم (۲) مردہ جسم، لاش، باڈی۔
جَثَمَ ـُ ـِ جَثْماً و جُثُوماً: (۱) زمین سے چمٹنا (۲) زمین سے سینہ لگانا۔
جَاثِمٌ فَوْقَ الصَّدْرِ: سینہ پر سوار۔
جُثَامٌ، جَاثُوم: کابوس، بھیانک خواب۔
جُثْمَانٌ: جسم، بدن، نعش، جنازہ۔
جُثْمَانُ المَيِّتِ: لاش، بے روح جسم۔
مَجْثَمُ الطَّائِرِ: پرندہ کا آشیانہ۔
جَثَا ـُ جُثُوّاً، جَثَى ـِ جُثِيّاً: گھٹنوں کے بل

بیٹھنا، زانو پر بیٹھنا، انگلیوں کے بل کھڑا ہونا (۲) جھکنا۔

جُثوَۃ ج: جُثی: (۱) مٹی کا ڈھیر (۲) قبر۔

ج .... ح

جَحَدَ ــَـ جَحداً و جُحُوداً: انکار کرنا، جھٹلانا، تکذیب کرنا، کفر کرنا، ناشکری کرنا۔

جَحَرَ ــَـ جَحراً، تَجَحَّرَ و انجَحَرَ: جانور کا اپنے بل میں گھسنا۔

جُحرٌ ج: أجحَارٌ و جِحَرَۃ و أجحِرَۃٌ: بل، وہ جگہ جس میں حشرات الارض رہتے ہوں۔

جَحشٌ ج: جِحَاش: گدھے کا بچہ، بچوں کے کھیلنے کا لکڑی کا گھوڑا۔

جَحظَت عَینُہ ــَـ جُحُوظاً: آنکھ ابھرنا، آنکھ کے ڈھیلے کا ابھرنا۔

جَاحِظُ العَینَین: ابھری ہوئی آنکھوں والا۔

جَحَفَ ــَـ جَحفاً: (۱) چھیلنا (۲) بہالے جانا۔

جَحَفَ الفَرَسُ برِجلِہ: لات مارنا۔

جَحَفَ معہ و لہ: مائل ہونا، جانب دار ہونا۔

إجحَاف: بے جا طرفداری، حمایت۔

الاِجحَافُ بہ: ظلم و ستم کرنا، نا قابل برداشت ذمہ داری ڈالنا، حق مارنا۔

أُجحِفَ بہ: ظلم کیا گیا (۲) نا قابل برداشت بوجھ یا ذمہ داری ڈالی گئی۔

أجحَفَ السَّیلُ بہ إجحَافاً: بہالے جانا۔

جَحفَلٌ ج: جَحَافِلُ: بڑا لشکر۔

رَجُلٌ جَحفَلٌ: بلند مرتبہ آدمی۔

جَحَمَ النَّارَ ــَـ جَحماً: آگ بھڑکانا، جلانا۔

جَحَمَ العَینَ: آنکھ کھولنا۔

جَحَمَ عن الأمر: باز رکھنا، روکنا۔

جَحَّمَ فُلاناً بعَینِہ: گھورنا، تیز نظر سے دیکھنا۔

جَحِیمٌ: دوزخ، آگ۔

ج .... د

جَدَبَ المکَانُ ــُـ جَدباً و جَدُبَ ــُـ جُدُوبَۃً، تَجَدَّبَ: قحط زدہ ہونا، بارش نہ ہونے سے خشک ہو جانا۔

إجدَابٌ: قحط زدہ ہونا، سختی و تنگی میں مبتلا ہونا۔

جَدبٌ: قحط، سختی، خشک سالی۔

جَدِیبٌ و مُجدِبٌ: قحط زدہ۔

جَدَثٌ ج: أجدَاث: قبر۔

جُدجُدٌ ج: جَدَاجِدُ: جھینگر، ٹڈی کے مانند ایک سیاہ کیڑا جو رات میں آواز کرتا ہے۔

جَدجَد: سخت زمین، سنگلاخ زمین۔

جَدَّدَ تَجدِیداً: کسی چیز کو نیا کرنا، از سر نو کرنا، دوبارہ کرنا، تازہ کرنا۔

__ الشَّبَابَ: جوانی کا اعادہ کرنا۔

__ القَلبَ: ہدایت دینا، اصلاح کرنا۔

__ القُوی: نئی توانائی عطا کرنا، قوت بحال کرنا۔

تَجدِیدٌ: رینیول، تجدید۔

تَجدِیدُ الاِتِّصَال بفُلان: کسی سے دوبارہ تعلق قائم کرنا۔

تَجدِیدُ الإقَامَۃ: اقامہ کی تجدید کرانا۔

تَجدِیدُ صَلاحِیَۃِ الجوَاز: پاسپورٹ

کی مدت بڑھوانا، تجدید کرانا۔
تَجْدِیدُ عَمَلِیَّةِ المُفَاوَضَات: بات چیت کا نیا دور چلانا۔
تَجَدُّد: ماڈرن ہونا۔
تَجَدُّدُ أعْمَالِ العُنف فی كذا: تشدد کی کارروائیوں کا مکرر ہونا۔
جَدَّ ۔ِ جدّاً: بڑے رتبہ والا ہونا۔
۔ِ جِدَّةً: نیا ہونا، تازہ ہونا۔
۔ُ جَدّاً: کاٹنا۔
۔ُ ۔ِ جدّاً: کوشش کرنا، محنت کرنا۔
جَدَّ فی الأمْر: تحقیق وجستجو کرنا۔
جَدٌّ: (۱) قسمت، نصیب (۲) سلف، اکابر (۳) دادا ج: أجْدَاد۔
جِدٌّ: (۱) محنت، کوشش (۲) سنجیدگی۔
جِدِّیّ: ٹھوس، سنجیدگی۔
الجِدِّیَّةُ فی شیٔ: سنجیدگی۔
مِن جِدٍّ: سنجیدگی سے، واقعیت کے ساتھ۔
جَدِید: نیا، تازہ۔
مِن جَدِید: ازسرنو، دوبارہ، پھر سے۔
جَادٌّ: سنجیدہ، بردبار، واقعیت آمیز۔
جَادَّةُ الطرِیق: (۱) وسط راہ (۲) راہ راست۔
مَجْدُود: قسمت والا، خوش نصیب، اقبال مند۔
جَدَرَ ۔ُ جَدْراً و جُدِرَ و جُدِّرَ تَجْدِيراً: چیچک نکلنا، چیچک زدہ ہونا۔
جَدَرَ به ۔ُ جَدْراً: اہل بنانا، لائق بنانا۔
جَدُرَ به ۔ُ جَدَارَةً: لائق ہونا، اہل ہونا۔

جُدَرِیٌّ: چیچک۔
مَجْدُور: چیچک زدہ۔
جَدِیر: باصلاحیت، لائق۔
جَدِیرٌ بكذا: اہل، لائق، قابل۔
جَدِیرٌ بالذِّكر: قابل ذکر۔
جَدَارة: لیاقت، اہلیت، صلاحیت۔
الجَدَارَةُ الإدَارِیَّةُ: انتظامی صلاحیت۔
الجَدَارةُ الجَوِیَّة: فضائی صلاحیت۔
مِجْدَار: وہ چیز جو چڑیوں وغیرہ کو بھگانے کے لئے کھیت میں کھڑی کی جائے۔
جَدْرٌ ج: جُدْرَان، جِدَار ج: جُدُر: دیوار۔
جِدَارٌ حَدِیدِیّ: آہنی دیوار۔
جِدَارٌ دَاخِلِیّ فَاصِل: پارٹیشن۔
جِدَارٌ مَنِیعٌ: آہنی دیوار۔
جَدَعَ الأنفَ ۔َ جدعاً: ناک کاٹنا۔
أجْدَعُ، مَجْدُوع: مقطوع العضو۔
جَدَفَ الطَّائِرُ ۔ِ جُدُوفاً: پرندہ کا (چھوٹے ہونے کے باعث) پر ہلا کر رہ جانا، نہ اڑنا۔
جَدَّفَ السَّفِینَةُ تَجْدِیفاً: چپو سے کشتی چلانا۔
جَدَّفَ (عَلَى اللهِ): کفر کرنا، گستاخانہ بات کہنا۔
مَرْكَبُ التَّجْدِیف: چپو سے چلائی جانے والی کشتی۔
تَجْدِیفِی: کفر آمیز (۲) چپودار۔
مِجْدَاف ج: مَجَادِیفُ: چپو۔
مِجْدَافُ الطَّیر: پرندہ کا بازو۔
جَدَلٌ: بحث ومباحثہ، لڑائی، جھگڑا، بحث۔

مُجَادَلَة: مباحثہ، بحث۔
مُجَادِلٌ فی المُنَاقَشَة: ماہر بحث۔
مُجَادَلاتٌ سَفُسَطَائِيَّة: مغالطہ آمیز مباحثے، سوفسطائی مناظرے۔
مُجَادَلَاتٌ عَقِيمَة: بے نتیجہ مباحثے۔
جَدَلَ الحَبلَ ـِـُ جَدلاً: رسی بٹنا۔
جَدَلَ و جَدَّلَ الشَّعرَ: بال گوندھنا۔
يَقبَلُ الجَدَلَ: قابل نزاع، متنازع فیہ۔
لا يَقبَلُ الجَدَلَ: نا قابل نزاع، غیر متنازع فیہ۔
جَدوَلٌ ج: جَدَاوِلُ: (۱) چھوٹی نہر (۲) فہرست، لسٹ (۳) کالم (۴) چارٹ، نقشہ، اسکیل، شیڈول۔
جَدوَلُ أعمَالٍ: ایجنڈا۔
جَدوَلُ التَحوِيلِ: تبدیلی روپیہ کا چارٹ۔
الجَدوَلُ الزَّمَنِيُّ: نقشۂ اوقات، ٹائم ٹیبل۔
جَدوَلُ صَحِيفَة: اخبار کا کالم ج: جَدَاوِلُ۔
جَدوَلُ الطَّلَب: ڈیمانڈ چارٹ، تفصیل فرمائش۔
جَدوَلُ النَّاخِبِين: ووٹر لسٹ۔
جَدوَلُ مَوَاعِيدِ (القُطُر او الطَّائِرَات): ریل یا جہاز کا ٹائم ٹیبل۔
جَدوَلٌ حِسَابِيٌّ: گوشوارۂ حساب۔
جَدوَلُ الضَّرب: پہاڑا۔
ــــ تَحوِيلٍ: شرح مبادلہ کی لسٹ۔
ــــ القَضَايَا: فہرست مقدمات۔
الجَدَاوِلُ الزَّمَنِيَّة: نظام الاوقات۔
جَدوَلَة شيءٍ: کسی کام کے اوقات کا نقشہ بنانا، ٹائم ٹیبل بنانا۔

جَدوَلَةُ الدُّيُونِ: قرضوں کی ادائیگی کے اوقات مقرر کرنا۔
قَلَمُ جَدوَلٍ: ڈرائینگ پین۔
جَدِيلَة ج: جَدَائِلُ: (۱) زلف، گیسو، (خصوصاً عورت یا لڑکی کے) (۲) چوٹی۔
جِدَال: جھگڑا، بحث، نزاع، قتل وقتال، قیل و قال۔
جَدَّال: بہت جھگڑالو۔
مَجدُول: بٹی ہوئی رسی، لپٹے ہوئے بال۔
جدون الدَّرَّاجة: (مع) سائیکل کا ہینڈل۔
جَدوَى: (۱) فائدہ (۲) عطیہ، تحفہ۔
بِلا جَدوَى: بے فائدہ، غیر مفید، بے سود۔
جَدَا عليه ـُ جَدواً: تحفہ پیش کرنا۔
إجتِدَاء و استِجدَاء: مانگنا، طلب کرنا، بھیک مانگنا۔
إجدَاء: نفع پہنچانا، فائدہ دینا۔
أجدَى: زیادہ نفع بخش، زیادہ سودمند۔
لا يُجدِي: بے فائدہ، غیر نفع بخش۔
هٰذَا لا يُجدِيكَ: یہ تم کو نفع نہ دے گا، اس سے تم کو فائدہ نہ ہوگا۔
جَدِيٌّ ج: جِدَاءٌ: بکری کا بچہ (پہلے سال کا)۔

ج .... ذ

جَذَبَ ـِ جَذباً و اجتَذَبَ: کھینچنا، مائل کرنا۔

جَذَبَ القَلْبَ: دل موہ لینا، فریفتہ بنالینا۔
جَذْبٌ، جَاذِبِيَّة: (۱) کشش (۲) قوت جاذبہ۔
جَاذِبِيَّة: (۱) نیچے کی طرف یا مرکز کی طرف مائل ہونے کی قوت (۲) کسی چیز کی طرف کشش ثقل کی وجہ سے مائل ہونے کی قوت۔
جَاذِبِيَّةُ الثِّقْل: کشش زمین۔
جَاذِبِيَّةٌ مَغْنَطِيسِيَّة: مقناطیسی کشش۔
جَاذِبِيَّةٌ جنسيَّة: جنسی میلان۔
جَاذِبٌ، جَذَّاب: کشش والا، پرکشش، دلفریب، دلکش، جاذب نظر۔
شَخْصِيَّةٌ جَذَّابَة: پرکشش شخصیت۔
مَجْذُوب ج: مَجَاذِيبُ: کھنچا ہوا (۲) مجنوں، دیوانہ۔
مُسْتَشْفى المجَاذِيب: پاگل خانہ، دیوانوں کا ہسپتال۔
جَذَّ ـُ جَذًّا: کاٹنا، توڑنا۔
جُذَاذَة: لیبل، چٹ، چٹھی، ریزہ۔
جَذَرَ ـُ جَذْراً و جَذَّر: کاٹنا، جڑ سے اکھاڑنا۔
جَذْرٌ ج: جُذُوْر: اصل، جڑ، بن وبیخ۔
جَذْرِيٌّ: بنیادی۔
جَذَعٌ ج: جِذَاع: نوجوان، کمسن، نوعمر۔
جِذْعٌ ج: جُذُوْع: (۱) تنہ (۲) دھڑ، سر، پیر اور ہاتھ کے علاوہ بقیہ جسم۔
جِذْعِيّ: تنہ سے متعلق (شَجَرَةٌ جِذْعِيَّة) تناور درخت۔
جَذَّفَ تَجْذِيفاً: کشتی کھینا، کشتی چلانا۔
مِجْذَاف ج: مَجَاذِيفُ: چپو۔

جَذِلَ ـَ جَذَلاً و اجْتَذَلَ: خوش ہونا۔
إِجْذَال: خوش کرنا۔
جَذِلٌ، جَذْلَان ج: جُذْلَانٌ: خوش۔
جَذَمَ ـِ جَذْماً و جَذَّم: کاٹنا (۲) تیزی سے کاٹنا۔
جُذِمَ: مرض جذام (کوڑھ) میں گرفتار ہونا۔
جِذْمَةُ الشَّجَرَة: کٹے ہوئے درخت کا باقی ماندہ تنہ۔
أَجْذَمُ: ٹنڈا، کوڑھی۔
مَجْذُوم: کوڑھی۔
جُذْوَة ج: جُذًى: دہکتا ہوا انگارہ۔
جَذْوَةُ النِّضَال: جذبۂ جہاد۔

ج .... ر

جَرُؤَ ـُ جَرَاءَةً و جُرْأَةً و اجْتَرَءَ: دلیر ہونا، جسارت کرنا۔
جُرْأَة، جَرَاءَة: دلیری، بہادری، بے باکی، بے حیائی۔
جُرْأَةٌ نادِرَة: بے مثال بہادری۔
جَرِئٌ ج: أَجْرِيَاءُ: دلیر، بیباک، بے حیا۔
جِرام: گرام (مع)۔
جِرَامُفُوْن: (مع) گرامفون۔
جِرَانِيت: (مع) گرانیٹ، ایک قسم کا پتھر جو عمارت میں کام آتا ہے۔
جَرِبَ ـَ جَرَباً: (۱) خارش زدہ ہونا (۲) دا رنگ اڑ جانا یا بدل جانا۔
جَرَّبَه تَجْرِيباً: (۱) آزمانا، آزمائش کرنا (۲) اکسانا، ورغلانا (۳) کوشش کرنا، کسی کام کو کر کے دیکھنا۔
مُجَرَّب: آزمودہ۔

جَرَبٌ: خارش، کھجلی۔
جَـرِبَـانٌ: خارش زدہ (۲) بدلے ہوئے رنگ کا۔
جِرَابٌ ج: أَجْرِبَة و جُرُبٌ: غلاف، کیس، چمڑے کا تھیلا۔
جِرَابُ السَّيْف: تلوار کی میان۔
جِرَابُ الفَرْد: پستول دان، ہولسٹر۔
جَـوْرَبٌ قَـصِيْرٌ ج: جَوَارِبُ: موزہ، پاتابہ۔
جَـوْرَبٌ طَـوِيْـل: لمبا موزہ (پنڈلی تک کا)۔
مُجَرَّبٌ: تجربہ کار، آزمودہ کار۔
تَجْرِبَة: آزمائش، ریہرسل۔
تَـجْرِبَةُ الثَّوب عَلَى مَقَايِيْسِ الجِسْم: جسم پر کپڑے کو فٹ کر کے دیکھنا۔
تَجْرِبَةٌ ذَرِّيَّةٌ: ایٹمی تجربہ۔
تَجْرِبَةٌ رَائِدَةٌ: مفید تجربہ، رہنما تجربہ۔
تَجْرِبَةٌ قَاسِيَة: تلخ تجربہ۔
تَجْرِبَةٌ مَرِيْرَةٌ: تلخ تجربہ۔
تَجْرِيْبِيّ: تجرباتی، آزمائشی۔
جُرْثُومَة ج: جَـرَاثِيْمُ: بیج، تخم جس سے کسی چیز کا آغاز ہو۔
جَـرَّجَ الأُتُـمْبِيْلَ تَجْرِيْجاً: کار کو گیرج میں رکھنا۔
جَرَاج: (مع) گیرج (موٹر کار کا)۔
جَرْجَرَةُ الرَّعْد: گرج کی آواز ہونا۔
جَرْجَرَةُ المَاءِ في الحَلْق: منہ میں پانی لے کر غرغرہ کرنا۔
الـجَـرْجَـارُ، الجَرْجِيْـرُ: (صَارُوخ):

راکٹ۔
جَرَحَ ـ جَرْحاً: (۱) زخمی کرنا (۲) کاٹنا۔
__ الإِحْسَاسَ: احساس کو ٹھیس لگانا، جذبات کو مجروح کرنا۔
__ بِلِسَانِه: عیب لگانا، توہین کرنا۔
__ الشَّهَـادَةَ أو الـوَصِيَّةَ: سند یا وصیت کو بے ضابطہ یا ناجائز قرار دینا۔
__ في الكِبْرِيَاء: وقار کو نقصان پہنچانا۔
__ كبرياءَ احدٍ: بڑائی کو ٹھیس پہنچانا۔
__ كِبْرِيَاءَ الوَطَن: وطن کا وقار مجروح کرنا۔
جُرْحٌ مُمِيْتٌ: مہلک زخم۔
اِجْتِرَاحُ الإِثْم: گناہ کا ارتکاب کرنا۔
جُرْحٌ ج: جُرُوْحٌ: زخم۔
جَـرَّاحٌ، جِرَاحِيٌّ: سرجری کا طبیب، سرجن، آپریشنر۔
جِرَاحٌ خَطِيْرَةٌ: خطرناک زخم۔
جِرَاحَة: سرجری، سرجری آپریشن، فن جراحی۔
الجِرَاحَةُ التَّعْوِيْضِيَّةُ: پلاسٹک سرجری۔
الجِرَاحَةُ التَّقْوِيْمِيَّةُ: پلاسٹک سرجری۔
جِـرَاحِيٌّ: جراح یا جراحی کے متعلق، آپریشن سے متعلق۔
جِرَاحِيَّة: سرجری آپریشن۔
عَمَلِيَّةٌ جِرَاحِيَّة: سرجری آپریشن۔
غُـرْفَةُ الـعَـمَلِيَّةِ الجِرَاحِيَّةِ: آپریشن روم۔
جَارِحٌ، يَجْرَحُ: آزاردہ، تکلیف دہ۔
حَيَوَانٌ جَارِحٌ: درندہ۔
اِنْتِقَادٌ جَارِحٌ: سخت تنقید، تعریض، طنزیہ تنقید۔

جَـارِحَة ج: جَوَارِحُ: (۱)عضوانسانی (۲)شکاری پرندہ، درندہ۔
جَـرَدَ العُودَ۔جَرْداً و جَرَّدَ: چھیلنا، برہنہ کرنا، خول اتارنا۔
جَرَدَ البَضائِعَ: (دا) اسٹاک کرنا۔
جَـرَّدَ السَّيفَ تَجرِيداً: تلوار میان سے نکالنا۔
جَرَّدَهُ مِنَ الرُّتَبِ: تنزل کرنا، برطرف کرنا۔
جَـرَّدَ الرَّجُلَ من سُلْطَتِهِ تَجرِيداً: اختیار چھین لینا۔
جَـرَّدَهُ من السِّلاحِ: اسلحہ چھین لینا، اسلحہ ضبط کرنا، نہتا کردینا۔
جَرَّدَه من المُعَدَّاتِ الحَرْبِيَّة: سامان جنگ سے محروم کردینا، چھین لینا۔
جَرَّدَه من المُلْكِ: (۱) بادشاہت واقتدار سے ہٹانا، معزول کرنا، برطرف کرنا۔
تَـجَرَّدَ من كذا: دست بردار ہونا، بے تعلق ہونا، نہتا ہونا، برہنہ ہونا۔
جَرْدٌ ، جَرِدٌ: بے گیاہ زمین، چٹیل زمین۔
جَرْدُ الأشيَاءِ و البَضائِع: (دا) دوکان کے اسٹاک کا جائزہ، چٹھا تجارتی۔
جَرْدُ النَّقْدِيَّة: کیش اکاؤنٹنگ۔
جَرِيدَة ج: جَرائِدُ: (صَحِيفَة) اخبار، پیپر، نیوز پیپر (۲) گوشوارہ، فہرست۔
الجَرِيدَةُ الرَّسْمِيَّة: سرکاری گزٹ۔
جَرِيدَةُ السِّينَما: نیوز ریل۔
جَرِيدَةٌ غَرَّاءُ: موقر جریدہ۔
جَرِيدَةٌ وَاسِعَةُ الانْتِشَار: کثیر الاشاعت اخبار۔

جَرِيدَةٌ يَومِيَّة: (۱) روزنامہ (۲) روزنامچہ۔
جَرِيدَةُ النَّخلِ: کھجور کی ڈنڈی، شاخ۔
بَائِعُ الجَرائِدِ: اخبار فروش۔
لِعْبُ الجَرِيدِ: (۱) نیزہ بازی کا مقابلہ (۲) ٹورنامنٹ، ورزشی اور مجلسی کھیلوں کا عام مقابلہ۔
أَجْرَدُ: گنجا، بے بالوں کا، سر منڈا۔
أَرْضٌ جَرْدَاءُ: چٹیل زمین، بے آب و گیاہ زمین۔
تَـجَرَّدَ عن الإِنْسَانِيَّةِ: آدمیت سے دور ہونا۔
تَجَرَّدَ من القُيُودِ: آزاد ہونا۔
تَـجْرِيدٌ: کھال اتارنا، بال اتارنا، برہنہ کرنا (۲) علیحدگی، برطرفی، برہنگی، تخفیف۔
التَّـجْرِيدُ من الجِنسِيَّةِ: وطنیت سے محروم کرنا۔
تَـجْرِيدُ مِنطَقَةٍ من السِّلاحِ: کسی علاقہ کو ہتھیاروں سے الگ کرنا۔
تَجْرِيدَة: فوجی دستہ (۲) فوجی حملہ۔
مِجْرَدُ الأَسْنَانِ: دانتوں کا برش۔
مُـجَرَّدٌ: (۱) مزید کی ضد (۲) مرکب کا مقابل (۳) عریاں، برہنہ (۳) غیر مسلح، نہتا (۴) علیحدہ، برطرف (۵) محض، خالص۔
بمُجَرَّدِ.......: محض، جونہی، محض اس وجہ سے۔
جُـرَذٌ ج: جِرْذَان: بڑا چوہا، چوہے کی ایک قسم۔

جَرَّ ۔ جَرّاً: (۱) کھینچنا (۲) سبب بننا۔
جَرَّ العَالَمَ الی الحَرْب: ساری دنیا کو جنگ میں دھکیلنا۔
جَرَّ علٰی نَفْسِہ جَرِیْرَۃً: گناہ کا ارتکاب کرنا۔
ھَلُمَّ جَرّاً: علی ہذا القیاس، اسی طرح، اسی پر دوسروں کو بھی قیاس کرو۔
جَرَّار: (۱) بڑا، عظیم الشان (۲) بہت کھینچنے والا (۳) کھڑا بیچنے والا۔
جَرَّارَۃ: (۱) کھینچنے کا آلہ، مشین، ٹریکٹر (۲) زرد رنگ کا بچھو۔
جَرَّارَۃُ العَرَبَۃ: رسا، جس سے گھوڑا گاڑی کو کھینچتا ہے۔
جَرَّارَۃٌ لِرَفْعِ الانْقَاض: بلڈوزر۔
جَرَسٌ ج: أجْرَاس: گھنٹی، گھنٹا۔
جَرَسُ الانْذَار: خطرے کی گھنٹی۔
جَرَسُ الخَطَر: خطرہ کی گھنٹی۔
جَرَسُ المَوْت: ماتمی گھنٹی جس کے ذریعہ موت یا دفن کا اعلان کیا جاتا ہے۔
جَرَسٌ کَھْرَبِیٌّ: بجلی کی گھنٹی۔
الجُرْسِیّ: جرسی۔
جَارُوْشَۃ: چکی۔
جَرَضَ ۔ جَرْضاً: گلا گھونٹنا۔
جَرِضَ ۔ جَرَضاً: گلا گھٹ جانا۔
جَرَعَ ۔ جَرْعاً و اجْتَرَعَ: (۱) گھونٹ بھرنا (۲) نگلنا (۳) پینا۔
جُرْعَۃ ج: جُرَعٌ: گھونٹ۔
جَرَفَ ۔ جَرْفاً و جَرَّفَ و اجْتَرَفَ: کھرچنا، صاف کرنا، پانی کا کسی چیز کو بہا لے جانا، لے اڑنا۔
جُرُف: ڈرنگ، ڈھلوان چٹان۔
جُرُفُ النَّھْرِ او الحُفْرَۃ: مینڈھ، نہر یا تالاب وغیرہ کا کنارہ۔
جَرَّافَۃ: کدال، بیلچہ، پھاوڑا، سراون۔
جَرُوْف و مِجْرَفَۃ: پلی، کفچہ، ڈوئی۔
جَرَمَ ۔ جَرِیْمَۃً و اَجْرَمَ و اجْتَرَمَ: جرم کرنا، گناہ کرنا۔
إجْرَام مُنَظَّم: منظم جرم۔
أتَی الجُرْمَ: ارتکاب جرم کرنا۔
مُجْرِم: مجرمانہ (فِعْلٌ مُجْرِمٌ) (۲) جرائم پیشہ۔
مُجْرِمُ حَرْبٍ: جنگی مجرم۔
تَجْرِیْم: مجرم بنانا، مجرم ثابت کرنا۔
جَرِیْمَۃ: کرائم، جرم ج: جَرَائِم۔
جَرِیْمَۃٌ کُبْرٰی: بڑا جرم۔
جَرِیْمَۃٌ لا تُغْتَفَرُ: نا قابل معافی جرم۔
الجَرَائِمُ البَشِعَۃُ: گھناؤنے جرائم۔
جَرْمٌ: (۱) چھوٹی کشتی (۲) سائز (۳) حجم۔
جِرْمٌ ج: أجْرَام: جسم، باڈی، دَل۔
جَرِیْم: بڑے سائز کا، بڑے جسم والا۔
الجِرَام: گرام۔
جِرَامَات: گرام (جمع)۔
جُرْمُوْق: موزہ، ساق پوش جو ایڑی سے ٹخنے تک ہو۔
جُرْنٌ: (۱) پانی کا حوض (۲) غلہ کا ڈھیر، کھلیان (۳) کھرل (۴) ہاون دستہ۔
جُرْنُ القَمْحِ: گیہوں کا کھلیان۔
جَرَّنَ الحَصِیْدَ تَجْرِیْناً: غلہ کا ڈھیر لگانا۔

جِرْوٌ ج: جِرَاء: کتے یا درندے کا بچہ۔
جَرَى ــِ جَرْيًا: دوڑنا، بہنا۔
جَرَى الإنْتِخَابُ هٰذَا الأُسْبُوعَ ــِ جَرَيَانًا: الیکشن ہونا۔
جَرَى تَكْرِيمُ الفَائِزِينَ فِي القَاعَة: ہال میں کامیاب ہونے والوں کا اعزاز ہوا۔
جَرَيَانُ الاتِّصَالِ مَعَ فُلان: کسی سے رابطہ قائم ہونا۔
جَرَيَانُ الاِحْتِفَال بِمُنَاسَبَة كذا: کسی موقعہ پر تقریب ہونا۔
جَرَيَانُ الإسْتِقْبَال لِفُلان فِي كذا: کسی کا استقبال ہونا۔
جَرَيَانُ الإنْتِخَاب بَيْنَ الْمُرَشَّحِينَ: نمائندوں کا الیکشن ہونا۔
جَرَيَانُ التَّحَرِّيَاتِ فِي شَأنِ كذا: کسی سلسلہ میں تحقیقات ہونا۔
جَرَيَانُ مُبَاحَثَاتٍ: بات چیت ہونا۔
جَرَيَانُ بَحْثِ إمْكَانِ تَعْزِيزِ العَلاقَات: تعلقات کے استحکام کے امکانات پر غور و فکر کرنا۔
جَرَتِ العَادَةُ كذا: یہ رواج پڑ گیا ہے۔
جَرَتْ مُنَاقَشَةٌ مَعَ رِجَال الشُّرْطَة: پولیس کے ساتھ تو تو میں میں ہوئی۔
إجْرَاء و تَجْرِئَة: دوڑانا، بہانا، جاری کرنا۔
أجْرَى عليه الرِّزْقَ إجْرَاءً: الاؤنس دینا، روزینہ دینا۔
إجْرَاء: نافذ کرنا (۲) کارروائی، اقدام ج: إجْرَاءَات۔

إجْرَاءُ أبْحَاث: تحقیقات کرنا۔
إجْرَاءٌ إحْتِرَازِيّ: احتیاطی کارروائی۔
إجْرَاءُ إخْتِبَارٍ: تجربہ کرنا، ٹیسٹ کرنا۔
الإجْرَاءُ الإسْتِثْنَائِيُّ: غیر معمولی کارروائی۔
إجْرَاءُ التَّحْقِيق مع أحَد: کسی سے تفتیش کرنا۔
إجْرَاءٌ حَازِمٌ: زبردست کارروائی۔
إجْرَاءٌ حُكُومِيٌّ: سرکاری کارروائی۔
إجْرَاءُ حِوَارٍ مع أحَد: انٹرویو لینا، گفتگو کرنا۔
إجْرَاءٌ رَسْمِيٌّ: باضابطہ کارروائی۔
إجْرَاءٌ قَانُونِيٌّ: قانونی کارروائی، قانونی اقدام، ضابطہ کی کارروائی۔
إجْرَاءٌ قَضَائِيٌّ: عدالتی کارروائی۔
إجْرَاءُ اللِّقَاء: ملاقات کرنا۔
إجْرَاءُ المُحَادَثَات: بات چیت کرنا، انٹرویو لینا۔
إجْرَاءُ مَسْح شيء: سروے کرانا۔
إجْرَاءٌ مُضَادٌّ: جوابی کارروائی۔
إجْرَاءُ المُفَاوَضَات: بات چیت کرنا۔
إجْرَاءُ المُقَابَلَة مع أحَد: انٹرویو لینا، ملاقات کرنا۔
إجْرَاءُ المُكَالَمَةِ التِلِيفُونِيَّة: ٹیلی فون کال کرنا۔
إجْرَاءٌ نِهَائِيٌّ: آخری کارروائی۔
إجْرَاءَات: کارروائی۔
إجْرَاءَاتٌ إدَارِيَّة: انتظامی کارروائی۔
إجْرَاءَاتٌ إسْتِفْزَازِيَّة: دہشت انگیز

کارروائی۔
إجْرَاءَاتُ الأَمْن: حفاظتی انتظامات۔
إجْرَاءَاتٌ أمْنِيَّة: حفاظتی انتظامات، امن سے متعلق انتظامات۔
إجْرَاءاتٌ تعسُّفِيَّة: ظالمانہ کارروائی۔
إجْرَاءَاتٌ تَمْهِيْدِيَّة: ابتدائی کارروائی۔
إجْرَاءَاتٌ طَارِئَة او إجْرَاءَاتُ الطَّوَارِئ: ہنگامی کارروائی، ایمرجنسی اقدامات۔
إجْرَاءَاتٌ عَاجِلَة: فوری کارروائی۔
إجْرَاءَاتٌ مُشَدَّدَة: سخت اقدامات، سخت کارروائی۔
إجْرَاءَاتٌ مَكْتَبِيَّة: دفتری کارروائی۔
إجْرَائِيّ: کارروائی سے متعلق۔
مَجْرَى: دوڑ، رفتار، دھارا، گزرگاہ، راستہ۔
مَجْرَى البَوْل: پیشاب کی نالی۔
مَجْرَى الحَيَاة: رفتارِ زندگی، زندگی کا رخ۔
مَجْرَى المَاء: پانی کا دھارا، بہاؤ۔
مَجْرَى الهَوَاء: ہوا کا رخ، سمت۔
مَجْرَى الاحْوَال: حالات کا رخ، رفتار۔
مَجْرَى الأَحْدَاث: واقعات کا رخ۔
مَجْرَى التَّفْكِير: سوچنے کی لائن۔
مَجْرَى الحَوَادِث: حوادث کی رفتار۔
مَجْرَى الحَيَاة: رفتارِ زندگی۔
مَجْرَى القَنَاة: نہر کا راستہ۔
مَجْرَى الهَوَاء: ہوا کا رخ۔
مَجْرَيَاتُ المَعْرَكَة: لڑائی کے احوال۔
مَاجَرَيَات: (وا) واقعات، حوادث۔

ج..........ز

جَزَّأ تَجْزِئَة: تقسیم کرنا، تجزیہ کرنا، حصے بخرے کرنا۔
جُزْءٌ ج: أجْزَاء: (۱) حصہ (۲) پرزہ (۳) ٹکڑا (۴) پیس (۵) پارٹ۔
جُزْءٌ مِنْ بَرْنَامج: پروگرام کا حصہ۔
جُزْئِيّ: مرحلہ وار، جزوی، کلی کی ضد، معمولی، سطحی، فرعی۔
أجْزَاءٌ بَدِيْلَة: فالتو پرزے۔
أجْزَا خَانَة: فارمیسی دواخانہ۔
أجْزَائِيّ: کیمسٹ، انگریزی دوا فروش۔
أجْزَائِيَّة: فارمیسی، دواخانہ۔
أجْزَائِيّ: (وا) کیمسٹ، انگریزی دوا فروش۔
جزْدَان: (مع) بٹوا، تھیلی، پرس (ترکی)۔
جَزَرَ ـِ جَزْراً و جَزَراً: ذبح کرنا، سمندر میں جزر ہونا، پانی کا کم ہونا، پیچھے ہٹنا۔
جَزَرٌ و: جَزَرَة: گاجر۔
جَزَرَة: ٹینٹو پیپے وغیرہ میں لگی ہوئی۔
جَزَّارٌ: قصاب، گوشت کاٹنے یا فروخت کرنے والا۔
جِزَارَة: گوشت فروشی یا ذبح کا پیشہ۔
مَجْزِرٌ: مذبح، ذبح خانہ ج: مَجَازِرُ۔
مَجْزَرَة: قتل وغارت گری، فساد، خون خرابہ۔
مَجْزَرَةٌ بَشَرِيَّة: انسانی خون خرابہ۔

جَزَّ ـُ جَزّاً: اون وغیرہ کترنا، کاٹنا۔
جَزَّةُ الغنم: بھیڑ کی کتری ہوئی اون۔
جَزّاز: اون کترنے والا۔
جُزَازَة: کترن، تراشہ، ٹکڑا۔
مِجَزٌّ: اون کترنے کی قینچی۔
مَجْزُوْز: تراشا ہوا، کترا ہوا، بے اون کا۔
جَزِعَ ـَ جَزَعاً و جُزُوْعاً: بے برداشت ہونا، گھبرانا، مایوس ہونا، پریشان ہونا، بیتاب ہونا۔
جَزَعٌ: بے صبری، گھبراہٹ، بے چینی۔
جَزِعٌ و جَازِعٌ و جَزُوْعٌ: (ضد صَبُوْر) بیتاب، پریشان، بے چین۔
جَزْعٌ: سنگ سلیمانی، سلیمانی پتھر۔
جَزَّعَ بالرُّخام تَجْزِيْعاً: ماربل لگانا۔
تَجَزَّعَ بالرُّخام: ماربلنگ، ماربل والا ہونا۔
تَجْزِيْع بالرُّخام: ماربل لگانا، سنگِ مرمر لگانا۔
مُجَزَّع: مرمریں، سنگِ مرمر جیسا چکنا، ماربل دار۔
وَرَقٌ مُجَزَّع: ابری، وہ کاغذ جس پر ابری بنائی گئی ہو۔
جَزَفَ ـِ جَزْفاً و جازَفَ: اٹکل و اندازہ سے کام کرنا (۲) خطرہ میں پڑنا۔
ـــ بِنَفْسِهِ مُجَازَفَةً: رِسک مول لینا، جان خطرہ میں ڈالنا۔
جُزَاف: بے تک، بے ترتیب، اٹکل پچو۔
جُزَافاً: بے تک پن سے، بے سوچے سمجھے۔
تَكَلَّمَ جُزَافاً: اوٹ پٹانگ بات کرنا، بے سوچے بات کرنا۔
مُجَازِف: ناعاقبت اندیش، مَن چلا۔
مُجَازَفَة: جانبازی، آزمائش، خطرناک کھیل، ناعاقبت اندیشی، خطرہ کا کام، خطرہ مول لینا۔
جَزُلَ ـُ جَزَالَةً: کثرت سے ہونا، بہت ہونا۔
جَزُلَ المَنْطِقُ: گفتگو کا فصیح ہونا، سلیس ہونا۔
أجْزَلَ له العَطَاءَ: خوب دینا، بخشش کرنا، دل کھول کر دینا۔
جَزْلٌ و جَزِيْلٌ: (۱) بہت (۲) زبردست (۳) سلیس، فصیح۔
جَزِيْلُ الإحْتِرَام: زبردست احترام۔
شُكْرٌ جَزِيْلٌ: زبردست شکریہ۔
جَزْلَة: ٹکڑا، پیس، سلائس۔
جَزَالَة: کثرت، فصاحت۔
جَزَالَةُ المَنْطِق: خوش بیانی، فصاحتِ کلام۔
جَوْزَلُ الحَمَام: کبوتر کا بچہ ج: جَوَازِل۔
جُزْلَان: بٹوا، پرس۔
جَزَمَ ـِ جَزْماً: (۱) کاٹنا (۲) کسی کام کا قطعی فیصلہ کرنا، تہیہ کرنا، عزم کرنا۔
جَزَمَ عليه الأمْرَ: لازم کرنا۔
جَزْمٌ: قطعیت، یقین، عزم۔
جَازِمٌ: قطعی، یقینی، لازم۔
جَزْمَة: بوٹ، جوتا (دا)۔
ـــ برِبَاط: تسمہ دار جوتا، فیتے دار جوتا۔
ـــ بأزْرَار: بٹنوں دار جوتا، بٹن بوٹ۔
ـــ لَمّاعَة: پالش دار چمڑے کا جوتا۔

__ مَكْشُوفَة: جوتا جس میں ٹخنا کھلا رہے۔
رِبَاطُ الجَزْمَة: فیتا، تسمہ۔
جَزْمَاتِي: (دا) جوتا بنانے والا، مرمت کرنے والا۔
جَزُون: کسی باغ کے لان کی گھاس۔
جَزَاء: بدلہ (مُجَازَاة) بدلہ دینا۔
جَزَاءٌ نَقْدِيّ: جُرمانہ۔
جَزَاءٌ مَالِيّ: جرمانہ۔
جَزَائِيّ: تعزیری، قابل سزا، سزا کا۔
جِزْيَة: (۱) لگان (۲) باج، مال کی مقررہ مقدار جو ایک ریاست یا حکمراں دوسرے کو ادا کرے۔

ج......س

جَسَأَ ـ جَسْأً و جُسُوءًا، و جُسْأَةً: کام کے باعث ہاتھوں کا سخت ہو جانا، کھردرا ہو جانا۔
جَاسِئٌ: کھردرا، سخت موٹا۔
جَسَدٌ: باڈی ج: أَجْسَادٌ۔
مِجْسَاد (مِشْبَاح): اسٹیر سکوپ، جحم بیں (ایک آلہ جس سے کسی جسم کے دو مختلف منظر ایک ہی تصویر میں اتار لئے جاتے ہیں اور تصویر ٹھوس معلوم ہوتی ہے)۔
جَسَّدَ تَجْسِيداً: مشخص کرنا، عملی جامہ پہنانا۔
تَجْسِيد: نمایاں کرنا، عملی جامہ پہنانا، مشخص کرنا، منطبق کرنا۔
تَجْسِيدُ الإِرَادَة: خواہش کو پورا کرنا۔
تَجْسِيدُ التَّطَلُّعَات الجَمَاهِيرِيَّة: عوام کی توقعات پوری کرنا۔
تَجْسِيدُ التَّطَلُّعَات القَوْمِيَّة: قومی امنگیں پوری کرنا۔
تَجَسُّدٌ: جسم بن جانا، مجسم ہونا۔
تَجَسُّدُ الصِّدَام بِشَكْلِهِ المُبَاشِر: براہ راست ٹکراؤ ہو جانا۔
مُتَجَسِّد: ذی جسم۔
جَسَّرَ تَجْسِيراً: ہمت دلانا، دلیر بنانا۔
جَسَرَ و جَسَرَ ـُ جَسْراً: پل بنانا، پل پار کرنا۔
جَسَرَ ـُ جَسَارَةً و جُسُوراً: اقدام کرنا، ہمت کرنا، جسارت کرنا۔
جِسْرٌ ج: جُسُور و أَجْسُرٌ: پُل، بُرج۔
جِسْرٌ جَوِّيٌّ: فضائی پل، فضا میں کسی چیز کا سلسلہ۔
جِسْرٌ ذُو عَوَارِض: گارڈر برج۔
__ مُتَحَرِّك: اٹھاؤ پل، وہ پل جو بوقتِ ضرورت ہٹایا جا سکے۔
__ عَائِم: پل تختہ، کشتیوں کا بنایا ہوا پل۔
__ مُعَلَّق: جھولا پل، بے ستون پل جو لٹکا رہے۔
جِسْرُ البَنَّاء: مچان جس پر کھڑے ہو کر معمار تعمیر کرتا ہے۔
جِسْرُ البِنَاءِ: گارڈر، شہتیر، چھت کی ڈاٹ۔
جَسَارَة: بیباکی، نڈر پن، شوخی، بے ادبی۔
جَسُورٌ: بیباک، نڈر، شوخ، بے ادب۔
الجُسُورُ الإِسْتِرَاتِيجِيَّة: جنگی اہمیت کے پل۔
جَسَّ: (ن) ہاتھ لگا کر دیکھنا، ٹٹولنا، سراغ لگانا، جانچنا، تفتیش کرنا۔

جَسَّ الطَّبِيبُ النَّبضَ ـُ جَسّاً: نبض دیکھنا۔

جَسَّ النَّبضَ ـُ: نبض دیکھنا، نبض پر ہاتھ رکھنا۔

التَّجَسُّسُ: جاسوسی، جاسوسی کرنا۔

تَجَسَّسَ علی: سراغ لگانا، تفتیش کرنا۔

جَاسُوسِيَّة: جاسوسی۔

مِجَسٌّ: کسوٹی۔

جَسَّمَ الشئ تَجسِيماً: بڑا بنانا، کسی چیز یا بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، بڑا بنا کر دکھانا۔

تَجَسَّمَ: بڑا بننا، تناور ہونا، زبردست ہونا۔

جَسُمَ ـُ جَسَامَةً: ڈیل ڈول کا ہونا، بھاری بھرکم ہونا، زبردست ہونا، تناور ہونا۔

جِسمٌ ج: أجسامٌ و جُسُومٌ: بدن، ڈھانچہ، باڈی۔

جَسِيمٌ: بھاری بھرکم، زبردست، بڑے جسم کا۔

ج.........ش

جَشَأ تَجشِئَةَ: ڈکار لینا۔

جُشَأة و جُشَاءَة: ڈکار۔

جَشَّ ـُ جَشّاً و جَشِيشاً: کوٹنا، دلنا۔

جَشِيش: موٹا پیسا ہوا آٹا، دلیا۔

أجَشُّ: گلوگرفتہ، بیٹھی ہوئی آواز والا۔

إجشَاش: آواز بیٹھ جانا، کرخت ہو جانا۔

جُشَّةُ الصَّوت: گلوگرفتگی، خرابی آواز۔

جَشِعَ: (س) انتہائی حریص ولالچی ہونا۔

جَشِعٌ: لالچی، حریص، طمّاع۔

جَشِمَ ـَ جَشماً و تَجَشَّمَ: مشقت اٹھانا، تکلیف برداشت کرنا۔

ج.........ص

جَصَّصَ تَجصِيصاً: پلاسٹر کرنا، چونے کا پلاسٹر کرنا۔

جَصٌّ: چونا، گچ، پلاسٹر۔

جَصَاصَة: چونے کی بھٹی۔

ج.........ع

جَعبَة: تھیلا، تیروں کا تھیلا ج: جِعَابٌ۔

جَعجَعَة: شور، چکی کی آواز، گھرگھراہٹ۔

جَعجَعَةٌ بلا طِحنٍ: باتیں ہی باتیں عمل کچھ نہیں۔

جَعجَاع: شوروغل کرنے والا۔

جَعُدَ ـُ جَعَادَةً و جُعُودَةً: بالوں کا مڑنا، گھنگریالا ہونا، کپڑے یا کاغذ میں سلوٹ پڑنا۔

جَعدَةُ شَعرٍ: گھونگھریالے بالوں کی لٹ۔

جَعدَةٌ فی جلدٍ او ثَوب: کھال کی جھری، کپڑے کی سلوٹ۔

جَعَرَ السَّبُعُ ـَ جَعراً: درندہ کا پاخانہ کرنا۔

جَعَلَ ـَ جَعلاً: (۱) بنانا (۲) پیدا کرنا (۳) صفت تبدیل کرنا (۴) رکھنا، ڈالنا (۵) گمان کرنا (۶) مقرر کرنا۔

جَعَلَ له نَعلاً: سول لگانا۔

جَعَلَه آلَةً لِمَآربِه: کسی کو اپنے مقاصد کا ذریعہ بنانا۔

جَعَلَه مُثلَةً: آنکھ ناک بگاڑنا۔

جَعَلَه مُنسَجماً مَعَ: فٹ کرنا، مطابق کرنا۔

جَعَلَه مُنطَبِقاً عَلَی: فٹ کرنا۔

جَعَلَ الشئَ سِتاراً للأغراض: آڑبنانا۔
جَعَل الشئَ عَصرِیّاً: ماڈرن بنانا۔
جَعَلَ العَلاقَاتِ الدِبلُوماسِیّة طَبِیعِیَّةً: سفارتی تعلقات معمول پر لانا۔
جُعْلٌ و جَعَالَةٌ: مزدوری، حق محنت، فیس، انعام، کمیشن، محنتانہ۔

ج............ف

جَفرَة و جَفرٌ: خفیہ رسم الخط، خفیہ رسم الخط میں لکھنا۔
جَفَّ ـِ جَفّاً و جَفافاً: خشک ہونا۔
تَجفِیف: خشک کرنا، سکھانا۔
جَفَاف: خشکی، روکھاپن، بے مروّتی، خشک مزاجی، سوکھا، قحط۔
جافّ: خشک روکھا، خشک مزاج، بے مروت
الجفاف والمجاعة: خشک سالی، فاقہ کشی
جَفَلَ ـُ جُفُولاً: گھوڑے وغیرہ کا بدکنا، شرارت کرنا۔
تَجفِیل و إجفال: بدکانا، بھگانا۔
جَفوٌ و جَفاءَة: (ن) بے رُخی، نا اتفاقی، سنگ دلی، بے دردی، سختی، کشیدگی، بُعد۔
جَافٍ: بے رحم، سنگدل، بے درد، سخت مزاج، کرخت۔
الأُمُّ الجَافِیَةُ: دماغ کی مضبوط بیرونی جھلی۔
جَفِیَّة: آلہ مدافعت، روک جو تصادم سے بچاؤ کے لئے لگائی جائے۔
جَافِي الطَبِیعَة: روکھا، خشک مزاج۔
مُجافاةُ الحَقِیقَة: حقیقت کا انکار۔

ج............ل

جَلَبَ: (ن، ض) (۱) لانا، حاصل کرنا (۲) شور کرنا (۳) کسب معاش کرنا (۴) کھینچنا (۵) جاذب نظر ہونا (۶) خون منجمد ہونا (۷) زخم اچھا ہونا۔
جَلبُ الإنتِباہ الی کذا: توجہ مبذول کرانا۔
جَلبُ البَضائع من الخارِج: باہر سے مال منگانا۔
جَلَبَ علیه جَلباً: سبب بننا۔
جَلبٌ و اِستِجلاب: باہر سے مال منگانا، امپورٹ (IMPORT) کرنا۔
جَلَبٌ و جَلَبَة: شور غل۔
جُلبَة: زخم کا بکل، کُھر نڈ۔
جُلبَة: (عزقة) واشر، (سوراخ دار یا چپٹا چھلا جو ڈھبری وغیرہ کے ساتھ مضبوطی کے لئے لگا دیتے ہیں۔
جِلبَاب: لمبا کرتا ج: جَلابِیبُ۔
جَلّابٌ و جَالِبٌ: تاجر، امپورٹر، باہر سے مال منگانے والا۔
مَجلَبَة: سبب، ذریعہ ج: مَجَالِبُ۔
جَلجَلَة: گرجدار آواز ہونا۔
جُلجُلٌ: گھونگرو ج: جَلاجِلُ۔
جَلجَلَة: گونج، گرج۔
جُلجُلان: تل، ہرا دھنیا۔
مُجَلجِل: گونجدار، جھنکار دار آواز والا۔
جَلِحَ الرَّجُلُ ـَ جَلَحاً: سر کے بال اڑ جانا۔
أجلَحَ إجلاحاً: گنجے سر والا ہونا۔
جَلَخَ: (ف) استرے وغیرہ کو پتھر یا چمڑے پر تیز کرنا۔
جَلخ: استرے وغیرہ تیز کرنے کی پتھری، سان۔

جَلُدَ۔ جَلَادَۃ و جُلُوْدَۃً: مضبوط وطاقتور ہونا۔
جَلَدَ۔ جَلْداً: کوڑا مارنا۔
جَلِدَ۔ جَلَداً و أَجْلَدَ: سردی کی وجہ سے منجمد ہونا۔
جَلَّدَ تَجْلِیْداً: (۱) برودت کے ذریعہ جمانا (۲) جلد بنانا۔
جَلَّدَ الکِتَابَ تَجْلِیْداً: کتاب کی جلد بنانا۔
مُجَلِّدُ الکُتُب: بک بائنڈر، جلد ساز۔
تَجَلَّدَ: ہمت سے کام لینا، سختی برداشت کرنا، ہمت کرنا۔
جَلَدٌ: قوت، برداشت، تحمل، طاقت، ہمت، دلیری۔
جَلْدٌ: باہمت ج: اَجلادٌ و جِلادٌ۔
جِلْدٌ ج: جُلُوْد: چمڑا، کھال۔
جِلْدَۃ: چمڑے کا ٹکڑا، پٹی۔
جَلْدٌ و جَلُوْدٌ: باہمت، متحمل، طاقتور۔
جَلْدَۃ: کوڑا، کوڑے کی ایک ضرب۔
جَلَّاد: (۱) جلاد، پھانسی دینے والا (۲) تاجرِ چرم۔
جَلِیْد: برف، منجمد پانی۔
جَلَسَ۔ جُلُوْساً: بیٹھنا۔
جَلَسَ عَلَی العَرْش: تخت نشین ہونا۔
أَجْلَسَہٗ عَلَی العَرْشِ إِجْلَاساً: تخت پر بٹھانا۔
جَلْسَۃ: نشست (۲) نشست گاہ، میٹنگ۔
جَلْسَۃٌ خَاصَّۃ: پرائیویٹ میٹنگ۔
الجَلْسَۃُ الخِتَامِیَّۃُ: اختتامی میٹنگ، اختتامی جلسہ۔

جَلْسَۃٌ رَسْمِیَّۃ أو قَضَائِیَّۃ: سیشن۔
جَلْسَۃٌ عَاجِلَۃ: ہنگامی میٹنگ۔
جَلْسَۃٌ عَلَنِیَّۃ: جلسہ عام، عمومی اجلاس۔
الجَلْسَۃُ المَشْحُوْنَۃُ ضِدَّ اَحد: دھماکہ خیز اجلاس۔
جَلْسَۃٌ مُغْلَقَۃ: بند میٹنگ۔
جَلْسَۃُ المَحْکَمَۃ: اجلاسِ عدالت۔
جَلْسَۃٌ مُؤَجَّلَۃ: ملتوی شدہ میٹنگ یا اجلاس۔
مَجْلِسٌ: نشست، نشست گاہ، سیٹ، عدالت، ٹریبونل، کچہری، اسمبلی، کمیٹی، کونسل، بورڈ، کمرہ، چیمبر، مجلس، انجمن، محفل خانہ ج: مَجَالِسُ۔
مَجْلِسُ الإِدَارَۃ: مجلس انتظامیہ کورٹ بورڈ آف ڈائرکٹرس۔
مَجْلِسُ الأَعْیَان: (انگلستان کا) دارالامرا، ہاؤس آف لارڈس۔
مَجْلِسٌ اِقْلِیْمِیٌّ: صوبائی کونسل، صوبائی اسمبلی، علاقائی کونسل۔
مَجْلِسُ الاُمَّۃ: قومی اسمبلی۔
مَجْلِسٌ بَلَدِیٌّ: میونسپل کمیٹی۔
مَجْلِسٌ تَشْرِیْعِیٌّ: قانون ساز اسمبلی، آئین ساز اسمبلی، مجلس مقننہ، لیجسلیٹو کونسل۔
مَجْلِسٌ تَنْفِیْذِیٌّ: ورکنگ کمیٹی، مجلس عاملہ، گورننگ باڈی، مجلسِ منتظمہ۔
المَجْلِسُ التَّنْفِیْذِیُّ للاِتِّحَاد: وفاقی مجلسِ منتظمہ۔
مَجْلِسُ الثَّوْرَۃ: انقلابی کونسل۔
مَجْلِسُ الحُقُوْق: سول کورٹ۔

مَجلِسُ الخِزَانَة: ٹریزری بورڈ۔
مَجلِسُ الدَّائِنِين: قرض خواہوں کا بورڈ۔
مَجلِسُ الدِّفَاعِ العَرَبِيّ: عرب دفاعی کونسل۔
مَجلِسُ الدَّوْلَة: کونسل آف اسٹیٹ، ریاستی کونسل۔
المَجلِسُ الدُّوَلِيُّ الإِسْتِشَارِيُّ: بین الاقوامی شورائی کونسل۔
مَجلِسُ الرِّئَاسَة: صدارتی کونسل۔
مَجلِسُ السُّلْطَان: دیوانِ سلطانی۔
مَجلِسُ السِّيَادَة: فرماں روا مجلس۔
مَجلِسُ الشَّعْب: عوامی اسمبلی، قومی اسمبلی۔
مَجلِسٌ شَعْبِيٌّ: قومی کونسل، عوامی کونسل۔
مَجلِسُ شُوْرىٰ: مشاورتی مجلس۔
مَجلِسُ إِسْتِشَارِيّ. مجلس مشورہ، مجلسِ شوریٰ۔
المَجلِسُ الإِسْتِشَارِيُّ للحَاكِم: کیبنٹ CABINET۔
المَجلِسُ الإِسْتِشَارِيُّ الإِسْلَامِيُّ لِعُمُوْمِ الهِنْد: آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت۔
مَجلِسٌ اَعْلٰى: اپر ہاؤس۔
المَجلِسُ الاَعْلٰى للبَرْلَمَان: اپر ہاؤس، راجیہ سبھا۔
المَجلِسُ الاَعْلٰى للقُوَّات: فوجوں کی سپریم کونسل۔

مَجلِسُ الاُمَمِ المُتَّحِدَة: اقوام متحدہ کی اسمبلی۔
مَجلِسُ الاَمْن: سیکورٹی کونسل، سلامتی کونسل۔
مَجلِسُ الاَمْنِ القَوْمِيّ: نیشنل امن کونسل۔
مَجلِسُ الإِنْتَاج: پیداواری بورڈ۔
مَجلِسٌ بَلَدِيّ: میونسپل کمیٹی، میونسپلٹی، کارپوریشن۔
مَجلِسٌ تَادِيبِيٌّ: تادیبی مجلس۔
المَجلِسُ التَّأسِيسِيُّ: تاسیسی کمیٹی۔
مَجلِسُ التَّحقِيق: بورڈ آف انکوائری، تحقیقاتی بورڈ۔
مَجلِسُ التَّحقِيقِ العَسكَرِيّ: کورٹ آف انکوائری۔
مَجلِسُ تَسْوِيَةِ مُنَازَعَات: تصفیۂ نزاعات بورڈ۔
مَجلِسُ تَسْوِيق: مارکیٹ بورڈ۔
المَجلِسُ التَّعلِيمِيُّ و الدِّينِيُّ: دینی تعلیمی بورڈ۔
مَجلِسُ التَّنسِيق: تنظیمی کونسل۔
مَجلِسُ الشُّئُوْنِ الصِّحِّيَّة: بورڈ آف ہیلتھ۔
مَجلِسُ الشُّيُوخ: امریکی سینٹ، راجیہ سبھا، ایوان بالا۔
مَجلِسٌ عَسكَرِيٌّ: فوجی عدالت، کورٹ مارشل۔
مَجلِسُ العُمُوْم: (برطانوی) دارالعوام، (برطانوی) پارلیمنٹ۔

مَجلِسُ الفَاتِحَةِ عَلَی رُوحِ اَحَد: مجلسِ فاتحہ خوانی۔
مَجلِسُ قِیَادَةِ الثَّورَة: انقلابی رہنما کونسل۔
مَجلِسُ اللُّوردَات: (برطانوی) دارالامرا۔
مَجلِسُ مُحَکَّمِین: مجلس فیصلہ کنندگان، عدالتی کونسل۔
مَجلِسٌ مَحَلِّیّ: علاقائی کونسل۔
مَجلِسُ المُدِیرِیَّة: ڈسٹرکٹ بورڈ۔
مَجلِسُ مُرَاقَبَة: نگراں بورڈ۔
مَجلِسُ المُمتَحِنِینَ: بورڈ آف ایگزامنرس، مجلس ممتحنین۔
مَجلِسُ المُوَظَّفِینَ: اسٹاف کونسل۔
مَجلِسُ النُّوَّاب: پارلیمنٹ، مجلس نمائندگان۔
مَجلِسٌ نِیَابِیّ: پارلیمنٹ۔
مَجلِسُ الوِرَاثَة: قائم مقام کونسل۔
اَلمَجلِسُ الوِزَارِیُّ: کیبنٹ، وزارت۔
مَجلِسُ وِصَایَة: حفاظتی کونسل۔
مَجَالِسُ اِدَارِیَّة: انتظامی مجالس یا بورڈس۔
مَجَالِسُ التَّوفِیق: مصالحتی کمیٹیاں۔
تَجَلَّطَ الدَّمُ: خون بستہ ہونا۔
جُلطَة: بستہ خون۔
جَلَعَ ـُ خُلُوعاً: بیہودہ و بے ادب ہونا۔
جُلَفٌ: (جَحفَة) گولف، ایک قسم کا کھیل (مع)۔

جَلَّلَ تَجلِیلاً: (۱) تعظیم کرنا (۲) بڑا بنا دینا (۳) ڈھانکنا۔
جَلَّلَ عن: منزہ قرار دینا۔
جَلَّ ـِ جَلَالَةً: عظیم المرتبہ ہونا، بڑا ہونا۔
جَلَالَة: عظمت۔
صَاحِبُ الجَلَالَة: ہزمجسٹی، بادشاہ کا اعزازی لقب۔
مَجَلَّة ج: مَجَلَّات: میگزین، ماہنامہ، رسالہ۔
مَجَلَّةٌ اُسبُوعِیَّة: ہفتہ وار رسالہ۔
مَجَلَّةٌ شَهرِیَّة: ماہنامہ۔
مَجَلَّةٌ نِصفُ شَهرِیَّة: پندرہ روزہ پرچہ۔
جَلَمٌ: (ض) اون کترنا، کاٹنا۔
جلم. اون کاٹنے کی قینچی۔
جُلمَدٌ، جُلمُود: چٹان۔
جلنار (مع) گلِ انار۔
جَلَا ـُ جَلواً: (۱) پالش کرنا (۲) واضح کرنا۔
جَلَاهُ عن: نکالنا، بے دخل کرنا، روانہ کرنا، جلاوطن کرنا، دور کرنا۔
تَجلِیَة: اُجاگر کرنا۔
الاِجلَاء: دیس نکالا، انخلا کرنا۔
اِنجِلَاء: (۱) روشن و واضح ہونا، چمکنا، (۲) انخلاء (۳) زائل ہونا۔
اِنجِلَاء عن: منتج ہونا، نتیجہ برآمد ہونا۔
اِستِجلَاء: تحقیق کرنا، تفتیش کرنا۔
جَلَاء: (۱) وضاحت، انکشاف (۲) انخلا، روانگی (۳) پالش۔
جَلَاءُ القُوَّات عن المِنطَقَة: علاقہ سے

فوجوں کو ہٹانا۔
جَالِیَة: کالونی، کسی ملک میں رہائش پذیر غیر ملکی جماعت ج: جَالِیَات۔
جَالِیَةٌ أَجْنَبِیَّةٌ: غیر ملکی برادری، غیر ملکی طبقہ۔
جَلُوکُوز: (معرب) گلوکوز۔

ج............م

جُمْجُمَة ج: جَمَاجِم: کھوپڑی۔
جَمَحَ الحِصَانُ ـَ جُمُوحاً و جَمْحاً و جِمَاحاً: گھوڑے کا شرارت کرنا، ہٹ کرنا، بدکنا، سرکشی کرنا۔
جَمَحَ الرَّجُلُ: سرکش ہونا، خودسر ہونا، بے لگام ہونا۔
جِمَاح: سرکشی، خودسری، خواہش نفس۔
کَبَحَ جِمَاحَه: خواہش نفس پر قابو پانا، سرکشی کو ختم کرنا، ہٹ دور کرنا۔
جُمَّاح: پروار گیند۔
جَامِحٌ و جَمُوحٌ: سرکش، بے مہار، بے لگام، ہٹی، مَن چلا۔
جَمَّدَ تَجْمِیداً: جمانا، گاڑھا کرنا، خشک کرنا۔
تَجْمِید: پابند کرنا، روکنا، منجمد کرنا۔
تَجْمِیدُ الأُجُور: اجرتوں کو منجمد کرنا، تنخواہیں روکنا۔
تَجْمِیدُ الأَرْصِدَة: سرمایہ منجمد کرنا۔
تَجْمِیدُ الاسْتِیرَاد: درآمد روکنا۔
تَجْمِیدُ الأَسْعَار: نرخوں میں ٹھہراو پیدا کرنا۔
تَجْمِیدُ أَسْعَارِ النِّفط: پٹرول کی قیمتوں میں ٹھہراو پیدا کرنا۔
تَجْمِیدُ العَلاقَات: تعلقات کو منجمد کرنا، ختم کرنا۔
تَجْمِیدُ العَلاقَات الدِّبْلُومَاسِیَّة: سفارتی تعلقات ختم کرنا۔
تَجْمِیدُ القُرُوض للبُنُوک: قرضوں کی ادائیگی روکنا۔
تَجْمِیدُ القَضِیَّة: مسئلہ کو سردخانے میں ڈالنا۔
تَجْمِیدُ المُشْکِلات: مشکلات ختم کرنا۔
تَجْمِیدُ المَوْقِف: کردار کو روکنا۔
تَجْمِیدُ النَّشَاط: سرگرمی روکنا، بند کر دینا۔
تَجَمُّدُ العَلاقَات: تعلقات میں جمود پیدا ہونا۔
مُتَجَمِّد: منجمد۔
المُجَمِّد: فریزر (FREEZER)۔
جَمَدَ ـُ جُمُوداً و جَمْداً: جم جانا، خشک ہونا۔
جَمُدَتْ یَدُهُ: بخیل ہونا۔
جَمْدٌ: برف، مصنوعی یا آسمانی برف۔
جَمَادٌ: بے جان، بے حس چیز۔
جَامِدٌ: سخت (نرم کی ضد) منجمد (رقیق کی ضد) ٹھوس، بے حس و حرکت۔
جُمُود: بے حسی، کاہلی، تعطل۔
جَمْرٌ و و: جَمْرَةٌ: دہکتی ہوئی آگ، انگارہ۔
جَمَرَ ـُ جَمْراً: آگ جلانا۔
مِجْمَرَة ج: مَجَامِرُ و مَجَامِیرُ: انگیٹھی، آتش دان۔

مِجْمَرَةُ البَخُور: عوددان، بخوردان۔
جُمْرُک ج: جَمَارِک: (مع) چنگی خانہ، کسٹم ہاؤس (۲) کسٹم۔
جَمَارِکُ علی الصَّادِرَات و الوَارِدَات: درآمدات وبرآمدات پر کسٹم۔
جُمْرُکِی: کسٹم سے متعلق۔
جُمْرُکِیَّة: کسٹم ہاؤس۔
رُسُوم جُمْرُکِیَّة: کسٹم ڈیوٹی، چنگی محصول۔
(جمس) جَامُوس ج: جَوَامِیس: بھینس۔
جَمَشَ رَأسَهُ ـُـ جَمْشاً: سر مونڈنا۔
جَمَّشَه تَجْمِیشاً: گدگدی کرنا، گدگدانا۔
جَمِیش: بال صفا، بال اڑانے کی دوا۔
جَمَعَ ـَـ جَمْعاً: سمیٹنا، اکٹھا کرنا، ملانا، ایک جگہ کرنا، عام کرنا۔
جمعَ الأرْقَام: حساب جوڑنا، حساب لگانا۔
ــــ الکِتَاب: تالیف کرنا۔
ــــ الجَمْعِیَّة: میٹنگ بلانا۔
ــــ الحُرُوف: کمپوز کرنا۔
جَمْعٌ: کمپوزنگ، ٹوٹل۔
جَمْعُ الإحْصَاءَ ات: اعداد وشمار جمع کرنا۔
جَمْعُ بَیَانَات: معلومات یا تفصیلات جمع کرنا۔
جَمْعُ ثَرْوَة: دولت کا انبار لگانا۔
جَمْعٌ حَاشِد: جم غفیر۔
جَمْعُ الحَقَائِب لِلْمُغَادَرَة: رخت سفر باندھنا۔
جَمْعُ الخُیُوط: تار ملانا۔
جَمْعُ الشَّمْل: شیرازہ بندی۔
جَمْعُ القُوَّات: فوجوں کا اجتماع، فوجوں کو اکٹھا کرنا۔
جَمْعُ المَجْلِس: کونسل کا اجلاس بلانا۔
جَمْعُ الوَثَائِق: دستاویزات فراہم کرنا۔
أجْمَعُوا علی ...... إجْمَاعاً: متفقہ فیصلہ کرنا۔
إجْمَاعُ الآرَاء: اتفاق رائے۔
بالإجْمَاع: بالاتفاق۔
بِإجْمَاعِ الأصْوَات: باتفاق آراء۔
إجْتَمَعَ إلی فُلَان: ملاقات کرنا، ملنا۔
إجْتَمَعَ به: ملاقات کرنا، ملنا۔
إجْتَمَعَ مع فُلَان: ملاقات کرنا، ملنا۔
إسْتِجْمَاعُ القُوَّة: طاقت یکجا کرنا۔
جَمْعِیَّة: ایسوسی ایشن، کمیٹی، تنظیم، انجمن، کونسل، کنونشن، کارپوریشن، محفل خانہ، سوسائٹی، اسمبلی ج: جَمْعِیَّات۔
جَمْعِیَّةُ البِنَاءِ التَّعَاوُنِیَّة: بلڈنگ کوآپریٹو سوسائٹی۔
جَمْعِیَّةٌ تَأسِیسِیَّة: کانسٹی ٹیوشن اسمبلی، مجلس وضع قوانین، وہ جماعت یا حکومت جسے آئین ملکی میں ردوبدل کا اختیار ہو۔
جَمْعِیَّةُ تِجَارَةِ الجُمْلَة: ہول سیل سوسائٹی۔
جَمْعِیَّةٌ تَسْوِیقِیَّةٌ: مارکٹنگ ایسوسی ایشن۔
جَمْعِیَّةٌ تَشْرِیعِیَّة: اسمبلی، قانون ساز اسمبلی۔
جَمْعِیَّةُ التَّعَاوُن الزِّرَاعِیَّة: زرعی کوآپریٹو سوسائٹی۔
الجَمْعِیَّةُ التَّعَاوُنِیَّة: انجمن امداد باہمی کوآپریٹو سوسائٹی۔
الجَمْعِیَّةُ النِّسَائِیَّةُ الخَیْرِیَّة: خواتین کی فلاحی انجمن۔

جَمْعِيَّةٌ تَعَاوُنِيَّةٌ اِسْتِهْلاكِيَّةٌ: امداد باہمی انجمن صارفین۔
جَمْعِيَّةٌ خَيرِيَّةٌ: ویلفیئر سوسائٹی، فلاحی انجمن۔
جَمْعِيَّةُ الرَّخَاء: ویلفیئر سوسائٹی۔
جَمْعِيَّةٌ رَفَاهِيَّةٌ: ویلفیئر سوسائٹی۔
جَمْعِيَّةٌ لِلبِنَاء: بلڈنگ سوسائٹی۔
جَمْعِيَّةُ المُحَامِين: انجمن وکلاء۔
جَمْعِيَّةٌ مَدَنِيَّةٌ: سول سوسائٹی۔
جَمْعِيَّةٌ عَامَّةٌ: جنرل اسمبلی۔
جَمْعِيَّةٌ عُمُومِيَّةٌ: جنرل اسمبلی۔
جَمْعِيَّةٌ وَطَنِيَّةٌ: قومی اسمبلی نیشنل اسمبلی۔
جَمْعِيَّاتُ التَّسْلِيفِ التَّعَاوُنِيَّة: قرضہ کوآپریٹو سوسائٹی۔
جَمْعِيَّاتُ الإِنْتَاجِ التَّعَاوُنِيَّةُ: کوآپریٹو پیداواری سوسائٹی۔
جَمَاعَة: گروپ۔
جَمَاعَةٌ فِدَائِيَّةٌ: جانباز جماعت، رضا کارانہ جماعت۔
جَمَاعَةُ المُحَامِين: بارایٹ لا، انجمن وکلاء۔
جَمَاعِيٌّ: مشترکہ، اجتماعی، جماعتی۔
جَمَّاعَةُ الكَهْرُبَاء: خزانہ بجلی جس میں برقی قوت جمع کی جائے۔
جُمُوعَات: گروپ۔
الجُمُوعَاتُ الفِدَائِيَّةُ: جانباز گروپ۔
التَّجَمُّعُ: اتحاد، اجتماعیت، آبادی۔
تَجَمُّعُ القُوَّات: فوجوں کا اجتماع۔
التَّجَمُّعُ لِعَمَلٍ: ریلی کرنا۔
التَّجَمُّعُ الوَطَنِيُّ: قومی اتحاد۔
تَجَمُّعَات: اجتماعات۔

التَّجَمُّعَاتُ البَشَرِيَّةُ: انسانی آبادیاں۔
تَجَمُّعَاتٌ جَمَاهِيرِيَّةٌ: عوامی اجتماعات۔
التَّجَمُّعَاتُ السُّكَّانِيَّةُ: شہری آبادیاں۔
التَّجَمُّعَاتُ العُمَّالِيَّةُ: مزدوروں کی آبادیاں۔
التَّجَمُّعَاتُ المَدَنِيَّةُ: شہری ٹھکانے، آبادیاں۔
المُتَجَمِّعُ مِنَ الاِجَازَات: جمع شدہ رخصتیں۔
تَجْمِيعٌ: فٹنگ، جڑائی۔
جَامِعٌ ج: جَوَامِعُ: (۱) بڑی مسجد (۲) وصول کنندہ (۳) وسیع، محیط۔
جَامِعُ الكِتَاب: مرتب، مؤلف۔
جَامِعُ الحُرُوف: کمپوزیٹر۔
الجَامِعُ: کلکٹر۔
جَامِعَة ج: جَامِعَات: (۱) یونیورسٹی (۲) لیگ، متحدہ جماعت۔
جَامِعَةُ الأُمَم: انجمن اقوام مختلفہ۔
جَامِعَةُ دُوَلٍ: کامن ویلتھ۔
الجَامِعَةُ العَرَبِيَّةُ: عرب لیگ۔
جَامِعِيٌّ: یونیورسٹی کا، یونیورسٹی پیمانہ کا۔
إِجْتِمَاع ج: إِجْتِمَاعَات: ملاقات، اجلاس، میٹنگ، جلسہ، کنونشن۔
إِجْتِمَاعٌ إِسْتِثْنَائِيٌّ: خصوصی اجلاس، ہنگامی اجلاس۔
إِجْتِمَاعُ الأَنْهُر: سنگم، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ۔
إِجْتِمَاعُ الجَمْعِيَّةِ: اسمبلی کا اجلاس۔

إجتِمَاعٌ حَاشِدٌ: زبردست اجتماع۔
إجتِمَاعٌ سِرِّيّ: خفیہ اجلاس۔
إجتِمَاعُ الطُّرُق: چوراہا، دوراستوں کے ایک دوسرے کو قطع کرنے کی جگہ۔
إجتِمَاعٌ مُغلَق: بند اجلاس۔
إجتِمَاعٌ مُوَسَّع: بڑا اجتماع۔
عِلْمُ الإجتِمَاع: عمرانیات، علم معاشرت۔
إجتِمَاعِياً: اجتماعی طور پر۔
إجتِمَاعِيٌّ: معاشرتی، عمرانی، سوشل، اجتماعی، سماجی۔
الشُّؤُوْنُ الإجتِمَاعِيَّة: معاشرتی معاملات۔
المُسَاوَاةُ الإجتِمَاعِيَّةُ: معاشرتی برابری، سماجی مساوات۔
النِظَامُ الإجتِمَاعِيُّ: معاشرتی نظام، اصول معاشرت۔
الهَيئَةُ الإجتِمَاعِيَّةُ: انسانی سوسائٹی۔
مُجتَمَعٌ ج: مُجتَمَعَات: سوسائٹی، سماج، معاشرہ، میٹنگ، جلسہ گاہ، [illegible]۔
مُجتَمَعٌ إشتِرَاكِيٌّ: سوشلسٹ سوسائٹی۔
اَلْمُجتَمَعُ الدُّوَلِيّ: بین الاقوامی معاشرہ، برادری۔
مُجتَمَعٌ دِيمُقرَاطِيّ: ڈیموکریٹک سوسائٹی۔
مُجتَمَعُ الرَّخَاء: خوشحال معاشرہ۔
المُجتَمَعُ العَالَمِيُّ: عالمی برادری۔
مُجتَمَعٌ مُنحَلٌّ: گراہوا معاشرہ، زوال پذیر معاشرہ، زوال یافتہ معاشرہ۔
مُجتَمَعٌ يَنعَمُ بِرَخَاءٍ او بِرَفَاهِيَة: خوشحال معاشرہ۔
مَجمَعٌ ج: مَجمَعَات: کنونیشن، مجلس۔
مَجمَع ج: مَجَامِعُ: اکیڈمی، کونسل، انسٹی ٹیوٹ، تحقیقی ادارہ۔
مَجمَعٌ عِلمِيٌّ: اکیڈمی، لٹریری ادارہ۔
مَجمَعُ البُحُوثِ الإسلامِيَّة: مجلس تحقیقات اسلام۔
مَجمَعُ اللُّغَةِ العَرَبِيَّة: عربی زبان کی اکیڈمی۔
مَجمَعِيّ: اکیڈمی کا یا اس سے متعلق۔
مُجَمِّعٌ: داعی، جلسہ بلانے والا، کنوینر۔
مُجَمِّعُ الحُرُوف: کمپوزیٹر۔
مَجمُوعٌ: ٹوٹل، میزان، کل، حاصل۔
مَجمُوعُ خَرَائِطَ جُغرَافِيَّة: اٹلس۔
مَجمُوعٌ فَرعِيّ: ذیلی میزان، سب (SUB) ٹوٹل۔
المَجمُوعُ الكُلِّيّ: میزان کل، کل میزان۔
مَجمُوعَة: ٹیم، بلاک، پینل، گروپ، سیٹ (SET)۔
مَجمُوعَةُ أوْرَاق: فائل۔
مَجمُوعَةُ الحُرُوف (فى الآلة الكاتبة): کی بورڈ۔
مَجمُوعَةُ الدُّوَلِ غَيرِ المُنحَازَة: غیر جانبدارانہ ممالک کا گروپ۔
مَجمُوعَةٌ صَغِيرَة: پیکٹ۔
مَجمُوعَةٌ كَامِلَة: فل سیٹ، مکمل

سیٹ۔
مَجْمُوعَةُ مَنَازِل: کمپاؤنڈ۔
مَجْمُوعَةٌ مِنَ الرَّسَائِل: پیکٹ۔
جَمْكِيَّة: (مع) تنخواہیں، الاؤنس۔
جُمْلَة: پیراگراف، ٹوٹل، کُل، تھوک، سب رقم، مقدار۔
جُمْلَةٌ تَامَّة: پیریڈ، فقرہ یا مکمل بات۔
جُمْلَةً: سب کا سب۔
بِجُمْلَةٍ: سب کا سب، کل۔
بِالجُمْلَة: خلاصہ یہ کہ (۲) تھوک، ہول سیل (۳) ایک دفعہ، اکٹھا۔
تَاجِرُ الجُمْلَة: تھوک فروش، ہول سیلر۔
جَمَالٌ: حسن۔
جَمَّال: شتربان، اونٹ والا۔
جَمِيل: حسین (۲) حسنِ سلوک (۳) احسان (۴) عمدہ، خوب۔
مَعْرِفَةُ الجَمِيل: احسان شناسی۔
نُكْرَانُ الجَمِيل: احسان فراموش۔
نَاكِرُ الجَمِيل: احسان فراموشی۔
إِجْمَال: خلاصہ، کل، اجمال۔
إِجْمَالاً: مختصر طور پر، خلاصہ کے طور پر۔
إِجْمَالِيُّ النَّاتِج: کل پیداوار۔
بِوَجْهِ الإِجْمَال: عمومی طور پر۔
مُجْمَل: خلاصہ، مختصر۔
مُجْمَلُ الخَسَارَة: کل نقصان، نقصان کا ٹوٹل۔
مُجْمَلاً: اجمالی طور سے۔
مُجَامَلَة: مزاج داری، رکھ رکھاؤ، تواضع، انکساری، خوش خلقی۔
المُجَامَلَةُ بَيْنَ الشُّعُوب: قوموں کا باہمی رکھ رکھاؤ۔
مُجَامَلَةٌ دِبْلُومَاسِيَّة: سفارتی رکھ رکھاؤ، سفارتی رعایت۔
جَمَلَكَة: (مع) لاکر، سنہری روغن جو چپڑا لاکھ حل کر کے تیار کیا اور پیتل وغیرہ پر لگایا جاتا ہے۔
جَمَلُون، جَمَل: (معرب) (۱) دورخی ڈھلوان چھت کا بالائی تکونا حصہ، (۲) ڈھلوان دیوار جس کا بالائی حصہ تکونا ہو (۳) کھڑکی یا دروازے کا چھجا۔
جُمَان و: جُمَانَة: (۱) موتی (۲) دونو کی کیل۔
جَمْهَرَة: جمع کرنا۔
تَجَمْهُر: جمع ہونا۔
جُمْهُور ج: جَمَاهِير: پبلک، عوام، ہجوم، مجمع۔
جُمْهُورُ النَّاخِبِين: انتخاب کرنے والوں یا رائے دہندوں کی جماعت۔
الجُمْهُورِيَّةُ البَرْلَمَانِيَّة: پارلیمنٹری جمہوریت۔
الجَمَاهِير: عوام۔
الجَمَاهِيرُ العُمَّالِيَّة: مزدور عوام۔
الجَمَاهِيرُ الغَاضِبَة: مشتعل ہجوم، مشتعل عوام۔
جُمْهُورِيَّة: ری پبلک۔
الجُمْهُورِيَّةُ الرِّئَاسِيَّة: صدارتی جمہوریت۔

ج .... ن

جَنَبَ ـُ جَنْباً و جَنَّبَ: بچانا، علیحدہ رکھنا۔
اِجْتِنَاب: دور رہنا، بچنا۔

تَجانَب: پہلو تہی کرنا، گریز کرنا۔
تَجنَّب: ایک طرف ہونا، پہلو تہی کرنا۔
تَجنُّبُ البِلادِ دَماراً: ملک کا بربادی سے بچنا۔
تَجنُّبُ الصِّدام مَعَ اَحَدٍ: ٹکراؤ سے بچنا، تصادم سے بچنا۔
تَجنُّبُ المَخاطِر: خطرات سے بچنا۔
تَجنُّبُ المَشاكِل: مشکلات سے بچنا۔
تَجنُّباً لِخَوْضِ المَعارِک: لڑائیوں سے بچنے کے لئے۔
جُنبَة: دوسروں سے بچنے والا، بہت پرہیز واحتیاط کرنے والا۔
جُناب، ذَاتُ الجَنب: ایک بیماری جس سے پھیپھڑوں میں پانی پڑ جاتا ہے، ذات الجنب۔
جَنْبٌ ج: أجْنَاب و جُنُوب: پہلو، جانب، جہت، کنارہ، آغوش۔
جَنْباً لِجَنْبٍ: پہلو بہ پہلو۔
عَلٰی جَنْبٍ: ایک طرف، علیحدہ۔
جَنُوب: ساؤتھ، جنوب۔
جَنُوبُ أفْرِيقِيا: جنوبی افریقہ۔
جَنُوبُ شَرْقِ آسيا: جنوب مشرقی ایشیا۔
جَنُوباً: جانبِ جنوب۔
جَنُوبيّ: جنوب کا، جنوبی۔
جَانِبٌ ج: جَوانِبُ: پہلو، جسم کا داہنا یا بایاں حصہ، عمارت کا حصہ، رخ، طرف، کنارہ، مقدار، حیثیت، سائڈ۔
جَانِبٌ عَظِيم: بڑی حیثیت، زبردست قدر ومنزلت۔

الجَوانِبُ النَّظَرِيَّة: نظریاتی پہلو۔
جَانَبَ الشئَ مُجَانَبَةً: گریز کرنا، پہلو تہی کرنا۔
الجَانِبُ المُتحارِب: متحارب فریق۔
فِيْ هٰذَا الجَانِبِ: ادھر
فی ذٰلِکَ الجَانِب: اُدھر، اُس پہلو پر۔
بِجَانِبِ شَيْءٍ: ساتھ ساتھ۔
رَقِيقُ الجَانِب: نرم مزاج، رحم دل۔
عَظِيمُ الجَانِب: بلند حیثیت، بلند مرتبہ۔
مُتَعَدِّدُ الجَوانِب: متعدد گوشوں والا۔
جَانِبِيٌّ: یک طرفی، بغلی، پہلودار، سائڈ کا۔
جَنَاب: تعظیمی لقب جو ضمیر کی طرف مضاف ہوکر استعمال ہوتا ہے۔
جَنَابُكُم: آنجناب، آپ، بڑوں سے خطاب کے لئے۔
جَنَابِيَة: کھاڑی جو راستہ کے دائیں یا بائیں ہوتی ہے۔
أجْنَبِيٌّ ج: أجَانِبُ: پردیسی، غیرملکی، فارن کا، نامانوس۔
اجْتِنَاب، تَجَنُّب، مُجَانَبَة: کنارہ کشی، پہلو تہی، گریز، احتراز (۲) دور رہنا، گریز کرنا۔
مُجَانِب: کنارہ کش، علیحدہ۔
مُجَنِّبَةُ الجَيْش: فوج کا دایاں یا بایاں بازو۔
مُجَنِّبَتَا الجَيْش: فوج کے دو بازو۔
جُنْبَاز: ورزشِ بدن کا ماہر، جمناسٹک کا ماہر (فارسی "جانباز" کا معرب)۔

جَنَحَ الطَّائِرَ۔ جَنْحاً: بازو کو زخمی کرنا۔
جَنَحَ الیہ۔ جُنُوحاً و أَجْنَحَ: مائل ہونا۔
جَنَحَتِ السَّفِینَۃُ: کشتی کا زمین سے لگ جانا۔
جُنُوحُ السَّفِینَۃ: کشتی کا ڈانوا ڈول ہونا۔
جَنَّحَ الشیٔ تَجْنِیحاً: بازو لگانا۔
جَنَّحَ الرجلَ: الزام لگانا، گناہ کی طرف نسبت کرنا۔
جَنَاحٌ: کسی بڑی عمارت کا حصہ، بازو، وارڈ، حصہ ج: أَجْنِحَۃ۔
جَنَاحُ الشَّبَاب: یوتھ ونگ، نوجوان طبقہ۔
جَنَاحٌ و جِنْحٌ: حفاظت، حمایت، پناہ۔
جِنْحٌ: جانب، طرف، کنارہ، حصہ۔
جِنْحٌ مِنَ اللَّیْل: رات کا ایک حصہ۔
تَحْتَ جِنْحِ الظَّلام: سخت اندھیرے میں۔
مُفَصَّلَۃٌ بِجَنَاحٍ: لمبا قبضہ جو کواڑ میں لگایا جاتا ہے۔
جُنَاحٌ: جُرم، گناہ۔
جُنْحَۃٌ: مجرمانہ فعل، خفیف جرم۔
جَانِحٌ: پہلو، جانب، طرف، سائڈ۔
جَانِحٌ و جَانِحَۃ: پسلی ج: جَوَانِح۔
مُجْنَحٌ: بازو دار۔
جَنَّدَ تَجْنِیداً: فوج بھرتی کرنا، فوج جمع کرنا۔
تَجَنَّدَ: بھرتی ہونا، سپاہی بننا۔
جُنْدٌ و: جُنْدِیّ: فوجی سپاہی، فوج۔
جُنْدِیٌّ مُرْتَزِق: کرایہ کا سپاہی۔
جُنُود: افواج و: جُنْدٌ۔
جُنُودُ الاِحْتِلَال: قابض فوج۔

الجُنُودُ الاَشَاوِش: خوددار سپاہی، بہادر سپاہی۔
الجُنُودُ المُسَلَّحَۃ: مسلح افواج۔
جُنُودُ المِظَلَّات: چھاتہ بردار فوج۔
تَجْنِید: تیار کرنا، یکجا کرنا، سمیٹنا، جنگ کے لئے تیار کرنا، بھرتی کرنا۔
تَجْنِیدٌ إِجْبَارِیّ: لازمی بھرتی۔
تَجْنِیدٌ إِلزامیٌّ: لازمی بھرتی۔
تَجْنِیدُ العُمَّال و الصُّنَّاع: کارکنوں اور صنعت کاروں کو تیار کرنا، بھرتی کرنا۔
تَجْنِیدُ الکَفَاءَات: صلاحیتوں سے کام لینا۔
جَنَّزَ المَیِّتَ تَجْنِیزاً: مردہ پر نماز پڑھنا، مردہ کو تابوت میں رکھنا۔
جَنَّازٌ: نماز جنازہ یا جنازہ کا جلوس۔
جَنَازَۃٌ: جنازہ، نعش۔
جَنَازَۃٌ هِنْدُوکِیَّۃ: ارتھی۔
جَنَّسَہ تَجْنِیساً: (۱) حقوقِ قومیت عطا کرنا، (۲) ملکی بنانا۔
جَانَسَہ مُجَانَسَۃً: ہم جنس ہونا، ہم قوم ہونا، ہم نشین ہونا، مشابہ ہونا۔
جِنْسٌ ج: أَجْنَاسٌ: نوع، قسم، قوم۔
جِنْسِیَّۃ: قومیت، نیشنلٹی، حقوقِ ملکی۔
جِنَاس: لفظی مُشابہت، صنعتِ لفظی کی ایک قسم۔
تَجَنُّسٌ بِجِنْسِیَّۃٍ: قومیت اختیار کرنا۔
تَجَانُس: مُشابہت، ہم قومیت، ہم جنس ہونا۔
مُتَجَانِس: ہم شکل، ایک نوع کا۔

جُنفَاص، جُنفَیص: (معرب) کرچ۔
جَنَّنَ و أَجَنَّ إجْنَاناً: دیوانہ بنانا، برہم کرنا، برہمی پیدا کرنا۔
جَنَّ ـ جَنًّا و جُنُوناً و أَجَنَّ: چھپانا۔
جَنَّ اللیلُ: رات کا تاریک ہونا۔
جُنَّ ـ جُنُوناً و تَجَنَّنَ: پاگل ہونا، دیوانہ بننا، آپے سے باہر ہونا۔
اِستَجَنَّ: پاگل سمجھنا، پوشیدہ کرنا۔
جُنَانٌ و جُنَانَة و جُنَّة ج: جُنَنٌ: ڈھال، زرہ۔
جَنَان ج: أَجْنَان: دل۔
جِنَّة: مصدر بمعنی: دیوانگی، پاگل پن، آسیب کا اثر (بِہ جِنَّة) اسے جنون ہے یا اس پر آسیب کا اثر ہے۔
جُنُون: بے وقوفی، دیوانگی، جوش۔
جُنُونٌ فی أمرٍ وَاحِدٍ: کسی ایک کام کی لگن، دھن۔
جُنُونِیّ: دیوانہ وار۔
جُنَیْنَة ج: جُنَیْنَات: باغیچہ۔
جُنَیْنَةُ الحَیَوَانَات: چڑیا گھر۔
جَنَی ـ جَنْیاً: پھل توڑنا، حاصل کرنا، خوشہ چینی کرنا، نتیجہ پانا۔
جَنَی ـ جِنَایَةً: ارتکابِ جرم کرنا۔
تَجَنَّی علیه: اس پر الزام لگایا، اُسے مُجرم گردانا۔
جِنَایَة ج: جِنَایَاتٌ: ارتکابِ جرم، قصور، خطاء گناہ، بدعنوانی، جُرم، کرائم۔
جِنَایَةٌ عَظِیمَة: سنگین جُرم۔
الجِنَایَةُ علی أحدٍ: کسی کو نقصان پہونچانا۔
جِنَایَةٌ کُبرَیٰ: بھاری جرم۔
القَانُونُ الجِنَائیّ: قانونِ تعزیرات، قانونِ سزا۔
جَانٍ ج: جُنَاة: مجرم، گنہگار، حاصل کنندہ۔
مَجنِیٌّ عَلَیه: مظلوم، نقصان رسیدہ، گرفتارِ مصیبت۔
جُنَیه ج: جُنَیهَات: (مع) گنی مساوی ۱۱ شلنگ، تقریباً بیس روپے، اشرفی، پونڈ، ڈالر۔
جُنَیهٌ أَمرِیکِی: ڈالر مساوی تقریباً ۱۲ روپے۔
جُنَیهٌ اِستَرلِینِیّ: اسٹرلنگ پونڈ۔
جُنَیهٌ اِنجِلِیزِیّ: انگلش پونڈ، مساوی تقریباً ۱۸ روپے۔
جُنَیهٌ مِصرِیّ: مصری پونڈ، مساوی تقریباً دس روپے۔

ج.........ه

جَهَدَه ـ جَهْداً و أَجْهَدَ: لاغر و کمزور بنا دینا، تھکا دینا۔
جَهَدَ فی الأمرِ ـ جُهْداً و اجْتَهَدَ: کوشش کرنا، محنت کرنا، طاقت لگانا۔
مُجْهَد: تھکا ہوا۔
إجْهَادٌ بَدَنِیّ: جسمانی مشقت۔
إجْهَادٌ نَفْسِیّ: ذہنی تکلیف۔
جَهْدٌ و جُهْدٌ: محنت، مشقت، کوشش۔
ج: جُهُود۔
الجُهْدُ الذِهنِیّ: دماغی کوشش۔
الجُهْدُ المُکَثَّف: زبردست و انتھک کوشش۔
الجُهْدُ المُنَسَّق: منظم جدوجہد۔

الجُهُودُ الخيرَة: مبارک کوششیں۔
جُهُودٌ غيرُ عَادِيَة: غیر معمولی کوششیں۔
جُهُودٌ فعّالَة: زبردست کوششیں۔
جُهُودٌ جبّارَة: غیر معمولی کوششیں۔
الجُهُودُ اليائسة: ناکام کوششیں، مایوسانہ کوششیں۔
مَجهُودٌ ج: مَجهُودَات: طاقت، محنت، قوت، کوشش۔
مَجهُودٌ خارِقٌ: غیر معمولی کوشش۔
مَجهُودٌ فَردِيّ: شخصی کوشش۔
جُهدَ طَاقتِه: بقدر طاقت، بقدر امکان، مقدور بھر۔
جُهدٌ جهِيدٌ و جَاهِدٌ: زبردست کوشش، انتھک کوشش۔
جِهَادٌ: لڑائی، جدوجہد۔
جِهَادِيّ: جنگی، فوجی: جهادية: (دا) فوجی ملازمت ملٹری سروس
مُجَاهِدٌ: فوجی سپاہی۔
مُجتَهِد: محنتی، جفاکش۔
جَهَرَ الأمرَ و به ـ جَهرًا: ظاہر کرنا، اعلان کرنا۔
جَهَرَ الصَّوتَ و به: آواز بلند کرنا۔
مُجَاهَرَة: اظہار۔
جَاهَرَ بِالحَقِ مُجَاهَرَةً: اعلان حق کرنا۔
جَهُرَ الصَّوتُ ـُ جُهُورَةً و جَهَارَةً: آواز بلند ہونا۔
جَهرِيٌّ: (۱) عام (۲) کھلا ہوا، ظاہر۔
جَهرِيًّا: اعلانیہ، علی الاعلان۔

جَهُورِيّ: بلند آواز شخص۔
جَوهَر: (۱) قائم بالذات ہستی (۲) ماہیت (۳) ست، روح (۴) جزء ترکیبی (۵) اصول، بنیاد، مبدأ۔
جَوهَرُ أو لُبُّ المسألَة: مسئلہ کا لب لباب، مسئلہ کا خلاصہ، نچوڑ۔
الجَوهَرُ الفَرد: ایٹم، ذرہ، جزء، لایتجزیٰ، غیر منقسم چیز، وجود کی اکائی، اکائی۔
جَوهَرَة: قیمتی پتھر، ہیرا، نگ۔
جَوهَرِيّ: (۱) اصلی، بنیادی (۲) ضروری (۳) زیورات بیچنے والا، جیولر، زیورات کا تاجر۔
جَوَاهِر و: جَوهَر: زیورات۔
جَوَاهِرجِيّ: جوہری، زیورات فروخت کرنے والا، جیولر۔
مُجَوهَرَات و: مُجَوهَرَة: زیورات۔
أجهَرُ: دن کا اندھا، جسے دن میں نظر نہ آئے۔
تَجَوهُر: تحلیل ہو جانا، ریزہ ریزہ ہو جانا، جوہر بن جانا۔
مِجهَرٌ، مِجهَارٌ: بلند آواز، آواز رساں، بھونپو۔
مِجهَارٌ ج: مَجَاهِير: لاؤڈ اسپیکر، میکروفون، بھونپو (۲) بلند آواز آدمی۔
مِجهَارٌ كَهرَبِيّ: میکروفون۔
مُجهِرٌ ج: مُجهِرَات: میکرسکوپ، خوردبین۔
مُجهِرٌ كَهرَبِيّ: الیکٹرک خوردبین جس

میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بجلی کے کرنٹ کے ذریعہ ایک لاکھ گنا سے زیادہ نظر آتی ہے۔
التَّشْرِيحُ المُجْهرِيَ: خوردبینی تجزیہ۔
جَهَزَ ـ جَهْزاً و أجْهَزَ علی الجَرِيح: مار ڈالنا۔
تَجْهِيز: تیار کرنا، زادِراہ دینا، سامان سے لیس کرنا، ساز و سامان کرنا، سامان تیار کرنا، فٹنگ۔
تَجْهِيزُ الجَيْش بِمُخْتَلِفِ الاَسْلِحَة: فوج کو مختلف قسم کے ہتھیاروں سے لیس کرنا۔
تَجْهِيزُ الدِّفَاعِ عَن: دفاع کی تیاری کرنا۔
تَجْهِيزُ الرَّدِّ علی .... : جواب تیار کرنا۔
تَجْهِيزُ السَّلاحِ اِلَی: ہتھیار سپلائی کرنا۔
تَجْهِيزٌ للانتِخَابَات: الیکشن کی تیاری کرنا۔
التَّجْهِيزُ النِّهائيّ: فنیشنگ، تکمیل کار۔
تَجْهِيزَاتٌ ضَخْمَة: زبردست ساز و سامان، تیاریاں۔
تَجْهِيزَاتُ الهُجُوم: حملہ کی تیاریاں۔
تَجَهَّزَ: تیار ہونا۔
جِهَاز ج. أجْهِزَة: سامانِ سفر (۲) جہیز جو دولہن کو دیا جاتا ہے (۳) مشین، نظام، سسٹم، نظام ترکیبی، ترکیب۔
أجْهِزَةُ الاِعْلَام: پروپیگنڈہ مشینری، ذرائع ابلاغ۔
أجْهِزَةُ الاَمْن: امن مشینری۔
الاَجْهِزَةُ التَّنفِيذِيَّة: انتظامی ادارے۔
الاَجْهِزَةُ الرَّسْمِيَّة: سرکاری ادارے۔
أجْهِزَةُ المُخَابَرات: ذرائع سراغ رسانی، خفیہ معلومات کے ادارے۔
الجِهَازُ الاِدَارِيّ: انتظامی مشینری، انتظامی عملہ۔
جِهَازُ اِرْسَال: ٹرانسمیٹر۔
الجِهَازُ الائْتِمَانِيّ: کریڈٹ سسٹم۔
جِهَازُ التَّدْرِيب: مشقی مشین، آلۂ مشق۔
جِهَازُ التَّدْفِئَة: ہیٹنگ، آپریٹس، گرم کرنے کا آلہ۔
جِهَازُ التَّدْفِئَةِ الكَهْرَبائِيَّة: ہیٹر، برقی ہیٹنگ مشین۔
جِهَازُ تَسْجِيلَ الصَّوْتِ عَلَی شَرِيط: ٹیپ ریکارڈر۔
جِهَازُ تَعْشِيقِ التُّرُوس: موٹر وغیرہ کے انجن کا گیر (GEAR)۔
جِهَازُ التِلْفُون: ٹیلیفون سیٹ۔
جِهَازٌ جَدِيدٌ: نئی مشین، نیا سسٹم۔
الجِهَازُ الدَّاخِلِيّ: اندرونی مشین، اندرونی ڈھانچہ۔
جِهَازٌ صِحِّيّ: نظام تندرستی۔
جِهَازُ ضَغْطِ الدَّم: بلڈ پریشر دیکھنے کا آلہ۔
جِهَازُ العَدِّ: کاؤنٹر۔
جِهَازُ قِيَاس: میٹر۔
جِهَازٌ لِلتَّدَاوِی: آلۂ علاج، مشین۔
جِهَازٌ لِلطَّبْخ: کوکر۔

جِهَازٌ مَرْئِيّ: ٹیلیویژن سیٹ۔
جِهَازُ المَعْلُومَات: معلوماتی ذرائع۔
جِهَازُ الهَضْم: نظام ہضم۔
جَاهِزٌ و مُجَهَّز: تیار، آراستہ، لیس، ریڈی میڈ۔
مَلَابِسُ جَاهِزَة: تیار شدہ، (سلے ہوئے) کپڑے۔
تَجْهِيزِيّ: تیاری والا، اعدادی۔
مَدْرَسَةٌ تَجْهِيزِيَّة: تیاری کا اسکول، وہ اسکول جو لڑکوں کو کسی بڑے اسکول کے لئے تیار کرے۔
جَهِشَ ـَ جَهْشاً و جَهَشَاناً و جُهُوشاً و أَجْهَشَ بِالْبُكَاء: رونے کے قریب ہونا، رونے کے لئے تیار ہو جانا، رونے کے آثار نمایاں ہونا۔
جِهْضٌ و جَهِيض: نامکمل بچہ، اسقاط شدہ۔
جَهِضَتِ المَرْأَةُ ـَ جَهْضاً و أَجْهَضَتْ: عورت کا حمل ساقط ہو جانا۔
إِجْهَاض: ناکام بنانا، بے اثر بنانا۔
مُجْهِض: مسقطِ حمل، موجب اسقاطِ حمل، حمل گرانے والا۔
جَهِلَ ـَ جَهَالَةً: ناواقف ہونا۔
جَاهِل: اُجڈ۔
مَجْهَل ج: مَجَاهِل: نامعلوم مقام، گمنام جگہ۔
مَجْهُول: نامعلوم۔
مَجْهُولٌ لَيْسَ به تَوْقِيعٌ: گمنام۔
جَهُمَ ـُ جَهَامَةً و جُهُومَةً: منہ چڑھنا، ناگواری سے شکن پڑ جانا، ترش رو ہونا، ناک بھوں چڑھانا۔
جَهَامَة، و جُهُومَة: ترش روئی، بدمزاجی۔
جَهْمٌ و مُتَجَهِّمٌ: تُرش رو، بدمزاج۔
جَهَنَّمِيٌّ: (۱) مہلک (۲) شیطانی، دھماکہ دار۔

ج .... و

جُوَانْتِيّ: (دا) دستانہ۔
ـــ جِلْد: چمڑے کا دستانہ۔
ـــ صُوف: اونی دستانہ۔
جَوْبٌ: تحقیق و تفتیش، کھوج، تلاش۔
جَابَ البِلَادَ ـُ جَوْباً: سیر و سیاحت کرنا۔
جَوَّاب: سیاح، گشت لگانے والا۔
جَوَابٌ ج: أَجْوِبَة: جواب۔
جَوَابٌ: (دا) (۱) خط (۲) پیغام۔
جَوَابٌ مُرَاوِغ: چکر میں ڈالنے والا جواب۔
جَابَ الشيءَ ـُ جَوْباً: قطع کرنا، کاٹنا۔
جَاوَبَ و أَجَابَ عَلَى و عَنْ: جواب دینا۔
اِسْتَجَابَ: لبیک کہا، قبول کیا۔
اِسْتَجْوَبَه: جواب طلب کیا (عدالت میں ملزم یا گواہ کا بیان لیا، پارلیمنٹ میں کسی وزیر سے جواب طلب کیا)۔
الاِسْتِجْوَاب: جواب طلبی، ایگزامنیشن: جواب طلب کرنا۔
اِنْجِيَاب: پھٹنا، ختم ہونا، بادل پھٹنا۔
إِجَابَةٌ ج: إِجَابَات: جواب، جواب دہی۔
إِجَابَة و اسْتِجَابَة: منظوری، قبولیت، آمادگی، پذیرائی۔
الاِسْتِجَابَةُ لِلأَمْر: تعمیل حکم کرنا۔

اسْتِجَابَةٌ لِشَيءٍ: ماننا، تسلیم کرنا، منظور کرنا، لبیک کہنا۔
اِسْتِجَابَةً لِكذا: اس کے نتیجے میں، اسے لبیک کہتے ہوئے، کسی چیز کے تحت۔
الاِجَابَةُ عَلَى و عَنْ: جواب دینا۔
إجَابَةً عَلَى شَيْءٍ أو إلَى شَيْءٍ: کسی چیز کے جواب میں۔
إجَابَةً لِطَلَبِكُمْ: آپ کی فرمائش کے جواب میں، آپ کی درخواست قبول کرتے ہوئے۔
تَجَاوُبُ الصَّدىٰ فِي الفَضَاء: آواز گونجنا۔
تَجَاوُبُ الصَّوْتِ فِي الفَضَاء: آواز، گونجنا۔
التَّجَاوُبُ الكَامِلُ مَعَ شَيْءٍ: مکمل ہم آہنگی۔
التجاوبُ لِشَيْءٍ: مقبولیت، منظوری، آمادگی۔
التَّجَاوُبُ لِلنِّدَاء: اپیل ماننا، منظور کرنا۔
التَّجَاوُبُ مَعَ فُلَان: ہم آہنگ ہونا۔
جُوبَة ج: جُوَبٌ: گڑھا، دو مکانوں کے بیچ کا فاصلہ۔
مِجْوَب ج: مَجَاوِب: (خَرَّامَة): سوراخ کرنے یا چھیدنے کا آلہ، پیچ، برما۔
جُـوتٌ: پٹ سن، سَنی جس کی رسیاں، بوریاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں (قِنَّبٌ هِنْدِيٌّ)۔
جَـوْحٌ (ن) و اجْتِيَـاحٌ: ہلاک کرنا، بیخ کنی کرنا، اصل مٹا دینا، استیصال کرنا، صفایا کرنا، تباہی مچانا، لپیٹ میں لانا۔

اجْتَاحَتِ البِلَادَ مَوْجَةٌ مِنْ كذا: ملک میں کسی چیز کی لہر آنا، لہر کا لپیٹ میں لینا۔
جَـائِحَة ج: جَـوَائِحُ: حادثہ، مصیبت، آفت، ہلاکت۔
جُوخٌ ج: أجْوَاخٌ: سیاہ رنگ کی نفیس بانات۔
جَوْدَةً (ن) عمدہ ہونا، بہتر ہونا، عمدگی، اچھائی۔
جَوْدَةٌ قِيَاسِيَّة: اسٹینڈرڈ کوالٹی۔
جَادَ بِالشَّيءِ ـُ جُوداً: سخاوت کرنا۔
جَادَ عَلَيْهِ: کرم کرنا، مہربانی کرنا۔
جَادَ بِنَفْسِهِ: جان دینا، جان کی بازی لگانا۔
جَادَتِ العَيْنُ: آنسوؤں کی بارش ہونا، آنسو جاری ہونا۔
جَادَتِ السَّمَاءُ: بارش ہونا، خوب پانی برسنا۔
اِجَادَة: عمدہ اور بہتر بنانا۔
جُود: احسان، سخاوت۔
جَوْدٌ: موسلادھار بارش۔
جُودَة: (۱) عمدگی، خوبی (۲) صلاحیت۔
جَوَاد: ج: جِيَاد: گھوڑا۔
جَوَاد و جَوَّاد و جَيِّد: سخی، فراخ دل۔
الجِيَادُ الأَصِيلَة: اصیل گھوڑے۔
جَيِّدٌ: عمدہ، بہتر، افضل، خوشگوار۔
جَيِّداً: اچھی طرح، بہتر طور پر۔
تَجْوِيد: بہتر بنانا۔
(جور) جَارَ عَلَيْهِ ـُ جَوْراً: ظلم کرنا، ستانا، ناحق پریشان کرنا۔
جَارَ عَنْ: ہٹنا، کنارہ کش ہونا۔
جَارَ عَلَى حَقٍّ: حق تلفی کرنا۔

جَاوَرَه مُجَاوَرَةً: قریب ہونا، پڑوسی ہونا، لگ بھگ ہونا، مشابہ ہونا۔
جَاوَرَ رَبَّه: اپنے خدا سے جاملا، وفات پا گیا۔
أَجَارَهُ إِجَارَةً: مدد کرنا، نجات دلانا، پناہ دینا۔
اِسْتَجَارَ رَبَّهُ: مدد چاہی، پناہ چاہی۔
اِسْتَجَارَ مِنه: کسی کے خلاف فریاد کرنا، کسی سے بچنے کے لئے پناہ چاہنا۔
جِوَار: پڑوس، قُرب (۲) مدد۔
جَائِر: (۱) ظالم (۲) بے اصول، من مانی کرنے والا (۳) قانون شکن، غیر منصفانہ۔
مُجَاوِر: چپکا ہوا، لگا ہوا، پڑوسی، قریب، متصل، یونیورسٹی کا طالب علم۔
مُجِير: (۱) مُحافظ (۲) مددگار (۳) نجات دہندہ۔
جَوْرَبٌ ج: جَوَارِب: موزہ، پاتابہ۔
جَوْرَبٌ قَصِير: ہاف موزہ، جراب۔
حَمَّالَةُ الجَوْرَب: موزہ بند، جراب کا تسمہ۔
(جوز) جَازَ المَكَانَ و بهٖ جَوْزاً و اجْتَازَ: گزرنا، پاس کرنا، عبور کرنا۔
جَازَ و اجْتَازَ الامْتِحَانَ: امتحان پاس کیا۔
جَازَ و اجْتَازَ الطَّرِيقَ: کراس کرنا۔
جَازَ و اجْتَازَ الدَّوْرَ: دور سے گزرنا۔
جَازَ و اجْتَازَ الشِّدَّةَ: سختی ومصیبت سے گزرنا۔
اِسْتَجَازَهُ: اجازت طلب کرنا (۲) رخصت چاہنا، سند مانگنا (۳) جائز سمجھنا۔
جَاوَزَ و تَجَاوَزَ عَنْ: درگزر کرنا (۲) ترک کرنا۔
جَوَّزَ تَجْوِيزاً: اجازت دینا (۲) مُباح کرنا، جائز قرار دینا۔
جَوْزٌ: اخروٹ و: جَوْزَة۔
جَوْزُ القَزِّ: ابریشم کا کویا، کرم خانہ۔
جَوْزُ الشيْءِ: کسی چیز کا اہم حصہ، درمیانی حصہ۔
جَوْزَةُ التَّدْخِين: حُقّہ، تمباکو پائپ۔
جَوْزِيٌّ: اخروٹ نما، اخروٹ کے رنگ کا۔
جَوَاز ج: أَجْوِزَة و جَوَازَات: (۱) اجازت، جواز (۲) پروانگی، اجازت نامہ (۳) پرمٹ، لائسنس۔
جَوَازُ السَّفَرِ: پاسپورٹ، پروانہ، راہداری، سفر کا پاس۔
جَوَازُ سَفَرٍ دِبْلُومَاسِيّ: ڈپلومیٹک پاسپورٹ۔
جَوَازُ مُرُوْر: پاس۔
جَوَازَات: پاسپورٹ و: جَواز۔
إِجَازَة: پرمٹ، لائسنس، پاس، ڈگری، رخصت، پرمیشن، سند ج: إِجَازَات۔
إِجَازَةٌ دِرَاسِيَّة: تعلیمی چھٹی۔
إِجَازَةٌ رَسْمِيَّة: سرکاری چھٹی (۲) لائسنس۔
إِجَازَةٌ عِلْمِيَّة: سند، ڈپلوما، اسکول، سارٹیفکٹ۔
إِجَازَةُ غِيَاب: رخصت، چھٹی، کسی کام سے غیر حاضر رہنے کی اجازت، رخصتِ اتفاقی۔
إِجَازَةٌ مَرَضِيَّة: رخصتِ بیماری۔
إِجَازَةُ مُرُوْرٍ: پاسپورٹ۔

غَائِبٌ بِالإِجَازَة: رخصت پر۔
جَازٌ ج: جَازَات: (مع) گیس، مٹی کا تیل، گیس کا تیل۔
لَمبَةُ جَازٍ: گیس کی لالٹین۔
جَائِز: (١) مباح، اجازت شدہ (٢) پار کنندہ (٣) قابل برداشت۔
جَائِزَة: پرائز، انعام ج: جَوَائِزُ۔
جَائِزَةُ نُوبِل: نوبل پرائز۔
الجَوَائِزُ: انعامات و: جَائِزَة۔
الجَوَائِزُ الرَّمْزِيَّة: علامتی انعامات۔
تَجَاوُزُ و مُجَاوَزَةُ الحُدُود: بے جا عمل، قانونی خلاف ورزی۔
تَجَاوُزُ التَّعلِيمَات: ہدایات یا احکامات سے تجاوز کرنا۔
تَجَاوُزُ الحُدُود: بے جا عمل، قانونی خلاف ورزی۔
تَجَاوُزُ حُدُودِ السُّلطَة: اختیارات سے تجاوز کرنا۔
تَجَاوُزُ الطَّرِيق: راستہ پاس کرنا۔
تَجَاوُزُ العَثرات: رکاوٹوں پر قابو پانا۔
مَجَاز: گزرگاہ۔
مُجَازٌ: فاضل، فارغ التحصیل، سندیافتہ، ڈگری والا۔
مُجَازٌ فی الأدب: فاضلِ ادب (مثلاً)۔
مُجَاوَزَةُ التَّقدِير: تخمینہ سے بڑھنا۔
جَوسٌ: (ن) کھوج لگانا، چھان مارنا۔
جَاعَ ــُ جُوعاً و جَوعَةً و مَجَاعَةً: بھوک لگنا، بھوکا ہونا، بھوکوں مرنا، فاقہ مست ہونا، فاقے گزرنا۔

تَجوِيع و إِجَاعَةٌ: بھوکا رکھنا، فاقوں میں مبتلا کرنا۔
مَجَاعَة: فاقہ، بھوک، قحط۔
جُوع: بھوک، فاقہ۔
___ قَاتِل: جان لیوا بھوک۔
___ كَلبِيٌّ: جوع البقر، ایک بیماری۔
___ و مَجَاعَة: قحط۔
جَوعَان و جَائِع: بھوکا، فاقہ مست، (ضد شَبعَان) ج: جِيَاعٌ و جُوَّعٌ۔
جوِفَ ــَ جَوفاً و تَجَوُّف: کھوکھلا ہونا۔
تَجوِيف: کھوکھلا کرنا، خول دار بنانا، جوف دار بنانا۔
تَجوِيف ج: تَجَاوِيف: گڑھا، سوراخ، زمین دوز گڑھا۔
جُوَافَة: امرود، جام، امرود کا درخت۔
جُوق ج: أَجوَاق: جماعت۔
(جَول) جَالَ ــُ جَولَاناً و تِجوَالاً: گھومنا، پھرنا، گشت لگانا، چکر لگانا، دورہ کرنا۔
جَالَ فی خَاطِرِہٖ ــُ جَولَاناً: دل میں آنا۔
جَولَة: گشت، سفر، دورہ، پھیرا، پھیری، ٹور، دور، چکر، راؤنڈ ج: جَولَات۔
جَولَةٌ تَفتِيشِيَّة: تحقیقاتی دورہ۔
جَولَةٌ تَنظِيمِيَّة: تنظیمی دورہ۔
جَولَةٌ مِنَ المُبَاحَثَات: بات چیت کا دور، مرحلہ، راؤنڈ۔
جَولَةٌ مِنَ المُفَاوَضَات: گفتگو کا دور۔
تَجوِيل و تَجَوُّل: گشت لگانا، پھیری لگانا۔

تَجَوَّلَ فی: گشت کرنا، چکر لگانا۔
تَجَوَّلَ فی اَجنِحَةِ المَعرِض: نمائش گاہ کے مختلف حصوں میں گھومنا۔
جَوَّال، مُجَوِّل: سیاح، کثیر الاسفار، دورہ کرنے والا، ٹور کرنے والا، پھیری والا، شہر در شہر پھرنے والا، ٹور پر رہنے والا۔
جَوَّالٌ (غِرَارَةٌ): بڑا تھیلا، بوری (دا)۔
بَائِعٌ مُتَجَوِّل: پھیری لگا کر بیچنے والا، پھیری والا۔
جَوَّالَة: موٹر سائیکل۔
جَوَلَانٌ و تِجوَال: نقل و حرکت، گشت۔
حَظرُ التِّجوَال: کرفیو۔
مَجَالٌ ج: مَجَالات: (۱) میدانِ کار (۲) گنجائش، دائرۂ کار (۳) موقع، فیلڈ۔
مَجَالُ الحَرَكَة و العَمَل: دائرۂ عمل، سرگرمیوں کا میدان۔
مَجَالُ التَّطبِيق: میدان عمل۔
المَجَالُ الدُّوَلِيّ: بین الاقوامی میدان۔
المَجَالُ الصَّحفِيّ: صحافتی میدان۔
مَجَالُ العَمَل: دائرۂ کار۔
مَجَالُ النُّفُوذ: دائرۂ رسوخ۔
مَجَالَاتُ الحَيَاة: زندگی کے میدان۔
مَجَالَاتُ العَمَل: کام کے مواقع۔
(جوم) جَامٌ ج: جَامَات: گلاس۔
صَبَّ جَامَ غَضَبِه أو نِقمَتِه علی ـُ: عتاب نازل کرنا، غصہ اتارنا۔
(جوہ) جَاهٌ: مرتبہ، اعزاز، پوزیشن۔
عَرِيضُ الجَاه: بلند مرتبہ، ذی حیثیت۔
(جوو) جَوٌّ ج: أجوَاء: (۱) فضا (۲) ماحول، آب وہوا۔
جَوٌّ وُدِّيّ: دوستانہ فضا، ماحول۔
الجَوُّ المَشحُون: دھماکہ خیز فضا۔
الجَوُّ المَشحُونُ بِعَدَمِ الثِّقَة: زبردست بے اعتمادی کی فضا۔
جَوٌّ مُكفَهِرٌّ: ابر آلود فضا۔
الجَوُّ المُكَهرَب: گرمائی ہوئی فضا، گرم فضا، برقیائی ہوئی فضا۔
جَوٌّ مِنَ الثِّقَة: اعتماد کی فضا۔
أَجوَائِي: ماہر موسمیات۔
جَوّاً: فضائی راستہ سے، ہوا میں۔
جَوِّيّ: فضائی، ہوائی، خلائی۔
حَجَرٌ جَوِّيٌّ: گرا ہوا شہاب۔
ظَاهِرَةٌ جَوِّيَّة: فضائی مظہر، فضا کی صورت حال، فضائی کیفیت۔
عِلمُ الظَّوَاهِرِ الجَوِّيَّة: علم کائنات الجو۔
مَحَطَّةُ الأَرصَادِ الجَوِّيَّة: موسمیاتی اسٹیشن، مرکز موسمیات۔
جَوَّانِيّ: (ضد بَرَّانِي) اندرونی۔
جُوَّالَة تَحتَانِيَة: (معرب) پیٹی کوٹ۔
جَوِيَ ـَـ جَوًى: سوزش غم میں مبتلا ہونا، سوزش عشق میں مبتلا ہونا۔
جَوًى: سوزش عشق، سوزش غم۔
جَاوِيّ: جاوائی لوبان۔

ج............ی

(جیأ) جَاءَ ـِـ جَيئاً و مَجِيئاً و جَيئَة: آنا۔
جَاءَ الأَمرَ: کرنا۔
جَاءَ الاعتِقَادُ لِكَذا: خیال ہونا۔
جَاءَ إِلَى الحُكم: برسر اقتدار آنا۔

جَاؤُا علی بَکْرَۃِ اَبِیھِمْ: سب کے سب آئے۔
جَاءَ الجُرْمَ: ارتکابِ جرم کیا۔
جَاءَ طِبْقَ مَرَامِہ: وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، اس کے حسبِ منشا کام ہوا۔
جَاءَ بہ و أجَاءَہُ: لانا، حاضر کرنا۔
جِیئَۃً و ذُھُوباً: آتے جاتے۔
الجِیْب: جیپ۔
جَیْبٌ ج: جُیُوب: (۱) پاکٹ، جیب (۲) دل۔
مُفکِرۃُ جَیْبٍ: نوٹ بک۔
جَیْبِیٌّ: پاکٹ والا، جیب کا۔
جَیْبِیَۃ: جیبی کتابِ عبادت۔
جِیْدٌ ج: أجیادٌ: گردن۔
جِیْرٌ: چونا، بے بجھا چونا (کِلْسٌ قَبلَ اَنْ یُطفَأ)۔
جِیْرٌ مُطفأ: بجھا ہوا چونا۔
جِیْرٌ حَیٌّ و جَیَّار: (نُوْرَۃ): بے بجھا چونا۔
مَاءُ الجِیْر: آبِ چونہ۔
جَیَّار: چونہ ساز۔
جَیَّارۃ: چونے کی بھٹی۔
جِیْرِیّ: چونے کا۔
جِیْرَۃ: پڑوس (در: جور)۔
جَیْرُو سْکُوب: (دَوَّام): چرخی جو کسی چیز میں نصب ہو۔
جَیَّشَ تَجْیِیْشاً: فوج جمع کرنا۔
جَاشَ ــ جَیْشاً و جَیَشَاناً: مضطرب ہونا، غصہ سے مشتعل ہونا، طیش میں آنا، جوش میں آنا، دیگچی میں اُبال آنا۔
جَاشَتْ نَفْسُہ ــ جَیْشاً: جی متلانا۔
جَاشَتْ فِی قَلْبِہ الآمَالُ جَیَشاناً: ارمان آنا۔
جَیْشٌ ج: جُیُوْش: لشکر، فوج، آرمی۔
جَیْشُ الخَلاص: نجات دہندہ فوج۔
جَیْشُ المُرْتَزِقَۃ: کرایہ کی فوج۔
جَیْشُ النَّجدَۃ: ریلیونگ آرمی، امدادی فوج۔
جُیُوْش: افواج۔
جُیُوشٌ جَرَّارَۃ: لشکر جرار۔
جُیُوشٌ مَدَنِیَّۃ: سول فوج، شہری فوج۔
جُیُوشٌ مُسَلَّحَۃ: مسلح افواج۔
جُیُوشٌ نِظَامِیَّۃ: باقاعدہ فوج۔
جَیَشَان: اضطراب، طیش، جوش غضب، اُبال، متلائی کیفیت۔
جَیَشَانُ المَشَاعِرِ فی الصَّدْر: دل میں جذبات موجزن ہونا۔
جَائِش: مضطرب، بپھرا ہوا، مشتعل۔
جَائِشُ النَّفْس: مائل بہ متلی، بے چین۔
جِیْفَۃ ج: جِیَف: مُردار۔
الغُرَابُ الجِیْفِیُّ: مُردار خور کوا۔
جَیَّفَ (ض) و تَجَیَّفَ: سڑ جانا، مُردہ جسم کا سڑ جانا۔
جِیْلٌ ج: أجْیَال: (۱) قبیلہ، خاندان (۲) نسل، طبقہ (۳) جماعت (۴) ہم عصر (۵) زمانہ، صدی۔
الجِیْلُ الصَّاعِد: ابھرتی ہوئی نسل۔
جِیْلَات (لَبَنٌ مَثْلُوْجٌ): آئس کریم۔
جِیُولُوجیَا أو جِیُولُوجِیَۃ: (مع) علم طبقات الارض۔
جِیْلَاتِیْن: (معرب) جیلاٹین۔

ح

ح .... ب

حَبَّہ ـِ حُبًّا و أحَبَّۃً: چاہنا، پسند کرنا، محبت کرنا۔

حَبَّ ــَـ و حَبُبَ ـُـ الیہ حُبًّا: محبوب و مرغوب ہونا۔

حَبَّبَہ الیہ تَحْبِیبًا: پسندیدہ بنانا، مرغوب و محبوب بنانا۔

تَحَبَّبَ الیہ: پیارا ہونا، پسندیدہ ہونا۔

التَحَبُّبُ الی المَرْءَ ۃ: اظہارِ عشق کرنا۔

اِسْتَحَبَّہ إسْتِحْبَابًا: پسند کرنا۔

___ علی کذا: ترجیح دینا۔

حُبٌّ: عشق، محبت، چاہت، خواہش، جذبہ، شوق۔

حُبُّ السِّیَادَۃ: اقتدار پسندی۔

حُبُّ الذَّات: خود پسندی، خود غرضی۔

حُبُّ الوَطَن: وطن دوستی۔

مَرِیْضُ الحُبّ: بیمارِ محبت، عاشق۔

وَاقِعٌ فی حُبِّ شيٍ او امرأۃٍ: گرفتارِ محبت۔

حُبُّ الانتِقَام: جذبۂ انتقام، انتقام پسندی۔

حُبِّیّ: دوستانہ، عاشقانہ، عشقیہ۔

حُبِّیًّا: دوستانہ طور پر۔

حَبٌّ ج: حُبُوب: دانہ، بیج۔

حَبُّ الغَمَام: اولہ۔

حَبَّۃ: ایک دانہ، بیج، گولی (دوا کی)، پھنسی، ذرہ ج: حَبَّات۔

حُبُوب: غلے، اناج۔

الحُبُوبُ المُعَقِّمَۃ: مانع حمل دوائیں۔

حُبُوبُ مَنْعِ الحَمْل: مانعِ حمل دوائیں۔

مُحِبٌّ: عاشق، فریفتہ، دلدادہ۔

المُحِبُّ للإصْلَاح: اصلاح پسند۔

مُحِبٌّ لِذَاتِہ: خود غرض، خود رائے۔

حَبْحَبَ المَاءُ حَبْحَبَۃً: پانی کا آہستہ بہنا۔

حَبَّذَ العَمَلَ: سراہنا، درست قرار دینا، تعریف کرنا۔

حَبَّذَ الشئَ و بہ تَحْبِیذًا: خیر مقدم کرنا، پسند کرنا۔

تَحْبِیذُ الرَّجُل: خوش آمدید کہنا۔

تَحْبِیذ الرَّأی: رائے کو ماننا، سراہنا۔

حَبَرَ ـُـ حَبْرًا و حُبُورًا و أحْبَرَ: خوش کرنا۔

حَبَرَ ـُـ و حَبَّرہ تَحْبِیرًا: مزین کرنا، آراستہ کرنا۔

حَبِرَ ۔ حُبوراً و حَبرًا: خوش ہونا۔

إحْبار: خوش کرنا۔

حَبْرٌ: ج: أحبار: پوپ

حِبْرٌ: روشنائی، سیاہی

حِبْرٌ سِرّیٌ: خفیہ روشنائی۔

حِبْرُ عَلامٍ او تمریکٍ: مارکنگ انگ۔

حِبْرٌ ثابت: پختہ روشنائی، پختہ انک۔

حِبْرُ کُوبِیا: نقل بنانے کی روشنائی، کاپنگ انک۔

قَلَمُ حِبرٍ (مِدَادٌ): فونٹن پن۔

حَبرة: سیاہ چادر ج: حَبَرٌ۔

حِبار: نشان، مارک۔

مِحْبرة ج: مَحَابِر: دوات، قلم دان۔

حَبَسَ ۔ حَبْسًا: قید کرنا، مقید کرنا۔

__ حَبْسًا احتیاطِیًا: حوالات میں رکھنا، بند کر دینا، پیش بندی کے لئے قید کرنا۔

اِحْتِبَاس: بند ہو جانا، قید ہو جانا، گھٹ جانا، رک جانا۔

حَبْسٌ احتِیاطِیٌّ: حوالات، حراست۔

حَبْسٌ مع الشُغل: قید بامشقت۔

حَبْسُ المَعُونَةِ: امداد بند کرنا۔

حِبْسٌ ج: أحبَاس: پلنگ پوش۔

مِحْبَسٌ ج: مَحَابِس: ٹونٹی۔

حَبِیْسٌ، مَحْبُوس: قیدی، زیر دست۔

حَبَّشَ (د۱) تَحْبِیْش: بھراؤ بھرنا، کپڑے وغیرہ میں روئی یا اون بھرنا۔

تَحْبِیْشَة (د۱) ج: تحابِیش: بھرن، وہ چیز جو بھری جائے۔

__ (۲) د۱: کشیدہ کاری۔

حَبِطَ ۔ حُبُوطًا: رائگاں ہونا، بیکار ہونا، ضائع ہونا، بے نتیجہ ہونا، ناکام ہونا۔

إحْبَاط: ضائع کرنا، بے نتیجہ بنانا، برباد کرنا، بے اثر کرنا، ناکام بنانا۔

إحْبَاطُ المُخَطَّطات: منصوبوں پر پانی پھیرنا۔

إحْبَاطُ المُهِمَّة: مشن کو ناکام بنانا۔

حَبَکَ الثَّوبَ ـُـ حَبْکًا: عمدہ بُنائی کرنا۔

__ الحَبْلَ: مضبوط کرنا، خوب بٹ دینا۔

__ الکِتَابَ: جلد بنانا۔

__ الجَوارِبَ و أمْثالَها: موزہ یا سوئٹر وغیرہ بننا۔

__ و حَبَّکَ تَحْبِیکًا: (۱) پختہ کرنا (۲) باندھنا۔

حَبْکَةُ الرِّوَایة: ناول کا پلاٹ (۲) کہانی کا خاکہ۔

مَحْبُوک: مضبوط بناوٹ کا، پختہ بنا ہوا۔

حَبَلَ ـُـ حَبْلاً: باندھنا، رسی سے باندھنا۔

__ و احْتَبَلَ: پھندے میں پھنسانا، جال کے ذریعہ شکار کرنا۔

حَبِلَ الشيءُ من ـ حَبَلاً: بھر جانا۔

حَبِلَتِ المَرْأةُ: حاملہ ہونا۔

حَبَّلَ و أحْبَلَ: حاملہ کرنا، گابھن کرنا۔

حَبْلٌ ج: حِبَالٌ: (۱) رسی، رسا (۲) ڈوری (۳) تلی (۴) رگ۔

حَبْلُ الغَسِیل: الگنی جس پر کپڑے سکھائے جائیں۔

__ غلیظ (قَلْسٌ): جہاز کا رسا۔

الحَبْلُ السُّرِّيُّ: آنول نال، نال جو

دائی بچہ کی پیدائش کے وقت کاٹ دیتی ہے۔
حَبَّال: رسی ساز، رسیاں بنانے والا۔
حَبَلٌ: حمل۔
حَبْلان: بھرا ہوا، پُر۔
حُبْلیٰ و حَبْلانة: حاملہ۔
أُحْبُولَة، حِبَالَة: پھندا، جال، بوجھ، وزن ج: أَحَابِيلُ و حَبَائِلُ۔
إِحْتِبَال: پھندے میں پھنسانا، جال کے ذریعہ شکار کرنا۔
حَبَا ـُ حِبَاءً، و حَبْوَةً: دینا، عطا کرنا۔
حَبَاه بكذا: ہدیہ دینا، بخشنا۔
مُحَابَاة: فیور، جانبداری، دوستی، محبت۔
حَبْهَان (حَبُّ الهَال): الائچی۔

ح .... ت

حَتَّ الشَّجَرُ ـُ حَتًّا: پتے جھڑنا، چھال گرنا۔
حَتَّ ـُ حَتًّا: رگڑنا، زائل کرنا، کھا جانا۔
تَحَاتَّ: پانی کے زور سے پل کا بوسیدہ ہونا۔
حَتّٰى: تک، یہاں تک کہ، نیز بھی۔
حَتِدَ ـَ حَتَدًا: صحیح الاصل ہونا۔
مَحْتِد: اصل۔
كَرِيمُ المَحْتِد: شریف النسل، صحیح الاصل۔
حَتَرَ ـُ حَتْرًا: کم کرنا، کمی کرنا، کم دینا۔
حُتْرَة ج: حُتَر: چھوٹا ٹکڑا۔
حِتَارٌ ج: حُتُر: فریم، چوکٹا۔
حَتْفٌ: موت۔
لَقِيَ حَتْفَهُ ـ و مَاتَ حَتْفَ أَنْفِه: اپنی موت مرا، یعنی کسی کے مارے بغیر۔
حَتَمَ الشيْ ـِ حَتْمًا: مضبوط کرنا، پختہ کرنا۔
حَتَّمَ الشيْ عليه تَحْتِيمًا: لازم کرنا، ضروری کر دینا، واجب کر دینا۔
تَحَتَّمَ: لازم ہو جانا، ضروری ہو جانا۔
حَتْمٌ: یقین، پختگی۔
حَتْمًا: یقیناً، لازمی طور پر۔
حَتْمِيّ: قطعی، یقینی، لازمی۔
مُحَتَّم و مَحْتُوم: شدنی، لازمی، ضروری، طے شدہ، مقدر۔

ح .... ث

حَثَّ ـُ حَثًّا و اسْتَحَثَّهُ: اکسانا، آمادہ کرنا، ترغیب دلانا، اشتعال دلانا، ابھارنا، آگ بھڑکانا۔
حَثَّ الخَطِيبُ على رُوحِ المُثَابَرَة: مقرر نے ثابت قدمی کے جذبہ کو ابھارا۔
حَثَّ فُلانٌ فلانًا على النِّضَال: لڑائی کے لئے تیار کرنا۔
مَحْثُوث، مُسْتَحَثٌّ: آمادہ، مشتعل۔
حُثَالَة: بھوسا، بھوسی۔

ح .... ج

حَجَبَ ـُ حَجْبًا: چھپانا، رکاوٹ بننا، وارثت سے محروم کرنا، کور کرنا۔
إِحْتَجَاب: چھپ جانا، غائب ہو جانا (۲) اخبار یا رسالہ کا بند ہو جانا (۳) پردہ کرنا۔
حِجَابٌ ج: حُجُب: پردہ، رکاوٹ، آڑ، پارٹیشن کی دیوار (۲) تعویذ۔

حَاجِبُ آلةِ التَّصوِيْر: کیمرہ کا پردہ۔
__ ج: حُجُب: نقاب، پردہ، آڑ۔
__ ج: حُجَّاب و حَجَبَةٌ: نقیب، وہ دربان جو آنے والے کو مقررہ جگہ پر پہنچائے، گیٹ کیپر، دربان، چوکیدار۔
حَاجِبُ المَحْكَمَة: دربان عدالت۔
__ ج: حَوَاجِب: ابرو، بھوں۔
حَوَاجِبُ كَثِيفَة: گھنے ابرو بھنویں۔
مُحَجَّب و مَحْجُوب: مستور، پوشیدہ۔
تَحَجَّبَ بكذا: آڑ لینا۔
حَجَّ ـُ حَجًّا: حج کرنا، قصد کرنا، اماکنِ مقدسہ کی زیارت کرنا۔
__ عليه: دلیل کے ذریعہ غالب ہونا۔
حَجَّجَ: حج کرانا۔
حِجَّة ج: حِجَج: سال، ایک دفعہ کا حج۔
حُجَّة ج: حُجَج: دلیل، ثبوت، معذرت، وجہ معانی (۲) دستاویز ملکیت (۳) بیع نامہ قبالہ وغیرہ۔
دَفْعُ الحُجَّة: دلیل باطل کرنا۔
حُجَجٌ زَائِفَة: کھوکھلی دلیلیں۔
إحْتِجَاج: ثبوت پیش کرنا، دلیل بیان کرنا، اعتراض کرنا (۲) آواز اٹھانا۔
احْتَجَّ منه بشأن كذا: احتجاج کرنا۔
مَحَجَّةُ الطَّرِيق: درمیانی راستہ۔
مُحْتَجّ: معترض، عذر دار، استدلال کنندہ۔
حَجَرَ ـُ حَجْرًا: روکنا۔
__ عليه: حکمِ امتناعی دینا، تصرف کرنے سے روکنا۔
تَحْجِير: پتھر جیسا بنا دینا، سخت بنا دینا۔
تَحَجُّر: پتھر جیسا بن جانا، سخت ہو جانا۔
حَجَرٌ ج: أحْجَارٌ و حِجَارَة: پتھر، ڈھیلا۔
__ البَلَاط: ٹائل، فرش کا پتھر۔
طِبَاعَةُ الحَجَر: پتھر کی چھپائی، لیتھو گرافی۔
حَجْرٌ: محرومی، رکاوٹ۔
حِجْرٌ ج: حُجُور: (۱) گود (۲) حفاظت (۳) عقل (۴) گھوڑی۔
حُجْرَةُ الاسْتِرَاحَة: کامن روم، آرام کمرہ۔
حُجْرَةُ العَمَلِيَّاتِ الجراحِيَّه: سرجری روم۔
حُجْرَةُ العَيِّنَات: سیمپل روم۔
حُجْرَةُ الوُقُود: فائر بکس۔
حَجَرِيٌّ: پتھریلا، پتھر جیسا، پتھر کا بنا ہوا۔
حَجَّار: سنگ تراش، تاجر سنگ۔
حَاجِرُ العَيْن: آنکھ کا خانہ۔
حَجَزَ ـُ حَجْزًا: روکنا، ممانعت کرنا، راستہ بند کرنا، رکاوٹ کھڑی کرنا، باز رکھنا، دو چیزوں کے درمیان خلل کرنا، ضبط کرنا۔
__ المَكَانَ أو الشَّيْءَ: ریزرو کرنا، محفوظ کرنا، کتاب یا اخبار کی کاپی اپنے لئے محفوظ کرانا، سیٹ وغیرہ ریزرو کرنا۔
احْتِجَاز: روکنا، ریزرو کرنا۔
احْتِجَازُ الرَّهِينَة: یرغمال بنانا۔
مُحْتَجَز: نظر بند۔
حَجْز: روکنا، مانع ہونا، ریزرو کرنا، مخصوص کرنا، ریزرویشن ج: حُجُوزَات۔
حَجْزٌ تَحَفُّظِيّ: احتیاطی پابندی۔

حَجزُ تذکِرَة: ٹکٹ کا ریزرویشن۔
حَجزٌ علی المنقولات: منقولہ سامان پر پابندی۔
حَجزُ مَحَلٍّ (بالفُندُق): ہوٹل میں جگہ ریزرو کرانا۔
حَجزُ نُسخَةٍ من کِتاب: کتابوں کی کاپی محفوظ کرنا۔
حَاجِز ج: حَوَاجِز: آڑ، رکاوٹ، روک، پارٹیشن، لکڑی کی دیوار جو کمروں میں کھڑی کی جاتی ہے، تقسیم۔
حَوَاجِزُ: رکاوٹیں و: حاجِزٌ۔
حَوَاجِزُ جُمرُکِیَة: کسٹم پابندیاں، چنگی پول۔
حَاجِزٌ تُرابِیّ: مٹی کی باڑ، آڑ، دیوار۔
حَاجِزُ المِیَاه (فی المِینَاء): بریک واٹر۔
حَجَلَ ـُـ حَجلاً وَ حجلانا: ایک پیر پر کھڑے ہو کر چلنا، گھوڑے کا بندھے ہوئے پاؤں کے ساتھ چلنا۔
حَجلٌ ج: أحجَال: پازیب، پاؤں کی بیڑی، گھوڑے کی ٹانگ کی سفیدی۔
رَبَّاتُ الحِجَال: عورتیں۔
تَحجِیل: گھوڑے کے پاؤں کی سفیدی۔
مُحَجَّلُ القَوَائِم: وہ گھوڑا جس کی ٹانگوں میں سفیدی ہو۔
حَجَمَ ـُـ حَجمًا: سینگی لگانا، پچھنہ لگانا، بذریعہ آلہ فاسد خون نکالنا۔
أحجَمَ عن کذا إحجَامًا: باز رہنا، رکنا، اقدام سے رکنا، پیچھے ہٹنا، پیچھے رہنا۔
الحَجمُ: مقدار، سائز، دَل، ضخامت، دائرہ ج: أحجَام۔
حَجمُ القُرُوض: قرضوں کی مقدار۔
حَجمٌ مُتَوَسِّط: میڈیم سائز۔
کَبِیرُ الحَجم: بڑے سائز کا، موٹے دَل کا۔
مِحجَمَة، مِحجَمٌ ج: مَحَاجِم: سینگی، فاسد خون نکالنے کا آلہ۔
حَجَنَ ـُـ حَجنًا و حَجَّنَ: موڑنا، ٹیڑھا کرنا۔
أحجَنُ: خم دار، ٹیڑھا۔
حَجِنَ ـَـ حَجَنًا: بخل کرنا۔
مِحجَن: اسٹک، خم دار ڈنڈا۔
(حَجو) حَجَابه ـُـ حَجوًا: اچھا گمان کرنا (۲) قیام کرنا (۳) بخل کرنا۔
حَاجَاه مُحَاجَاةً: پہیلی کہنا، پیچ دار بات کہنا، مغالطہ آمیز کلام کرنا۔
حِجَاج: أحجَاء: عقل، ذکاوت۔
أُحجِیَّة ج: أحَاجِیّ: پہیلی، معمہ، چیستاں۔

ح .... د

حِدَأة: چیل ج: حِدَأ و حِدَاء۔
حَدِبَ ـَـ حَدَبًا: کبڑا ہونا، کوز پشت ہونا، ٹیڑھا ہونا، جھکا ہوا ہونا۔
تَحدِیب: ٹیڑھا کرنا، جھکانا، موڑنا، برتن کی تلی کو ابھارنا، گہرا کرنے کی ضد۔
إحدِیدَاب: کبڑا ہونا۔
حَدِبٌ أحدَبُ: کبڑا، کوز پشت، اُبھری ہوئی

ٹیڑھی کمر والا۔
حَدبَةُ الظَّهر: کوب، پیٹھ کا ابھار۔
تَحَدَّبَ: کوب دار ہونا، کوب نکل آنا (تقعّر کی ضد)۔
حَدَثَ ـــ حُدُوثًا: ہونا، پیدا ہونا، پیش آنا۔
حُدُوثُ الانفِجَار: دھماکہ ہونا۔
حُدُوثُ الانقِطَاع: گیپ ہونا، سلسلہ ختم ہونا۔
حُدُوثُ ثَغرةٍ: رخنہ پڑنا۔
حُدُوثُ الجَفوَة بَينَ فُلَان و فُلان: کشیدگی پیدا ہونا، بُعد پیدا ہونا۔
حُدُوثُ الصَّوتِ من: آواز پیدا ہونا۔
حُدُوثُ فَجوَةٍ: گیپ ہونا، خلا پیدا ہونا انقطاع ہونا۔
حُدُوثُ المُشَاحَنَةِ بَينَ: اختلاف پیدا ہونا۔
حُدُوثُ النِّزَاع بَينَ: اختلاف پیدا ہونا۔
حَدُثَ ـــ حَدَاثَةً: نیا ہونا، نوعمر ہونا۔
حَدَّثَهُ تَحدِيثًا: بیان کرنا۔
ـــ قَلبُه: دل میں آنا، کھٹکنا۔
حَادَثَه مُحَادَثَةً: بات چیت کرنا۔
مُحَادَثَة: گفتگو، بات چیت ج: مُحَادثَات۔
المُحَادَثَاتُ الثُّلاثِيَة: سہ نفری بات چیت۔
تَحَدَّثَ بِه و عنه: بیان کرنا، روایت کرنا، کسی چیز کے بارہ میں گفتگو کرنا۔
التَحَدُّثُ بكلمةٍ عن كذا: بات کہنا۔
التَحَدُّثُ بِلِسَان: ترجمانی کرنا۔
التَحَدُّثُ عَن شَيءٍ: بیان دینا، تفصیل بتانا۔
المُتَحَدِّثُ بِاسمِ الحُكُومَة: سرکاری نمائندہ، سرکاری ترجمان۔
المُتَحَدِّثُ الرَّسمِيّ: سرکاری نمائندہ۔
المُتَحَدِّثُ العَسكَرِيّ: فوجی ترجمان۔
إِحدَاثٌ، اِستِحدَاث: ایجاد کرنا، اختراع کرنا، وجود میں لانا، سبب بننا۔
إِحدَاثُ الأثَرِ في: اثر پیدا کرنا۔
إِحدَاثُ الثورة: انقلاب پیدا کرنا۔
إِحدَاثُ الأَزمَة: بحران پیدا کرنا۔
إِحدَاثُ الخِلَاف: اختلاف پیدا کرنا۔
إِحدَاثُ ضَجَّةٍ: آسمان سر پر اٹھانا، اُدھم مچانا، کہرام مچانا۔
أَحدَثُ: جدید ترین۔
أَحدَثُ طِرَازٍ: جدید ترین ڈیزائن۔
أَحدَثُ المُقتَرَحات: تازہ ترین تجاویز۔
حَدَثٌ ج: أَحدَاث: (۱) واقعہ (۲) بدعت (۳) نوعمر، نوجوان۔
حَدَثٌ تَارِيخِيّ: تاریخی واقعہ۔
حَدَثٌ هَامّ: اہم واقعہ۔
حِدثَانُ و أَحدَاثُ الدَّهر: حوادثِ زمانہ۔
حَدَاثَة: نیا پن، جدت۔
ـــ السِّنّ: نوعمری، کم عمری۔
حَدِيثٌ ج: أَحَادِيث: بات، کلام، گفتگو،

کہانی، روایت، حکایت، خبر، مضمون۔
حَدِيثٌ إِلَى صَحِيفَةٍ كذا: کسی اخبار کے لئے انٹرویو۔
حَدِيثُ خُرَافَةٍ: بیہودہ بات۔
الحَدِيثُ السَّائِرُ: مشہور بات، مقولہ۔
حَدِيثٌ صَحَفِيّ: پریس انٹرویو۔
حَدِيثُ مُرَاسِلٍ: اخباری مراسلہ۔
حَدِيثُ السِّنِّ: نوعمر۔
حَدِيثًا: حال ہی میں، کچھ عرصہ ہوا۔
حَادِث، حَدِيث: نیا۔
حَادِثُ طَيَرَان: ہوائی حادثہ۔
حَادِثٌ غيرُ مُتَوَقَّعٍ: غیر متوقع حادثہ، ناگہانی حادثہ۔
حَادِثٌ مُفَاجِئٌ: ناگہانی حادثہ، ایکسیڈنٹ۔
حَادِثٌ مُمِيت: مہلک حادثہ، جان لیوا۔
حَادِثَة ج: حَوَادِثُ: واقعہ، مصیبت، واردات۔
حَوَادِثُ مُمِيتَة: مہلک حوادث۔
أُحْدُوثَه ج: أَحَادِيثُ: کہانی جو لوگوں میں مشہور ہو، حکایت، افسانہ، باتیں، گفتگو۔
أَحَادِيثُ لا مَعْنَى لها: فضول باتیں۔
أَحَادِيثُ وُدِّيَة: دوستانہ باتیں۔
حَدَّجَ بِبَصَرِهِ تَحْدِيجًا: گھورنا، تیز نظروں سے دیکھنا۔
حَدَّ ـِ عليه حَدًّا: غضبناک ہونا۔
حَدَّتِ المَرْأَةُ على ـُ حَدًّا و حِدَادًا: سوگ منانا۔
تَحْدِيد: متعین کرنا، خاص کرنا، شناخت کرنا، مال تجارت کے ٹھیک دام متعین کرنا۔
تَحْدِيدُ الْأَثْمَانِ والأَسْعَارِ: اشیاء کی قیمتیں متعین کرنا، ریٹ مقرر کرنا، (۲) حد بندی کرنا، حدود متعین کرنا، مقید کرنا، محدود کرنا، منحصر کرنا (۳) قیمتوں پر کنٹرول، قیمتوں کی تعیین۔
تَحْدِيدُ الاِخْتِصَاصَات: اختیارات محدود کرنا۔
تَحْدِيدُ الأَرَاضِيْ: زمینات کی حد بندی۔
تَحْدِيدُ الأَسْعَار: قیمتوں پر کنٹرول کرنا، قیمتوں کی تعیین۔
تَحْدِيدُ الحَدِّ والخَطِّ: لائن متعین کرنا۔
تَحْدِيدُ الشيءِ: نشان دہی کرنا۔
تَحْدِيدُ العَلاقَاتِ مَعَ أَحَدٍ: تعلقات کی حدود متعین کرنا۔
تَحْدِيدُ المُسْتَقْبَل: مستقبل کی نشان دہی کرنا۔
تَحْدِيدُ المَسْئُولِيَة: ذمہ داری کا تعین۔
تَحْدِيدُ المَصِيرُ: قسمت کا فیصلہ کرنا، انجام متعین کرنا۔
تَحْدِيدُ مَوَاقِعِ القُوَّة: فوجی مورچوں کو متعین کرنا۔
تَحْدِيدُ المَوْقِف: پوزیشن متعین کرنا۔
تَحْدِيدُ النَّسْل: برتھ کنٹرول، نسبندی۔
تَحْدِيدُ النِقَاط: پائنٹ مقرر کرنا۔

تَحْدِيدُ هُوِيَّةِ العَنَاصِر: نشاندہی کرنا، شناختی کرنا، اجزاء یا افراد کی ذاتی حیثیت متعین کرنا۔

حَدَدَ وَ حَدَّ السِّكِّيْنَ ـُ حَدًّا: دھار رکھنا، تیز کرنا۔

أَحَدَّ اِلَيْهِ النَّظَرَ: گھور کر دیکھنا۔

اِحْتَدَّ عليه فى الكلام: سخت کلامی سے پیش آنا، تیزی سے بات کرنا۔

حَدٌّ ج: حُدُوْد: (۱) انتہا، آخری حصہ، کنارہ (۲) سرحد، بونڈری، چہار دیواری (۳) تیزی، غصہ (۴) دھار (۵) تعریف۔

الحَدُّ الأدْنٰى: ادنی درجہ، کم سے کم درجہ، کم سے کم مقدار۔

الحَدُّ الأدْنٰى للأجُوْر: تنخواہوں کا کم سے کم درجہ، اجرتوں کی کم از کم مقدار۔

حَدُّ الأَسْلِحَة: ہتھیاروں پر پابندی لگانا، اسلحہ میں تخفیف کرنا۔

الحَدُّ الأقْصٰى: آخری حد۔

الحَدُّ الأقْصٰى للأجُوْر: تنخواہوں کا بالکل آخری درجہ۔

حَدُّ الحُرِّيَة: آزادی ختم کرنا۔

الحَدُّ الدُّوْلِيّ: بین الاقوامی سرحد۔

حَدُّ السُّرْعَة: اسپیڈ کم کرنا۔

حَدُّ السُّلْطَة: اختیارات میں کمی کرنا۔

الحَدُّ الفَاصِل: خط فاصل۔

الحَدُّ مِنَ الأَسْلِحَة: ہتھیاروں پر پابندی، ہتھیاروں میں کمی۔

الحَدُّ مِنَ القُرُوْض: قرضوں پر پابندی۔

الحَدُّ مِنَ التَّسَلُّح: ہتھیار بندی پر پابندی لگانا۔

الحَدُّ مِنَ التَّسَلُّح النَّوَوِيّ: ایٹمی ہتھیار بندی پر پابندی۔

الحَدُّ مِنَ التَّسْلِيح: ہتھیار بندی پر پابندی۔

حَدَّ من كذا ـُ حَدًّا: روک لگانا، روک تھام کرنا، تحدید کرنا، تخفیف کرنا۔

حِدَادٌ قَوْمِيّ: قومی سوگ۔

حِدَّةُ التَوَتُّر: تناؤ کی زیادتی۔

الحُدُوْدُ المَرْسُوْمَة: نشان زدہ سرحدیں، مقررہ حدیں۔

لاحَدَّ (له): بے شمار، غیر متناہی۔

عَلٰى حَدٍّ سَوِيّ: برابر سرابر، یکساں، ایک درجہ میں۔

عَلٰى الحَدِّ الأدْنٰى: کم سے کم درجہ میں۔

عَلٰى الحَدِّ الأقْصٰى: زیادہ سے زیادہ، بڑے سے بڑے درجہ میں، بہت سے بہت۔

عَلٰى حَدِّ تَعْبِيْرِ فُلَانٍ: فلاں کے قول کے مطابق۔

فِي حَدِّ ذَاتِه: اپنی ذات کی حد تک، فی نفسہ۔

لِحَدِّ كذا: اس حد تک۔

لِحَدِّ الآن: اب تک۔

حِدَّةٌ: تیزی، غصہ، سختی، جوش۔

بِحِدَّةٍ: تیزی سے، درشتی کے ساتھ۔

حِدَاد: سوگ، غم، رنج، ماتم۔

ثوبُ الحِدَاد: ماتمی لباس۔
حَدَّاد: لوہار۔
حِدَادَة: لوہارگری، لوہار کا کام کرنا۔
حَدِید: (۱) لوہا (۲) تیز، دھاردار۔
__ مَسْبُوک: پگھلا ہوا لوہا۔
__ خام: کچا لوہا۔
الحَدِیدَة قد حَمِیَتْ: لوہا تپ گیا، کوئی معاملہ آخری حد کو پہنچ گیا۔
حَدِیدِیّ: آہنی۔
مَصَانِعُ الحَدِید: لوہے کے کارخانے۔
حَدَائِد: لوہے کا سامان۔
تَاجِرُ الحَدَائِد: لوہے کا سامان بیچنے والا، لوہیا۔
حَدِیدَة: لوہے کا ٹکڑا۔
حَادّ: تیز، نوکیلا، دھاردار۔
__ البَصَر: تیز نگاہ۔
تَحْدِید: حد بندی، تعریف، احاطہ، تقیید، انحصار۔
مَحْدُود: لیمٹیڈ۔
مَحْدُودُ الدَّخل: محدود آمدنی والا۔
المُحَدَّدُ بِوَقْتٍ: وقت کے ساتھ خاص مشروط الوقت۔
مُحَدَّدُ المَعَالِم: واضح الخطوط۔
مُحْتَدّ: ناراض، غضبناک۔
حَدَرَ ـُـ حَدْرًا و حُدُورًا: نیچے اتارنا، جھکانا، ڈھلوان بنانا، گھوم دار بنانا۔
__ ـُـ حُدُورًا و تَحَدَّرَ و انْحَدَرَ: اترنا، ڈھلکنا، نشیب دار ہونا۔
إِنْحِدَارُ الأرْض: اتار۔

إِنْحِدَارٌ مِنَ أصْل كذا: کسی قوم یا نسل کا ہونا۔
حُدُوْر و مُنْحَدَر و انْحِدَار: نشیب، نشیب دار جگہ، ڈھلوان جگہ۔
مُنْحَدِر، مُتَحَدِّر: نشیبی، جھکا ہوا۔
حَدُرَ ـُـ حَدَارَةً: موٹا ہونا۔
حَادِرٌ: موٹا۔
حَدَسَ ـِـ حَدْسًا: گمان کرنا، اندازہ لگانا، تاثر لینا، جلد سمجھ لینا۔
حَدْسٌ: اندازہ، ذکاوت، دانائی۔
حَدَفَ ـِـ حَدْفًا: پھینکنا (دا)۔
حَدَقَ ـِـ و أَحْدَقَ به إِحْدَاقًا: گھیرنا، احاطہ کرنا، خطرات کا کسی کو گھیر لینا۔
حَدَقَ ـِـ و حَدَّقَ و أَحْدَقَ إليه: گھورنا، نظر جمانا، تیز نظر سے دیکھنا۔
حَدَقَةُ العَیْن: آنکھ کی سیاہی۔
حَدِیقَة ج: حَدَائِقُ: باغیچہ۔
حَدِیقَةُ الحَیَوَانَاتِ: چڑیا گھر۔
حَدِیقَةٌ عُمُومِیَّة: باغ عام، پبلک گارڈن۔
حَدِیقَة عَامَّة: پارک۔
حَادِقُ الطَّعْمِ: نمکین، چٹپٹا۔
مُحْدِق: محیط، تیز۔
خَطَرٌ مُحْدِقٌ: زبردست خطرہ۔
حَدَلَ ـَـ حَدْلاً علی: ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔
حَدَلَ السَّطْحَ ـِـ حَدْلاً و حُدُولاً: سطح ہموار کرنا، رول پھیر کر ہموار کرنا، رول پھیرنا۔
مِحْدَلَة: رولر، وہ گول پتھر جس کے ذریعہ زمین ہموار کی جاتی ہے۔

مِحْدَلَةٌ بُخَارِيَّةٌ: سڑک کوٹنے کا انجن، اسٹیم رولر۔
حَدَمَ ـــِـ حَدَمًا: گرم کرنا، تیز کرنا، آگ بھڑکانا، جوش دلانا۔
إِحْتِدَام: آگ بھڑکنا، برہم ہونا، غصہ سے لال پیلا ہونا، تیز ہونا۔
إِحْتِدَامُ الصِّرَاعِ: کشمکش بڑھنا، جھگڑا بڑھنا۔
إِحْتِدَامُ القِتَالِ: لڑائی کا بازار گرم ہونا، جنگ کے شعلے بھڑکنا۔
مُحْتَدِمٌ: غضبناک، مشتعل۔
حِدْوَة: گھوڑے کی نعل۔
حَدَا الإِبِلَ ـُـ حَدْوًا و حُدَاءً: ہکانا، دوڑانا۔
ــــ علي: آمادہ کرنا، اکسانا۔
حَادٍ ج: حُدَاة: ساربان، حدی خواں (۲) باعث، سبب۔
حَدِيَ بِالمَكَانِ ـَـ حَدًى: برقرار رہنا، کسی جگہ سے الگ نہ ہونا۔
تَحَدَّى: مقابلہ کرنا، چیلنج کرنا۔
تَحَدَّى الأَمْرَ: کسی کام کا عزم کرنا۔
التَّحَدِّي السَّافِرُ: کھلا چیلنج۔
تَحَدِّي الضُّغُوطِ: دباؤ کو چیلنج کرنا۔

ح .... ذ

حَذِرَ ـَـ حَذَرًا و حَاذَرَ و تَحَذَّرَ و احْتَذَرَهُ: محتاط رہنا، بچنا۔
حَذَّرَهُ تَحْذِيرًا: متنبہ کرنا، بچانا محتاط بنانا۔
حَذَارِ مِنْ كذا: بچو محتاط رہو۔
حَذَرٌ، حِذْرٌ: احتیاط، بچاؤ، پرہیز۔
حَذِرٌ و حَاذِرٌ: محتاط۔
مَحْذُوْرٌ: قابل احتیاط۔
تَحْذِيْرٌ: وارننگ۔
تَحْذِيْرٌ مِنَ المُؤَلِّفِ: مصنف کی تنبیہ۔
حَذَفَ ـِـ حَذْفًا: مٹانا، کم کرنا، ڈالنا، گرانا، قلم زرد کرنا۔
حَذْفُ بَنْدٍ: قانون وغیرہ کی دفعہ کو حذف کرنا۔
حَذْفُ فِقْرَةٍ من: پیراگراف اڑانا۔
حَذْفُ مَادَّةٍ: دفعہ کو حذف کرنا۔
الحَذْفُ و الإِضَافَةُ: حذف و اضافہ، کمی بیشی۔
حِذْفَارٌ، حُذْفُورٌ: جانب، سائڈ۔
بِحَذَافِيْرِه: کل، تمام، پورا۔
حَذِقَ ـَـ حَذْقًا و حَذَاقة و حِذْقًا: ماہر ہونا، باکمال ہونا (۲) انتہائی ترش ہونا۔
حَذْلَقَ و تَحَذْلَقَ: ڈینگ مارنا، علمی کمال یا برتری ظاہر کرنا۔
حَذْلَقَة: ڈینگ، دعوائے علم۔
مُتَحَذْلِق: علم کا دعویدار، ڈینگ ماریوالا۔
حَذْوَ، حِذَاءَ: بالمقابل، برابر۔
حَذَا حَذْوَهُ ـُـ حَذْوًا و احْتَذَى: نقش قدم پر چلنا، اتباع کرنا۔
حَاذَاهُ مُحَاذَاةً: بالمقابل ہونا، برابر ہونا۔
احْتِذَاء: جوتا پہننا۔
حِذَاءٌ ج: أَحْذِيَة: جوتا۔
ــــ طَوِيْل: بوٹ جس میں ٹخنا ڈھکا ہو۔
ــــ قَصِيْر: شوز جس میں ٹخنا کھلا ہو۔
حَذَّاءٌ: جوتہ ساز، جفت ساز۔

مُحَاذٍ (له): بالمقابل۔

ح............ر

حَرِبَ ـــ حَرَبًا: غضبناک ہونا، آگ بگولا ہونا۔
حَارَبَه مُحَارَبَةً: جنگ کرنا۔
مُحَارِب: جنگ جو، لڑاکا، سپاہی۔
المُحَارِبُونَ: برسرپیکار فریق۔
حَرْبٌ ج : حُرُوب: جنگ، لڑائی۔
___ أهْلِيَة: خانگی جنگ، خانہ جنگی۔
أعْلَنَ الحَرْبَ عَلَى فُلانٍ: کسی کے خلاف اعلان جنگ کرنا۔
حَرْبُ إبَادَة: خونریز جنگ، گھمسان کی جنگ۔
حَرْبُ الاِسْتِنْزَاف: مہلک جنگ، ہلاکت خیز جنگ، خونریز جنگ، تھکا دینے والی جنگ۔
حَرْبٌ ألِكْتُرُونِيَّة: خودکار آلات کی جنگ۔
حَــرْبٌ أهْـلِيَّةٌ: سول وار، خانہ جنگی، گھریلو لڑائی۔
الحَرْبُ البَارِدَةُ: سرد جنگ، سیاسی جنگ۔
حَرْبُ الجَرَاثِيم: جراثیم کی جنگ۔
حَرْبٌ دَاخِلِيَّة: خانہ جنگی۔
حَرْبٌ دِفَاعِيَّةٌ: دفاعی جنگ۔
الحَرْبُ الذَّرِيَّةُ: ایٹمی جنگ۔
حَرْبٌ سَاخِنَة: گرم لڑائی، ہتھیاروں کی لڑائی۔
حَرْبٌ شَامِلَةٌ: ہمہ گیر جنگ۔
حَرْبٌ شَرِسَةٌ: خوفناک جنگ۔
حَرْبٌ طَبَقِيَّةٌ: طبقاتی جنگ۔
حَرْبٌ عَالَمِيَّةٌ: عالمی جنگ۔
حَرْبُ العِصَابَات: گوریلا جنگ۔
حَــرْبٌ هُـجُومِيَّةٌ: اقدامی جنگ، حملہ آور جنگ۔

حَرْبِيٌّ: جنگی، فوجی، ملٹری کا۔
مَدْرَسَةٌ حَرْبِيَّةٌ: ملٹری اسکول۔
حَرْبِيَّة: محکمۂ جنگ۔
وَزِيرُ الحَرْبِيَّة: وزیر جنگ۔
حِرْبَاء ج: حَرَابِيُّ: گرگٹ۔
حَــرْبَة ج: حِـرَابٌ: نیزہ، نیزہ کی نوک (٢) خرابی مذہب۔
___ البُنْدُقِيَّة: سنگین۔
حَرَّاب: سنگین بردار، نیزہ بردار۔
مُحَارِب: جنگجو، لڑاکا، سپاہی۔
حَرَثَ الأَرْضَ ـــ حَرْثًا: ہل چلانا، کھیتی کرنا۔
حَرْثٌ: کھیتی، قابل کاشت زمین۔
حَرَّاثٌ: کاشتکار۔
مِحْرَاث ج: مَحَارِيثُ: ہل۔
___ بُخَارِيّ: ٹریکٹر۔
سِكَّةُ المِحْرَاث: ہل میں لگا ہوا دھار دار لوہا۔
حَرِجَ ـــ حَرَجًا: (١) تنگ ہونا (٢) مجرم ہونا۔
حَرِجَ عليه الشيُّ: حرام ہونا۔
حَرَّجَ تَحْرِيجًا: تنگ کرنا۔
___ في الأمْر: اصرار کرنا، ضد کرنا۔
___ عليه الأمْرَ: ممنوع کرنا۔
___ على الأمْر: فیصلہ کرنا، پختہ ارادہ کرنا۔
أحْرَجَ الرَّجُلُ: مجبور ہونا، نازک و دشوار موقف میں ہونا۔
إحْرَاج: پریشان کرنا، پریشانی میں ڈالنا۔
إحْرَاجُ المَرْكَز: پوزیشن نازک بنانا۔
إحْرَاجُ النَّفْس: ذہن کو تشویش میں ڈالنا۔

حَــرِجٌ (مَــوْقِفٌ مثلاً): نازک، پریشان، خطرناک، تنگ۔
حَرَجٌ: تنگی، ممانعت، گناہ، پریشانی، نزاکت۔
حَرَجُ الحَالَةِ: نزاکتِ حال۔
حَرَجٌ و حِرْجٌ: اعتراض، گناہ۔
حَرَاجٌ، (دا) مَزَادٌ: نیلام۔
المُحَرِّجُ: پریشان کن۔
حَــرْجَلَةٌ: اِدھر اُدھر چلنا، دائیں بائیں چلنا، پہیہ کا لڑھکنا۔
حَرِدَ ــ حَرَدًا: غضبناک ہونا۔
حَرَدَهُ ــ حَرْدًا: روکنا، منع کرنا۔
حَرَّرَهُ تَحْرِيرًا: آزاد کرنا، رہا کرنا، کتاب لکھنا یا اس کی اصلاح کرنا، اخبار یا رسالہ کو ایڈٹ کرنا، ایڈیٹری کرنا، کسی قانونی، معاشرتی، سیاسی یا اخلاقی محکومیت پر پابندی سے آزاد کرنا، نجات دینا۔
تَــحَرَّرَ: آزاد ہونا، رہائی پانا، قید سے چھوٹنا، خود مختار ہونا، کسی عہدہ وغیرہ کا پابند نہ ہونا۔
تَحَرَّرَ من الاِسْتِعْبَادِ: آزاد ہونا۔
تَحَرُّرٌ: حریت پسندی۔
حُرٌّ: آزاد، اصلی، خالص، صاف، شریف۔
حُرُّ الفِكْرِ: آزاد خیال۔
حُرُّ العَقِيدَةِ: آزاد عقیدہ کا، بے عقیدہ۔
حُرِّيَّةٌ: آزادی، خود مختاری، رہائی، عدم پابندی۔
حُرِّيَّةُ الفِكْرِ: آزاد خیالی۔
حُرِيَّةُ الاِجْتِمَاعِ: ملنے جلنے کی آزادی۔
الحُرِيَّةُ الاِجْتِمَاعِيَّةُ: سوشل آزادی۔
حُرِيَّةُ الاِعْلَامِ: نشر واشاعت کی آزادی۔
حُرِيَّةُ البِحَارِ: سمندروں کی آزادی۔

حُرِيَّةُ التِّجَارَةِ: تجارتی آزادی۔
حُرِيَّةُ التَّصَرُّفِ: آزادیٔ عمل، معاملات کی آزادی۔
حُرِيَّةُ التصرف المطلقة: کامل اختیار، ہر قسم کی کاروائی کا اختیار
حُــرِيَّةُ التَّــعَـاقُدِ: معاملات طے کرنے کی آزادی، معاہدہ کی آزادی۔
حُرِيَّةُ التَّعْبِيرِ عَنِ الرَّأْيِ: اظہارِ رائے کی آزادی۔
الحُرِيَّةُ السِّيَاسِيَّةُ: سیاسی آزادی۔
حُرِيَّةُ الصِّحَافَةِ: پریس کی آزادی۔
حُرِيَّةُ العِبَادَةِ: عبادت کی آزادی، مذہب کی آزادی۔
حُرِيَّةُ العَقِيدَةِ الدِّينِيَّةِ: مذہبی آزادی۔
حُرِيَّةُ العَمَلِ: کام کی آزادی۔
حُرِيَّةٌ فی الرَّأْیِ: آزادیٔ رائے، آزادیٔ فکر۔
حُرِيَّةُ الكَلَامِ: بولنے کی آزادی۔
حُرِيَّةُ الكَلِمَةِ: زبان کی آزادی۔
حُرِيَّةُ المُنَاقَشَةِ: بحث کی آزادی۔
حُرًّا: آزادانہ۔
حَرٌّ و حَرَارَةٌ: گرمی، تپش۔
حَرَارَةٌ: گرمی، جوش، غیرت، حمیت، آنچ۔
حَرَارَةُ الإِيْمَانِ: جوش ایمانی۔
مِقْيَاسُ الحَرَارَةِ (مح): تھرمامیٹر۔
حَرَّانُ: سخت پیاسا۔
حَرُورٌ: گرم ہوا۔
حَرِيْرٌ: ریشم، سلک۔
حَرِيْرِيٌّ: ریشمی۔
حَارٌّ: گرم، پر جوش، سوزاں، باحمیت۔

مِنطَقَة حارَّة: گرم علاقہ۔
يَنبُوعٌ حارٌ: چشمہ گرم۔
تَحرِير: آزادی، آزادی دینا۔
تَحرِيرُ الأرض: سرزمین آزاد کرنا۔
تَحرِيرُ الصُّحُف: ایڈیٹری، ایڈٹ کرنا۔
تَحرِيرُ الصَّحِيفَة: اخبار ایڈٹ کرنا، اخبار کا اداریہ لکھنا۔
تَحرِيرُ العَبِيد: غلاموں کو آزاد کرنا۔
تَحرِيرُ عَقدٍ: معاہدہ لکھنا۔
تَحرِيرُ فَاتُورَة: بل بنانا۔
تَحرِيرٌ كَامِلٌ: مکمل آزادی۔
تَحرِيرُ الكُتُب: تصنیف وتالیف۔
تَحرِيرُ المَجَلات: اخبار نویسی۔
تَحرِيرُ المَرأة: عورت کو آزاد کرنا۔
تَحرِيرُ مَقَالٍ اِفتِتَاحِيّ: ایڈوٹیوریل لکھنا۔
تَحرِيرُ مَقَالٍ رَئِيسِيّ: ایڈوٹیوریل لکھنا۔
التَّحرِيرُ من سَيطَرَةِ أحدٍ: قبضہ سے چھڑانا۔
مُحَرِّر: اڈیٹر، رپورٹر، رائٹر، مصنف۔
مُحَرِّرٌ رَسمِيٌّ: سرکاری معاہدہ نویس۔
مُحَرِّرٌ صَحفِيّ: کالم نویس۔
مُحَرِّرٌ فی جَرِيدَة: اخبار کا ایڈیٹر۔
مُحَرَّرٌ من الضَرِيبَة: ٹیکس معاف۔
مَحرُورٌ: گرم، غضبناک۔
المِحَرُّ: تھرمامیٹر۔
حَرُزَ المَكَانُ والشئُ ـُـ حَرَازَةً: مضبوط و محفوظ ہونا۔
حَرَزَ ـُـ حَرزًا: حفاظت کرنا، بچانا۔
أحرَزَ الانتِصَار: کامیابی حاصل کرنا۔
أحرَزَ الشئَ: جمع کرنا، فراہم کرنا، حاصل کرنا۔
أحرَزَ شُهرَةً: شہرت پانا۔
الإحرَازُ علی: قبضہ کرنا۔
أحرَزَ نَجاحًا: کامیابی حاصل کرنا۔
أحرَزَ قَصَبَ السَّبقِ: بازی لیجانا، سبقت لے جانا۔
اِحتِرَاز و تَحَرُّز من: بچنا، احتیاط برتنا۔
حِرزٌ: (۱) حفاظت گاہ، قلعہ (۲) تعویذ۔
و حَرِيز: مضبوط قلعہ۔
حَرِيز: محفوظ، مضبوط۔
حَرَسَ ـُـ حَرسًا و حَرَسًا و حِرَاسَةً: حفاظت کرنا، پہرہ دینا، محفوظ رکھنا، بچانا۔
اِحتِرَاس و تَحَرُّس: بچنا، محفوظ رہنا۔
حَرَسٌ، حُرَّاسٌ: گارڈ، حفاظتی دستہ۔
حَرَسٌ شَخصِيّ: باڈی گارڈ۔
حَرَس المَلِک: شاہی باڈی گارڈ۔
حَرَسُ بَلاطِ الشَّاه: شاہی باڈی گارڈ، شاہ کے محافظ۔
حَرَسٌ خَاصٌّ: باڈی گارڈ۔
حَرَسٌ خُصُوصِيٌّ: باڈی گارڈ۔
حَرَسُ الشَّرَف: گارڈ آف آنر۔
الحَرَسُ الوَطَنِيُّ: نیشنل گارڈ۔
الحَرَسَان: رات و دن۔
حِرَاسَة: حفاظت، پہرہ، پہرہ داری، نگرانی۔
حِرَاسَة قَضَائِيَّة: ضبطی۔

حِرَاسة تحفظية: پراپرٹی کسٹوڈین۔

حَارِسٌ ج: حَرَسة و حُرَّاسٌ و حَرَسٌ و أحْرَاسٌ: پہرہ دار، چوکیدار، محافظ۔

حَارِسٌ أمِينٌ على كذا: قابل اعتماد محافظ۔

حَارِسُ الباب: گیٹ کیپر، پہرہ دار، دربان۔

حَارِسٌ قَضائيٌ: ضبطی کرنے والا۔

الحَارِسُ على أحَدٍ: نگراں۔

اِحْتِرَاس: بچنا، محفوظ رہنا (۲) تحفظ، احتیاط۔

باحْتِرَاسٍ: احتیاط سے۔

مُحْتَرِس: محتاط۔

حَرَشَ ـــ حَرْشًا: رگڑنا، گھسنا، خراش لگانا، شکار کرنا۔

حَرَّشَ تَحْرِيشًا: فساد پر آمادہ کرنا، اشتعال دلانا۔

ـــ بَينَهُم: لڑائی کرانا۔

تَحَرَّشَ بِفُلان: درپے ہونا، پیچھے پڑنا، اُبھارنا۔

تَحْرِيش: شرانگیزی، فساد انگیزی۔

حَرِصَ على ـــ حِرْصًا: لالچ کرنا، خواہش کرنا۔

حِرْص: توجہ، خیال، دیکھ دیکھ۔

الحِرْصُ على شيءٍ: نگاہ رکھنا، حفاظت کرنا۔

حَرَصَ عليه ـــ حِرْصًا: حفاظت کرنا، خواہشمند ہونا۔

حِرْص: لالچ، بخل، بدنیتی۔

حَرِيصٌ على: خواہشمند، شائق۔

حَرَّضَ على: اُکسانا، آمادہ کرنا۔

تَحْرِيض: چست وفعال بنانا، اشتعال۔

تَحْرِيضُ أحَدٍ على كذا: ورغلانا، اشتعال دلانا۔

تَحْرِيضِيّ: اشتعال آمیز۔

خُطْبَة تَحْرِيضِيَّة: اشتعال انگیز تقریر۔

مُحَرِّض: اشتعال انگیز۔

مُحَرِّضٌ على الثَّوْرَة: بغاوت کیلئے اکسانیوالا۔

حَرَفَ و حَرِفَ ـــ حَرْفًا: ٹیڑھا کرنا۔

ـــ الكلامَ: کلام میں ردّوبدل کرنا، اصل سے مختلف کردینا۔

ـــ المَعْنَى: مقصدِ کلام کو بگاڑنا۔

تَحْرِيفٌ: جعل سازی، غلط بیانی۔

اِنْحِرَاف و تَحَرُّف: ٹیڑھا ہونا، جھکنا، اصل سے ہٹنا۔

اِنْحَرَفَ عَنْ: علیحدہ ہونا، ہٹنا۔

اِحْتِرَاف: پیشہ اختیار کرنا۔

حَرْف ج: حُرُوف: (۱) کنارہ (۲) حرف (۳) دھار ج: أحْرُف۔

حُرُوف طَبْعٍ كَبِيرَة: بڑے حروف۔

أحْرُف طِبَاعِيَّة: چھپائی کے حروف۔

حَرْف مَطْبَعِيّ: ٹائپ۔

ـــ الجَبَل: سرا، نوکیلا سرا۔

حَرْفِيّ: حرف کا، ٹائپ کا۔

حَرْفِيًّا: حرف بحرف، ایک ایک حرف کرکے۔

تَرْجَمَة حَرْفِيَّة: تحت اللفظ ترجمہ۔

حِرْفَة ج: حِرَف: پیشہ۔
حِرْفَةٌ يَدَوِيَّة: ہاتھ کا ہنر، دست کاری۔
حِرْفَةٌ شَرِيْفَة: معزز پیشہ۔
حِرفَةٌ مُرْبِحَة: نفع بخش پیشہ۔
حِرَفِيّ: پیشہ ور۔
حَرِيْف ج: حُرَفَاءُ: مقابل۔
مُحْتَرِف: پیشہ ور۔
مُحْتَرِفُ التَّهْرِيْج: پیشہ ور، ہلڑ باز۔
اِنْحِرَاف: کنارہ کشی، علیحدگی، جھکاؤ۔
___ المِزَاج: ناسازی طبع۔
حَرَق ـُـ حَرْقًا و أَحْرَق: جلانا، گرم پانی یا سیال گرم چیز کا جلد پر گرنا، جھلسنا، منہ جلا دینا (کھانے سے)۔
اِحْتِرَاق و تَحَرُّق: جلنا، جھلسنا (گرم کھانے سے) منہ جل جانا، خواہش بڑھنا (۲) جلن، سوزش۔
حَرْقٌ: جلا ہوا حصہ، داغ، جلے ہوئے کا نشان۔
حُرْقَة: سوزش، جلن۔
حَرْق، حَرِيق: آتش، آتش زنی۔
___ أجسادِ المَوْتٰى: مُردے جلانا۔
حَرِيق، حَرِيْقَة: آگ۔
حَرِيْق ج: حَرَائِقُ: آتش زدگی۔
حَرَّاق: سوزاں، گرم، جھلنے والا۔
حُرَّاقَة: آبلہ جو جلنے کی وجہ سے پڑ جائے۔
حَارِقٌ مُتَعَمِّد: دانستہ آگ لگانے والا۔
اِحْتِرَاق: جل جانا، سوزش۔
___ دَاخِلِيّ: اندرونی سوزش۔
مُحْرِق: سوزاں۔
مُحْرَق، مَرْمَدٌ: مرگھٹ، مردے جلانے کی جگہ، شمشان گھاٹ۔
مَحْرَقَةُ بَخُوْر: عوددان۔
مَحْرُوْقَات: ایندھن۔
حَرَّكَ تَحْرِيكًا: حرکت دینا، ہلانا، الٹ پلٹ کرنا، دیگچی میں چمچہ چلانا۔
___ عَلَى الأمْرِ: اکسانا، آمادہ کرنا۔
تَحْرِيْكُ العَوَاطِف: جذبات کو مشتعل کرنا، جوش دلانا۔
تَحْرِيكُ الشَّهِيَّة: رغبت دلانا، بھوک لگانا۔
تَحْرِيكُ الحَرْفِ أو الكَلِمَة: زبر زیر پیش لگانا۔
تَحْرِيكُ المَخَاوِف: خدشات پیدا کرنا۔
تَحْرِيكُ مَشَاعِرَ وَطَنِيَّة: قومی جذبات کو بھڑکانا۔
حَرُكَ ـُـ حَرَكًا و تَحَرَّكَ: ہلنا۔
حَرَكَة: (۱) حرکت (۲) جنبش، چہل پہل۔
حَرَكَةُ المُرُوْر: ٹریفک، آمدورفت۔
حَرَكَةٌ سِيَاسِيَّة: سیاسی تحریک۔
حَرَكَةٌ إِصْلَاحِيَّة: اصلاحی تحریک۔
حَرَكَةُ الأعْمَال: سرگرمی۔
حَرَكَةٌ انْفِصَالِيَّة: علیحدگی پسندانہ تحریک۔
حَرَكَةٌ بَهْلَوَانِيَّة: کرتب۔
حَرَكَةُ التِّجَارَة: تجارتی سرگرمی۔
حَرَكَةُ التَّحَرُّرِ الوَطَنِي: قومی تحریک آزادی۔
حَرَكَةٌ تَصْحِيْحِيَّة: اصلاحی تحریک۔
حَرَكَةٌ تَقَدُّمِيَّة: ترقیاتی تحریک۔
حَرَكَةٌ عَسْكَرِيَّة: فوجی نقل و حرکت۔

حَرَكةُ عِصْيَان: سول نافرمانی۔
الحَرَكةُ النِّسَائِيَة: عورتوں کی تحریک، تحریک نسواں۔
حَرَكةٌ وَطَنِيَّة: قومی تحریک۔
التَحَرُّك: اقدام، حرکت، تحریک، سرگرمی، نقل وحرکت، جدوجہد، آمدورفت ج: تَحَرُّكَات۔
التَحَرُّكُ بالاِتِّجاهِ الصَّحِيح: صحیح رُخ پر چلنا۔
التَحَرُّكُ السَّرِيع: تیز حرکت۔
التَحَرُّكُ السِّيَاسِيّ: سیاسی جدوجہد۔
التَحَرُّكُ العَرَبِيّ: عرب تحریک، عرب جدوجہد۔
تَحَرُّكَات: نقل وحرکت، دوڑ دھوپ۔
تَحَرُّكَاتٌ دِبْلُومَاسِيَّة: سیاسی دوڑ دھوپ۔
تَحَرُّكَاتُ السَّام: امن کوششیں۔
التَحَرُّكَاتُ العَسْكَرِيَّة: فوجی نقل وحرکت۔
مُحَرِّك: (۱) حرکت آفریں (۲) باعث، سبب ج: مُحَرِّكَات۔
مُحَرِّكٌ مِيكَانِيكِيّ: موٹر (جس کے ذریعہ دیگر آلات حرکت کرتے ہیں)۔
مُحَرِّكُ الآلَة: اسٹارٹر۔
المُحَرِّكُ الحَرَارِيّ: ہیٹ انجن۔
مُحَرِّكُ دِيزَل: ڈیزل انجن۔
مُحَرِّكٌ كَهْرَبَائِيّ: بجلی کا انجن، الیکٹرک موٹر، برقی موٹر۔
مُحَرِّكٌ لِلْفِتَن: فسادانگیز۔
مِحْرَاكُ النَّار: (مِسْعَر): آگ کریدنی، آتش کاوا، آگ کریدنے کی سلاخ ج: مَحَارِك۔
مُتَحَرِّك: قابلِ منتقلی، چلتا پھرتا۔
حَرَمَ ــِ و حَرِمَ ــَ فلانًا الشئَ حِرْمَانًا و حِرْمًا: محروم کرنا، محروم رکھنا۔
الحِرْمَانُ مِنَ الحُقُوقِ المَدَنِيَّة: شہری حقوق سے محرومی۔
حُرِّمَتِ المُظَاهَراتُ تَحْرِيمًا: مظاہروں پر پابندی لگانا۔
حَرَم: پناہ۔
حَرَمُ الجَامِعَة: یونیورسٹی احاطہ، یونیورسٹی کیمپس۔
حَرُمَ عليه ــُ حُرْمَةً: حرام وناجائز ہونا۔
حَرَّمَ تَحْرِيمًا: حرام وناجائز بنانا، ممنوع قرار دینا۔
تَحْرِيمُ حَقِّ الرَّفْض: ویٹوناجائز قرار دینا۔
تَحْرِيمُ حقِّ النَّقْض: ویٹوختم کرنا، حقِ تنسیخ ختم کرنا۔
تَحْرِيمُ المُسْكِرات: نشہ بندی۔
اِحْتِرام: عظمت، وقار۔
اِسْتِحْرَام: حرام وناجائز سمجھنا۔
حَرَم، مُحَرَّم: (۱) ممنوع (۲) مقدس، حرام، لائق احترام، باعظمت، زیارتگاہ۔
مُحَرَّم (مَنْهِيٌّ عَنْه): حرام، ممنوع۔
حُرْمَة: (۱) ممانعت، عدم جواز (۲) تقدیس (۳) عزت، عظمت۔
حُرْمَة: عورت۔

___ الرَّجُل: بیوی۔
شُقَّةُ حَرَام: نیوٹرل علاقہ جو دو ملکوں کے درمیان ہو۔
بِالحَرَام: ناجائز طور پر۔
عَاشَ بِالحَرَام: ناجائز زندگی گزاری۔
حَرَامِيّ: (۱) ناجائز فعل کرنے والا (۲) چور (دا)۔
حَرِيم: (۱) گھر کی عورتیں (۲) بیوی۔
مَحْرَمَة: (۱) رومال، دستی ج: مَحَارِمُ
حَرَنَ الحِصَانُ ـُ حُرُونًا: گھوڑے کا ہٹ کرنا، نہ چلنا، ایک جگہ کھڑا ہو جانا۔
حَرُون: ہٹی، سرکش۔
حَرْوَة: (۱) سوزش حلق یا سینہ (۲) بدبو۔
حَرِيٌّ بِشَيءٍ: لائق۔
أَحْرَى به: زیادہ لائق، لائق تر۔
تَحَرَّى: جستجو کرنا، غور کرنا، حقیقت معلوم کرنا۔
تَحَرِّي الحَقَائِق: واقعات کی کھوج۔
التَحَرِّي عَنِ الشَّيْ: تلاش و جستجو۔

ح..........ز

حَزَبَ تَحْزِيبًا: پارٹی بنانا، جمع کرنا۔
حَازَبه مُحَازَبَةً: شریک جماعت ہونا، پارٹی میں شامل ہونا۔
حَازَبَ و تَحَزَّبَ له: مدد کرنا۔
تَحَزُّب: گروہ بندی، پارٹی بندی، پارٹی بننا، ایک جماعت بننا، جماعت بندی۔
حِزْبٌ ج: أَحْزَاب: پارٹی، جماعت، گروہ۔
أَحْزَابُ مُعَارَضَةٍ: مخالف پارٹیاں۔
حِزْبُ حَاكِمٌ: حزبِ اقتدار۔

الحِزْبُ الدِّيْمُوقرَاطِيّ: ڈیموکریٹک پارٹی۔
حِزْبُ سُلْطَةٍ: حکمراں پارٹی۔
حِزْبُ شَعْبٍ: پیوپلز پارٹی، جنتا پارٹی۔
حِزْبٌ شُيُوعِيّ: کمیونسٹ پارٹی۔
حِزْبُ المُحَافِظِيْن: کنزرویٹیو پارٹی۔
حِزْبُ المُعَارَضَة: اپوزیشن پارٹی۔
حِزْبُ المُؤْتَمَرِ الوَطَنِيّ: کانگریس پارٹی۔
حِزْبٌ اِشْتِرَاكِيّ: سوشلسٹ پارٹی۔
مُتَحَزِّب: پارٹی بند، گروہ بند، پارٹی باز۔
حَيْزَبُون: بوڑھی چالاک عورت۔
حَزَرَ ـِ حَزْرًا: تخمینہ کرنا، اندازہ لگانا۔
حَزْرٌ و مَحْزَرَة: تخمینہ، اندازہ۔
حَزِيرَان: (يُونِيُو): ماہ جون۔
حَزَّزَ و احْتَزَّ و حَزَّ ـُ حَزًّا: کاٹنا، کترنا، گردن اڑانا۔
حَزَّ الالَمُ فی نَفْسِه ـُ حَزًّا: درد کا تکلیف دہ ہونا۔
حَزَقَ ـِ حَزْقًا: دبانا، دباؤ ڈالنا، دبا کر نچوڑنا۔
حَزَمَ ـِ حَزْمًا و حَزَمَ: باندھنا، بنڈل بنانا، پیک کرنا۔
___ الأَمْتِعَةَ: سامان سفر باندھنا۔
حَزُمَ ـُ حَزْمًا و حَزَامَةً: محتاط ہونا، دور اندیش ہونا۔
تَحَزَّمَ و احْتِزَام: پٹی لگانا۔
حَزْمٌ: (۱) پیکنگ، بنڈل سازی، پیکٹ بنانا، (۲) عزم (۳) احتیاط، دور اندیشی۔
حَزْمُ البَضَائِع فی بَالَاتٍ: سامان کا بنڈل بنانا۔
حُزْمَة ج: حُزَمٌ: بنڈل، پارسل، پیکٹ،

گٹھڑی۔

ــــ حطب: لکڑی کا گٹھا۔

حِزامٌ ج: حُزُمٌ: پیٹی۔

مِشبکُ الحِزام: پیٹی کا کلپ۔

حِزامٌ لاصِقٌ لِلغلق: ٹیپ (چپکنے والا)۔

حازِمٌ: محتاط، دوراندیش، ٹھوس، پختہ، پختہ کار۔

حَزَنَ ـُـ حَزنًا و حُزنًا و أحزَنَ و حَزَّنَ: غمگین بنانا، رنجیدہ بنانا، رنج پہنچانا۔

حَزِنَ له و علیه ـَـ حَزَنًا: رنجیدہ ہونا، غمگین ہونا۔

ــــ علیه: سوگ منانا، ماتم کرنا۔

حَزْنٌ: سخت زمین۔

حُزْنٌ: افسردگی، آزردگی۔

حَزِینٌ، مَحزُونٌ، حَزنَان: رنجیدہ، آزردہ، غمگین، سوگ میں، آبدیدہ، مغموم، افسردہ۔

حَزَاینیٌ: (دا) ماتمی، سوگی۔

قُماشٌ حَزاینیٌ: ماتمی لباس۔

مُحزِنٌ: رنج دہ، تکلیف دہ، غمناک، اندوہناک، افسوس ناک۔

رِوایةٌ مُحزِنَة: (مَأساةٌ): ٹریجڈی، داستانِ غم، دردناک کہانی۔

ح........س

حَسِبَ ـَـ حَسْبًا و حُسْبانًا و حِسبانًا: گمان کرنا، خیال کرنا۔

حَسَبَ ـُـ حَسْبًا و حِسابًا: شمار کرنا، اعتبار کرنا۔

حَسَبَ حِسابَ کذا: کسی چیز کا حساب کرنا۔

حَسَبَ النَّجمَ ـُـ حِسابًا: ستاروں کا حساب لگانا، ستاروں کے حساب سے قسمت کا اندازہ لگانا۔

حَسَبُ الشئ فی المَعاش: پنشن میں کوئی رقم وضع کرنا۔

حاسَبَ مُحاسَبَةً و تحاسَبَ معه: کسی کے ساتھ حساب کتاب کرنا۔

احتَسابٌ: شمار کرنا، حساب کرنا۔

ــــ بِشَئٍ: اکتفاء کرنا، قناعت کرنا۔

تَحَسَّبَ: معلوم کرنا، دریافت کرنا، شناخت کرنا۔

تَحَسُّبًا لِکذا: فلاں چیز کے خیال سے، پیش نظر۔

حَسْبٌ، حُسْبان: شمار، حساب، گنتی، گمان، خیال، اعتبار۔

حَسْبُ: کافی (حَسْبُک کذا: تم کو کافی ہے)۔

فَحَسْبُ: فقط۔

حَسَبٌ: نسب، حیثیت۔

بحَسَبِ، علٰی حَسَبِ، حَسْبَما: مطابق باعتبار، بلحاظ، بقدر۔

بحَسَبِ ما تُملیه التطوُّراتُ: جیسا کہ ترقیات کا تقاضا ہے۔

حِسابٌ: اندازہ، تخمینہ، شمار، اکاؤنٹ۔

حِسابٌ جارٍ: کرنٹ اکاؤنٹ۔

حِسابٌ مَفتُوحٌ: چالو حساب۔

حِسابٌ جارٍ بفوائد: کرنٹ اکاؤنٹ مع سود۔

حِسابُ الجُمَّل: ابجد ہوز کا حساب۔
حِسابٌ حَقِیقِیٌ: واقعی حساب۔
حِسابٌ دَائِنٌ: کریڈٹ اکاؤنٹ، حساب قرض۔
حِسابُ سُلْفَةٍ: پیشگی رقم کا حساب۔
حساب شراء: خریداری حساب
حِسابُ الصُّنْدُوق: کیش اکاؤنٹ، حساب خزانہ۔
حِسابٌ عَامٌ: جنرل اکاؤنٹ۔
حِسابٌ غیرُ مُسَدَّد: کھلا حساب۔
حِسابُ مَبِیعٍ: بکری کا حساب۔
حِسابٌ مُجَمَّد: منجمد حساب۔
حِسابٌ مُخْتَلِط: مخلوط حساب۔
حِسابُ المَسْحُوبَات: ڈراونگ حساب، نکالی ہوئی رقموں کا حساب۔
حِسابٌ مُشْتَرَک: مشترکہ حساب۔
حِسابُ المَصْرِف: بینک اکاؤنٹ۔
حِسابُ المُطَالَبَات: کلیم اکاؤنٹ۔
حِسابٌ نَشِیطٌ: فعال حساب۔
حِسابٌ وَهْمِيٌ: ناکام حساب۔
حِسابَات: اندازے، حسابات۔
حِسابُ الأُسْتَاذ: لیجرا کاؤنٹ۔
حِسابُ اعْتِمَادٍ: کریڈٹ اکاؤنٹ۔
حِسابُ إِیْدَاع: ڈپازٹ اکاؤنٹ۔
حِسابُ إِیْدَاعٍ عِنْدَ الطَّلَب: ڈراونگ اکاؤنٹ۔
حِسابُ الإِیْرَادَاتِ والمَصْرُوفَات: حساب آمد وخرچ۔
حِسابُ البَضَائِع: گوڈس اکاؤنٹ، حساب سامان۔
حِسابُ البَنْکِ: بینک اکاؤنٹ۔
الحِسابُ الجَارِی: علی الحساب، چیکنگ اکاؤنٹ۔
عَلَی الحِسَابِ: بطور قرض، حساب میں، علی الحساب۔
عَلَی حِسَابِ فُلَانٍ: فلاں کے حساب میں، اس کے حساب کے لئے، فلاں کے خرچ پر۔
عَلَی حِسَابِ کذا: فلاں چیز کی بنیاد پر۔
عَلَی حِسَابِ مَصَالِحِ أَحَدٍ: کسی کے مفادات کے خلاف۔
عَلَی حِسَابِ الشَّعْبِ: عوام کا حق مار کر۔
فِی الحِسَاب: وہم وگمان میں۔
قَدَّمَ الحِسَابَ إِلَی: حساب دینا۔
دَفْعُ الحِسَاب: حساب چکانا، ادائیگی کرنا۔
سَوَّی الحِسَابَ: حساب صاف کرنا، مکمل کرنا۔
عِلْمُ الحِسَاب: ارتھمیٹک، فن حساب۔
یَوْمُ الحِسَاب: قیامت کا دن۔
حِسَابَاتُ الأَقْسَام: محکموں کے حسابات۔
حِسَابَاتُ التَّکَالِیفِ: لاگت یا اخراجات کا حساب۔
حِسَابَاتُ التَّوْفِیر: بچت فنڈ کے حسابات۔
حِسَابَاتٌ جَارِیَة تَحْتَ الطَّلَب: عند الطلب لی جانے والی رقموں کا حساب۔

حِسَابَاتٌ خَاطِئَة: غلط اندازے، غلط حسابات۔
حِسَابَاتٌ خِتَامِيَّة: فائنل حسابات۔
حِسَابَاتٌ غيرُ مُطَابِقة: غلط حسابات۔
حِسَابَات الفُرُوْع: برانچ اکاؤنٹ۔
حِسَابَاتُ المُرَاقبة: کنٹرول اکاؤنٹ۔
حِسَابَاتٌ مُجَمَّدة: منجمد حسابات۔
حِسَابَاتٌ مُعَلَّقة: پینڈنگ اکاؤنٹ۔
حِسَابَاتٌ مَوْقُوفَة: منجمد حسابات۔
حَسِيْبٌ: شریف الاصل۔
حَاسِبٌ: شمار کنندہ، محاسب، کلکولیٹر، حسابی مشین۔
مُحَاسِب: محاسب، اکاؤنٹنٹ، آڈیٹر، حساب داں، بک کیپر۔
مُحَاسِبٌ ذُوْ رُخْصَة: سرکاری اجازت یافتہ اکاؤنٹنٹ۔
مُحَاسِبٌ قَانُونِيّ (مُرَاجِعُ الحِسَابَات): آڈیٹر، حسابات کی جانچ کرنے والا، چارٹرا کاؤنٹنٹ۔
المُحَاسِبُ المُدَقِّقُ للحِسَابَات: آڈیٹر۔
المُحَاسَبة: آڈیٹنگ، محاسبی، علم حساب دانی، اکاؤنٹنگ، حساب کا کام، حسابی جانچ پڑتال، دارو گیر۔
مُحَاسَبة آلِيَّة: مشینی حساب کتاب۔
مُحَاسَبة الكَتْرُوْنِيَّة: الیکٹرونک حساب وکتاب۔
آلَةٌ حَاسِبَة: شمار کرنے کی مشین۔
المَحْسُوْبِيَّة: جانب داری، پاسداری، خاطر داری۔
أَحْسَبُ: سفید بال، سفید جلد کا۔
حَسَدَ فُلَانًا ـُ حَسَدًا و حَسَادَةً: حسد کرنا، دوسرے کی خوشی دیکھ کر جلنا، دوسرے کی نعمت کا زوال اور اپنے لئے خواہش کرنا۔
حَسُودٌ: حاسد۔
حَسَرَ ـِ بَصَرُه حُسُوْرًا: نگاہ کا درماندہ ہونا، عاجز ہونا (۲) کھل جانا۔
حَسَرَ ـُ حَسْرًا: کھولنا۔
حَسَّرَه تَحْسِيرًا: حسرت دلانا۔
ـــ الطَّائِرُ: پرندہ کے نئے پروں کا گرنا۔
حَسِرَ ـَ حَسَرًا و تَحَسَّرَ علی: افسوس کرنا۔
حَسْرَةٌ: افسوس، پچھتاوا۔
التَحَسُّرُ علی شيء: کف افسوس ملنا۔
حَاسِرُ الرَّأس: برہنہ سر، ننگے سر۔
حَسِسَ ـَ و حَسَّ ـَ حَسًّا: نرم دل ہونا۔
حَسَّسَه تَحْسِيسًا: ٹٹولنا۔
حَسَّ ـِ حَسًّا و حِسًّا و أَحَسَّ: محسوس کرنا۔
ـــ الحِصَانَ: گھوڑے کی مالش کرنا، کھریرا کرنا۔
تَحَسَّسَ الخَبَرَ: دریافت کرنا، جستجو کرنا۔
حِسٌّ: آہٹ، ہلکی آواز، فہم، احساس۔
حِسٌّ، حَسٌّ، إِحْسَاسٌ: شعور، احساس، جذبہ۔
حِسٌّ صَادِق: فہم صائب۔
حِسٌّ مُرْهَف: بیش حساسیت۔

أحَاسِيس: جذبات، احساسات۔
حَسَّاس: نازک۔
حَسَّاسِيَّة: نزاکت، دکھتی رگ (۲) قابلیتِ تاثر۔
حَسَّاسِيَّةٌ مَعَ فُلان: کسی کے ساتھ رنجش۔
حَسَّاسِيَّات: رنجشیں۔
تَحَسُّسُ الأمرِ: جستجو کرنا۔
تَحَسُّسُ الخبرَ: دریافت کرنا، جستجو کرنا۔
حَسَّاسٌ: باشعور۔
مِحَسَّةٌ: کھریرا جس سے گھوڑے کو ملا جائے۔
حَسَكٌ و : حَسَكَةٌ: کانٹا۔
__ السَّمَكِ: مچھلی کی ہڈی، کانٹا۔
__ السُّنبُلَة: خوشہ کا کانٹا۔
حَسَكِيٌّ: خاردار۔
حَسَمَ ـــ حَسْمًا: (۱) کاٹنا، جڑ سے اکھاڑنا، الگ کرنا (۲) ختم کرنا (۳) رگ کاٹ کر اس پر داغ لگا دینا۔
حَسْمٌ: کاٹ، کمی، قطعیت، فیصلہ۔
حَسْمُ الإضْرَاب: اسٹرائک ختم کرنا۔
حَسْمُ المُشْكِلَة: مسئلہ کو ختم کرنا۔
حَسَمَ المَوْقِفَ لِصَالِحِه: کسی صورتحال کو اپنے حق میں کرنا۔
حَسْمُ النِّزاعِ: جھگڑا چکانا۔
حَاسِمٌ: قطعی، فیصلہ کن، نازک۔
حُسَامٌ: تیز تلوار۔
حُسُوم: نحوست۔
أيَّامٌ حُسُوم: منحوس ایام۔
حَسُنَ ـــ حُسْنًا: بہتر ہونا، عمدہ ہونا۔

بِحُسْنِ قَصْدٍ: نیکی نیتی سے۔
بِحُسْنِ نِظَامٍ و تَرْتِيبٍ: اچھی طرح، سلیقہ کے ساتھ۔
تَحْسِين ج: تَحْسِينَات: اصلاحات، خوبیاں۔
تَحْسِينُ الأخْلَاق: اخلاق سنوارنا۔
تَحْسِينُ الإنْتَاج: پیداوار کو بہتر بنانا۔
تَحْسِينُ الأوْضَاعِ الاقتِصَادِيَة: اقتصادی حالات درست کرنا۔
تَحْسِينُ التَّعَاوُنِ الدُّوَلِيِّ فِي مَجَالِ كذا: کسی میدان میں بین الاقوامی تعاون کو بہتر بنانا۔
تَحْسِينُ الخَدَمَات: سروس کو بہتر بنانا۔
تَحْسِينُ العَلَاقَات: تعلقات کو بہتر بنانا۔
تَحْسِينُ المَرْكَزِ: پوزیشن درست کرنا۔
تَحْسِينَات: اصلاحات۔
تَحْسِينَاتٌ إضَافِيَّة: زائد خوبیاں۔
تَحْسِينَاتٌ مُوسَّعَة: زبردست اصلاحات۔
تَحَسُّنُ شيءٍ: بہتری، سدھار، اچھا ہونا، اصلاح ہونا، آراستہ ہونا۔
تَحَسُّنُ الخُلُق: اخلاق سنورنا۔
تَحَسُّنُ الشَّيُ عَنْ ذِي قَبْلُ: پہلے سے حالت بہتر ہونا۔
تَحَسُّنُ المَرْكَزِ الاجتِمَاعِيِّ: معاشرتی پوزیشن بہتر ہونا۔

حَاسَنَہ: نیک سلوک کرنا۔
أَحْسَنَ الیہ: احسان کرنا، بھلائی کرنا، اچھا سلوک کرنا۔
أَحْسَنَ اسْتِخْدَامَ شَیْءٍ: صحیح استعمال کرنا۔
اِسْتِحْسَان: پسند کرنا، اچھا سمجھنا (۲) پسندیدگی۔
حُسْنٌ: جمال، خوبی، بہتری۔
حُسْنُ القَصْد و النِیة: نیک نیتی۔
حُسْنُ الجوَار: دوستانہ برتاؤ، اچھا پڑوس۔
حُسْنُ السُّمْعَة: نیک شہرت۔
حُسْنُ النِیة: نیک نیتی، خیر خواہی۔
بِحُسْنِ قَصْدٍ: نیک نیتی سے۔
حَسَنٌ: بہتر، خوبصورت، اچھا، گڈ۔
حُسْنَاءُ: حسینہ۔
مَحَاسِنُ: خوبیاں و: حُسْنٌ۔
حَسَنَة: احسان، نیک عمل، صدقہ، اعلیٰ صفات ج: حَسَنَات۔
الحُسْنیٰ: نیک انجام۔
حَسَا ـُ حَسْوًا و تَحَسّٰی و احْتَسٰی: پینا، تھوڑا تھوڑا پینا (۲) چوسنا (۳) پرندے کا چونچ سے پینا۔
حَسْوٌ، حَسَاءٌ (صُبَّة): سوپ۔
حَسْوَةٌ: ایک گھونٹ۔

ح .... ش

حَشَدَ ـُ حَشْدًا: اکٹھا کرنا۔
ـــ الجَیْش: فوج کو جمع کرنا۔
ـــ و حَشَّدَ: ڈھیر لگانا۔
احْتِشَاد و تَحَشُّد: اکٹھا ہونا، سمٹنا۔

حَشْدٌ ج: حُشُود و أَحْشَادٌ: اجتماع، مجمع، ہجوم۔
حَشْدٌ عَسْكَرِيّ: فوجی اجتماع۔
حَشْدُ اسْتِعْدَادٍ عَسْكَرِيٍّ وَاسِعِ النِّطَاق: بڑے پیمانہ پر فوجی نقل و حرکت کرنا۔
حَشْدُ الأَسْلِحَة: اسلحہ بندی، ہتھیار جمع کرنا۔
حَشَرَ ـِ حَشْرًا: جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔
حَشْرٌ: اجتماع، ہجوم، بھیڑ۔
حَشَرَة ج: حَشَرَات: کیڑا۔
حَشَرَاتٌ زَاحِفَة: رینگنے والے کیڑے۔
حَشَرَاتٌ طَيَّارَة: اڑنے والے کیڑے۔
حَشْرَجَة: موت کے وقت کی آواز۔
حَشْرَجَةُ القَتْلٰی: میدان جنگ کی چیخ و پکار۔
حَشَّ العُشْبَ ـُ حَشًّا: گھاس کاٹنا۔
احْتَشَّتِ الیَدُ: ہاتھ شل ہو جانا۔
حَشِیْشٌ: (۱) ہری گھاس (۲) خشک گھاس۔
حَشِیْشَةٌ: ایک خاص قسم کی گھاس۔
ـــ التَّخْدِیْر: بھنگ، نشہ آور گھاس۔
حَشَّاشٌ: گھاس فروش، گھسیارا۔
مِحَشٌّ: درانتی (گھاس کاٹنے کی)۔
حَشَفَ ـِ حَشْفًا: دودھ خشک ہونا۔
حَشَمَ ـِ حَشْمًا و حُشُوْمًا: (۱) شرمندہ ہونا (۲) ناراض کرنا۔
حَشِمَ ـَ حَشَمًا: شرمندہ ہونا (۲) ناراض ہونا۔
تَحَشُّم و احْتِشَام: (۱) شرمندہ ہونا (۲) ناراض ہونا (۳) حیا، ندامت، تمیز۔
حَشَمٌ (حَاشِیَة) ج: أَحْشَام: خدام، ہمراہی۔

حَشمَةٌ إِحتِشَام: حیا، ندامت، تمیز۔
حَشِيمٌ، مُحتَشِمٌ: شرمیلا، نادم۔
حَشَا ـُـ حَشوًا: (۱) بھرنا، بھراؤ کرنا (۲) بھرتی بھرنا۔
حَشَا الوِسَادَةَ بِالقُطنِ: تکیہ یا گدے میں روئی بھرنا (۳) کلام یا عبارت میں ضرورت سے زائد الفاظ کی بھرتی کرنا۔
حَشَا السِّلَاحَ النَّارِيَّ: آتشیں ہتھیار میں بارود وغیرہ بھرنا۔
حَشوٌ، حَشوَة: بھرتی، وہ چیز جو بھری جائے۔
حَشوٌ: ہتھیاروں کا مسالہ و: حَشوَة۔
حَشوَةٌ: پیکنگ کا سامان، بھراؤ کا سامان۔
حَش أَحشَاء: انتڑیاں، آنت، جوف، اندرونی حصہ۔
حَشِيَّة ج: حَشَايَا و حِشِيَّات: گدا جس میں روئی، اون یا پھونس وغیرہ بھرا ہوا ہو۔
مَحشُوٌّ: بھرا ہوا۔
بُندُقِيَّة مَحشُوَّةٌ: بھری ہوئی بندوق۔
حَشّٰى تَحشِيَةً: گوٹ لگانا، بورڈر بنانا، کتاب پر حاشیہ لکھنا۔
حَشّٰى بَينَ الأَسطُرِ: بین السطور لکھنا۔
حَاشَى و تَحَاشَاهُ: مستثنیٰ کرنا۔
تَحَشّٰى و تَحَاشٰى عن: بچنا، کنارہ کش ہونا، اجتناب کرنا، ایک طرف ہونا۔
حَشيٰ ج: أَحشَاء: حَشَا
حَاشَا: سوی، علاوہ۔
حَاشَا لَکَ أَن تَفعَلَ کَذَا: خبردار تم ایسا نہ کرنا۔
حَاشَا لِلّٰهِ، لَا سَمَعَ اللّٰهُ: خدانخواستہ۔

حَاشِيَة: نوٹ، فٹ نوٹ، گردوپیش کے لوگ، مصاحبین ج: حَوَاشٍ۔
حَاشِيَة: (۱) گوٹ، کنارہ، بورڈر (۲) حاشیۂ کتاب (۳) خدام۔
رِجَالُ الحَاشِيَة: مصاحبین، خدام۔

ح.........ص

حِصَان ج: أَحصِنَة و حُصُنٌ: گھوڑا۔
حَصَبَ ـُـ حَصبًا: پتھر یا سنگ ریزہ مارنا، کنکر پھینکنا۔
__ فی الأَرضِ: جانا، چلنا۔
__ منه: بھاگنا۔
حَصِبَ ـَـ حَصَبًا و حُصبَ: کھسرا میں مبتلا ہونا، کھسرا نکلنا۔
حَصبٌ، حَصبَاء: کنکر، سنگ ریزہ و: حَصبَة۔
الحَصبَةُ: کھسرا، ایک قسم کی بیماری۔
حَصحَصَة: ظاہر ہونا، حق ظاہر ہونا۔
حَصَدَ الزَّرعَ ـُـ حَصدًا: کھیتی کاٹنا۔
حَصَدَ الشَّيءَ: نتیجہ پانا، پھل پانا۔
حِصَاد: کھیتی کٹنے کا وقت۔
حَصَاد: کمائی، ماحصل۔
حَصِيد و حَصِيدَة: کٹی ہوئی کھیتی، پیداوار۔
حَاصِدٌ: کھیتی کاٹنے والا، پھل یا نتیجہ پانے والا، نفع اٹھانے والا۔
حَصَّادَة، مِحصَدَة: کھیتی کاٹنے کی مشین ج: مَحَاصِدُ۔
مِحصَدَة: درانتی جس سے کھیت کاٹا جاتا ہے ج: مَحَاصِدُ۔
حَصَرَ ـُـ حَصرًا: احاطہ کرنا، محصور کرنا، قید

کرنا، روکنا، محدود کرنا، محصور کرنا۔
مَحْصُوْر: گھرا ہوا۔
حَصَرَ كَلِمَةً او عِبارَةً: لفظ یا عبارت کو بریکٹ میں کرنا۔
___ و حَاصَرَ المَكانَ: محاصرہ کرنا، گھیرا ڈالنا۔
إِنْحِصَارٌ فی كذا: محدود ہونا۔
حَصْرٌ: قید، رکاوٹ، انحصار، محاصرہ۔
حُصْرٌ: پیشاب کا بند۔
بِالْحَصْرِ: ٹھیک ٹھیک، تحقیقی طور پر۔
عَلامَةُ الحَصْرِ: بریکٹ۔
(۱) هِلالَانِ ( )
(۲) عِضادَتَان [ ]
يَفُوقُ الحَصْرَ: بے شمار، لاتعداد۔
حَصِيْرٌ: (۱) قید، جیل (۲) بوریا، چٹائی ج: حُصُرٌ۔
حَصِيْرَة ج: حَصَائِر: (۱) چٹائی، بوریا، چق۔
حَصِيْرَة الشُّبَّاك: چق۔
___ خَشَبِيَّة: لکڑی کا آڑا سا بان۔
حِصَارٌ: محاصرہ، گھیراؤ، احاطہ، ناکہ بندی۔
حِصَارٌ اقْتِصَادِيّ: اقتصادی ناکہ بندی۔
حِصَارٌ تَمْوِيْنِيّ: غذائی ناکہ بندی۔
رَفْعُ الحِصَار: محاصرہ ختم کرنا۔
مُحَاصَرَة: ناکہ بندی کرنا، محاصرہ کرنا، گھیراؤ، ناکہ بندی۔
حَصَّ الشَّعْرَ ـُ حَصًّا: بال مونڈنا۔
حَصَّ ـَ حَصَصًا: بے بال یا کم بال والا ہونا۔
حَصَّهُ ـُ حَصًّا و أَحَصَّهُ: حصہ دینا۔
حَاصَّهُ مُحَاصَّةً: حصہ لینا، حق لینا۔

حِصَّة: ٹکڑا، شیر، حصہ ج: حِصَص۔
___ دِرَاسِيَّة: پریڈ ج: حِصَص۔
حَصُفَ ـُ حَصَافَةً: صائب الرائے ہونا، عقلمند ہونا، دوراندیش ہونا۔
حَصَافَة: اصابتِ رائے، دانشمندی، دور اندیشی۔
حَصَلَ ـُ حُصُوْلاً: حاصل ہونا، جاری ہونا، واقع ہونا، پیش آنا۔
___ عَلی: حاصل کرنا، وصول کرنا، پانا۔
حَصَّلَ الكَلامَ تَحْصِيْلاً: کلام کا حاصل نتیجہ نکالنا (۲) کلام کو اپنے مفاد کے مطابق بنانا۔
حَصَّالَة: منی بکس، روپے جمع کرنے کا بکس۔
حَصَّالَةُ النُّقُوْد: سیونگ بکس، روپے جمع کرنے کا بکس۔
مُحَصِّل: کلکٹر، وصول کنندہ۔
مُحَصِّلُ السَّيَّارة: کنڈیکٹر۔
مُحَصِّلُ الضَّرائِب: ٹیکس کلکٹر۔
مُحَصِّلُ القِطَار: ٹی ٹی۔
حُصُوْل: یافت، وقوع۔
حُصُوْلُ التَّاجِرِ عَلی الطَّلَبات: آرڈر لینا۔
حُصُوْلُ الشَّعْبِ علی مُسَانَدةٍ: عوام کا مدد حاصل کرنا۔
الحُصُوْلُ عَلَی الأَغْلَبِيَّةِ المُطْلَقَة من شیٔ: مطلق اکثریت حاصل کرنا۔
الحُصُوْلُ عَلَی التَّدْرِيْب: ٹریننگ حاصل کرنا۔
الحُصُوْلُ عَلَی التَّعْلِيْم: تعلیم حاصل

کرنا۔
الحُصُولُ على الحُقُوق: حقوق حاصل کرنا۔
الحُصُولُ على دَرَجةِ الامْتِيَاز: (امتحان میں) فرسٹ پوزیشن حاصل کرنا۔
الحُصُولُ عَلَى السُّلُطَات: اختیارات حاصل کرنا۔
الحُصُولُ عَلَى السَّيْطَرة: اقتدار حاصل کرنا۔
الحُصُولُ عَلَى الشَّعْبِيَّةِ عِنْدَ الرأيِ العَامّ: عوام میں مقبولیت حاصل کرنا۔
الحُصُولُ على الضَّرِيبَة: ٹیکس وصول کرنا۔
الحُصُولُ على الضَّمَانَاتِ الكَامِلَة: ہر قسم کی گارنٹی حاصل کرنا۔
الحُصُولُ على الكَأسِ فى السِّبَاق: ریس کی ٹرافی حاصل کرنا۔
الحُصُولُ على مَقْعَدِ: سیٹ حاصل کرنا۔
الحُصُولُ على مَعرِفَةِ لأَحَد: واقفیت حاصل کرنا۔
حُصُولُ المَأمُورِ على أَمْرٍ مِنْ رَئِيسِهِ: ملازم کا اپنے افسر سے آرڈر لینا۔
حَصِيلَة: مجموعہ، حاصل، پیداوار، نتیجہ۔
__ المَال: آمدنی۔
__ الجَمْع: ٹوٹل، میزان، حاصلِ جمع۔
حَاصِلٌ: پیداوار ج: حَاصِلَات۔
حَاصِلَاتٌ شَتَوِيَّة: موسم سرما کی پیداوار۔
مَحْصُول: پیداوار، آمدنی ج: مَحَاصِيلُ۔
مَحْصُولٌ مِنَ المُسْتَعْمَرات: نوآبادیات کا محصول۔
مَحْصُولٌ وَ فِير: کثیر پیداوار۔
تَحْصِيلُ الكَمْبِيَالَات: بلوں کی وصولیابی۔
حَصُنَ ـُ حَصَانَةً: محفوظ و مضبوط ہونا۔
حَصُنَتِ المَرْأَةُ: پاکدامن ہونا۔
تَحْصِين، إِحْصَان: (۱) مضبوط و مستحکم بنانا (۲) مضبوطی، تقویت، قلعہ بندی۔
خَطَّ التَّحْصِينِ أو الدِّفَاع: مورچہ، دفاعی لائن۔
تَحَصُّن: مضبوط بن جانا، قلعہ بند ہونا، طاقتور بن جانا (۲) پاکدامن بن جانا۔
تَحَصِين: استحکام۔
تَحْصِينَات: قلعہ بندیاں۔
اسْتِحْصَانَات: قلعہ بندیاں۔
حِصْنٌ ج: حُصُون و أَحْصَانٌ، و حِصَنَة: قلعہ، محفوظ جگہ۔
حَصَانٌ و حَاصِن: پاکدامن عورت۔
حَصَانَة: تحفظ۔
حَصَانَةٌ دِبْلُو مَاسِيَّة: ڈپلومیٹک تحفظ۔
حِصَانٌ: گھوڑا۔
قُوَّة (كذا) حِصَان: اتنے ہارس پاور۔
هٰذا المُحَرِّكُ بِقُوَّةِ ۳ حِصَانَاتٍ: یہ موٹر تین ہارس پاور کا ہے، یعنی تین گھوڑوں کی طاقت کے برابر ہے۔
حَصَانَة: حفاظت، استحکام، مضبوطی۔

___ ضِدَّ المَرَض: بیماری سے بچاؤ، تحفظ۔
حَصِین: مضبوط، طاقتور، مستحکم۔
مُحَصَّنٌ: مضبوط، مستحکم۔
مُحَصَّنَة و مُحْصَنَة: شادی شدہ عورت، عفیفہ، پاکدامن۔
حَصَا ـُ حَصْوًا: روکنا، منع کرنا۔
حَصَى ـِ حَصْیًا: کنکر پھینکنا، پتھر مارنا۔
حَصَاةٌ، حَصْوَةٌ: سنگ ریز، پتھر، کنکر۔
___ بَوْلِیَّة: پتھری جو پیشاب کی راہ سے نکلتی ہے۔
إِحْصَاء: شمار کرنا، گننا (۲) اعداد و شمار ج: إِحْصَاءَات۔
إِحْصَاءَاتُ السُّكَّان: مردم شماری۔
إِحْصَاءُ النُّفُوس: مردم شماری۔
إِحْصَائِیَّة: اعداد و شمار، مردم شماری۔
إِحْصَائِیّ: اعداد و شمار سے متعلق، مردم شماری کے بارے میں۔

ح......ض

حَضَرَ ـُ حُضُورًا: (۱) آنا، موجود ہونا (۲) شریک جلسہ وغیرہ ہونا (۳) عدالت میں پیش ہونا۔
___ و تَحَضَّرَ و احْتَضَرَ: شہر میں رہنا، شہری زندگی اختیار کرنا، متمدن بننا۔
التَحَضُّر: مہذب بننا۔
حُضُورُ اللَّجْنَةِ إِلَى مَكَان: کمیشن آنا۔
حُضُورُ مُقَابَلَةٍ: انٹرویو میں شریک ہونا۔
حَضَّ تَحْضِیرًا: (۱) تیار کرنا (۲) متمدن بنانا۔
التَّحْضِیر: تیاری، تیار کرنا۔
التَحْضِیرُ لِلمُؤْتَمَر: کانفرنس کی تیاری۔
مُحَضِّر: حاضر کنندہ، رپورٹ منضبط کرنے والا۔
مُحَضِّرُ المَحْكَمَة: حاضر عدالت کرنے والا، سمن لانے والا، اہل کار عدالت۔
إِحْضَار: لانا، حاضر کرنا، پیش کرنا۔
حَاضَرَه مُحَاضَرَةً: (۱) غالب آنا (۲) لیکچر دینا۔
أُحْتُضِرَ: موت آئی۔
اسْتِحْضَار: منگانا، طلب کرنا۔
مُسْتَحْضَرَات: سامان، تیار کردہ اشیا۔
تَحَضُّر: تیاری (۲) تمدن۔
حَضَرٌ و حَضَارَة: تمدن، شہریت، تہذیب ج: حَضَارَات۔
حَضَارَةٌ تَسْمُو بِالإِنْسَان: انسان کو بلند مقام عطا کرنے والی تہذیب۔
حَضَارَةٌ مُنْحَلَّةٌ: زوال پذیر تہذیب۔
حَضَارِیّ، حَضَرِیٌّ: تمدنی، شہری، تہذیبی۔
حَضْرَة: مسٹر، جناب۔
حَضْرَةُ السَّیِّدَة: معزز خاتون۔
حَضَرَات: معززین۔
حَضَرَاتُ السَّادَة: معززین کرام، معزز حضرات۔
حُضُور و حَضْرَة: موجودگی، وجود، حاضری۔
فی حَضْرَةِ، بِحُضُورِ: سامنے، موجودگی میں۔
حَضْرَتُكُم: (تعظیمی لقب) آپ، جناب۔
حُضُورٌ: حاضری، شرکت جلسہ وغیرہ۔
___ الذِّهْن: حاضری دماغی۔

__ البَدِیهة: حاضر جوابی۔
حَاضِرُ البَدِیهَة: حاضر دماغی۔
حَاضِرٌ: موجود، تیار، جی، یس۔
__ الذِّهن أو الفِکر: حاضر دماغ۔
فِی الوَقْتِ الحَاضِرِ: آج کل، فی زمانہ۔
حَاضِرَة ج: حَوَاضِر: پایۂ تخت، مرکزِ حکومت۔
تَحْضِیر: تیار کرنا، مہیا کرنا۔
تَحْضِیرِیّ: تیاری والا، تمہیدی۔
مُحْضِرُ المَحْکَمَة: حاضر عدالت کرنے والا، سمن لانے والا، اہل کارِ عدالت۔
مَحْضَر: ریکارڈ، رپورٹ، روئداد، میمورنڈم، رجسٹر کارروائی ج: مَحَاضِر۔
مَحْضَرُ وَقَائِع الجَلْسَة: میٹنگ کی روئداد، کارروائی جلسہ۔
مَحْضِرٌ: دربار، موجودگی۔
مَحْضُوْر و مُحْتَضَر: (مَکَانٌ مَسْکُوْنٌ بِالجِنّ) آسیب زدہ جگہ جہاں جنّات رہتے ہوں۔
مُحَاضِرٌ: لیکچرر، اسپیکر۔
مُحَاضَرَة ج: مُحَاضَرَات: لیکچر، تقریر، خطبہ، مقالہ۔
مُحْتَضَر: لبِ دم۔
حَضَہ ـُ حَضًا: اکسانا، ابھارنا۔
حَضِیض: پستی، (ضدّ أوج) کھڈ، غار، پہاڑ کی زیریں زمیں ج: حُضُض۔
بَلَغَ الحَضِیضَ: پستی کو پہنچنا۔
حَضَنَ ـُ حَضْنًا و حِضَانَةً: سینے سے لگانا، گود لینا۔
اِحْتَضَنَ بِشَیْءٍ: اپنانا (۲) ہم آغوش ہونا، گود میں لینا، آغوش میں لینا۔
حَضَنَ ـُ حَضَانَةً: پرورش کرنا۔
__ الطَّیْرُ بَیْضَه: پرندہ کا انڈے کو سینا، انڈے پر بیٹھنا۔
تَحَضَّنَ: آغوش میں لینا۔
حَضْنٌ: پرورش، گود کھلائی۔
حِضْنٌ ج: أَحْضَانٌ: گود، آغوش۔
حِضَانَة: پرورش، دایہ گری، نرسنگ، اپنائیت۔
حَاضِنَة: دایہ، بچوں کی پرورش کرنے والی، نرس ج: حَوَاضِن۔

ح .... ط

حَطَبَ ـِ حَطْبًا و احْتَطَبَ: لکڑیاں چننا۔
حَطَبٌ ج: أَحْطَابٌ: جلانے کی لکڑی۔
حَطَّابٌ: لکڑہارا۔
حَطَّ ـُ حَطًّا و احْتَطَّ: اترنا، نیچے رکھنا۔
__ الطَّائِرُ: پرندہ کا اترنا۔
__ السِّعْرُ: بھاؤ گرنا، کم ہونا۔
حَطَّتِ الطَّائِرَةُ: ہوائی جہاز کا گرنا۔
حَطَّ الرِّحَالَ: پڑاؤ ڈالنا، قیام کرنا۔
حَطَّ مِنْ قَدْرِہٖ أو شَرَفِه ـُ حَطًّا: کسی کا وقار گرانا، حیثیت کم کرنا۔
__ مِن قِیمَتِه: حیثیت کم کرنا۔
انْحَطَّتْ صِحَّتُه: صحت خراب ہوگئی، گرگئی۔
حَطٌّ: کمی، گھٹاؤ۔
حِطَّة: اہانت، بے عزتی۔
أَحَطُّ: کم درجہ کا، کم حیثیت۔

انحِطَاط: گراوٹ، زوال، کمزوری، پسماندگی، تنزل، کمی۔
مَحَطٌّ: جگہ، جائے نزول، قیام گاہ۔
مَحَطُّ الأَنظَار: مرکز توجہ۔
مَحَطَّة ج: مَحَطَّات: اسٹیشن، ڈپو، اسٹیج۔
مَحَطَّةُ الإذَاعَة: ریڈیو اسٹیشن۔
مَحَطَّةُ الإذَاعَةِ اللّاسِلْكِيَّة: براڈ کاسٹنگ اسٹیشن۔
مَحَطَّةُ الأَرْصَاد: مرکز موسمیات، موسمیاتی اسٹیشن۔
مَحَطَّةُ إطْلَاقِ مَرْكَبَاتِ الفَضَاء: خلائی اسٹیشن۔
مَحَطَّةُ بِنْزِين: سروس اسٹیشن، پٹرول پمپ۔
مَحَطَّةُ التَّجْرِبَة: تجربہ گاہ۔
مَحَطَّةُ التَّصْدِير: ڈسپیچنگ اسٹیشن، مرکز روانگی مال۔
مَحَطَّةُ تَعْبِئَة: پیکنگ اسٹیشن، پیکنگ ہاؤس۔
مَحَطَّةُ تَوْلِيد: پلانٹ پاور۔
مَحَطَّةُ تَوْلِيدِ القُوَى الكَهْرَبائِيَّة: بجلی پاور اسٹیشن۔
مَحَطَّةُ سِكَّةِ الحَدِيد: ریلوے اسٹیشن۔
مَحَطَّةُ طَيَرَان: ایرپورٹ، ہوائی اڈہ۔
مَحَطَّةٌ لِلطَّاقَة: توانائی اسٹیشن۔
مَحَطَّةُ المِيَاه: واٹر ورکس۔
مَحَطَّةٌ نَوَوِيَّة: ایمی پاور ہاؤس۔

مُنْحَطّ: پست، کم درجہ، نچلا۔
حَطَمَ ـِـ حَطْمًا و حَطَّمَ: توڑنا، چورہ چور کرنا، ریزہ ریزہ کرنا۔
حَطَّمَ الرَّقْمَ القِيَاسِيَّ: ریکارڈ توڑنا۔
تَحَطَّمَ و انحَطَمَ: ریزہ ریزہ ہوجانا، چورہ چورہ ہوجانا، ٹوٹ جانا۔
تَحَطُّمُ الأَرْقَامِ العَالَمِيَّة: بین الاقوامی ریکارڈ ٹوٹ جانا۔
تَحَطُّمُ طَائِرَة: ہوائی جہاز کی بربادی۔
تَحْطِيمُ الجُهُود: کوششوں کو پامال کرنا۔
تَحْطِيمُ الذَّرَّة: ایٹم پھاڑنا۔
تَحْطِيمُ الرُّوحِ المَعْنَوِيَّة: حوصلہ پست کرنا، مورل گرانا۔
تَحْطِيمُ القَلْب: دل شکنی۔
حُطَامٌ، حِطْمَةٌ: ٹوٹن، ملبہ، چورا۔
مُحَطِّمُ الأَعْصَاب: اعصاب شکن، بدن توڑ۔

ح............ظ

حَظَرَ عليه الشيءَ ـُـ حَظْرًا و حِظَارًا: ممنوع کرنا، ممانعت کرنا۔
حَظَرَه ـِـ حَظْرًا: روکنا۔
ـــ المَوَاشِي: مویشی کو باڑھ میں رکھنا۔
حَظْرٌ: ممانعت، رکاوٹ۔
حَظْر: پابندی۔
حَظْرُ التَّجَارِبِ النَّوَوِيَّة: نیوکلیر تجربات پر پابندی۔
حَظْرُ التَّجَوُّل: کرفیو۔
حَظْرُ التَّصْدِير: ایکسپورٹ کی ممانعت۔
حَظْرُ حِيَازَةِ الأَسْلِحَة: ہتھیاروں پر پابندی۔

حَظْرُ العُبُودِیَّة: خاتمۂ غلامی۔
حَظْرٌ علی الأسلِحة: ہتھیاروں پر پابندی۔
الحَظْرُ عَلَی تَصْدِیرِ النِّفط: پٹرول باہر بھیجنے پر پابندی۔
حَظْرُ النَّشَاطاتِ السِّیاسِیَّة: سیاسی سرگرمیوں پر پابندی۔
حِظَارٌ: رکاوٹ، آڑ، لکڑی کا پردہ یا دیوار جو کمروں میں کھڑی کی جاتی ہے۔
حِظَارٌ و حَظِیرة ج: حَظَائِر: چہار دیواری۔
حَظِیرة ج: حَظَائِر: احاطہ، باڑا۔
__ البَهائِم: مویشی باڑا۔
__ القُدس: جنت۔
__ النُّفُوذ: دائرۂ اثر و رسوخ۔
مَحظُور: ناجائز، ممنوع، خلافِ قانون، ممنوعہ، پابندی لگایا ہوا۔
حَظَّ ـَـ حَظًّا: نصیبہ ور ہونا، صاحبِ قسمت ہونا، خوش نصیب ہونا۔
الحَظُّ حَلِیفُه: کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔
حَظٌّ ج: حُظُوظ: (۱) نصیب، قسمت (۲) حصہ (۳) خوش نصیبی، نیک بختی (۴) فراخیِ مال (۵) خوشی۔
لِحُسنِ الحَظِّ: خوش قسمتی سے۔
لِسُوءِ الحَظِّ: بدنصیبی سے، بدقسمتی سے۔
سَیِّئُ الحَظِّ: بدنصیب۔
حَظِیظ مَحظُوظ: بہرہ ور، خوش۔
حَظِیَ ـَـ بالشَّیْءِ حَظْوَةً: پانا، حاصل کرنا، حصہ پانا۔
حَظِیَ بالحُضُور أو بالمُثُول: شرفِ باریابی حاصل کرنا۔
حَظِیَ بالحُضُور إو بالمُثول: شرفِ باریابی حاصل کرنا۔
حَظِی بتَایِیدٍ قَوِیٍّ ـ حَظْوَةً: زبردست حمایت حاصل ہونا۔
حَظِیَتْ مُبادَرةُ السَّلام بِتائیدٍ قَوِیٍّ فی صُفُوفِ الجَماهِیر: امن وامان کے سلسلے میں پیش قدمی کو عوام میں زبردست تائید حاصل ہوئی۔
حُظْوَة: پوزیشن، رتبہ، مقام، کریڈٹ۔
نَالَ حُظْوةً عِندَه: اس کے نزدیک عزت و مرتبہ حاصل کیا۔

ح.........ف

حَفَدَ ـِـ حَفْدًا و حُفُودًا و حَفَدانًا: دوڑنا، لپکنا، جلدی کرنا، خدمت کرنا۔
حَفِید ج: حُفَدَاء: پوتا، نواسا۔
حَفِیدَة: پوتی، نواسی۔
حَفَرَ ـِـ حَفْرًا و احْتَفَرَ: زمین میں گڑھا ڈالنا، کھودنا۔
__ الکِتابَة: عبارت یا حروف کندہ کرنا، نقش کرنا۔
__ البِئر: کنواں کھودنا۔
__ ثَقْبًا: سوراخ کرنا (سخت چیز میں)۔
__ حُفرةً: گڑھا کھودنا، کسی کو نقصان پہنچانے کی تدبیر کرنا۔
حَفْرُ المَناجِم: کان کنی۔
الحَفْرِیَّات: کھدائی، کھدائی کا کام۔
الحَفْرُ عَلَی الزُّجاج: شیشہ پر کھدائی کا کام۔

حُفرة ج: حُفَر: گڑھا۔
حَفَّارٌ: کھدائی کرنے والا، نقاش، کھدائی مشین۔
ـــ القُبور: گورکن۔
حَافِرٌ ج: حَوَافِر: کھر۔
حَفَزَ ـِ حَفْزًا: نیزہ مارنا، دھکا دینا۔
تَحَفَّزَ و احْتَفَزَ لِلْعَمَل: تیار ہونا، آمادہ ہونا، داؤ لگانا
حَافِزٌ: محرک، ج: حَوَافِز۔
حَوَافِزُ: محرکات، اسباب و: حَافِزٌ۔
حَوَافِزُ سِيَاسِيَّة: سیاسی محرکات۔
حَفِظَ ـَ حِفْظًا: حفاظت کرنا، محفوظ کرنا۔
حَفِظَ فِی البَال: ذہن میں رکھنا۔
ـــ المَأكُولاتِ (وغَيرهَا) فی عُلَبٍ: کھانے کی اشیاء کو ڈبوں میں محفوظ کرنا۔
ـــ و حَافَظَ عَلٰی ...... مُحافَظَةً: خیال کرنا، حفاظت کرنا، توجہ دینا۔
ـــ و احْتَفَظَ به: محفوظ رکھنا، حفاظت کرنا، برقرار رکھنا۔
الحِفْظُ بالطَّرِيْقَةِ الأَبْجَدِيَّة: ابجد کے حساب سے فائل بنانا۔
الحِفْظُ فی مِلَفٍ او إضْبَارَة: فائل کرنا۔
حِفْظُ الأَوْرَاق: فائلنگ۔
حِفْظُ الأوراق فی إضْبَارَةٍ: فائلنگ، فائل کرنا، فائل میں کاغذات لگانا۔
حِفْظُ الأوْرَاقِ فی مِلَفٍ: فائلنگ، فائل کرنا۔
احْتَفَظَ الشیٔ و به لِنَفْسه: کسی چیز کو اپنے لئے خاص کر لینا۔
احْتَفَظَ بالرأی: رائے محفوظ رکھنا۔
احتَفَظَ فی الکلام: گفتگو میں محتاط رہنا۔
أحْفَظَ الرَّجُلَ: ناراض کرنا، غصہ دلانا۔
تَحَفُّظ: بچنا، احتراز کرنا، احتیاط برتنا، پیش بندی، رائے محفوظ رکھنا۔
ـــ بالشیٔ: اہتمام کرنا، دیکھ بھال کرنا۔
التَحَفُّظُ التَامُّ: مکمل احتیاط۔
تَحَفُّظات: ریزرویشن۔
الحِفَاظُ علی الثَّوْرَةِ: انقلاب کی حفاظت۔
حَافَظَ علی الشیٔ مُحَافَظَةً: احتیاط کرنا، پابندی کرنا۔
حَافِظُ الوَدِيعَة: محافظ امانت۔
حَافِظَةُ إيْدَاع: ڈپازٹ سلپ، بینک میں رقم جمع کرنے کا فارم۔
حَافِظَةُ تَصْدِيرٍ: ڈیج نوٹ، رقم نکالنے کا فارم۔
حَافِظَةٌ لِلْأَوْرَاق: فولڈر۔
مُتَحَفِّظ: محتاط۔
حَفِيْظَة: بغض، کینہ۔
حَفِيْظَةُ النُّفُوس: پیدائش سارٹیفکٹ۔
مُحَافِظ: گورنر، میئر، روایت پسند، کنزرویٹیو، قدامت پسند، کلکٹر، صوبہ دار، نگراں۔
مُحَافِظ علی المَوَاعِيد: اوقات کا پابند، پابند اوقات۔
مُحَافِظُ علی التَّقَالِيدِ القَدِيمَة: قدیم

رسم ورواج کا پابند۔
مُحَافِظُ القِطَار: ریلوے گارڈ۔
مُحَافِظُ المَدِيْنَة: ڈپٹی کمشنر، حاکم شہر۔
مُحَافَظَة: صوبہ، ضلع، گورنریٹ (۲) قدامت پسندی، روایت پسندی۔
المُحَافَظَةُ على الإِتِّزَان: بیلنس قائم رکھنا۔
المحافظة على الانسجام: بیلنس قائم رکھنا۔
المُحَافَظَةُ على كَرَامَةِ البِلَادِ: ملک کے وقار کو قائم رکھنا۔
المُحَافَظَةُ على النِظَام: ڈسپلن برقرار رکھنا۔
مُحَافِظُون: کنزرویٹیو۔
المُحْتَفِظ بالبِضَاعَة بِالمَخْزَن: اسٹاکسٹ۔
مَحْفَظَة: کیس، غلاف، بستہ، تھیلا، پاکٹ۔
__ الجَيب: چمڑے کا بٹوا، پاکٹ بیگ۔
__ أَوْرَاق: پروٹ فولیو، کاغذات رکھنے کا چمڑے کا تھیلا۔
حَفَّ ـُ حَفًّا: گھیرنا، احاطہ کرنا۔
حَفَّفَ الشَّجَرُ أو الثوبُ: درخت یا کپڑے کی آواز ہونا، سرسراہٹ ہونا۔
حَفَّ ـِ حَفًّا: چھیلنا، چھلکا اتارنا، بال چونٹنا، کترنا۔
حَفِيف: سرسراہٹ، درخت کے پتوں کی آواز۔
حَافَة: (حوف) کنارہ۔
مَحْفُوف: گھرا ہوا۔

مِحَفَّة: اسٹریچر، ڈولی، پالکی۔
مَحْفُوفٌ بالخَطر: ڈینجر، خطرناک۔
حَفَلَ القَوْمُ ـِ حَفْلاً و حُفُولاً و احْتَفَل: جمع ہونا، کسی خاص مقصد سے جمع ہونا۔
__ واحْتَفَلَ به: اہتمام کرنا، دن وغیرہ منانا۔
الاحْتِفَالُ بِأَحَدٍ: خیر مقدم کرنا، خوش آمدید کہنا۔
الاحْتِفَالُ بِالأَمْر: توجہ دینا، اہتمام کرنا۔
الاحْتِفَالُ بالذِّكْرى: یاد منانا۔
الاحْتِفَالُ بِعِيْدٍ: جشن منانا، تقریب منانا۔
حَفْلٌ: مجمع، جلسہ، تقریب، محفل۔
حَفْلُ تَخْرِيْج: جلسہ تقسیم اسناد۔
حَفْلُ التَّوْقِيعِ على: دستخطی تقریب۔
حَفْلٌ خِتَامِيّ: آخری مجلس۔
حَفْلُ عَشَاء: ڈنر پارٹی۔
بِحَفْلِهِمْ و حَفِيْلَتِهِمْ: سب کے سب۔
حَفْلَة: جلسہ، پارٹی، اجتماع، تقریب ج: حَفَلَات۔
حَفْلَةٌ انْتِخَابِيَّة: انتخابی جلسہ۔
حَفْلَةٌ أُوْلَى مِنَ الفِيْلَم: پہلا شو۔
حَفْلَةُ التَّأْبِيْن: تعزیتی جلسہ۔
حَفْلَةُ تَخْرِيْجِ دُفْعَةٍ: کھیپ کی تیاری تقریب۔
حَفْلَةُ الذِّكْرى السَّنَوِيَّة: سالانہ یادگاری تقریب۔
حَفْلَةُ الدَّفْن: اجتماع تدفین۔
حَفْلَةُ الشَّاي: ٹی پارٹی، دعوتِ چائے۔
حَفْلَةُ العُرْسِ: تقریب شادی۔

اِحْتِفَال: (مَوْكِبٌ): جلوس، اجتماع، اجلاس (۲) جشن، کنونشن (۳) کسی خاص مقصد سے جمع ہونا۔
حَافِل: بھرپور، بھرا ہوا۔
مَحْفِل، مُحْتَفَل: محفل، اجتماع، مجلس ج: مَحَافِل۔
مَحَافِلُ دُوَلِيَّة: بین الاقوامی مجالس۔
حَافِلَات: بسیں و: حَافِلَةٌ۔
حُفْنَة ج: حُفَن: دو ہاتھ بھر، مشت بھر۔
حَفِيَ ــَ حَفًا و حِفَايَةً و حِفَاوَةً و احْتَفٰى بـه: عزت کرنا، بے حد اعزاز و اکرام کرنا (۲) چلتے چلتے پیر دکھ جانا، گھس جانا، برہنہ پا ہونا۔
ــــ القَلَمُ: قلم کا لکھتے لکھتے گھس جانا۔
حَفَاوَةٌ و احْتِفَاءٌ به: خیر مقدم، اعزاز و اکرام، آؤ بھگت، استقبال۔
حَافٍ ج: حُفَاة: برہنہ پا۔

ح............ق

حَقّ: (دیکھئے "حقق")۔
حَقِبَ ــَ حَقَبًا: بارش نہ ہونا، قحط پڑنا۔
حُقُبٌ ج: أَحْقَابٌ و حِقَابٌ: اسی سال کا عرصہ، زمانہ دراز۔
حَقَبٌ، حِقَابٌ: پیٹی۔
حِقْبَةٌ: عرصہ، رات، وقت۔
حَقِيبَة ج: حَقَائِبُ: بیگ ٹرنک، سوٹ کیس۔
حَقِيبَةُ يَدٍ: ہینڈ بیگ۔
الحَقِيبَةُ الدِبْلُومَاسِيَّة: سفارتی بیگ، سفارتی اٹیچی۔
حَقَائِبُ سَفَرٍ: لگیج، سامانِ سفر۔
حَقَدَ ــِ حِقْدًا و حَقْدًا و تَحَقَّدَ على: کینہ رکھنا، حسد کرنا، بغض رکھنا۔
إحْقَاد: کینہ ور بنانا، بغض پیدا کرنا۔
حِقْدٌ: کینہ، بغض۔
حَاقِدٌ و حَقُودٌ: کینہ ور۔
حَقَرَ ــِ حَقْرًا و احْتَقَرَ واسْتَحْقَرَ: حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا۔
احْتِقَارُ البَرْلَمَان: پارلیمینٹ کی توہین۔
حَقُرَ ــُ حَقَارَةً: ذلیل ہونا۔
تَحْقِير: بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، مذمت کرنا۔
اِنسلٹ، اِنسلٹ کرنا۔
حَقِيرٌ: ذلیل، بے قیمت، بے حیثیت، معمولی (۲) کمینہ، کم درجہ۔
مُحْتَقَر: لائق تحقیر۔
حَقَّ الأَمْرُ ــُ حَقًّا: ثابت کرنا، حقیقت سے واقف ہونا۔
حَقَّ الأَمْرُ ــِ حَقًّا: ثابت ہونا۔
حَقَّ عليه كذا: واجب ہونا، لازم ہونا۔
حَقَّ الأَمْرُ ــُ حَقًّا: یقین کرنا، حق پانا۔
حَقُّ إِعَادَةِ الطَّبْع: کاپی رائٹ۔
حَقُّ الاعْتِرَاض: ویٹو پاور، حق اعتراض۔
حَقُّ الحَجْزِ والإِيقَافِ: روکنے یا حوالات بھیجنے کا حق۔
حَقُّ التَّصْوِيتِ: ووٹنگ پاور، ووٹ دینے کا حق۔
حَقُّ تَقْرِيرِ المَصِيرِ: قسمت کا فیصلہ کرنے کا

حق، حق خودارادیت۔
حَقُّ النَّقض: حقِ تنسیخ، ویٹو۔
حَقَ الوكَالَة: حق وکالت۔
حُقُوقُ الإمْتِيَاز: حقوقِ رعایت۔
حُقُوقُ التأليف: کاپی رائٹ۔
حُقُوقُ الطَّبع والنَّشرِ مَحفُوظَةٌ: کسی کے لئے حقوق طبع واشاعت محفوظ ہونا۔
الحُقُوقُ المَدَنِيَّة: شہری حقوق۔
حُقُوقٌ مَشرُوعَة: جائز حقوق، قانونی حقوق۔
الحُقُوقُ الوَطَنِية: شہری حقوق۔
تَحقُّق: ثابت ہونا، پایۂ ثبوت کو پہنچنا، یقین حاصل ہونا۔
تَحقُّق الأُمنِيَّة: آرزو برآنا، ارمان نکلنا۔
تَحقُّق الرَّغبَة: آرزو برآنا۔
تَحقُّق التطوّرُ: ترقی ہونا۔
تَحَقُّقُ الأمَل: ارمان نکلنا۔
تَحَقُّقُ الأَمنِ فى مَكَان: امن قائم ہونا۔
حَقَّقَ: ثابت کرنا، جانچ کرنا۔
__ الأمْرَ أو الدَّعوىٰ: کسی معاملہ کی چھان بین کرنا، تحقیق وتفتیش کرنا۔
__ الأمَلَ: امید برلانا۔
__ القَولَ بالفِعل: قول کو عملی جامہ پہنانا۔
__ تَقَدُّمًا فى كذا: آگے بڑھنا، پیشرفت کرنا۔
__ فوزًا: کامیابی حاصل کرنا۔
__ نَجاحًا: کامیابی حاصل کرنا۔

__ نَجاحًا مَطلُوبًا: متوقع کامیابی حاصل کرنا۔
__ هَدَفًا رئيسيًّا: بنیادی مقصد حاصل کرنا۔
اسْتَحَقَّ: واجب کیا، لازم کیا۔
__ له كذا: استحقاق ہوجانا۔
__ الدَّينُ: قرض کی مدت پوری ہو جانا۔
يَستَحِقُّ الدَّفع: واجب الاداء۔
يَستَحِقُّ الذِّكر: قابل ذکر۔
يَستَحِقُّ الاهتِمَامَ: قابل توجہ۔
أحِقيَّة: استحقاق، لیاقت۔
حُقٌّ، حُقَّةٌ: برتن، ظرف۔
حُقُّ الإبرَةِ أو المَلّاحِين: قطب نما، سمت نما۔
حَقٌّ: ٹھیک، صحیح، سچ (۲) حق، کلیم، اختیار۔
الحَقُّ عليك: حق تمہارے خلاف ہے، تم حق پر نہیں ہو۔
الحَقُّ مَعَک: تم حق پر ہو۔
حَقٌّ و حَقِيقَة: صداقت، سچائی، حقیقت، واقعیت، صحت۔
عَلَى حَقِّ: حق بجانب۔
عَن حَقِّ: حق بجانب ہوکر۔
حَقِيقَةً: واقعۃً، یقیناً۔
حَقِيقَةُ الأوضَاع: حقیقت حال۔
حَقِيقَةٌ نَاصِعَة: روشن حقیقت۔
حَقًّا، بالحَقِّ: سچ، واقعی طور پر۔
حَقَّانِيٌّ: برحق، منصفانہ۔
حَقِيقٌ: لائق۔
اسْتِحقَاق: صلاحیت، اہلیت۔
الاستِحقَاقَات: مطالبات۔

تَحْقِیق: چھان بین، تحقیق و تفتیش، دریافت۔
تَحْقِیقُ صِحَّةِ عِلْمِیَّة: علمی جانچ کرنا۔
تَحْقِیقُ الصُّورة المُثلیٰ: مثالی تصویر سامنے لانا۔
تَحْقِیقُ الطُّمُوح: توقع پوری کرنا۔
تَحْقِیقُ العَدَالَة: مساوات پیدا کرنا۔
التَّحْقِیقُ فی کذا: کسی معاملہ کی تحقیق۔
تَحْقِیقٌ قَضَائِیّ: عدالتی تحقیق۔
تَحْقِیقُ المُصَالَحَةِ بینَ شَخْصَین: مصالحت کرانا۔
تَحْقِیقُ المَطَامِح: ارادوں کی تکمیل۔
التَّحْقِیقُ مَعَ فُلَانٍ: کسی سے تحقیق و تفتیش کرنا۔
تَحْقِیقُ المُعَاهَدة: معاہدہ کی عملی تطبیق۔
تَحْقِیقُ مُفَاوَضَاتِ السَّلَام: امن بات چیت کرانا۔
تَحْقِیقُ المَکَاسِب: مفادات حاصل کرنا۔
تَحْقِیقُ المُهِمَّات: مہم سر کرنا ذمہ داریاں پوری کرنا۔
تَحْقِیقُ النُّبُوءَةِ: پیشین گوئی پوری کرنا۔
تَحْقِیقُ النَّصر: فتح حاصل کرنا، کامیابی حاصل کرنا۔
تَحْقِیق: تفتیش کرنا (۲) بروئے کار لانا۔
التَّحْقِیق: حساب وغیرہ چیک کرنا، تفتیش حال کرنا، کتاب وغیرہ ایڈٹ کرنا (۲) انکوائری۔
تَحْقِیقُ الاتِّحَاد: اتحاد پیدا کرنا۔
تَحْقِیقُ أرباح: منافع حاصل کرنا۔
تَحْقِیقُ الأَمَانِیّ: ارمان نکالنا۔
تَحْقِیقُ الأُمْنِیَّة: امید پوری کرنا۔
تَحْقِیقُ الانْتِصَارِ علی کذا: کامیابی حاصل کرنا، فتح کرنا۔
تَحْقِیقُ الإِنْجَازَات: کامیابیاں حاصل کرنا۔
تَحْقِیقُ تَقَدُّم: پیش رفت حاصل کرنا، ترقی کرنا۔
تَحْقِیقُ حَلٍّ سِیَاسِیّ: سیاسی حل کرنا۔
تَحْقِیقُ حَیَاةٍ کَرِیمَةٍ: باعزت زندگی حاصل کرنا۔
تَحْقِیقُ الخَطْوة: اقدام کرنا۔
تَحْقِیقُ رِبْح: نفع حاصل کرنا۔
تَحْقِیقُ السَّلَام: امن قائم کرنا۔
مُحَقَّق: ثابت شدہ۔
مُحَقِّق: تحقیقات کنندہ، انگزامیز، افسر تحقیق۔
المُحَقِّقُون: تحقیق کنندگان، محققین۔
مَحْقُوق: لائق، وہ شخص جس پر دوسروں کا حق واجب الادا ہو۔
مُتَحَقِّق: یقینی، متیقن۔
مُسْتَحِقّ: باصلاحیت، حق دار۔
حَقْل ج: حُقُول: فیلڈ، کھیت، میدان، کالم۔
حَقْلُ التَّعلیم: علمی میدان۔

__ مِنْ صَحِیْفَة: کالم اخبار کا۔
مُحاقَلَة: کھڑی کھیتی خریدنا۔
حقنَ ـِ حقنًا: روکنا (۲) پچکاری دینا، پچکاری سے دوا داخل کرنا۔
__ دمَه: زندگی کی حفاظت کرنا، خونریزی سے بچانا۔
احْتقنَ الرَّجُلُ و حُقِنَ: پچکاری لگنا۔
__ الدَّمُ: خون منجمد ہو جانا۔
حَقْنُ الدِّمَاء: جانوں کی حفاظت، حفاظتِ جان۔
حُقْنَة: پچکاری، انجکشن۔
حُقْنَة دَوَائِيَّة: انجکشن۔
حَقَنَهُ بالدّواءِ ـُ حقنًا: انجکشن لگانا۔
حُقْنَةُ التَّخدیر: سُن کرنے والا انجکشن۔
مِحْقَنَة: سرنج، پچکاری، انجکشن سرنج۔
احْتِقَان: انجکشن لینا (۲) رکاوٹ، جماؤ، حبس۔
حُقْنَة وَرِيْدِيَّة: انٹریونس انجکشن۔
مُحْتَقِنٌ: مجتمع، منجمد۔
حَقَا ـُ حقوًا: کوکھ پر مارنا۔
حَقْوٌ ج: حِقَاءٌ: کوکھ۔

ح.........ک

حَكَرَ ـِ حكرًا و احتكر الشَّيْءَ: روکنا، بلاشرکتِ غیرے اپنے لئے خاص کرنا۔
حَكَرَ واحْتَكَرَ السِّلْعَةَ: سامان کو بوقتِ گرانی فروخت کرنے کے لئے روک رکھنا۔
حَكَرَ وَاحْتَكَرَ السُّوقَ: بازار سے اشیاء کو بوقتِ گرانی فروخت کرنے کے لئے غائب کرنا۔
احْتِكَار: ذخیرہ اندوزی، اجارہ داری (۲) روکنا، اپنے لئے خاص کرنا۔
حُكْرٌ، حَكَرٌ، مُحْتَكَرٌ: جمع کیا ہوا سامان۔
مُحْتَكِر: اسٹاکسٹ۔
حَكَكٌ: چاک، کھریا۔
حَكَّ ـُ حَكًّا: کھرچنا، رگڑنا، گھسنا، سونے وغیرہ کو گھس کر کھرا کھوٹا دیکھنا۔
__ جِلْدَهُ: کھجانا۔
احْتَكَّ بالحَائِط: دیوار وغیرہ سے ٹکرا جانا۔
احتكاك: تصادم۔
الاحْتِكَاكُ بِالمُتَظَاهِرِيْن: مظاہرین سے ٹکراؤ۔
__ بالنَّاس: الجھنا، متصادم ہونا۔
أَحَكَّ واسْتَحَكَّ الجِلْدُ: جلد میں خارش ہونا، کھجلی اٹھنا۔
تَحَكَّكَ به: ٹکر لینا، مقابلہ کرنا۔
حَكٌّ: رگڑ، گھسائی۔
حِكَّةٌ: کھجلی، خارش۔
حَكَّاكُ الأَحْجَارِ الكَرِيْمَة: جواہرات کو تراشنے والا، نگینہ ساز۔
مِحَكٌّ ج: مِحَكَّات: (۱) کسوٹی، ٹیسٹر (۲) کھریا۔
حَكَمَ البِلادَ أو النَّاسَ ـُ حُكْمًا: حکومت کرنا، حکم چلانا، اقتدار رکھنا (۲) حکم کرنا، فیصلہ کرنا۔
حَكَمَ عَلى: کسی کے خلاف فیصلہ کرنا۔
حَكَمَ عليه بالإعْدَام: سزائے موت دینا، پھانسی کا حکم سنانا۔

حَكَمَ عليه بالبراءة ـ حُكمًا: بری قرار دینا۔
حَكَمَ له: کسی کے مفاد میں فیصلہ کرنا۔
حَكَمَ بِالتَّعوِيض: ہرجانہ دیئے جانے کا فیصلہ کرنا۔
حَكَّمَه تَحكِيمًا فی أمرٍ: حکم بنانا (۲) حاکم بنانا (۳) ثالث بنانا۔
تَحكِيم: فیصلہ، پنچایتی فیصلہ، ثالثی فیصلہ۔
حَاكَمَه مُحَاكَمَةً: مقدمہ لڑنا، دائر کرنا۔
حَاكَمَ أمَامَ مَجلِسٍ عَسكَرِيٍّ: فوجی عدالت میں مقدمہ دائر کرنا۔
أحكَمَ السَّيطَرَةَ على: قبضہ مضبوط کرنا، اچھی طرح کنٹرول کرنا۔
أحكَمَ الشئَ: مضبوط کرنا، کام کو ٹھیک طور پر انجام دینا۔
إحكَام: مضبوطی، پختگی، استحکام (۲) فٹنگ (۳) ٹائٹ کرنا۔
اِستِحكَامَات: استحکامات۔
تَحَكَّمَ و احتَكَمَ فی الأمر: من مانی کرنا، خود مختار بن کر کام کرنا۔
اِحتَكَمَ إلَى أحَدٍ: کسی کے پاس مقدمہ لے جانا۔
حُكمٌ: (۱) حکومت واقتدار (۲) فیصلہ، عدالتی فیصلہ، حکم ج: أحكَام۔
حُكم: اتھارٹی، حکومت، فیصلہ۔
حُكم استِبدَادِيّ: ظالمانہ حکومت، استبدادی حکومت، مستبدانہ حکومت، جابرانہ حکومت۔
حُكمُ الأغلَبِيَّة: اکثریت کی حکومت۔
حُكمٌ بالإبعَادِ عَنِ البَلَد: جلاوطنی کا فیصلہ۔
حُكمٌ قَائِمٌ: موجودہ حکومت۔
حُكمٌ قَضَائِيّ: رولنگ، عدالتی فیصلہ۔
حُكمٌ مَحَلِّيّ: مقامی حکومت۔
الحُكمُ المُطلَق: ڈکٹیٹرانہ حکومت، مطلق العنان حکومت، خود مختار حکومت۔
حُكمٌ مَوقُوفُ التَّنفِيذ: فیصلہ جس کی تنفیذ روک دی گئی ہو، مشروط فیصلہ جو فی الحال نافذ نہ ہو۔
حُكمٌ جِنَائِيّ: حکم سزا، عدالتی فیصلہ۔
حُكمُ الإرهَاب: دہشت پسندانہ حکومت۔
حُكمٌ عُرفِيٌّ أو عَسكَرِيّ: مارشل لا۔
حُكمٌ ثُنَائِيّ أو مُشتَرَك: دو ملکوں کی مشترک حکومت واقتدار۔
حُكمُ الحَكَمِ أو لَجنَةِ التَّحكِيم: ثالثی فیصلہ، پنچایتی فیصلہ۔
حُكمُ الشَّخصِ الَّذِی يَقُومُ بالتَّحكِيم: ثالث یا پنچ کا فیصلہ۔
حُكمٌ عَسكَرِيّ: مارشل لا، فوجی حکومت۔
حُكمٌ على مَصَايِرِ النَّاس: لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرنا۔
الحُكمُ النِّهَائِيّ: آخری فیصلہ۔
الحُكمُ بالإعدَام: سزائے موت۔
الحُكمُ بإشهَارِ إفلَاس: مفلسی کے اعلان کا فیصلہ۔
الحُكمُ بالبراءة: بری ہونے کا فیصلہ۔
الحُكمُ بالسِّجن مَدَى الحَيَاة علَى

فُلان: کسی کو عمر قید کی سزا دینا۔
الحُکمُ بِطَبِیعَةِ الحَال: صورتحال کے مطابق فیصلہ۔
الحُکمُ بالقَسوةِ والإرْهَاب: ظلم و بربریت کا فیصلہ۔
الحُکمُ بِوَحیٍ مِنَ الضَّمِیر: ضمیر کی آواز پر فیصلہ کرنا۔
الحُکمُ التَّمثِیلِیّ: نمائندہ حکومت۔
حُکمٌ دُستُورِیٌ: آئینی حکومت۔
الحُکمُ الدِّیمُقرَاطِیّ: جمہوری حکومت۔
الحُکمُ الذَّاتِیّ: حکومتِ خود اختیاری، خود مختار حکومت، خود مختاری۔
حُکمٌ یَشتَمِلُ التَّنفِیذَ: واجب التنفید فیصلہ۔
بِحُکمِ کَذَا: بسبب، بربنا، تحت۔
بِحُکمِ المَنصِب: از روئے عہدہ۔
حَکَمٌ: ثالث، پنچ۔
حِکمدَار: (دا) حاکم شہر۔
___ البُولِیس: (دا) کوتوال۔
حِکمدَارِیَّة: (دا) کوتوال۔
حِکمَة: دانشمندانہ بات، فلسفہ، دانائی، اصابتِ رائے، طب، پالیسی۔
حِکمَة عَمَلِیَّة: پالیسی، حکمت عملی، طریقہ کار۔
بِحِکمَةٍ: دانشمندی، ہوشیاری سے۔
حُکُومَة: نظم و نسق، فرمانروائی، حکومت، اقتدار، گورنمنٹ، اسٹیٹ، ایڈمنسٹریشن۔
حُکُومَةٌ جُمهُورِیَّة: ری پبلک، عوامی حکومت۔
حُکُومَةٌ مَلَکِیَّة: شہنشاہی حکومت۔
حُکُومَةٌ نِیَابِیَّة: پارلیمنٹری یا نمائندہ حکومت۔
حُکُومَةُ الفَرْد: شخصی حکومت۔
حُکُومَةٌ اِتِّحَادِیَّة: وفاقی حکومت، فیڈرل گورنمنٹ۔
حُکُومَةٌ انتِقَالِیَّة: غیر مستقل حکومت، نگراں حکومت۔
حُکُومَةُ ائتِلَافِیَّة: وفاقی حکومت، اتحادی حکومت۔
حُکُومَةٌ ثَورِیَّة: انقلابی حکومت۔
حُکُومَةٌ دُستُورِیَّة: قانونی حکومت۔
حُکُومَةٌ رَاسِخَة: مضبوط حکومت۔
حُکُومَةٌ شَرعِیَّة: قانونی حکومت۔
حکومة صوریه: (العوبة فی ایدی الغیر) کٹھ پتلی حکومت
حُکُومَةُ العُمَّال: مزدوروں کی حکومت، مزدوروں کی سرکار، لیبر حکومت۔
حُکُومَةٌ عَمِیلَة: ایجنٹ حکومت۔
حُکُومَةٌ فِی المَنفٰی: جلاوطن حکومت۔
حُکُومَةٌ قَومِیَّة: قومی حکومت۔
الحُکُومَةُ المَحَلِّیَّة: لوکل گورنمنٹ۔
الحُکُومَةُ المَرکَزِیَّة: سنٹرل گورنمنٹ، مرکزی حکومت۔
حُکُومَةٌ مَدَنِیَّة: سول حکومت۔
حُکُومَةٌ مَلَکِیَّة دُستُورِیَّة: دستوری شاہی حکومت۔
حُکُومَةٌ مِنَ الیَسَار: بائیں بازو کی حکومت۔
حُکُومَةٌ مِنَ الیَمِین: دائیں بازو کی حکومت۔

حُكُومَةٌ مُوَقَّتَة: وقتی حکومت۔
حُكُومَةٌ وَاقِعِيَّة: حقیقی گورنمنٹ۔
الحُكُومَاتُ المَعْنِيَّة: متعلقہ حکومتیں۔
حُكُومِيٌّ: (۱) سرکاری (۲) شاہی (۳) ریاستی، انتظامی۔
حَكِيمٌ ج: حُكَمَاء: (۱) دانشمند (۲) فلسفی (۳) طبیب (۴) دانشمندانہ۔
حَاكِمٌ ج: حُكَّام: (۱) فرماں روا، حکمراں، آفیسر (۲) گورنر (۳) جج۔
حَاكِمٌ بِأَمْرِه: (مُطْلَقُ السُّلْطَة) ڈکٹیٹر، مطلق العنان فرماں روا۔
حَاكِمٌ بِالوِرَاثَة: فرماں رواں سلاطین کے سلسلہ کا رکن، موروثی حکمراں۔
حَاكِمٌ عَامّ: گورنر جنرل۔
حَاكِمٌ عَسْكَرِيّ: فوجی گورنر۔
حَاكِمٌ مُطْلَقٌ: مطلق العنان حاکم، آزاد حکمراں، خودمختار حکمراں۔
حَاكِمٌ مُطْلَقُ السُّلْطَان: مطلق العنان فرماں روا۔
حَاكِمٌ وَطَنِيّ: قومی فرماں روا۔
إِحْكَام، اِسْتِحْكَام: مضبوطی، پختگی۔
بِإِحْكَام: ٹھیک ٹھیک، مضبوطی سے۔
تَحَكُّم: خودسری، استبداد، ڈکٹیٹرشپ، اقتدار، تحکم۔
التَحَكُّمُ فِي الأَعْصَاب: اعصاب پر کنٹرول۔
تَحَكُّمٌ فِي الأَمْر: من مانی کرنا، خودمختار بن کر کام کرنا۔
التَحَكُّمُ فِي السُّيُول: سیلاب پر قابو پانا۔
التَحَكُّمُ فِي شَيْءٍ: کسی چیز پر کنٹرول کرنا۔
التَحَكُّمُ فِي النَّفس: خود پر کنٹرول کرنا۔
تَحَكُّمِيّ: جابرانہ۔
المُتَحَكِّمُ فِي مَصِيرِ النَّاس: لوگوں کی قسمتوں کا مالک بننے والا۔
مُحْكَمٌ: مضبوط، پختہ، درست، ٹائٹ، سخت، اٹل۔
مُحْكَمُ الإِغْلَاق: ٹائٹ۔
مُحْكَمُ السِّدَاد: مضبوط بند کیا ہوا، پختہ بند کیا ہوا۔
مُحْكَمًا: اچھی طرح۔
مَحْكَمَة ج: مَحَاكِمُ: عدالت، کچہری، کورٹ، ٹریبونل۔
مَحْكَمَةٌ وَطَنِيَّة: قومی عدالت، ملکی عدالت۔
مَحْكَمَةٌ مُخْتَلِطَة: ملکیوں اور غیر ملکیوں کی مشترک عدالت، مخلوط عدالت۔
مَحْكَمَةٌ مَدَنِيَّة: سول کورٹ۔
مَحْكَمَةُ الجِنَايَات: عدالتِ فوجداری جس میں جرائم کبیرہ کے مقدمات پیش ہوتے ہیں۔
مَحْكَمَةٌ جُزْئِيَّة: سمری کورٹ، ماتحت عدالت، عدالتِ خفیفہ جس میں معمولی مقدمات پیش ہوتے ہیں۔
مَحْكَمَةٌ جِنَائِيَّة: عدالت فوجداری جس میں جرائم کے مقدمات پیش ہوتے ہیں۔

مَحْكَمَةُ الجِنَايَاتِ العُليَا: اعلیٰ فوجداری عدالت۔
مَحْكَمَةُ العَدْلِ الدُّوَلِيَّة: بین الاقوامی عدالت۔
مَحْكَمَةٌ عَسْكَرِيَّة: فوجی عدالت (کورٹ مارشل)۔
مَحْكَمَةٌ عَلَنِيَّة: کھلی عدالت۔
المَحْكَمَةُ العُلْيَا: سپریم کورٹ۔
مَحْكَمَةُ الاِسْتِئْنَاف: عدالتِ بالا، اپیل کورٹ، کورٹ آف اپیل، ہائی کورٹ۔
مَحْكَمَةُ الاِسْتِئْنَافِ العُلْيَا: سپریم کورٹ، ہائی کورٹ آف اپیل۔
مَحْكَمَةُ التَّحكِيم: خودمختار عدالت، ثالثی فیصلہ کی عدالت۔
مَحْكَمَةُ الثَّوْرَة: انقلابی عدالت۔
مَحْكَمَةُ الجَزَاء او الحُقُوق: عدالتِ دیوانی جس میں مال وغیرہ کے مقدمات پیش ہوتے ہیں۔
مَحْكَمَةُ النَّقْضِ والإبْرَام: عدالتِ مرافعہ، عدالت عالیہ۔
مَحْكَمَةٌ ابْتِدَائِيَّة: ابتدائی عدالت۔
مُحَاكَمَة: (۱) مقدمہ (۲) سماعتِ مقدمہ، مقدمہ چلانا۔
مُحَاكَمَةٌ سِرِّيَّة: خفیہ مقدمہ۔
مُحَاكَمَةٌ قَانُونِيَّة: قانونی چارہ جوئی۔
مُحَاكَمَاتٌ عَاجِلَة: فوری مقدمات۔
مَحَاكِمُ الأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّة: پرسنل لاءکورٹ۔

المُحْتَكِمُ إلى: اپیل کنندہ۔
حَكَى ــِ حِكَايَةً: نقل کرنا، بیان کرنا، ترجمانی کرنا۔
__ عليه: شکایت کرنا، چغلی کرنا۔
__ و حَاكَاهُ مُحَاكَاةً: مشابہ ہونا، تقلید کرنا، نقل اتارنا، نقش قدم پر چلنا۔
حِكَايَة ج: حِكَايَات: کہانی، قصہ، روایت، اسٹوری۔
حَاكٍ: (۱) ناقل (۲) فونوگراف، گرامفون۔
مُحَاكَاة: نقل، نقل اتارنا، کاپی کرنا۔

ح......ل

حَلٌّ: (در حلل)۔
حَلَبَ ــُ حَلَبًا و احْتَلَبَ و اسْتَحْلَبَ حَيَوَانًا: دوہنا، دودھ نکالنا۔
اِسْتَحْلَبَ الشَّيْءَ: فائدہ اٹھانا۔
تَحَلَّبَ: بہنا، ٹپکنا۔
حَلَبَ اللُّعَابُ فِي الفَم: منہ میں پانی آنا۔
حَلَبُ: ملک شام کا مشہور شہر۔
حَلْبَةٌ: ایک دفعہ دوہنا (۲) ریس کورس، گھوڑ دوڑ کا میدان۔
حَلَّاب. م: حَلَّابَة: گوالا، گوالن، دودھ دوہنے والا، والی۔
حِلَابَة و مَحْلَبٌ (لِبَانَة، مَلْبَنَة): مِلک ڈیری، دودھ کا کارخانہ، جہاں دودھ اور اس سے متعلقہ اشیاء تیار ہو کر فروخت ہوتی ہیں۔
حَلِيب و حَلَبٌ: دودھ۔
حَلِيبُ اللَّوْز: شیرۂ بادام۔
مُسْتَحْلَب: (۱) دودھ (۲) شیرہ۔

حَلَجَ ـِ حلْجًا: روئی پنّنا، دھنکنا۔
حَلْجٌ: پنائی، دھنائی۔
حَلَّاجُ القُطن: روئی دھننے والا۔
مَحْلَجُ القُطْن: روئی دھننے کا کارخانہ (دارُالحِلاجَة)۔
مِحْلَجٌ، مِحْلَجَة: روئی دھننے کا تانت یا مشین۔
مَحْلَجَة: روئی کی دھنائی کا کارخانہ۔
حِلاجَة: روئی دھننے کا کام یا پیشہ۔
حَلَزُونَة: پیچ دار کیل۔
حَلَزُونِي: پیچ دار۔
سُلَّم حَلَزُونِي: پیچ دار زینہ۔
حَلِسَ بِالمَكانِ ـَ حَلَسًا: مقیم ہونا، قیام کرنا۔
حِلْسٌ ج: أَحْلاس: ٹاٹ وغیرہ جو فرش کے نیچے بچھایا جاتا ہے۔
أَحْلَسُ: سرخ وسیاہی مائل، گنجے سر کا۔
حَلَفَ به ـِ حَلْفًا و حَلِفًا و مَحْلُوفًا و مَحْلُوفَةً: قسم کھانا، حلف اٹھانا۔
حَلَفَ كِذْبًا: جھوٹی قسم کھانا۔
حَلَّفَه و اسْتَحْلَفَه: قسم دلانا، حلف، اٹھوانا۔
تَحْلِيف: حلف برداری۔
حالَفَه مُحالَفَةً: عہد کرنا، معاہد کرنا، مدد کرنا۔
حالَفَهُ التَّوفِيقُ مُحالَفَة: توفیق شاملِ حال ہونا، کامیابی کا قدم چومنا۔
مُحالَفَة: پیکٹ، عہد و پیمان۔
تَحالُفٌ: پیکٹ، اتحاد، باہمی معاہدہ، گٹھ جوڑ، متحدہ محاذ۔
التَّحالُفُ مَعَ: کسی کے ساتھ پیکٹ، گٹھ جوڑ۔
التَّحالُفُ مِنْ أَجْلِ التَّقَدُّم: معاہدہ برائے ترقی۔
تَحالُفُ وِلايات: کنفیڈریشن۔
حَلْفٌ ج: أَحْلاف: قسم، عہد، معاہدہ۔
حِلْفٌ (۱) و حَلِيف و مُحالِفٌ: معاہد، اتحادی، دوست، ساتھی ج: أَحْلاف و حُلَفاء۔
حِلْفٌ: (۲) کنفیڈریشن، معاہدہ، پیکٹ ج: أَحْلاف۔
حِلْفٌ عَسْكَرِيٌّ: فوجی معاہدہ، گٹھ جوڑ۔
الحِلْفُ الأَطْلَسِي: اٹلانٹک پیکٹ۔
حِلْفٌ ثُلاثِيّ: سہ نفری معاہدہ۔
حِلْفٌ دِفاعِيّ: دفاعی معاہدہ، دفاعی اتحاد۔
حِلْفُ شَمالِ الأَطْلَنْطِي: شمالی اٹلانٹک معاہدہ۔
الحِلْفُ المُقَدَّس: مذہبی معاہدہ۔
حَلَفَ اليَمِينَ كَوَزِيرٍ ـِ حَلْفًا: بحیثیت وزیر حلف اٹھانا۔
مُحَلِّفٌ: حلف اٹھوانے والا۔
هَيْئَةُ المُحَلَّفِين: جیوری، ججوں کی جماعت۔
لَجْنَةُ المُحَلَّفِين: جیور، ججوں کی جماعت۔
هَيْئَةُ المُحَلَّفِينَ الاتِّهامِيَّة: اہم اور بڑی جماعت ججوں کی، غیر معمولی جیوری۔
هَيْئَةُ المُحَلَّفِينَ القاضِيَة: معمولی جیوری۔
أَعْضاءُ لَجْنَةِ التَّحْلِيف: ممبران

جیوری۔
حَلَقَ ــِ حَلْقًا و تَحْلَاقًا، و حِلَاقًا و حِلَاقَةً: مونڈنا، بال اتارنا، شیو بنانا۔
حَلَّقَ الشئَ: حلقہ دار بنانا۔
حَلَّقَ عَلَیه: گھیرا ڈالنا، احاطہ کرنا۔
حَلَّقَ تَحْلِیقًا: منڈلانا، چکر لگانا۔
حَلْقَة: سرکل ج: حَلَقَات۔
حَلْقَةُ بَحْثٍ: سیمینار۔
حِلَاقَة: بال بنانے کا پیشہ۔
حَلَّاقَة: سیفٹی ریزرو۔
تَحْلِیقٌ: اڑان، پرواز۔
تَحْلِیقُ الطَّائِرة: جہاز کا منڈلانا۔
تَحْلِیقُ الطَّائِرة فی سَمَاءِ المَطَار: ہوائی اڈہ پر جہاز کا منڈلانا۔
تَحْلِیقَات: اڑانیں، پروازیں۔
حَلْقُ الشَّعْر: حجامت، شیونگ۔
حَلَقَة ج: حَلَقَات: (١) گھیرا (٢) چھلا (٣) دائرہ (٤) لوگوں کی جماعت (٥) زنجیر کا کڑا۔
حَلَقَةُ القُطْن: روئی کی منڈی۔
حَلْقِیّ: گول، دائرہ نما، حلقہ نما۔
حَلَّاق: حجام، نائی۔
المِحْلَاق: بال کاٹنے کی مشین۔
حِلَاقَة: پیشہ حجامت۔
فُورْشَةُ الحِلَاقَة: شیونگ برش۔
حَلِیق، مَحْلُوقُ اللِّحْیَة: داڑھی منڈا۔
حَالِقٌ (مِنَ الجِبَال): بلند، بلند جگہ ج: حَلَقَة۔
مِحْلَقَة ج: مَحَالِق: سیفٹی ریزر (٢) بال اتارنے کی مشین۔
حُلْقُوم ج: حَلَاقِیم: حلق، گلا۔
حَلِکَ ــَ حُلُوکًا و حُلُوکَةً، و حَلَکًا و احْلَوْلَکَ: بے حد سیاہ ہونا، رات کا تاریک ہونا، گھٹا ٹوپ اندھیرا چھانا۔
حَلَکٌ و حُلْکَة: رات کی سیاہی، تاریک۔
حَلِکٌ، حَالِکُ السَّوَاد: سیاہ ترین۔
حَلِکٌ، حَالِکُ الظَّلَام: تاریک ترین۔
حَلَّلَ الأَمْرَ تَحْلِیلًا: (١) جائز قرار دینا، حلال کرنا (٢) تجزیہ کرنا یعنی کسی چیز کے اصل اجزاء معلوم کرنا۔
حَلَّلَ البَوْلَ: پیشاب کا ٹیسٹ کرنا۔
حَلَّلَ مِنْ ذَنْبٍ: بری کرنا۔
حَلَّلَ الیَمِینَ: قسم کا کفارہ دینا۔
حَلَّلَ الذَّرَّة: آئیٹم کا تجزیہ کرنا۔
حَلَّلَ الوَرَمَ: ورم کو زائل کرنا۔
المُحَلِّل: تجزیہ کنندہ۔
المُحَلِّلُ السِّیَاسِیّ: سیاسی مبصر۔
حَلَّ العُقْدَةَ ــُ حَلًّا: گرہ کھولنا۔
حَلَّ المُعَقَّد: الجھی ہوئی چیز کو سلجھانا۔
حَلَّ: (١) چھوڑنا (٢) اترنا، مقیم ہونا (٣) رہا کرنا (٤) ختم کرنا (٥) اجزاء کھولنا (٦) پگھلانا (٧) برخواست کرنا، تحلیل کرنا۔
حَلَّ المَسْئَلَةَ أوِ اللُّغْزَ: کسی مسئلہ یا معمہ کا حل نکالنا، حل کرنا۔
حَلَّ الرَّمْزَ: اشارہ کو سمجھ لینا۔
حَلَّ الشَّرِکَةَ أو المَجْلِسَ: کمپنی یا مجلس کو ختم کرنا، توڑنا۔
حَلَّ الوِزَارَة: وزارت توڑنا۔

حَلَّ بالمَكَان: مقیم ہونا۔
حَلَّ مَحلَّه: قائم مقام ہونا۔
حَلَّ به الأَمْرُ: مصیبت نازل ہونا۔
حَــلَّ الــدَّيْــنُ: قرض کی ادائیگی کا وقت آجانا، مدت پوری ہونا۔
حَلَّ اللَّونُ: رنگ اڑ جانا۔
حَــلَّ الشِّتَــاءُ أو الـصَّيْفُ: سردی یا گرمی کا موسم آجانا۔
حَلَّهُ من كذا: رہا کرنا۔
حَلَّهُ من ذَنْبٍ: بری کرنا۔
حَلٌّ من خَطِيْئَةٍ: معافی، براءت۔
حَلُّ الأَزْمَةِ بالوَسَائِلِ الدِّبْلُومَاسِيَّة: ڈپلومیٹک ذرائع سے مسئلہ کا حل نکالنا۔
حَلٌّ بَدِيْلٌ: متبادل حل۔
حَلُّ البَرْلَمَان: پارلیمینٹ توڑ دینا۔
حَلٌّ جِذْرِيّ: بنیادی حل۔
حَلُّ الجَمْعِيَّةِ التَشْرِيْعِيَّة: قانون ساز اسمبلی کو برخاست کرنا۔
حَلٌّ سِلْمِيّ: پرامن حل۔
حَلُّ شَرِكَةٍ: کمپنی توڑنا۔
حَلُّ العُقْدَةِ المُسْتَعْصِيَة: انتہائی پیچیدہ مسئلہ کا حل۔
حَلَّ عليه ضَيْفًا ـُ حُلُولاً: مہمان بننا۔
حَلٌّ لِلقَضِيَّة: مسئلہ کا حل۔
حَلُّ مَجْلِسِ النُّوَّاب: پارلیمینٹ توڑ دینا۔
حَلُّ ا[illegible]ع: اختلاف ختم کرنا۔
حَلَّ النِفْطُ مَحَلَّ السِّلَاح: پٹرول نے ہتھیاروں کی جگہ لے لی۔
حَلٌّ وَسَطٌ: درمیانی حل۔

حَلَّ ـِ حَلَالاً: حلال ہونا، جائز ہونا۔
احْتَلَّ بالمَكَان: جگہ لینا، قبضہ لینا۔
احْتِلَال: قبضہ۔
أَحَلَّهُ إِحْلَالاً: اتارنا، مقیم کرنا (۲) حلال وجائز کرنا۔
أَحَلَّ السَّلَامَ: امن قائم کرنا۔
إِحْلَالُ شَخْصٍ مَحَلَّ آخر: کسی کو دوسرے کے قائم مقام بنانا۔
إِنْحلَالَ: (۱) کھل جانا، اجزاء الگ الگ ہونا (۲) ڈھیلا ہونا (۳) جوڑ یا گرہ کھل جانا (۴) ختم ہونا (۵) پگھلنا۔
إِنْحلَال: (۱) ڈھیلا پن، سستی، کمزوری، بگاڑ، دھیما پن، خرابی، زوال، گراوٹ، انتشار۔
انْحِلَالُ الحِزْب: پارٹی کا ختم ہوجانا۔
تَحْلِيْلِيّ: تجزیاتی۔
مُنْحَلٌّ: روبہ زوال، روبہ انحطاط، ختم شد۔
تَحَلُّل: انتشار، کمزوری۔
تَحَلَّلَ مِنَ اليَمِيْنِ: قسم سے بری ہونا، پوری کردینا۔
تَحَلُّلُ السَّفَرِ بأحدٍ: سفر درپیش ہونا۔
تَحَلُّلُ السُّلْطَة: کنٹرول کا کمزور ہونا۔
التَحَلُّلُ مِنَ العَوَاطِف: جذبات سے الگ ہونا۔
اسْتِحْلَال: حلال وجائز سمجھنا۔
حَلٌّ ج: حُلُول: (۱) تدبیر (۲) تجزیہ (۳) رہائی (۴) خاتمہ (۵) براءت۔
حِلٌّ و حِلَّة: جواز۔
حِلَّة: ڈھکن دار دیگچی۔

حُلُوْل: قیام، قائم مقامی، امتزاج۔
حُلُوْلٌ بَدِیْلَة: متبادل حل و: حَلٌّ۔
حُلُوْلٌ نَاجِحَة: کامیاب حل۔
حُلَّة: سوٹ، کپڑوں کا جوڑ ج: حُلَل۔
حَلِیْلٌ: خاوند ج: أَحِلَّاء۔
حَلِیْلَةٌ ج: حَلَائِل: بیوی۔
إِحْلِیْل: پیشاب کی نالی ج: أَحَالِیْلُ۔
مَحَلٌّ ج: مَحَالّ: جگہ، مرکز، مقام، اسٹور ج: مَحَلَّات۔
مَحَلُّ الأَزْیَاء: فیشن ہاؤس۔
مَحَلُّ الإِقَامَةِ: رہائش گاہ، قیام گاہ، جائے بود و باش، مستقل سکونت کی جگہ، جائے قیام۔
مَحَلُّ بَیْعِ العُطُور: پرفیومری، عطر فروش کی دکان۔
مَحَلٌّ تِجَارِیّ: دوکان، منڈی، تجارتی مرکز ج: مَحَلَّات۔
مَحَلُّ حِلَاقَة: ہیر کٹنگ، سیلون۔
مَحَلُّ غَسِیْلِ المَلَابِس: لانڈری۔
مَحَلُّ نَوْم: برتھ، خواب گاہ۔
مَحَلِّیٌّ: مقامی، علاقائی، لوکل۔
فی مَحَلِّه: ٹھیک، مناسب، برمحل۔
مَحَلِّیَّة: مقامیت۔
مَحَلَّة ج: مَحَلَّات: پارک، قیام گاہ، رہائش گاہ، محلّہ، شہر کا ایک حصہ۔
مَحْلُوْل: پگھلا ہوا، کھلا ہوا، ڈھیلا، سلوشن۔
مَحْلُوْلُ الظَّهْر: ہیجڑا، نامرد۔
حَلَمَ بکذا ـُ حُلْمًا و حُلُمًا: خواب دیکھنا۔
حَلَمَ و احْتَلَمَ: بالغ ہونا۔
حَلُمَ ـُ حِلْمًا: بردبار ہونا، متحمل مزاج ہونا، سلیم الطبع ہونا، دوراندیش ہونا۔
حُلْمٌ ج أَحْلَام: (۱) خواب (۲) بلوغ۔
أَحْلَامٌ خَیَالِیَّة: خیالی پلاؤ۔
عَالَمُ الأَحْلَام: خوابوں کی دنیا۔
حُلْمِیٌّ: خواب سے متعلق۔
حِلْمٌ: صبر و تحمل، دوراندیشی۔
حَلَمَة ج: حَلَم: (۱) سرِ پستان، تھن کی نوک (۲) چیچڑی۔
حَلَمَةُ الأُذُن: کان کی لو۔
حَلِیْمٌ: متحمل، صابر، دوراندیش ج: حُلَمَاء۔
حَلُوَ و حَلَا ـُ و حَلِيَ ـَ حَلَاوَةً: (۱) شیریں ہونا (۲) مزیدار ہونا۔
حَلِيَ فِی العَیْن: آنکھ کو بھانا، خوشنما معلوم ہونا۔
حَلّٰی تَحْلِیَةً: (۱) شیریں بنانا (۲) مزیدار بنانا (۳) خوبصورت بنانا (۴) مزین کرنا (۵) زیور پہنانا۔
اِسْتَحْلَاء: میٹھا پانا، میٹھا سمجھنا، پسند کرنا، لطف اندوز ہونا۔
حُلْوٌ: مزیدار، شیریں، خوبصورت (ضدمُرّ و مَالِح و حَامِض)۔
حُلْوُ الشَّمَائِل: شیریں اخلاق۔
حَلْوَاء، حَلْوَی، حَلَاوَة: مٹھائی ج: حَلَاوَی (دا) حَلْوِیَّات۔
حَلْوِیَّات: (دا) مٹھائیاں۔
حُلْوَان: نذرانہ، بخشش، کاہن کی اُجرت۔
حَلْوَانِی و حَلْوَائِیّ: حلوائی، مٹھائی ساز،

مٹھائی فروش، بیکری والا۔
حَلّی ۔ حَلْیًا و حَلّیٰ تَحْلِیَةً: مزین کرنا، آراستہ کرنا، زیور پہنانا، میٹھا کرنا۔
حَلِیَتِ الْمَرْأَةُ ۔ حَلْیًا: زیور پہنانا، آراستہ ہونا۔
حَلْیٌ، حِلْیَةٌ ج: حُلِیٌّ: زیور، آرائشی سامان۔

ح .... م

حَمَأَ الْبِئْرَ و التُّرْعَةَ ۔ حَمْأً: کنویں یا نہر کو صاف کرنا۔
حَمِئَ عَلَیه ۔ حَمَأً: ناراض ہونا۔
__ الْمَاءُ: کیچڑ دار ہونا، کیچڑ ہونا۔
حَمْأَةٌ: کیچڑ، خراب مٹی۔
حَمَا (حمو) حمام (حمم) حَماه (در حمو): ۔
حَمْحَمَ الْحِصَانُ: ہنہنانا، بولنا۔
حَمِدَ ۔ حَمْدًا: تعریف کرنا، سراہنا، شکر کرنا۔
حَمِیْدٌ، مَحْمُوْدٌ: لائقِ تعریف، قابلِ تعریف۔
حَمِیْدُ السُّمْعَةِ: نیک شہرت آدمی، نیک نام۔
حَامِد و حَمُود: شاکر، شکرگزار، تعریف کنندہ۔
حَمَّرَ تَحْمِیْرًا: سرخ بنانا، لال رنگنا، سرخ کرنا (دا) بھوننا، تلنا۔
إِحْمَارُ التَّنُّوْرِ: تنور گرم کرنا۔
احْمِرَارٌ: سرخ ہونا، شرمندگی کی وجہ سے سرخ ہونا۔
حُمْرَةٌ: سرخی، چہرے اور ہونٹوں پر لگانے کی سرخی۔
حِمَارٌ ج: حَمِیْر: گدھا۔
حِمَارُ الْوَحْش: جنگلی گدھا۔
حِمَارَةٌ: گدھی۔
حَمَّار: گدھے والا۔
أَحْمَرُ: لال، سرخ۔
أَحْمَرُ الشِّفَاه: لپ سٹک۔
أَحْمَرُ قَانٍ: تیز سرخ۔
أَحْمَرُ وَرْدِیّ: گلابی، سرخ گلابی۔
أَحْمَرُ قَرَنْفُلِیّ: پیازی رنگ۔
مُحَمَّر: (دا) تلا ہوا، بھنا ہوا۔
حَمَزَ اللِّسَانَ ۔ حَمْزًا: چرچرانا۔
حَمُزَ ۔ حَمَازَةً: چرچرا ہونا۔
حَامِزٌ: چٹپٹا، چرچرا۔
حَمَّسَ تَحْمِیْسًا: برانگیختہ کرنا، اکسانا۔
حَمَّسَ الْحَبَّ: دانے بھوننا۔
حَمِسَ ۔ حَمَسًا: برانگیختہ ہونا، مشتعل ہونا، جوش میں آنا، بھڑکنا۔
حَمُسَ ۔ حَمَاسَةً: جوشیلا ہونا، دلیر ہونا، پھرتیلا ہونا۔
تَحَمَّسَ: پرجوش ہونا۔
التَّحَمُّسُ لِلْفِكْرَةِ: نظریہ کا پرجوش حامی ہونا۔
حَمِسٌ، أَحْمَسُ: غیور، غیرتمند، جوشیلا، پھرتیلا۔
حَمَاسٌ، حَمَاسَةٌ: جوش، غیرت، دلیری۔
حَمَاسِیٌّ، مُتَحَمِّس: جوشیلا، مشتعل مزاج۔
مُحَمِّس: اشتعال انگیز، جوش دلانے والا۔
حَمَشَ ۔ حَمْشًا: جوش دلانا، ناراض کرنا۔
حَمَّصَ تَحْمِیْصًا: بھوننا، سینکنا۔

حَمَّصَ الخُبزَ وغیرہ: ٹوسٹ یا روٹی سینکنا۔
حِمَّصٌ و: حِمَّصَةٌ: چنا۔
مُحَمَّصٌ: بھنا ہوا، سینکا ہوا۔
حَمَضَ ـُ حَمْضًا و حَمِضَ ـَ حَمَضًا و حَمُضَ ـُ حُمُوضَةً: کھٹا ہونا، ترش ہونا۔
حَمَّضَ تَحمِيضًا: ترش بنانا، کھٹا کرنا۔
حَامِضٌ: ترش، کھٹا، کھٹی چیز۔
حَامِضُ الكِبْرِيتِ: سلفر ایسڈ۔
حُمُوضَة: ترشی، کھٹائی۔
حُمَيْض: ہلکا سا ترش، پھیکا۔
حَمُقَ ـُ حُمْقًا و حَمَاقَةً، و حَمِقًا: بیوقوف ہونا۔
حَمَّقَه: بیوقوف بنانا، بیوقوف ٹھہرانا۔
حُمْقٌ و حَمَاقَة: بیوقوفی۔
حَمَلَ ـِ حَمْلًا و حُمْلَانًا: اٹھانا، سہارا دینا، بوجھ لادنا۔
حَمَلَه على الأمرِ: اکسانا، آمادہ کرنا۔
حَمَلَ عليه: حملہ کرنا، ہلہ بولنا۔
حَمَلَ عَلَى عَاتِقِه: بوجھ ڈالنا، ذمہ داری عائد کرنا، ذمہ داری لینا۔
حَمَلَ الشَّجَرُ: درخت کا پھل دار ہونا۔
حَمَلَتِ الأُنثى: عورت یا مادہ کا حاملہ ہونا۔
حَمَّلَ تَحمِيلًا: لادنا، بوجھ ڈالنا۔
احتَمَلَ و تَحَمَّلَ: برداشت کرنا، دقت اٹھانا، صبر کرنا، مشقت اٹھانا۔
تَحَمُّلُ الالتِزَام: پابندی قبول کرنا، ذمہ داری قبول کرنا۔
تَحَمُّلُ المَسئُولِيَات لكذا: ذمہ داریاں سنبھالنا۔
تَحَمُّلُ المَصَارِيف: خرچ اٹھانا۔
تَحَمُّلُ النَّتائِج: نتائج کا ذمہ دار ہونا۔
تَحَمُّلُ النَّفَقَات: اخراجات برداشت کرنا۔
تَحمِيلُ الأَمَانَة: ذمہ داری ڈالنا۔
احتِمَال: چانس، ممکنہ صورت، امکان ج: احتِمالات۔
تَحَامَلَ على: ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔
التَحَامُلُ على اَحَدٍ: سہارا لینا۔
التَحَامُل عَلَى النَّفس: خود کو سنبھالنا، اپنے اوپر ظلم کرنا۔
يُحتَمَلُ، مُحتَمَل: (۱) قابلِ برداشت (۲) ممکن، امکان ہے، غیر یقینی، متوقع۔
لا يُحتَمَل: نا قابلِ برداشت۔
حَمْلٌ ج: أحمَال: (۱) بوجھ، بار (۲) پھل۔
حَمْلُ الأخبَارِ لِفُلان: کسی کو خبریں پہنچانا۔
حَمْلُ الرِّسَالَةِ الى فُلان: کسی کو پیغام پہنچانا۔
حَمْلُ السِّلاح: ہتھیار اٹھانا، لیکر چلنا۔
حَمَّلَهُ مَسئُولِيَةَ كذا تَحمِيلًا: ذمہ داری ڈالنا۔
حَمْلَةٌ: مہم ج: حَمَلات۔
الحَملَةُ الإذَاعِيَة: نشریاتی مہم۔
حَملَةُ الإعدَامَات: پھانسیوں کی مہم۔
حَملَةُ اعتِقَالات: نظر بندی مہم، گرفتاری مہم۔
حَملَةُ إعلامِيَّة: پروپیگنڈہ، نشریاتی مہم۔
حَملَةُ إعلانِيَّة: اشتہاری مہم۔
حَملَةُ اِنتِخَابِيَّة: انتخابی مہم۔

حَمْلَةٌ دِبْلُو مَاسِيَّة: ڈپلومیٹک مہم۔
حَمْلَةٌ دِعَائِيَّة: پروپیگنڈہ مہم۔
حَمْلَةُ سَلَام: امن مہم۔
حَمْلَةٌ سِيَاسِيَّةٌ: سیاسی مہم۔
حَمْلَةٌ ضِدَّ أَحَد: کسی کے خلاف مہم۔
حَمْلَةٌ عَسْكَرِيَّة: فوجی حملہ، فوجی مہم۔
حَمْلَةٌ مُنَاهِضَةٌ: کسی کے خلاف مہم۔
حَمْلَةٌ نَفْسِيَّة: نفسیاتی مہم، حملہ۔
حَمَلَاتٌ أَجْنَبِيَّة: بیرونی حملے۔
الحَمَلَاتُ الحُرَّة: آزادانہ مہمیں، آزادانہ حملے۔
حَمَلَاتٌ صَحَفِيَّة: صحافتی حملے۔
حُمُولَة: سامان جہاز وغیرہ پر لدا ہوا۔
الحُمُولَةُ المُسَجَّلَة: رجسٹرڈ لوڈ، رجسٹرڈ کیا ہوا سامان۔
حِمْلٌ: بوجھ، لدان، لدا ہوا سامان، لوڈ، وزن (۲) پھل ج: أَحْمَالٌ۔
حَمَّال: قلی ج: حَمَّالُون، حَمَّالِين۔
حِمَالَةٌ و حَمَّالَةُ القَنْطَرة: پل کے ستون۔
حَمِيل: پیٹ کا بچہ۔
حَامِل: اٹھانے والے، صاحب، حاملہ۔
حَامِلُ بُولِيسَة: پالیسی ہولڈر، صاحب معاہدہ (بیمہ)۔
حَامِلُ الحَرْف: (ٹائپ رائٹر میں) ٹائپ بار۔
حَامِلُ الحَقِيبَةِ الدِّبْلُومَاسِيَّة: سفارتی نامہ بر، سفارتی ہرکارہ۔
حَامِلُ الرَّسَائِل: نامہ بر، بردار۔
حَامِلُ السَّنَد: باؤنڈ ہولڈر، مالی استحقاق کی سندر کھنے والا۔
حَامِلُ الشَّرِيط (فى الآلةِ الكَاتِبَة): ربن کیریر۔
حَامِلُ شَهَادَةٍ جَامِعِيَّة: گریجویٹ، اعلیٰ تعلیم یافتہ۔
حَامِلُ شَيْك: چیک بردار، ہولڈر۔
حَامِلُ طَائِرَات: طیارہ بردار جہاز۔
حَامِلُ العَلَم: پرچم بردار، بینر بردار۔
حَامِلُ المُرَاسَلَات: نامہ بر، نامہ بردار۔
حَامِلَةُ صَوَارِيخ: راکٹ بردار جہاز۔
مَحْمِلٌ ج: مَحَامِل: ڈولی، پالکی۔
مُحَمَّل: بھاری، بوجھل، لدا ہوا۔
مَحْمُول: بلند (۲) قابل برداشت۔
___ المَرْكَب: گاڑی کا لوڈ، سواری کا وزن۔
مُحْتَمَل: اغلب۔
مِنَ المُحْتَمَلِ كذا: اغلب ہے کہ......۔
حَمْلَقَ فِيه حَمْلَقَةً: آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا، تیز نظروں سے دیکھنا۔
حَمَّمَ تَحْمِيمًا: غسل دینا، دھونا۔
حَمَّ ـُ حَمًّا وأَحَمَّ: گرم کرنا۔
حُمَّ الرَّجُلُ حُمَّى: بخار میں مبتلا ہونا۔
حُمَّ القَضَاءُ: قضا آنا۔
حُمَّ الأَمْرُ: کسی کام کا فیصلہ کیا، طے کیا گیا۔
حَمَّ ـَ حَمَمًا: کالا ہونا۔
اسْتَحَمَّ و تَحَمَّمَ: غسل کرنا۔
حُمَمٌ: کوئلہ، لاوا جو آتش فشاں پہاڑ سے نکلتا

ہے۔

حَمَامٌ و: حَمَامَةٌ: کبوتر۔

الحَمَامُ الزَّاجِل أو الرَّسَائِلِيُّ: نامہ بر کبوتر۔

حَمَّامٌ ج: حَمَّامَات: (۱) غسل خانہ (۲) غسل کی ٹب (۳) غسل۔

حِمَامٌ حِمَة، حِمَّة: موت۔

حُمَةٌ: ڈنک، کانٹا۔

حَمَّةٌ: گرم پانی کا فوارہ۔

حُمَّةٌ: سیاہی۔

حُمَّی ج: حُمَّیَات: بخار۔

حَمِیمٌ: رشتہ دار، دوست ج: أَحِمَّاء۔

أَحَمُّ: سیاہ۔

مِحَمٌّ: کولڈرن۔

مَحْمُومٌ: گرم، بخار میں مبتلا۔

حَمُوٌ، حَمٌ، حَمَا: خسر (شوہر یا بیوی کا باپ)۔

حَمْوٌ و حُمُوٌّ: گرمی، سخت گرمی۔

حَمَاةٌ: خوشدامن، ساس (شوہر یا بیوی کی ماں)۔

حَمَی ــــ حِمْیًا و حِمَایَةً: (۱) حفاظت کرنا (۲) بیمار کو پرہیز کرانا (۳) چھپانا۔

حَمِیَ ـــ حَمْیًا: گرم ہونا۔

غَضَبُهُ: غصہ بڑھنا۔

حَمَّی تَحْمِیَةً و أَحْمَی: گرم کرنا، مشتعل کرنا، جوش دلانا۔

حَامَاهُ عن مُحَامَاةً: مدافعت کرنا، دفاع کرنا، حمایت کرنا، وکالت کرنا۔

احْتَمَی عَنْ: بچنا، محفوظ رہنا، پرہیز کرنا۔

تَحَامَی الشَّئَ والأَمْرَ: دور رہنا، بچنا، کنارہ کش ہونا۔

حِمًی: حفاظت، حفاظت گاہ۔

حُمَیًّا: گرمی، تیزی، طمازت، تپش، حدت، ہیٹ۔

حَمِیَّة: غیرت، جوش، ہیجان، اشتعال۔

حِمْیَة: پرہیز، احتراز۔

طَعَامُ الحِمْیَة: پرہیزی کھانا۔

حِمَایَة: حفاظت، نگرانی، حراست، پشت پناہی۔

حِمَایَةُ الأَرْوَاح: جانوں کی حفاظت۔

حِمَایَةُ المَصَالِح: مفادات کی حفاظت۔

حِمَایَةٌ دُوَلِیَّة: بین الاقوامی نگرانی۔

حَام: محافظ، پہرہ دار (۲) گرم (۳) تیز بمعنی قوی تبغٌ حَام: تیز تمباکو۔

حَامِی الطَّبْعِ: مشتعل مزاج۔

حَامِی الوَطِیس: سخت، شدت کا، گرما گرم، انتہائی گرم۔

حَامِیَة ج: حَوَامِی: حفاظتی دستہ، محافظوں کی جماعت، قلعہ کے پہرہ دار، قلعہ یا شہر کی محافظ فوج۔

مُحَام: طرفدار، حمایتی۔

شَرْعِیّ: قانون داں، وکیل، بیرسٹر۔

مُحَامَاة: (۱) طرفداری (۲) دفاع (۳) وکالت، بیرسٹری، قانون دانی۔

المُحَامِی: وکیل، ایڈووکیٹ، بیرسٹر۔

المُحَامِی العَام: ایڈوکیٹ جنرل۔

المُحَامِی فی المَحَاکِمِ العُلْیَا: بیرسٹر۔

المُحَامِی عَنْ فُلَان: فلاں کا وکیل۔

المُحامِي المُنتَدَب: وکیلِ مختار۔
المَحمِيُّ عنه: حمایت یافتہ۔
المَحمِيُّ: بیٹر، محفوظ۔
مَحمِيَّةٌ: علاقۂ محروسہ ج: مَحمِيَّات۔

ح............ن

حَنّ: (درحنن)۔
حنَّأ تحنِيَةً: مہندی لگانا، مہندی سے رنگنا۔
حِنَّاءٌ: مہندی۔
حَانُوت ج: حَوَانِيتُ: اسٹال، شاپ، دوکان۔
حَانُوتِيٌّ: دوکاندار، دوکان کا۔
حَنِثَ فی یَمِینِه ـَ حِنثاً: قسم توڑنا۔
حَنجَرَة، حُنجُور ج: حَنَاجِر: نرخرہ۔
حَنَذَ ـِ حَنذًا: بھونا۔
حَنَّطَ تَحنِيطًا: لاش کو مصالحہ لگا کر محفوظ رکھنا۔
حِنطَة: گیہوں۔
حِنطِيُّ اللَّونِ: گندمی رنگ کا۔
حَنِفَ ـَ حَنفًا و حَنُفَ ـُ حَنَافَةً: ٹیڑھا ہونا، مائل ہونا، مڑے ہوئے پاؤں والا ہونا۔
حَنِيف: مستقیم، سیدھا، غلط راہ سے ہٹ کر سیدھی راہ پر آنے والا۔
حَنَفِيَّة: (صُنبُورٌ) ٹینٹو۔
حَنَفِيَّةُ حَرِيقٍ: فائر پلگ۔
أَحنَفُ: ٹیڑھے پاؤں والا۔
حَنِقَ عَلَيهِ ـَ حَنَقًا: ناراض ہونا، برہم ہونا، دانت پیسنا۔
أَحنَقَه: غصہ دلانا، برہم کرنا۔
حَنَقٌ: غیظ و غضب، ناراضگی۔
حَنِقٌ و حَانِقٌ: غضبناک۔
حَنَكَ ـُ ـِ حَنكًا و حَنكًا و أَحنَكَ و حَنَّكَهُ الدَّهرُ: زمانہ نے تجربہ کار بنا دیا۔
إِحنَاكٌ: تجربہ کار بنانا۔
حَنَكٌ: تالو، تھوڑی، منھ و: حَنَكَة۔
حُنكٌ، حُنكَة: سمجھ بوجھ، سوجھ بوجھ۔
مُحَنَّكٌ: تجربہ کار، آزمودہ کار، سمجھا ہوا، ہوشیار۔
حَنَّ ـِ حَنِينًا إِلَى: مشتاق ہونا۔
__ علیه: مہربان ہونا، شفقت کرنا۔
حَنَانٌ: مامتا، محبت، شفقت، مہربانی۔
حَنُونٌ: غمگین، انتہائی مشفق۔
حَنِينٌ إِلَى: اشتیاق۔
حُنُوٌّ: میلان، جھکاؤ۔
حَنَا ـُ حَنوًا و حَنَى ـِ حِنَايَةً: موڑنا، جھکانا۔
__ رَأسَه خَجَلاً: شرمندگی سے سر نیچا کر لینا۔
__ و أَحنَى علیه: جھکنا، مائل ہونا، متوجہ ہونا۔
إِنحَنَى: جھکنا، ٹیڑھا ہونا، مڑنا۔
__ احتِرَامًا: تعظیماً جھکنا۔
__ خُضُوعًا: انکساراً جھکنا۔
حَنِيَّة و حَنيَة ج: حَنَايَا: محراب۔
حَانَةٌ ج: حَانَات: شراب خانہ، شراب کی دوکان۔
مُنحَنٍ: ٹیڑھا، مڑا ہوا، جھکا ہوا۔

ح............و

حُوبٌ: گناہ، وبال۔

حُوتٌ ج: حِيتَان: مچھلی۔
(حوج) حَاجَةٌ ج: حَاجَات: (۱) حاجت، ضرورت (۲) ضرورت کی چیز (۳) غربت (۴) غرض۔
قَضٰی حَاجَتَه: (۱) ضرورت کو پورا کرنا (۲) پاخانہ کرنا۔
احْتِيَاجَات: ضرورت، ضرورت کی چیزیں۔
حَاجِيَّات: لوازم، ضروریات۔
أَحْوَجَ وَ احْتَاجَ إِلٰی: محتاج ہونا (۲) ضرورتمند ہونا، ضرورت پیش آنا۔
أَحْوَجَه إِحْوَاجًا: محتاج بنانا۔
مُحْتَاجٌ: ضرورتمند، مفلس، فقیر، غریب۔
حَوْدٌ (ن): (۱) ہکانا، گاڑی چلانا (۲) گاڑی بانی۔
حُوذِيٌّ: گاڑی بان، ڈرائیور۔
حَاذَه و أَحْوَذَهُ: تیز چلانا، ہکانا۔
اسْتَحْوَذَ علی: غالب ہونا، دل و دماغ پر قبضہ جمانا، چھاجانا۔
حَوَّرَ تَحْوِيْرًا: ہموار کرنا، بیلن سے بیلنا، کپڑے کو سفید کرنا۔
حَارَ ـــ حَوْرًا و حُؤُورًا: کپڑے کو سفید کرنا (۲) حیران ہونا۔
حَارَ ـــ حَيْرَةً و حَيَرَانًا: حیران و پریشان ہونا۔
حَوِرَ الْعَيْنُ ـــ حَوَرًا: آنکھ کی سفیدی اور سیاہی بہت زیادہ سفید و سیاہ ہونا۔
حَاوَرَه مُحَاوَرَةً: بحث کرنا، بات چیت کرنا، گفتگو کرنا۔
أَحَارَ جَوَابًا: جواب دینا۔
حُوْرٌ: جنت کی عورتیں و: حَوْرَاء۔
حُوْرِيَّة: پری۔
ـــ الماءِ: سمندری پری، جل پری۔
حِـوَارٌ: بحث و مباحثہ، ردّ و قدح، بات چیت گفتگو، انٹرویو۔
الحِوَارُ العَرَبِيّ الأُوْرُبِي: عرب یورپ گفت وشنید۔
حِوَارٌ سَاخِنٌ: سخت کلامی، بات چیت کی گرما گرمی۔
حِوَارُ السَّلام: امن بات چیت۔
حِوَارٌ صَحَفِيٌّ: پریس انٹرویو۔
حِوَارٌ فِكْرِيٌّ: فکری مباحثہ۔
حِوَارٌ هَادِئٌ: سنجیدہ گفتگو۔
حِوَارٌ وُدِّيٌّ: دوستانہ بات چیت۔
حَارَةٌ ج: حَارَات: (۱) محلّہ (۲) گلی (۳) مکان، رہائش گاہ۔
ـــ البُخَار: اسٹیم چھوڑنے کی نالی، اسٹیم پورٹ۔
مِحْوَرٌ: مرکز، بنیاد، موضوع، محاذ، مرکزی نقطہ، درمیانی حصہ، مدار، بنیادی نقطہ، موضوع، محور، وہ (فرضی) خط جس پر کوئی جسم گردش کرتا ہو ج: مَحَاوِرُ۔
مِحْوَرُ الخَبَّاز: بیلن۔
مِحْوَرُ العَجَلَة: دُھرا، لوہے کی لاٹ جس پر دونوں پہیے گھومتے ہیں (ایکسل)۔
مِحْوَرُ المُحَادَثَات: بات چیت کا موضوع۔
مِحْوَرُ القِتَال: لڑائی کے مقامات، جنگی

محاذ۔
مَحَاوِرُ و: مِحْوَر: چوکی، لڑائی کا محاذ۔
مَحَارَة: سیپ۔
مَحَارَةُ البَنَّاء: کرنی، معمار کا اوزار۔
حَوْزٌ و حَوْزَةٌ و حِيَازَة: قبضہ، حصول، ملکیت۔
فی حَوْزَةِ و حِيَازَةِ: قبضہ میں، تحویل میں۔
حَيِّز: وہ جگہ جسے جسم گھیرے ہوئے ہوتا ہے، دائرہ۔
فی حَيِّزِ الإمْكَان: دائرۂ امکان میں۔
حَازَ ـُ حَوْزًا و احْتَازَ: قبضہ کرنا، پانا، لینا۔
اِنْحَازَ: دور ہونا، الگ ہونا۔
__ و تَحَيَّزَ اليه و له: مائل ہونا، طرفدار ہونا، جانب دار ہونا۔
__ اليه: مدغم ہوا، شامل ہوا۔
حَائِز: قابض، پانے والا۔
حَائِزٌ على الشَّهَادَة: سند یافتہ، ڈگری یافتہ۔
اِنْحِيَاز و تَحَيُّز: طرفداری، جانبداری، وابستگی۔
مُتَحَيِّز: جانب دار، طرفدار۔
حَوَّشَ تَحْوِيْشًا: جمع کرنا، اکھٹا کرنا۔
حَوْشٌ ج: أحْوَاش: جانوروں کا باڑا۔
__ الدَّار: گھر کا صحن، چوک، احاطہ۔
حَوْصٌ و حِيَاصَةٌ (ن) (خِيَاطَةٌ مُتَبَاعِدَة): ٹیکندے ڈالنا، لمبے لمبے ٹانکے عارضی طور پر ڈالنا، سلگنے بھرنا۔
حَاوَصَه مُحَاوَصَةً: کن انکھیوں سے دیکھنا۔
حِيَاصَة: بریچنگ، وہ تسمہ جو گھوڑے کے سرین کے گرد گاڑی روکنے کے لئے باندھا جاتا ہے۔
حَوْصَلَة ج: حَوَاصِل: پوٹا (پرندہ کا) مثانہ۔
حَوَّضَ الأرْضَ تَحْوِيْضًا: زمین کی کیاریاں بنانا۔
حَوْضٌ ج: أحْوَاض: تالاب، پانی کی ٹنکی۔
حَوْضُ التَّنْشِيْف: منہ دھونے کا طشت جو دیوار کے ساتھ لگا رہتا ہے۔
حَوْضُ السُّفُن: گودی جس میں جہاز کھڑے ہوتے ہیں۔
حَوْض: بیسن (ہاتھ دھونے کا BASIN) ٹینک۔
حَوْضُ بِنَاءِ السُّفُن: جہازوں کا یارڈ۔
حَوَّطَ تَحْوِيْطًا: احاطہ کرنا، چہار دیواری کرنا۔
حَاطَه ـُ حَوْطًا و حَيْطَةً، و حِيْطَةً، و حِيَاطَةً، و تَحَوَّطَ: نگرانی کرنا، حفاظت کرنا۔
حَاطَ و أحَاطَ به: گھیرنا، گھیرا ڈالنا۔
أحَاطَ بالشئ عِلْمًا: باخبر ہونا۔
أحَاطَهُ أحَدٌ بشَيْءٍ: علم میں لانا۔
احْتَاطَ لِلْأمْر: محتاط ہونا، احتیاط برتنا، مصلحت اندیشی سے کام لینا۔
__ على الشيء: نگہداشت کرنا۔
احْتِيَاطِيّ: محفوظ ذخیرہ، ریزرو اسٹاک، ریزرو، ریزرو فنڈ (۲) مصلحت اندیشانہ۔
احْتِيَاطِيُّ البَنْك: بینک کا محفوظ سرمایہ۔
احْتِيَاطِيٌّ خَاص: اسپیشل فنڈ۔
احْتِيَاطِيٌّ عَام: جنرل فنڈ۔

اِحتِیَاطِیٌّ لِفَائِدَةِ المُوَظَّفِین: پراویڈنٹ فنڈ۔
حَائِط ج: حِیطَان: دیوار۔
مِصبَاحُ الحَائِط: دیواری لیمپ، وال لیمپ۔
لِلحِیطَان آذانٌ: دیوار گوش دارد۔
حَجزٌ اِحتِیَاطِیٌّ: ضبطیٔ مال وغیرہ جو برائے احتیاط وتحفظ ہو۔
مَالٌ اِحتِیَاطِیٌّ: ریزروسرمایہ، ریزرو فنڈ۔
مُحِیطٌ: دائرہ کی حد، وہ خط جو دائرہ کو محیط ہو، دائرہ، ماحول، گردوپیش کے حالات (۲) سمندر ج: مُحِیطَات۔
مُحِیطُ الجِسم: سطح۔
المُحِیطُ الهَادِیٔ: بحرالکاہل۔
المُحِیطُ الهِندِیّ: بحرہند۔
مُحِیطِیّ: سطحی۔
مُتَحَوِّط: محتاط، زیرک، چوکنا، مصلحت اندیش۔
حَوَّفَ تَحوِیفًا: کنارہ پر لانا۔
حَافَةٌ و حَافَّةٌ ج: حَافَات و حَافَّات: کنارہ۔
حَافَّةُ المَلاءَة: چادر کا کنارہ۔
حَوَّقَ عَلیه تَحوِیقًا: احاطہ کرنا۔
حَاکَ ـُـ حَوکًا و حِیَاکَةً: کپڑا یا موزہ وغیرہ بننا۔
حِیَاکَةُ المُؤَامَرة ضدَّ اَحدٍ: کسی کے خلاف سازش کرنا۔
إبرَةُ الحِیَاکَة: بننے کی سلائی۔

حَائِکٌ ج: حَاکَةٌ: بننے والا۔
حَوِلَ ـَـ حَوَلاً: بھینگا ہونا، آنکھ کا ترچھا ہونا۔
حَوَّلَ تَحوِیلاً: (۱) منتقل کرنا (۲) گھمانا، پھرانا (۳) بدلنا، حالت بدلنا۔
حَوَّلَ عَن: ہٹانا۔
حَوَّلَ خَطَّ السَّیر: لائن بدلنا، ریل گاڑی کی لائن بدلنا۔
حَوَّلَ نُقُودًا: ڈاک سے رقم بھیجنا۔
حَوَّلَ المَالَ عَلی البَرِید تَحوِیلاً: منی آرڈر کرنا۔
تَحوِیل: تبادلہ سکہ وغیرہ۔
تَحوِیلٌ مَالِیّ: (۱) چیک (۲) ڈرافٹ۔
جَدوَلُ تَحوِیلِ النُّقُودِ وَ الاَوزَان: تبدیلی سکہ واوزان کا چارٹ۔
تَحوِیلٌ بَرِیدِی: میل ٹرانسفر۔
تَحوِیلُ الحُکمِ إلی نِظَامٍ رِئَاسِیّ: حکومت کو صدارتی نظام میں تبدیل کرنا۔
تَحوِیلُ سُلطَةٍ الی: اقتدار سپرد کرنا، اختیار منتقل کرنا۔
تَحوِیلُ الشَّرکَة: کمپنی ٹرانسفر۔
تَحوِیلُ العُملَة: سکہ تبدیل کرنا۔
تَحوِیلُ المَاءِ المَالِح إلی عَذبٍ: کھارے پانی کو میٹھا کرنا۔
تَحوِیلُ مَبَالِغ: رقموں کا ٹرانسفر۔
تَحوِیلٌ مَصرِفِیّ: بینک ٹرانسفر، ٹرانسفر آرڈر۔
تَحوِیلُ المِلکِیَةِ من شَخصٍ إلی آخر: ملکیت تبدیل کرنا۔
تَحوِیلُ المِلکِیَةِ الی الدَّولَة: قومی

ملکیت میں لینا۔
تَحْوِیلٌ مِنْ حِسَابٍ لِحِسَابٍ: کریڈٹ ٹرانسفر، رقم کو ایک حساب سے دوسرے حساب میں منتقل کرنا۔
تَحْوِیلُ النُّقُود: تبدیلیٔ سکہ، روپے بدلوانا۔
تَحْوِیل: ڈرافٹ (رقم کا) تبدیلی، منتقلی۔
تَحْوِیلُ الأَرْبَاحِ إِلَى رَأْسِ مَالٍ: نفع کو سرمایہ میں شامل کرنا۔
تَحْوِیلُ الانْتِبَاهِ عن كذا: توجہ ہٹانا۔
تَحْوِیلٌ بالبَرِید الجَوِّیّ: ایرمیل ٹرانسفر۔
تَحْوِیلٌ بَرْقِیّ: ٹیلی گراف ٹرانسفر، کیبل ٹرانسفر۔
تَحْوِیلَة: ریل کی پٹری بدلنے والی چابی۔
حَالَ بَیْنَهُمَا ـــُـ حَوْلاً و حُؤُولاً و حَیْلُولَةً: (۱) رکاوٹ بننا، رکارٹ ڈالنا۔
حَالَ دُوْنَ إِرَادَتِه: ارادہ سے باز رکھنا، آڑے آنا۔
___: (۲) گزر جانا (۳) بدل جانا۔
حَاوَلَه مُحَاوَلَةً: کوشش کرنا، کوشش کر کے دیکھنا (۲) دھوکہ سے لینے کی کوشش کرنا (۳) ورغلانا، پھسلانا۔
مُحَاوَلَة: آفر پیش کش، کوشش، تجرباتی عمل، ٹرائی، تجربہ، پھسلاوا۔
مُحَاوَلَةُ الاغْتِیَال: قتل کی کوشش۔
مُحَاوَلَةُ الانْدِسَاس بَیْنَهُمْ: لوگوں کے اندر گھسنے کی کوشش کرنا۔
مُحَاوَلَةٌ جَادَّة: واقعی کوشش۔
مُحَاوَلَةٌ صَحَافِیَّة: صحافتی اقدام۔
مُحَاوَلَةٌ فَاشِلَة: ناکام کوشش۔
مُحَاوَلَةُ كَسْبِ شَعْبِیَّة: عوامی مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔
مُحَاوَلَةٌ نَاجِحَة: کامیاب کوشش۔
مُحَاوَلَةٌ یَائِسَة: آخری طور پر ہاتھ پیر مارنا، ناکام کوشش۔
مُحَاوَلاتُ التَّسْوِیَة: تصفیہ کی کوشش۔
مُحَاوَلاتٌ حَثِیثَة: زبردست کوشش۔
أَحَالَ عَلَى إِحَالَةً: سپرد کرنا، محول کرنا، مرسل کرنا، منتقل کرنا (کاغذ وغیرہ)۔
إِحَالَةٌ إلى التَّقَاعُد: پنشن دینا، ریٹائر کرنا۔
إِحَالَةُ الدَّیْنِ عَلَى فُلان: اپنے قرض کو دوسرے کے ذمہ کرنا۔
إِحَالَةُ القَضِیَّة: کیس سپرد کرنا۔
إِحَالَةُ المَسْئَلَةِ علی فلان: کسی معاملہ کو دوسرے کے حوالہ کرنا۔
إِحَالَةٌ علی المَعَاشِ: پنشن دینا۔
المُحَالُ إلیه: جس شخص پر محول کیا جائے۔
مُحَالٌ عَلَى المَعَاش: پنشن یافتہ، ریٹائرڈ۔
تَحَوَّلَ: بدل جانا۔
تَحَوُّل: تبدیلی، موڑ۔
التَّحَوُّلُ الجَذْرِیّ: بنیادی تبدیلی۔
تَحَوُّلات: انقلابات، تبدیلیاں۔
احْتَالَ و تَحَیَّلَ: حیلہ کیا، چال چلی۔

اِحْتَالَ عَلَیه: دھوکہ دیا۔
اسْتَحَالَ الشیُٔ: بدل جانا، ناممکن ہونا۔
اسْتَحَالَ الشیُٔ: محول کرانا۔
وَالحَالَۃُ هٰذِہ: دراں حالیکہ۔
بحالَتِه الرَّاهِنَۃ: بحالتِ موجودہ۔
أحْوَالٌ دَامِیَۃ: خونچکاں حالت۔
دَفْتَرُ الْاَحْوَال (فِی مَرْکَزِ البُولِیس): چارج شیٹ، فردجرم۔
قَانُونُ الْاَحْوَالِ الشَّخْصِیَّۃ: شخصی قانون، پرسنل لا۔
حَالٌ: صورت، کیفیت، حالت۔
حَالاً، فِی الحَالِ: ابھی، فوراً، جلدی، اسی وقت۔
حَالِیًا: ابھی ابھی، حال ہی میں۔
حَالَمَا: جونہی، جب۔
حَالِیّ: موجودہ۔
شَهْرٌ حَالِیٌّ او سَنَۃ حَالِیَّۃ: موجودہ مہینہ، یا موجودہ سال۔
حَالَۃ: پوزیشن، کیس، کنڈیشن، کیفیت۔
حَالَۃُ التَأهُّب: تیاری کی حالت۔
الحَالَۃُ الطِبَاعِیَّۃ: چھپائی کی کیفیت۔
حَالَۃُ الطَّوَارِئ: ہنگامی حالت، ایمرجنسی۔
الحَالَۃُ العَصَبِیَّۃ: جذباتی کیفیت۔
الحَالَۃ مایُرَام: حسبِ معمول حال۔
الحَالَۃُ المُتَرَدِّیَۃ: گرتی ہوئی پوزیشن۔
حَالَۃٌ مَیْئُوسٌ مِنها: مایوس کن حالت۔
حَالَۃُ النَّزْع: آخردم۔
حَالَۃٌ نَفْسِیَّۃ: ذہنی کیفیت۔

حَالَۃُ الهُجُوم: حملہ کی پوزیشن۔
حَالَۃٌ هِسْتِیرِیَّۃ: ہسٹیریائی کیفیت، مجنونانہ کیفیت۔
بِحَالَۃٍ عَصَبِیَّۃ: جذباتی طور پر۔
بِالحَالَۃِ الرَّاهِنَۃ: بحالتِ موجودہ۔
الحَالَۃُ الاجْتِمَاعِیَّۃ: سوشل کنڈیشن، معاشرتی حالت۔
حَالَۃُ الاحْتِضَار: نزع کی حالت۔
فِی حَالَۃٍ رَدِیئَۃ: خراب حالت میں۔
فِی حَالَۃِ الطَّوَارِئ: ہنگامی حالت میں۔
حَالاتی: (دا) إمَّعَۃ: ابن الوقت۔
حَوَالَۃ، تَحْوِیلٌ: آرڈر، حکم۔
حَوَالَۃٌ مَالِیَّۃ (بالبرید): منی آرڈر۔
حَوَالَۃٌ بَرْقِیَّۃ: ٹیلی گراف منی آرڈر۔
حَوَالَۃٌ بَرِیدِیَّۃ: منی آرڈر۔
حَوَالَۃُ تَحْصِیلٍ: کلکشن منی آرڈر۔
حَوَالَۃٌ مَصْرِفِیَّۃ (مَسْحُوبَۃ مِنْ بَنْکٍ عَلَی فَرْعِه او علی بَنْکٍ آخر): ڈرافٹ، بینک ڈرافٹ، بینک بلٹی۔
حَوَلُ العَیْن: بھینگا پن۔
حَوْلٌ: سال (۲) قدرت۔
حَوْلَ: قرب، آس پاس۔
حَوْلَ کذا: فلاں چیز کے سلسلے میں۔
حَوْلِیّ: یک سالہ۔
حِوَالٌ، حَائِلٌ: اوٹ، آڑ، لکڑی کی دیوار جو درمیان میں کھڑی کی جائے۔
حَوَالَی، حَوْلَ: تقریباً، برابر، آس پاس۔
حُؤُولٌ، تَحَوُّل: تغیر، خرابی۔

حِيلَة ج: حِيَلٌ: تدبیر، ترکیب، چال، دھوکہ، بہانہ۔
حِيلَةٌ بَارِعَة: ماہرانہ چال، شاندار ترکیب۔
مَا بِاليَدِ حِيلَةٌ، مَا بِيَدِيْ حِيلَةٌ: میں کچھ نہیں کرسکتا، میرے پاس کوئی تدبیر کار نہیں۔
عَدِيمُ الحِيلَةِ: لاچار، بے بس۔
حِيَالَ: سامنے، بالمقابل۔
مَحَالَة: (مِدْحَاةٌ): رولر، بڑا بیلن جس کے ذریعہ زمین ہموار کی جاتی ہے۔ کارڈن رولر، جس کے ذریعہ باغیچہ میں گھاس کاٹ کر زمین ہموار کی جاتی ہے، چرخی، جس پر رسی ڈال کر کھینچی جائے۔
لا مَحَالَةَ مِنْهُ: یقیناً، ضرور، بے شک۔
مُحْتَالٌ: دھوکہ باز، چال باز، بہانہ باز۔
مُحَوِّلٌ: منی آرڈر بھیجنے والا، ڈرافٹ یا چیک کے ذریعہ روپیہ بھیجنے والا، ملکیت وغیرہ تبدیل کرنے والا، ٹرانسفر کرنے والا۔
المُحَوَّلُ إِلَيْهِ: جس کی طرف ٹرانسفر کیا گیا ہو، جس کے نام ملکیت منتقل کی گئی ہو۔
مُحَوِّلُ السِّكَّةِ الحَدِيدِيَّة، مُحَوِّلَة: (مِفْتَاحُ تَحْوِيلِ خَطِّ السَّيْر): پائنٹ، قینچی جس کی مدد سے ریل کی پٹری بدلتی ہے۔
مِحْوَلْجِيّ (د) مُحَوِّل: سوئچ مین، ریل کی پٹری کی قینچی لگانے اور ہٹانے والا۔
مُحَوَّلٌ عَلَيه بالبَرِيد: رقم پانے والا، جس کے نام منی آرڈر کیا گیا یا ڈرافٹ بھیجا گیا۔
مُحَوَّلٌ له، مُحَالٌ: جس کے نام چیک دیا گیا۔
مُسْتَحِيلٌ: باطل، ناممکن۔
(حَوْمٌ) حَامَ ـُ علی الشيء و حَوْلَه حَوْمًا و حَوَمَانًا: چکر لگانا، گھومنا، منڈلانا۔
حَوْمَة ج: حَوْمَات: کسی چیز کا بڑا حصہ۔
حَوْمَةُ الوَغَى: معرکہ کارزار۔
حَوْمَةُ القِتَال وغیرہ: شدت۔
حَوَى الشيءَ ـِ حَوَايَةً: جمع کرنا، سمیٹنا۔
__ و احْتَوَى الشيءَ و عَلَيْه: مشتمل ہونا، حاوی ہونا۔
تَحَوَّى: سمٹنا، سکڑنا، گول ہونا۔
حَوِيَّةُ حِبَالٍ: رسی کا گولا۔
حَاوٍ و مُحْتَوٍ: جامع، مشتمل، محیط۔
حَاوٍ: مداری، بازی گر، شعبدہ باز۔
__ الحَيَّات: سپیرا۔
جِرَابُ الحَاوِي: مداری کا جھولا۔
مُحْتَوَى: مفہوم۔
المُحْتَوَيَات: مضامین، مشمولات، مندرجات۔
مُحْتَوِيَاتُ الرِّسَالَة: خط کا مضمون۔

ح..........ی

حَيْثُ: جہاں۔
بِحَيْثُ: باعتبار، بلحاظ، اس طرح کہ۔
بِحَيْثُ أَنْ: بایں طور کہ، اس اعتبار سے کہ، اس حیثیت سے کہ۔

مِنْ حَیْثُ: باعتبار، اس وجہ سے کہ، جہاں سے۔
حَیْثُ کَانَ: جیسا بھی ہو، جہاں بھی ہو۔
حَیْثُمَا: جہاں کہیں۔
حَیْثُمَا اتَّفَقَ: جس طرح ہو سکے، جس طرح بن پڑے، جس طرح ممکن ہو۔
حَیْثِیَّة: اعتبار، لحاظ، وقعت۔
مِنْ هٰذِهِ الْحَیْثِیَّة: اس لحاظ سے، اس اعتبار سے۔
حَیَّدَ الشیْ تَحْیِیدًا: علیحدہ کرنا۔
تَحْیِید: غیر جانبدار بنانا۔
حَادَ عَن كذا ـِ حَیْدًا و حَیَدَانًا: علیحدہ ہونا، کنارہ کش ہونا، غیر جانبدار ہونا۔
حَایَدَه مُحَایَدَةً و حِیَادًا: بچنا، الگ رہنا۔
حَیْدٌ، حَیَدَان، مَحِید: علیحدگی، اجتناب۔
لَا مَحِیدَ عَنْه: اس سے مفر نہیں۔
عَلٰی حَیْدَةٍ: علیحدہ، الگ، غیر جانبدار۔
حِیَادٌ، مُحَایَدَة: غیر جانبداری، کنارہ کشی، ناوابستگی، علیحدگی۔
الحِیَادُ الإِیْجَابِیّ: مثبت ناوابستگی۔
شُقَّةُ حِیَادٍ: غیر جانبدار علاقہ جو دو ملکوں کے درمیان ہوتا ہے۔
مُحَایِد: غیر جانبدار۔
مُحَایِدٌ، علی الحِیَاد: کنارہ کش، غیر جانبدار۔
حَیَّرَ تَحْیِیرًا: حیران کرنا، پریشان کرنا، شک میں ڈالنا۔
حَیَّرَ بالأسْئِلَة: سوالات کے ذریعہ پریشان کرنا، لاجواب کرنا۔

حَارَ حَیَرَانًا و حَیْرَةً: تردد میں پڑنا، شک میں پڑنا (۲) حیران ہونا۔
احْتِیَار: پریشان و حیران ہونا۔
مُتَحَیِّر، فی حَیْرَة: حیران، حیران زدہ۔
مُحَیِّرٌ: پریشان کن، حیرت انگیز۔
حَائِرٌ: آشفتہ حال، پریشان حال۔
حَیِّز: (دیکھئے حوز)۔
تَحَیُّز: بے جا طرفداری، جانبداری۔
مُتَحَیِّز من جَانِبٍ وَاحِدٍ: یک طرفہ، حمایت کنندہ۔
حَازَ ـِ حَیْزًا: ہانکنا، اونٹ کو چلانا۔
مُحَایِزٌ إِلٰی: جانبدار۔
حَیْزَ بُون: بڈھی عورت۔
حَیْصٌ: (ض) الگ ہونا، فرار ہونا۔
مَحِیصٌ: مفر، جائے فرار، چھٹکارا۔
حَیْفٌ: ظلم وستم۔
حَافَ عَلَیْه ـِ حَیْفًا: ظلم وزیادتی کرنا۔
حَیْق: انجام، انجام بد۔
حَاقَ ـِ حَیْقًا و حُیُوْقًا، و حَیَقَانًا و أَحَاقَ به إِحَاقَةً: احاطہ کرنا۔
حَیْک: (دیکھئے حوک)۔
حَیَّنَ الأَمْرَ تَحْیِیْنًا: کسی کام کا وقت مقرر کرنا۔
تَحَیُّن سَاعَةِ العَمَل: کام کا موقع ہاتھ لگنا۔
تَحَیُّن الفُرْصَة لکذا: موقع کی تلاش، موقع کی تاک میں رہنا، موقع تلاشنا۔
حَانَ الوَقْتُ ـِ حَیْنًا و حَیْنُوْنَةً: وقت آنا۔
حَانَتِ السَّاعَةُ ـِ حَیْنًا: موقع لگنا۔

حَـانَـاتُ الفِسقِ و الفُجُور: بدکاریوں کے اڈے۔
حَانَتِ الفُرُصَةُ: موقع ملنا۔
حِينٌ ج: أَحْيَانٌ: وقت، زمانہ، موقع۔
إِلٰى حِيْنٍ: کچھ عرصہ کیلئے، کچھ عرصہ تک۔
فِي حِيْنٍ: بروقت۔
حِينًا بَعْدَ حِيْنٍ: موقع بہ موقع۔
أَحْيَانًا: کبھی کبھی۔
حِيْنَمَا: جب۔
حِيْنَئِذٍ: اس وقت۔
حَانٌ، حَانَةٌ: شراب خانہ۔
حَيِيَ ــ حَيَاةً: زندہ رہنا۔
منه: شرمانا، شرم کرنا۔
حَيَّاه تَحِيَّةً: خراجِ تحسین ادا کرنا، سلام کرنا۔
حَيَّاهُ تَحِيَّةَ إِكْرَام: آداب بجالانا۔
أَحْيَـاهُ إِحْيَاءً: زندگی عطا کرنا، زندہ کرنا، جان ڈالنا (۲) تازہ کرنا (۳) متحرک و فعال بنانا۔
إِحْيَاءُ حَفْلَةٍ: پارٹی دینا۔
إِحْيَاءُ الذِّكْرِ: یاد منانا۔
إِحْيَاءُ اللَّيْلِ: شب بیداری کرنا۔
حَيٌّ ج: أَحْيَاءٌ: (۱) زندہ (۲) زندہ دل (۳) باقی (۴) فعال، مستعد و متحرک (۵) تازہ۔
حَيٌّ (من مَدِيْنَةٍ) ج: أَحْيَاء: وارڈ، محلہ۔
أَحْيَاءٌ سَكَنِيَّة: رہائشی علاقے، کالونیاں۔
حَيَاة: زندگی، لائف، تازگی۔
عِلْمُ الحياةِ أو الأَحْيَاء: بیالوجی۔
عِلْـمُ الـحَـيَـاةِ الاجْتِمَاعِيَّة: سوشل بیالوجی۔

أَحْيَائِيّ: بیالوجیکل۔
أَحْيَائِيّ: ماہر بیالوجی ج: أَحْيَائِيُّون۔
حَيَاةٌ جَامِعِيَّةٌ: یونیورسٹی لائف۔
حَيَاةٌ زَوْجِيَّةٌ: ازدواجی زندگی۔
حَيَاةٌ صَاخِبَةٌ: گہما گہمی کی زندگی۔
الحَيَاةُ العَائِلِيَّةُ: ازدواجی زندگی۔
حَيَاةٌ فِي السِّلْكِ الدِّبْلُومَاسِيِّ: سفارتی لائن کی زندگی۔
حَيَاةٌ قَاسِيَةٌ: کٹھن زندگی۔
حَيَوَانٌ ج: حَيَوَانَات: جانور۔
حَدِيْقَةُ الحَيَوَانَات: زو، چڑیا گھر۔
حَيَوِيٌّ: حیاتی، زندگی کا، زندگی کیلئے ناگزیر، زندگی کے متعلق، صحتمند، حیات بخش۔
حَيَوِيَّةٌ: بالیدگی، زندگی، نشوونما، توانائی، طاقت، تازگی، مستعدی، فعالیت، قوتِ حیات، حیاتی قوت۔
الأَعْضَاءُ الحَيَوِيَّةُ: وہ اعضاء جو زندگی کے لئے ناگزیر ہوں۔
حَيِيٌّ: شرمیلا۔
تَحِيَّة ج: تَحِيَّات: سلام، خراج عقیدت، خراجِ تحسین، خراجِ عقیدت پیش کرنا۔
تَحِيَّةُ إِكْبَار: خراجِ عقیدت۔
تَحِيَّةٌ عَسْكَرِيَّةٌ: فوجی سلام۔
تَحِيَّةُ القُرَّاءِ إِلَى المَجَلَّةِ: خراج تحسین، قارئین کا رسالہ کو خراجِ عقیدت۔
تَحِيَّةُ تَقْدِيْر: خراجِ عقیدت۔
مُحَيًّا: چہرہ۔
مُسْتَحْيٍ: شرمیلا۔

خ

خ .... ب

خَبَأَ ــ خَبْئاً: چھپانا۔

اِخْتَبَى، تَخَبَّى: چھپنا، پوشیدہ ہونا۔

إِخْبَاءُ الْمُسْتَقْبَلِ لِأَحَد: مستقبل کو تاریک بنانا۔

خَبْءٌ، خَبِيئَة: پوشیدہ چیز، راز۔

خَابِيَة ج: خَوَابِي: بڑا مٹکا۔

مَخْبَأ ج: مَخَابِئ: پناہ گاہ۔

مَخَابِئُ الأَسْلِحَة: اسلحہ کے ناجائز ذخیرے۔

خَبَبُ و خَبِيبُ الحِصَان: گھوڑے کی چال۔

خَبَّ ــ خَبّاً و خَبَباً، و خَبِيباً و اخْتَبَّ الحِصَانُ: دوگامہ چلنا، گھوڑے کا ایک طرف کے دو پیر ساتھ اٹھا کر چلنا۔

خَبُثَ ــ خُبْثاً و خَبَاثَةً و خَبَاثِيَةً: بدباطن ہونا، بدطینت ہونا۔

خُبْثٌ: بدباطنی، کمینہ پن۔

خَبِيث: بدباطن، کمینہ، بدطینت، برا، اذیت رساں۔

خَبِيثُ الرَّائِحَة: بدبودار۔

خَبَّرَ و أَخْبَرَ: بتانا، خبر دینا۔

خَبَرَ الأَمْرَ ــ خُبْراً و خِبْراً: تجربہ سے جاننا، تجربہ کرنا، آزمانا۔

خَبُرَ ــ خُبْراً: تجربہ کار ہونا، تجربہ حاصل کرنا، واقف کار ہونا۔

خَابَرَهُ مُخَابَرَةً: مراسلت کرنا، رابطہ قائم رکھنا، اطلاع بہم پہنچانا، خفیہ اطلاع دینا۔

خَابَرَ و تَخَابَرَ مع: گفتگو کرنا، بات چیت کرنا۔

اُخْتُبِرَ الأَمْرَ: جانچنا، آزمانا۔

اُخْتِبَار: آزمائش، جانچ، تحقیق، کھوج، امتحان، ٹیسٹ (۲) جانچ پڑتال کرنا ج: اُخْتِبَارَات۔

اُخْتِبَارُ الطَّائِرَة: ہوائی جہاز کی چیکنگ۔

اُخْتِبَارِيّ: آزمائشی، تجرباتی، امتحان سے متعلق۔

اُخْتَبَرَ الرَّجُلَ: امتحان لینا، ٹیسٹ کرنا۔

اِسْتَخْبَرَهُ و تَخَبَّرَهُ: معلومات کرنا، دریافت کرنا۔

اِسْتَخْبَرَ عَنْ: سوال کرنا، تحقیق کرنا۔

اِسْتِخْبَار: خبر رسانی، سراغ رسانی۔

اِستِخبارات: اطلاعات۔
خَبرٌ ج: اَخبارٌ: خبر، حادثہ۔
اَخبارِ: انفارمیشن۔
اَخبارٌ مَحلِیَّة: لوکل خبریں۔
وِکالَةُ الأخبار: نیوز ایجنسی۔
خُبرَةٌ و خِبرَةٌ: تجربہ، مہارت، واقفیت۔
مُخبر: باطن، لیبارٹری۔
مُخبِر: رپورٹر، خبر رساں۔
مُخبِرُ الشُرطَة: پولیس رپورٹر۔
مُخابِر: جاسوس، سی آئی ڈی۔
المُخابَرة: سراغرسانی، جاسوسی، انٹیلی جنس ج: مُخابَرات۔
مُخابَرةٌ تِلِیفُونِیَة: بذریعہ ٹیلیفون اطلاع رسانی۔
المُخابَرةُ العسکَرِیَة: فوجی محکمہ سراغرسانی۔
المُخابَرةُ المَرکَزِیَة: مرکزی انٹیلی جنس۔
المُخابَراتُ الامَرِیکِیَّة: امریکی سراغرسانی۔
المُخابَراتُ الحَربِیَة: جنگی محکمہ سراغرسانی۔
المُخابَراتُ العَامَّة: جنرل سراغرسانی۔
خِبراتٌ فَنِّیَة: ٹیکنیکل تجربات یا صلاحیتیں۔
خِبرةٌ قِتالِیَّة: جنگی تجربہ، جنگی مہارت۔
اَ سم المُخابَراتِ الحَربِیَّة: محکمہ اطلاعاتِ جنگ۔
مُختَبِر: تجربہ کار، ماہر، جانچنے والا، ٹیسٹ کرنے والا۔
مُختَبَرٌ: تجربہ خانہ، لیبارٹری ج: مُختَبَراتٌ۔
خَبِیرٌ (قَادِرٌ عَلی تَقدِیمِ المَشُورَة): ماہر، اکسپرٹ ...... باصلاحیت، آزمودہ کار، تجربہ کار، واقف کار، ماہر فن (۲) بصیرت رکھنے والا ج: خُبَراءُ۔
خَبِیرٌ إدَارِیّ: انتظامی امور کا ماہر۔
خَبِیرٌ اسْتِثمارات: سرمایہ کاری کا ماہر۔
خَبِیرٌ فی شُئُون کذا: معاملات کا ماہر۔
خَبِیرٌ مُثمِنٌ بالمَزَاد: نیلامی کا ماہر۔
خَبِیرٌ مُحاسِب: ماہر حسابات، اکاونٹنٹ۔
خَبِیرٌ مُعایِن: سرویر، سروے کرنے والا۔
خَبَزَ العَجِینَ ـِ خَبزاً و اختَبَزَ: روٹی پکانا۔
خُبزٌ ج: اَخبازٌ: روٹی، چپاتی، بریڈ۔
خَبّازٌ: نان بائی، تنور والا۔
مَخبَزٌ، مَخبَزَةٌ ج: مَخابِزُ: روٹی کی دکان، روٹی کا تنور، بیکری، بسکٹوں کا تنور۔
خُبزٌ إفرَنجِیّ: ڈبل روٹی۔
خُبزٌ مُضاعَف: ڈبل روٹی۔
خَبَص الشَیءَ بالشَيءِ ـِ خَبصاً: ملانا، مخلوط کرنا۔
خَبَطَ ـِ خَبطاً: زور سے مارنا، دھکے کھانا، بے ہدایت و بصیرت کام کرنا۔
خَبَطَ البَابَ: دروازہ کھٹکھٹانا۔
خَبطَة: ایک ضرب، ایک جھپک۔
خَبَلَ ـُ خَبلاً و خَبَّلَ تَخبِیلاً: (۱) پریشان کرنا، دیوانہ بنادینا (۲) پیچیدگی پیدا کرنا، رکاوٹ ڈالنا، الجھا دینا۔

خَبِلَ ۔ خبلاً: عقل زائل ہونا، دیوانہ ہونا، دماغ میں خرابی آنا۔
خَبْلٌ و خَبَلٌ: (۱) جنون (۲) پریشانی۔
مُخَبَّلٌ: پریشان، پیچیدہ، الجھا ہوا (دھاگا وغیرہ الجھا ہوا)۔
خَبْوٌ: (ن) آگ کا ٹھنڈا ہونا، بجھنا۔
خَبَّاہ تَخْبِئَۃً: آگ کو ٹھنڈا کرنا، بجھانا۔
خِبَاءٌ ج: أخْبِيَۃٌ: خیمہ۔
خِبَاءُ القَمْحِ و الشَّعِیْرِ: بھوسی، گیہوں کی بالوں کا چھلکا۔

خ .... ت

خَتَرَہ ۔ خَتْراً: بے وفائی کرنا، دغا کرنا۔
خَتْرٌ: بے وفائی، بدعہدی، غداری۔
خَتَّار: بڑا بے وفا، بدعہد، غدار۔
خَتَلَ ۔ خَتْلاً وَ خَتَلاناً و خَاتَلَ مُخَاتَلَۃً: فریب دینا۔
خَتْلٌ و مُخَاتَلَۃ: دھوکہ دہی، دھوکہ بازی۔
مُخَاتِلٌ: دھوکہ باز۔
خَتَمَ الشئی و علیہ ۔ خَتْماً و خِتَاماً: مہر لگانا۔
خَتَمَ الإِنَاءَ: برتن کو بند کرنا۔
خَتَمَ العَمَلَ: مکمل کرنا۔
خَتْمٌ: (۱) مہر لگانا (۲) مہر کا نشان، سیل، اسٹامپ۔
خَتْمٌ و خَاتَمٌ ج: خَوَاتِمُ: مہر، مہر کرنے کا آلہ۔
خَتْمُ الإِلْغَاءِ: منسوخ کرنے کی مہر۔
خَتْمٌ بِالتَّارِیْخِ: ڈیٹر، ڈیٹ اسٹامپ۔
خَتْمُ بَرِیْدٍ: ڈاک خانہ کی مہر۔
خَتْمٌ بالشَّمعِ: لاک کی مہر۔
خَتْمُ التَّارِیْخِ: ڈیٹر، ڈیٹ کی مہر، تاریخ کی مہر۔
خَتْمُ مَطَّاطٍ: ربڑ اسٹامپ۔
خَتْمٌ مَطَّاطِیٌّ: ربڑ اسٹامپ۔
خَتْمُ الوَقْتِ: ٹائم اسٹامپ۔
خِتَامٌ: انتہاء، اخیر، خاتمہ، پچھلا حصہ، اختتام، لاسٹ۔
فِی الخِتَامِ، خِتَاماً: اخیر میں۔
خِتَامِیٌّ: آخری، انتہائی، اختتامی، فائنل۔
خَتَّامَۃ، خَبَّارَۃُ الخَتْمِ: اسٹامپ پیڈ، مہر کی سیاہی کی ڈبیہ۔
مَخْتُوْم: (۱) مہر لگا ہوا (۲) سربمہر، سیل بند۔
مَخْتُوْمٌ بِخَتْمِ فُلانٍ: فلاں کی مہر لگی ہوئی چیز۔
خَتَنَ ۔ خَتْناً و خِتَاناً و خِتَانَۃً: (۱) کاٹنا (۲) ختنہ کرنا۔
خَتْنٌ و خِتَانٌ و خِتَانَۃ: ختنہ کا پیشہ۔
خَتَنٌ ج: أخْتَانٌ: داماد۔
خَتِیْنٌ و مَخْتُوْنٌ: ختنہ شدہ۔
خَاتُوْن: (ف) ج: خَوَاتِیْن: عورت، بیگم، لیڈی۔

خ .... ث

خَثَرَ ۔ الدَّمُ وغیرہ خَثْراً و خَثَراً و خُثُوراً و خَثَراناً و تَخَثَّرَ: گاڑھا ہونا، جم جانا، غلاظت آجانا۔
خَثَرَ اللَّبَنُ: دہی بن جانا۔
خَثَّرَ و أخْثَرَ: جمانا، گاڑھا کرنا، دہی جمانا۔
خُثَارَۃُ الشَّئیِ: تلچھٹ، کسی چیز کا باقی ماندہ گاڑھا

حصہ۔
خَاثِر، مُخْثَر: منجمد، دہی بنا ہوا۔
خَاثِرَة: خون کا تھیکا۔

خ .... ج

خَجِلَ ۔ خَجَلاً و خَجْلَة: شرمانا، شرم آنا، شرمندہ ہونا۔
خَجَّلَه و أخْجَلَه: (۱) شرم دلانا (۲) رسوا کرنا، بدنام کرنا۔
خَجَلٌ: (۱) شرم (۲) رسوائی، جھجک۔
خَجِلٌ، خَجْلان، مَخْجُول: شرمیلا، شرمندہ۔
خَجُولٌ: شرمیلا، ڈرپوک۔
مُخْجِلٌ: رُسوا کن۔

خ .... د

خَدَّ الأرْضَ ۔ خَدّاً: زمین کو ہل کے ذریعہ کھودنا۔
خَدَّ و تَخَدَّدَ الجِلْدُ وغَيْرُه: (تکرّش) سکڑ جانا، سمٹ جانا، جھرّی پڑ جانا۔
خَدٌّ ج: خُدُودٌ: رخسار۔
خَدٌّ، خُدَّة، أُخْدُودٌ ج: أخَادِيْدُ و خُدَد: گڑھا، لمبا گڑھا۔
مِخَدَّة: (۱) تکیہ (۲) گدّا۔
خَدِرَ ۔ خَدَراً: (بدن کے حصہ کا) سن ہونا۔
خَدَّرَه تَخْدِيْراً: سن کر دینا۔
خَدَّرَه و أخْدَرَ: (۱) بے ہوش کر دینا، مدہوش کرنا (۲) پردہ میں بٹھانا، پردہ نشین بنانا۔
خِدْرٌ ج: أخْدَار و خُدُوْر: پردہ، خاتون کی خلوت گاہ۔
خَدَرٌ، خُدْرَة: بے حسی، بے ہوشی۔
خَدِرٌ، مُخَدَّرٌ: سن، بے ہوش۔
مُخَدِّر: نشہ آور، سن کرنے والا۔
مُخَدِّرَات: نشہ آور اشیاء۔
مُخَدِّرٌ: نشہ والا (معمولی درجہ کا)۔
مُخَدَّرَة: پردہ نشیں عورت، خلوت نشین عورت۔
خَدَشَ ۔ خَدْشاً و خَدَّشَ: خراش لگانا، کھسوٹنا، نوچنا، پارہ پارہ کرنا، مجروح کرنا۔
خَدَشَ السُّمْعَةَ: شہرت کو مجروح کرنا۔
خَدَعَ ۔ خَدْعاً: دھوکہ دینا، فریب دینا، چال چلنا۔
اِنْخِدَاع: دھوکہ کھانا، فریب میں آنا۔
خُدْعَةٌ ج: خُدَعٌ: چال، دھوکہ۔
خُدْعَةٌ لَطِيْفَة: عمدہ چال۔
خَدِيْعَةٌ و خِدَاعٌ: دھوکہ دہی، نفاق۔
خِدَاعُ البَصَر: فریبِ نظر۔
خَدَّاع، مُخَادِع: دھوکہ باز، فریب کار۔
خِدَاعِيّ: پُرفریب۔
خَيْدَعٌ: سراب۔
مَخْدَع ج: مَخَادِع: کمرہ، چیمبر۔
مَخْدُوْع: فریب خوردہ۔
خَدِلَ ۔ خَدَلاً: سن ہو جانا۔
خَدَمَه ۔ خِدْمَة: خدمت کرنا، کسی کا کام کرنا۔
خَدَمَ الأرْضَ: زمین کو قابل کاشت بنانا۔
اِسْتِخْدَام: (۱) خدمتگار بنانا (۲) استعمال کرنا (۳) کام لینا، خدمت لینا (۴) نوکر رکھنا (۵) کسی کا نوکر ہو جانا، خدمت پر مامور ہو جانا۔

اسْتِخْدَامُ حَقِّ الفِيتُو: ویٹو استعمال کرنا۔
اسْـتِخْدَامُ السُّلْطَاتِ: اختیارات سے کام لینا۔
اسْتِخْدَامُ قَنَابِلِ الغَازِ المُسِيلِ لِلدُّمُوْعِ: آنسو گیس کے گولے استعمال کرنا۔
اسْتِخْدَامُ القُوَّةِ: طاقت استعمال کرنا، طاقت کا استعمال۔
اسْتِخْدَامُ النُّفُوذِ: اثر و رسوخ استعمال کرنا۔
اسْتِخْدَامُ الهِرَاوَاتِ: لاٹھی چارج کرنا۔
خَدَمٌ، خُدَّامٌ: خدمتگاران۔
خِدْمَةٌ: کام، مدد، نوکری، استعمال۔
الخَدَمُ المَنْزِلِيُّونَ فِي السِّفَارَةِ: سفارت خانہ کا لوکل اسٹاف، مقامی اسٹاف۔
خِدْمَةٌ: کارکردگی، صلاحیت، سروس۔
خِدْمَةٌ تَعْوِيضِيَّةٌ: معاوضہ کا کام۔
خِدْمَةٌ جَوِّيَّةٌ: فضائی سروس۔
الخِدْمَةُ الذَّاتِيَّةُ: سیلف سروس۔
خِدْمَةٌ عَسْكَرِيَّةٌ: فوجی سروس، ڈیوٹی۔
الخِدْمَةُ فِي الفَنَادِقِ وَ المَطَاعِمِ: ہوٹلوں یا ریسٹورنٹوں کی سروس۔
خِدْمَةٌ مَدَنِيَّةٌ: سِول سروس۔
خِدْمَةُ المَصْلَحَةِ: مفاد کے لئے کام کرنا۔
خِدْمَةٌ مَنْزِلِيَّةٌ: گھریلو کام کاج۔
خِدْمَةُ النَّفْسِ: سیلف سروس۔
خِدْمَةٌ وَطَنِيَّةٌ: نیشنل سروس۔
خَدَمَاتٌ اجْتِمَاعِيَّةٌ: سوشل سروس۔
خَدَمَاتُ البَرِيدِ: میل سروس۔
خَدَمَاتٌ تَعْلِيمِيَّةٌ: ایجوکیشنل سروس۔
الخَدَمَاتُ الجَوِّيَّةُ الخَاصَّةُ: پرائیویٹ فضائی سروس۔
خَدَمَاتُ الدِّفَاعِ: ڈیفنس سروس۔
خَدَمَاتٌ سِيَاحِيَّةٌ: ٹورسٹ سروس۔
خَدَمَاتٌ صِحِّيَّةٌ: ہیلتھ سروس۔
خَدَمَاتٌ عَامَّةٌ: پبلک سروس۔
فِي خِدْمَتِكُمْ: آپ کے تابع۔
خَدَّامٌ، خَادِمٌ: خدمتگار، نوکر، کاریگر، م: خَادِمَةٌ، خَدَّامَةٌ۔
مُسْتَخْدَمٌ: (۱) ملازم، نوکر، کارکن (۲) مستعمل۔
خَادِمِيَّةٌ: ملازمت، نوکری۔
اسْتِخْدَام: استعمال۔
مُسْتَخْدَمُونَ: اسٹاف۔
مُخَدَّمٌ: ہموار۔
فِي الخِدْمَةِ: اون ڈیوٹی۔
خِدْنٌ ج: اخْدَان: دوست، ساتھی۔
خَادَنَهُ مُخَادَنَةً: دوستی کرنا۔
الخِدِيو: (ترکی) وائسرائے، مصر کے سابقہ فرماں رواؤں کا لقب جو سلطان ترکی کے تابع ہوتے تھے۔

خ .... ذ

خُذْرُوف ج: خَذَارِيف: پھرکی، لٹو۔
خَذَفَ ـِ خَذْفًا: کنکریاں یا پتھر وغیرہ پھینکنا۔
خَذَلَ ـُ خَذْلاً وَ خُذْلاً: (۱) چھوڑنا، دست بردار ہونا، دست کش ہونا (۲) غالب ہونا۔

خَذَلَه ـُ خِذلاناً: بھانڈا پھوڑنا، بے نقاب کرنا، بھرم کھولنا، بے یار و مددگار چھوڑنا، فیل کرنا۔
خُذلانُ مَساعِی اَحَدٍ: کوششوں کو ناکام بنانا۔
انْخِذال: بے یار و مددگار رہ جانا، تنہا رہ جانا۔
تَخاذُل: پیچھے ہٹنا۔
مُتَخاذِل: شکست پسند۔

خ............ر

خِراءٌ، خُرءٌ: پرندہ کی بیٹ۔
خَرِئَ ـَ خَرأً و خَراءةً: بیٹ کرنا، پاخانہ کرنا۔
خَرَبَ ـِ خَرباً و خَرَّبَ: ویران کرنا، اُجاڑنا، برباد کرنا۔
خَرِبَ ـَ خَرَباً و خَراباً: ویران ہونا، اجڑنا، برباد ہونا۔
تَخَرَّبَ: ویران ہونا، منہدم ہونا، اجڑنا۔
خُرْبُ الإبْرَة: سوئی کا سوراخ۔
خَرِبٌ، مُتَخَرِّبٌ: منہدم۔
خَرِبٌ و خَرِبانٌ: (دا) مرمت طلب، اصلاح طلب۔
خَـرِبٌ و خَـرابٌ: (۱) ویران، غیر آباد (۲) بربادی، تباہی۔
خَـرابٌ: ویران، تباہ شدہ، اُجاڑ، آدم نہ آدم زاد۔
خِـرْبَة، خَـرِبَة (دا) خَـرابَة: ویران جگہ، ویرانہ، کھنڈر ج: خَرائِبُ۔
خَرُوبَة: گیہوں کے دانے کا چوبیسواں حصہ۔

خـارِبٌ، مُخَـرِّبٌ: تباہ کن، تخریبی، اجاڑنے والا، تباہ کرنے والا۔
خَرابٌ شامِلٌ: مکمل بربادی۔
التَخرِيبُ و التَّدمِيرُ: تباہی و بربادی۔
خَـرْبَشَة: خراب کرنا، فاسد کرنا، بگاڑنا، بے پروائی سے لکھنا۔
خَرْبَقَة: خراب کرنا، بگاڑنا۔
خَرَتَ ـُ خَرْتاً: سوراخ کرنا۔
خَـرْتٌ ج: أخْـراتٌ: سوئی وغیرہ کا ناکہ، سوراخ۔
خَرْتِيتٌ: (دا) گینڈا، ایک سمندری جانور۔
خَـرَجَ ـُ خُرُوجاً: (۱) نکلنا، باہر ہونا (۲) نمودار ہونا، ضد غاب (۳) ابھرنا۔
خَرَجَ به: نکالنا، ابھارنا۔
__ علیه: سامنے آنا۔
__ علی الحاکِم أو الحُکومَة: بغاوت کرنا۔
__ عنهم: الگ ہونا، مخالف ہونا۔
إخْراج: پھینکنا، بھیجنا، وجود میں لانا، منظر عام پر لانا، تیار کرنا، باہر نکلنا، حذف کرنا، مستثنیٰ کرنا (۲) برطرفی، تیاری۔
إخْراجُ المجلّة: رسالہ تیار کرنا۔
تَـخَرَّجَ: سند فراغ حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، تعلیم پانا، گریجویٹ ہونا۔
تَـخَـرَّجَ فی مَـدْرَسَة: کسی مدرسہ کا فاضل یا سند یافتہ ہونا۔
اِسْتِـخْـراج: نکالنا، مسئلہ حل کرنا، اخذ کرنا۔
مُتَـخَـرِّجٌ، خِـرِّيجٌ: سند یافتہ، فاضل،

فارغ التحصیل، گریجویٹ۔
تَخرِیج: گریجویٹ بنانا، فاضل بنانا، نکالنا، دھتکارنا، حذف کرنا، مستثنیٰ کرنا، ٹریننگ دینا، سندِ فضیلت عطا کرنا، گریجویشن۔
تَخرِیجُ دُفعَةٍ: کھیپ تیار کرنا۔
تَخارَجَ عَنْ حَقٍ: دست بردار ہونا، کسی حق کو چھوڑ دینا۔
تَخارُج: دست برداری، دست کشی۔
خُرجٌ ج: اَخرَاجٌ: تھیلی۔
خَرجٌ (ضد دَخل): خرچ۔
خَرجُ الجُندِیِّ: سپاہی کا راشن۔
خَرجٌ و خَراجٌ: ٹیکس، مال کی ایک مقررہ مقدار جو زمین کے ٹیکس کے طور پر لی جاتی ہے۔
خُرجَة: ابھار۔
خُرجَةٌ فی بِناءٍ: عمارت کا ابھار یا پھولن۔
خُرَاجٌ: (دُمَّل) پھنسی، پھوڑا۔
خَارِجٌ: باہر۔
خَارِجَ الخِدمَة: آف ڈیوٹی، بلا ڈیوٹی، ڈیوٹی پر نہیں۔
خَارِجَ دائِرَةِ الاِختِصاص: دائرۂ اختیار سے باہر۔
خَارِجٌ عَلَى الحِزب: پارٹی کا باغی۔
خَارِجٌ عَنِ المَوضُوع: خارج از بحث۔
خَارِجَ المُنشأة: آؤٹ ڈور۔
خَارِجَ نِطاقٍ: ودِ آؤٹ، دائرہ سے باہر۔
خَارِجًا: باہر، باہر کی جانب۔

خَارِجِیٌّ: بیرونی، پردیسی، غیر ملکی۔
وِزَارَةُ الخَارِجِیَّة: وزارت خارجہ۔
خِرِّیجُ جَامِعَةٍ: گریجویٹ، یونیورسٹی کا فاضل۔
خِرِّیجُ کُلِّیَّةٍ: گریجویٹ، کالج کا ڈگری یافتہ۔
مَخرَجٌ ج: مَخارِج: گزرگاہ، باہر نکلنے کا دروازہ (ضد مَدخَل) روشن دان، کھڑکی، راہ فرار۔
مُخرِجٌ سِینَمائِیٌّ: فلم تیار کرنیوالا۔
خُرُوج: ایگزٹ EXIT (باہر جانے کا راستہ)۔
خُرُوجٌ الی جَانِبِ العَدُوِّ: دشمن سے ملنا۔
الخُرُوجُ علی (حِزبٍ مثلاً): بغاوت کرنا۔
الخُرُوجُ علی شَیءٍ: خلاف ورزی کرنا۔
الخُرُوجُ عَنْ إطَارِ المُهِمَّة: دائرۂ کار سے تجاوز کرنا۔
الخُرُوجُ مِنَ المَخرَجِ الطَّبِیعِیِّ: اصل راستہ سے نکلنا۔
خَرخَرَة: خراٹے لینا۔
خَرِدَتِ البِنتُ ـ خَرَدًا: باکرہ ہونا۔
خَرِیدٌ و خَرُودٌ: باکرہ ج: خَرَائِدُ و خُرُد۔
خُردَوات: (۱) سامان، خردہ، متفرق سامان۔
خُردَوات: (۲) عورتوں کا ضروری سامان (دا)۔
خُردَجِیٌّ: خردہ فروش۔
خَردَل: رائی۔
خَردَلَة: رائی کا دانہ۔

خَرَّ ـِ خَرّاً و خُرُوْراً: نیچے گرنا، زمین پر گرنا (۲) سجدہ میں گرنا (۳) خراٹے لینا۔
خَرَّ الماءُ ـِ خَرِیْراً: پانی بہنے کی آواز ہونا۔
خَرِیْرُ الماء: پانی بہنے کی آواز۔
خَرَزَ ـُ خَرْزاً: سوراخ کرنا، سینے کے لئے سوراخ کرنا۔
خَرَزٌ و: خَرَزَة: تسبیح کا دانہ، مہرہ، سوراخ دار دانہ۔
خَرَزَةُ البِئر: کنویں کی مینڈ۔
مِخْرَزٌ ج: مَخَارِز: ستاری، آر۔
خَرِسَ ـَ خَرَساً: گونگا ہونا، خاموش ہونا، سکوت اختیار کرنا، زبان بند ہونا۔
إِخْرَاس: گونگا بنانا، خاموش کرنا۔
أَخْرَسُ ج: خُرْسٌ: گونگا، بے آواز۔
خَرَسٌ: گونگا پن، خاموشی۔
خَرَسَان، خَرَسَانَة: کنکریٹ۔
خَرَسَانٌ مُسَلَّح: لوہا ملی ہوئی کنکریٹ۔
خَرَشَ ـِ خَرْشاً: خراش لگانا، مکھی کا کاٹنا۔
خَرَصَ ـُ خَرْصاً: جھوٹ بولنا، تخمینہ کرنا، اندازہ لگانا، انکل و اندازہ سے بات کہنا۔
تَخَرَّصَ علی: الزام لگانا، تہمت لگانا، افترا پردازی کرنا۔
خَرَّاصٌ: جھوٹا، افترا پرداز، انکل اور اندازہ سے بات کہنے والا۔
خَارِصِیْن: توتیا، جست۔
خَرَطَ الخَشَبَ أو المَعْدِنَ بِالْمِخْرَطَةِ ـُ خَرْطاً: (۱) خراد پر چڑھانا (۲) کسی کام پر لگانا (۳) جھوٹ بولنا۔
اِسْتَخْرَطَ فی البُکاء: پھوٹ پھوٹ کر رونا۔
اِنْخِرَاط: منسلک ہونا، لڑی میں پرو جانا۔
اِنْخِرَاطٌ فِی العَمَل: منہمک ہو جانا۔
خَرْطٌ وَ خِرَاطَة: خراد کا کام یا پیشہ۔
خَرَّاطُ الخَشَبِ أو المَعْدِن: خراد کرنے والا۔
مِخْرَطَة: خراد کی مشین ج: مَخَارِط۔
خَرِیْطَة، خَارِطَة ج: خَرَائِط: (۱) جغرافیائی نقشہ (۲) نقشہ، میپ، چارٹ (۳) سپاہی کا تھیلا، بیگ۔
مَخْرُوط: مخروطی شکل کا۔
خَارِطَةٌ تَنْظِیْمِیَّة: تنظیمی چارٹ۔
خَرِیْطَةٌ لِمَدِیْنَة: شہر کا نقشہ۔
خُرْطُوْش و: خَرْطُوْشَة: کارتوس۔
خُرْطُوْم ج: خَرَاطِیْم: سونڈ۔
خُرْطُوْمُ المَاء: پانی کا پمپ۔
خَرِعَ ـَ خَرَعاً و اِنْخَرَعَ: کمزور ہونا، ٹوٹنا، پھٹنا، سست ہو جانا۔
خَرَعَ ـَ خَرْعاً: پھاڑنا۔
خَرُعَ ـُ خَرَاعَة: ڈھیلے جسم کا ہونا، بدن کا ڈھیلا ہونا، سست ہو جانا۔
خَرِیْعٌ، خَرِعٌ: ڈھیلا، کمزور، سست۔
اِخْتِرَاع: ایجاد کرنا، نئی چیز بنانا۔
مُخْتَرِع: موجد، بانی۔
خَرِفَ ـَ خَرَفاً و خَرَافَة: بڑھاپے یا بیماری سے سٹھیا جانا (۲) کم عقل ہونا، مخبوط الحواس ہونا۔
خَرَف: سٹھیاپا، بے عقلی، مخبوط الحواسی۔
خَرِف: سٹھیایا ہوا، کم عقل، مخبوط الحواس۔

خُرافَة: (۱) کم عقلی کی بات (۲) غلط اعتقادی (۳) افسانہ جو لوگوں میں مشہور ہو (۴) بے سروپا بات، جھوٹ و دروغ، وہمی اور خیالی چیز ج: خُرافات۔
خُرافِیّ: من گھڑت، بے حقیقت، بے سروپا، مبنی براوہام (۲) لغو و بیہودہ، لایعنی (۳) ناقابل اعتبار۔
خَرُوف ج: خِرفان و أخرِفَة: (۱) مینڈھا، دُنبہ (۲) بکری کا بچہ (بڑا)۔
خَرِیف: خزاں، پت جھڑ، ماہ اگست سے اکتوبر تک۔
خَرِیفِیّ: خزاں کا، فصلِ خریف کا۔
خَرِقَ ــُـ خَرَقَةً و خُرقاً: بیوقوف ہونا۔
خَرَقَ ــُـ خَرقاً و خَرَّقَ: پھاڑنا (۱) روشن دان کھولنا، کھڑکی کھولنا، سوراخ کرنا۔
خَرَقَ العَادَةَ: فوق العادت کام کرنا۔
خَرَقَ و اختَرَقَ الشئَ: کسی چیز کو پار کرنا، پاس کرنا، مجمع کو چیر کر نکلنا۔
خُرق: بیوقوفی۔
خَرق: سوراخ، پھٹن، پنکچر (۲) خلل اندازی، خلاف ورزی۔
خِرقَة ج: خِرَق: چیتھڑا، دھجی، چندی، پرانے کپڑے کا ٹکڑا۔
خارِق: آرپار، پھاڑنے والا۔
خارِقُ الطَّبِیعَة: مخالفِ فطرت۔
خارِقُ العَادَة: فوق العادت۔
خَرقُ الاتِّفاقِیَّة: معاہدہ کی خلاف ورزی۔
خَرقُ امتِیازاتٍ بَرلَمانِیَّة: پارلیمنٹری مراعات شکنی۔
خَرقُ حُرمَةٍ: وقار کو مجروح کرنا، بے حرمتی۔
خَرقُ قانُونِ الحُکُومَة: سرکاری قانون کی خلاف ورزی۔
خَرقٌ لِحُقُوقِ الأنسان: انسانی حقوق کی خلاف ورزی۔
خَرقاً لِلمادَّة: (س): دفعہ (س) کی خلاف ورزی کرتے ہوئے (مثلاً)۔
إخراق: بے وقوف بنانا۔
اختِراق: آرپار ہونا، پھٹنا، سوراخ ہونا (۲) پھاڑنا، چیرنا، پار کرنا (۳) خلاف ورزی۔
اختِراقُ الحُرمَة: بے عزتی کرنا۔
خارِق: غیر معمولی۔
خَرَمَ ــِـ خَرماً و خَرَّمَ: سوراخ کرنا۔
خَرَمَ: (را) راستہ کو مختصر کرنا، کسی کام کے لئے مختصر راستہ اختیار کرنا (۲) حساب غلط ہونا، حساب میں غلطی ہونا۔
خَرَم: پیچ، پچنگ، سوراخ کرنا۔
اختِرام: ہلاک کرنا۔
اُختُرِمَ: ہلاک کرنا۔
خُرم: سوراخ۔
خُرمُ الإبرَة: سوئی کا ناکہ۔
خَرّامَة: برما، چھیدنے یا سوراخ کرنے کا اوزار۔
تَخرِیمَة: مختصر راستہ۔
مُخرَّم: سوراخ دار۔
خِرنِق: چھوٹا خرگوش۔
خُرُوشُوف: خراشیف، خروشچیف، روسی نام۔

خ .... ز

خَزَرَ ــــ و خَزِرَ ــُـ خَزراً: کنکھیوں سے دیکھنا، گوشۂ چشم سے دیکھنا (۲) آنکھ کا

چھوٹا ہونا۔
اَخزَرُ: چھوٹی آنکھ والا۔
خَیزُرَان: بانس، نرسل۔
خَیزُرَانَة: (بانس کی) لاٹھی۔
خزَّ ـُـ خزًّا و اختزَّ: چوکا مارنا۔
خَـزٌّ ج: اَخـزَاز: ریشم، ریشم اور اون کا بنا ہوا کپڑا۔
خُزَعْبِلٌ، خزَعْبلَة: افسانہ جو عام طور پر مشہور ہو، داستان، بے حقیقت بات۔
خُزَعْبلِیٌّ: افسانوی، من گھڑت، مذاقی۔
خزَف: ٹھیکرا، پکی ہوئی مٹی۔
خزَفِیٌّ: پختہ مٹی کا بنا ہوا۔
آنِیَةٌ خزَفِیَّة: مٹی کے برتن۔
خَـزَّاف: کمہار، مٹی کے برتن فروخت کرنے والا۔
خزَقَ الشئَ و فیہ ـِـ خزْقاً: گاڑنا، نیزہ مارنا، تیر مارنا۔
خَازِقٌ: نیزہ زن۔
خزَلَ ـِـ خزْلاً: کاٹنا۔
اختَزَلَ الکَلام: کلام کو مختصر کرنا، شاٹ کرنا، اشاروں میں کلام کرنا۔
اختزَلَ برأیِهٖ: خود رائے ہونا، اپنی رائے میں منفرد ہونا۔
اختِـزَال: اختصار، مختصر نویسی، شارٹ ہینڈ، اسٹینوگرافی۔
کِتَـابَةُ الاختِـزَال: فنِ مختصر نویسی، شارٹ ہینڈ، اسٹینوگرافی۔
کَـاتِبُ الاختِزَال: مختصر نویس، اسٹینو گرافر، شارٹ ہینڈ کلرک۔
المُـختَزِل (کَـاتِبُ الاختِـزَال): اسٹینوگرافر۔
مُـختَـزِل و کَـاتِبٌ علی الآلَةِ الکَاتِبَة: شارٹ ہینڈ ٹائپسٹ۔
اختِزالِی: مختصر نویسانہ۔
خَـزَمَ الأنفَ ـِـ خزْماً: ناک میں نکیل ڈالنا، تابع بنالینا۔
خِزَامُ الأنفِ: ناک کا چھلا، نتھ، نکیل۔
خَـزَنَ ـُـ خزْناً و خزَّنَ و اختَزَن: (۱) جمع کرنا (۲) ذخیرہ کرنا، اسٹاک کرنا، گودام میں رکھنا۔
خَزَنَ و اختَزَنَ الطَّرِیقَ: راستہ کو مختصر کرنا۔
خَزَنَ وَ اختَزَنَ السِّرَّ: راز کو محفوظ رکھنا۔
اختِزَان: اسٹاک، ذخیرہ کرنا، محفوظ کرنا۔
خَـزَّنَ القِطَارَ الحَدِیدِیَّ: ریل گاڑی کو بند کرنا، روکنا۔
خَزْنٌ و تَخزِینٌ: ذخیرہ اندوزی۔
خَـزْنَة، خِـزَانَة: گنجینہ، نعمت خانہ، برتن وغیرہ کی الماری۔
خِزَانَة: ٹریزری، لاکر، الماری، تجوری۔
خِزَانَةُ الاحتِرَاق (فی مِرجَلٍ او قَاطِرَةٍ): فائر بکس۔
خِزَانَةٌ حَدِیدِیَّة: لوہے کی الماری، سیف۔
خِزَانَة حَدِیدِیَّة للحِفظ: سیف ڈپازٹ بکس۔
خِزَانَةُ الثِّیَاب: کپڑوں کی الماری یا کپڑوں کا کمرہ۔
خِزَانَةُ الکُتُب: کتابوں کی الماری۔
خَـزِینَةُ حَدِیدٍ: تجوری، روپیہ وغیرہ رکھنے کی لوہے کی الماری۔

خَزِینَة ج: خَزَائِنُ: خزانہ، بیت المال۔
خَـزَّانُ الـمِیَـاہ: (١) بند، ڈیم (٢) حوض، تالاب۔
خَازِنٌ: خزانچی۔
مَـخْـزَنْـجِیّ (أَمِینُ المَخْزَن): اسٹور کیپر، منتظم گودام (وا)۔
مَخْزُونٌ: ذخیرہ، اسٹاک۔
المَخْزُونُ العَازِل: محفوظ اسٹاک۔
مُخْزُونٌ نَفِدٌ: ختم ہونے والا اسٹاک۔
مَخْزُونَات: ذخیرے، اسٹاک۔
مُخْتَزِن: ذخیرہ اندوز۔
مُخْتَزَن: اسٹاک۔
مُخْزَن: گودام، اسٹور، مکان، مال خانہ، شیڈ، شاپ، دوکان، اسٹور روم، اسٹور ہاؤس، ڈپو، اسٹاک روم ج: مَخَازِنُ۔
مَـخْـزَنُ اَدْوِیَة: فارمیسی، میڈیکل اسٹور، دواخانہ۔
مَخْزَنُ الایْدَاع: امانت گودام۔
مَخْزَنُ تبْرِید: کولڈ اسٹور۔
مَخْزَنُ فَحْمٍ: کوئلہ کا اسٹاک۔
مَخْزَنُ کُتُب: کتب خانہ، بک اسٹور۔
مَخْزَنٌ للبَضَائع: میگزین، سامان خانہ، مال گودام۔
مَخْزَنٌ للغَلَال: غلہ کا گودام۔
مَخَازِنُ التَّموِین: سپلائی کے گودام۔
مَخَازِنُ الجَیْش: فوج کا اسلحہ خانہ۔
مَـخَازِنُ الطَّرِیق: مختصر اور قریب ترین راستے۔
خَزِیَ ـــ خَزْی و خِزْیاً و خَزَایَةً: رسوا ہونا، ذلیل ہونا، شرمندہ ہونا۔
خَزِی ـــ خَزْیاً و أَخْزَی: بدنام کرنا، شرمندہ کرنا۔
خِزْیٌ: رسوائی، بدنامی، شرمندگی، عار۔
خَزْیَانٌ، مَخْزِیٌّ: بدنام، رسوا، شرمندہ۔
المَخْزِیُّ: شیطان۔
مُخْزٍ: رسوا کن، بدنام کن۔

خ .... س

خَسَأَ ـــ خَسْأً: کتے کو دھتکارنا، تنہائی میں ظلم کرنا (٢) دور کرنا۔
خَسِئَ ـــ خَسَأً: دور ہونا، دھتکارا جانا۔
خَسِرَ ـــ خُسْراً و خَسَارَةً: (ة) نقصان اٹھانا (٢) گمراہ ہونا (٣) ضائع ہونا (٤) ہلاک ہونا۔
خَسَرَ ـــ خَسْراً: ضائع کرنا، نقصان کرانا، خسارہ میں مبتلا کرنا۔
خُسْرٌ، خَسَارَةٌ، خُسْرَانٌ: نقصان، ضرر، ہلاکت۔
خَسَارَةٌ جُزْئِیَّة: جزوی نقصان۔
خَسَارَةٌ صُورِیَّة: ظاہری نقصان۔
خَسَارَةٌ فَادِحَة: زبردست نقصان۔
خَسَارَةٌ فی الارْوَاح: جانی نقصان۔
خَسَارَةٌ مَادِّیَّة: مالی نقصان۔
خَسَائِرُ بَشَرِیَّة: افرادی نقصان۔
خُسْرَانُ الانتِخَاب: الیکشن ہارنا۔
خُسْرَانُ الحَرْب: جنگ ہارنا۔
خُسْرَانُ الدَّوْلَةِ مَلْیُونَ رُوبِیة: ملک کو دس لاکھ روپے کا نقصان ہوا (مثلاً)۔
خُسْرَانُ الرِّهَان: بازی ہارنا۔
خُسْرَانُ المَعْرَکَة: جنگ ہارنا۔

خُسْرَانُ الْمَعْرَكَةِ بالشَّرَف: باعزت طور پرلڑائی ہارنا۔

خَاسِرٌ: نقصان اٹھانے والا۔

خَاسِرُ الْمَعْرَكَةِ: جنگ کا ہارا ہوا۔

مُخَسِّرٌ: ضرر رساں، موجب خسارہ، خلافِ مفاد۔

خَسَّسَ و خَسَّ ـُ خَسًّا: کم کرنا۔

خَسَّ ـَ خَسَاسَةً: ذلیل ہونا۔

خَسَّةٌ، خَسَاسَةٌ: دناءت۔

خَسِيسٌ: کمینہ، رذیل۔

خَسَفَ ـِ خُسُوفًا و انْخَسَفَ: دھنس جانا، نیچے اتر جانا، چاند کو گہن لگنا۔

خَسَفَ الأَرْضَ: دھنسا دینا۔

خَسْفٌ: ذلت۔

خ............ش

خَشَّ ـُ خَشًّا: داخل ہونا۔

خَشَّبَ و تَخَشَّبَ و اخْشَوْشَبَ: لکڑی بن جانا، لکڑی کی طرح سخت ہو جانا۔

خَشَبٌ ج: أَخْشَاب: لکڑی۔

خَشَبُ الْبِنَاءِ: عمارتی لکڑی۔

خَشَبِيٌّ: لکڑی کا۔

خَشَبَةٌ ج: خَشَبَات: لکڑی کا تختہ۔

خَشَبَةُ الْمَسْرَحِ: ڈرامہ اسٹیج، ڈرامہ ہال کا اسٹیج۔

خَشَّاب: لکڑی فروش۔

خَشِيبٌ: بغیر پالش کا۔

مُتَخَشِّبٌ: خشک لکڑی کے مانند۔

خَشْخَشَةٌ: ہتھیار یا زیور وغیرہ کی آواز، جھنکار (۲) دھماکہ ہونا۔

خَشْخَاش: پوست، پوست کا پودا۔

خَشَعَ ـَ خُشُوعًا: گڑگڑانا، اظہار عجز کرنا۔

خَشَعَ بِبَصَرِه: نگاہ نیچی کرنا۔

خَشَفَ الماءُ ـُ خُشُوفًا: (پانی کا) جم جانا۔

خَشَّفَ تَخْشِيفًا: راہ نمائی کرنا۔

خُشْفٌ: ہرنی کا بچہ۔

خَشُنَ ـُ خُشُونَةً و خَشْنًا و خَشَانَةً: کھردرا ہونا، سخت ہونا۔

تَخْشِين: کھردرا بنانا، سخت بنانا۔

خَشِنٌ: سخت، کھردرا، موٹا، معمولی، سادہ، خشک۔

خَشِنُ الأَخْلَاقِ: بدمزاج، سخت مزاج، بداخلاق۔

خُشُونَةٌ و خَشَانَةٌ: کھردراپن، سختی، سادگی۔

خَشِيَ ـَ خَشْيَةً: ڈرتے رہنا، ڈرنا۔

خَشْيَةٌ و خَشْيٌ: خوف، ڈر۔

خَشْيَةَ أَنْ: اس خوف سے، اس ڈر سے کہ۔

خَاشٍ و خَشْيَانٌ: ڈر رکھنے والا، خائف رہنے والا۔

خ............ص

خَصِبَ الْمَكَانُ ـَ خِصْبًا و أَخْصَبَ: سرسبز ہونا، زرخیز ہونا۔

خِصْبٌ: خوشحالی، شادابی، زرخیزی۔

خُصُوبَةٌ: پیداواری صلاحیت۔

اخْتَصَرَ و تَخَصَّرَ: اپنے پہلو پر ہاتھ رکھنا۔

اخْتَصَرَ الْكَلَامَ: بات کو مختصر کرنا۔

اخْتَصَرَ الطَّرِيقَ: راستہ کو مختصر کرنا، قریب کا راستہ چلنا۔

الخَاصِرَةُ: پہلو (۲) پہلو کا درد۔

مُخْتَصَرٌ: سمری، خلاصہ۔

خَصَّصَ تَخْصِيصًا: محدود کرنا، خاص مقصد

کے لئے متعین کرنا، منفرد کرنا، مخصوص کرنا۔
خَصَّ الشئَ ــُــ خصاً و خُصُوصاً و خُصُوصِيَّة: مخصوص کرنا، خاص کرنا۔
خَصَّ و اخْتَصَّ به: متعلق ہونا، وابستہ ہونا، اختیار حاصل ہونا۔
خَصَّهُ ـُ خَصاً: متعلق ہونا، حق ہونا، حصہ ہونا (ألا يَخُصُّكَ أنْ تَجْلِسَ المَجْلِسَ)۔
تَخَصَّصَ و اخْتَصَّ بكذا: منفرد ہونا، امتیاز حاصل کرنا، مہارت حاصل کرنا۔
تَخَصُّصَ بفرعٍ مِنَ العِلْم: کسی علمی شعبہ کا ماہر ہونا، منفرد ہونا، امتیاز حاصل کرنا۔
تَخَصُّصَات: امتیازات، خصوصیتیں۔
تَخْصِيصُ الجَوائِز لفُلانٍ: کسی کے لئے انعامات کو خاص کرنا۔
تَخْصِيصُ الصَّحِيفَة لكَذا: اخبار کا کسی مضمون کے لئے کوئی صفحہ مخصوص کرنا۔
مُخْتَصّ: با اختیار۔
مُخْتَصٌّ بكذا: متعلق، ماہر، اسپیشلسٹ۔
تَخْصِيصُ فُصُولٍ ثَابِتَةٍ لِكُلِّ مَادَةٍ: ہر مضمون کی مستقل کلاسیں قائم کرنا۔
تَخْصِيصِيّ: ریزرو۔
مُخَصَّصَات: اختیارات، فنڈ، مخصوص سرمایہ، کوٹہ۔
مُخَصَّصَاتٌ مِنَ الاسْمنْت: سیمنٹ کا کوٹہ۔
خُصٌّ: گھونسلا۔
خَصَاصٌ و: خَصَاصَةٌ: رنج، جھری۔
خُصُوص (ضدّ): تعلق، نسبت، سلسلہ۔
مِنْ خُصُوص و بِخُصُوص كذا: فلاں چیز کے بارہ میں، سلسلہ میں، فلاں چیز سے متعلق۔
مِنْ هٰذَا الخُصُوص: اس نسبت سے، اس تعلق سے۔
خُصُوصاً: خاص طور پر۔
خُصُوصِيٌّ: (۱) مخصوص، محدود (ضد عُمُومِيّ) (۲) ذاتی، شخصی، پرائیویٹ۔
خَاصَّة: مخصوص صفت جو دوسرے سے ممتاز بنائے، صفتِ ممیزہ، خاصیت ج: خَوَاصّ۔
خَوَاصّ: جوہر، خلاصہ۔
خَاصّ: اسپیشل۔
خَاصٌّ لِلرُّسُوم الجُمْرُكيَّة: کسٹم فیس کے دائرہ میں۔
خَصَائِص و: خَصِيصَة: کمالات، فوائد، امتیازات۔
خَاصَّةً: خصوصی طور پر، خاص کر۔
الخَاصَّة: اونچے درجے کے لوگ۔
اخْتِصَاص ج: اخْتِصَاصَات: (۱) دائرہ اختیار (۲) اختیارات۔
اخْتِصَاصٌ بـ: خصوصیت، کمال، مہارت، امتیاز۔
الاخْتِصَاصُ بكذا: متعلق ہونا، وابستہ ہونا، اختیار حاصل ہونا، مہارت حاصل

ہونا۔
اِختِصَاصِيّ، إخصَائيّ ج: اختِصَاصِيُّونَ و إخصَائِيُّون: ماہر، ایکسپرٹ، اسپیشلسٹ، کسی فن کا ماہر۔
تَخصِيص: تحدید، تعیین (ضد تعمیم)۔
مَخصُوص: خاص، اسپیشل، پرائیویٹ۔
قِطَارٌ مَخصُوص: اسپیشل ٹرین۔
مُتَخَصِّصٌ فِي كذا: کسی علم کا ماہر، فاضل (مُتخصِّصٌ فی الأدب مثلاً: فاضلِ ادب)۔
أَلَّا اِختِصَاصِيّ: جنرل اسٹ (عمومی)۔
خُصلَة: چھوٹی گٹھڑی، گچھا، بالوں کی لٹ۔
خَصلَة ج: خِصَال: عادت۔
خَصَمَه۔ خَصمًا: غالب ہونا، زیر کرنا۔
خَصَمَه: (دا) قیمت میں دوسرے کے مقابلہ کے لئے کمی کر دینا، مقابلہ کرنا۔
خَاصَمَهُ مُخَاصَمَةً و تخاصمه و اختصمه: جھگڑا کرنا۔
خَصمٌ ج: خُصُوم، خَصِيم ج: خُصَمَاءُ: مقابل، مخالف، حریف، فریق۔
خِصَام، خُصُومَة: نزاع، جھگڑا، دشمنی، مقابلہ، کمپٹیشن۔
خَصمٌ: کٹوتی، قیمت وغیرہ میں کمی، کمیشن، ڈسکاؤنٹ (۲) مقابل، حریف۔
خَصمٌ تِجَارِيّ: تجارتی کمیشن۔
خَصمٌ سِيَاسِيّ: سیاسی حریف۔
خَصمُ القِيمَة: قیمت میں کمی کرنا۔
خَصمُ (المَصرِفِ الكَمبِيَالَة): ڈسکاؤنٹ کرنا۔
خُصُومُ فُلَان: مخالفین۔
خُصُومَةٌ اَدَبِيَّة: ادبی لڑائی۔
خُصُومَةٌ سِيَاسِيَّة: سیاسی لڑائی۔
مُخَاصِم: مُقابل۔
خَصَى۔ خَصيًا و خِصَاءً: جانور کو خصی کرنا۔
خَصِيٌّ و مَخصِيّ: خصی کیا ہوا۔

خ..........ض

خَضَبَ۔ خَضبًا و خَضَّبَ: رنگنا، خضاب کرنا۔
خَضِبَ۔ خُضُوبًا و تَخَضَّبَ: سرسبز ہونا، رنگین ہونا۔
خَضخَضَة: ہلانا، حرکت کرنا (۲) جنبش۔
خَضَدَ۔ خَضدًا: توڑنا۔
خَضِرَ۔ خَضَرًا و خُضرَةً و اخضَرَّ: سبز ہونا، سرسبز و شاداب ہونا۔
خَضَّرَه تَخضِيرًا: سبز بنانا
خَضِرٌ، مُخضَرٌّ: سبز، ہرا۔
خُضرَة، خَضَارَةٌ: سبزی، شادابی۔
خَضَارٌ: ترکاری۔
خَضَّارٌ، خُضَرِيٌّ: سبزی فروش۔
اَخضَرُ: ہرا، سبز، گرین م: خَضرَاءُ ہری۔
مَخضَرَة: سرسبز مقام۔
خَضَّضَ: آراستہ کرنا۔
خَضَّاضَة: نوشادر۔
خَضَعَ۔ خُضُوعًا و خَضَعًا، و خُضعَانًا: مطیع ہونا، تابع ہونا، پابندِ احکام ہونا، عاجز

ہونا، ماتحت ہونا۔
إخضاعٌ و تخضيعٌ: تابع بنانا، پابندِ احکام بنانا، ماتحت بنانا، زیر کرنا، نیچا دکھانا۔
إخضاعُ أحدٍ لإرادتِه: اپنی خواہش کا تابع بنانا۔
خاضِعٌ تابع، فرمانبردار، پابند احکام، ماتحت، عاجز۔
الخُضُوعُ لِأحدٍ: سامنے جھکنا۔
الخُضُوعُ لإرادةِ فلان: کسی کی خواہش پر چلنا۔
الخُضُوعُ لِلرَّأي: رائے ماننا۔
الخُضُوعُ لِرأيِ الأغلَبِيَّة: اکثریت کی رائے کے سامنے جھکنا۔
الخُضُوعُ لِضَغْط: دباؤ میں آنا۔
الخُضُوعُ لِلفِكر: رائے ماننا۔
الخُضُوعُ لِلقانون: قانون کے سامنے جھکنا۔
خَضَلَ و أخضَلَ: تر کرنا، بھگونا، عمدہ اور خوشگوار بنانا۔
خَضِلَ ـَ خَضَلاً: تر ہونا، خوشگوار ہونا۔
خِضَمٌّ: بڑا دریا، بڑا سمندر۔
خَضَمَ ـِ خَضماً: قطع کرنا، کھانا۔
خُضَمٌ: ہجوم کار وغیرہ، کثرت کار۔

خ............ط

خطّ: (در خطط)۔
خَطَّأَ تخطِئَةً: غلط قرار دینا۔
خَطِئَ ـَ خطأً و خَطَأً و أخطأ: غلطی کرنا (۲) غلطی پر ہونا (۳) گناہ کرنا، جرم کرنا۔
أخطأَ التَّقدِيرَ أو الحِسابَ: اندازہ یا حساب غلط لگانا۔
إخطاءُ المَرمَى: مس ہونا، نشانہ چوکنا۔
أخطأَ في الاستِنتاج: غلط نتیجہ برآمد کرنا۔
أخطأَ في التَّسمِيَة: غلط نام لینا۔
أخطأَ في التلفُّظ: غلط تلفظ کرنا۔
أخطأَ في الفَهم: غلط فہمی ہونا، غلط سمجھنا۔
أخطأَ في النَّقل: غلط بیانی کرنا، غلط ترجمانی کرنا۔
خَطَأٌ ج: أخطاء: غلطی، گناہ، جرم۔
خَطَأٌ فادِحٌ: زبردست غلطی۔
خَطَأٌ في التَّسلِيم: غلط ڈیلیوری، غلط تقسیم۔
خَطَأٌ في التَّفسِير: بیان کی غلطی، غلط تشریح۔
خَطَأٌ مَصلَحِيٌّ: محکمہ جاتی غلطی۔
خَطَأٌ مَطبَعِيٌّ: چھپائی کی غلطی، طباعتی غلطی، پریس کی غلطی۔
الخَطَأُ المِعيارِيّ: بڑی غلطی۔
أخطاءٌ إرتِكابِيَّة: واقعی غلطیاں۔
أخطاءٌ كِتابِيَّة: لکھائی کی غلطیاں۔
خَطِيئَة ج: خَطِيئات: گناہ، جرم۔
خاطِئٌ: غلط، غلط کار، گنہگار۔
مُخطِئٌ: غلطی پر، غلط کار۔
خَطُبَ ـُ خِطابَةً: مقرر ہونا۔
خَطَبَ ـُ خُطبَةً و خِطابَةً: تقریر کرنا، لیکچر دینا، وعظ کہنا، خطبہ دینا۔
خَطَبَ الفَتاةَ ـُ خِطبَةً: پیغام نکاح دینا۔
خاطَبَ و تخاطَبَ مَعَهُ: بات چیت

کرنا (۲) خط و کتابت کرنا، مراسلت کرنا۔
خَاطَبَهُ تِلفُونِيًّا: ٹیلیفون کرنا۔
خَطْبٌ ج: خُطُوب: (۱) حال (۲) پریشانی (۳) مصیبت۔
خُطْبَة: خطبہ، تقریر، وعظ، ایڈریس۔
خُطْبَةٌ اختِتامِيَة: اختتامی تقریر۔
خُطْبَةٌ دِينِيَة: وعظ۔
خُطْبَةٌ عِلمِيَة: لیکچر، علمی تقریر۔
خِطَابِيّ: تقریری، تقریر کا، تقریر سے متعلق۔
خِطْبَة، خُطُوبَة: منگنی، پیغام شادی۔
خِطَابٌ ج: خِطَابَات: (۱) خط (۲) پیغام (۳) تقریر (۴) ایڈریس۔
خِطَابٌ إذَاعِيّ: ریڈیائی تقریر، نشری تقریر۔
خِطَابُ اعْتِمَادٍ: مختار نامہ، تصدیق نامہ، اتھارٹی لیٹر۔
خِطَابُ اعْتِمَادٍ غَيرَ قَابِلٍ لِلإِلْغَاءِ: نا قابلِ انکار تصدیق نامہ۔
خِطَابٌ افْتِتَاحِيّ: افتتاحی تقریر۔
خِطَابٌ انْتِخَابِيّ: انتخابی تقریر۔
خِطَابُ تَعْرِيفٍ: تعارف نامہ۔
خِطَابُ التَّعْيِين: اپائنٹ منٹ لیٹر، تقرر نامہ۔
خِطَابُ تَفْوِيضٍ و تَوكِيلٍ: مختار نامہ، وکالت نامہ۔
خِطَابٌ جَوِّيّ: ایر لیٹر۔
خِطَابٌ دَوْرِيٌّ: سرکلر، گشتی مراسلہ۔
خِطَابُ ضَمَان: ضمانت نامہ، ضمانتی خط۔
خِطَابٌ مَجْهُولٌ (لَيسَ به تَوقِيعٌ): گمنام خط۔

خِطَابٌ مُرْفَق: کورنگ لیٹر، ہمرشتہ تحریر۔
خِطَابٌ مُرْفَقٌ لِمُسْتَنَدَاتٍ: مراسلہ ہمرشتہ کاغذات۔
خِطَابٌ مُسْتَعْجَل: اکسپریس لیٹر۔
خِطَابٌ مُؤَمَّنٌ عَلَيه: انشورڈ لیٹر۔
خِطَابَاتٌ تِجَارِيَة: تجارتی خطوط۔
خِطَابَاتٌ صَادِرَة: جانے والے خطوط، جانے والی ڈاک۔
خِطَابَة: تقریر، فنِ تقریر۔
خَطِيب ج: خُطَبَاء: مقرر، لیکچرر۔
خَطِيبٌ مُحْتَرِف: پیشہ ور مقرر۔
خَطِيب و خَاطِب: منگیتر، رشتہ کرانے والا۔
خَاطِبَة: رشتہ کرانے والی عورت یا پیغامِ نکاح دینے والی۔
خَطَرَ ـِ خَطْراً و خَطَرَاناً: (۱) ڈانوا ڈول ہونا، جھومنا۔
خَطَرَ بِسَيفِه: تلوار کو غرور سے چلانا۔
خَطَرَ فِي مِشْيَتِه: اکڑ کر چلنا، اترا کر چلنا، ہاتھوں کو ہلا کر چلنا۔
خَطَرَ له الأمْرُ ـُ خُطُوراً: سامنے آنا۔
خَطَرَ على و في و بِبَالِه: دل میں آنا۔
خَطُرَ ـُ خُطُورَةً: عظیم المرتبہ ہونا، بلند مرتبہ ہونا، بالشان ہونا، اہم ہونا۔
خَاطَرَ مُخَاطَرَةً: بازی لگانا، شرط بدنا۔
خَاطَرَ بِكَذا مُخَاطَرَةً: خطرہ میں پڑنا، اپنی جان کو خطرہ میں ڈالنا، خطرہ مول لینا۔
إخْطَار: متنبہ کرنا، باخبر کرنا، اطلاع دینا، نوٹس دینا، آگاہ کرنا (۲) نوٹس، اعلان، آگاہی۔

إِخْطَارٌ بالاسْتِئْنَاف: اپیل،نوٹس۔
إِخْـطَـارٌ بِـكَـذا: تنبیہ کرنا، باخبر کرنا، اطلاع دینا،نوٹس دینا۔
إِخْطَارٌ خَاطِئٌ: غلط نوٹس۔
إِخْـطَـارٌ نِهَـائِيّ: فائنل نوٹس، آخری اطلاع۔
تَـخَـاطَرُوْا عَلى كَذا تَخَاطُراً: کسی چیز کی باہم شرط بدنا، بازی لگانا۔
خَـطَـرٌ ج: أَخْطَار: بازی جس کی شرط لگائی جائے۔
خِطْرٌ ج: أَخْطَار: رتبہ،شان،حیثیت۔
خَطِرٌ، مُخْطِرٌ: خطرناک۔
خَطِر: سنگین،خطرناک،ڈینجر،ایمرجنسی۔
خَطَرُ التَّلَف: نقصان کا خطرہ۔
خَطَرٌ مُحْدِقٌ: زبردست خطرہ۔
خَطَران: تذبذب۔
خَطَّارُ السَّاعَة: گھڑی کا پنڈولم۔
خُطُورَة: اہمیت،عظمت۔
خُطُورَة: سنگینی،نزاکت۔
خُطُورَةُ الموقِف: صورتحال کی نزاکت۔
خُطُورَةُ الوَضْع: نزاکتِ حال۔
خَطِيْر: اہم،مہتم بالشان،زبردست۔
خَاطِر ج: خَوَاطِر: خیال،رجحان۔
مُرَاعَاةُ الخَاطِر: پاسِ خاطر رکھنا،لحاظ کرنا۔
لِأَجْـلِ خَـاطِـرِه: اس کی دلداری کے لئے۔
كَسْرُ خَاطِرَهٗ: دل شکنی کرنا،مغموم کرنا۔
تَبَادُلُ الخَوَاطِر: ہم خیال ہونا، اتفاقاً ایک خیال پر ہونا۔
عَنْ طِيْبِ خَاطِرٍ: بطیبِ خاطر۔
أَخَذَ الشَّيْءَ عَلى خَاطِرِه: (دا) مکدر کرنا۔
أَخَذَ بِـخَاطِرِه: (دا) تسلی دینا، دل جمعی کرنا۔
مَـحْـفُـوْفٌ بِالمَخَاطِر: خطرات سے پُر۔
إِخْطَار: دھمکی،نوٹس۔
مُخْطِرٌ: خطرناک۔
مُـخَـاطِـرٌ: بازی لگانے والا،خطرہ مول لینے والا۔
مُخَاطَرَة: جاں بازی۔
خَطَّطَ: لائن ڈالنا،سطریں بنانا(۲) منصوبہ تیار کرنا، پلاننگ کرنا۔
خَـطَّـطَ الأَرْض: سروے کرنا،حد بندی کرنا، چک بندی کرنا (۲) کھیت میں اُبھری ہوئی لائنیں ڈالنا (کیاریاں بنانا)۔
خَطَّطَ القُمَاش: کپڑے پر دھاری ڈالنا۔
خَـطَّ عَـلى الشَّيْءِ خَطًّا: لائن ڈالنا،خط کھینچنا،لکیر کھینچنا،خط لگانا۔
خَطَّ واخْتَطَّ خُطَّةً: منصوبہ بنانا،اسکیم بنانا، لائحہ عمل بنانا۔
خَطَّ واخْتَطَّ الشَّارِبُ: مونچھیں نکل آنا۔
خَطٌّ ج: خُـطُـوْط: لائن،سطر(۲) کتابت، لکھائی، فنِ خوشنویسی، رسم الخط، ہینڈ رائٹنگ۔
الخَطُّ الأُمُّ: مین لائن۔
خَطُّ إِمْدَادِ الجَيْش: سپلائی لائن۔
خَطُّ الأَنَابِيْب: پائپ لائن۔
خَطُّ بَارْلِيف: بارلیو لائن۔

خَطٌّ بَرِّیّ: بری راستہ، بری لائن، خشکی کا راستہ۔
خَطٌّ تَحتَ عِبارَةٍ: انڈرلائن (وَضعَ خطًا تَحتَ عِبارَةٍ)۔
خَطُّ تَحوِيلٍ: کراس اُور، لائن بدلنے والی پٹری۔
خَطُّ التِّرام: ٹراموے۔
خَطُّ التَّلِيفُون: ٹیلیفون لائن۔
خَطُّ التَّموِين: سپلائی لائن۔
خَطٌّ جَوِّيّ: ایرلائن۔
خَطٌّ حارٌّ: ہاٹ لائن۔
خَطٌّ حَدِيدِيّ: ریلوے لائن۔
خَطٌّ حَدِيدِيٌّ ضَيِّق: ریلوے چھوٹی لائن، چھوٹے گیج کی لائن۔
خَطٌّ دِفاعِيٌّ: دفاعی لائن۔
خَطٌّ رَئِيسِيٌّ: مین لائن۔
خَطٌّ ساخِنٌ: ہارٹ لائن، گرم لائن (سربراہانِ امریکہ وروس کے بات کرنے کی لائن)۔
خَطُّ السِّكَّة الحَدِيدِيَّة: ریلوے لائن۔
خَطٌّ سَلِيمٌ: صحیح راستہ۔
خَطُّ السَّير: عام راستہ، طریقہ۔
خَطُّ العَمَل: طریقۂ کار۔
خَطٌّ غَيرُ مُباشِر: بالواسطہ لائن، اِن ڈائرکٹ لائن، ذیلی لائن۔
خَطٌّ غَيرُ مَنزُوعِ السِّلاح: غیر ہتھیار بند لائن۔
الخَطُّ الفاصِل: خطِ فاصل۔
خَطٌّ فَرعِيّ: برانچ لائن۔
خَطُّ القِتال: جنگی لائن۔
خَطٌّ مُباشِر: ڈائریکٹ لائن، سیدھی لائن۔
خَطٌّ مُستَقِيم: سیدھا راستہ۔
خَطٌّ مُشَبَّك: گھسیٹواں، شکستہ خط۔
خَطٌّ مِنَ الأنابِيب: پائپ لائن۔
خَطُّ المُواجَهَة: سامنے کی لائن، مقابلہ کی لائن، فرنٹ لائن۔
خَطُّ المُؤَلِّف: آٹوگراف، مصنف کے دستخط۔
خَطُّ النّار: فائرنگ لائن۔
الخَطُّ النَّسخِيّ: خطِ نسخ۔
خَطُّ وَقفِ إطلاقِ النّار: جنگ بندی لائن۔
خَطٌّ هاتِفِيٌّ: ٹیلیفون لائن۔
خَطُّ الهُدنَة: جنگ بندی لائن۔
عَلَى خَطِّ تَلِيفُون: ٹیلیفون پر بولنے والا۔
(مَن عَلَى خَطِّ): کون بول رہا ہے۔
فِي خَطٍّ مُستَقِيم: سامنے، سیدھے۔
عَلَى خَطٍّ مُستَقِيم: سیدھی جانب، سامنے کی طرف، سیدھ میں۔
خُطٌّ: محلہ۔
خُطَّة ج: خُطَط: اسکیم، لائحۂ عمل، پروگرام، نقشہ، ڈیزائن، خاکہ، پلان، آئیڈیا، پروجیکٹ، منصوبہ، طریقۂ کار۔
خُطَّة إصلاحِيَّة: اصلاحی پروگرام، اسکیم۔
خُطَّةُ التَّدرِيس: اسباق کا تعلیمی نقشہ۔
خُطَّةُ التَّنمِيَةِ الشّامِلَة: ہمہ گیر ترقیاتی منصوبہ۔
خُطَّةُ الخَمسِ سَنَوات: پنج سالہ منصوبہ۔
خُطَّة خَمسِيَّة: پنج سالہ منصوبہ۔

خُطَّةُ الدِفاع: دفاعی پلان۔
خُطَّةٌ رَئِيسِيَّة: ماسٹر پلان۔
خُطَّةُ السَّلام: امن پلان۔
خُطَّةُ السِيَاسَة (لِحِزْبٍ او مُرَشَّح): پلیٹ فارم، سیاسی پروگرام۔
خُطَّةٌ شَامِلَة: جامع منصوبہ۔
خُطَّةُ عَمَلٍ: پروگرام، لائحۂ عمل، عملی خاکہ۔
خُطَّةُ العَمَلِيَّات: کارروائی کا نقشہ۔
خَطَّةٌ قَوْمِيَّة: نیشنل پلان۔
خُطَّةٌ مُتَوَسِطَةُ الأَجَل: متوسط المیعاد منصوبہ۔
خُطَّةٌ مُدَبَّرة: سوچی سمجھی اسکیم۔
خُطَّةٌ مُفَصَّلَة: تفصیلی پروگرام۔
خُطَّةٌ مِنْ خَمْسِ نِقَاطٍ: پانچ نکاتی فارمولا۔
خُطَطٌ إِنْمائِيَّة: ترقیاتی منصوبے۔
خَطَّاطٌ: کاتب، خوشخط۔
تَخْطِيط: چارٹ بنانا، خاکہ بنانا، منصوبہ بنانا، تنظیم، پلاننگ، ڈیزائننگ، منصوبہ بندی۔
تَخْطِيطٌ اجْتِماعِيّ: سوشل پلاننگ۔
تَخْطِيطُ الأَرَاضِي: پیمائش زمینات، سروے، چک بندی۔
التَّخْطِيطُ الاِسْتراتيجيّ: حکمت آمیز پلاننگ (جنگی) حکمت عملی پر مشتمل پلاننگ۔
تَخْطِيطُ الاُسْرَة: فیملی پلاننگ، خاندانی منصوبہ بندی۔
تَخْطِيطُ الاِقْتِصَاد: اقتصادی منصوبہ بندی، اقتصادی پلاننگ۔
تَخْطِيطُ البُلْدَان: جغرافیہ، شہروں کی منصوبہ بندی۔
تَخْطِيطُ التَنْمِيَة: ترقیاتی پلاننگ، منصوبہ بندی۔
تَخْطِيطُ الحُدُود: سرحدوں کی نشان بندی، حد بندی کرنا۔
تَخْطِيطٌ زِرَاعِيٌّ: زرعی پلاننگ۔
تَخْطِيطٌ شَامِلٌ: ہمہ گیر پلاننگ۔
تَخْطِيطٌ شَدِيدُ التَّدْقِيق: انتہائی پختہ منصوبہ بندی۔
تَخْطِيطٌ عِلْمِيّ: علمی منصوبہ بندی۔
التَّخْطِيطُ العِلْمِيّ الدَّقِيق: مکمل علمی منصوبہ بندی۔
تَخْطِيطٌ لِشَيْءٍ: اسکیم بنانا، منصوبہ بنانا۔
تَخْطِيطٌ مَرْكَزِيّ: مرکزی منصوبہ بندی، مرکزی پلاننگ۔
تَخْطِيطُ المُسْتَقْبَل: مستقبل کا منصوبہ۔
تَخْطِيطُ النَّسْل: خاندانی منصوبہ بندی، برتھ کنٹرول۔
مُخَطَّط: دھاری دار، نشاندار (۲) سروے کیا ہوا۔
مُخَطَّط: منصوبہ، اسکیم، پلان، ڈیزائن، لائن ج: مُخَطَّطَات۔
مُخَطِّط: پلانر، منصوبہ ساز۔
المُخَطَّطُ الأَصْلِيّ: اصلی منصوبہ۔
مُخَطَّطُ التَّخْرِيب: تخریبی منصوبہ۔
مُخَطَّطُ التَّسْوِيَة: امن منصوبہ۔
مُخَطَّطُ التَوْسِعَة: توسیع پسندانہ منصوبہ۔

اَلْمُخَطِّطُ الْمُصَمِّمُ: ڈرافٹ مین۔
مُخَطَّطَاتٌ اسْتِسْلامِيَّةٌ: شکست خوردانہ منصوبے۔
خَطِفَ ــ خَطْفاً و اخْتَطَفَ: اچکنا، غصب کرنا، چھین لینا، اغوا کرنا، ہائی جیک (۲) نگاہ کو خیرہ کرنا۔
تَخَطَّفَ: زبردستی لینا، چھین لینا۔
مُخْتَطِفٌ و خَطَّاف: اُچکا، اغوا کنندہ، اغوا کار، ہائی جیکر۔
مِخْطَاف: کانٹا، آنکڑا جس کے ذریعہ کنویں سے ڈول وغیرہ نکالا جاتا ہے۔
خَطِلَ ــ خَطَلاً و اَخْطَلَ فی کلامه: مہمل باتیں کرنا، لغو باتیں کرنا۔
خَطِلَ و تَخَطَّلَ: اکڑنا، اترانا۔
خَطَلٌ: لغویات، مہمل کلام، بے وقوفی، دماغی خلل۔
خَطَمَ ــ خَطْماً: جانور کے منہ پر چھینکا چڑھانا، منہ بند چڑھانا، لگام ڈالنا، نکیل ڈالنا۔
خَطَمَ بِالْكَلام: خاموش کرنا۔
خَطْمٌ، مُخْطِمٌ: منہ بند (جانوروں کا)، چھینکا۔
خِطَامٌ: لگام، نکیل۔
خَطْوَةٌ: ایک قدم، ڈگ، قدم کی ایک حرکت ج: خَطَوَات۔
خَطْوَةً خَطْوَةً: قدم بقدم، مرحلہ بمرحلہ۔
خَطْوَةٌ رَائِدَةٌ: رہنما اقدام۔
خَطَوَاتٌ اِيجَابِيَّة: مثبت اقدامات۔
خُطْوَةٌ ج: خُطُوَات و خُطًى: دو قدموں کا درمیانی فاصلہ، تقریباً ۳۰ انچ۔

خَطَا ــ خَطْواً و اخْتَطَى: قدم اٹھانا، چلنا، ڈگ بھرنا۔
خَطَا نَحْوَ الأَمَام: بڑھنا، ترقی کرنا، آگے قدم بڑھانا۔
خَطَا خُطُوَاتٍ قَصِيرَةً: چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا، چھوٹے ڈگ بھرنا۔
تَخَطَّى: پار کرنا۔
خَطِيَّة ج: خَطِيَّات: گناہ۔

خ .... ف

خَفَّ: (در خفف)۔
خَفَتَ ــ خُفُوتاً و خَفْتاً، و خُفَاتاً: (۱) آواز پست ہونا (۲) آواز بند ہو جانا۔
إِخْفَات: پست کرنا۔
خَافِتٌ: پست، ہلکی آواز۔
خَفَرَ ــ خَفْراً و خَفَّرَ: حفاظت کرنا، پہرہ دینا۔
خَفِرَ ــ خَفَراً و تَخَفَّرَ: شرمانا۔
خَفَرٌ: حیا، شرم۔
خَفِرٌ: شرمیلا، حیادار۔
خِفَارَةٌ: پہرہ داری، چوکیداری، پہرہ داری کا پیشہ، اجرت پہرہ۔
خَفِيرٌ ج: خُفَرَاء: چوکیدار، محافظ، پہرہ دار۔
مَخْفَرٌ ج: مَخَافِر: چوکی جہاں محافظ رہتا ہو، پہرہ کی چوکی، پولیس چوکی۔
مَخْفَرُ الإطْفَاء: فائر اسٹیشن۔
مَخْفَرُ شُرْطَةٍ: پولیس چوکی، تھانہ۔
خَفَسَ ــ خَفْساً: (۱) منہدم کرنا، (۲) مذاق کرنا، مذاق اُڑانا۔
خَفَشٌ: شب کوری، رتوندا، دنوندا۔

خَفِشَ ۔ خَفشاً: دن کو کم نظر آنا، رتوندا ہونا، شب کور ہونا۔
خَفَّاش ج: خَفَافِيش: چمگادڑ۔
اَخفَش: دن کا اندھا، دن کو کم دیکھنے والا۔
خَفَضَ ۔ خَفضاً و خَفَّضَ: کم کرنا، نیچا کرنا، کمی کرنا، پست کرنا، اُتارنا، گھٹانا۔
خَفُضَ عَيشُه ۔ خَفضاً: آسودہ حال ہونا، خوش حال ہونا۔
إخفَاض: پست کرنا، کم کرنا، نیچے اترنا۔
اِنخِفَاض و تَخَفُّض: کم ہونا، نیچا ہونا، پست ہونا۔
خَفض، تَخفِيض: پستی، کمی۔
خَفضُ العَيش: آسودہ حالی۔
خَفضُ التَّكَالِيفِ إلَى مَليُون: دس لاکھ تک کمی کرنا (مثلاً)۔
خَفضُ الدَّرَجَة: ڈگری کم کرنا، درجہ گھٹانا، درجہ گرانا۔
خَفضُ رَأسِ المَال: سرمایہ کم کرنا۔
خَفضُ القُوَّات: فوجوں میں کمی کرنا۔
خَفضُ كَمِّيَّاتِ الاَسلِحَة: ہتھیاروں کی مقدار میں کمی۔
خَفضُ المَصرُوفَات: اخراجات میں کمی۔
خَفضُ مِقدَارِ التَّكلِفَة: لاگت کی مقدار میں کمی کرنا۔
خَفضٌ وَرَفعٌ: اتار چڑھاؤ۔
خَفضُ المَعُونَات: امداد میں کمی کرنا۔
تَخفِيض: کمیشن، قیمت میں خاص کمی، رعایت ج: تَخفِيضَات۔

تَخفِيضُ الأَسعَار: نرخوں میں کمی، بھاؤ گرانا۔
تَخفِيضُ التَّكلِفَة: لاگت میں کمی کرنا۔
تَخفِيضُ الثَّمَن: قیمت میں رعایت، کمیشن۔
تَخفِيضُ حِدَّةِ التَّوَتُّر: کشیدگی کم کرنا۔
تَخفِيضُ الدَّرَجَة: ڈگری کم کرنا، درجہ گرانا۔
تَخفِيضُ رَأسِ المَال: سرمایہ میں کمی کرنا۔
تَخفِيضُ الرُّسُوم: فیس میں کمی، چنگی کم کرنا۔
تَخفِيضُ الضَّرَائِب: ٹیکسوں میں کمی۔
تَخفِيضُ القُوَّات: فوجوں میں کمی کرنا۔
تَخفِيضُ القِيمَة: قیمت کم کرنا۔
تَخفِيضُ الكَمِّيَّة: مقدار گھٹانا۔
تَخفِيضُ المُسَاعَدَاتِ إلَى فُلَان: کسی کی امداد میں کمی کرنا۔
تَخفِيضُ المَصَارِيف: اخراجات کم کرنا۔
تَخفِيضُ النَّفَقَات: اخراجات کم کرنا۔
اِنخِفَاضُ الأَسعَار: نرخوں میں کمی ہونا۔
اِنخِفَاضُ اَسعَارِ الإِنتَاجَات: پیداوار کی قیمتوں میں کمی ہونا۔
اِنخِفَاضُ الإِنتَاجِيَّة: پیداواری صلاحیت کم ہو جانا۔
اِنخِفَاضُ الصَّادِرَات: برآمدات میں کمی ہو جانا۔

انْخِفَاضُ العُمْلَة: سکہ کم ہوجانا، سکہ کا گرجانا۔
انْخِفَاضُ القُدْرَةِ الشِّرَائِيَّة: قوت خرید کم ہوجانا۔
مُنْخَفِضٌ: پست، نیچا۔
مَخْفُوضٌ (ضد مَرْفُوع): پست۔
أَثْمَانٌ مُخَفَّضَة: کم قیمتیں۔
مُخَفَّضُ الثَّمَن: کم قیمت۔
خَفَّفَ تَخْفِيفاً: (۱) ہلکا کرنا (۲) کمی کرنا، سکون بخشنا (۳) ملائم بنانا (۴) معتدل بنانا۔
خَفَّفَ كَثَافَةَ المَزِيج: گاڑھی چیز میں پانی ملا کر ہلکا یا پتلا کرنا۔
خَفَّفَ عَنْ: آرام پہنچانا۔
خَفَّفَ العُقُوبَة: سزا میں تخفیف کرنا۔
خَفَّ ــ خِفَّةً و خَفاً: ہلکا ہونا۔
خَفَّ إليه خُفُوفاً: لپکنا، اڑ کر جانا، دوڑ کر جانا۔
اسْتَخَفَّ بالأَمْر: ذلیل سمجھنا۔
اسْتَخَفَّ الشَّيْءَ: ہلکا سمجھنا۔
خُفٌّ ج: أَخْفَاف: (۱) چرمی موزہ (۲) ہاف بوٹ، سلیپر (۳) اونٹ یا شتر مرغ کی ٹاپ، قدم۔
خِفَّة: ہلکا پن۔
خِفَّةُ الأَلَم: افاقہ ہونا، درد میں کمی ہونا۔
خِفَّةُ حِدَّةِ التَوَتُّر: کشیدگی کم ہونا۔
خِفَّةُ حَمْلَةِ الشَّائِعَات: افواہوں کا زور کم ہونا۔
خِفَّةُ اليَد: ہاتھ کی صفائی، شعبدہ، نظر بندی، مداری کا کھیل۔
أَلْعَابُ خِفَّةِ اليَد: شعبدہ بازی، بازی گری۔
خِفَّةُ سُقُوطِ القَذَائِف: گولہ باری میں کمی۔
خِفَّةُ وَطْأَةِ المَرَض: بیماری کی شدت میں کمی۔
تَخْفِيف: کمی۔
تَخْفِيفُ الإنْتَاج: پیداوار میں کمی۔
تَخْفِيفُ حَدِّ التَوَتُّر: کشیدگی کم کرنا۔
تَخْفِيفُ حِدَّةِ التَوَتُّر بَيْنَ القُوَّتَيْنِ الأَعْظَم: دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان کشیدگی کم کرنا۔
تَخْفِيفُ حِدَّةِ التَوَتُّر الدُّوَلِيّ: بین الاقوامی کشیدگی کم کرنا۔
تَخْفِيفُ الصَّدْمَة على أَحَدٍ: کسی کی تکلیف کو کم کرنا۔
تَخْفِيفُ الضَّغْطِ على: دباؤ کم کرنا۔
التَّخْفِيفُ عَنْ أَحَدٍ: تخفیف کرنا، بوجھ ہلکا کرنا۔
التَّخْفِيفُ عَنْ أَزْمَةِ السَّكَن: رہائشی مشکلات کو کم کرنا۔
خَفِيف: ہلکا۔
شَايٌ خَفِيفٌ: ہلکی چائے۔
دُخَانٌ خَفِيفٌ: ہلکا تمباکو۔
خَفَقَ ــ خَفَقَاناً: دل دھڑکنا، متحرک ہونا، لہلہانا، پرچم ہلنا، بجلی کوندنا۔
خَفَقَ خَفْقاً: ہلانا، پھینٹنا، انڈے کی زردی کو سفیدی میں ملانا۔
خَفَقَ و أَخْفَقَ الطَّائِرُ أو العَلَمُ: لہلہانا۔
خَفَقَ و أَخْفَقَ النَّجْمُ: ستارہ کا غروب ہونا۔

إخفَاق: پرندہ کا پھڑ پھڑانا (۲) پرچم کا لہلہانا (۳) ستارہ غروب ہونا (۴) ناکام ہونا (۵) ناکامی، زوال۔
إخفَاقُ السَّعْي: کوشش ناکام ہونا۔
خَفقٌ و خَفقَانُ القَلْب: دل کی دھڑکن۔
الْخَافِقَان: شمس وقمر۔
خَافِقَات: پرچم، جھنڈے۔
مِخفَقَةُ البَيْض: انڈا پھینٹنے کا آلہ۔
خَفِيَ ـَـ خَفَاءً و خِفْيَةً و خُفْيَةً و اخْتَفَى: پوشیدہ ہونا۔
خَفَى ـِـ خَفْياً و أخْفَى و خَفَّى: پوشیدہ کرنا، چھپانا۔
تَخَفَّى: پوشیدہ ہونا، روپوش ہونا۔
اخْتِفَاء: روپوش ہونا، روپوشی۔
اخْتِفَاءُ آثَارِ الشَّيْءِ: آثار مٹنا۔
إخْفَاءُ المُسْتَنَدَات: کاغذات چھپانا۔
خَفِيٌّ، خَافٍ: پوشیدہ، رازدارانہ۔
خَافِيَة: راز، پوشیدہ بات۔
خُفْيَةً: پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر۔
خَفَاء: راز، پوشیدگی۔
بَرِحَ الخَفَاءُ: بات کھل گئی۔

خ............ل

خَلَبَ ـُـ خَلْباً: دام فریب میں پھنسانا، گرویدہ بنانا، دل موہ لینا، کلام کے ذریعہ متاثر کرنا (۲) پنجہ مارنا، پرندہ کا ناخن مارنا۔
خَالَبَ و اخْتَلَبَ: دھوکہ دینا۔
خَالِبٌ، خَلَّابٌ: دلکش، جاذب نظر، پرفریب۔
مِخْلَبٌ ج: مَخَالِب: پنجہ، پرندہ کا ناخن۔
خَلَجَ ـُـ خَلْجاً: (۱) کھینچنا، چھین لینا (۲) آنکھ سے اشارہ کرنا، آنکھ کا حرکت کرنا (۳) دل میں کسی بات کا کھٹکنا۔
خَلَجَ و خَالَجَ و اخْتَلَجَ الفِكْرُ: خیال آنا۔
خَالَجَه شَكٌّ: شک پیدا ہونا۔
اخْتَلَجَ القَلْبُ: اختلاجِ قلب ہونا، مضطرب ہونا۔
اخْتَلَجَ الأمْرُ فی الصَّدْرِ: دل میں کوئی بات آنا۔
تَخَلَّجَ: مضطرب ہونا، متحرک ہونا۔
خِلَاج، خَالِجٌ، خَالِجَة: خیال ج: خَوَالِج۔
خَلْخَلَة: حرکت دینا، پازیب پہنانا۔
خَلْخَال، خَلْخَل: پازیب۔
خَلَدَ ـُـ خُلُوداً و خُلْداً: ہمیشہ رہنا، برقرار رہنا۔
خَلَّدَه و أخْلَدَه: ہمیشہ رکھنا، برقرار رکھنا، دوام عطا کرنا، حیاتِ ابدی بخشنا۔
خَلَّدَ الذِّكْرَ: یادگار بنا دینا، یاد قائم رکھنا۔
أخْلَدَ: ہمیشہ رکھنا، برقرار رکھنا، حیات ابدی بخشنا۔
أخْلَدَ إلى: مائل ہونا، جھکنا۔
تَخْلِيد: دوام عطا کرنا۔
تَخْلِيدُ الذِّكْرَى: یادگار باقی رکھنا۔
خُلْد، خُلُود: دوام، ہمیشگی۔
خَلَدٌ: دل۔
خَلْدٌ و خَالِدٌ: دوامی، لازوال، ناقابلِ فراموش، ابدی۔

خَالِدُ الذِّکر: زندہ جاوید۔
الخَوَالِد: پہاڑ۔
خَلَسَ ـِ خَلساً و اختَلَسَ: جھپٹنا لوٹنا، غبن کرنا، خرد برد کرنا، اُچکنا، معمولی چیز چُرانا۔
خُلسَة: موقع۔
خُلسَةً: خفیہ طور پر۔
اختِلَاس: لوٹ، غبن، چھین جھپٹ (۲) اغوا کرنا۔
مُختَلِس: اُچکا، غبن کرنے والا۔
خَلَصَ ـُ خُلُوصاً و خَلَاصاً: خالص ہونا، صاف ہونا۔
إخلَاص: وفا۔
إخلَاصٌ فی أدَاءِ الوَاجِبَات: ادائیگی، فرائض میں بے لوث ہونا۔
خَلَصَ و تَخَلَّصَ مِنه: نجات پانا، چھٹکارا پانا، رہائی پانا، آزاد ہونا۔
تَخَلُّصُ البِلَادِ من کذا: ملک کا چھٹکارا پانا۔
التَّخَلُّصُ من اَحَدٍ: بے تعلق ہونا۔
التَّخَلُّصُ من الاستِعمَار: سامراجیت سے چھٹکارا۔
خَلَّصَ تَخلِیصاً: نجات دلانا، جان بچانا، آزاد کرانا، خالص بنانا، صاف بنانا۔
التَّخلِیصُ علی العِضَاعَة: کسٹم دے کر مال چھڑانا، مال کا کسٹم دینا۔
تَخلِیصُ المُعَامَلَات: معاملات صاف رکھنا۔
استِخلَاص: نتیجہ نکالنا، خلاصہ اور جوہر نکالنا، مخلص و خالص سمجھنا، مال چھڑانا۔
خَالَصَه مُخَالَصَةً: خالص دوستی رکھنا۔
خَلَاص: چھٹکارا، نجات۔
خُلُوص: صفائی، صراحت۔
خَالِص: خالص، صاف، آزاد، پیور۔
خَالِصُ الأُجرَة: محصول، فیس۔
خَالِصُ أُجرَةِ البَرِید: محصول ڈاک۔
خَالِصُ الطَّوِیَّة: صاف دل، فراخ دل۔
مُخلِص: سچا، وفادار، صاف دل۔
مُستَخلِصُ البَضَائِع من الجُمرُک: چنگی سے مال چھڑانے والا ایجنٹ۔
خُلَاصَة: سمری، خلاصہ، نچوڑ۔
مُخَالَصَة: ڈسچارج کرنا۔
خَلَطَ ـِ خَلطاً و خَلَّطَ: آمیزش کرنا، ملانا۔
خلَطَ فی الکَلَام: لغو وبیہودہ کلام کرنا۔
خَلَطَ وَرَقَ اللَّعِب (وغیرہ): تاش کے پتوں کو پھینٹنا، ملانا، گڈمڈ کرنا۔
خَلَّطَ المَرِیضُ: بدپرہیزی کرنا۔
خَالَطَهُ مُخَالَطَةً: مل جل کر رہنا، ساتھ رہنا۔
خُولِطَ فی عَقلِه و اختَلَطَ عَقلُهُ: دماغ میں خرابی ہونا۔
اختِلَاط: مل جانا، گڈمڈ ہونا، مخلوط ہونا، آمیزش ہونا، مکس ہونا (۲) امتزاج۔
خَلطٌ: آمیزش۔
خِلطٌ، خَلِیط: مکسچر، ملی ہوئی سیال چیز۔
خَلِیط: مختلف چیزوں کا مجموعہ۔
أخلَاطُ الجَسَد: اخلاطِ اربعہ (۱) خون (۲) بلغم (۳) صفرا (۴) سودا۔

أخلاطُ النَّاسِ: عوام، ادنی لوگ (۲) لوگوں کا مجمع۔

خَلَعَ ۔ خَلْعاً: کپڑا یا جوتا اتارنا۔

خَلَعَ ثِیابَه: برہنہ ہونا۔

خَلَعَ سِنّاً: دانت نکالنا۔

خَلَعَهُ: معزول کرنا۔

خَلَعَهُ عَنِ العَرْشِ: تخت سے اتارنا۔

خَلَعَ المِفْصَلَ: (مَلَخَ): قبضہ کھولنا (کواڑوں کو جوڑنے کا)۔

خَلَعَ علیه ثَوْباً ۔ خَلْعاً: خلعت یا لباس عطا کرنا۔

خَلُعَ ۔ خَلاعَةً: آوارہ ہونا، بداخلاق ہونا۔

خَلْعٌ: معزولی، علیحدگی۔

خَلْعُ صَلاحِیَّةِ التَّفاوُضِ علی فلان: کسی کو بات چیت کا اختیار دینا۔

خَلْعُ اللَّقَبِ علی أحَدٍ: لقب دینا (نام)۔

خَلْعُ الإنْسانِیَّةِ عن: آدمیت سے دور ہونا یا کرنا۔

خَلْعٌ من العَرْشِ: تخت سے اتارنا۔

خَلْعٌ من المَنْصِبِ: منصب سے ہٹانا، عہدہ سے ہٹانا۔

تَخَلَّعَ: ڈھیلا ہونا۔

تَخْلِیعٌ: ڈھیلا کرنا۔

خِلْعَةٌ: لباس، خلعت۔

خَلاعَةٌ: آوارگی۔

خَلِیعٌ: آوارہ، بدمعاش ج: خُلَعاء۔

خَلِیعٌ و مَخْلُوعٌ: معزول، علیحدہ کیا ہوا۔

خَلَفَهُ ۔ خِلافَةً: (۱) جانشین ہونا، (۲) قائم مقام ہونا (۳) باقی رہنا۔

خَلَفَ له و علیه: معاوضہ دینا۔

خَلَفَ عن أصْحابِه ۔ خُلُفاً: پیچھے رہنا۔

خَلَّفَ الشّئَ: پیچھے چھوڑنا، وراثت چھوڑنا۔

خَالَفَه مُخَالَفَةً: مخالفت کرنا، خلاف ہونا، عہد شکنی کرنا، نافرمانی کرنا۔

مُخالِف: مخالف، برعکس۔

مُخالَفةٌ قانُونِیَّةٌ: قانون کی خلاف ورزی کرنا۔

المُخالَفةُ المالِیَّة: مالی خلاف ورزی۔

اِخْتَلَفَ إلی: آمد و رفت رکھنا۔

أخْلَفَ وَعْدَه و به: وعدہ خلافی کرنا۔

أخْلَفَ علیه: معاوضہ دینا۔

تَخَلَّفَ: پیچھے رہنا، دوسرے کے مرنے کے بعد باقی رہنا۔

مُتَخَلِّفٌ: آخری، پسماندہ۔

المُتَخَلِّفُونَ عَنِ الدِّراسَة: تعلیم میں پیچھے۔

خَلَفٌ: (ضد سَلَفٌ) پسماندگان (۲) بدل (۳) نسل ج: اَخْلافٌ۔

خَلَفٌ لأحَدٍ: جانشین، قائم مقام۔

خَلْفٌ: پیچھے، پیٹھ۔

خَلْفِیٌّ: پچھلا۔

خَلْفِیَّةٌ: بیک گراؤنڈ، پس منظر، پچھلا حصہ۔

خَلْفِیَّةُ الصُّورَة: بیک گراؤنڈ، پس منظر۔

خَلْفِیَّةُ القُماش: بیک گراؤنڈ، کپڑے کا نچلا حصہ۔

خِلْفَة: کپڑے کا ٹکڑا۔

خَلْفَهُ بِخَطَواتٍ کذا: اس سے اتنے قدم پیچھے۔

الخَلافَة: نیابت، امامت، قائم مقامی۔
مُخلَّفٌ: باقی ماندہ، متروکہ چیز۔
مُخلَّفَات: متروکہ سامان یا اشیاء۔
مُخَالَفَةٌ: نافرمانی، خلاف ورزی، عہد شکنی، جرم۔
خِلاف ج: خِلافَات: قیل وقال، اختلاف۔
خِلافَاتٌ حَادَّة: زبردست اختلاف۔
خِلا فَاتٌ فِئوِيَّة: گروہی اختلافات۔
خِلا فَاتٌ فَرعِيَّة: فروعی اختلافات۔
خِلافِيٌّ: اختلافی۔
خَلَقَ ـُ خَلقًا: پیدا کرنا۔
خُلُق ج: أخلَاق: اخلاق، کیرکٹر، موڈ۔
خَلقُ التَّعَاطُف: ہمدردی پیدا کرنا۔
خَلقُ التَّعقِيدَات: پیچیدگیاں پیدا کرنا۔
خَلقُ حَالَةِ التَّفَكُّك: انتشار کی حالت پیدا کرنا۔
خَلقُ الحَسَاسِيَّة: نزاکت پیدا کرنا۔
خَلقُ الجَوّ: فضا پیدا کرنا۔
خَلقُ فَرَاغ: خلا پیدا کرنا۔
خَلقُ مُنَاخِ الحُرِيَّة: آزادی کی فضا پیدا کرنا۔
خَلقُ وَاقِعٍ جَدِيد: نئی صورتحال پیدا کرنا۔
خَلَقَ واختَلَقَ: اخذ کرنا۔
خَلَقَ واختَلَقَ كِذبًا: جھوٹ گھڑنا۔
خَلَقَ الثَّوبُ ـُ خَلقًا و خَلاقَةً و خُلُوقَةً: پرانا ہونا
خُلُوقَةٌ: پرانا ہونا۔
خَلُقَ بكذا: لائق ہونا
أخلَقَ الثَّوبَ: پرانا کرنا۔

تَخَلَّقَ بِخُلُقِ غَيرِه: دوسرے کے اخلاق وعادات اختیار کرنا۔
سَيِّئُ الخُلُقِ: بداخلاق۔
أخلَاق: آداب، اخلاق وعادات۔
خُلُق: عادت۔
خَلقٌ، خِلقَةٌ: فطرت، پیدائش، مخلوق، ایجاد۔
خِلقَة: پیدائشی ہیئت۔
خِلقِيٌّ: پیدائشی، طبعی، فطری۔
خَلَق: پرانا۔
خَلَقَة: پرانا چیتھڑا۔
خُلقَانِيٌّ: پرانے کپڑے فروخت کرنے والا۔
خَلِيق: لائق، مناسب۔
خَلِيقَةٌ ج: خَلائِق: مخلوق خدا، خلق خدا۔
خِلقِين: بائیلر، گرم پانی کا ظرف جو چولہے کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔
مُختَلَق: من گھڑت، ساختہ، جعلی، بناوٹی، بے حقیقت۔
مُختَلِق: موجد، اختراع کنندہ۔
خَلَّلَ تَخلِيلًا: سرکہ بنانا (۲) خلال کرنا۔
خَالَّهُ مُخَالَّةً: دوستی کرنا۔
أخَلَّ بِالأمرِ إخلَالًا: کسی کام میں کوتاہی کرنا، خلل ڈالنا۔
أخَلَّ بِالأمن: امن شکنی کرنا۔
أخَلَّ بِالعَهد: عہد شکنی کرنا۔
أخَلَّ بِالقَانُون: قانون شکنی کرنا۔
أخَلَّ بِالوَاجِبَات: فرائض میں گڑبڑی کرنا۔
أخَلَّ بِالوَعد: وعدہ خلافی کرنا۔
تَخَلَّلَ: درمیان سے نکلنا، پار ہونا، دو

چیزوں یا دو زمانوں کے درمیان۔
تخلَّلَ الأُسبوعَ نَدَواتٍ: مجلسوں میں ہفتوں کا وقفہ ہونا۔
اِختلال: (۱) خرابی آنا، بگاڑ پیدا ہونا (۲) کمزوری آنا (۳) بگاڑ، خرابی۔
اختلالُ النظام: نظام خراب ہونا۔
اختلالُ العقل: عقل خراب ہونا، دماغ خراب ہونا۔
خِلٌّ ج: أخلالٌ: دوست۔
خِلال: سیخ، دانتوں کا خلال (۲) درمیانی مدت۔
خِلالَ كذا: اثناء، دوران، درمیان۔
خِلالَ الفترةِ الواقعةِ بينَ: اس وقفہ کے دوران۔
فِيْ خِلالِ: دوران، درمیان۔
خَلَل: (۱) بگاڑ (۲) خرابی (۳) فساد (۴) دماغی خرابی (۵) عیب۔
خُلَّة: دوستی۔
خَلَّة ج: خِلال: عادت، خاصیت۔
مُختَلٌّ: خراب، بگڑا ہوا، تشویشناک۔
مُختَلُّ العقل: دیوانہ، خرابی دماغ والا۔
خُلُوٌّ: (ن) خالی ہونا، فارغ ہونا۔
خُلُوٌّ عَنْ و مِنْ كذا: علیحدہ ہونا۔
خَلا إليه ـــ خَلْوةً و خَلْواً، و خُلُوّاً، و خَلاءً: خلوت میں ہونا، پاس جانا۔
ـــ الشهرُ: گزرنا۔
ـــ واختلى به و معه: علیحدگی میں ہونا، خلوت میں ہونا، تنہائی میں ملنا۔
خَلّى تخليةً: چھوڑنا۔
خَلّى سبيلَه: رہا کرنا، آزاد کرنا۔

خَلّاهُ عن منصبٍ و غيرِه تخليةً: ریزائن کرنا، علیحدہ کرنا۔
أخلى مكاناً: جگہ چھوڑنا (۲) وسیع کرنا۔
أخلى إناءً: برتن خالی کرنا۔
تَخلّى عن: دست بردار ہونا، چھوڑنا، باز رہنا۔
التَّخلّي عن العادة: عادت چھوڑنا۔
تَخلّي عن المبدأ: اصول سے ہٹنا۔
التَّخلّي عن المستوطنات الصهيونية: صیہونی کالونیوں سے دست بردار ہونا۔
التَّخلّي عن المنصبِ إلى فلان: کسی کے حق میں منصب سے سبکدوش ہونا۔
التَّخلّي عن المنطقة: علاقہ سے دست بردار ہونا۔
خَلا، ما خَلا: سوی، علاوہ۔
خَلاء: کھلی ہوئی جگہ، زیرِ آسمان (۲) دیہات۔
خَلْوة: علیحدگی۔
خَلْوةُ المَلْهى: سینما گھر کا علیحدہ کمرہ، بکس۔
اختِلاء: تنہائی (۲) تنہا ہونا۔
على اختلاءٍ: علیحدہ، انفرادی طور پر۔
خَلَوِيّ: دیہاتی۔
خالٍ: (۱) خالی (۲) فارغ، غیر مصروف (۳) آزاد، ناوابستہ۔
خالٍ مِنْ عيبٍ: بے عیب۔
خالٍ مِنَ العمل: بیکار۔
خالٍ مِنَ الغرض: بے فائدہ۔
خالٍ مِنَ العراقيل: رکاوٹوں سے پاک، بے روک ٹوک۔

مَرْكَزٌ خَالٍ: خالی جگہ، خالی اسامی۔
خَلِيَّةُ النَّحل ج: خَلِيَّات و خَلَايَا: مکھی کا چھتا، شہد کی مکھی کا گھر۔
إِخْلَاءٌ: جلاوطنی، اخراج، دیس نکالا، انخلاء۔
إِخْلَاءُ المَسْئُولِيَّة: ذمہ داری ختم کرنا۔
(خلی) مِخْلَاةُ الدَّابَّة ج: مَخَالِي: ڈبرہ، گھاس کا تھیلا جو جانور کے گلے میں رہتا ہے۔

خ............م

خَمِدَ ـُـ خَمْداً و خُمُوْداً: آگ کا ٹھنڈا ہونا، بجھنا، شعلہ کم ہونا، مدھم ہونا۔
أَخْمَدَ أَنْفَاسَهُ: زندگی کا چراغ گل کرنا۔
إِخْمَادُ التَّوَتُّر: کشیدگی ختم کرنا۔
إِخْمَادُ الشَّيْءِ: خاتمہ کرنا۔
إِخْمَادُ الصَّوْت: دھیما کرنا، دبانا، بند کرنا۔
إِخْمَادُ النَّار: بجھانا، مدھم کرنا۔
إِخْمَادُ الهِمَّة: حوصلہ پست کرنا۔
خُمُود: خاموشی، جمود، پست ہمتی۔
خُمُوْدُ الصَّوْت: آواز کم ہونا (ن)
خَامِدٌ: خاموش، پست، دھیما، جامد، بے حس و حرکت۔
خَمَرَ ـِـ خَمْراً و خَمَرَ: چھپانا، پوشیدہ کرنا (۲) خمیر بنانا (۳) شراب پلانا۔
خَمِرَ ـَـ خَمَراً عنه: پوشیدہ ہونا۔
خَامَرَه مُخَامَرَةً: شک میں ڈالنا۔ متردد بنانا۔
خَامَرَه شَكٌّ: دل میں شک پیدا ہونا۔
اِخْتِمَار و تَخَمُّر: (۱) خمیر بن جانا (۲) دوپٹا یا اوڑھنی اوڑھنا۔
اِخْتِمَار: پکنا، پکائی، خیال وغیرہ کا پکنا۔
خُمَار: شراب کا نشہ، گھمیر۔

خِمَارٌ ج: أَخْمِرَة و خُمُرٌ و خُمْرٌ: دوپٹا، اوڑھنی۔
خَمْرٌ ج: خُمُوْر: شراب۔
خَمَّارَة: شراب خانہ
خَمَسَ ـِـ خَمْساً: پانچواں حصہ لینا۔
تَخْمِيْس: (۱) پنج گوشہ بنانا (۲) پانچ کے عدد میں ضرب دینا۔
خُمْسٌ ج أَخْمَاس: پانچواں حصہ، 1/5
خَمْسَةُ أَضْعَاف: پانچ گنا۔
خَمْسَةٌ عَشَرَ: (برائے مذکر) پندرہ (۱۵)
خَمْسَ عَشْرَةَ: (برائے مونث) پندرہ (۱۵)
خَمْسُوْنَ: پچاس (۵۰)
خُمَاسِيّ: پانچ رکنی، پانچ نفری، پنج گوشہ
___ الزَّوَايَا: پنج گوشہ۔
___ السُّطُوْح: پنج پہلو۔
خُمَاسِيُّ الوَرَقَات: پانچ ورقی
خُمَاسِيُّ الحُرُوْف: پانچ حرفی۔
خَمِيْس (يَوْمُ الخَمِيْس): جمعرات
مُخَمَّس: پانچ رکنی۔
النَّجْمَةُ المُخَمَّسَة: پانچ شاخا تارا
خَمَشَ ـُـ خَمْشًا و خُمُوْشاً: نوچنا، ناخن مارنا، کھسوٹنا۔
خَمُصَ البَطْن ـُـ خُمُوْصاً و خَمِيْصاً: پیٹ کا خالی ہونا۔
خَمِصُ الحَشَى: بھوکا۔
أَخْمَصُ القَدَم: پیر کا تلا۔
خَمَعَ ـَـ خُمُوْعاً: لنگڑا کر چلنا۔
خَمَلَ ذِكْرُه ـُـ خُمُوْلاً: گمنام ہونا۔
خُمُوْل: سستی، کاہلی۔

خَامِلٌ: ڈِل، سست
خَامِلُ الذِّكر: گمنام
خَمِيلَة ج: خَمَائِل: گھنے درختوں کا مجموعہ، باغ، گھنا باغ۔
خَمَّ البَيتَ ـُ خَماً: جھاڑو دینا۔
مِخَمَّة: جھاڑو۔
خُمٌّ ج: خِمَمَة: دڑبہ، مرغیوں کا ٹاپا۔
خَمَّنَ تَخْمِيناً: اندازہ کرنا۔
تَخْمِين: اندازہ، اٹکل، اسٹیمیٹ۔
تَخْمِينِيّ: اندازاً، غیر یقینی۔

خ .... ن

خَنِثَ ـَ خَنَثاً و تَخَنَّثَ: ہیجڑا بن جانا۔
خَنِثٌ، مُخَنَّث: ہیجڑا، زنانہ۔
خَنْخَنَة: ناک میں بولنا۔
خَنْدَقَة: خندق کھودنا۔
خَنْزَرة: پتھر توڑنے کا ہتھوڑا۔
خِنَّوْصٌ ج: خَنَانِيص: خنزیر کا بچہ م: خِنَوْصَة:
خِنْصِرٌ ج: خَنَاصِر: چھوٹی انگلی۔
خَنَعَ خُنُوعاً: عاجزی و فروتنی کرنا۔
خُنُوع: عاجزی، فروتنی۔
خَنَقَ ـُ خَنْقاً و خَنِقَ: گلا گھونٹنا، دم گھونٹنا، سانس روکنا۔
خَنَقَ الرَّايَةَ: پرچم سرنگوں کرنا۔
اخْتَنَاق و انْخَنَاق: گلا گھٹ جانا۔
اخْتِنَـاق و انْخِنَاق بِهواءٍ فَاسِدٍ: دم گھٹنا۔
خَنِقٌ: سانس کی بندش۔
خُنَاق: ڈفتیریا، ایک قسم کی بیماری۔
خِنَاق: گلا گھونٹنی، پھندا۔
ضَيَّقَ الخِنَاقَ تَضْيِيقاً على فُلان: ناطقہ بند کرنا، مشکل پیدا کرنا، جینا دشوار کر دینا۔
تَضَيَّقَ الخِنَاقُ على فلانٍ: جینا دشوار ہونا، ناطقہ بند ہونا۔
اخْتِنَاق: سانس کی بندش۔
اخْتِنَاقٌ دَمَوِيّ: خون کی بندش۔
خُنُّ الدَّجَاج ج: أَخْنَان: ڈربہ۔
خَنِيَ ـَ خَنىً و اَخْنَى عليه فى الكلام: بدکلامی کرنا، بدکلامی سے پیش آنا۔
اَخْنَى عليه الدَّهرُ: زمانہ دراز ہونا۔
خَنىً: کلامِ قبیح۔

خ .... و

خَوَاء: (درخوی)
خَوَاجا، خَوَاجَة: مسٹر، جناب۔
خِوَان: (درخون)۔
خُوجَة: معلم، اسکول ماسٹر۔
خَوْخٌ: آڑو، پلم۔
خَوْرٌ: چھوٹی خلیج۔
خَارَ ـُ البَقَرُ خُوَاراً و خَوْراً: گائے کا بولنا۔
خَارَ عَزْمُه خُؤُوراً: ارادہ کمزور ہوگیا۔
خَارَتْ قُوَّتُه: ہمت پست ہوگئی، طاقت جواب دے گئی۔
خُوَار: گائے کی آواز۔
خَائِرُ العَزْم: پست ہمت۔
خَوَّار: پست ہمت۔
خُوص: کھجور کا پتا۔

أخوص: چھوٹی آنکھوں والا۔
خَوَّضَ (الماءَ) و خَاضَ و خَوْضاً: پانی میں گھسنا (۲) خطرات میں پڑنا۔
خَاضَ فی الحَدِیْثِ أوالمَوْضُوعِ: کسی بات یا مسئلہ میں مشغول ہونا۔
خَوْضُ حَرَکَاتِ التَحَرُّرِ الوَطَنِیِّ: قومی تحریکات آزادی میں شامل ہونا۔
الخَوْضُ فی تَفْصِیْلاَتِ المَوْضُوعِ: موضوع کی تفصیلات میں جانا۔
خَوْضُ القُوَی الثَوْرِیَةِ المعرکَةَ: انقلابی طاقتوں کا لڑائی میں کودنا۔
خَوْضُ النَارِ أو الحَرِیْقِ: آگ میں کودنا۔
خَوْضُ النِضَال: لڑائی میں کودنا۔
خَوَّفَ و أخَافَهُ: ڈرانا، خوف دلانا۔
خَافَهُ ـــ خَوْفًا و تَخَوَّفَ الرَّجُلَ أو الأَمْرَ و منه: ڈرنا۔
تَخَوُّفٌ: اندیشہ، خوف ج: تَخَوُّفَات خَافَ عَلَیْهِ: ڈر رکھنا، کسی کی جان یا نقصان کا ڈر ہونا، غیر مطمئن ہونا۔
خَوَّاف: ڈرپوک۔
خَائِف: خوف زدہ ج: خُوَّف
خَائِفٌ عَلٰی شَیْیٍ: غیر مطمئن۔
خَوْفٌ طَاغٍ: زبردست خوف۔
خَوْفًا علی: حفاظت کیلئے۔
إخَافَة و تَخْوِیْف: ڈراوا، دھمکی۔
مُخِیْف: ڈراونا، خوفناک۔
خَوَّلَ تَخْوِیْلاً: حق دینا، سپرد کرنا، اختیار دینا، مختار بنانا، دینا، عطا کرنا۔
تَخْوِیْلٌ إلی فُلانٍ: سپرد کرنا۔
تَخْوِیْلُ حَقٍّ لأَحَدٍ: کسی کو حق دینا، اختیار دینا۔
تَخْوِیْلُ السُّلْطَةِ إلی: اقتدار حوالہ کرنا۔
تَخْوِیْلُ الصَّلاَحِیَّات: اختیارات دینا۔
خَالٌ ج أخْوَالٌ: ماموں۔
خَالَة ج: خَالاَت: خالہ۔
خَوَلٌ: غلام، بدیشی۔
خَوَلِیّ: کھیت یا باغ کا چوکیدار۔
خَوَّنَ تَخْوِیْنا: خائن بنانا۔
خَانَ و خِیَانَةً و خَوْنًا، و مَخَانَةً: خیانت کرنا۔
خَانَ الثِّقَةَ ـــ خیانة: اعتماد کھو بیٹھنا۔
خَانَ النَّاسَ: دھوکہ کرنا، غداری کرنا۔
خَانَ العَهْدَ: عہد شکنی کرنا۔
خَانٌ ج: خَانَات: ہوٹل، سرائے۔
خَانَة ج: خَانَات: کالم، خانہ۔
مَلْؤُ الخَانَات: (ف) خانہ پری کرنا۔
خُوَان ج: خِوَانَات: دسترخوان، میز جس پر کھانا کھایا جائے۔
خِیَانَة: غداری، بدعہدی، عہد شکنی۔
خِیَانَةُ المبَادِئِ: اصول سے انحراف کرنا۔
خِیَانِیّ: غدارانہ۔
خَائِنٌ (ج: خُوَّان و خَوَنَة و خَانَة) و خُوُوْن و خُوَّان: عہد شکن، غدار۔
خَوِیَ الرَّجُلُ ـــ خَوًی: خالی پیٹ ہونا، بھوکا ہونا۔
خَوًی خَوَاء: بھوک۔
خَاوٍ: خالی۔

خ..........ی

خَیَّبَ تَخْیِیْباً: ناکام بنانا، نامراد کرنا۔

___ الأملَ: امید پر پانی پھرنا۔
___ طَلَبَه: درخواست رد کرنا۔
___ مَسْعَاه: کوشش ناکام کرنا۔
خَابَ ـِ خَيبَةً: ناکام ہونا، فیل ہونا۔
خَابَ الأَمَلُ: امید پر پانی پھرنا۔
خَيبَةٌ: ناکامی، نامرادی۔
خَيَّر تَخْيِيرًا: اختیار دینا۔
خَيَّرعلى......: ترجیح دینا۔
خَارَه ـِ خَيراً و خِيراً و خِيرَةً و اخْتَارَه و تَخَيَّره: منتخب کرنا، چھانٹنا، ترجیح دینا۔
خَيرٌ ج: أخْيَارٌ و خُيُورٌ: فائدہ، نفع، بھلائی، مال، دولت۔
خُيرات: پیداوار، نعمتیں، فیض، منافع۔
خَيرٌ مِنْ: بہتر، زیادہ بہتر۔
خَيراً، حَسَناً: اچھا، ٹھیک ہے، بہتر (جناب) (جواب میں کہا جائے گا)۔
خَيِّرٌ: (۱) بہتر (۲) محسن، بھلائی کرنے والا۔
خَيرِيّ: رفاہی، عام لوگوں کے فائدہ کا۔
خِيرَة و خِيَار: بہتر اور منتخب چیز۔
خِيَار، اختِيَار: انتخاب، اختیار، رضا۔
أختِيَارٌ: رضامندی سے بطیب خاطر۔
اخْتِيَارِيّ: پسند کا۔
مُخْتَار: پسندیدہ، منتخب، انتخاب کردہ مضمون وغیرہ، ڈائجسٹ ج: مُخْتَارَات:
خَيشٌ: کینوس، ایک دبیز کپڑا (۲) پٹ سن، جوٹ۔
خَيشَه: خیمہ، بڑا تھیلا، بوری۔

خَيَّطَ تَخْيِيطاً و خَاطَ الثَّوبَ ـِ خِيَاطَةً: سینا، ٹانکا لگانا۔
خَاطَ الشَّقَّ أو الجُرْحَ: ٹانکا لگانا، سینا، ٹانکے بھرنا۔
خَيطٌ ج خُيُوط: سوت (۲) دھاگہ۔
خَيطُ الحَزْم: پیکنگ ڈوری۔
خَيَّاطٌ و خَائِط: درزی۔
مِخْيَطَة ج: مَخَايِط: سوئی۔
خِيَاطَة: سلائی، ٹیلرنگ۔
مَكِنَةُ الخِيَاطَة وماكِينَةُ الخِيَاطَة: سلائی مشین۔
مَخِيط، مَخْيُوط، مُخَيَّط: سلا ہوا۔
خَيَّفَ عَنْ: منہ پھیرنا، روگردانی کرنا۔
بَنُو أَخْيَاف: اخیافی بھائی جن کی ماں ایک اور باپ دو ہوں۔
خُيِّلَ إليه كَذَا: اسے ایسا خیال ہوا، اس نے ایسا سمجھا۔
خَالَه ـَ خَيلاً و خَيلاناً: گمان کرنا، خیال کرنا۔
تَخَيَّلَ: تصور کرنا۔
اخْتِيَال و تَخَايُل: اترانا۔
خَيلٌ: گھوڑے (مجازاً) گھوڑے سوار۔
الخَيلُ الأصَايِل: اصیل گھوڑے۔
خَيلِيّ: گھوڑوں کا۔
خُيلاء: بڑائی، اتراہٹ۔
خَيَّال: گھوڑا سوار ج: خَيَّالَة:
خَيَال: خیال، تصور، وہم، گمان۔
خَيَالِيّ: وہمی، توہماتی، غیر حقیقی۔
مُخَيِّل: حیران کن، توہم خیز۔

مُخَیِّلَة: قوت تخیلیه
مُخْتَال: اکڑباز، خود پسند، مغرور
خَیَّمَ تَخْیِیمًا: خیمہ لگانا، چھاجانا۔
خَیَّمَ علیہ الظّلامُ أو الجَھلُ: تاریکی یا جہالت چھاجانا۔
إخَامَةُ الکآبۃِ علی: غم کی گھٹا چھاجانا۔
خِیم: عادت، خصلت۔

خَیَّام: خیمہ ساز۔
خَیْمَة: ٹینٹ، خیمہ ج: خِیام و خَیْمات:
خَام: (ف) خام، ناپختہ، سادہ
خَامَات: ابتدائی میٹریل، غیر صاف شدہ میٹریل، خام مواد، خام اشیاء
مُخَیَّم: خیمہ گاہ، کیمپ ج: مُخَیَّمات:

د

د..........أ

دَأَبَ فی كَذا ـَـ دَأْباً و دَأَباً و دُؤُوباً: کسی چیز کی عادت ہونا، کسی کام کو ہمیشہ کرنا، تندہی سے کرنا۔

دَأْبٌ، دَأَبٌ: پختہ عادت۔

دَائِبٌ فی كَذا: مشغول۔

دَائِل: (مع) گھڑی کا ڈائیل۔

دَائِم: (معرب) ڈائیم، ایک نقرئی سکہ جو ۱/۱۰ ڈالر کے برابر ہوتا ہے۔

دَايَة: دایہ، بچہ جنانے والی۔

د..........ب

دَبَّ ـِـ دَبّاً و دَبِيباً: (۱) رینگنا (۲) چلنا۔

___ فی الشَّيْءِ: سرایت کرنا، لہر وغیرہ دوڑنا، جاری ہونا۔

___ الشِّقَاقُ أو الخِلافُ بَيْنَهُم: ان میں اختلاف نے راہ پائی، اختلاف پیدا ہوا۔

___ فيه الفَسَادُ: بگاڑ پیدا ہو گیا۔

دُبٌّ ج: أَدْبَاب: ریچھ۔

دَبَّابَة ج: دَبَّابَات: ٹینک (۲) رینگنے والا جانور۔

دَبَّابَاتٌ هُجُومِيَّة: حملہ آور ٹینک۔

دَابٌّ: رینگنے والا، سرایت کرنے والا۔

دَابَّة ج: دَوَابُّ: (۱) جانور (۲) مویشی، چوپایہ۔

دُوَيْبَّة: کیڑا۔

دَبَّبَ تَدْبِيباً: مسلح کرنا۔

دَبَجَ ـُـ دَبْجاً و دَبَّجَ: مزین کرنا، خوبصورت بنانا۔

دِيبَاج ج: دَبَابِيج: خالص ریشمی کپڑا۔

دِيبَاجَة: (۱) چہرہ (۲) مقدمہ کتاب، دیباچہ (۳) خط وغیرہ کا تمہیدی مضمون، القاب۔

مُدَبَّج: آراستہ، مزین۔

دَبْدَبَ الحَافِرُ دَبْدَبَةً: گھوڑے وغیرہ کی ٹاپ کی آواز پیدا ہونا۔

دَبْدَبَة: قدموں کی آواز، چاپ۔

دَبَّرَ تَدْبِيراً: (۱) مرتب کرنا (۲) تیار کرنا (۳) تدبیر کرنا (۴) حکمت سے کام لینا۔ (۵) مہیا کرنا، پیش کرنا (۶) ایجاد کرنا (۷) انتظام کرنا (۸) بچت کرنا۔

دَبَّرَ الأَمْرَ: تدبیر کرنا، انتظام کرنا۔

دَبَّرَ تُهْمَةً: الزام تراشنا۔

دَبَّرَ خُطَّةً: اسکیم بنانا، منصوبہ بنانا، تدبیر کرنا۔

دَبَّرَ مَكِيدَةً: چال چلنا۔
دَبَرَ ـُـ دَبْراً و دُبُوراً و أَدْبَرَ: پشت پھیرنا، گذر جانا۔
تَدَبَّرَ أَمْراً: کسی مسئلہ پر غور کرنا۔
تَدَبَّرَ فی مَالِه: کفایت شعاری کرنا۔
دُبْرٌ ج: أَدْبَار: (۱) مقصد (۲) پتھر توڑنے کا آلہ (مِلْطَاسُ الحِجَارَة):
دَابِر: (۱) ہر چیز کا آخری حصہ (۲) دُم (۳) جڑ، اصل (۴) گزشتہ۔
قَطْعُ دَابِرٍ: جڑ اکھاڑنا، نیست ونابود کرنا۔
تَدْبِير: سیاست (۲) انتظام، مینجمنٹ (۳) نظم ونسق (۴) ایجاد (۵) بجٹ (۶) کفایت شعاری ج: تَدَابِيرُ:
تَدْبِيرُ المَنْزِلِ: خانگی نظم ونسق
تَدْبِيرٌ فی المَالِ: کفایت شعاری کرنا۔
تَدْبِيرُ لِقَاءٍ مَعَ فُلَانٍ: کسی سے ملاقات کرانا۔
تَدْبِيرٌ احْتِيَاطِيٌّ: احتیاطی کارروائی، حفاظتی تدبیر۔
تَدَابِيرُ آمِنَة: حفاظتی تدابیر۔
التَّدَابِيرُ الحَازِمَة: احتیاطی کارروائی۔
مُدَبَّر: مرتب، منظم، تیار۔
مُدَبِّر: منتظم، کفایت شعار، دانشمند۔ ایڈمنسٹریٹر۔
دِبْس: انگور یا کھجور کا شیرہ۔
دَبُّوسُ أَمَانٍ: سیفٹی پن۔
دَبُّوس إِنْكِلِيزِيّ: (۱) سیفٹی پن۔
دَبُّوسُ رَسْمٍ: ڈرائنگ پن۔
دَبُّوسُ رَبْطَةِ رَقَبَةٍ: ٹائی پن۔

دَبُّوسُ شَعْرٍ: بالوں کا پن، کلپ۔
دَبُّوسٌ أو مِشْبَكٌ: سینہ کا پن۔
دَبُّوسُ الغَسِيلِ، مِشْبَك: کپڑوں کا پن۔
مَدْبَسَة (مِخَدَّةُ الدَّبَابِيس): پن دان۔
دَبَشٌ: خراب سامان، ردی سامان۔
دَبَغَ الجِلْدَ ـِـ دَبْغًا و دِبَاغاً و دِبَاغَةً: چمڑا (پکا کر) صاف کرنا۔
دَبَّاغُ الجُلُودِ: چمڑا صاف کرنے والا۔
دِبَاغَةُ الجُلُودِ: چمڑے کی صفائی۔
مَدْبَغَةُ الجُلُودِ ج: مَدَابِغ: چمڑا صاف کرنے کا کارخانہ۔
دَبَقَ ـِـ دَبْقًا الطَّيْرَ: پرندے کا دبق کے ذریعے شکار کرنا۔
دَبِقَ بِه ـَـ دَبَقاً: چمٹنا، لگنا، چپکنا۔
تَدْبِيق: لیس دار بنانا۔
تَدَبَّقَ: لاسہ سے شکار ہو جانا۔ (۲) لیس دار ہونا۔
دَبِقٌ: لیس دار، چپکتا ہوا۔
دَبَلَ الأَرْضَ ـُـ دَبْلاً: کھاد ڈالنا۔
دُبَّلٌ ج: دُبُول: طاعون کا پھوڑا۔ پلیگ۔
دُبْلَة ج: دُبَل: ڈھیر، کسی چیز کا حصہ۔
دِبْلَةُ سَاعَةِ الجَيْبِ: جیبی گھڑی کا حلقہ
دُبَالٌ: کھاد۔
الدِّبْلُوم: ڈپلوما۔
الدِّبْلُومَاسِيّ: (كَالسَّفِيرِ أَوْ وَزِيرِ الخَارِجِيَّة): ڈپلومیٹ، فن سفارت کا ماہر، سیاسی۔
دِبْلُومَاسِيٌّ مُحْتَرِف: پیشہ ور ڈپلومیٹ۔
الدِّبْلُومَاسِيَّة: حکمت عملی، ڈپلومیسی، سرکاری۔

دِبلُوماسِيَةُ الخَطوَةِ خَطوَه: قدم قدم چلنے کی پالیسی، مرحلہ وار حکمت عملی۔
دِبلُوماسِيَةُ الدُّولَار: ڈالر پالیسی۔
الدِّبلُوماسِيَةُ السِرِّيَة: خفیہ حکمت عملی۔
دِبلُوماسِيَةُ المُكُوس: کروڑ گیری پالیسی، ٹیکس پالیسی، ٹول ٹیکس پالیسی۔
دَبى و: دَبَاة: چھوٹی ٹڈی۔

د............ث

دَثَ ـُ دَثًا: مار کر ہٹانا، تکلیف دینا۔
دَثَرَ ـُ دُثُوراً و اندَثَرَ: مٹنا، نشان اور آثار مٹنا۔
تَدثِير: (۱) ڈھانکنا (۲) چادر یا کمبل اڑھانا (۳) مٹانا۔
دِثَارٌ ج: دُثُر: اوپر کا کپڑا، کمبل، بلینکٹ۔
دُثُور و اندِثَار: خاتمہ، زوال۔

د............ج

دَجَّجَ بالسِّلَاحِ: ہتھیاروں سے لیس کرنا۔
دُجَّة: سخت تاریکی۔
دُجَاجٌ و: دَجَاجَة: مرغی (۲) مرغی کا بچہ (۳) پالتو پرندے۔
دُجَاجِىّ: مرغی کا (۲) مرغیاں بیچنے والا۔
مُدَجَّج: ہتھیار بند، مسلح۔
دَجِرَ ـَ دَجَراً: حیران ہونا۔
دَيجُور: تاریکی ج: دَيَاجِير و دَيَاجِر:
دَجَلَ ـُ دَجلاً: جھوٹ بولنا۔
تَدجِيل: ملمع کرنا، حقیقت پر پردہ ڈالنا، زمین میں کھاد ڈالنا۔
تَدجِيلٌ على: دھوکہ دینا۔
تَدجِيل: (۲) جادوگری کا دعویٰ کرنا، کسی کمال و ہنر کا دعویٰ کرنا۔

دَجَّال: جھوٹا، دھوکہ باز۔
دَجَال: سونے کا پانی، ملمع، گوبر۔
دِجلَة: عراق میں واقع مشہور دریا۔
دَجَنَ ـُ دُجُونا و دَجنًا: مانوس ہونا، پالتو ہونا۔
دَجَنَ و أدجَنَ اللَّيلُ: رات کا تاریک ہونا۔
دَاجَنَهُ مُدَاجَنَة: ظاہری رواداری برتنا۔
دُجنَة: تاریکی۔
دَاجِنٌ ج: دَوَاجِن: پالتو جانور۔
أدجَنُ: تاریک تر۔
دُجىً، دُجيَة: تاریکی۔
دَجِىٌّ، دَاج: تاریک۔
دَيَاجِى: تاریکیاں۔
دَجَا ـُ دُجُوًّا و دَجوًا: تاریک ہونا۔
دَاجَاه مُدَاجَاة: ظاہری رواداری برتنا۔

د............ح

دَحدَح: پست قد و موٹا۔
دَحَرَ ـَ دَحراً و دُحُوراً: شکست دینا۔
دَحَرَ الجَيشَ ـَ دَحراً: پیچھے دھکیلنا۔
مَدحُور: مغلوب و شکست خوردہ۔
اندِحَار: خاتمہ، زوال۔
دَحرَجَة: لڑھکانا۔
تَدَحرَجَ: لڑھکنا۔
دَحِسَ ـَ دَحساً: انگلی کا ورم آلود ہونا۔
دَحَضَ ـَ دَحضاً و أدحَضَ: باطل کرنا، دلیل توڑنا، ختم کرنا، مٹانا، بے اثر کر دینا۔
دَحَضَ الاعتِقَادَ بَكَذَا ـَ دَحضاً: کسی خیال کی تردید کرنا۔
دَحضٌ: خاتمہ ابطال

لایُدحَض: نا قابل ابطال۔

د..........خ

دَخَلَ ـُـ دُخُولاً: دخل ہونا، اندر جانا (۲) شروع ہونا۔

____ فی کَذا: شامل ہونا، شریک ہونا۔

____ فی خُصُومَة: لڑائی شروع کرنا۔

____ علیه: آنا، جانا (کسی کے پاس)

____ علی زَوْجَتِه: ہم بستری کرنا۔

دَخَلَه و دَاخَلَهُ شَكٌّ: دل میں شک ہونا۔

دُخِلَ فی عَقْلِه: دماغ میں خرابی آنا۔

دَخَّلَ و أَدْخَلَ: داخل کرنا (۲) اندر آنے دینا۔ (۳) اندر لے جانا۔

تَدَخُّلٌ: مداخلت۔

التَدَخُّلُ الأَجْنَبِیُّ فی شُئُونِ فُلان: کسی کے معاملات میں غیر ملکی مداخلت۔

التَدَخُّلُ السَّافِرُ: کھلی مداخلت۔

التَدَخُّلُ العَسْكَرِی: فوجی مداخلت

تَدَخَّلَ فی......: دخل دینا، آڑے آنا۔

التَدَخُّلُ فی الاختِصَاصَاتِ: اختیارات میں ٹانگ اڑانا۔

التَدَخُّلُ فی عَمَلِیَّةٍ عَسْكَرِیَة: فوجی کارروائی میں حصہ لینا۔

تَدَاخُل: خلط ملط ہونا، ایک کڑی کا دوسری میں ملنا۔

تَدَاخَلَ بَيْنَهُمْ: مداخلت کرنا، دخل دینا۔

دَاخَلَ الشَّیْءَ مُدَاخَلَةً: راز معلوم کرنا، اندرونی بات معلوم کرنا۔

دَخْلٌ ج: آمدنی (۲) اثر (۳) شک وشبہ۔

دَخْلٌ تَقْدِیرِیٌّ: متوقع آمدنی۔

دَخْلٌ حَقِیقِیٌّ: واقعی آمدنی۔

دَخْلٌ سَنَوِیٌّ: سالانہ آمدنی۔

دَخْلٌ شَهْرِیٌّ: ماہانہ آمدنی۔

دَخْلُ الفَرْد: فی کس آمدنی۔

دَخْلٌ قَوْمِیٌّ: قومی آمدنی۔

دَخْلٌ مَزْرَعِیٌّ: کاشت کی آمدنی۔

دَخْلٌ مَقْبُوضٌ مُقَدَّماً: پیشگی لی ہوئی آمدنی۔

دَخْلٌ نَقْدِیٌّ: نقدی آمدنی۔

دَخْلٌ و خَرْجٌ: آمدوخرچ۔

دَخْلٌ، دَخَلٌ: عقل کی خرابی۔

لدُخُولُ بأَحَدٍ الی مَعْرَكَةِ الانتِخاب: کسی کو الیکشن میں کھڑا کرنا۔

دُخُولُ الحَرْبِ بِجَانِبِ أَحَدٍ: کسی کی حمایت میں جنگ میں شامل ہونا۔

الدُخُولُ فی التَفْصِیلاتِ: تفصیلات میں جانا۔

الدُخُولُ فی القَاعَة: ہال میں داخلہ۔

الدُخُولُ فی قاعة المؤتمر: کانفرنس ہال میں داخلہ۔

الدُخُولُ فی المُفَاوَضَات: مذاکرات میں شریک ہونا۔

الدُخُولُ فی المُنَاقَصَة: ٹینڈر داخل کرنا۔

دُخُولُ مَعْرَكَة: جنگ میں الجھنا۔

دُخُولُ مَعْرَكَةِ الانتِخَاب: انتخابی مہم میں لگنا، انتخابی معرکہ میں لگنا۔

دَخِیلٌ: خائن، اجنبی، غیر ملکی، بدیسی ج: دُخَلاءُ:

دَاءٌ دَخِیلٌ: اندرونی بیماری۔

دَخِيلَةُ الـمَرء ج: دَخَائِل: نیت، دل کی بات، مخفی بات، راز۔
دَخَائِلُ الأُمُوْر: مخفی پہلو، مخفی امور۔
دَاخِلُ الشئ: اندرونی حصہ۔
دَاخِلاً: اندر، اندر کی جانب۔
دَاخِل: اندر، اندرونی (۲) خصوصی۔
دَاخِـلَ ظَـرْفِ مَخْتُوْم بالشَّمْعِ الأحْمَر: لاک کی مہر لگے ہوئے لفافہ کے اندر۔
دَاخِلِيّ: اندرونی، خانہ ساز
دَاخِلِيَّةُ البِلاد: ملک کا اندرونی معاملہ، اِن لینڈ۔
مَدْرَسَةٌ دَاخِلِيَّة: بورڈنگ اسکول
مُشَاغَبَاتٌ دَاخِلِيَّة: ملکی ہنگامے
وِزَارَةُ الدَّاخِلِيَّة: وزارت داخلہ۔
دَاخِلِيّاً: اندرونی طور پر۔
إدْخَال: ایڈیشن۔
إدْخَالُ التَّحْسِينَات: اصلاحات کرنا۔
إدْخَالُ التَّعْدِيْلاَت: اصلاحات کرنا۔
إدْخَـالٌ فـی الـفَـاتُورَة: بل میں شامل کرنا۔
تَدَاخُل، تَدَخُّل: دخل اندازی
مُتَدَاخِـلٌ فِيهِـمَا لاَيَعْنِيهِ: غیر متعلق باتوں میں مداخلت کرنے والا۔
مَدْخَل ج: مَدَاخِل (ضد مَخْرَج): داخلہ کا دروازہ، گیٹ۔
مَدْخَلٌ: انٹری۔
المَدْخَلُ التَّارِيْخِيّ: تاریخی موڑ۔
مَدْخُول: (۱) آمدنی (۲) پیداوار

دَخَنَ الشئ ـُـ دَخْنَا و دَخْنَا و دُخُوْنَا و دَخَّـنَ: کسی چیز میں دھواں ہونا، دھوئیں کی بو آنا۔
دَخِنَتِ النَّارُ و دَخَّنَتْ: آگ سے دھواں نکلنا۔
دَخَّنَ تَدْخِيناً: دھواں چھوڑنا۔
دَخَّنَ التَّبغ: تمباکو پینا۔
دَخَّنَ الشِّيْشَة: حقہ پینا۔
دَخَّنَ السِّيْجَارَة: سگریٹ پینا۔
دَخَنٌ، دُخَان، دُخَّانٌ: دھواں، بھاپ (۲) تمباکو ج: أَدْخِنَة و دَوَاخِن:
دَاخِنَةٌ، مَدْخَنَة: دھواں نکلنے کی چمنی جو انجن یا مل وغیرہ میں ہوتی ہے۔
دُخْنَة: دھوئیں کا رنگ۔
دَخَاخِنِي: (۱) تمباکو اور اس کے لوازمات فروخت کرنے والا، پان بیڑی سگریٹ والا۔
دَاخِن، مُدْخِنٌ: دھوئیں دار
مِدْخَنُ التَّبغ: سگریٹ پائپ
مَدْخَنَة: چمنی۔
تَدْخِين: تمباکو نوشی۔
مُدَخِّنُ التَّبغ: تمباکو نوش۔

د..........و

دَدَنٌ: کھیل کود۔
دَيْدَن: عادت، طریقہ۔

د..........ر

دَرَأَ ــَـ دَرْأً و دَرْأَةً: (۱) ہٹانا، زائل کرنا (۲) دھکا دینا، رفع کرنا۔
دَرَابْزُوْن: ریلنگ۔
دَرَّبَـه عـلـى كَذا تَدْرِيباً: ٹریننگ دینا، مشق

کرانا، تربیت دینا۔
دَرِبَ ـــَـ دَرَبًا و تَدَرَّبَ عَلی کَذا: مشق کرنا، عادی ہونا، مشاق ہونا۔
دَرْبٌ ج: دُرُوْبٌ: راستہ، گلی، پہاڑی راستہ۔
دَارُوْبُ الفِدَاء: فداکاری وجانثاری کی راہیں۔
دُرْبَة: مشق، تجربہ، عادت، مہارت
تَدْرِیْب: ٹریننگ، تربیت، مشق کرانا۔
تَدْرِیْبٌ اَثْنَاءَ الخِدْمَة: دوران ملازمت ٹریننگ۔
تَدْرِیْبٌ بِدَائِیّ: ابتدائی ٹریننگ۔
تَدْرِیْبٌ جِسْمَانِیّ: ایکسرسائز، ورزش۔
تَدْرِیْبٌ رَاقٍ: اعلیٰ تربیت۔
تَدْرِیْبٌ رَسْمِیٌّ فی مَجَالٍ: کسی سلسلہ کی باقاعدہ ٹریننگ۔
التَّدْرِیْب علی اَعْمَالِ تَصْلِیْحِ السَّیَّارة: موٹر کی درستگی کے کاموں کی ٹریننگ۔
تَدْرِیْبٌ علی الاَعْمَالِ المَکْتَبِیَّة: دفتری امور کی ٹریننگ۔
التَّدْرِیْبُ علی العَمَلِیَّاتِ التِّجَارِیَّة: کاروباری ٹریننگ۔
التَّدْرِیْبُ الیَوْمِیّ: یومیہ پریڈ، روزانہ کی پریڈ۔
مُدَرَّبٌ، مُتَدَرِّب: ٹرینڈ، مشق کیا ہوا، تربیت یافتہ۔
مُدَرِّب: تربیت دینے والا۔
دَرَجَ ـــُـ دُرُوْجًا و دَرْجًا، و دَرَجَانًا: (۱) چلنا، آہستہ چلنا (۲) سیڑھی پر چڑھنا، (۳) رائج ہونا، پھیلنا (۴) ہلاک ہونا۔
دَرِجَ ـــَـ دَرَجًا: ترقی کرنا، رتبہ حاصل کرنا
دَرَجَ و دَرَّجَ: لپیٹنا، طے کرنا۔

دَرَّجَ إلی: قریب کرنا۔
دَرَّجَ: سیڑھیاں بنانا، درجوں پر تقسیم کرنا۔
تَدَرَّجَ فی السَّیْر: آہستہ چلنا۔
أَدْرَجَ فی کَذا: شامل کرنا، درج کرنا۔
اِنْدَرَجَ فِی کَذا: شامل ہونا۔
إِسْتَدْرَجَهُ إلیٰ: بتدریج آگے بڑھانا، ترقی دینا۔
اسْتَدْرَاجُ أحدٍ: ڈھیل دینا۔
دَرْجٌ: (۱) کاغذ وغیرہ کا رول، گولا، (۲) کتاب یا کاغذ کی تہہ۔
دَرَجٌ ج: أَدْرَاج: راستہ
ذَهَبَ أَدْرَاجَ الرِّیَاح: وہ ہواؤں میں گم ہوگیا، فنا ہوگیا، ضائع ہوگیا۔
رَجَعَ أدْرَاجَه: وہ جہاں سے چلا تھا وہیں لوٹ آیا۔
دُرْجٌ ج: أَدْرَاجٌ و دِرَجَةٌ: میز کی دراز، خانہ، سنگاردان۔
دَرَجَة ج: دَرَجَات: سیڑھی (۲) رتبہ، مقدار (۳) ڈگری، گریڈ، درجہ (۴) مرحلہ، حالت (۵) کلاس (۶) نمبر (۷) اسٹیج۔
دَرَجَةُ السَّیْرِ أو التَّقَدُّم: رفتارِ ترقی
الدَّرَجَةُ الأُوْلیٰ: اپر کلاس، فرسٹ کلاس، نمبر اول۔
الدَّرَجَةُ الثَّانِیَة: سیکنڈ کلاس۔
دَرَجَةُ الحَرَارَة: ٹمپریچر۔
دَرَجَةُ الدُّکْتُوراه: ڈاکٹریٹ، ڈاکٹریٹ کی ڈگری۔
دَرَجَةُ عِلْمِیَّة: ڈگری۔
الدَّرَجَةُ القَمَرِیَّة: کیبن کلاس۔

الدَّرجةُ المُمتازة: فرسٹ کلاس، فرسٹ
درَّاجٌ و: دُرَّاجة: تیتر۔
درَّاجة: سائیکل۔
درَّاجةٌ نارِيَّة: موٹر سائیکل۔
درَّاجةٌ نارِيَّة مُنخفِضة: اسکوٹر
درَّاجةٌ هوائِيَّة: بائسکل
دارِجٌ: رائج، مستعمل، معمول بہ، فیشن ایبل۔
طِفلٌ دارِج: پیروں چلنے والا بچہ۔
تَدرِيج: درجہ بندی، گریڈ بندی، درجہ بدرجہ کرنا۔
تَدرِيجاً، تَدرِيجيّاً، بِالتَّدرِيج: آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ، بتدریج، ایک ایک قدم۔
مَدرَجٌ ج: مَدارِج: راستہ (۲) رن وے (Runway)
مَدرَجُ الطّائِرات: رن وے، ہوائی اڈے کی وہ سڑک جس پر ہوائی جہاز دوڑتا ہے۔
مَدرَجٌ رُومانِي: سرکس۔
دَرِدَ ـَ دَرَداً: دانت ٹوٹ جانا، بے دانت کا ہونا۔ (۲) غضبناک ہونا۔
دُرْدِيٌّ: تلچھٹ۔
دَردَبِيس: بڑھیا۔
(درر) دَرَّ الحَلِيبُ و العَرَقُ والبَولُ ـِ دَرّاً: بہنا، جاری ہونا۔
دَرٌّ ج: دُرُور: (۱) دودھ (۲) خیرِ کثیر، دولت (۳) خوبی، کمال (۴) فیضان۔
دَرَّ الحَيَوانُ ـُ دَرّاً: تھن میں دودھ زیادہ ہونا۔
أَدَرَّ و استَدَرَّ: بہانا۔
دُرَّةٌ ج: دُرَرٌ: موتی (۲) زیور۔
كَوكَبٌ دُرِّيٌّ: چمکدار ستارہ۔
دِرَّة: (۱) تھن (۲) دودھ۔
مُدِرٌّ لِلبَول: پیشاب لانے والا، پیشاب آور۔
مُدِرٌّ لِلعَرَق: پسینہ لانے والا۔
مُدِرٌّ لِلحَلِيب: دودھ بڑھانے والا۔
مِدرار: بہت بہنے والا۔
دَرَزَ ـُ دَرزاً: باریک سلائی کرنا، بخیہ کرنا (۲) زخم میں ٹانکا لگانا۔
دَرزٌ ج: دُرُوز: کپڑے کی سیون۔
دَرزَة: ایک ٹانکا۔
تَدرِيزُ الجُرُوح: زخموں کی سلائی۔
دَرَسَ ـُ دَرساً: مٹانا۔
دَرَسَ دُرُوساً: مٹنا (۲) بوسیدہ ہونا۔
دَرَسَ دِراسَةً: کتاب یا کسی علم کا مطالعہ کرنا، غور وخوض کرنا۔
دَرَسَ الغَلَّةَ ـُ دَرساً: غلہ گاہنا۔
دَرَّسَ و أَدرَسَ: پڑھانا، درس دینا۔
اندِراس: مٹ جانا، بے نشان ہونا
دَرسٌ ج: دُرُوس: سبق
دَرسٌ: إضافِيّ: اضافی سبق، زائد سبق۔
دارِسٌ: مطالعہ کنندہ، ریسرچ اسکالر
دَرسٌ، دِراسَة: اسٹڈی، مطالعہ، معاینہ، غور وخوض، تعلیم۔
الدِّراسَةُ الابتِدائِيَّة: ابتدائی تعلیم
دِراسَةٌ استِطلاعِيَّة: معلوماتی مطالعہ
دِراسَةُ اقتِصادِيّاتِ المَشرُوع: مالی

پہلوؤں پر غور کرنا۔
دِرَاسَةٌ ثَانَوِیَّة: ثانوی (سکینڈری) تعلیم۔
دِرَاسَةٌ جَادَّة: سنجیدہ غور، مطالعہ۔
دِرَاسَةُ الحُقُوق: لاء پڑھنا، قانونی تعلیم
دِرَاسَةٌ مُعَمَّقَة: گہری معلومات، گہرا مطالعہ
دِرَاسَةٌ مُنتَظِمَة: باضابطہ تعلیم۔
دِرَاسَةُ المِیزَانِیَة: بجٹ پر غور۔
دِرَاسَةٌ نَقدِیَّة: تنقیدی جائزہ تنقیدی مطالعہ
دِرَاسَاتٌ: معلومات، مطالبات، تحقیقات
و: دِرَاسة
دِرَاسَاتٌ دَقِیقَة: گہرا مطالعہ، مکمل تحقیقات
دِرَاسَاتٌ عُلیَا: اعلیٰ تعلیم۔
دِرَاسَةٌ وَافِیَة: مکمل مطالعہ، مکمل تحقیق۔
دِرَاسِیٌّ: تعلیمی۔
دَرَّاسَة: نورج، غلہ گاہنے کی مشین۔
دِرسْوَار: (معرب) ڈریسر، مرہم پٹی کرنیوالا
درِیسٌ: پرانا، بوسیدہ۔
مُدَرِّس: ماسٹر، ٹیچر، استاد
مُدَرِّسٌ مُعَارٌ: عارضی مدرس۔
مُدَرِّسَة: استانی، لیڈی ٹیچر۔
مَدرَسَة ج: مَدَارِس: اسکول، تعلیم گاہ، درس گاہ، مدرسہ۔
مَدرَسَةٌ جَامِعَة: یونیورسٹی
مَدرَسَةٌ عَالِیَة: کالج، ہائی سکول، سینئر سیکنڈری سکول
مَدرَسَةٌ اِبتِدَائِیَّة: پرائمری اسکول
مَدرَسَةٌ ثَانَوِیَّة: ہائی اسکول، سیکنڈری اسکول۔
المَدرَسَةُ العَامَّة: پبلک اسکول

مَدرَسَةٌ فِکرِیَّة: مکتبہ فکر۔
مَدرَسَةٌ کُلِّیَّة: کالج
مَدرَسَةٌ مَجَّانِیَّة: کامن اسکول، مفت تعلیم کا اسکول۔
مَدرَسَةُ المُعَلِّمِین: استادوں کی تربیت کا مدرسہ، ٹریننگ اسکول۔
المَدرَسَةُ المِهنِیَّة: ٹریننگ اسکول۔
مَدرَسَةُ البَنَات: گرلز اسکول۔
مَدرَسَةٌ دَاخِلِیَّة: بورڈنگ اسکول۔
مَدرَسَةٌ تَجهِیزِیَّة: تیاری کا اسکول، وہ اسکول جو لڑکوں کو کسی بڑے اسکول کے لیے تیار کرے۔
مَدَارِسُ أَهلِیَّة: پرائیویٹ مدارس
أَیَّامُ الدِّرَاسَة: زمانۂ تعلیم۔
رَفِیقُ المَدرَسَة: اسکول کا ساتھی۔
نَاظِرُ المَدرَسَة: ہیڈ ماسٹر، پرنسپل، مہتمم۔
مَدرَسِیٌّ: اسکول کا، درسی۔
کِتَابٌ مَدرَسِیٌّ: درسی کتاب، کلاس بک۔
دَرَّعَه تَدرِیعاً: زرہ پہنانا، زرہ پوش بنانا، زرہ پوش کرنا۔
دِرعٌ ج: دُرُوعٌ: زرہ
دِرعُ الأُمَّة: قوم کا پشتیبان، قوم کا محافظ، قوم کے لیے ڈھال۔
دَارِعٌ، مُدَرَّع: زرہ پوش۔
سَیَّارَةٌ مُدَرَّعَة: زرہ پوش موٹر۔
دَرَف: جانب، سایہ۔
دَرفَة: دروازہ یا کھڑکی کا پٹ۔

دَرَقَةٌ ج: دَرَقٌ: چمڑے کی ڈھال۔
دَرَّاقٌ، دُرَّاقِنٌ: شفتالو۔
دَوْرَقٌ ج: دَوَارِق: صراحی، صراحی نما
دَرَکَ المطرُ: بارش کا لگاتار برسنا۔
دَارَکَه مُدَارَکَةً: لاحق ہونا، تابع ہونا۔
أدْرَکَ الثَّمرُ: پھل پک جانا۔
أدْرَکَ: (۱) پالینا (۲) لاحق ہونا (۳) سمجھنا (۴) کنہ کو پہنچنا (۵) بالغ ہونا۔
لایُدْرَکَ: ناقابلِ ادراک، ناقابل فہم، ناقابل حصول۔
القِطَارُ لا یُدْرَکُ الآنَ: ریل اب نہیں ملے گی۔
اسْتِدْرَاک: تدارک کرنا، تلافی کرنا (۲) تلافی مافات، تصحیح کلام سابق۔
اسْتَدْرَکَ علَیْه: کلام سابق سے مفہوم غلطی کا ازالہ۔
تَدَارَکَ الأمْرَ: درست کرنا۔
تَدَارَکَ مَافَاتَه: گزشتہ کی تلافی کرنا۔
تَدَارَکَ: باہم ملنا، لاحق ہونا۔
دَرْکٌ: (۱) حصول، پکڑ (۲) تہہ، تلی
دَرْکُ الخَفِیْرِ والبُوْلِیس: چوکیدار اور پولس کا دائرہ کار۔
إدْرَاک: حصول، بلوغ، فہم، علم، عقل، پختگی، سوجھ بوجھ۔
إدْرَاکُ الأُمْنِیَّة: اُمید بر آنا۔
مُدْرِکٌ: عاقل، بالغ، پختہ۔
مَدَارِکُ الإنْسَان: عقل وشعور
دَرِمَ ـــ دَرَمًا: دانت ٹوٹ جانا، بے دانت کا ہونا۔

دَرَّمَ أظَافِرَه: (کاٹنے کے بعد) ناخن ہموار کرنا۔
دِرَامَا: ڈرامہ۔
دَرِنَ ـــ دَرَنًا و أدْرَنَ: میلا ہونا۔
إدْرَانُ الشَّیْئِ: میلا ہونا، ناصاف ہونا۔
دَرَنٌ ج: أدْرَانٌ: میل کچیل
دِرْهَمٌ ج: دَرَاهِمُ: ۱۲/۱۱ اوقیہ، ۱۲ء۳ گرام (۲) روپیہ، نقدی، کیش۔
دَرْوِیْش: زاہد و پرہیزگار۔
دَرَی الأمْرَ وبه ـــ دِرَایَةً و دَرْیًا، و دَرَیَانًا: جاننا، واقفیت حاصل کرنا، علم حاصل کرنا۔
أدْرَاهُ إدْرَاءً: جتانا، واقفیت کرانا۔
دَارَاهُ مُدَارَاةً: دل جوئی کرنا، خاطرداری کرنا، نرمی کا برتاؤ کرنا۔
دِرَایَة: علم، واقفیت۔
دَارٍ بالأمْرِ: واقف کار۔
مِدْرَاة، مِدْرًی (مُشْطٌ): کنگھا

د............ز

دَزِیْنَة: درجن، دستہ۔

د............س

دَسَّ: (ور دس)
دِسْبِبْسِیَا: (مع) ڈسپیپا، ضعف معدہ ۰
دَسْتٌ ج: دُسُوْت: (۱) مجلس (۲) بازی شطرنج (۳) فریب، چال (۴) درانتی۔
دَسْتُ الوِزَارَة: کیبنٹ، مجلس وزراء۔
دَسْتَة: (وا) درجن (۱۲)
دَسْتَان: دوڑی، تلی، تانت۔
دَسْتَةُ وَرَقِ اللَّعِب: تاش کا پیکٹ
دُسْتُوْرٌ ج. دَسَاتِیْر: (۱) قانون، آئین،

طریقہ عمل (۲) بنیادی نظام (۳) نظام حکومت۔
دُسْتُورٌ اَسَاسِيٌّ: دستوراساسی، بنیادی ضابطہ۔
الدُّسْتُورُ المُسْتَفتَى عليه: وہ آئین جس پررائے شماری کی جائے۔
دُسْتُورِيٌّ: باضابطہ، قانونی، آئینی، دستوری
دَسَرَه ـُ دَسْراً: ہٹانا، دفع کرنا، دھکیلنا، چلانا۔
دَسَّسَ دَسَّ ـُ دَسًّا: چھپانا (۲) داخل کرنا (۳) دھنسانا۔
دَسَّ و عليه: فریب دینا، کسی کے خلاف سازش کرنا۔
دَسَّ الدَّسَائِسَ: پرفریب چالیں چلنا، سازشیں کرنا۔
اِنْدَسَّ في: دھنس جانا۔
اِنْدَسَّ بَيْنَهُمْ: گھس جانا، داخل ہوجانا۔
دَسَّاسٌ: فریب کار، چالباز۔
دَسِيْسَة ج: دَسَائِسُ: چال، فریب، مکاری، خفیہ عداوت۔
دَسْكَرَة: چھوٹا گاؤں ج: دَسَاكِر
دَسِمَ ـَ دَسَماً و: دُسُومَةً: چربی دار چکنا ہونا۔
دَسم تَدسيمًا: چربی دار بنانا، چربی ڈالنا۔
دَسَمٌ و دُسُومَةٌ: چکناہٹ، چربی۔

د.............ش

دَشَّ القَمحَ وغيرَه ـُ دَشًّا: گیہوں وغیرہ کو دلنا، پیسنا۔
دُشّ: فوارہ دار غسل خانہ۔

تَدْشِين: افتتاح، آغاز۔
تَدْشِينُ السَّفِينَة: جہاز کا افتتاح، پہلی بار جہاز کو پانی میں اتارنا۔

د.............ع

دَعَبَ ـَ دَعْباً و دَعَابَةً و دَاعِبَةً: ہنسی مذاق کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، دل لگی کرنا، خوش طبعی کرنا۔
دُعَابَة، مُدَاعَبَة: خوش طبعی، دل لگی۔
دَعَرَ ـَ دَعَارَةً: بدکار ہونا۔
دَعِرَ ـَ دَعَراً: بوسیدہ ہونا۔
دَعَرٌ، دِعَارَة: بدکاری، آوارگی، زنا کاری۔
دَعِرٌ، دَاعِرٌ: بدکار، بدفعل۔
دَعَسَ ـَ دَعْسًا: روندنا (۲) برتن کو بھرنا۔
دَعَكَ ـَ دَعْكاً: (۱) ملنا (۲) رگڑنا (۳) صاف کرنا (۴) ملائم بنانا۔
دَعَمَ ـَ دَعْماً و دَعَّمَ: (۱) سہارا دینا (۲) مضبوط و مستحکم بنانا (۳) فروغ دینا (۴) سپورٹ، امداد، تعاون، اعانت۔
دَعْمُ الأَسْعَار: نرخوں میں استحکام پیدا کرنا۔
دَعْمُ التَّعَاوُن: تعاون بڑھانا۔
دَعْمُ الجُهُود: کوششوں کو آگے بڑھانا
دَعْمٌ حُكُومِيّ: سرکاری امداد۔
دَعْمٌ زِرَاعِيّ: زرعی بڑھاوا۔
دَعْمُ سُلْطَة: اقتدار کو پختہ کرنا۔
دَعْمُ الصُّنْدُوق: فنڈ کو بڑھانا۔
دَعْمُ العَلاقَةِ بَيْنَ البَلَدَيْن: دوملکوں کے تعلقات کو مضبوط بنانا۔
دَعْمُ القُوَّةِ العَسْكَرِيَّة: فوجی طاقت بڑھانا۔
دَعْمٌ مَالِيّ: مالی امداد۔

دَعْمٌ مَعْنوِیّ: اخلاقی امداد۔
دَعْمُ المَوْقِف: پوزیشن مضبوط کرنا۔
تَدَعُّمُ الإرَادَة: عزائم میں استحکام پیدا ہونا۔
تَدْعِیم: مضبوط بنانا، مستحکم بنانا، ترقی دینا، استوار کرنا۔
تَدْعِیمُ الاقْتِصَاد: اقتصادی حالات مضبوط بنانا۔
تَدْعِیمُ القُوَّات: فوجوں کو مضبوط بنانا۔
تَدْعِیمُ الوَحْدَة: اتحاد کو مضبوط بنانا۔
دِعَامَة: سہارا، ستون، وہ لکڑی جس پر چھپر وغیرہ رکھا جائے، پلر ج: دَعَائِم:
دِعَامَةُ القَوْم ج: دَعَائِم: سردار۔
اِدَّعَمَ علی: سہارا لینا، بھروسہ کرنا، ٹیک لگانا۔
دَعَاہ ـُ دُعَاءً: پکارنا، بلانا، درخواست کرنا (۲) نام دینا، نام رکھنا۔
دَعَی لَهُ: بہتری کی دعا کرنا
دَعَی عَلَیْه أو بِالشَّرِّ: بددعا کرنا۔
دَعَاه إلی شَیْءٍ: محرک بننا، سبب بننا، آمادہ کرنا، دعوت دینا، اپیل کرنا۔
دَعَاه إلی وَلِیْمَةٍ: کھانے پر مدعو کرنا۔
دَعَاه إلی المُبارَزَة: چیلنج کرنا، مقابلہ کی دعوت دینا۔
دَعاه إلی النِّزَال: چیلنج کرنا۔
دَاعَاهُ مُدَاعَاةً: مقدمہ چلانا، نالش کرنا (۲) لڑائی کرنا، حجت بازی کرنا
اِدَّعَی الأمْرَ: دعویٰ کرنا، زعم کرنا۔
اِدَّعَی بکذا: کسی بات کا مظاہرہ کرنا

اِدَّعَی علیه بِکَذَا: الزام لگانا۔
اِدَّعَی علیه کَذِباً: کسی کے خلاف جھوٹ گھڑنا۔
اِسْتَدْعَی: بلانا، طلب کرنا، منگانا، درخواست کرنا (۲) طلبی۔
اِسْتِدْعَاءُ الشَّیْءِ لِلإعْجَاب: باعث تعجب ہونا۔
اِسْتَدْعَی الأمْرُ: صورت حال مقتضی ہوئی
اِسْتَدْعَی إلی المَحْکَمَة: حاضر عدالت کیا۔
تَدَاعَی: شکستہ ہونا، گرنے کے قریب ہونا، روبہ زوال ہونا، گرنا، منہدم ہونا، متوجہ ہونا، باہم متفق وآمادہ ہونا۔
اِدِّعَاء: زعم، خیال، اظہار، الزام، دعوی
الادِّعَاءُ بِکَذَا: کسی بات کا مظاہرہ کرنا
اِدِّعَاءُ المَرَض: بیماری کا بہانہ۔
دَعْوَةٌ و دُعَاء: ندا، پکار، بلاوا، طلب، فرمائش، درخواست۔
نَشْرُ الدَّعْوَة: پروپیگنڈا کرنا۔
دَعَوَات: نعرے
دَعْوَة: دعوت، مشن، پیغام۔
الدَّعْوَةُ إلی الاجْتِمَاع: میٹنگ بلانا۔
الدَّعْوَةُ إلی الإضْرَابِ العَامّ: عام ہڑتال کی دعوت دینا۔
الدَّعْوَة إلیٰ تکثیف النِّضَال: لڑائی میں زور پیدا کرنے کی دعوت دینا۔
الدَّعوةُ إلی المُبَارَزَة: مقابلہ کی دعوت دینا۔
الدَّعْوَةُ إلی المُجَازَفَة: جانبازی کی دعوت دینا۔
دَعْوَةٌ إلی مُؤْتَمَرٍ: کانفرنس بلانا۔

دَعْوَةٌ إلى نِضَالٍ: لڑائی کیلئے آمادہ کرنا۔
دَعْوَةُ جَمْعِيَّةٍ إلى الانْعِقَاد: کنونشن بلانا۔
دَعْوَةُ المَجْلِسِ لِلإصْدَارِ القَرَار: قرارداد پاس کرنے کے لیے مجلس بلانا۔
دَعَوِيّ: دعوتی، اصلاحی۔
دَعْوىٰ: کیس، دعویٰ، مقدمہ ج: دَعَاوىٰ ودَعَاوٍ:
الدَّعْوىٰ المَدَنِيَّة: سول ایکشن۔
دَعِيٌّ، مُدَّعٍ: دعویدار
دَاعٍ، دَاعِيَة: مبلغ، کسی امر عظیم کی طرف دعوت دینے والا، داعی (۲) محرک، جذبہ، سبب (۳) کنوینر ج: دُعَاةٌ و دَوَاعٍ:
دَاعٍ إِنْسَانِيّ: جذبہ انسانیت۔
الدَّاعِيَةُ إلى حُرِّيَّةِ التِّجَارَة: آزادی تجارت کا داعی۔
الدَّوَاعِي المُلِحَّة: زبردست محرکات۔
دُعَاةُ الإصْلاَح: اصلاح پسند لوگ۔
دُعَاةُ الحَرْب: جنگ پسند لوگ۔
المَدْعُوّ: مسمّی۔
المَدْعُوُّ بفلان: مسمّی فلاں۔
المَدْعُوُّ بفُلان: مسمّی فلاں۔
المَدْعُوُّونَ إلى العَشَاءِ: ڈنر پارٹی کے مدعوین۔
دِعَايَة و دَعَاوَة: پروپیگنڈا۔
دِعَايَةٌ انْتِخَابِيَّة: انتخابی پروپیگنڈا۔
الدِّعَايَةُ الضَّالَّة: غلط پروپیگنڈا۔
الدِّعَايَةُ العَالَمِيَّة: بین الاقوامی پروپیگنڈہ۔
دِعَايَةٌ مُضَلِّلَة: گمراہ کن پروپیگنڈہ۔
دِعَايَةٌ مُعَاوِيَةٌ لِلثَّوْرَة: انقلاب مخالف پروپیگنڈہ۔
دِعَايَةٌ مُضَادَّةٌ لِلحُكُومَة: حکومت مخالف پروپیگنڈہ۔
مُدَّعٍ: دعویدار (۲) استغاثہ کرنے والا، مقدمہ دائر کرنے والا، نالش کرنے والا، مدعی۔
مُدَّعٍ بِحَقٍّ: دعویدار، حق کا دعویدار۔
مُدَّعٍ بِالحَقِّ المَدَنِيّ: حق شہرت کا مدعی، دیوانی مقدمہ کرنے والا، دیوانی نالش کرنے والا۔
مَدْعَاة: سبب، داعیہ، وجہ۔
مُدَّعىً عَلَيْه: (مَدَنِيًّا) مدعی علیہ دیوانی۔
مُدَّعىً عَلَيْه: (جِنَائِيًّا) متہم، ملزم، جس کے خلاف فوجداری مقدمہ ہو۔
المُدَّعِي العُمُومِيّ: پبلک کی طرف سے کسی مقدمہ کا مدعی۔
المُدَّعِي العَام: اٹارنی جنرل۔

د .... غ

دَغْدَغَة: گدگدی کرنا (۲) توڑنا (۳) چبانا۔
دَغْرٌ و دَغْرَىٰ: (۱) ہلّہ (۲) اچانک حملہ۔
دُغْرِيّ: (دا): سیدھا، سیدھی جانب (۲) براہ راست۔
دَغِصَ ــَ دَغَصاً: بھرنا۔
دَغَلٌ ج: أَدْغَال: فساد، خرابی (۲) جھاڑی، گنجان درختوں کی جگہ۔
دَغِلٌ، دَاغِلٌ: خراب، فاسد۔
دَغَمَ ــَ دَغْماً و أَدْغَمَ: مدغم کرنا، ایک دوسرے میں ضم کرنا۔

د .... ف

دَفَّأ تدفِئةً: گرم کرنا۔
دَفِئَ ـــ دَفأً و دُفُوءً ا، دَفُؤَ ـــ دَفاءَ ةً: گرم ہونا۔
تَدَفَّأَ و اِدَّفَأَ و اسْتَدْفأَ: گرم ہونا، گرمی محسوس کرنا، گرم کپڑا پہننا۔
دِفْءٌ ، دَفاءَ ةٌ: گرمی جو لحاف وغیرہ یا آگ کے ذریعہ حاصل ہو، حرارت۔
دَفِئٌ ، دَفْآنُ، دافِئٌ، مُسْتَدْفِئٌ: گرم، گرمی حاصل کرنے والا۔
دَفَّأهُ تَدْفِئةً: گرم کرنا۔
تَدْفِئة: ہیٹنگ۔
تَدْفِئةٌ مَرْكَزِيَّةٌ: مرکزی ہیٹنگ، گرم کرنے کی مرکزی بجلی لائن۔
دَفَّاية، مَدْفَأَةٌ: اسٹوو، انگیٹھی۔
دَفَّاية ، كَهْرَبائِيَة: ہیٹر۔
دَفْتَرٌ ج: دَفاتِر: کاپی، نوٹ بک۔
دَفْتَرٌ كَبِيْرٌ (سِجِلٌّ): رجسٹر حساب۔
دَفْتَرُ الأحْوال (فی مَرْكَزِ البُولِيس): پولیس کا چارج شیٹ، فرد جرم۔
دَفْتَرُ أخْذِ الصُّوَر: ڈپلی کیٹ لیٹر بک۔
دَفْتَرُ أُسْتاذ: بہی کھاتہ، لیجر، کھاتہ نام دار۔
دَفْتَرُ أُسْتاذِ التَّكالِيف: کاسٹ لیجر، لاگت رجسٹر۔
دَفْتَرُ أُسْتاذِ المَبِيعات: سیلز لیجر۔
دَفْتَرُ أوامِرِ شِراء: آرڈر خریداری بک۔
دَفْتَرُ البِضاعَةِ الوارِدَة: سامانِ آمدہ کا رجسٹر، رجسٹر سامان آمدہ۔
دَفْتَرُ البَوَّابَة: گیٹ بک۔
دَفْتَرُ تَسْجِيلِ الطَّلَبات: آرڈر بک۔
دَفْتَرُ التَّسْلِيم: ڈلیوری بک۔
دَفْتَرُ التَّسْلِيمات: ڈلیوری بک۔
دَفْتَرُ التَّشْرِيفات: رجسٹر معاینہ۔
دَفْتَرُ تَوْفِير. کوپن بک۔
دَفْتَرُ حَجْزِ الطَّلَبات: آرڈر بک، فرمائشات ریزرو کرنے کا رجسٹر۔
دَفْتَرُ حِساب: اکاؤنٹ بک، رجسٹر حساب۔
دَفْتَرُ حِساب البک: پاس بک (بینک کی)
دَفْتَرٌ لِحِسابِ المَصْرِفِيّ: بینک بک۔
دَفْتَرُ الحُضُور: رجسٹر حاضری۔
دَفْتَرْ خانَة: (د ا) دارُ الوَثائِق: محافظ خانہ۔
دَفْتَرُ الخِطابات: وہ کتاب یا رجسٹر جس میں خطوط وغیرہ کی نقول محفوظ کی جاتی ہیں۔
دَفْتَرُ الخطّ: کاپی بک۔
دَفْتَرُ الرَّسائِلِ الوارِدَة: رجسٹر وصولیابی خطوط۔
دَفْتَرُ الشَّكْوىٰ: شکایات بک، کمپلینٹ بک۔
دَفْتَرُ شِيكات: چیک بک۔
دَفْتَرُ الصَّفّ: کلاس بک، رجسٹر حاضری۔
دَفْتَرُ الصُّنْدُوق: کیش بک، نقد کھاتا، رجسٹر نقدی، روکڑ بہی۔
دَفْتَرُ الطَّلَبات: آرڈر بک۔
دَفْتَرُ الطَّلَباتِ التِجارِيَة: آرڈر بک۔
دَفْتَرُ الطَلَباتِ الوارِدَة: وصول شدہ فرمائشوں کا رجسٹر۔
دَفْتَرُ عَنادِيْنَ: پتوں کی کتاب۔
دَفْتَرُ الفِهْرِس: انڈکس بک۔
دَفْتَرُ فِهْرِسٍ مَرْقُوم: نمبر وار فہرست رجسٹر۔

دَفترِقَید: ریکارڈ۔
دَفتَرُ مُحاسَبَةٍ: اکاؤنٹ بک۔
دَفتَرُ مَحاضِرِ الجَلَسَات: رجسٹر کارروائی۔
دَفتَرُ المَخزَن: اسٹور بک۔
دَفتَرُ مُذکِرَات: ایجنڈا بک۔
دَفتَرُ المُسوَّدَة: کچا کھاتا، وہ کتاب جس میں حساب کا ابتدائی اندراج بطور یادداشت کیا جاتا ہے۔
دَفتَرُ المُشتَرَیات: رجسٹر خریداری۔
دَفتَرُ مَلحُوظَات: نوٹ بک۔
دَفتَرُ مَوَاعِید: ٹائم بک، ٹائم ٹیبل۔
دَفتَرُ المُودِع: بینک بک، حساب دار کی کاپی۔
دَفتَرُ وَقَائع الجَلسَة: رجسٹر کارروائی۔
دَفتَرُ الیَومِیَّة: روزنامچہ۔
دَفتَرُ یَومِیَّةِ المَبیعَات: روزانہ فروختگی کا رجسٹر۔
دَفتَرُ یومِیَّةِ النَّقد: کیش بک۔
دَفَاتِرُ القَید: اِنٹری رجسٹر۔
دَفَاتِرُ مُسَاعَدةٍ: معاون رجسٹر۔
دُفتِرِیا و دِفتِیرِیا: (مغرب) خناق، کنٹھ روگ، گلے کی ایک بیماری۔
دَفدَفَة: اڑنا، تیرنا۔
دَفَرَ ـــــُ دَفراً: دھکا دینا، سینہ پر ضرب لگا کر پیچھے ہٹانا۔
دَفِرَ دَفراً: بد بو ہونا۔
دَفِرٌ: متعفن، بد بودار۔
دَفَعَ ـــــَ دَفعاً: ہٹانا، دھکیلنا، پیچھے ہٹانا، دھکا دینا۔

دَفَعَ القَولَ: دلیل سے کسی بات کو رد کرنا۔
دَفَعَهُ إلی کذا: آمادہ کرنا، اکسانا، مجبور کرنا، تیار کرنا۔
دَفَعَهُ إلَی الأمام: آگے کرنا، آگے بڑھانا
دَفَعَه الی الانسِحَاب نَحوَ کذا: پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنا۔
دَفَعَ المَالَ أو الثَّمَنَ إلیٰ: ادا کرنا۔
دَفَعَ عَنهُ: ازالہ کرنا، تکلیف دور کرنا۔
دَفَعَ و دَافَعَ: مقابلہ کرنا۔
دَافَعَ عَنْ: دفاع کرنا، بچاؤ کرنا۔
دَافِعُ الضَّرِیبَةِ المُتَأَخِّر: تاخیر سے ٹیکس ادا کرنے والا۔
دَافَعَ عَنهُ مُدَافَعَةً: ڈیفنس کرنا، پیروی کرنا۔
دَافَعَ عَنْ کُلِّ شِبرٍ من أرضِهِ: اپنی سر زمین کے ایک ایک انچ کا دفاع کیا۔
دَافِعٌ کَامِنٌ وَرَاءَ شيءٍ: کسی چیز کے پس پشت کام کرنے والا مخفی جذبہ۔
اِندَفَعَ فِي الأمرِ: مشغول ہونا، ہمہ تن مصروف ہونا۔
تَدَافَعُ القَومُ: ایک دوسرے پر پڑنا، دھکم دھکا ہونا، ہجوم کے باعث ایک دوسرے کو دھکا دینا۔
دَفعٌ: (۱) رد (۲) ازالہ (۳) ادائیگی، پیمنٹ۔
دَفعُ اشتِرَاکٍ شَهرِيٍّ لکذا: ماہانہ زرِ اشتراک ادا کرنا۔
دَفعُ البَدَلَات: الاؤنس دینا۔
دَفعُ الثَّمَنِ إلی: ادا کرنا۔
دَفعٌ جَدِیدٌ لِلحَرکَة: تحریک کو نئی قوت

دینا۔
دَفعُ الحِسَاب: ادائیگی حساب، حساب چکانا۔
دَفعُ خُطُواتٍ للأمَام: ترقی دینا، آگے بڑھانا۔
دَفعُ الرُّسُومِ الجُمرُكيَّة على البَضائِع: کسٹم ادا کرنا۔
دَفعُ الشيئِ على آجالٍ: قسط وار ادا کرنا۔
الدَّفعُ عِندَ الاستِلاَم: کیش اون ڈلیوری، بوقت وصولی سامان ادائیگی کرنا۔
الدَّفعُ عِندَ التَّسلِيم: ادائیگی بوقت حوالگی سامان۔
الدَّفعُ الفَورِيّ: فوری ادائیگی، ہاتھ کے ہاتھ ادائیگی۔
دَفعُ القُوَّات إلى: فوجوں کو دھکیلنا۔
دَفعُ كَفالَةٍ بمقدَارِ ألفِ رُوبِية: (مثلاً) ایک ہزار کے بقدر ضمانت دینا۔
الدَّفعُ مُقَابِلَ التَّسلِيم: ادائیگی بوقت حوالگی
دَفعٌ مُؤَجَّل: بعد از وقت ادائیگی۔
دَفعَةٌ: کھیپ، کسی چیز کی قسط، سامان وغیرہ کی قسط، دھکا۔
دَفعَةٌ تَحتَ الحِسَاب: حساب میں ادائیگی۔
دَفعَةٌ ثَورِيَّة: انقلابی تاثیر۔
دَفعَةٌ جُزئِيَّة: جزوی ادائیگی۔
دَفعَةٌ سُلفَة: پیشگی ادا کردہ قسط۔
دَفعَةٌ سَنوِيَّة: سالانہ قسط۔
دَفعَةٌ سَنوِيَّةٌ مؤجَّلَة: سالانہ میعادی ادائیگی۔

دَفعَةٌ مُتاخِرةٌ: بقایا قسط۔
دُفعَةٌ مُستَحَقَّة: واجب الادا قسط۔
دُفعَةٌ مُقَدَّمَة: پیشگی ادا کردہ قسط۔
دُفعَةٌ مِنَ الطَّيَّارِين: ہوابازوں کی کھیپ۔
دَفعَات: اقساط، ادائیگیاں۔
دَفعَاتٌ علَى الحِسَاب: علی الحساب ادائیگیاں
دفعَاتٌ مُجَزَّأة: قسط وار ادائیگیاں۔
الدَّفعَاتُ المُستَحَقَّة: واجب ادائیگیاں
الدَّفعَاتُ المُؤَجَّلة: معین المیعاد (اقساط) ادائیگیاں۔
دِفَاع: ڈیفنس، بچاؤ۔
الدِفاعُ عَن اَحَدٍ: صفائی پیش کرنا۔
الدِّفاعُ الجَمَاعِيّ: اجتماعی دفاع، جماعتی دفاع۔
دِفَاعٌ سَائِغٌ: آسان دفاع۔
الدِّفَاعُ عَنِ النَّفس: ذاتی دفاع، اپنا بچاؤ۔
الدِّفاعُ المَدَنِيّ: سول ڈیفنس، شہری دفاع۔
الدِّفاعُ الوَطَنِي: قومی دفاع، نیشنل ڈیفنس۔
دِفَاعٌ (فی القَضَاء): مقدمہ کی پیروی۔
دِفَاعٌ و مُدَافَعَة: عذرداری، حمایت، ملزم کی طرف سے پیروی کرنا۔
مُحَامِی الدِّفَاع: پیروکار، مشیر قانون، وکیل مقدمہ۔
دَافِعٌ: (۱) ہٹانے والا (۲) دھکا دینے والا (۳) ادائیگی کرنے والا (۴) سبب، محرک۔

دَافِعُ الضَّرَائِب: ٹیکس دینے والا

دَوَافِع: اسباب، محرکات، عوامل،

و: دَافِع:

اِنْـدِفَـاع: (۱) رَد، بہاؤ (۲) دباؤ (۳) انہماک۔

اِنْدِفَاع: جوش (۲) بے تحاشا آنا (۳) دھکلنا، رو کی طرح آنا۔

اِنْدِفَاعُ الشَّبَاب: جوش جوانی۔

اِنْدِفَاعٌ فی شَیْءٍ: دھوڑ دھوپ، کسی شئی میں مشغولیت۔

اِنْدِفَاعٌ عَلی: ہجوم۔

اِنْدِفَاعٌ کَبِیْر: زبردست رفتار۔

(تَـنْـطَلِقُ الـعَـرَبَۃ بِـانْدِفَاعٍ کَبِیر)

اِنْدِفَاعٌ وَرَاءَ شَیْءٍ: کسی چیز کی رو میں بہنا، پیچھے بھاگنا۔

مِدْفَع: توپ ج: مَدَافِع

مِدْفَعٌ أُوتُومَاتِیکِیّ: مشین گن۔

مِـدْفَـعٌ مِـنْ عِـیَـار کَذا: اتنے ملی میٹر (قطر) کی توپ۔

مِـدْفَـعٌ مُـضَادٌّ لِلطَّائِرَات: طیارہ شکن توپ۔

مَدَافِعُ ثَقِیلَۃ: بھاری توپیں۔

مَدَافِعُ خَفِیفَۃ: ہلکی توپیں۔

مَدَافِعُ طَوِیلَۃُ المَدَی: دور مار توپیں۔

الـمَدَافِعُ الـمُضَادَّۃُ لِلطَّائِرَات: طیارہ شکن توپیں۔

مِدْفَعِیَّۃ: توپخانہ۔

المِدْفَعِیَّۃُ الثَّقِیلَۃ: بھاری توپخانہ

مِدْفَعِیَّۃٌ مُضَادَّۃٌ للطَّائِرَات: جہاز شکن توپخانہ۔

مِدْفَعِیَّۃُ مَیْدَان: میدانی توپخانہ

مَدْفُوع: ادا شدہ، ادا کردہ، اڈوانس۔

مَـدْفُوعٌ إِلَیْہِ وَلَہُ: جس کو ادائیگی کی گئی، پانے والا، وصول کنندہ۔

مَدْفُوعٌ علی عَمَلٍ: کسی کام کے لیے مجبور۔

مَدْفُوعٌ مُقَدَّماً: ایڈوانس دیا ہوا۔

اَلْمَدْفُوعُ من فُلَان: بھرا ہوا۔

مَـدْفُـوعَـاتٌ تَعْوِیْضِیَّۃ: معاوضہ جاتی ادائیگیاں۔

مَدْفُوعَات مُؤَجَّلَۃ: معیادی ادائیگیاں۔

مَدْفُوعَاتٌ نَقْدِیَّۃ: نقد ادائیگیاں۔

مَـدْفُـوعَـاتٌ مُـبَاشِـرَۃ: براہ راست ادائیگیاں۔

دَفَفَ الرَّجُل: عجلت کرنا۔

دَفَّۃ، دَفٌّ: پہلو، کنارہ (۲) ڈھولک، طبلہ

دَفَّۃٌ: پہیہ، گھیرا۔

دَفَّۃُ الکِتَاب: کتاب کا کور، جلد۔

دَفَّۃُ البَاب أو الشُّبَّاک: کواڑ، تختہ

دَفَّۃُ الرَّکْب: کشتی کا چپو ار۔

إدَارَۃُ الدَّفَّۃ: پہیہ گھمانا۔

إدَارَۃُ دَفَّۃِ البِلَاد: ملک کا نظم و نسق چلانا

دَفَقَ ـِ دَفْقاً: پانی زور سے گرانا، بہانا۔

دَفَقَ ـُ دُفُوقاً و اِنْدَفَقَ و تَدَفَّقَ: زور سے اُبلنا، چشمہ سے پانی نکلنا، (۲) جوش، بہاؤ، ابال۔

تَدَفُّقُ السِّلْعَۃ: سامان کی ریل پیل

تَدَفُّق: ریل پیل ہونا۔

تَدَفُّقُ العَمَل: کام کی بہتات۔

تَدَفُّقُ المَعْلُومَات: معلومات بکثرت ہونا۔
صُنْدُوقُ الدَّفْق: فلش ٹنکی۔
دُفْقَة: ایک دفعہ جوش سے نکلا ہوا پانی۔
مُتَدَفِّقٌ: جاری، رواں، اُبلتا ہوا، تیزی سے نکلتا ہوا۔
دَفَن ـِ دَفْناً: دفن کرنا، زمین میں گاڑنا، قبر میں رکھنا، چھپانا۔
دَفِين: (۱) چھپا ہوا، مستور، مخفی (۲) مدفون خزانہ۔
مَدْفَنٌ: قبرستان۔

د.........ق

دَقِع ـَ دَقَعاً: ذلیل ہونا۔
إِدْقَاعٌ: ذلیل ورسوا کرنا۔
فَقْرٌ مُدْقِعٌ: انتہا درجہ کی غربت، رسوا کن فاقہ مستی۔
دَقَّقَ و أَدَقَّ: باریک کرنا، کوٹنا۔
ــــ النَّظَرَ فِی الأَمْرِ: باریک بینی سے کام لینا، خوب غور کرنا۔
ــــ فِی عَمَلِه: احتیاط و ہوشیاری سے کام انجام دینا۔
دَقّ ـِ دِقَّةً: باریک ہونا (۲) نازک ہونا (۳) چھوٹا ہونا، مہین ہونا (۴) دشوار ہونا۔
ــــ ـُ دَقّاً: کوٹنا، باریک کرنا، پیسنا۔
ــــ البَابَ: دروازہ کھٹکھٹانا۔
ــــ الجَرَسَ: گھنٹی بجانا۔
ــــ المِسْمَارَ: کیل ٹھونکنا۔
دَقَّتِ السَّاعَةُ ثَمَانِيَةً: (مثلاً) آٹھ بجنا۔
اِسْتَدَقّ: باریک ہونا، نازک ہونا۔
دَقَّة: ایک چوٹ، ایک ضرب، گھنٹی کی ایک آواز۔
دَقَّةً بِدَقَّةٍ: ترکی بہ ترکی جواب، ادلے کا بدلہ۔
دِقٌّ، دَقِيقٌ: باریک، مہین، نازک۔
دِقَّة: احتیاط، باریکی، کمال، آرٹ، مہارت، صفائی، پختگی، درستگی، ہنرمندی، نزاکت، ہوشیاری۔
دِقَّةُ الظُّرُوف: نزاکت حال۔
دِقَّة و دُقَاقٌ: پاؤڈر، پسی ہوئی چیز۔
سَاعَةٌ دَقَّاقَة: کلاک، بڑی گھڑی، آواز دینے والی گھڑی۔
دَقِيقٌ: (ضد سَمِيک): باریک (۲) ضد غَلِيظ: پتلا (۳) ضد خَشِنٌ: نازک، سبک (۴) مضبوط و مستحکم، کامل، مکمل، جیسے وَصفٌ دَقِيقٌ: (۵) آٹا۔
دَقِيقَة ج: دَقَائِقُ: منٹ۔
دَقِيقِيّ: آٹے جیسا، آٹے کا۔
تَدْقِيق: چھان بین، چیکنگ۔
تَدْقِيقُ الحِسَاب: حساب ایڈٹ کرنا۔
بِدِقَّةٍ: پورے طور پر، صحیح طور پر۔
بِدِقَّةٍ رَائِقَةٍ: بہت شاندار طریقے پر۔
مِدَقٌّ، مِدَقَّة: موسل، غلہ کوٹنے کی موٹی لکڑی (۲) کھرل یا ہاون دستہ کی موسلی۔
مَدْقُوقٌ: باریک، پسا ہوا، سفوف۔

د.........ک

دَکَ: (دیکھئے دکک)
دُکْتُور: (مع) ڈاکٹر، اعلیٰ علمی ڈگری والا، طبیب۔
دُکْتُورٌ فِی الحُقُوق: ڈاکٹر آف لا، L.L.D
دُکْتُورٌ فِي الطِّبّ: ڈاکٹر آف

میڈیسن، M.D

دَكتاتُور: ڈکٹیٹر، مطلق العنان فرماں روا۔

دَكتاتُورِيّ: ڈکٹیٹرانہ۔

دَكتاتُورِيَّة: ڈکٹیٹرشپ، مطلق العنانی۔

الدِكتاتُورِيَّةُ الاِقْطاعِيَّة: زمیندارانہ ڈکٹیٹر شپ۔

دِكتاتُورِيَّةٌ رَجْعِيَّة: قدامت پرستانہ ڈکٹیٹر شپ۔

دِكتاتُورِيَّةٌ طَبَقِيَّة: طبقاتی ڈکٹیٹرشپ۔

دِكتاتُورِيَّةٌ عَسْكَرِيَّة: فوجی ڈکٹیٹرشپ

الدِكتاتُورِيَّةُ في الرَّأْي: رائے پر اصرار

دِكتاتُورِيَّةٌ مُطْلَقَة: مکمل ڈکٹیٹرشپ

دُكتُوراه: ڈاکٹریٹ۔

دُكتُورِيّ: ڈاکٹریٹ سے متعلق۔

دَكَّكَ تَدْكِيكاً: ملانا، خلط ملط کرنا۔

دَكَّ ـُـ دَكّاً: منہدم کرنا، ویران کرنا، اجاڑ کرنا، زمین کو ہموار کرنا۔

دَكَّ الطَّرِيقَ بِالحَصَى: راستہ میں کنکریٹ ڈال کر ہموار کرنا۔

دَكَّ المَنازِلَ بِالبُلْدُوزِر: بلڈوزر سے مکانات کو گرانا۔

دَكَّة: چبوترہ ج: دِكاك

مِدَكّ ج: مِدَكّات: موگری جس سے سڑک کوٹی جاتی ہے۔

دَكَنَ ـُـ دكناً و دُكُون: تہ بہ تہ رکھنا، ترتیب دینا۔

دَكِنَ ـَـ دكناً و دُكْنَة: سیاہی مائل ہونا۔

دَينٌ أَدْكَنُ: سیاہی مائل۔

دَاكِن: ڈارک۔

دُكّان: دوکان، شاپ، اسٹور ج: دَكاكِين

دُكّانُ الحَلْوَى: کنفیکشنری، مٹھائی کی دکان۔

د.........ل

دِلْتا مِصْرَ أو النِّيل: ڈیلٹا، مثلث زمین جو کسی دریا کے دہانے پر بن گئی ہو۔

دَلَجَ ـُـ دُلُوجاً: پانی نکال کر دوسری چیز میں ڈالنا، پانی نکالنا۔

مِدْلَجَة: ڈول۔

مِدْلَجَةُ اللَّبَن: دودھ کا بڑا ڈبہ، قبضہ دار ڈبہ جو دودھ فروش رکھتے ہیں۔

دَلْدَلَة: چلتے وقت اعضاء کو ہلانا، سرہلانا (۲) لٹکانا۔

تَدَلْدَل: لٹکنا۔

دَلَّسَ تَدْلِيساً: دھوکہ دینا (۲) تجارت میں مشتری کو دھوکہ دینا۔

دَالَسَهُ مُدالَسَةً: فریب دینا۔

دَلَعَ لِسانَه ـَـ دَلْعاً: زبان کو منہ سے باہر نکالنا۔

دَلَعَ ـُـ دُلُوعاً و اندَلَعَ: زبان کا باہر نکلنا (۲) آگ کی لو اٹھنا۔

اِنْدِلاعُ الاِضْطِرابات: فسادات کی آگ بھڑکنا۔

اِنْدِلاعُ الحَرْب: جنگ کے شعلے بھڑک اٹھنا۔

دَلَفَ ـِـ دَلْفاً و دُلُوفاً دَلَفاناً: سرکنا، آہستہ چلنا، چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا۔

تَدَلَّفَ إلى: قریب ہونا۔

اِنْدَلَفَ عَلَيْه: گرنا۔

دَلَقَ ـُـ دَلْقاً: تلوار میان سے نکالنا۔

انْدِلاقٌ: نکلنا۔
دَلَکَ ـُ دَلْکاً: رگڑنا، گھسنا، ملنا۔
دَلَکَ وِ دَلُکَ الرَّجُلَ: تجربہ کار بنانا۔
دَلَّلَ تَدْلِیلاً: (۱) خوشحال بنانا (۲) دَلَّل: (۱) دلال کے ذریعہ فروخت کرنا۔
دَلَّ علی کذا: ـُ دَلالَةً: بتانا، ظاہر کرنا۔
دَلَّ علی شیء: کسی چیز کی اطلاع دینا، بتانا
دَلَّهُ إلی: رہنمائی کرنا۔
دَلَّ ـِ دَلالاً وَ ـَ دَلّاً: ناز ونخرہ کرنا نخرے دکھانا۔
أَدَلَّ علی: جرأت کرنا۔
تَدَلُّلَ: نخرہ کرنا۔
تَدَلُّلُ المَرْأةِ علی: ادادکھانا۔
التَّدْلِیلُ علی شيء: دلیل وثبوت دینا۔
اسْتِدْلالٌ: راہنمائی طلب کرنا، دلیل بنانا، دلیل پیش کرنا۔
اسْتِدْلالٌ علی: استدلال کرنا۔
دَلالٌ: ناز ونخرہ، ظاہری مخالفت، ادا۔
دَلَّالٌ: تجارتی بچولیا، سودا کرانے والا، دلال، نیلامی بولنے والا۔
دَلَّالٌ رَسْمِیٌّ: سرکاری نیلامی کرنے والا۔
دَلالَةٌ: رہنمائی، ہدایت۔
دِلالَةٌ: دلالی، دلالی کا پیشہ، آڑھت (۲) نیلام، نیلامی کا پیشہ (۳) علامت، نشان، ٹوکن۔
دَلِیلٌ: (۱) برہان وحجت، ثبوت (۲) علامت (۳) فہرست اشیاء، اشاریہ، انڈکس (۴) گواہ (۵) راہنما کتاب، گائیڈ بک، ڈائریکٹری، پائلٹ ج: أَدِلَّةٌ و أَدِلاءُ:
دَلِیلُ التِّجارة: تجارتی ڈائرکٹری۔
دَلِیلُ التِّلِیفُون: ٹیلیفون ڈائری، ٹیلیفون بک، ٹیلیفون ڈائرکٹری۔
دَلِیلٌ قاطِعٌ: کھلی دلیل، قطعی دلیل۔
دَلِیلُ المَدِینَة: شہری گائڈ بک۔
دَلِیلُ البَلَد: ڈائرکٹری، وہ کتاب جس میں اہل شہر کے نام اور پتے ہوتے ہیں۔
دَلِیلُ السُّفُن والطَّیّارات: پائلٹ، جہازراں۔
دَلِیلٌ مُضادٌّ: مخالف دلیل، انکاری گواہی
دَالٌّ: راہنما۔
دَالٌّ علی: مشیر۔
أَدِلَّةٌ صَارِمَة: قطعی دلائل، زبردست ثبوت، ٹھوس ثبوت۔
الأدِلَّةُ المَلْمُوسَة: واضح دلائل۔
دَلائِلُ المُسْتَقْبَل: آثارِ مستقبل۔
دَلْهَمٌ: سیاہ۔
اِدْلِهْمامُ اللَّیْل: تاریک ہونا۔
مُدْلَهِمٌّ: سیاہ ترین۔
دَلْوٌ ج دِلاءٌ: ڈول، بالٹی۔
دَالِیَةٌ ج: دَوالٍ: رہٹ۔
تَدْلِیَلٌ وإدْلالٌ: لٹکانا، چھوڑنا۔
أَدْلَی فیه: کسی کے متعلق بری بات کہنا۔
أَدْلَی بِبَیانٍ، بِتَصْرِیحٍ: بیان دینا۔
أَدْلَی بِبَیانٍ خَاطِئٍ: غلط بیان دینا۔
أَدْلَی بِبَیانٍ لِلصُّحُفِ: پریس کو بیان دینا۔
أَدْلَی بِحُجَّةٍ: دلیل بیان کرنا۔
أَدْلَی بِحَدِیثٍ خاصٍّ لِصَحِیفَةٍ: اخبار کو خصوصی انٹرویو دینا۔

أَدْلیٰ بِالرَّأْیِ: رائے دینا۔
أَدْلیٰ بِشَهَادَةٍ: گواہی دینا۔
أَدْلیٰ بِصَوْتٍ: ووٹ دینا۔
أَدْلیٰ بِالْوَلَاءِ ک: وفاداری کا عہد لینا۔
تَدَلّیٰ: لٹکنا۔

د............م

دَمَّثَ تَدْمِيثاً: نرم کرنا۔
دَمِثَ ـــ دَمَثاً: نرم ہونا۔
دَمُثَ خُلُقُهُ ـــ دَمَاثَةٍ و دُمُوثَةً: خوش خلق ہونا، نرم مزاج ہونا۔
دَمِثُ الْخُلُقِ: خوش خلق، نرم طبیعت
دَمَاثَةُ الْأَخْلَاقِ: خوش اخلاقی۔
دَمَجَ ـــ دُمُوجاً و انْدَمَجَ فی كَذَا: پیوست ہونا، گڑنا، ضم ہونا۔
أَدْمَجَهُ فی كَذَا: مدغم کرنا، ملانا، شامل کرنا۔
أَدْمَجَ الْحَبْلَ: رسی کو مضبوط بٹ دینا۔
اِنْدِمَاجٌ: انضمام، اتحاد، پیوستگی
اِنْدِمَاجٌ فی شَیْءٍ: ادغام، مدغم ہونا۔
اِنْدِمَاجِیٌّ: ادغامی، انضمامی۔
دَمَجَانَة: چھاگل، صراحی، تنگ منہ کی محدب بوتل جس میں ۳ سے ۱۰ گیلن تک آسکتے ہیں۔
دَمْدَمَة: غصہ میں بولنا، بڑبڑانا۔
دَمْدَمَةٌ علی: ہلاک کرنا۔
دَمَّرَ تَدْمِيراً: ہلاک کرنا، تباہ و برباد کرنا، اجاڑنا۔
دَمَّرَ الْعَدُوُّ الْمَنَاطِقَ تَدْمِيراً: دشمن کا علاقوں کو تباہ کرنا۔
دَمَّرَ الْعَسْكَرَ تَمَاماً: فوج کو مکمل طور پر تباہ کردیا۔
تَدْمِيرُ مَخَازِنِ الْقُوَّةِ: فوج کا اسٹاک تباہ کردینا۔
دَمَرَ ـــ دُمُوراً و دَمَاراً: ہلاک ہونا، ویران ہونا۔
دَمَارٌ: ہلاکت، تباہی۔
دَمَارٌ شَامِلٌ: عام تباہی، زبردست تباہی۔
حَلَّ به الدَّمَارُ: اس پر تباہی آئی۔
تَدْمُرُ: شام کا ایک تاریخی شہر۔
مُدَمِّرَة: جنگی (بحری) جہاز، سمندری جہاز (۲) تباہ کن۔
دَمَسَ ـــ دَمْساً و دَمَّسَ: ڈھانکنا، دفن کرنا، چھپانا۔
دَمَّسَ النَّارَ: آگ کو دبانا۔
دِمْسٌ: تنور کی گرم راکھ، بھوبھل۔
ظَلَامٌ دَامِسٌ: سخت اندھیرا۔
دَامِسٌ: سیاہ ترین، تاریک ترین۔
دَيَامِيسُ الْأَمْوَاتِ: قبریں۔
دَمْعٌ ج: دُمُوعٌ: آنسو، آبِ چشم۔
دَمْعَةٌ: ایک آنسو، قطرہ اشک۔
دَمِعَتِ الْعَيْنُ ـــ دَمْعاً و دَمَعَاناً و دُمُوعاً و دَمَعَاناً و دُمُوعاً: آنکھ میں آنسو آنا، آنکھوں کا اشکبار ہونا۔
دَمِعٌ، دَمَّاعٌ، دَمُوعٌ: جلد رونے والا، وہ شخص جس کی آنکھ میں بات بات پر آنسو آئیں، آبدیدہ۔
مَدْمَعٌ ج: مَدَامِعُ: آنسو بہنے کی جگہ، مجازاً آنکھ۔
دَمَغَ ـــ دَمْغاً: اسٹامپ لگانا۔

دَمَغَ الحُجّةَ: دلیل کو باطل کرنا۔
دَمْغة: اسٹامپ، مارک۔
دِمَاغ ج: أَدْمِغَة: نا قابل ابطال دلیل۔
دَمَکَ ـُ دَمْکاً: رسی کو بٹ دینا۔ (۲) پیسنا۔
دَمَلَ ـُ دَمْلاً و دَمَلاناً: زمین میں کھاد ڈالنا، زخم اچھا کرنا، زخم بھرنا۔
دَمِلَ ـَ دَمْلاً و ادَّمَلَ و انْدَمَلَ: زخمی اچھا ہو جانا، بھر جانا۔
دُمَّلٌ: (خراج) پھوڑا۔
دُمَّلٌ صَغِيرٌ: پھنسی۔
دَمَّمَ تَدْمِيماً: ملمع کرنا، پالش کرنا۔
دَمٌّ و دِمَامٌ: پالش، روغن۔
دَمَّ ـُ دَمَامَةً: (ک، س) بدصورت ہونا
دَمِيمٌ: بدصورت (۲) حقیر و ذلیل۔
دَمَنَ ـُ دَمْناً: زمین میں کھاد ڈالنا۔
أَدْمَنَ الشَّيْءَ: کسی چیز کی پابندی کرنا، عادی ہونا۔
أَدْمَنَ علی كذا: متوجہ ہونا۔
أَدْمَنَ علی المُخَدِّرات: نشہ کی عادت بنانا۔
دِمْنٌ و دِمَانٌ: کھاد، غلاظت۔
دِمْنَة ج: دِمَنٌ: کوڑا، غلاظت کی جگہ۔
إِدْمَانُ شَيْءٍ: کسی چیز کی پابندی۔
مُدْمِنُ كذا: پابند۔
مُدْمِنُ خَمْرٍ: شراب کا عادی۔
مُدْمِنُ تَدْخِينٍ: تمباکو نوشی کا عادی۔
دَمِيَ ـَ دَمىً و دَمْياً و دُمِيّاً: خون آلود ہونا، خون ٹپکنا، زخم سے خون نکلنا۔
دَمَتْ جُرُوحُ الهَزِيمَةِ فی القُلُوبِ: ہزیمت کا زخم تازہ رہنا۔
أَوْفَی و دَمَّی: خون آلود کرنا، خون بہانا۔
دَمٌ ج: دِمَاءٌ: خون، بلڈ۔
اِتِّصَالُ الدَّم: رشتہ خون، قرابت۔
دَمٍ، دَامٍ: خون چکاں، خون آلود۔
دَمَوِيٌّ: خون کا، خونی، خون سے متعلق
مَعْرَكَةٌ دَمَوِيَّة: خونی واردات۔
دُمْيَةٌ ج: دُمیً: گڑیا، تصویر، بت

و ....ن

دَنَأَ ـَ و دَنُؤَ ـُ دَنَاءَةً و دُنُوءَةً: کمینہ و ذلیل ہونا، تنگ ظرف ہونا، گھٹیا ہونا۔
دَنَاءَة: کمینہ پن، تنگ ظرفی، گھٹیا پن۔
دَنِيءٌ ج: دُنَآءُ و أَدْنَاءُ: گھٹیا درجہ کا آدمی، کمینہ، ذلیل، تنگ ظرف، خسیس۔
دَنِيُّ النَّوْع: گھٹیا درجہ کی چیز۔
دَنْتِلاً: ڈوری، فیتہ، تسمہ، بند۔
دَنْج، دِنْجه: (معرب) ڈِنگو بخار، بخار جس میں بدن کے جوڑوں میں سخت درد ہوتا ہے۔
دُنْجُلُ العَجَلَة: ایکسل، دُھرا، دھری۔
دُنْدُرْمَة: آئس کریم۔
دَنْدَنَة: گنگنانا، بھنبھنانا، آواز ہونا۔
دَنَّرَ النُّقُودَ: سکہ ڈھالنا، دینار بنانا۔
دِينَار ج: دَنَانِير: (۱) ایک قدیم سکہ (سونے کا) (۲) رقم۔
دَنَّسَ تَدْنِيساً: (۱) میلا کرنا (۲) خراب کرنا (۳) عیب لگانا (۴) عزت کو بٹہ لگانا، عزت کو داغدار بنانا، بے حرمتی کرنا۔
دَنِسَ ـَ دَنَساً و دَنَاسَةً و تَدَنَّسَ: خراب

ومیلا ہونا۔

دَنَسٌ ج اَدْنَاسٌ: میل، گندگی۔

دَنِسٌ: میلا، عیب دار۔

تَدْنِيس: بے عزتی، بے حرمتی۔

جَرِيمَةُ تَدْنِيسِ الأشياءِ المُقَدَّسة: جرم بے حرمتی۔

دَنِفَ المَرِيضُ ـَ دَنَفاً و أَدْنَفَ: بیمار کالب دم ہونا، بیماری سخت ہونا۔

دَنَّقَ الوَجهُ تَدْنِيقاً: بیماری یا غم سے چہرہ اتر جانا۔

دَنَّقَ الرَّجُلُ: بخیل ہونا۔

دَانِق: ۱/۶ درہم۔

دِنَمُوْ: (مع) ڈینمو، بجلی پیدا کرنے والی موٹر۔

دَنٌّ ج: دِنَانٌ: مٹکا۔

دَنَا ـُ دُنُوّاً، و دَنَاوَةً: قریب ہونا۔

دَنَا و أَدْنَىٰ و اِدَّنَىٰ لَه و مِنْهُ و إِلَيهِ: قریب ہونا، نزدیک آنا۔

دَنِيَ ـَ دَنَايَةً: کم درجہ ہونا، گھٹیا درجہ کا ہونا۔

دَنَّىٰ و أُدْنَىٰ و دَانَىٰ: قریب کرنا۔

تَـدَنَّىٰ و تَدَانَىٰ: بتدریج قریب آنا (۲) لٹکنا، جھکنا۔

دَنَاوَة و دَنَايَة و دَنَاءَة: گھٹیا پن۔

دَنِيّ، دَنِيءٌ: گھٹیا۔

دَنِيّ، دَان: قریب۔

دُنْيَا: (ا) جہان، عالم انسانی (۲) اسم تفضیل مونث، ضد قصوی: قریب، کمینی، کم درجہ کی۔

أَدْنَىٰ: قریب تر (۲) کم درجہ، لور، جونیر۔

أَدْنَىٰ مَنْزِلَةً: جونیر۔

أَدْنَىٰ نِسْبَة: کم از کم تناسب۔

الحَدُّ الأَدْنَىٰ: کم سے کم درجہ۔

أَدْنَاهُ: الـمَذكُورُ أَدْنَاهُ: ذیل میں، مندرجہ ذیل۔

د............ہ

دَهْرٌ ج: دُهُوْر: زمانہ دراز۔

دَهْرُ الإِنْسَان: مدت عمر

بَنَاتُ الدَّهْرِ: شدائد ومصائب زمانہ۔

تَصَارِيفُ الدَّهْرِ: انقلابات زمانہ

دَهْرِيُّ المَذْهَب: طبیعی، دہریہ، خدا کا منکر، زمانہ کو ہر چیز کا موثر اور مسبب ماننے والا۔

دَهْـرِيّ: (۲) زمانہ کا، وقت کا، وقتی، زمانہ ساز، وقت شناس۔

دَهِشَ ـَ دَهَشاً و دُهِشَ من: حیران ہونا، پریشان ہونا، ہوش اڑنا۔

أَدْهَشَـهُ و دَهَّـشَ: حیران کرنا، ہوش اڑانا، خوف زدہ کرنا۔

دَهْشَةٌ: حیرت، خوف، تعجب۔

مُدْهِـشٌ: حیران کن، تعجب خیز، دہشت انگیز۔

دَهِـشٌ و دَهْشَـانٌ و مَـدْهُوشٌ: حیران و پریشان، حواس باختہ۔

دَهَقَ ـَ دَهْقاً و دِهَاقاً: پانی بہانا، گلاس یا جام کو چھلکانا۔

دَهَقَ و أَدْهَقَ الكَأْسَ: لبالب بھرنا، لبالب کرنا، لبریز کرنا۔

كَأْسٌ دِهَاقٌ: چھلکتا ہوا جام۔

دَهَكَ ـَ دَهْكاً: پینا، توڑنا۔

دِهْلِيز : ڈیوڑھی ج:دَهَالِيز :
دَهِمَ الأَمْرُ ـَ دَهْماً و دَهَمَهُ الأَمْرُ ـَ دَهْماً: اچانک کوئی مسئلہ درپیش ہونا۔
دَاهَمَه مُدَاهَمَةً: دھاوا بولنا۔
دَاهَمَتِ الشُّرْطَةُ المَبْنٰى: پولیس کا بلڈنگ پر دھاوا بولنا، چھاپہ مارنا۔
مُدَاهَمَة: چھاپہ (۲) گھسنا، اچانک پہنچنا۔
دُهْمَة: سیاہی۔
اِدْهِيمَامٌ: سیاہ ہونا۔
دَهْمَاءُ: جماعت، بازاری لوگ۔
أَدْهَمُ: سیاہ فام۔
دَهَنَ ـُ دَهْناً: روغن کرنا، تیل ملنا، مالش کرنا، پینٹ کرنا۔
دَاهَنَه مُدَاهَنَةً: چکنا کرنا تیل ملنا (۲) چاپلوسی کرنا۔
دُهْن ج: أَدْهَانٌ: تیل، پالش، روغن، گریس، پینٹنگ۔
دُهُونٌ لِلْأَكْل: کھانے کے تیل۔
دَهِين: تیل لگائے ہوئے۔
دُهْنُ اللَّحْم: چربی۔
دُهْنِيٌّ: چکنا، تیل کا، چربی کا۔
دِهَان: روغن، تیل، وارنش، پینٹ، تیل یا کریم وغیرہ جو چہرہ یا بالوں کی خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
دَهَّانٌ: (۱) روغن گر، رنگ ساز (۲) روغن کرنے والا، پینٹر۔
مُدْهِنٌ: روغن دار چربی دار۔
مُدَاهِن: چاپلوس۔
دَهْوَرَة: گرانا، گڑھے میں دھکیلنا۔

تَدَهْوُر: گڑھے میں گرنا (۲) انحطاط، کمی، خرابی، زوال، بگاڑ، کمزوری، گراوٹ۔
تَدَهْوُرُ الأَزْمَة: بحران کا شدت اختیار کرنا۔
تَدَهْوُرُ الاقْتِصَاد: معاشی حالت خراب ہونا۔
تَدَهْوُرُ العَلَاقَات: تعلقات بگڑنا۔
تَدَهْوُرُ العَلَاقَاتِ الدِّبْلُومَاسِيَّة: سفارتی تعلقات خراب ہونا، ختم ہونا۔
تَدَهْوُرُ القِيمَة: قیمت گرنا۔
تَدَهْوُرُ المَوقِف: صورت حال خراب ہونا، صورت حال ابتر ہونا۔
تَدَهْوُرُ الوَضْع: صورت حال بگڑنا، پوزیشن کمزور ہونا۔
دَهَاه ـَ دَهْياً و دَاهَاه: مصیبت میں ڈالنا۔
دَهَتِ الدَّاهِيَةُ: آفت و مصیبت نازل ہونا۔
دَهِيَ ـَ دَهَاءً: چالاکی سے کام لینا۔
دَهَاءٌ: ہوشیاری، چالاکی۔
دَهَاءٌ سِيَاسِيّ: سیاسی چالاکی، پالیسی
دَاهِيَة ، ذُو دَهَاءٍ: چالاک، مکار، حیلہ ساز۔
دَاهِيَةٌ فِى الفَنّ: ماہر فن۔

د.............و

دَوْبٌ: (ن) کوشش کرنا۔
دَوْث: (ن) توڑنا۔
دَوْج: (ن) حرکت کرنا۔
دَوْخ: (ن) پیٹ پھولنا، پھول کر لٹکنا۔
دَوْحَة: بڑا اور پھیلا ہوا درخت۔
دَوَّخَ البِلَادَ: شہروں میں گھومنا۔
دَوَّخَ الرَّجُلَ: زیر کرنا، مغلوب کرنا۔
دَوَّخَ الرَّأْسَ: سر میں چکر پیدا کرنا، چکرانا۔
دَاخَ ـُ دَوْخاً: (۱) ذلیل ہونا (۲) زیرو

مغلوب ہونا (۳) سر میں چکر آنا (۴) بے ہوش ہونا۔
دَوْخَة: چکر، گھمیر۔
دَائِخ: وہ شخص جس کے سر میں چکر آ رہا ہو۔
دَوَّدَ الشَّيْئُ تَدْوِيْداً: کیڑے پڑنا، کیڑا پیدا ہونا، کیڑا لگنا۔
دُوْدَة ج: دُوْدٌ و دِيْدَانٌ: کیڑا۔
دُوْدَةُ القَزِّ: ریشم کا کیڑا۔
دُوْدِيّ: کیڑے دار، کیڑے نما، کیڑے کا
الزَّائِدَةُ الدُّوْدِيَّة: اپینڈیکس، زائد آنت۔
اِلْتِهَابُ الزَّائِدَةِ الدُّوْدِيَّة: زائد آنت میں درد و سوزش پیدا ہونا۔
دَوَاءٌ طَارِدٌ لِلدِّيْدَان: کیڑا مار دوا۔
مُدَوَّدٌ، مُدَوِّدٌ: کرم خوردہ، کیڑا لگا۔
دَوَّرَ تَدْوِيْراً: گول بنانا۔
دَوَّرَ و أَدَارَ: گھمانا، گردش دینا۔
دَوَّرَ و أَدَارَ العَمَلَ: کام چلانا، انجام دینا، کام جاری رکھنا، انتظام کرنا۔
دَوَّرَ و أَدَارَ السَّاعَة: گھڑی میں چابی بھرنا۔
دَوَّرَ و أَدَارَ الآلَة: مشین چالو کرنا۔
دَوَّرَ و أَدَارَ الحَرَكَة: تحریک چلانا۔
دَارَ ـــ دَوْراً و دَوَرَاناً: گھومنا، چکر لگانا، محور پر گھومنا (۳) رخ پھرنا (۳) منتقل ہونا (۴) ادل بدل ہونا۔ (۵) گشت لگانا (۶) سرایت کرنا (۷) مکرر ہونا (۸) لوٹنا، رخ پھیرنا۔
دَارَ عَلَيْهِ الشَّيْئُ: الٹنا، پلٹنا، لوٹ کر آنا۔
دَارَ الرَّأْسُ: سر میں چکر آنا۔
دَارَ مَعَ الزَّمَنِ: زمانہ کے ساتھ چلنا۔
دَارَ عَلَى القَوْمِ بِالشَّيْئِ: پیش کرنا، جام وغیرہ کا دور چلانا۔
دَاوَرَهُ مُدَاوَرَةً: کسی کے ساتھ گھومنا۔
اِسْتَدَارَ و تَدَوَّرَ: گھومنا، گول ہونا
اِسْتَدَارَ العَطْفَ عَلى نَفْسِهِ: اپنے لیے ہمدردی حاصل کرنا۔
دَارٌ ج: دُوْرٌ و دِيَارٌ: گھر
دَارُ الآثَار: میوزیم۔
دَارُ التَّمْثِيْل: تھیٹر، تماشہ گاہ، سینما گھر۔
دَارُ السَّلَام: دارالامن۔
دَارُ الأَسْلِحَة: اسلحہ خانہ۔
دَارُ البَلَدِيَّة: ٹاؤن ہال۔
دَارُ السِّفَارَة: سفارت خانہ۔
دار السّک: سکہ بنانے کی جگہ ٹکسال۔
دَارُ الضَّرْب: سکہ بنانے کی جگہ، ٹکسال
دَارُ ضَرْبِ النُّقُوْد: سکہ بنانے کی جگہ، ٹکسال۔
دَارُ الضِّيَافَة: مہمان خانہ
دَارُ العُلَمَاء: اکیڈمی۔
دَارُ العَدْل: کورٹ ہاؤس، عدالت
دَارُ القَضَاء: کورٹ ہاؤس، عدالت، کچہری، ٹریبونل۔
دَارُ الكُتُب: لائبریری، کتب خانہ۔
دَارُ المَجْلِس: اسمبلی ہاؤس۔
دَارُ المَحْفُوْظَاتِ الأَهْلِيَّة: قومی محافظ خانہ۔
دَارُ المَحْكَمَة: کچہری۔

دَارُ القُنْصُلِیَّة: کونسل خانہ۔
دَائِــرٌ: (۱) گردش کرنے والا (۲) دائرہ میں گھومنے والا (۳) متحرک (۴) گول (۵) رائج (۶) متداول (۷) لوٹ کر آنے والا (۸)، چالو، مصروف کار۔
دَائِرَةٌ: حلقہ، علاقہ (۲) آفس، دفتر (۳) محکمہ، سرکل (۴) آسمانی یا جغرافیائی تقسیم کا علاقہ، زون ج: دَوَائِرُ
دَائِرَةٌ اِنْتِخَابِیَّة: الیکشن کا حلقہ، حلقہ انتخاب۔
دَائِرَةُ البُولِیس: کوتوالی، تھانہ۔
دَائِرَةٌ حُکُومِیَّة: سرکاری دفتر۔
دَائِرَةُ الخِدْمَةِ الوَطَنِیَّة: محکمہ شہری خدمات۔
دَائِرَةُ الشُّرْطَة: پولیس آفس، کوتوالی۔
دَائِـرَةُ الطُّرُوْدِ البَرِیْدِیَّة: محکمہ پارسل پوسٹ۔
دَائِرَةٌ مَالِیَّة: محکمہ مالیات۔
دَائِـرَةُ مَعَارِف: انسائیکلوپیڈیا، مختلف علمی معلومات کا ذخیرہ۔
دَائِرَةٌ (مِنْ مَدِیْنَةٍ): وارڈ(ward)
دَائِرَةُ النَّشَاط: دائرہ عمل۔
دَائِرَةٌ هَنْدَسِیَّة: گول حلقہ، سرکل
دَوَائِرُ الاِنْتِخَاب: انتخابی حلقے۔
دَوَائِرُ الحُکُومَة: سرکاری حلقے۔
الدَّوَائِرُ دِیْنِیَّة: مذہبی حلقے۔
دَوَائِرُ رَسْمِیَّة: سرکاری حلقے۔
دَوَائِرُ سِیَاسِیَّة: سیاسی حلقے۔
الدَّوَائِرُ المَسْئُولَة: ذمہ دار حلقے۔
دَوَائِرُ المُعَارَضَة: اپوزیشن حلقے۔

دَائِرِیٌّ: دائرہ نما۔
دَوْرٌ ج: أَدْوَارٌ: (۱) نمبر (۲) باری (۳) فرصت، وقت (۴) بیماری کا حملہ یا مقررہ وقت (۵) آب پاشی کی باری (۶) درجہ، منزل (۷) حالت (۸) پارٹ، کردار، رول (۹) کاموں کا سلسلہ
دَوْرٌ مِنْ مَنْـزِلٍ: عمارت کا ایک حصہ، ایک منزل، اسٹوری۔
الـدَّوْرُ الأَرْضِیّ (مِنْ مَبْنیً): گراؤنڈ فلور، نچلی منزل۔
دَوْرٌ إِیْجَابِیّ: مثبت رول۔
الدَّوْرُ البُطُولِیّ: بہادرانہ کردار۔
دَوْرُ التَّجْرِبَة: تجرباتی دور۔
دَوْرٌ حَاسِمٌ: اہم پارٹ، زبردست پارٹ
الـدَّوْرُ الطَّلِیْعِیّ: رہنمایانہ کردار، قائدانہ کردار۔
الدَّوْرُ العَلَوِیّ: بالائی منزل
ادَوْرٌ قِیَادِیّ: قائدانہ رول۔
الدَّوْرُ المُتَعَاظِم: زبردست کردار، پارٹ۔
الدَّوْرُ النَّشِیْط: موثر کردار۔
بِـالدَّوْر: نمبر سے، باری سے، باری باری۔
دَوَرَانُ الاَیَّام: دن پھر جانا، انقلاب زمانہ۔
دَوَرَانُ الحَدِیْثِ حَوْلَ المَسَائِل: مسائل کے بارہ میں بات چیت ہونا۔
دَوَرَانُ الاَحَادِیْثِ الوُدِّیَّة: دوستانہ گفتگو ہونا۔
دَوَرَانُ الشَّیْئِ بالمُخَیِّلَة: دماغ میں گھومنا۔
دَوَرَانُ المَعْرَکَةِ عَلٰی مَقْرُبَةٍ مِنَ الطَّائِرَة:

ہوائی جہاز کے قریب لڑائی ہونا۔
دَوَرانُ المُفاوَضات حَوْلَ الافْراج عَنْ فُلانٍ: کسی کی رہائی کے سلسلہ میں بات چیت ہونا۔
دَوْرَة: اجلاس، سیشن، سیزن، مقررہ وقتی کمیٹی کا اجلاس (۲) ایک چکر، ایک گشت، ایک پھیر عمامے وغیرہ کا۔
دَوْرَةُ الاُمَمِ المُتَحِدَة: اقوام متحدہ کا اجلاس۔
دَوْرَةُ انعقاد الجلسات: میٹنگوں کا سیزن۔
دَوْرَةُ انْعِقادِ مَجْلس النُّوَّاب: پارلیمنٹ سیزن۔
دَوْرَةُ البَرْلَمان: پارلیمنٹ کا اجلاس۔
دَوْرَةٌ تَدْرِيبِيَّة: تربیتی کورس۔
دَوْرَةٌ طارِئَة: ہنگامی اجلاس۔
دَوْرَةٌ مِنَ الطَّلَبةِ المُتخرِجين: کھیپ۔
دَوْرَةُ المِياه: لیٹرین، بیت الخلاء طہارت خانہ
دَوْرِيّ: گشتی دستہ، وقفہ متعینہ کا، وقفہ جاتی۔
دَوْرِيّاً: وقفہ والا، وقفہ کے ساتھ۔
دَوْرِيَّة: گشتی دستہ، گشتی پارٹی ج: دَوْرِيَّات:
رِيحٌ دَوْرِيَّة: مون سون۔
نَشْرَةٌ أومَطْبُوعَةٌ دَوْرِيَّة: میعادی اشاعت، کتاب وغیرہ جو مقررہ وقت پر شائع ہو۔
دُوَارُ الرَّأس: سر کا چکر، گھمیر۔
دَوَّارٌ: گشت لگانے والا، برابر حرکت میں رہنے والا، متحرک، چلتا پھرتا۔
بائِع دَوَّار: پھیری لگا کر بیچنے والا۔
دَوَّارَةُ الهَوَاء: ہوا کا رخ بتانے والا پنکھا۔
دَيْرٌ ج: أدْيِرَة و أدْيار: عیسائی خانقاہ۔
دَيَّارٌ: راہب۔

إدارَة: گھمانا، پھرانا، چلانا (۲) گردش (۳) انتظام کرنا (۴) انتظام، نظم ونسق، مینجمنٹ (۵) سروس (۶) ڈیپارٹمنٹ (۷) حکومت، ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ (۸) دفتر، محکمہ، ڈائرکشن۔
إدارَةُ الآلَة: مشین چلانا۔
إدارَةُ إبْرَة الرَّادِيُو لِلاسْتِماع إلى بَرْنامج: کوئی پروگرام سننے کے لیے سوئی گھمانا۔
إدارَة أعْمال: کاروبار چلانا، انتظام کرنا۔
إدارَةُ تَخْدِيم: امپلائمنٹ آفس، کام دینے کا محکمہ۔
إدارَةُ الحَرْب: جنگ لڑانا۔
إدارَةُ الحَرَكَة: تحریک چلانا۔
إدارَةُ الحُكْم: حکومت چلانا۔
إدارَةُ شُئُونِ المَنْزِل: گھر کا کاروبار چلانا۔
إدارَةُ العَمَل: کام چلانا، انجام دینا، کام جاری رکھنا، انتظام کرنا۔
إدارَةُ قُرْصِ التِليفُون: ڈائل کرنا۔
إدارَةُ الماكِينات: مشینیں چلانا۔
إدارَةُ المعْرَكَة: جنگ کو چلانا، جنگ لڑانا۔
إدارَةُ المُفاوَضات: بات چیت کرنا۔
إدارَةُ المَكاتِب: دفاتر کو چلانا۔
إدارَةُ المُناقَشَة: مباحثہ کرنا، زیر بحث لانا۔
إدارِيّ: انتظامی، انتظام سے متعلق، ڈپارٹمنٹل۔
الإدارِيُّون: ملازمین۔
رَئِيسُ الإدارَة: منتظم، افسر انتظامیہ
مَجْلِسُ الإدارَة: مجلس انتظامیہ،

انتظامی بورڈ۔
مَرکَزُ الإدَارَة: ہیڈکوارٹرانتظامیہ، افسر انتظامیہ کاصدرمقام۔
اِستِدَارَةٌ: گولائی۔
مَدَارٌ: محور، قطب۔
مَدَارُ الأرض: زمین کامدار۔
مَدَارُ البَحث: موضوع بحث، ٹاپک
مُدَارَاة: آؤبھگت، خاطرتواضع
مُدَارَاةُ المَوقف: اپنی بات نبھانا۔
مَدَارٌ و مُستَدَارٌ: فلک۔
مَدَارُ الحَدِیث: موضوع گفتگو، نقطہ کلام۔
علیٰ مَدَارِ السَّنَة: تمام سال، سال بھر۔
مُدَاوِرٌ: زمانہ ساز، وقت شناس، زمانہ کے ساتھ چلنے والا۔
مُدِیر: منیجر، ڈائریکٹر، ایڈمنسٹریٹر۔
مُدِیرُ الإحصَاء: افسراعدادوشمار۔
مُدِیرُ إدَارَةِ المَرَاسِیم: صدرمحکمہ استقبالیہ، چیف آف پروٹوکول۔
مُدِیرُ الإعلانَات: منیجراشتہارات
مُدِیرُ الأمن: سپرنٹنڈنٹ پولیس
مُدِیرُ البرُوتوکُول: صدرمحکمہ استقبالیہ، چیف آف پروٹوکول۔
مُدِیرُ التَّحرِیر: اڈیٹر۔
مُدِیرُ التَّصدِیر: ایکسپورٹ منیجر
مُدِیرُ الجمَاعة: ناظم۔
مُدِیرُ الحَرکَة: ٹریفک افسر۔
مُدِیرُ الضَّرَائِب: ٹیکس ڈائریکٹر
المُدِیرُ العَامّ: ڈائریکٹرجنرل، جنرل منیجر۔
مُدِیرُ عَامِّ الحِسَابَات: اکاؤنٹنٹ جنرل۔
المُدِیرُ العَامُّ لِقُوَی الأمنِ: حفاظتی پولیس کاجنرل انسپکٹر، آئی جی۔
مُدِیرُ عَمَلٍ: منیجر، منتظم، ڈائریکٹر۔
مُدِیرُ العَمَلِیَات الحَربِیَّة: جنگی کارروائی کاانچارج۔
مُدِیرُ الفُرُوع: برانچ منیجر۔
مُدِیرٌ لإحدَی الإدَارَاتِ الحُکُومِیَة: کمشنر۔
مُدِیرُ المَبَاحِثِ الجِنَائِیَة: افسر فوجداری تحقیقات۔
مُدِیرُ المَبِیعَات: سیلزمنیجر۔
مُدِیرُ المَحَطَّة: اسٹیشن ماسٹر۔
مُدِیرُ المَحَلّ: اسٹورمنیجر۔
مُدِیرُ المَدرَسَة: پرنسپل، ہیڈماسٹر، ناظم، مہتمم۔
مُدِیرُ المَرَاسِیم: پروٹوکول افسر۔
مُدِیرٌ مُسَاعِد: اسسٹنٹ منیجر۔
مُدِیرُ المُستَخدَمِین: اسٹاف منیجر۔
مُدِیرُ مَعهَد الدِّفَاعِ المَدَنِیّ: سول ڈیفنس ادارہ کامنیجر۔
مُدِیرُ مَکتَبِ البَرِید: پوسٹ ماسٹر۔
مُدِیرُ مُؤسَسَةٍ تِجَارِیَة: تجارتی ادارہ کا منیجر۔
مُدِیرُ مُؤسَسَةٍ صِنَاعِیَة: آپریٹر، صنعتی ادارہ کامنیجر۔
مُدِیرُو الأقسَام: نظماءشعبہ جات۔

مُدِیرِیَة: (۱) ضلع (۲) مصری صوبہ
دَوْس: (ن) پیر رکھنا، پیروں سے روندنا، غلہ گاہنا، مسلنا۔
دُوسِیه، دُوسِییه: فائل۔
دَوّاسة ج: دَوّاسات: بائیکل یا کسی انجن مشین وغیرہ کا پیڈل۔
مِدْوَسّ ج: مَدَاوِس: پیڈل
دَاسَ الْقِطَارُ أو الْعَرَبَةُ فُلَاناً: ریل یا گاڑی نے فلاں کو کچل دیا، یا فلاں کے اوپر سے اتر گئی، فلاں شخص ریل یا گاڑی کے نیچے آ گیا۔
مَدُوْس، مُدَاس: قدموں سے روندا ہوا، مسلا ہوا۔
دُوسِنْطَارِیَا، دُوسِنْتَارِیَا: (معرب) ڈی سنٹری، شدید پیچش۔
دَوْف: (ن) دوا وغیرہ کو پانی میں ملانا (۲) انڈے پھینٹنا۔
دَوْق: (ن) کھانا، چکھنا۔
دَوْک: (ن) لوگوں کا مضطرب ہونا۔
دَوْکَة: بے چینی، اضطراب ہنگامہ، شور وغل۔
دُوکَار: تُم تُم۔
دَوْلَة: (۱) زمانہ کا دور (۲) انقلاب (۳) گردشِ زمانہ۔
دَوْلَة (۲) ج. دُوَل: حکومت، ریاست، بادشاہت، مملکت، ملک، کنٹری، اسٹیٹ۔
دَوْلَةٌ اِتِّحَادِیَة: وفاقی ریاست۔
دَوْلَةٌ اِسْتِبْدَادِیَة: جابر حکومت۔
دَوْلَةٌ اِسْتِعْمَارِیة: سامراجی حکومت۔
الدَّوْلَةُ الْبُولِیسِیَّة: پولیس اسٹیٹ۔

دَوْلَةٌ دَاعِیَة: میزبان ملک۔
دَوْلَةٌ دِیمُقْرَاطِیَّة: ڈیموکریٹک ملک، جمہوری ملک۔
دَوْلَةُ الرَّخَاء و الرِّعَایَةِ الاجْتِمَاعِیَّة: سوشل ویلفیئر اسٹیٹ، عام رفاہی ریاست
دَوْلَةٌ رَفَاهِیَة: ویلفر اسٹیٹ، فلاحی ریاست۔
دَوْلَةٌ عَازِلَةٌ (دَوْلَةٌ حَاجِزَة: بفر اسٹیٹ۔ دو حکومتوں کے درمیان فاصل حکومت
دَوْلَةٌ عِمْلَاقَة: دیو قامت سلطنت، دیو قامت ریاست۔
دَوْلَةٌ عَمِیلَة: آلہ کار حکومت۔
دَوْلَةٌ مُتَخَلِّفَة: پسماندہ ملک
دَوْلَةٌ مُعَادِیَة: دشمن ملک، دشمن اسٹیٹ، دشمن سلطنت۔
الدَّوْلَةُ الْمُعْتَدِیَة: حملہ آور ملک، حملہ آور اسٹیٹ۔
دَوْلَةٌ مُتَقَدِّمَة: ترقی یافتہ ملک۔
دَوْلَةٌ نَامِیَة: ترقی پذیر ملک۔
صَاحِبُ الدَّوْلَة: وزیر اعظم کا لقب۔
الدُّوَلُ الأَعْضَاء: ممبر ممالک۔
دُوَلُ الْخَلِیجِ الْعَرَبِیّ: خلیج عرب کے ممالک۔
الدُّوَلُ الشَّقِیقَة: پڑوسی ممالک۔
الدُّوَلُ الصَّدِیقَة: دوست ممالک۔
الدُّوَلُ الصِّنَاعِیَة: صنعتی ممالک۔
دُوَلُ عَدَمِ الانْحِیَاز: غیر جانبدار ممالک۔
الدُّوَلُ الْعُظْمٰی: بڑے ممالک، بڑی طاقتیں، بڑی حکومتیں۔
الدُّوَلُ الغَیْرُ المُنْحَازَة: غیر جانبدار ممالک۔

الدُّوَلُ الفقِيرَة: غریب ممالک۔
الدُّوَلُ المُتَأَخِرة: پسماندہ ممالک۔
الدُّوَلُ المُتَحارِبَة: برسرِ پیکار ممالک۔
الدُّوَلُ المُتَحَالِفَة: حلیف ممالک، متحدہ حکومتیں۔
الدُّوَلُ المُتَّحِدَة: اقوام متحدہ۔
الدُّوَلُ المُتَضَرِّرَةُ اقْتِصَادِيّاً: اقتصادی طور پر نقصان رسیدہ ممالک۔
الدُّوَلُ المُحَايِدَة: غیر جانبدار ممالک۔
الدُّوَلُ المِحْوَر: بنیادی حکومتیں، بنیادی اہمیت کے ممالک۔
دُوَلُ المُشَارِكَة: حصہ دار حکومتیں۔
دُوَلٌ مُصَدِّرَة: برآمد کرنے والے ممالک۔
الدُّوَلُ المُصَنِّعَة: صنعتی ممالک۔
الدُّوَلُ المُنتِجة: پیداوار والے ممالک۔
الدُّوَلُ المُنحازَة: جانبدار ممالک۔
دُوَلُ المُوَاجَهَة: براہ راست مقابل ممالک۔
دُوَلِيٌّ: بین الاقوامی، انٹرنیشنل، عالمی۔
دُوَلِيّ: قومی، ملکی، ریاستی۔
دُوَلِيّاً: بین الاقوامی سطح پر۔
دُوَيْلَة ج: دُوَيْلات: چھوٹی سی ریاست، حکومت۔
دَوَالَيْكَ: یکے بعد دیگرے، نمبر دار۔
وهكَذَا دَوَالَيْكَ: (إلى آخِرِة): (اسی طرح اور)
دَالَ ـُـ دَوْلَةً و دَوْلاً: زمانہ بدلنا، ایک حال سے دوسرے حال میں ہونا۔
دَالَتْ عَلَيْهِ الدَّوْلَةُ: اس پر مصیبت آئی، اس کے خلاف تبدیلی آئی۔
دَالَتْ لَـهُ الدَّوْلَةُ: اس کے حق میں تبدیلی آئی۔
دَوَالَهُ مُدَاوَلَةً وأَدَالَهُ: مروج بنانا، دائر سائر کرنا۔
تَدَاوُل: باہم لین دین کرنا (۲) باہم مشورہ کرنا (۳) باہم بات چیت کرنا (۴) تبادلہ خیال کرنا (۵) رواج، سرکلیش، اٹھاؤ، چلن، گفتگو، بات چیت۔
تَدَاوُلُ رِسَالَةٍ: ایک دوسرے کو پیغام دینا۔
تَدَاوُلُ العُمْلَةِ: سکہ چلنا، سکہ کا چلن
تَدَاوُلُ النَّاسِ الشَّئَ: زیر بحث لانا، استعمال میں لانا۔
تَدَاوَلَتْه الأَلْسُنُ: کسی بات کا چرچا ہونا۔
تَـدَاوَلَتْهُ الأيْدِي: کسی چیز کا کام میں آنا، کسی چیز کا استعمال میں آنا۔
تَدْوِيْل: رواج دینا، عام کرنا۔
تَدْوِيْل: (۲) بین الاقوامی بنانا یا قرار دینا
مُـدَاوَلَةٌ ج: مُدَاوَلات: مخصوص بات چیت، بحث، ڈبیٹ، گفتگو، بات چیت۔
مُتَدَاوَل: رائج، مستعمل، مسلسل، مروجہ، دست گرداں، دائر سائر، رائج الوقت۔
دُولَاب: (۱) مشین (۲) آلہ (۳) پہیہ (۴) الماری ج: دَوَالِيب
دُولَابُ الحِفْظ: فائلنگ الماری۔
دُولَار: ڈالر۔
الدُّولَارَاتُ النِفْطِيَة: پٹرو ڈالر۔
دَوَمَ الطَّائِرُ: فضا میں پرندہ کا چکر لگانا۔
دَامَ ـُـ دَوْماً و دَوَاماً: گھومنا، چکر

لگانا (۲) ہمیشہ رہنا، برقرار رہنا۔
دَاوَمَ عَلَى مُدَاوَمَةً: پابندی کرنا، کوئی فعل مسلسل کرنا، ہمیشہ کرنا۔
أَدَامَ إِدَامَةً: دوام عطا کرنا۔
اسْتَدَامَ: برقرار رہنا، مسلسل رہنا،
دَوْمٌ، دَوَامٌ: ہمیشگی، تسلسل، بقاء، ابدیت، لافانیت۔
دَوْماً، عَلَى الدَّوَام: ہمیشہ۔
دُوَّامَة: لٹو، پھرکی (۲) چکر، سلسلہ۔
دُوَامٌ: سر کا چکر۔
دُوَامٌ رَسْمِيٌّ: سرکاری اوقات کار۔
دِوَامٌ، اسْتِدَامَة: بقاء۔
دَائِمٌ: دائمی، مستقل، پرمانٹ، برقرار، لازوال (ضدِ مُوَقَّت)
دَائِماً، دَوَاماً: ہمیشہ، آئے دن،
مَادَامَ: جب تک۔
مُدَامٌ و مُدَامَةٌ: شراب۔
مُدَاوَمَة: پابندی۔
دُومِين: سرکاری مقبوضات۔
دَوَّنَ تَدْوِيناً: لکھنا، مدون کرنا، قلمبند کرنا، نوٹ کرنا۔
دَوَّنَ التَّارِيخَ: تاریخ مرتب کرنا۔
تَدْوِين: اندراج، رجسٹریشن، نوٹ کرنا، ریکارڈ کرنا۔
تَدْوِينُ الشَّئِ فِي الْيَوْمِيَّات: ڈائری میں نوٹ کرنا، لکھنا۔
تَدْوِينُ الْقَوَانِين: قانون سازی
دُونَ: کم، کم درجہ (۲) سامنے (۳) درے۔
دُونَ أَنْ، مِنْ دُونِ أَنْ: بغیر، اس کے بغیر، بغیر اس کے کہ۔
دُونَ إِخْطَارٍ: بلا اطلاع۔
دُونَ إِرْتِبَاطٍ: بے جوڑ، بے ربط۔
دُونَ تَحَفُّظٍ: بلا احتیاط۔
دُونَ سَابِقِ عِلْمٍ عَنْ: پہلے سے کسی اطلاع کے بغیر۔
دُونَ مُنَازِعٍ: بلا اختلاف۔
بِدُونِ: بے، بلا، بغیر۔
بِدُونِ أَسَاسٍ: بے بنیاد۔
بِدُونِ سَفْكِ دِمَاءٍ: بلا خونریزی۔
بِدُونِ ضَرِيبَةٍ: بلا ٹیکس۔
بِدُونِ فَوَائِدَ: بلا سود۔
بِدُونِ قَيْدٍ اوشَرْطٍ: بلا قید وشرط۔
بِدُونِ مَصْرُوفَاتٍ: بلا خرچ۔
بِدُونِ مُقَابِلٍ: مفت۔
بِدُونِ مُقَدَّمَاتٍ: بلا تمہید۔
دُونَكَ: لے۔
الدِّيوَان: دیوان، کمپارٹمنٹ، دفتر، امورِ انتظامیہ کا مرکز (۲) عدالت، کچہری
دِيوَانُ الْمُحَاسَبَة: محکمہ حسابات
الدِّيوَانُ الْمَلَكِيّ: شاہی کیبنٹ، شاہی دفتر، شاہی سکریٹریٹ۔
دِيوَانُ شِعْرٍ: کتاب اشعار ج: دَوَاوِينُ
دِيوَانٌ فِي قِطَارٍ حَدِيدِيّ: ریلوے کمپارٹمنٹ۔
دَوِّی و دَوِيّ ـ دَوِيّاً: گرج ہونا، گونج دار آواز ہونا۔
دَوِيَ ـ دَوىً: بیمار ہونا۔
دَاوَى الْمَرِيضَ مُدَاوَاةً: علاج کرنا، دوادارو

کرنا، دوا دینا۔
دَوَاءٌ ج: اَدْوِیَة: علاج، دوا، میڈیسن۔
دَوَاءٌ مُقَوٍّ: ٹانک۔
الأَدْوِیَة المُخَدِّرَة: نشہ آور دوائیں۔
دَوِیٌّ: تہلکہ، گونج (۲) گونج دار۔
دَوِیُّ المِدْفَعِ: توپ کی گرج۔
دَوَاة ج: دُوِیٌّ: دوات۔

د............ی

دَیْدَبَان: سنتری، پہریدار۔
دِیزِل: ڈیزل۔
دَیْزَلَة (تَزْوِیدٌ بِدِیزِل): ڈیزل ڈالنا۔
دِیسِیجرَام: (مع) ڈیسی گرام۔
دِیسِیمِتْر: (مع) ڈیسی میٹر۔
دِیسَمْبَر: (مع) ماہ دسمبر۔
دِیکرِیتو: (مع) فرمان عالی، فرمان حکومت، حکم، فیصلہ۔
دِیکٌ ج: دُیُوک: مرغا۔
دِیمُقْرَاطِیّ: جمہوری، عوامی، ڈیموکریٹک (مع)
دِیمُقْرَاطِیَّة: جمہوریت، ڈیموکریسی، عوامیت (مع)۔
دِیمُوطِیقِیّ: جمہوری۔
دَیْنٌ ج: دُیُون: قرض (۲) حق (۳) عہد۔
دَیْنٌ هَالِکٌ: نا قابل وصول قرض۔
الدَّیْنُ الأَهْلِیّ: قومی قرضہ۔
دَیْنٌ مُؤَجَّلُ الدَّفْعِ: میعادی قرضہ۔
دُیُونٌ خَارِجِیَّة: بیرونی قرضے۔
دُیُونٌ دَاخِلِیَّة: گھریلو قرضے۔
دُیُونٌ سَائِرَة: چالو قرضے، مختصر المیعاد قرضے۔
دُیُونٌ عَادِیَّة: عمومی قرضے، معمولی قرضے۔
دُیُونٌ عَامَّة: عوامی قرضے۔
دُیُونٌ مُجَمَّدَة: منجمد قرضے۔
دُیُونٌ مَضْمُونَة: ضمانت پر دیئے ہوئے قرضے۔
دُیُونٌ مُمْتَازَة: خصوصی قرضے۔
الدُّیُونُ المَمْنُوحَة: دیئے ہوئے قرضے۔
بِالدَّیْنِ: علی الحساب۔
مَدِینٌ: قرض دار
مَدِینٌ: احسان مند۔
قَضَی دَیْنَه: قرض ادا کیا (۲) مر گیا۔
دِینٌ ج: أَدْیَانٌ: (۱) مذہب (۲) عقیدہ (۳) پرہیز گاری (۴) عبادت (۵) جزا، بدلہ۔
دَیِّنٌ: دیندار، مذہبی، عبادت گزار۔
دَانَه ـِ دَیْناً: (۱) قرض دینا (۲) محکوم بنانا، ذلیل بنانا۔
دَانَ له ـِ دَیْناً: کسی کے سامنے اظہار عجز کرنا، فرمانبرداری ہونا۔
دَانَ له بکذا ـِ دَیْناً: ممنون ہونا۔
دَانَ بِدِینٍ ـِ دِیْناً و دِیَانَةً: مذہب اختیار کرنا۔
تَدَیَّنَ بکذا: مذہب اختیار کرنا۔
تَدَیَّنَ وَاسْتَدَانَ: قرض لینا، لون لینا۔
إِدَانَة: قرض لینا، قرض دینا، مذمت کرنا، ذلیل کرنا، مجرم قرار دینا، الزام لگانا۔
دَائِنٌ: قرض دار، قرض خواہ
دَیَانَة: مذہب ج: دِیَانَات
دِینَامِیت: (معرب) ڈائنامیٹ، ایک پھٹنے والا مادہ۔

دِیْنَـمُو: (معرب) ڈائمو، برقی رَو پیدا کرنے	والی مشین۔

ذ

ذ .... أ

ذَا، هٰذَا: یہ اسم اشارہ واحد۔ مذکر قریب کے لیے ج: اُولَاءِ، هٰؤُلَاءِ

ذَاکَ، ذٰلِکَ: وہ، اسم اشارہ واحد۔ مذکر بعید کے لیے ج: اُولٰئِکَ

اِذْذَاکَ: تب، اس وقت۔

مَاذَا: کیا؟

لِمَاذَا: کیوں، کس لیے؟

ذَأَبَ ـــ ذَأْباً و ذَأَبَ: خوف دلانا۔

ذِئْبٌ ج: ذِئَابٌ و أَذْؤُبٌ، و ذُؤْبَانٌ: بھیڑیا۔

ذِئْبَة: بھیڑیے کی مادہ۔

ذُؤَابَة ج: ذَوَائِبُ: گیسو، بالوں کی لٹ۔

ذ .... ب

ذَبَّ عَنْہ ـــ ذَبّاً: دفاع کرنا، بچاؤ کرنا، نقصان رفع کرنا۔

ذُبَابَةٌ ج: ذُبَابٌ: مکھی۔

مِذَبَّةٌ: (۱) مکھیاں اڑانے کا پنکھا (۲) ذریعہ دفع مضرت۔

ذَبَحَ ـــ ذَبْحاً: ذبح کرنا، کاٹنا، قربانی کرنا، مارڈالنا۔

ذَبَّاح: قصاب۔

ذَبِیْحٌ، ذَبِیْحَة ج: ذَبَائِح: قربانی، قربانی کا جانور، ذبح شدہ جانور۔

مَذْبَحَة: فساد، قتل وغارت گری، خونریزی، ذبح خانہ، خون خرابہ ج: مذابح ذَبْذَبَة: ہلانا (۲) ہلنا (۳) تردد میں پڑنا۔

تَذَبْذُب: ہلنا (۲) تردد میں پڑنا۔

ذَبْذَبَة: (۲): تردد۔

ذَبْذَبَةُ السُّوْق: بازار کا اتار چڑھاؤ۔

مُذَبْذَبٌ: متردد، ڈانواڈول۔

ذَبَلَ ـــ ذُبُولاً و ذَبْلاً: مرجھانا، پژمردہ ہونا۔

ذُبُول: افسردگی۔

ذُبَالَةُ الْمِصْبَاح: چراغ کی بتی ج: ذُبَال

ذَابِلٌ: پژمردہ، افسردہ، مضمحل۔

ذَابِلُ الْوَجْہ: افسردہ۔

عَیْنٌ ذَابِلَة: چشم نیم باز، مخمور نگاہ۔

ذ .... خ

ذَخَرَ ـــ ذَخْراً و ذُخْراً: ذخیرہ کرنا، جمع کرنا، اسٹاک کرنا، کسی چیز کو وقت ضرورت کے لیے محفوظ رکھنا۔

ذَخِیْرَة ج ذَخَائِر: جمع کردہ مال، سامان، اسٹاک گولہ بارود، امونیشن (۲) فنڈ،

استور (۳) سرمایہ۔
ذَخِيرَةٌ حَرْبِيَّةٌ: جنگی ساز وسامان۔
ذَخَائِرُ حَرْبِيَّةٌ: میگزین، اسلحہ خانے
ذَخِيرَةٌ مُقَدَّسَةٌ: پاک سرمایہ۔
ذَاخِر: اسٹاکسٹ۔
اِدِّخَار، اِذِّخَار: چھپا کر رکھنا، جمع کرنا، ذخیرہ کرنا، (۲) روپیہ بچانا، سیونگ، بچت، بچت کرنا۔
اِدِّخَارٌ إِجْبَارِيّ: جبری بچت۔

ذ............ر

ذَرَبَ ـُ ذَرْباً: تلوار تیز کرنا۔
ذَرِبَ ـَ ذَرَباً: پیٹ یا معدہ خراب ہونا (۲) تیز زبان ہونا۔
ذَرَبُ البَطْنِ: اسہال، دستوں کی بیماری۔
ذَرِبٌ: بیمار، دستوں کا مریض۔
رَجُلٌ ذَرِبٌ: بدزبان آدمی، تیز زبان۔
ذَرَّ ـُ ذَرّاً: بکھیرنا، پھیلانا، چھڑکنا۔
ذَرٌّ، ذَرَّة: چھوٹی چیونٹی۔
ذَرَّة ج: ذَرَّات: (مِقْدَارٌ بَالِغُ الصِّغَرِ): آئٹم، مادہ کا وہ سب سے چھوٹا جز جس کی مزید تقسیم نہ ہو سکے، جوہر فرد (۲) خاک کا ذرہ، ریزہ۔
ذَرَّةٌ كَهْرَبِيَّةٌ: برق پارہ۔
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ: ذرہ برابر۔
ذَرِّيّ: ایٹمی، جوہری، جزلا تجزی کا، ایٹومک، نیوکلیائی۔
النَّظَرِيَّةُ الذَّرِّيَّةُ: نظریہ جوہر، یہ نظریہ کہ عناصر ایسے غیر تقسیم پذیر اجزاء مادہ پر مشتمل ہیں جو اپنا مخصوص وزن اضافی رکھتے ہیں اور مختلف اشیاء کے جوہر جب ترکیب پاتے ہیں تو ایک خاص تناسب کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کا یہ تناسب وہی ہوتا ہے جس میں عناصر اور مرکبات کیمیائی ترکیب پاتے ہیں (انگلش اسٹینڈرڈ ڈکشنری)۔
قُنْبُلَةٌ ذَرِّيَّةٌ: آئٹم بم۔
ذَرُورٌ: پاؤڈر، سفوف، برادہ، مٹی۔
ذَرُورُ الأَسْنَانِ: ٹوتھ پاؤڈر۔
ذَرُورٌ مَعْدِنِيّ: ابرق (ایک قسم کی چمکیلی دھات)
ذَرُورِيّ: پاؤڈر جیسا ملائم۔
ذُرِّيَّة ج: ذُرِّيَّات: نسل۔
ذَرَعَ إِلَيهِ و عِنْدَهُ ـَ ذَرْعاً: سفارش کرنا۔
تَذَرُّعٌ بالحَزْمِ: احتیاط سے کام لینا۔
تَذَرُّعٌ بِذَرِيعَةٍ: وسیلہ بنانا، ذریعہ بنانا، واسطہ بنانا۔
تَذَرُّعٌ بكذا: آڑ لینا۔
ضَاقَ ذَرْعاً بِالأَمْرِ: تنگ ہو گیا، پریشان ہو گیا۔
ذِرَاعٌ ج: أَذْرُعٌ: بازو، ہاتھ، کہنی سے بیچ کی انگلی تک (۲) طاقت۔
ذِرَاع: (۲) قدیم لولی پیمانہ ۱۸ سے ۲۲ انچ تک کا، درعہ، نیم گز۔
ذِرَاعُ التُّرُوسِ أو المُسَنَّنَاتِ: گیرلیور
ذَرِيعٌ: (۱) سفارش کرنے والا (۲) تیز رفتار۔
قَتْلٌ ذَرِيعٌ: بدترین قتل۔
فَشَلٌ ذَرِيعٌ: بدترین ناکامی۔
ذَرِيعَة ج: ذَرَائِع: وسیلہ۔

ذَرَفَ الدَّمعُ ـِ ذَرْفاً و ذُرُوفاً و ذَرَفَاناً: آنسو بہنا۔
ذَرَفَتِ العَینُ دَمعَهَا: آنکھ نے آنسو بہایا، آنکھ سے آنسو ٹپکا۔
ذَرَقَ ـِ ـُ ذَرْقاً: بیٹ کرنا۔
ذَرْق: پرندوں کی بیٹ۔
ذَرّٰی تَذرِیَةً و ذَرَی الحِنطَةَ ـِ ذَرْیاً و ذَرَاءً ـُ ذَرْواً و اَذرٰی: غلہ ہوا میں اڑانا۔
ذَرَّتِ الرِّیحُ التُّرابَ: ہوا کا مٹی کو اڑانا۔
ذَرّٰی فُلاناً: تعریف کرنا۔
اَذرٰی اِذرَاءً: گرانا، پھینکنا۔
اَذرَتِ العَینُ الدَّمعَ: آنکھ سے آنسو بہنا۔
تَذَرَّی الجَبَلَ: پہاڑ پر چڑھنا۔
تَذَرَّی بکذا: آڑ لینا۔
اِستَذرٰی بِه: پناہ لینا۔
ذُرَة: مکئی۔
ذُرْوَة ج: ذُرِیٰ: بلندی، چوٹی، منتہا، بلندترین مقام (۲) زمین کا سورج سے بعیدترین فاصلہ۔
ذَرًی: حفاظت۔
مِذرًی، مِذرَاةٌ ج: مَذَارٍ: سہ شاخہ یا دو شاخہ لکڑی جس سے غلہ ہوا میں اڑاتے ہیں یا کریدتے ہیں۔

ذ............ع

ذَعَرَ ـَ ذَعْراً و اَذعَرَ: ڈرانا، خوف زدہ کرنا۔
ذَعِرَ ـَ ذَعَراً و ذُعِرَ: ڈرنا، سہمنا۔
اِنذِعَار: ڈرنا، سہمنا۔
ذُعْرٌ، ذَعَرٌ: خوف، سراسیمگی، دہشت۔
ذُعَرَة: ایک پرندہ جو ہروقت دُم ہلاتا ہے۔
ذَعَفَ ـَ ذَعْفاً: کھانے میں زہر ملانا۔
ذَعِفَ ـَ ذَعَفَاناً: مرنا۔
ذُعَاف: سمِ قاتل، زہر ہلاہل۔
مَوتٌ ذُعَاف: فوری موت، جلد آنے والی موت۔
ذَعَقَ ـَ ذَعْقاً: چیخنا، زور سے پکارنا (۲) گھبرا دینا۔
ذَعِنَ لَه ـَ ذَعْناً و اَذعَنَ لَه: معترف ہونا، مطیع وفرمانبردار ہونا، اظہار عجز وانکساری کرنا، تسلیم کرنا۔
اِذعَان: انقیاد وتذلل، اطاعت۔
مُذعِنٌ: مطیع، فرمانبردار، معترف۔
مِذعَان: بڑا اطاعت گزار، جلد بات مان لینے والا۔

ذ............ف

ذَفَرٌ: بدبو۔
ذَفِرَ ـَ ذَفَراً: بدبودار ہونا، بو آنا۔

ذ............ق

ذَقَنٌ ج: اَذقَان: ٹھوڑی، مجازاً: ڈاڑھی۔

ذ............ک

ذَکَرَ ـُ ذِکراً و ذُکراً، و ذِکرٰی، وتَذکَاراً: ذکر کرنا، بات بتانا، نام لینا۔ واقعہ بیان کرنا، دل اور زبان سے یاد کرنا۔
ذَکَرَ و تَذَکَّرَ و اِستَذکَرَ: یاد کرنا، محفوظ کرنا، سمجھنا، غور کرنا۔
تَذَکَّرَ الشَّیئَ: بھولنے کے بعد یاد کرنا، یاد آنا، ذہن میں آنا۔
تَذکِیر: یاد دلانا، نصیحت کرنا۔
ذَاکَرَه مُذَاکَرَةً: گفتگو کرنا، بات چیت کرنا۔

ذَاكَرَ دَرْسَه: یاد کرنا، مطالعہ کرنا۔
ذَكَرٌ ج: ذُكُور: نر۔
اِمْرَأَةٌ ذَكِرَةٌ: مردنما عورت۔
ذِكْرٌ، ذِكْرَة: شہرت، تذکرہ، یاد۔
ذِكْرٌ و ذِكْرىٰ: یاد، یادگار۔
إِحْيَاءُ الذِكْر: یادتازہ کرنا۔
سَالِفُ الذِكْر: مذکورہ بالا۔
ذِكْرىٰ: یادگار ج: ذِكْرَيَات
ذِكْرىٰ خَالِدَة: لافانی یادگار۔
يُذْكَرُ: قابل ذکر۔
مَذْكُورٌ اَعْلَاهُ: مذکورہ بالا۔
اَلْمَذْكُورُ عَالِيه: مذکورہ بالا۔
ذَاكِرَة: حافظہ، ذہن، دماغ۔
تَذْكَار، تَذْكِرَه: یادگار ٹرافی۔
تَذْكَاراً لِكَذَا: فلاں چیز کی یاد میں۔
تَذْكَارِيّ: میموریل، یادگاری۔
تَذْكِرَة: یادگار، ٹکٹ، کارڈ، پاس ج: تَذَاكِرُ
تَذْكِرَةُ إِيَاب: ریٹرن (واپسی) ٹکٹ۔
تَذْكِرَةُ بَرِيْد: پوسٹ کارڈ۔
تَذْكِرَةُ سَفَر: ٹکٹ (یکطرفہ)۔
تَذْكِرَةُ ذَهَابٍ و إِيَابٍ: ٹکٹ آمدورفت۔
تَذْكِرَةُ يَانَصِيب: لاٹری ٹکٹ۔
تَذْكِرَةُ مُرُوْر: (۱) پاسپورٹ (۲) پاس۔
تَذْكِرَةُ طِبِّيَّة: ڈاکٹری یا معالجاتی نسخہ۔
تَذْكِرَةُ حَجْز: ریزرویشن ٹکٹ۔
تَذْكِرَةُ دُخُوْل: داخلہ ٹکٹ۔
تَذْكِرَةُ سِكَّةِ حَدِيْد: ریلوے ٹکٹ۔
تَذْكِرَةُ مَجَّانِيَّة: پاس۔

تَذْكِرَةٌ مَفْتُوحَة: اوپن ٹکٹ۔
تَذْكِرَةُ نِصْفِ أُجْرَة: آدھی قیمت کا ٹکٹ۔
تَذْكِرَةُ هُوِيَّة: شناختی کارڈ، ایڈنٹی کارڈ۔
تَذْكِرِيّ: ٹکٹ کلرک، ٹکٹ بابو۔
تَذْكَرجِيّ: (عَامِلُ صَرْفِ التَّذَاكِر) بکنگ کلرک، ٹکٹ بابو۔
مَكَانُ صَرْفِ التَّذَاكِرِ: بکنگ آفس، ٹکٹ گھر۔
مُذَكِّر: یاددلانے والا، ناصح۔
مُذَكِّرَة ج: مُذَكِّرَات: میمورنڈم، کسی معاملہ کی یادداشت، گشتی، نوٹ۔
مُذَكِّرَة: (مُفَكِّرَة): نوٹ بک۔
مُذَكِّرَةٌ تَتَضَمَّنُ اللَّوْمَ: مذمتی میمورنڈم۔
مُذَكِّرَةٌ شَدِيْدَةُ اللَّهْجَة: سخت لب و لہجہ کا نوٹس۔
ذَكَّى تَذْكِيَة: قربانی دینا، ذبح کرنا (۲) پاک وصاف کرنا۔
ذَكَّى و أَذْكَى: آگ روشن کرنا۔
ذَكَتِ النَّارُ ـ ذُكُوّاً و ذَكاً، و ذَكَاءً و اسْتَذْكَتْ: آگ تیز ہونا، روشن ہونا، بھڑکنا۔
إِذْكَاءُ الحَرَكَة: تحریک تیز کرنا۔
ذَكَاء: ہوشیاری، ذہانت۔
ذَكِيّ: ہوشیار، ذہین، زودفہم ج: أَذْكِيَاءُ
ذَكِيُّ الرَّائِحَة: خوشبودار۔
ذَكِيُّ الطَّعْم: ذائقہ دار۔
ذُكَاء: آفتاب۔
اِبْنُ ذُكَاء: صبح۔

ذ......ل

ذَلَّ ۔ ذُلًّا، و ذِلَّة، و مَذَلَّةً: ذلیل وحقیر ہونا۔
إِذْلَالٌ، تَذْلِيلٌ: ذلیل کرنا۔
تَـذْلِيـل: (۲) قابو پانا، غالب آنا، مشکلات پر قابو پانا، تابع بنانا، آسان بنانا، گھوڑے کو سدھانا۔
تَذْلِيلُ الصِّعَاب: دشواریوں کو ختم کرنا۔
تَذْلِيلُ العقبات: دشواریوں پر قابو پانا۔
ذُلٌّ: بے عزتی، ذلت وخواری۔
ذَلِيلٌ ج: أَذِلَّاءُ: حقیر۔
تَذَلُّل: عاجزی اختیار کرنا، ذلیل بننا۔
إِذْلَالٌ و اسْتِـذْلَال: زیر کرنا، قابو میں کرنا۔
ذَلَقَ السِّكِّينَ ۔ ذَلْقاً و ذَلَاقَةً: تیز کرنا۔
ذَلِقَ اللِّسَانُ ۔ ذَلَقاً: زبان تیز ہونا، تیز زبان ہونا (۲) فصیح ہونا۔
ذَلَاقَةُ اللِّسَانِ: زور زبان، فصاحت، چرب زبانی۔
ذَوْلَقُ اللِّسَان: زبان کا کنارہ۔
ذٰلِكَ: وہ، اسم اشارہ واحد مذکر بعید کے لیے
مَعَ ذٰلِكَ: باوجود۔

ذ............م

ذَمَّ: (در: ذمم)
ذَمَرَ الأَسَدُ ۔ ذَمْراً: شیر کا چنگھاڑنا
تَذَمَّرَ: تنگ دل ہونا، دل برداشتہ ہونا۔
تَذَمُّر: غصہ، ناگواری۔
التَّذَمُّرُ السِّيَاسِيّ: سیاسی بے چینی
تَذَمُّرُ الشَّعْب: عوامی بے چینی۔
ذِمَار: شرف، اعزاز (۲) ناموس، عزت، حرم۔
ذَمَّمَ تَذْمِيماً: حد سے زیادہ مذمت کرنا۔

ذَمَّهُ ۔ ذَمّاً و مَذَمَّةً: برا کہنا، تنقید کرنا۔
ذَمٌّ: برائی، تنقید۔
ذِمَّة: (۱) ضمانت (۲) عہد (۳) حفاظت، امن (۴) قرض (۵) ضمیر ج: ذِمَـمٌ۔
أَهْـلُ الـذِّمَّةِ: (۱) معاہدین (۲) دارالاسلام میں جزیہ دے کر رہنے والے کفار۔
على ذِمَّةِ التَّحْقِيق: تحقیق کے لیے۔
فِي ذِمَّتِه: اس پر واجب ہے۔
ذِمِّيٌّ: معاہد، جزیہ دے کر دارالاسلام میں رہنے والا کافر۔
ذَمِيمٌ، مَذْمُوم: برا، قابل مذمت۔

ذ............ن

ذَنْبٌ ج: ذُنُوب: گناہ، غلطی، جرم۔
ذَنَبٌ ج: أَذْنَاب: دُم (۲) تابع۔
ذَنْبِيٌّ: گناہ کا، گناہ سے متعلق۔
ذَنَّبَ تَذْنِيباً: دُم لگانا، دمدار بنانا (۲) سزا دینا۔
إِذْنَاب: جرم کرنا، گناہ کرنا غلطی کرنا۔
اسْتِذْنَاب: گنہگار سمجھنا۔
مُذْنِبٌ: گنہگار، مجرم، غلط کار۔
مُذَنَّبٌ: دم دار، دم دار ستارہ۔

ذ............ہ

ذَهَبَ ۔ ذَهَاباً: جانا۔
ذَهَبَ به: لے جانا۔
ذَهَـبَ إِلَـى كَـذَا: خیال ہونا، مناسب سمجھنا (۲) اختیار کرنا۔
ذَهَبَ ضَحِيَّةَ كذا: شکار ہونا، نذر ہونا
ذَهَبَ أَدْرَاجَ الرِّيَاح: فنا ہونا، ہوا بُر دہونا۔
ذَهَّبَ تَذْهِيباً: سونے کا ملمع کرنا، سونا بنانا۔

إذْهَابٌ: لے جانا۔
تَمَذْهَبَ بِمَذْهَبِ كذا: کوئی طریقہ یا مسلک اختیار کرنا۔
ذَهَبٌ: سونا۔
ذَهَبٌ أَبْيَضُ: پلاٹینم، ایک قیمتی دھات۔
ذَهَبِيٌّ: سونے کا، گولڈن۔
ذَهَاب: روانگی، واپسی۔
ذَهَابُ الحَرَارَة: آنچ کم ہونا۔
ذَهَابُ الصُّرَاخِ أَدْرَاجَ الرِّيَاح: چیخ ہوا میں گم ہوگئی۔
ذَهَابُ المُحَاوَلَةِ فَاشِلَةً: ارادہ ناکام ہونا۔
الذَّهَابُ و الإِيَابُ: آمدورفت۔
مَذْهَبٌ ج: مَذَاهِبُ: مسلک، اعتقاد، عقیدہ، مکتبِ فکر۔
المَذْهَبُ التَّقْلِيدِيّ: تقلیدی مکتبِ فکر۔
مَذْهَبُ الجَبْرِ أو الجَبْرِيَّة: عقیدہ جبر، جبریت۔
مَذْهَبُ الحُكْمِ المُطْلَق: استبدادی حکومت کا عقیدہ، مطلق العنان حکومت کا نظریہ۔
مَذْهَبُ الفَوْضَوِيَّة: لاقانونیت کا نظام۔
مَذْهَبِيّ: فرقہ وارانہ۔
مُذَهَّب: سونے کا ملمع کیا ہوا۔
ذَهَلَ عَنِ الأَمْرِ۔ ذَهْلاً و ذُهُولاً: غافل ہونا، بھول جانا، ذہن سے نکلنا۔
ذَهِلَ ۔ ذُهُولاً: ہوش اڑنا، عقل زائل ہونا، ہکا بکا رہ جانا۔
مُذْهِل: حیرت انگیز۔

ذُهُول: غفلت۔
ذَاهِلٌ، مُنْذَهِلٌ: غافل، ششدر، حواس باختہ۔
ذِهْنٌ ج: أذْهَانٌ: عقل، ذہن۔
ذِهْنِيّ: آئیڈیل۔

ذ..........و

ذُو: والا، صاحب ج: ذَوُو.
ذُو اتِّجَاهٍ رَأْسُمَالِيّ: سرمایہ دارانہ ذہنیت کا۔
ذُو اسْتِقْلاَلٍ ذَاتِيّ: خودمختار۔
ذُو سُلْطَةٍ: بااختیار۔
ذُو عَاهَةٍ: آفت رسیدہ۔
ذُو مَعْنًى: بامقصد۔
ذَوُو دَخْلٍ مَحْدُودٍ: محدود آمدنی والے۔
ذَوُو الرَّجُلِ: رشتہ دار، متعلقین۔
ذَات: (مونث ذُو) والی (۲) جان، نفس
ذَاتَ مَرَّةٍ: ایک دفعہ، کسی دفعہ۔
ذَاتَ يَوْمٍ: ایک دن، کسی دن۔
ذَاتُ الكَثَافَةِ السُّكَّانِيَّة: گھنی آبادی والی۔
احْتِرَامُ الذَّات: عزتِ نفس۔
الاعْتِمَادُ عَلَى الذَّات: خوداعتمادی۔
الإعْجَابُ بالذَّات: خودپسندی۔
الثِّقَةُ بالذَّات: خوداعتمادی۔
إِنْكَارُ الذَّاتِ: نفس کشی، خودفراموشی، تواضع۔
مَدْحُ الذَّات: خودستائی۔
ذَاتِيّ: شخصی، پرسنل۔
ذَاتِيَّة: شخصیت، اپنی ذات، ذات کا مسئلہ۔

ذَاتِيَةُ الشَّیْءُ: حقیقت۔
ذَاتِیاً: ذاتی طور پر، شخصی طور پر۔
ذَوَاتُ البَلَد: سربرآوردہ، معززین شہر
ذَوَاتُ الأَرْبَع: چوپائے۔
أَوْلادُ الذَّوَات: صاحبزادگان، بڑوں کی اولاد۔
ذَوَّبَ تَذْوِيباً و أَذَابَ: گھلانا، پگھلانا
تَذْوِيبُ الفَوَارِق: امتیازات ختم کرنا۔
إِذَابَةُ الذَّاتِ فِی كَذا: کسی میں خودکو ضم کردینا۔
ذَابَ ـُ ذَوْباً و ذَوَبَاناً: گھلنا، پگھلنا۔
ذَابَ أَسیً أَوهَمّاً: غم یا رنج میں گھلنا۔
ذَابَ خَجَلاً: شرمندگی سے پانی پانی ہونا۔
ذَابَتْ مُنَظَّمَةٌ دَاخِلَ مُنَظَّمَةٍ: تنظیم کا تنظیم میں گم ہوجانا۔
ذَائِبٌ: گھلا ہوا، پگھلا ہوا۔
مُذِيبٌ: پگھلانے والا، حل کنندہ۔
ذَوْبُ سِلْکِ الصِمَامَةِ الكَهْرَبَائِيَّة: فیوز اڑنا۔
ذَوْدٌ: (ن) دفاع کرنا، ہٹانا، بچانا۔
ذَوْقٌ: (ن) چکھنا، ذائقہ معلوم کرنا۔
إِذَاقَة: چکھانا۔
تَذَوُّق: ذائقہ لینا، مزہ لینا، تھوڑا تھوڑا چکھنا۔
تَذَوُّق: ٹیسٹ، ذائقہ چکھنا۔
مَذَاق: ٹیسٹ، ذائقہ۔
مَذَاقٌ سَلِيسٌ: صاف ذائقہ۔
ذَوْق وذَوَاق: (۱) مذاق، خواہش (۲) لیاقت (۳) اصابت رائے، سلیقہ، ٹیسٹ۔

الذَّوْقُ الاجْتِمَاعِیّ: معاشرتی سلیقہ۔
قِلَّةُ ذَوْقٍ: بدذوقی۔
قَلِيلُ الذَّوْق: بدذوق۔
ذَوَی ـِ ذَيّاً وذُوِيّاً و ذَوِیَ ـَ ذَوِیّاً: مرجھانا، کملانا۔
ذَاوٍ: مرجھایا ہوا، پژمردہ۔
ذَاعَ الخَبَرُ ـِ ذُيُوعاً: پھیلنا، عام ہونا، شائع ہونا، نشر ہونا۔
ذَاعَتْ شَائِعَةٌ ـِ حَوْلَ وعَنْ كَذا: افواہ پھیلنا۔
إِذَاعَة: شائع کرنا، نشر کرنا، بیان، انکشاف کرنا، اناؤنس کرنا، اطلاع، اشتہار۔
إِذَاعَةُ بَيَانٍ: بیان جاری کرنا۔
إِذَاعَةُ السِّرِّ: راز کھولنا، راز فاش کرنا۔
إِذَاعَةُ عُمُومِ الهِنْد: آل انڈیا ریڈیو۔
إِذَاعَةٌ باللاَّسِلْكِیّ: براڈ کاسٹ کرنا۔
ذَائِع: عام، شائع۔
ذَائِعُ الصِّيتِ: شہرت یافتہ۔
مَحَطَّةُ الإِذَاعَةِ اللاَّسِلْكِيَّة: ریڈیو اسٹیشن، نشرگاہ۔
إِذَاعَات: (۱) ریڈیو نشریات (۲) افواہیں، مشہور کردہ خبریں۔
مُذِيع: ناشر، اناؤنسر، پروگرام چلانے والا، اعلان کنندہ۔
مِذْيَاع: (۱) بھونپو، میکروفون (۲) راز افشاء کرنے والا، بھانڈا پھوڑ آدمی۔
مِذْيَاعٌ كَهْرَبِیّ: (۱) میکروفون (۲) ریڈیو۔

مُذَاعٌ بِالتِّلِفِزْیُوْن: ٹیلیویژن پر نشر شدہ۔
مُذَاعٌ بالرَّادِیُو: ریڈیو سے نشر شدہ۔

ذ............ی

ذَیَّلَ الکتَابَ، تَذْیِیلاً: کتاب پر حاشیہ لکھنا، نوٹ لکھنا، ضمیمہ لگانا، اضافہ کرنا، فٹ نوٹ لکھنا۔
ذَیْلٌ ج: أذْیَالٌ: (۱) دُم (۲) کنارہ (۳) آخری حصہ، اضافہ، حاشیہ (۴) تابع۔
ذَیْلُ الثَّوبِ: دامن۔
ذَیْلُ الصَّفْحَة: صفحہ کا نچلا حصہ۔
ذَیْلٌ و تَذْیِیْل: ضمیمہ۔
حَامِلُ الذَّیْل: دامن بردار۔
طَاهِرُ الذَّیْل: پاکدامن۔
قَصِـرُ ذَیْلٍ: کوتاہ دامنی، یہ ایسے وقت استعمال کیا جاتا ہے جبکہ کوئی کام مکمل نہ ہو۔
مَقْطُوْعُ الذَّیْلِ: دُم بریدہ۔
ذَایِلٌ، مُذَیَّل: دُم دار۔

ر

ر............أ

رَأَبَ الصَّدْعَ ـ رَأْباً: پھٹن کو جوڑنا، رخنہ بند کرنا، مرمت کرنا۔

رَأْرَأَةً: پتلی پھرا کر دیکھنا۔

رَادِيكَالِيّ: (معرب) راڈیکل، انتہا پسند۔

رَادْيُو: (مع) ریڈیو، وائرلیس سیٹ۔

رَادْيُو كُلِّ الْهِنْد: آل انڈیا ریڈیو۔

رَادْيُو عُمُومِ الْهِنْد: آل انڈیا ریڈیو۔

رَادْيُو غرَاف: (معرب) ریڈیوگراف۔

رَادْيُو فُون: (معرب) ریڈیوفون۔

رَادْيُوم: (مع) ریڈیم، ایک چمکیلا مادہ۔

رَأَسَ ـ رِئَاسَةً ورِيَاسَةً و تَرَأَّسَ وارْتَأَسَ: بڑا بننا، راہنما بننا، سربراہ بننا۔

رَأَسَ الْعَمَلَ: نگرانی کرنا، انتظام کرنا۔

رَأَسَ الْجَمْعِيَّةَ أو الاجْتِمَاعَ: جماعت یا جلسہ کی صدارت کرنا۔

رُؤِّسَ ـ رِئَاسَةً: صدر ہونا، لیڈر ہونا، سربراہ ہونا، افسر ہونا۔

تَرْئِيس: صدر بنانا، افسر بنانا۔

تَرْئِيسُ الْقَلَم: (دا) قلم کی نوک بنانا۔

تَرْئِيسُ الْكِتَابِ أو الْمَقَالَةِ: کتاب یا مضمون پر عنوان لگانا۔

رَأْسٌ ج: رُؤُوسٌ: (۱) سر (۲) چوٹی (۳) اول، ہیڈ، سربراہ (۴) عقل (۵) بالائی حصہ (۶) اصل۔

رَأْسُ مَالٍ: سرمایہ، فنڈ، کیپٹل، اصل رقم ج: رُؤُوسُ أَمْوَالٍ

رَأْسُ الْمَالِ لِلْإِبْتِدَائِيُّ: ابتدائی سرمایہ۔

رَأْسُ الْمَالِ الاجْتِمَاعِيُّ: سوشل سرمایہ۔

رَأْسُ الْمَالِ الاِحْتِيَاطِيُّ: ریزرو سرمایہ۔

رَأْسُ الْمَالِ الثَّابِت: فکسڈ سرمایہ۔

رَأْسُ الْمَالِ الْحَقِيقِيُّ: واقعی سرمایہ۔

رَأْسُ الْمَالِ السَّنَدَات: کاغذی سرمایہ، کاغذات کے بموجب سرمایہ۔

رَأْسُ الْمَالِ الْعَاطِلُ: بیکار سرمایہ۔

رَأْسُ الْمَالِ الْعَامِلُ: دست گرداں سرمایہ، چلتا سرمایہ، مصروف سرمایہ۔

رَأْسُ الْمَالِ الْمُتَدَاوَل: کرنٹ سرمایہ۔

رَأْسُ الْمَالِ الْمَحْبُوس: منجمد سرمایہ۔

رَأْسُ الْمَالِ الْمُسَجَّل: رجسٹرڈ سرمایہ۔

رَأْسُ الْمَالِ الْمُقْتَرَضُ: قرض سرمایہ۔

رَأْسُ الْمَالِ الْمُكْتَتَب: مشترکہ سرمایہ، چندہ

کا سرمایہ۔
رَأسُ المَالِ الوَطَنِیّ: قومی سرمایہ۔
الرَّأسُمَالِیّ: سرمایہ دار، سرمایہ دارانہ۔
الرَّأسُمَالِیَّة: سرمایہ داری۔
الرَّأسُمَالِیَّةُ الاحتِکَارِیَّة: اجارہ دارانہ سرمایہ داری۔
الرَّأسُمَالِیَّةِ التِجَارِیَّة: تجارتی سرمایہ داری۔
الرَّأسُمَالِیَّةُ الشَّعبِیَّة: عوامی سرمایہ داری۔
الرَّأسُمَالِیَّةُ المَحَلِّیَّة: لوکل سرمایہ داری۔
الرأسُمَالِیَّةُ الوَطَنِیَّة: نیشنل سرمایہ داری۔
رَأسُ العَمُود: کالم کا بالائی حصہ۔
رَأسُ القَوم: لیڈر، سردار۔
رَأسٌ بِرَأسٍ: برابر، مساوی۔
رَأساً: براہ راست، ڈائریکٹ۔
رَأساً علی عَقِبٍ: الٹا، اوندھا۔
علی رَأسِ الحُکُومة: سربراہ حکومت
رَأسِیّ: عمودی شکل کا۔
رَئِیسٌ ج: رُؤَسَاء: صدر، لیڈر، افسر، سربراہ، چیف، نگراں، ہیڈ، پرنسپل، چیئرمین۔
__ إدارَةٍ أومَکتَب: کسی محکمہ یا دفتر کا افسر، ذمہ دار، افسر انتظامیہ۔
__ أرکَانِ الجَیش: کمانڈر انچیف۔
__ الأرکَانِ العَامَّة: چیف آف اسٹاف
الرئِیسُ الأعلیٰ للجَامِعَات: یونیورسٹیوں کا سربراہ عام۔
رَئِیسُ البَلَدِیَّة: میونسپل چیئرمین، میئر۔
__ لِهَیئَةٍ تَشرِیعِیَّة: اسپیکر۔
__ بِالنِّیَابَة: قائم مقام صدر۔
__ بالوَکَالَة: قائم مقام صدر۔

__ التَّحرِیر: چیف ایڈیٹر، مدیر اعلیٰ
__ جَامِعَة: چانسلر۔
__ الجَلسَة (فی مَجلِسِ النُّوَّاب): اسپیکر۔
__ جَلسَةٍ أو اجتِمَاعٍ أومَجلِسٍ: صدر جلسہ، چیئرمین۔
__ الحِسَابَات: چیف اکاؤنٹنٹ
__ الدَّائِرَة: افسر۔
الرَّئِیسُ العَام: جنرل افسر۔
رَئِیسُ فِرقَةٍ: کیپٹن۔
__ عِصَابَة: گروہ کا سردار۔
__ عُمَّال: اوورسیر، فورمین۔
__ اللَّجنَة: کمیٹی کا چیئرمین۔
__ للوِزَارَة بالنِّیَابَة: قائم مقام وزیر اعظم۔
__ لَیسَ له حَقٌّ: صدر بلا اختیار۔
__ مُبَاشِرٌ: ڈائریکٹ آفیسر۔
__ مَجلِسِ الإدَارَة: چیئرمین آف بورڈ
__ مَجلِس الدَّولَة: چیئرمین قومی اسمبلی۔
__ مَجلِس المَدِینَة: میئر۔
__ مَجلِس النُّوَاب: اسپیکر پارلیمنٹ۔
__ المَحکَمَة: جج، حاکم عدالت۔
__ المَحکَمَةِ العُلیَا: چیف جسٹس
__ مَدرَسَة: مہتمم۔
مُشَارِک: مشترکہ صدر۔
المَکتَب: چیف کلرک، ہیڈ کلرک۔
__ مُؤَقَّتٌ: عارضی صدر۔
__ مَعهَدٍ عِلمِیّ أو دِینِیّ: کسی علمی یا مذہبی ادارہ کا اعلیٰ ذمہ دار، یونیورسٹی کے کسی شعبہ کا صدر، ڈین۔

الوُزَرَاءِ: وزیر اعظم۔
رَئیسُ وَفْدٍ: وفد کا صدر، سربراہ وفد
__ الهَیْئَةِ المَرکزِیَّةِ لِلتَّخطِیطِ: مرکزی پلاننگ بورڈ کا چیئرمین۔
رَئیسَة: (مونث رئیس)
رَئیسِیٌّ: اول، بنیادی، اہم، صدر، بڑا، چیف، ماسٹر، مین۔
رِئَاسَة: صدارت، سربراہی، لیڈری، افسری، سرداری، چیئرمین شپ۔
الرِّئَاسَةُ بِالاِشتِرَاکِ: مشترکہ صدارت
رِئَاسَةُ التَّحرِیرِ: ادارتِ اعلیٰ، مدیر اعلیٰ کا عہدہ۔
رِئَاسِیٌّ: صدارتی۔
مَرْؤُوسٌ: ماتحت (ضد رئیس)
رَأَفَ _ رَأْفَةً و رَؤُفَ رَآفَةً و رَئِفَ ــــ رَأْفاً و تَرَأَّفَ به: مہربانی کرنا، شفقت کرنا، مہربان ہونا۔
رَأْفَة: مہربانی، رحم، شفقت۔
رَؤُوف: بے حد مہربان، مشفق۔
رَأی ــ رُؤْیَةً: دیکھنا، ادراک کرنا، خیال کرنا، مناسب سمجھنا۔
تَرَاءَی لَهُ: سامنے آنا، نظر آنا (۲) اظہار کرنا، کسی چیز کا مظاہرہ کرنا۔
رَاءَاهُ مُرَاءَاةً و رِءَاءً و رِیَاءً: ریاکاری کرنا (۲) مشورہ کرنا۔
إِرَاءَة: دکھانا۔
اِرْتَأَی الأَمْرَ: غور کرنا، مناسب سمجھنا۔
یَا تُرَی، هَلْ تُرَی: تعجب ہے، حیرت ہے، دیکھئے صاحب، دیکھئے کیا ہوتا ہے۔
(حیرت اور تعجب کے وقت بولا جاتا ہے)۔
رَأْیٌ ج: آرَاءٌ: رائے، خیال، فکر، نظریہ، تجویز، مشورہ، نصیحت۔
رَأْیُ الأَغْلَبِیَّة: اکثریت کی رائے۔
الرَّأْیُ العَالَمِیّ: رائے عامہ، بین الاقوامی رائے۔
الرَّأْیُ المُبَلْبَل: مذبذب رائے۔
الرَّأْیُ العَامّ: رائے عامہ، عام رجحان
مِنْ رَأْیِهِ أَنْ: اس کا خیال ہے کہ۔
رُؤْیَا: خواب ج: رُؤًی
رؤیہ ۔ یہ ۔
رُؤیه لَتَقَاصی: ٹیلی ویژن، لاسلکی کے ذریعے آنکھوں سے اوجھل چیزوں کو دیکھنا، غائب بینی، مشاہدۂ غائب۔
رِئَاءٌ و رِیَاءٌ: تصنع، نفاق، دکھاوا۔
رِئَة ج رِئَات، و رِئُون: پھیپڑا۔
مُرَاءٍ: ریاکار، منافق۔
مِرْآة ج: مَرَایَا و مَرَاءٍ: آئینہ۔
مِرْآةٌ مَعْدِنِیَّة: ایک آلہ جراحی (۲) دوربین جو سرجری میں استعمال کی جاتی ہے۔
مَرْآی: منظر۔
مَرْئِیّ: دکھائی دینے والا۔
رَایَةٌ: جھنڈا، پرچم، نشان، علم، فلیگ، بینر ج: رَایَات
الرَّایَةُ البَیْضَاءُ: صلح کا جھنڈا۔
رَایَةُ الثَّورَة: نشانِ انقلاب۔
الرَّایَةُ الحَمْرَاء: سرخ جھنڈا۔

ر .... ب

رَبَأَ ــ رَبْأً عَلَیهِ: نگرانی کرنا۔

رَبَأَ بِنَفْسِهِ عَنْ عَمَلِ كَذا: اس نے فلاں فعل سے اپنے کو باز رکھا۔

رَبَّبَ و رَبَّ ـُ رَبًّا و تَرَبَّبَ الْوَلَدَا: پرورش کرنا، پالنا۔

رَبٌّ: پروردگار، پرورش کنندہ، مالک، سردار، صاحب ج، أَرْبَاب و رُبُوب م: رَبَّة ج: رَبَّاتٌ

رَبُّ الْبَيْتِ: صاحب خانہ، مالک مکان۔

رَبُّ الْعَمَلِ: مالک کاروبار۔

رُبَّ: مُربّا

رُبَّ، رُبَّمَا: شاید، بعض اوقات، بسا اوقات، ممکن ہے۔

رَبَابٌ: ایک قسم کا باجہ۔

رِبَابَة، رُبُوبَة، رُبُوبِيَّة: پرورش۔

رُبَّانٌ: جہاز کا کپتان، کشتی بان، ملاح ج: رَبَابِينُ

رُبَّانُ الاختبار: ٹیسٹ پائلٹ۔

رُبَّانُ الطَّائِرَة: پائلٹ۔

رَابٌّ: سوتیلا باپ۔

رَابَّة: سوتیلی ماں۔

رَبِيبٌ: (۱) سوتیلا لڑکا (۲) سوتیلا باپ ج: أَرِبَّة

رَبِيبَة: (۱) سوتیلی لڑکی (۲) سوتیلی ماں ج: رَبَائِبُ

رَبِيبَةُ الاسْتِعْمَار: سامراجیت کا پروردہ۔

رَبَّتَ الصَّبِيَّ ـَ رَبْتًا و رَبَّتَ: بچہ کو تھپکی دینا۔

رَبِحَ ـَ رِبْحًا و رَبَحًا، و رَبَاحًا: تجارت میں نفع اٹھانا۔

تَرْبِيح: نفع پہنچانا، نفع بخش بنانا۔

رِبْحٌ ج: أَرْبَاحٌ: فائدہ، بیاج، پرافٹ۔

رِبْحٌ صَافٍ: خالص منافع جو انتظامی اخراجات کے بعد حاصل ہو۔

رِبْحٌ صُورِي: ظاہری نفع۔

الرِّبْحُ والخَسَارَةُ: نفع ونقصان۔

أَرْبَاحٌ قِيَاسِيَّة: مقررہ منافع۔

رِبْحُ المَالِ: کسی رقم کا مقررہ منافع۔

رِبْحٌ بَسِيطٌ: سودِ مفرد۔

رِبْحٌ مُرَكَّبٌ: سودِ مرکب۔

رَابِحٌ، مُرْبِحٌ: فائدہ اٹھانے والا، نفع حاصل کرنے والا (۲) نفع بخش۔

رَبَدَ ـُ رَبْدًا و رُبُودًا بِالْمَكَانِ: اقامت گزیں ہونا، قیام کرنا۔

رَبَدَهُ ـُ رَبْدًا: منع کرنا، روکنا، روکے رکھنا۔

أَرْبَدُ: بھورا، خاکستری رنگ کا۔ مٹیالا

رَبَصَ ـُ رَبْصًا و تَرَبَّصَ بِأَحَدٍ: کسی کے لیے خیر یا شر کا منتظر رہنا، گھات میں لگنا۔

التَّرَبُّصُ بِأَحَدٍ: کسی کی فکر میں رہنا، تاک میں لگنا۔

ربض ـِ ربضا و رُبُوضًا. جانور کا گھٹنے کے بل بیٹھنا۔

رَبَضٌ، مَرْبَضٌ: بکریوں کا باڑہ ج: أَرْبَاضٌ و مَرَابِضُ۔

رَبَضُ المَدِينَةِ: شہر کی ملحقہ عمارتیں۔

رَبَطَ ـِ رَبْطًا باندھنا، ملانا، جوڑنا۔

رَبَطُ الأَلْغَامِ فِي شَيْءٍ: آتش گیر مادہ کسی چیز میں رکھنا۔

الرَّبْطُ بِأَحَدٍ: جوڑ، تعلق۔

رَبْطٌ بَيْنَ الشَّعْبَيْنِ: دوملکوں کے عوام کو جوڑنا۔

رَبَطَ عَلَى قَلْبِهِ: مضبوط کرنا، صبر عطا کرنا۔

رَبَطَ الجُرحَ: زخم کو پٹی باندھنا۔
رَبَطَ اللِّسانَ: زبان بند کرنا، گونگا کرنا۔
رَابَطَ الجَیشُ مُرابَطَةً: لشکر کا مقیم ہونا، پڑاؤ ڈالنا۔
رَابِطُ الجأْشِ: بہادر، نڈر
اِرْتِبَاطٌ بشَیءٍ: بندھنا، ملنا جڑنا، نتھی ہونا۔(۲) وابستگی، کنکشن، تعلق، جوڑ، ربط۔
الارْتِبَاطُ عَاطِفِیًّا: جذباتی لگاؤ۔
رَبْطٌ: جوڑ، بندش، (ضد، حَلّ)
رَبْطُ الطَّائِرَاتِ فِی اَعْمِدَةِ حَظِیرَةٍ: ہوائی جہازوں کو شیڈ کے ستونوں سے باندھنا۔
رَبْطُ العَلاقَةِ مَعَ الشَّعْبِ: عوام سے تعلق قائم کرنا۔
رِبَاط: رسی، پٹی، ڈوری، جوتے کا تسمہ ج: رُبُط
رِبَاطُ الجَوارِبِ: گیٹس۔
رِبَاطُ الرَّقَبَة: ٹائی ج: رُبُط
رِبَاطُ العُنُقِ: ٹائی ج: رُبُط
رَبطَة: پیکٹ، گٹھری، بستہ ج: رَبَطَاتٍ:
رَبْطَةُ السَّاقِ: گیٹس، موزہ بند۔
رَبْطَةُ العُنُقِ: نکٹائی۔
رَابِط: قیام پذیر، بندھا ہوا۔
رَابِطُ الجَأْشِ: متحمل مزاج، حواس درست رکھنے والا، مستقل مزاج۔
رَابِطَة: تعلق، کنکشن، ایسوسی ایشن، رابطہ ج: رَوَابِط
رَابِطَةُ شُعُوبٍ: کامن ویلتھ۔
رَابِطَةُ المُوَظَّفِینَ: اسٹاف ایسوسی ایشن۔
رَوَابِطُ: تال میل، تعلقات و: رَابِطَة
الرَّوَابِطُ الاقْتِصَادِیَّة: اقتصادی روابط۔

مَربَط ج: مَرَابِط: اصطبل، گھوڑوں اور چوپاؤں کو باندھنے کی جگہ
مَرْبُوط: مرتبط، بندھا ہوا، وابستہ
مُرْتَبِطٌ بِمَوعِدٍ اَوْ عَهْدٍ: کسی پروگرام یا عہد کا پابند۔
رَبَعَ ـَ رَبْعاً: توقف کرنا، انتظار کرنا
تَرْبِیع: چار گنا کرنا۔
تَرَبَّعَ واسْتَرْبَعَ فی الجُلُوس: چار زانو بیٹھنا۔
رُبْعٌ: چوتھائی حصہ ج: أرْبَاع.
رَبْع: (۱) مکان (۲) حویلی جس میں بہت سے چھوٹے مکانات ہوں (۳) کوارٹر، جگہ، مقام، اقامت گاہ ج: رُبُوع۔
رَبِیع: موسم بہار ج: اَرْبِعَة۔
رَبِیعُ الحَیَاة: زندگی کی بہار۔
رُبَاعِیّ: چہار اجزائی۔
رُبَاعِیُّ الأحْرُف: چار حرفی۔
رُبَاعِیُّ الأضْلاع: چہار پہلو والا۔
رُبَاعِیُّ الأرْجُل: چار پیروں والا۔
رَابِع: چوتھا م: رَابِعَة۔
رَابِعَ عَشَرَ: چودہواں۔
أرْبَعَة، أرْبَعٌ: چار (۴)
أرْبَعَةُ أضْعَاف: چار گنا۔
أرْبَعَةُ مَفَارِق: چوراہا۔
أرْبِعَاء، یَوْمُ الأرْبِعَاء: بدھ کا دن، چہار شنبہ۔
تَرْبِیعَةٌ ج: تَرْبِیعَات، مُرَبَّع ج: مُرَبَّعَات: خانہ۔
مَرْبَعُ الصَّیدِ ج: مَرَابِع: شکارگاہ۔

مُرَبَّعٌ: چہار گناہ: چوکانہ، چہار پہلو۔
رِبْقَة: پھندا، طوق ج: رِبَق
رِبْقَةُ الاستِعْبَاد: طوق غلامی۔
رَبَکَ ـُ رَبْکاً: رکاوٹ ڈالنا، مشکل میں مبتلا کرنا، پریشان کرنا۔
رَبِکَ ـَ رَبَکاً و ارْتَبَکَ: مشکل میں پھنسنا، پریشان ہونا۔
أرْبَکَ: الجھانا۔
رَبَکٌ، اِرْتِبَاک: پریشانی، الجھن۔
اِرْتِبَاکُ المَوْقِف: صورتحال پیچیدہ ہونا۔
رَبِکٌ، مُرْتَبِکٌ: پریشان، مبتلائے مصیبت والجھن۔
مُرْبِکٌ: پریشان کن۔
مُرْتَبِک: پیچیدہ۔
رَبِلٌ: فربہ، چربی دار، گوشت سے بھرپور۔
رَبَالَة: فربہی۔
رَبِیل: موٹے جسم کا، موٹا۔
رَبْوَة ج: رُبیً: ٹیلہ، اونچی زمین (۲) دس لاکھ۔
رُبُوَة: دس ہزار۔
رِبَا، رِبَاءٌ: سود، بیاج، ناجائز سود، ناجائز نفع مال۔
رِبَوِیّ: سودی۔
مُرَابِي: سودی کاروبار کرنے والا۔
رَبَا ـُ رَبْواً و رُبُوّاً: بڑھنا، زیادہ ہونا، نشوونما پانا۔
رَبَّی الوَلَدَ تَرْبِیَةً: پرورش کرنا، پالنا، تعلیم و تربیت دینا، نگہداشت کرنا۔
رَبَّی الثَّمرَ بِالسُّکَّرِ: پھلوں کا مربا بنانا۔
رَابَاهُ مُرَابَاةً: سودی معاملہ کرنا، سود پر روپیہ دینا۔
إرْبَاء: بڑھانا، اضافہ کرنا۔
تَرَبَّی: بڑھنا، نشوونما پانا، پرورش پانا، مہذب ہونا، تعلیم پانا۔
تَرْبَوِیّ: تربیتی۔

ر.........ت

رَتَّبَ تَرْتِیباً: مرتب کرنا، سلیقہ سے لگانا، رکھنا (۲) تدبیر کرنا، تیار کرنا، انتظام کرنا۔
رَتَّبَ تَرْتِیباً أبْجَدِیّاً: حروف تہجی پر ترتیب دینا۔
تَرَتَّبَ: سلیقہ سے لگنا، مرتب ہونا۔
تَرَتَّبَ عَلَی: نتیجہ برآمد ہونا۔
تَرَتُّبُ النَّتِیجَةِ عَلَی شَیْءٍ: کسی چیز کا نتیجہ نکلنا۔
رُتْبَة ج: رُتَبٌ: درجہ، حیثیت، ڈگری، عہدہ، منصب، گریڈ۔
رَتِیب: روٹین، ترتیب وار۔
رَتِیبِیّ: روٹینی۔
مَرْتَبَة ج: مَرَاتِب: (بمعنی: رُتْبَة)
مَرَاتِبُ الخِدْمَةِ المَدَنِیَّة: سول سروس کے گریڈ، درجات۔
رَاتِبٌ ج: رَوَاتِب: مالی یافت، تنخواہ، وظیفہ۔
رَاتِبٌ جُزْئِیٌّ: جزوی تنخواہ۔
رَاتِبٌ زَهِید: معمولی تنخواہ۔
رَاتِبٌ شَهْرِیّ: مشاہرہ۔
رَاتِبٌ مُؤَجَّل: معین المیعاد وظیفہ۔

رَاتِبٌ دَائِمٌ، ثَابِت: مستقل تنخواہ۔
رَاتِبٌ و رَتِیب: منظم، مرتب۔
رَوَاتِبُ مُنتَظِمَة: باضابطہ وظائف۔
مُرَتَّب: گریڈ یافتہ۔
مُرَتَّب: گریڈ، وظیفہ، تنخواہ۔
مُرَتَّبٌ تَرتِیباً هِجَائِیاً: الف با کے حساب سے مرتب۔
مُرَتَّبُ التَّقَاعُد: ریٹائرمنٹ پنشن۔
مُرَتَّبٌ سَنَوِیٌّ مَدَی الحَیَاۃ: تاعمر سالانہ وظیفہ۔
مُرَتَّبٌ کَامِل: پوری تنخواہ۔
مُرَتَّبٌ لِمَدَی الحَیَاۃ: وظیفہ تاحیات، تاحیات وظیفہ۔
المَرتَبَةُ الثَّانِیَة: سیکنڈ کلاس۔
مَرتَبَةُ سَفِیر: اعلیٰ درجہ، اعلیٰ گریڈ۔
مُرَتَّبَاتٌ إِضَافِیَة: الاؤنس۔
تَرتِیب: نظام، تدبیر، تیاری، ترتیب، انتظام، پوزیشن، ارینجمنٹ، سلیقہ۔
تَرتِیبُ اجتِمَاعِ أَحَدٍ مَعَ أَحَدٍ: ملاقات کا انتظام کرنا۔
تَرتِیبُ اجتِمَاعَات: جلسوں کا انتظام کرنا۔
تَرتِیبُ رَوَاتِبَ شَهرِیَّة: تنخواہیں مقرر کرنا۔
تَرتِیبُ فُرصَةٍ لِکَذا: کسی چیز کا موقع نکالنا۔
تَرتِیبُ الفِئَات: اقسام متعین کرنا کیٹگری متعین کرنا۔
تَرتِیبُ مَقَاعِدَ (فی مَبنًی): سیٹنگ، نشستوں کی ترتیب قائم کرنا۔
تَرتِیبُ الوَظَائِف: درجہ بندی، گریڈ بندی۔
تَرتِیبَات: انتظامات، تیاریاں، پروگرام۔
تَرتِیبَاتٌ خَاصَّةٌ بِالمِیزَانِیَة: بجٹ تیاری۔
تَرتِیبَاتٌ سِیَاسِیَّة: سیاسی انتظامات۔
رَتَجَ ـُ رَتجاً: بند کرنا، دروازہ بند کرنا۔
رِتَاجٌ ج: أَرتِجَة: پھاٹک، بڑا دروازہ جس کے اندر کھڑکی ہوتی ہے۔
رَتَعَ ـَ رَتعاً: خوشحال زندگی بسر کرنا۔
رَتَعَ المَاشِیَةَ: مویشی کو چرانا۔
مَرتَعٌ ج: مَرَاتِع: چراگاہ، سرسبز و شاداب چراگاہ۔
رَتَقَ ـِ رَتقاً: کپڑے کو جوڑنا، پیوند لگانا، ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا، جوڑ سے جوڑ ملانا (ضد فَتَق)
رَتَکَ ـُ رَتکاً: چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا، ڈلکی لگانا۔
رَتَّلَ الکَلَامَ تَرتِیلاً: بہتر ترتیب دینا، کلام کو بہتر اور عمدہ طریقہ سے ادا کرنا، خوش الحانی سے پڑھنا، ترنم سے کلام کرنا، پڑھنا۔
تَرتِیلَة: ترنم، گنگناہٹ۔
رَتِلَ ـَ رَتَلاً: مرتب و منظم ہونا۔
رَتَمَ ـِ رَتماً بِکَلِمَة: بولنا، منہ سے بات نکالنا۔
رَتِینَة: (۱) لالٹین (۲) گیس کی لالٹین۔

ر............ث

رثَّ ـُ رَثَاثَةً و رُثُوثَة: پرانا و بوسیدہ ہونا،

خستہ ہونا، شکستہ حال ہونا۔
رَثَاثَة: پراگندگی، شکستہ حالی، بوسیدگی
رَثٌّ: خستہ حال، بوسیدہ، پرانا۔
رَثَى المَيِّتَ ـِ رَثْياً ورِثَاءً و مَرْثِيَةً: مردہ کے محاسن بیان کرکے رونا۔
رَثَى له: اظہارغم کرنا، رحم کرنا۔
يُرْثَى لَهُ: قابل رحم۔
رَثْيٌ ورِثَاءٌ: نوحہ، مردہ پر اظہارغم۔
رَثْيَة: جوڑوں کا درد۔

ر............ج

إِرْجَاء: ملتوی کرنا، موخر کرنا، ٹال مٹول، التواء۔
إِرْجَاءُ الاجْتِمَاع: جلسہ ملتوی کرنا۔
إِرْجَاءُ إِلى أجلٍ غيرِ مُسَمّىً: مدت غیر معینہ کے لیے ملتوی کرنا۔
إِرْجَاءُ جَلْسَةٍ: میٹنگ ملتوی کرنا۔
رَجَّ ـُ رَجّاً ورَجَّةً: ہلانا، حرکت دینا۔
رُجَّ وارْتَجَّ: ہلنا، سمندر کا متلاطم ہونا۔
___ الصَّوْتُ: آواز کا کانپنا۔
رَجٌّ وارْتِجَاج: حرکت، جنبش، کپکپی، لرزہ، اضطراب۔
ارْتِجَاجُ الأَوْصَالِ (مِنَ البَرْدِ): سردی سے تھرتھرانا۔
مُرْتَجٌّ: متحرک، لرزاں۔
صَوْتٌ مُرْتَجٌّ: کپکپاتی آواز۔
رَجَحَ ـُ رُجُوحاً و رُجْحَاناً: غالب ہونا۔
رَجَحَ الشيءَ بيدِه: تولنا، وزن کرنا۔
رَجَحَتْ كِفَّةُ المِيزَانِ لَهُ: فلاں کے حق میں ترازو کا پلڑا بھاری ہوگیا۔

رَجَّحَ و أرْجَحَ: غالب کرنا، راجح کرنا۔
رَجَّحَ علي.......: فوقیت دینا۔
رُجْحَان، أرْجَحِيَّة: فضیلت، فوقیت، غلبہ۔
أُرْجُوحَة ج: أرَاجِيحُ: (۱) جھولا (۲) جھولنے یا پھسلنے کا تختہ۔
أُرْجُوحَةُ الطِّفْلِ: بچہ کا جھولا۔
رَاجِحٌ: غالب، محتمل
رُجْز: گندگی، عذاب، بتوں کی پرستش
رَجَز: اوزان شعر میں سے ایک وزن۔
أُرْجُوزَة: بحر رجز پر قصیدہ۔
رَجْسٌ، رِجْسٌ: (۱) گندگی، نجاست (۲) برا عمل، گناہ۔
رَجِسٌ: گندا۔
رَجَعَ ـِ رُجُوعاً: لوٹنا۔
رَجَعَ إلى الأمر: کسی معاملہ پر توجہ دینا، دوبارہ شروع کرنا، دوبارہ اختیار کرنا۔
رَجَعَ إليه في الأمر: کسی معاملہ میں کسی سے مشورہ لینا، رجوع کرنا۔
رَجَعَ عَنْ كذا: باز آنا، ترک کرنا۔
رَجَعَ في كلامِه: کلام کے سابقہ حصہ کو دوبارہ زیر بحث لانا۔
رَجَعَ عليه: مطالبہ کرنا۔
رَجَعَهُ عَنِ الشئ و عَنْهُ رَجْعاً، و رُجْعَاناً: لوٹانا، پھیرنا۔
الرُّجُوعُ في القَرار: قرارداد واپس لینا۔
رَجَّعَ و أرْجَعَ: لوٹانا، واپس کرنا۔
كَرَجْعِ البَصَر: چشم زدن میں، پلک جھپکتے۔
رَاجَعَ: جانچنا، کسی مضمون وغیرہ کو اصل

سے ملا کر دیکھنا، معائنہ کرنا۔
رَاجَعَ الطَّبِيبَ وغَيرَه في أمْرٍ: مشورہ لینا۔
رَاجَعَ الحِسَابَاتِ: حسابات کی جانچ کرنا۔
تَراجَعَ: لوٹنا، پیچھے ہٹنا (ضد تقدّم)
التَّرَاجُعُ عَنِ الرَّأيِ: رائے بدلنا۔
التَّرَاجُعُ فِي شَيْءٍ: رد کرنا۔
التَّرَاجُعُ فِي القرار: فیصلہ واپس لینا، فیصلہ سے ہٹنا۔
اِستِرجَاع: واپس لینا، گاڑی کو پیچھے ہٹانا، گم شدہ کو حاصل کرنا، بازیابی کا مطالبہ کرنا، (۲) واگذاری۔
اِستِرجَاعُ الأمْرِ: منسوخ کرنا۔
اِستِرجَاعُ العَافِيَة: صحت حاصل کرنا۔
اِرتِجاعِيّ: بیک ورڈ، پس ماندہ۔
رَجْعٌ، رُجُوع: واپسی۔
رَجْعُ البَصَرِ: لمحہ، جھپک۔
رَجْعَة: واپسی، قدامت۔
رَجْعِيُّون: قدامت پسند۔
مَرجِع ج: مَرَاجِع: جائے واپسی (۲) ماخذ، کتابِ مراجعت، حوالہ (۳) پناہ گاہ، ملجا و ماویٰ۔
مُرَاجِعٌ: جانچ کنندہ، مراجعت کنندہ۔
مُرَاجِعُ الحِسَاب: آڈیٹر حسابات
مُرَاجَعَة: جائزہ، تکرار، نظر ثانی، مشورہ، چیکنگ، چیک کرنا، جانچ
المُرَاجَعَةُ الجُزئِيَّة: جزوی جانچ۔
مُرَاجَعَةُ الجَوَازات: پاسپورٹ چیک کرنا۔
مُرَاجَعَةُ الحِسَابَات: حسابات کی جانچ، چیکنگ۔
مُرَاجَعَةٌ دَورِيَّة: سیزنل جانچ۔
المُرَاجَعَةُ السَّنَوِيَّة: سالانہ جانچ۔
المُرَاجَعَةُ الفَصلِيَّة: موسمی جانچ۔
المُرَاجَعَةُ الكَامِلَة: مکمل جانچ۔
المُرَاجَعَةُ المُستَمِرَّة: مسلسل جانچ
مُرَاجَعَةُ النَّفسِ: اپنا جائزہ لینا، محاسبہ نفس۔
المُرَاجَعَةُ النِّهَائِيَّة: آخری جانچ، فائنل جانچ۔
رَجَفَ ـُـ رَجْفاً ورُجُوفاً، ورَجِيفاً: ہلانا، جھنجھوڑنا، زور سے حرکت دینا۔
اِرتِجَاف: ہلنا، لرزنا، کانپنا۔
إرْجَاف: افواہ پھیلانا، سنسنی خیز خبریں پھیلانا۔
رَجْفَة: جھٹکا، لرزہ، کپکپی، رعشہ۔
رَجْفَةٌ تَشَنُّجِيَّة: تشنج کا دورہ۔
رَاجِفَة: قیامت کے روز صور کا پہلا نفخہ۔
أرَاجِيفُ: افواہیں، جھوٹی خبریں۔و: إرْجَاف
رَجَلَ ـَـ رَجلاً: پیدل چلنا۔
تَرَجَّلَ: (۱) سواری سے اتر کر پیدل چلنا (۲) عورت کا مرد بن جانا۔
تَرجِيل: کنگھی کرنا۔
اِرتَجَلَ الكَلَامَ: فی البدیہ اور بے ساختہ کلام کرنا، برجستہ کلام کرنا۔
اِرتِجَالاً: بلاتوقف، بلاتفکیر، بیساختہ، برجستہ۔

رَجُلُ أعْمَال: بزنس مین، کاروباری آدمی۔

رَجُلٌ ج: رِجَال: مرد، انسان۔

الرَّجُلُ الأوَّلُ: نمبر ایک آدمی، شخصیت نمبر ایک۔

رَجُلُ الحِفْظ: سکیورٹی مین۔

رَجُلُ دَوْلَةٍ: حکمراں۔

رَجُلُ سِيَاسَةٍ: پولیٹیشن، سیاست دان۔

رَجُلُ الشَّارِع: عام آدمی۔

رَجُلٌ عَادِيٌّ: معمولی آدمی، عام آدمی۔

الرَّجُل النِظَامِيّ: اصولی آدمی۔

الرَّجُلُ الخَاضِعُ للقَوانِين: قوانین کا پابند آدمی۔

رَجُلٌ وَدِيْعٌ: مسکین آدمی۔

رِجَالُ الاِسْتِخْبَارات: سی، آئی، ڈی۔

رِجَالُ البُوْلِيس: پولیس۔

رِجَالُ التَرْبِيَة: ماہرین تربیت۔

رِجَالُ الجَيْش: ملٹری۔

رِجَالُ الحَرَس: باڈی گارڈ۔

رِجَالُ الحَرَسِ الوَطَنِيّ: نیشنل گارڈ کے سپاہی۔

رِجَالُ الدِّيْن: مذہبی لوگ، علمائے دین۔

رِجَالُ الدِّيْنِ المُحَافِظُوْن: روایت پسند علمائے دین۔

رِجَالُ الشُرْطَة: پولیس مین۔

رِجَالُ الصَحَافَة: صحافتی عملہ۔

رِجَالُ العِصَابَات: گوریلا سپاہی۔

رِجَالُ القَلَم: اصحاب قلم۔

رِجَالُ المَالُ: مالدار لوگ۔

رِجَالِيّ: مردانہ (قُمْصَانٌ رِجَالِيَة): مردانہ قمیص، کرتے۔

رِجَال، رِجَالَات: شخصیات، ممتاز لوگ

رَاجِلٌ ج: رَجْلٌ ورَجَّالَةٌ و رِجَالٌ: ضد (رَاكِبٌ): پیادہ پا

رِجْلٌ ج: أرْجُل: پیر، ٹانگ۔

مِنْفَاخُ الرِّجل: فوٹ پمپ

رِجْلَة: خرفہ کا ساگ ج: رِجَلٌ

رُجُوْلَة، رُجُوْلِيَة: مردانگی، قوت مردانہ، بہادری۔

ارْتِجَالِيّ: فی البدیہہ، برجستہ، بدیہی

مُرْتَجَلٌ: برجستہ کلام، فی البدیہہ کلام

مِرْجَل: بائلر (Boiler)۔

رَجَمَ ـُـ رَجْماً: سنگسار کرنا، پتھر مارنا۔

رَجْمٌ بِالغَيْب: اندازہ لگانا، گمان کرنا۔

رَجْماً بِالغَيْب: اٹکل سے، اٹکل پچو۔

رَجِيْم: ملعون۔

رُجْمَة: پتھر جو قبر پر نصب کیا جاتا ہے۔

تَرْجَمَة: ترجمہ کرنا، تشریح کرنا۔

تَرْجَمَةٌ حَرْفِيَّة: لفظی ترجمہ، لفظ بہ لفظ ترجمہ۔

تَرْجَمَةٌ تَفْسِيْرِيَّة: مفہومی ترجمہ، آزاد ترجمہ، وضاحتی ترجمہ۔

تَرْجَمَةُ إنْسَان: سوانح حیات

تُرْجُمَانٌ مُتَرْجِمٌ: ترجمان، مترجم۔

(رجو) رَجَا ـُـ رَجَاءً و رَجْواً، و رُجُوّاً: امید کرنا، امید رکھنا، توقع رکھنا، پر امید ہونا، آس لگانا، درخواست کرنا۔

رَجَاء: آس، امید، اپیل، درخواست۔

رَجَاءٌ حَارٌّ: پرزور اپیل۔

تَرَجِّیَ و اِرْتجاء: توقع رکھنا، امید قائم کرنا۔
(۲) ڈرنا۔
اِرْجَاء: موخر کرنا۔
رَجاء، رَجاءج: أَرْجَاء: گوشہ، کونہ۔
رَاج: پرامید، امیدوار، درخواست کنندہ
مَرْجُوٌّ: متوقع۔
المَرْجُوُّ الرَّدُّ: جواب کی درخواست ہے۔

ر.........ح

رَحُبَ المَكانُ ـُ رَحابَة: وسیع ہونا، فراخ و کشادہ ہونا۔
رَحَّبَ و تَرَحَّبَ بِهِ: خیر مقدم کرنا، خوش آمدید کہنا، مرحبا کہنا۔
رَحَّبَ بِهِ أَجْمَلَ تَرْحِيبٍ: شاندار استقبال کرنا۔
رَحَّبَ بِهِ بِحرارةٍ بالِغةٍ: پرجوش خیر مقدم کرنا، شاندار استقبال کرنا۔
تَرْحِيب: آؤ بھگت، خیر مقدم۔
رَحْبٌ و رَحِيبٌ: کشادہ، فراخ۔
رَحْبُ الباعِ: سخی، کشادہ دست۔
رَحْبُ الصَّدْرِ: وسیع الظرف، شریف الطبع۔
رُحْبٌ، رَحَابَة، رُحْبٌ: وسعت، کشادگی، فراخی۔
رَحْبَة: صحن، کھلی جگہ، فراخ جگہ۔
تَرْحَاب: خیر مقدم۔
بِتَرْحَاب: فراخ دلی کے ساتھ۔
مَرْحَبًا بِكَ: خوش آمدید۔
رَحَضَ ـَ رَحْضاً: دھونا۔
مِرْحَاض ج: مَرَاحِيض: (۱) غسل خانہ
(۲) بیت الخلا۔
(رحق) رَحِيق، رُحَاق: شراب، ایک قسم کی خوشبو۔
رَحَلَ ـَ رَحْلاً و رَحِيلاً و رِحْلَةً و اِرْتَحَلَ: سفر کرنا، روانہ ہونا۔
رَحَلَ عَنْ: ہجرت کرنا۔
تَرَحَّلَ: نقل وحرکت کرنا، آمدورفت رکھنا۔
تَرْحِيلٌ إلى بَلَدٍ: روانہ کرنا، سفر پر بھیجنا۔
تَرْحِيلٌ عَنِ الوَطَنِ: جلاوطن کرنا۔
تَرْحِيلُ عُمَّالٍ: مزدوروں کو روانہ کرنا۔
رَحْلٌ ج: رِحَالٌ: کجاوہ اونٹ کا (۲) قیام گاہ۔
رِحْلَة: سفر، مخصوص سفر سیاحت کا سفر، دورہ، پرواز، ٹور۔
الرِّحْلَةُ إلى بَلَدٍ كذا: ٹور کرنا، دورہ کرنا۔
الرِّحْلَةُ إلَى القَمَرِ: چاند کا سفر۔
رِحْلَةٌ جَوِّيَةٌ مُنْتَظِمَة: باضابطہ فضائی سروس۔
رِحْلَةٌ دَاخِلِيَّةٌ لِلطَّيَرَان: اندرونی فضائی سروس۔
رِحْلَةٌ قَصِيرَة: مختصر سفر۔
رَحِيل: اسٹارٹ، ڈپارچر، روانگی۔
رَحَّال، رَحَّالَة: سیاح۔
رَاحِل: (۱) جانے والا (۲) مسافر (۳) مہاجر۔
مَرْحَلَة ج: مَرَاحِل: ایک دن کا سفر (۲) مسافت، اسٹیج، گریڈ، درجہ، منزل۔
مَرْحَلَةٌ اِبْتِدَائِيَّة: ابتدائی منزل۔
المَرْحَلَةُ الأُولَى: ابتدائی دور
مَرْحَلَةٌ جَادَّة: ٹھوس مرحلہ۔

مَرْحَلَةٌ جَامِعِيَّةٌ مُبْكِرة: یونیورسٹی کا پہلا مرحلہ۔
مَرْحَلَةٌ حَاسِمَة: نازک مرحلہ، نازک دور۔
الْمَرْحَلَةُ الدَّقِيقَة: نازک دور۔
الْمَرْحَلَةُ الرَّاهِنَة: موجودہ دور۔
اَلْمَرْحَةُ المبكَرَة: ابتدائی دور۔
الْمَرْحَلَةُ الْمُقْبِلَة: آئندہ مرحلہ، اگلا دور۔
مَرْحَلِيّ: مرحلہ وار۔
مَرْحَلِيّاً: مرحلہ بمرحلہ۔
رَحِمَ ـَـ رَحْمَةً و رُحْماً و مَرْحَمَةً: مہربان ہونا، نرم دل ہونا۔
رَحَّمَ و تَرَحَّمَ عَلَيْه: کسی کے متعلق رحمہ اللہ کہنا۔
اسْتَرْحَمَه: رحم کی درخواست کرنا۔
رَحْمَة، مَرْحَمَة: رحم، مہربانی۔
رَحیٰ، رَحَا ج: أرْحَاءٌ و رُحِيٌّ: چکی۔
حَجَرُ الرَّحیٰ: چکی کا پاٹ۔

ر.........خ

رَخَّ الشَّرابَ ـُ رَخّاً: پانی ملانا۔
رُخّ و: رُخَّة: ایک خیالی جانور۔
رَخُصَ ـُـ رُخْصاً: سستا ہونا، ارزاں ہونا (۲) نرم ہونا، تر و تازہ ہونا۔
رُخْصٌ: ارزانی۔
رُخْصُ الاَسْعار: داموں میں کمی۔
رَخِيص: ارزاں۔
ترخِيص، إرْخَاص: سستا کرنا۔
تَرْخِيصٌ ج: تَرَاخِيصُ: اجازت، پاس، پرمیشن، لائسنس، کنسیشن، اجازت نامہ۔
تَرْخِيصُ اسْتِيْرَاد: امپورٹ پرمٹ، بیرونی ممالک سے مال منگانے کا اجازت نامہ
تَرْخِيصُ الإِقَامَة: اقامتی اجازت
تَرْخِيصٌ بالدَّفْعِ: ادائیگی کی اجازت
تَرْخِيصُ بالسَّفَر: اجازت سفر
تَرْخِيصُ تَصْدِيْر: ایکسپورٹ، لائسنس، بیرونی ممالک میں مال بھیجنے کا اجازت نامہ۔
تَرْخِيصٌ لِسِكَّةٍ حَدِيْدِيَّة: ریلوے کنسیشن۔
التَّرْخِيصُ لـه بكذا: لائسنس دینا، اجازت دینا، پرمیشن دینا۔
اسْتَرْخَاص: سستا سمجھنا (۲) اجازت چاہنا۔
رَخْصٌ رَخِيص: سستا، نرم۔
رُخْصَة ج: رُخَصٌ: اجازت، کنسیشن، پرمٹ، لائسنس، پرمیشن۔
رُخْصَةُ إعْفَاءٍ: محصول اور ٹیکس سے مستثنیٰ ہونے کا لائسنس۔
رُخْصَةُ البِنَا: بلڈنگ لائسنس۔
رُخْصَةُ قِيَادِيَّة: ڈرائیونگ لائسنس۔
الْمُرَخِّص: پرمٹ دینے والا۔
مُرَخَّصٌ به: پیٹنٹ۔
الْمُرَخَّصُ له: جسے پرمٹ ملا ہوا ہو۔
رَخُمَ الصَّوْتُ ـُ رَخَامَةً: آواز نرم ہونا۔
رَخَمَت و أَرْخَمَتِ الدَّجَاجَةُ على البَيْض ـُ رَخْماً: مرغی کا انڈے سینا۔
تَرْخِيم: (۱) آواز کو نرم کرنا (۲) دُم

کاٹنا (۳) تلفظ میں کسی حرف کو حذف کردینا۔

تَــرْخِيـمُ الأرْضِ: سنگ مرمر بچھانا، ماربل لگانا۔

رَخَمٌ، رَخمَةٌ: گدھ۔

رُخام: سنگ مرمر۔ و: رُخامَة

رَخِمٌ، رَخِيم: نرم۔

(رخو) رَخــا ـُـ رَخاءً: (۱) زندگی کا آسودہ ہونا (۲) نرم ہونا۔

رَخِيَ العَيْشُ ـَـ رَخاءً و رَخْوَ ـُـ رَخاوَةً: آسودہ حال ہونا، زندگی خوشگوار ہونا۔

أرْخَــى الشئــي: (۱) نرم کرنا (۲) لٹکانا (۳) کپڑا نیچے چھوڑنا، پردہ لٹکانا۔

أرْخَى لِلْحِصَانِ: لگام ڈھیلی کرنا

تَــرَاخَــى: سستی کرنا، ڈھیلا پڑنا (۲) سستی، ڈھیل۔

التَّراخِي: ڈھیلاپن۔

التَّراخي في شئٍ: دیر کرنا۔

تَـراخِـي الـقَبْضَة علي: گرفت ڈھیلی پڑنا۔

ارْتِـخَـاء و اسْتِـرْخَاء: نرم ہونا۔ ست پڑنا، اعضا کا ڈھیلا ہونا (۲) سستانا، آرام کرنا۔

رَخاءٌ: آسودگی، خوشحالی، آسائش۔

الرَّخاءُ الاجْتِمَاعِي: سوشل ویلفیئر۔

الرَّخاءُ الاقْتِصَادِيَ: اقتصادی خوشحالی۔

رُخَاء: نرم ولطیف ہوا۔

رَخْوٌ: نرمی۔

رَخْوُ السَّوْط: کوڑے کی لچک۔

ر............د

رَدَأَ ـَـ رَدْءاً: مضبوط کرنا، دیوار یا عمارت کو پشتہ لگا کر مضبوط بنانا۔

رَدُؤَ ـُـ رَدَاءةً: خراب ہونا، برا ہونا۔

إرْدَاء: خراب کرنا، ردی بنانا۔

رَدِئٌ: (ضد جَيِّـد) خراب (۲) شریر، بدطینت آدمی۔

رَدِئُ التَّرْبِيه: بدتہذیب۔

ردِئُ الطَّبْعِ: بدمزاج، بدفطرت۔

أرْدَأ: بدترین۔

رَدَاءَ (ضد جوْدَة) خرابی، برائی۔

رَدَاءَةُ الأوْضَاع: حالات خراب ہونا، حالات کی خرابی۔

رَدْبٌ: وہ راستہ جس کا آخری سرا بند ہو۔

رَدْحٌ: ہلکا درد۔

رَدْحٌ: عرصہ دراز۔

رَدَّدَ تَرْدِيداً: دہرانا، بار بار کرنا۔

تَـرْدِيدُ الأهَازِيجِ الوَطَنِيَّة: قومی گیت گانا۔

تَرْدِيدُ الشِّعَارَات: نعرے لگانا۔

رَدَّ ـُـ رَدّاً و تَرْدَاداً: واپس کرنا، لوٹانا، پیچھے ہٹانا، روکنا، مقابلہ کرنا۔

رَدَّ الدَّيْنَ: قرض ادا کرنا۔

رَدَّهُ عَنْ عَزْم: کسی ارادہ سے باز رکھنا۔

رَدَّ علي القَوْلِ: جواب دینا، تردید کرنا۔

رَدَّعَلَيْهِ السَّلامَ: سلام کا جواب دینا۔

رَدَّ البَابَ: دروازہ بند کرنا۔

هٰذَا الشَّئُ ما يَرُدُّ عَلَيْكَ شَيْئاً: یہ چیز تم کو کچھ فائدہ نہ دے گی۔

لا يُرَدُّ: نا قابل تردید۔
تَرَدُّدُ طَلَقَاتِ المَدَافِعِ والرَّشَّاشَات: توپوں اور مشین گنوں کی وقفہ وقفہ کے ساتھ آوازیں گونجنا۔
تَرَدُّدٌ في الجَوَاب: توقف سے جواب دینا۔
تَرَدُّدٌ في الكَلَام: رک رک کر بولنا۔
اِرْتَدَّ: لوٹنا، پیچھے ہٹنا (۲) بغاوت کرنا۔
اِرْتَدَّ عَنْ كَذا: ترک کرنا، چھوڑنا
اِرْتَدَّ رَاجِعاً إلى كذا: کسی سابقہ چیز کی طرف لوٹنا۔
اِسْتِرْدَاد: واپس لینا، بحال کرنا، بحالی، واگذاری، لوٹانا۔
اسْتِرْدَادُ الأَعْصَاب: خود پر قابو پانا۔
اسْتِرْدَادُ الإِنْفَاق: خرچ بحال کرانا۔
اسْتِرْدَادُ المَعْنَوِيَة: حوصلہ بحال کرنا۔
اسْتِرْدَادُ خَسَارَةٍ: نقصان کا معاوضہ لینا۔
رَدٌّ ج: رُدُوْدٌ: (۱) جواب (۲) انکار (۳) ادائیگی (۴) تردید، دفعیہ، واپسی۔
رَدُّ اعْتِبَارٍ: حیثیت ختم کرنا، اعتماد ختم کرنا۔
رَدُّ الاعْتِبَار اليه: اعتماد بحال کرنا۔
رَدُّ الحَقِّ: انکار حق۔
رَدُّ الصَّوْت: آواز بازگشت۔
الرَّدُّ على أَحَدٍ بِعَصَبِيَّةٍ: سختی سے جواب دینا۔
الرَّدُّ على أَسْئِلَةِ الصَّحَفِيِّيْن: پریس والوں کو جواب دینا۔
الرَّدُّ عَلَى التِّيلِفُوْن: ٹیلیفون پر بولنے والے کو جواب دینا۔
الرَّدُّ على الخِطَابِ الرَئِيْسِيّ: صدارتی تقریر پر بحث۔
الرَّدُّ على شَيْءٍ بِدِبْلُومَاسِيَةٍ: حکمت عملی سے جواب دینا۔
الرَّدُّ على طَلَبِ فُلَان: کسی کی فرمائش کو پورا کرنا۔
رَدُّ الفِعْل: ردعمل۔
رَدُّ فِعْلٍ سَرِيْعٌ: فوری ردعمل۔
رَدُّ فِعْلٍ عَكْس: برعکس ردعمل۔
رَدٌّ قَاطِعٌ: فیصلہ کن جواب۔
رَدُّ الهُجُوْمِ بِمِثْلِه: ہو بہو وار کرنا۔
رُدُوْدٌ سَرِيْعَة: فوری جوابات۔
رُدُوْدُ الفِعْلِ: ردعمل، نتیجہ۔
رُدُوْدُ الفِعْلِ العَنِيْفَةُ
رَدّاً عَلى: جواب میں۔
رِدَّة: اصل کی طرف واپسی (۲) ترک مذہب (۳) آواز بازگشت۔
تَرْدَاد: تکرار، تو تو میں میں۔
مَرَدّ: سبب۔
مَرْدُوْد: نتیجہ، فائدہ۔
مُرَدِّد: اعادہ کرنے والا، کسی نعرہ یا قول کو دہرانے والا۔
مُتَرَدِّد: پریشان۔
رَدَسَ الأَرْضَ ـِ رَدْساً: زمین کو ہموار کرنا، رولر پھیرنا۔
مِرْدَاس ج: مَرَادِس (وَابُوْرُ الزَّلَط): اسٹیم رولر، زمین ہموار کرنے والا انجن۔
رَدَعَ ـَ رَدْعاً: روکنا، باز رکھنا (۲) سرزنش،

تنبیہ۔
اِرْتِدَاعٌ عَنْ: رکنا، باز رہنا۔
رَادِعٌ: روکنے والا، رکاوٹ، مانع، محافظ۔
الرَّادِعُ النَّوَوِيّ: نیوکلیر محافظ۔
رَدْغَة ج: رِدَاغ: کیچڑ۔
ردفه ـُ رَدْفًا: پیچھے ہونا، تابع ہونا، پیچھے سوار ہونا۔
رَادَفَهُ مُرَادَفَةً: پیچھے سوار ہونا۔
تَـرَادُفُ الكَلِمَات: مختلف کلمات کا ہم معنی یا قریب المعنی ہونا۔
تَـرَادُف: ایک دوسرے کے پیچھے چلنا، یکے بعد دیگرے ہونا۔
أُرْدِفَ فُلَانٌ يَقُوْلُ: اس نے آگے چل کر کہا۔
رِدْف: (۱) پیچھے (۲) سرین ج: أَرْدَاف
رِدْف و رَدِيْف: سوار کے پیچھے سوار۔
الرِّدْفَان: لیل ونہار۔
رَدِيْف (فِي الجَيْش): ریزرو سپاہی۔
رَدَمَ الحُفْرَة ـِ رَدْمًا: گڑھے وغیرہ کو بھرنا، پاٹنا، سوراخ وغیرہ بند کرنا۔
رَدَمَ الحُمّٰى: بخار مسلسل رہنا۔
رَدْم ج: رُدُوْم: بھراؤ، پٹاؤ، ملبہ، شکستہ عمارت کا ملبہ، درشتگی۔
رَدَنَ ـِ رَدْنًا: سوت کاتنا (۲) تہہ بہ تہہ رکھنا (۳) آگ سلگانا۔
رُدْن ج: أَرْدَان: آستین۔
مِرْدَن ج: مَرَادِن: تکلا۔
رَدْهَة ج: رَدَهَات و رِدَاه: بڑا ہال، لابی۔
رَدَهَاتُ المُسْتَشْفِى: ہسپتالوں کے وارڈ۔

رَدَى ـِ رَدْيًا و رَدَيَانًا و رَدِيَ ـَ رَدًى: گرنا، ہلاک ہونا۔
رَدَّى و أَرْدَى: (۱) کنویں وغیرہ میں گرانا (۲) چادر اڑھانا (۳) گڑھے میں ڈالنا (۴) ہلاک کرنا۔
تَرَدَّى فِي: ہلاک ہونا، گرنا۔
تَرَدِّي: خراب ہونا، نیچے ہونا۔
تَرَدِّي الأَوْضَاعِ الاقْتِصَادِيَة: معاشی حالات خراب ہونا۔
تَرَدِّي الحَالَات: حالات کا بگاڑ
التَردِّي فِي الوَضْعِ العَرَبِي: عرب پوزیشن کی خرابی، ابتری۔
تَـرَدَّى و ارْتَـدَى بكذا: پہننا، اوڑھنا زیب تن کرنا۔
إرتِدَاءُ المَلَابِس: ڈریس پہننا۔
رِدَاء ج أَرْدِيَة: چادر، کپڑا، ڈریس۔
رَدِيَتُور: (معرب) راڈیٹور۔ (Radiator)

ر............ذ

رَذَّتِ السَّمَاءُ ـُ رَذَاذًا و ارْتَذَّتْ: آسمان سے پھوار برسنا۔
رَذَاذ: پھوار، ہلکی بارش۔
رَذُلَ ـُ رَذَالَةً: ذلیل ہونا، قابل نفرت ہونا، کم درجہ ہونا، کمینہ ہونا۔
رَذَلَهُ ـُ رَذْلًا: ناپسند کرنا، ٹھکرانا، حقیر سمجھنا۔
رَذَالَة: گھٹیا پن، کمینہ پن۔
رَذِيْلَة ج: رَذَائِلُ (ضد فَضِيْلَة): بری عادت، گھٹیا درجہ کی بات۔

ر............ز

رُزْءٌ: مصیبت۔

رَزَبَ المَکانَ و عَلَیه ـُ رَزْباً: ایک جگہ سے چمٹے رہنا، الگ نہ ہونا۔
مِرْزَبَة ج: مَرَازِبُ: لوہے کا ڈنڈا، لوہے کی سلاخ۔
مِرْزَابٌ ج: مَرَازِیبُ: پرنالہ۔
رَزَحَ تَحتَ حِمْلِه ـَ رَزْحاً و رُزَاحاً و رُزُوحاً: اپنے بوجھ کے نیچے دب جانا۔
رَزَّزَ تَرْزِیزاً: چکنا کرنا۔
رَزَّ ـُ رَزّاً: تیر مارنا۔
رُزٌّ أُرْزٌ: چاول۔
رُزٌّ بِلَبَنٍ: دودھ کی کھیر، فرنی۔
رَزَّة: (۱) حلقہ دار کیل۔
مِسْمَارُ رَزَّةٍ: دونوکی کیل۔
رَزَقَ ـُ رِزْقاً: رزق بہم پہنچانا۔
رُزِقَ: رزق پانا۔
رُزِقَ بِالبَنِینَ: اولاد ملنا۔
اِرْتِزَاق: رزق پانا۔
المُرْتَزِق: وظیفہ خوار، پروردہ، کرائے کا آدمی، پٹھو ج: مُرْتَزِقَة
المُرْتَزِقَة: پٹھو، کسی کے وظیفہ خوا لوگ۔
اِسْتِرْزَاق: رزق حاصل کرنا۔
رِزْق ج: أَرْزَاق: روزی، آب و دانہ (۲) ہر قابل انتفاع چیز (۳) خیر و بھلائی۔
الأَرْزَاق: اشیائے خوردنی۔
مَرْزُوق: آسودہ حال۔
رَزَمَ الشَّیئَ ـُ رَزْماً: گٹھڑی باندھنا، بنڈل بنانا، پیک کرنا، پارسل بنانا۔
رِزْمَة ج: رِزَم: بنڈل، پارسل، پیکٹ، گٹھڑی۔
رِزْمَةُ جَرَائِد: اخبارات کا بنڈل۔
رِزْمَةُ صُحُفٍ: اخبارات کا بنڈل۔
رِزْمَةٌ صَغِیرَة: پیکٹ۔
رِزْمَةٌ کَبِیرَة: (بَالَة): کپڑوں کا بڑا بنڈل، گانٹھ۔
رِزْمَةُ وَرَقٍ: پیپر ریل، کاغذ کا ایک رم
رَزُنَ ـُ رَزَانَةً و رُزُوناً: سنجیدہ ہونا، باوقار ہونا۔
رَزَنَ الشَّیءَ ـُ رَزْناً: ہاتھ میں لے کر وزن کا اندازہ کرنا۔
رَزَنَ بِالمَکانِ: قیام کرنا۔
رَزَان: باوقار و سنجیدہ عورت۔
رَزَانَة: سنجیدگی، متانت، وقار۔
رَزِینٌ: سنجیدہ، باوقار (۲) بوجھل۔
أُرْزَن: ٹھوس لکڑی۔

ر..........س

رَسَبَ ـُ رُسُوباً و رَسْباً: نیچے گرنا، تہہ میں پہنچنا، تہہ نشین ہونا۔
رَسَبَ فِی الاِمْتِحَانِ: ناکام ہونا، فیل ہونا۔
تَرْسِیب: فیل کرنا، نیچے گرانا، تہہ تک پہنچانا۔
رَاسِبٌ: تہہ نشین، ناکام، فیل۔
(رسح) مَرْسَح: تھیٹر، تماشا گاہ (۲) ڈرامے کا اسٹیج۔
رَسَخَ ـُ رُسُوخاً: جم جانا، گڑ جانا، جڑ پکڑنا، راسخ ہونا، قائم ہونا۔
رَسَخَ فِی الذِّهْنِ: ذہن نشین ہونا۔
رُسُوخ: جماؤ، ٹھہراؤ، مضبوطی۔
رَاسِخ: ٹھہرا ہوا، ثابت، قائم، مضبوط، فکسڈ، اٹل۔

تَرْسِیْخ: فکس کرنا، فٹ کرنا، مضبوط کرنا، جمانا۔
تَرْسِیْخُ الجَبْهَةِ المُعَادِیَة: مخالف محاذ کو مضبوط کرنا۔
تَرْسِیْخُ العلاقات: تعلقات کو مضبوط کرنا۔
رُسْغٌ ج: أَرْسَاغ و أَرْسُغ: کلائی۔
سَاعَةُ الرُّسْغِ: ہاتھ کی گھڑی۔
رَسَفَ ـُـ رَسْفاً ورَسِیْفاً: بندھے ہوئے پاؤں سے چلنا۔
رَسِلَ ـَـ رَسَلاً و اسْتَرْسَلَ الشَّعْرُ وغیرُہ: بالوں وغیرہ کا لٹکنا۔
رَاسَلَ وتَرَاسَلَ مَعَه: خط وکتابت کرنا۔
رَاسِلٌ: سینڈر، بھیجنے والا۔
أَرْسَلَ الشئی و بہ: بھیجنا۔
أَرْسَلَ النُّقُودَ: رقم بھیجنا۔
أَرْسَلَ فی طَلَبِہ: تلاش کرانا۔
تَرَسَّلَ: نرمی برتنا، آہستگی سے کام کرنا۔
اِسْتَرْسَلَ فی الکَلَامِ: کلام جاری رکھنا۔
رَسْلٌ: آسانی، نرمی۔
رَسْلٌ و مُسْتَرْسِلٌ: لٹکے ہوئے بال۔
رِسَالَةٌ ج: رَسَائِلُ: (۱) پمفلٹ (۲) کتابچہ (۳) مقالہ (۴) خط، لیٹر (۵) پیغام، میسج (۶) مشن، مہم (۷) پیغام خداوندی (۸) منصب پیغمبر ج: رِسالات
رِسَالَةُ اسْتِفْسَار: انکوائری لیٹر۔
رِسَالَةٌ تِجَارِیَّة: تجارتی خط۔
رِسَالَةُ تَفْوِیْضٍ: وکالت نامہ۔
رِسَالَةُ تَقْدِیْمٍ: تعارف نامہ۔
رِسَالَةُ تَوْصِیَة: سفارش نامہ۔

رِسَالَةٌ جَوِّیَّة: ایروگرام۔
رِسَالَةٌ خَاصَّة: پرائیویٹ خط۔
رِسَالَةٌ خَطِّیَّة: دستی خط یا دستی پیغام، تحریری پیغام۔
رِسَالَةُ الدُّکْتُوْرَاہ: تھیسز، وہ مقالہ جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ (۲) ڈیلیگیشن۔
رِسَالَةٌ دَوْرِیَّة: سرکلر، سرکلر لیٹر، گشتی مراسلہ۔
رِسَالَةٌ رَسْمِیَّة: سرکاری خط۔
الرِّسَالَةُ السَّیَّارَة: سرکلر۔
رِسَالَةٌ شَفَوِیَّة: زبانی پیغام۔
رِسَالَةٌ صَغِیْرَة: چٹ۔
رِسَالَةٌ عَاجِلَة: فوری پیغام۔
رِسَالَةُ المَاجِسْتِیر: ایم،اے کا مقالہ۔
رِسَالَةٌ مِنْ مَجْهُوْلٍ: گمنام خط، نامعلوم شخص کا پیغام۔
الرَّسَائِلُ المُبْرَدَة: میل، ڈاک۔
الرَّسَائِلُ الوَارِدَة: موصولہ خطوط۔
إِرْسَال: براڈ کاسٹنگ (۲) روانگی۔
إِرْسَالٌ إِلی الخَارِج: ایکسپورٹ کرنا۔
الإِرْسَالُ بِالبَرِیْد: روانگی بذریعہ ڈاک۔
إِرْسَالِیَّة ج: إِرْسَالِیَّات: مشن، ڈیلیگیشن، وفد۔
إِرْسَالِیَّات: روانہ کی جانے والی ڈاک۔
رَسُوْل: پیغام رساں، قاصد، ایلچی، داعی، محرک، سفیر، فرستادہ، ایمبیسڈر (۲) صاحب کتاب وصاحب شریعت نبی جو خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچائے ج: رُسُلٌ

رَسُوْلُ الحُرِيَّة: آزادی کا داعی۔
رَسُوْلُ سلام: پیغامبر امن۔
رَسُوْلٌ سِرِّيٌّ: خفیہ قاصد۔
مُرْسَلٌ: مشنری، وہ شخص جسے تبلیغ دین کے لیے بھیجا گیا ہو (۲) نبی
مُرْسَلٌ إليه: وصول کنندہ پانے والا۔
مُرْسِلُ الإشَارَاتِ بالرَّايَة: فلیگ مین۔
المُرْسَلُ الدِّينِيّ: مشنری۔
مُرَاسِلٌ (مُكَاتِب): نامہ نگار، خطوط نویس۔
مُرَاسِلٌ صَحَفِيّ: رپورٹر۔
مُرَاسِلٌ مُتَجَوِّل: گشتی نامہ نگار
مُرَاسَلَة: نامہ نگاری (۲) خط و کتابت
مُرَاسَلَةٌ غَيْرُ مُخَلَّصٍ عليها: بے ٹکٹ مراسلہ۔
المُرَاسلات الدِّبْلُومَاسِيَة: سفارتی خط و کتابت۔
مُرَاسلاتٌ صَادِرَة: روانہ شدہ خطوط، جانیوالے مراسلات۔
مُرَاسَلاتٌ وَارِدَة: آمدہ خطوط۔
رَسَمَ ـُـ رَسْماً: (۱) تصویر بنانا (۲) نقشہ بنانا، نقشہ کھینچنا (۳) وصف بیان کرنا (۴) ڈیزائن بنانا۔
رَسَمَ له بكذا: حکم دینا، فرمان جاری کرنا
اِرْتَسَامُ المَلامِح: اثرات نمایاں ہونا۔
رَسْمٌ: تصویر، فوٹو (۲) نقاشی، نقشہ (۳) نشان (۴) بیان احوال (۵) مروجہ طریقہ و عادت (۶) ڈیزائن ج: رُسُوم

رَسْمٌ مُجْمَلٌ: اسکیچ، تصویر یا ڈیزائن کا ابتدائی خاکہ۔
رَسْمٌ نَظَرِيٌّ: قلمی تصویر جو صرف دیکھ کر ہاتھ سے بنائی جائے۔
رَسْمٌ بالألْوَان: رنگین فوٹو، رنگ کاری۔
رَسْمٌ (۲) ج: رُسُوم: (۱) ٹیکس، محصول، فلیس، رائلٹی، چارج۔
رَسْم إضَافِيّ: سرچارج
رَسْمٌ إضَافِيٌّ على الوَارِد: امپورٹ سرچارج۔
رَسْمُ إنْتَاج: پیداواری ٹیکس۔
رَسْمُ إنْتَاجٍ عَلَى السِّلَعِ المَحَلِّيَّة: مقامی سامان پر ایکسائز ڈیوٹی۔
رَسْمٌ إنْتَاجِيّ: ایکسائز ڈیوٹی۔
رَسْمُ انْتِقَال: ٹرانسفر فیس۔
رَسْمُ الانْضِمَام: داخلہ فیس۔
رَسْمٌ بَيَانِيّ: چارٹ۔
رَسْمُ التَّأمِين: انشورنس فیس۔
رَسْمُ تَسْجِيل: رجسٹریشن فیس۔
رَسْمُ خَرِيطَة: چارٹ بنانا۔
رَسْمُ خِطَّة: اسکیم بنانا، پلان بنانا، منصوبہ بنانا۔
رَسْمُ الخِطَّةِ على ضوءِ كذا: کسی چیز کی روشنی میں پلان بنانا۔
رَسْمُ خِطَّةِ المُسْتَقْبَل: مستقبل کا منصوبہ بنانا۔
رَسْمُ الدُّخُول: داخلہ فیس، ایڈمیشن فیس۔
رَسْمُ دُخُولِ السُّفُنِ في المَرْفَأ: بندرگاہ میں جہازوں کے داخلہ کا ٹیکس۔

رَسْمُ دَمْغَة: اسٹامپ ٹیکس،ٹکٹ کی قیمت کم ہونے کا جرمانہ، اسٹامپ فیس۔
رَسْمُ السِّيَاسَة: پالیسی بنانا۔
رَسْمُ سِيَاسَةٍ حَكِيمَةٍ: دانشمندانہ پالیسی بنانا۔
رَسْمُ الصَّادِرِ: ایکسپورٹ ڈیوٹی۔
رَسْمُ صُوْرَةِ شيءٍ: تصویر پیش کرنا،نقشہ کھینچنا۔
رَسْمُ قَيْدٍ: رجسٹریشن فیس۔
رَسْمٌ مَالِيٌّ: فیس چارج۔
رَسْمِيٌّ: سرکاری، آفیشیل، قانونی، رواجی
رُسُومُ إِيْدَاعٍ: ڈپازٹ فیس۔
رُسُومٌ جُمْرُكِيَّة: کسٹم محصول، چنگی محصول۔
رُسُومٌ جُمْرُكِيَّةٌ إِضَافِيَّةٌ: زائد کسٹم ڈیوٹی۔
رُسُومٌ قَضَائِيَّة: عدالتی فیس۔
رُسُومُ المَحْكَمَة: کورٹ فیس۔
الرُّسُومُ المَدْرَسِيَّة: اسکول فیس
رُسُومُ المُرُوْرِ: ٹریفک محصول،ٹول ٹیکس، ٹرانزٹ محصول۔
رُسُومُ المُرُوْرِ فی القَنَاة: نہر پار کرنے کی چنگی۔
رُسُومُ المِينَاء: بندرگاہ ٹیکس، پورٹ محصول
قَلَمُ رَسْمٍ: ڈرائنگ پنسل، قلم نقاشی۔
وَرَقُ رَسْمٍ: (۱) ڈرائنگ پیپر (۲) باریک وشفاف کاغذ جس کے ذریعہ پھول اتارے جاتے ہیں۔
شِبْهُ رَسْمِيٍّ: نیم سرکاری۔
إِجْرَاءٌ رَسْمِيٌّ: باضابطہ کارروائی۔
رَسْمِيَّات: تکلفات، وہ اعمال غیر ضروریہ جو عام لوگ تقریبات میں ضروری سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔
مُتَمَسِّكٌ بالرَّسْمِيَّات: پابند رسوم۔
رَسْمِيًّا: سرکاری طور پر، اصولی طور پر۔
رَسَّام: نقشہ ساز، ڈیزائنر، فوٹو گرافر، انجینئری نقشے بنانیوالا، آرکٹیکٹ۔
مَرْسَمٌ: اسٹوڈیو، ڈیزائن روم، فوٹو لینے کی جگہ۔
مَرْسُومٌ ج: مَرَاسِيمُ: ڈیزائن یا نقشہ، یا سوچا سمجھا منصوبہ، مقرر، حکم، فرمان، سرکلر، فرمان حکومت، قانون۔
مَرْسُومٌ تَشْرِيعِيٌّ: قانون فرمان، آرڈیننس۔
مَرْسُومٌ مَلَكِيٌّ: شاہی فیصلہ، شاہی فرمان۔
مَرَاسِيمُ: مقررہ اصول، احکام
مَرَاسِيمُ أداءِ اليَمِيْنِ: رسم حلف برداری۔
مَرَاسِيمُ: رسوم، آداب۔
مَرَاسِيمُ تَسَلُّمِ أَوْرَاقِ الاِعْتِمَاد: سفارتی اسناد پیش کرنے کے آداب۔
المَرَاسِيمُ الدِّيْنِيَّة: مذہبی رسوم
مَرَاسِيمُ زِيَارَةِ المَرْقَد: مزار کی زیارت کے آداب۔
المَرَاسِي: بندرگاہیں و المَرْسَى
رَسَنُ الدَّابَّة ج: أَرْسَان: جانور کے گلے کی رسی، لگام۔
(رسو) رَسَا المَرْكَبُ ـ رُسُوًّا ورُسُوًّا: جہاز کا ٹھہرنا، لنگر انداز ہونا۔

رَسَا الشَّئُ: جمنا، مضبوطی سے قائم ہونا

أَرْسَى دَعَائِمَ الْبِنَاءِ: بنیادیں مضبوط کرنا۔

أَرْسَى القَاعِدَةَ: بنیاد رکھنا، مضبوط کرنا۔

أَرْسَى السَّفِينَةَ: کشتی کو ٹھہرانا، ساحل سے لگانا، لنگرانداز کرنا۔

أَرْسَى حَجَرَ الأَسَاسِ: سنگ بنیاد رکھنا۔

رَاسٍ: لنگرانداز، ثابت وقائم (۲) پہاڑ ج: رَوَاسٍ

الْمَرْسَى: بندرگاہ ج: مَرَاسٍ

مِرْسَاةُ الْمَرَاكِبِ: لنگر ج: مَرَاسٍ

ر............ش

رَشَحَ ـــ رَشْحاً و ارْتَشَحَ الْمَاءُ: پانی رسنا، بہنا، لیک کرنا، ٹپکنا۔

رَشَحَ الإِنَاءُ: برتن ٹپکنا۔

رَشَحَ الْجَسَدُ: بدن سے پسینہ بہنا۔

رَشَّحَ تَرْشِيحاً: کسی کام کے لائق بنانا، لائق قرار دینا۔

رَشَّحَ الرَّجُلَ لِمَنْصِبٍ: کسی کا نام کسی منصب کے لیے تجویز کرنا، کسی منصب کے لیے امیدوار نامزد کرنا، ٹکٹ دینا۔

رَشَّحَ الْعِنَايَةَ لِكَذَا: توجہ مرکوز کرنا۔

رَشَّحَ نَفْسَهُ فِي دَوَائِرَ انْتِخَابِيَّةٍ: خودکو انتخابی حلقوں کا امیدوار بنانا۔

رَشَّحَ الْمَاءَ: پانی ٹپکانا۔

تَرَشَّحَ: ٹپکنا، رسنا۔

تَرَشَّحَ لِكَذَا: کسی چیز کے لیے اہل اور لائق ہونا (۲) کسی منصب کے لیے نامزد امیدوار ہونا۔

رَشْحٌ: (۱) قطرہ (۲) پسینہ (۳) زکام۔

تَرْشِيحٌ لِمَنْصِبٍ: امیدواری، نامزدگی، امیدوار بنانا، کنڈیڈیٹ بنانا۔

مُرَشَّحٌ: نامزد امیدوار، کنڈیڈیٹ، مجوزہ۔

مُرَشَّحُ الْحِزْبِ: پارٹی کنڈیڈیٹ

الْمُرَشَّحُ لِمَنْصِبٍ: کنڈیڈیٹ۔

الْمُرَشَّحُ لِوَظِيفَةٍ: ملازمت کا امیدوار، کنڈیڈیٹ۔

رَاشِحٌ و مُرَشِّحُ الْمَاءِ: فلٹر، پانی وغیرہ صاف کرنے کا آلہ۔

رَشَدَ ـــ رَشَداً و رَشَاداً: راہ یاب ہونا، ہدایت پانا (۲) ہوش میں آنا (۳) بالغ ہونا، سن شعور کو پہنچنا۔

تَرْشِيدُ اسْتِخْدَامِ شَيْءٍ: کسی شے کے استعمال کی رہنمائی کرنا۔

إِرْشَادٌ: تعلیم دینا، طریقہ بتانا، رہنمائی کرنا، بتانا، مشورہ دینا (۲) راہنمائی، ہدایت، نصیحت۔

الإِرْشَادُ الْقَوْمِيُّ: قومی رہنمائی۔

إِرْشَادَاتٌ: تعلیمات وہدایات، مشورے

اسْتِرْشَادٌ: ہدایت چاہنا، طریقہ معلوم کرنا، مشورہ لینا، رہنمائی چاہنا۔

رُشْدٌ: عقل، ہوش۔

بَلَغَ رُشْدَهُ: بالغ ہونا۔

فَقَدَ رُشْدَهُ: بیہوش ہونا۔

رَشِيدٌ، رَاشِدٌ: (۱) بیدار، باہوش، عقلمند، ہدایت یافتہ، بالغ۔

مُرْشِدٌ: راہنما، معلم ومربی، پیر، گائڈ،

پائلٹ۔
اَلْمُرْشِدُ الْبَحْرِيّ: بحری رہنما، پائلٹ۔
مُرْشِدُ السُّفُن: جہازوں کا پائلٹ۔
رَشَّ الماءَ وغیرہ ـُـ رَشًّا: چھڑکنا۔
رَشَّ الأرْضَ بِالماءِ: زمین پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا۔
رَشَّ الأراضِيَ بِمُبِيدَاتِ الحَشَرَات: زمینوں پر کیڑے ماردوائیں چھڑکنا۔
رَشَّ الاَسْمِدَةَ الكِيْمِيَائِيَّةَ: کیمیاوی کھاد ڈالنا۔
رَشَّ الذَّرُوْرَ عَلٰى شَيْءٍ: پاؤڈر ملنا
رَشَّ الحَائِطَ بِالجِيْر: دیوار پر چونہ چھڑکنا، سفیدی کرنا۔
رَشَّ الرَّصَاصَ: گولیوں کی بارش کرنا۔
رَشَّتِ السَّمَاءُ: آسمان سے ترشح ہونا، پھوار پڑنا۔
رَشّ: چھڑکاؤ۔
عَرَبَةُ الرَّشِّ: چھڑکاؤ کی موٹر یا گاڑی۔
رَشَّةُ مَطَر: بارش کی بوچھاڑ، چھینٹ
الرَّشَّاش: مشین گن۔
رَشَّاشَة: آب پاش۔
رَشَّاشَةُ الرَّوَائِحِ العِطْرِيَّة: خوشبو وغیرہ چھڑکنے کی بوتل یا شیشی، گلاب پاش۔
رَشَفَ ـُـ رَشْفاً الإِنَاءَ: برتن کا پورا پانی پی جانا۔
رَشَفَ و ارْتَشَفَ الشَّرَابَ: چسکی لگانا، چسک چسک کرنا، گھونٹ گھونٹ کر کے پینا۔
رَشَقَ ـُـ رَشْقاً: تیر مارنا، پتھر مارنا۔
رَشَقَ بِلِسَانِهٖ: طعن و تشنیع کرنا۔
رَشُقَ ـُـ رَشَاقَةً: خوش قامت ہونا، پھرتیلا اور چابکدست ہونا، سجیلا ہونا، خوبصورت ہونا۔
رَشَاقَة: خوبصورتی، سجیلاپن، پھرتی، چابکدستی۔
رَشِيْق: خوش قامت، خوبصورت، سجیلا۔
رَشِيْقُ الحَرَكَة: پھرتیلا، چابکدست۔
رَشَمَ ـُـ رَشْماً: مہر لگانا۔
رَشَمَ ـَـ رَشْماً: کھانے کی بو سونگھنا۔
(رشو) رَشَاهُ ـُـ و أَرْشَاهُ: رشوت دینا۔
اِرْتَشَاء: رشوت لینا۔
مُرْتَشٍ: رشوت خور۔
رَشَاء: ڈول کی رسی۔

ر............ص

رَصَدَ تَرْصِيْداً: نگرانی کرنا، نگاہ رکھنا۔
رَصَدَ الحِسَابَاتِ: حسابات کا بیلنس رکھنا، نکالنا۔
رَصَدَ و تَرَصَّدَ لَهٗ: گھات میں بیٹھنا۔ انتظار میں رہنا، تاک میں لگنا۔
أَرْصَدَ لَهٗ شَيْئاً: تیار کرنا۔
رَصَدَ ـُـ رَصْداً و رَصَداً: جمع کرنا، نگاہ رکھنا۔
رَصْد: نگرانی، تاک۔
رَصْدُ الأَحْوَالِ الجَوِّيَّة: فضائی حالات کی تحقیق۔
رَصْدُ الطَّائِرَات: ہوائی جہازوں پر نگاہ رکھنا، نگرانی کرنا۔
أَرْصَادٌ جَوِّيَّة: موسمی تحقیقات۔
رَصِيْد ج: أَرْصِدَة: بینک بیلنس، باقی ماندہ

حساب، محفوظ سرمایہ، مالی فنڈ، اسٹاک، ذخیرہ، سرمایہ۔
رَصِیدُ الْحِسَابِ: بیلنس۔
رَصِیدُ دَائِنٍ: کریڈٹ بیلنس۔
رَصِیدُ الذَّهَبِ: محفوظ سونا۔
رَصِیدُ الصُّنْدُوق: کیش بیلنس۔
رَصِیدٌ مُسْتَحَقٌّ: واجب الادا بیلنس۔
الرَّصِیدُ المَطْلُوب: واجب الوصول بیلنس۔
أَرْصِدَةٌ مُجَمَّدَةٌ: منجمد سرمایہ۔
رَصِیدُ البَضَائِع: موجودہ سامان۔
مِرْصَاد: گھات۔
مِرْصَدٌ (مَرْقَبٌ): رصدگاہ
مَرْصُوْد: زیرنگرانی جس پر نظر رکھی جائے۔
رَصَّصَ الشَّیْئَ تَرْصِیصاً: کسی چیز پر سیسہ چڑھانا (۲) مضبوط بنانا۔
رَعَّصَ و رَصَّ ـ رَصّاً: پختہ جوڑنا، ملانا، ترتیب دینا۔
رَصَاص: سیسہ۔
رَصَاصَات: چھرّے، بندوق کی گولیاں
و: رَصَاصٌ۔
قَلَمُ الرَّصَاص: پنسل۔
إِطْلَاقُ الرَّصَاص: گولی چلانا۔
رَصَاصِیٌّ: سیسہ دار، سیسہ کا۔
رَصِیص، مَرْصُوْص: پختہ، مضبوط، جس کے اجزاء باہم پختہ جڑے ہوئے ہوں۔
رَصَّعَ تَرْصِیعاً: مرتب کرنا، جڑنا۔
رَصَّعَهُ بالجَوَاهِر: کسی چیز پر جواہرات جڑنا، جواہرات سے آراستہ کرنا۔

رَصَفَ الطَّرِیقَ ـُ رَصْفاً: راستہ کو پختہ کرنا، سڑک کو پختہ بنانا۔
رَصِفَ ـَ رَصَفاً: مرتب ہونا، دانتوں کا ہموار و مرتب ہونا۔
رَصَفٌ، رَصِیفٌ: پختہ راستہ۔
رَصَفُ و رَصِیفُ الشَّارِع: فٹ پاتھ، سڑک کے دائیں بائیں پیدل چلنے کا پختہ حصہ یا چبوترہ۔
رَصِیفُ المَحَطَّةِ: پلیٹ فارم ج: أَرْصِفَة
رَصِیفُ الرَّحِیل: ڈپارچر پلیٹ فارم، روانگی پلیٹ فارم۔
رَصِیفٌ فی مَحَطَّةِ السِّکَّةِ الحَدِیْدِیَّة: ریلوے پلیٹ فارم۔
رَصِیفٌ: (۲) مضبوط و پختہ (۲) اسکول کا ساتھی۔
رَصَافَة: مضبوطی، پختگی۔
رَصُنَ ـُ رَصَانَةً: سنجیدہ ہونا، مستقل مزاج ہونا، ثابت قدم ہونا۔
رَصَانَة: سنجیدگی، مستقل مزاجی، احتیاط
رَصِین: سنجیدہ، ثابت قدم محتاط۔

ر............ض

رُضَاب: لعاب۔
رَضَخَ ـَ رَضْخاً: (۱) گٹھلی وغیرہ توڑنا (۲) عاجزی کرنا (۳) مطیع ہونا۔
رَضَخَ لَهُ مِن مَالِهِ: اپنے کثیر مال میں سے تھوڑا دینا۔
رَضْخٌ، رَضِیْخَة: معمولی عطیہ۔
رُضُوخ: عاجزی، اطاعت، تسلیم۔
رَضْوَضَة: توڑنا، چورہ کرنا۔

رَضَّ ـُ رَضاً: کوٹنا، دلنا۔
رَضِعَ ـَ رَضعاً و رَضَعَ ـِ رَضعاً ورَضاعاً و رِضاعَةً: پستان سے دودھ پینا۔
اِرْضاع، تَرْضِيع: دودھ پلانا۔
رَضّاعَة: بچوں کو دودھ پلانے کی شیشی۔
رَضِيع ج: رُضَعاء: دودھ پیتا بچہ (۲) دودھ شریک بھائی۔
المُرْضِع: دودھ پلانے والی (ماں)
المُرْضِعُ و المُرْضِعَةُ: دودھ پلانے والی دایہ (۲) رضاعی ماں۔
رَضَفَ (ض): داغ دینا۔
رَضِيَ ـَ رِضيً و رِضاءً و رِضواناً و مَرْضاةً و ارْتَضَى الشئُ و به و فيه: رضامند ہونا، مان لینا، قبول کرنا، قناعت کرنا۔
رَضِيَ عَنه و عَلَيه: خوش ہونا، (ضد سَخِط):
رَاضَى و تَرَضَّى و اسْتَرضَى الرَّجُلَ: راضی کرنا، خوشنودی چاہنا، منانا، روٹھے کو منانا، بہلانا، خوش کرنا۔
اِرْضاءٌ: خوش کرنا، رضامند کرنا، ہموار کرنا، قانع بنانا، اپنا طرفدار بنالینا۔
اِرْضاءٌ بشئٍ: آمادہ کرنا۔
رِضً، رِضْوَان، مَرْضَاة: خوشنودی، پسندیدگی، رضامندی، قناعت۔
رَاضٍ: راضی، خوش، قانع۔
رَاضٍ بکذا: آمادہ۔
رَاضَ النَّفسَ له ـُ رِيَاضَةً: خود کو تیار کرنا۔
عِيشَةٌ رَاضِيَة: خوشگوار زندگی۔
مُرْضٍ: خوش کن، مسرت بخش، تشفی بخش۔

ر............ط

رَطَّبَ تَرْطِيباً: تر کرنا، بھوگنا، مرطوب بنانا، خشکی رفع کرنا، فرحت بخشنا۔
رَطِبَ ـَ و رَطُبَ ـُ رُطُوبَةً و رَطَابَةً: تر ہونا، خوشگوار ہونا، کھجور کا پکنا۔
رَطْبٌ، رَطِيبٌ: (۱) تر (ضد یابس) (۲) ٹھنڈا (۳) بھیگا ہوا۔
رُطُوبَة: تری (ضد جفاف و یبوسة)
مُرَطِّب: تر کرنے والا، مفرح، خوشگوار، مُسَکِّن خشکی رفع کرنے والا۔
مُرَطِّبات: فرحت بخش مشروبات۔
رِطْلٌ ج: أرْطال: ایک وزن مساوی ۴۰ تولہ، تقریباً آدھ سیر۔
رِطْلٌ انجلیزیٌ (حَوالَی ۴۵۳ غِراماً) پاؤنڈ۔
رَطَمَ المَرْكَبَ ـُ رَطْماً: جہاز کو کیچڑ میں دھنسانا۔
اِرْتِطام: کیچڑ میں دھنسنا، کیچڑ دار ہونا۔
رَطَنَ ـُ رِطَانَةً: اجنبی زبان میں بولنا۔

ر............ع

رَعَبَ ـَ رُعْباً: ڈرنا۔
رَعَّبَه و رَعَبَهُ و أرْعَبَه: ڈرانا، رعب بٹھانا، الارم دینا، خوف زدہ کرنا۔
اِرْتِعاب: ڈرنا، مرعوب ہونا۔
رُعْبٌ: ڈر، خوف۔

مُرْعِبٌ: خوفناک، بھیانک۔
رَعَدَ السَّحَابُ ـُـ رَعْداً و رُعُوداً: بادل گرجنا۔
رَعَدَ لَهُ: دھمکی دینا۔
إِرْعَاد: خوف دلانا، دھمکی دینا، لرزانا۔
اِرْتِعَاد: لرزنا، کانپنا۔
اِرْتِعَادُ الصَّوْتِ: آواز تھرتھرانا
رَعْدٌ: گرج، گرجدار آواز۔
رِعْدَة: کپکپی، لرزہ۔
رَعْرَعٌ، رَعْرَاع: مضبوط نوجوان۔
تَرَعْرُعٌ: جوان ہونا، نشوونما پانا۔
رَعِشَ ـَـ رَعْشاً و ارْتَعَش: کانپنا، لرزنا۔
رَعْشٌ، ارْتِعَاش: کپکپی، لرزہ۔
ارْتِعَاشُ الابْتِسَامَة على الشَّفَة: لبوں پر مسکراہٹ آنا۔
ارْتِعَاش شَيْخُوخِيّ: رعشہ، پیری۔
رَعْشَة: کپکپاہٹ۔
رَعْشَةُ الحُمّٰى: بخار کا لرزہ۔
رَعَصَ ـَـ رَعْصاً و أَرْعَصَ: حرکت دینا۔
تَرَعُّص و ارْتِعَاص: کھال کا حرکت کرنا (۲) پیچ وتاب کھانا۔
رَعَفَ أَنْفُهُ ـُـ رَعْفاً و رُعَافاً: نکسیر جاری ہونا۔
رُعَاف: نکسیر۔
مَرْعُوف: نکسیر کا مریض۔
رُعْلَةُ زُهُور: پھولوں کا بنایا ہوا تاج ج: رُعَلٌ
الرَّعِيلُ الأَوَّل: پہلی جماعت۔
رَعِيلٌ مِنَ الخَيْل: گھوڑوں کی جماعت
رَعَمَ ـَـ رَعْماً: نگرانی کرنا۔
رُعَامٌ: گھوڑوں کی ایک بیماری (۲) ناک کی ریزش۔
رَعُنَ ـُـ رُعُونَةً: ناسمجھ ہونا، اوچھا ہونا۔
رُعُونَة: اوچھاپن، ناسمجھی۔
(رعو) رَعَا ـُـ رَعْواً و ارْعَوٰى عن جَهْلٍ: جہالت سے باز رکھنا، باز رہنا، برائی سے باز رہنا۔
رَعَى ـَـ رَعْياً و ارْتَعَى: گھاس چرنا۔
رَعَى الغَنَمَ وغَيْرَه: چرانا۔
رَعَى الشَّئَ: نگرانی کرنا، حفاظت کرنا۔
رَعَى و رَاعَى: لحاظ کرنا، خیال رکھنا، رعایت کرنا۔
رَاعَى كذا: ملحوظ رکھنا۔
رَاعَى الرَّجُلَ: پاس خاطر کرنا، توجہ دینا، خیال رکھنا، لحاظ کرنا۔
مُرَاعَاةُ السِّرِّيَّةِ التَّامَّةِ: مکمل راز داری برتنا۔
مُرَاعَاةُ الخَاطِرِ: پاس خاطر رکھنا، لحاظ کرنا (۲) دلداری۔
مُرَاعَاةُ الوَاجِبَات: فرض شناسی
اسْتَرْعَى الاِلْتِفَاتَ: توجہ مبذول کرلینا، باعث التفات ہونا۔
رِعَايَة: فیور، حمایت، تائید، سرپرستی، سایہ، نگرانی، کسٹڈی، حفاظت، لحاظ، توجہ۔
الرِّعَايَةُ الاجْتِمَاعِيَة: سوشل ویلفیئر، معاشرتی تحفظ حقوق۔
رِعَايَةُ الحَفْل: جلسہ کی سربراہی، صدارت۔
رِعَايَةٌ صِحِّيَّة: حفظان صحت۔
رِعَايَةٌ طِبِّيَّة: علاجی دیکھ بھال۔
رِعَايَةُ المَشْرُوع: منصوبہ پر توجہ دینا۔

رِعَایَةُ الـمَـصَالِح: مفادات کی نگرانی، مفادات کی حفاظت۔
تَحتَ رِعَایَةٍ: زیرِ نگرانی، زیرِ اہتمام۔
رَعَوِیَّة: نیشنلٹی، ملکی حقوق۔
رَعِیَّة ج: رَعَایَا: محکوم لوگ، ماتحت جماعت، رعیت۔
الرَّعَایَا الأَجَانِبُ: غیر ملکی رعایا۔
مَرعًی ج: مَرَاعٍ: چراگاہ۔
مَرَاعِي المَوَاعِیدُ: پابندِ اوقات۔

ر............غ

رَغِبَ ـَ رَغبَةً و رَغَباً: خواہش کرنا، آمادہ ہونا، شوق وخواہش کرنا۔
رَغِبَ عَنهُ: نفرت کرنا، اعراض کرنا، بے توجہی اختیار کرنا۔
رَغِبَ به عَنْ غَیرِہٖ: ترجیح دینا۔
رَغِبَ إلَیهِ: مشتاق ہونا، مائل ہونا۔
رَغَّبَ تَرغِیباً و أَرغَبَ: شوق دلانا، آمادہ کرنا۔
رَغبَة ج: رَغَبَات: خواہش، شوق۔
رَغبَةٌ جَامِحَة: زبردست خواہش۔
رَغِیبَة ج: رَغَائِبُ: آرزو، مرغوب چیز
رَغَثَ الوَلَدُ أُمَّهُ ـَ رَغثاً: ماں کا دودھ پینا۔
رَغُوث: دودھ پیتا بچہ (۲) دایہ۔
رَغِدَ العَیشُ ـُ رَغداً و رَغَادَةً: آسودہ ہونا، زندگی فراخ ہونا۔
رَغَدٌ، رَغِید: فراخ وکشادہ (زندگی)
رَغَدٌ و رَغَادَة: آسودہ حالی۔
رَغَدٌ فی العَیش: آسودگی۔

رَغرَغَة: آلودگی وخوشحالی میں مست ہونا۔
رَغَفَ العَجِینَ ـَ رَغفاً: آٹے کی ٹکیہ بنانا، پیڑا بنانا، روٹی بنانا۔
رَغِیف ج: أَرغِفَة: روٹی، چپاتی۔
رَغِمَ ـُ رَغماً و رَغماً لِلّٰه أنفُهُ: عاجز ودرماندہ بننا اظہار ذلت کرنا، فروتنی کرنا۔
رَغِمَهُ ـَ رَغماً: نفرت کرنا، ناپسند کرنا۔
تَرغِیم وإرغَام: ذلیل کرنا، ناک کو خاک آلود کرنا۔
رَغم، إرغَامٌ: ذلت، مجبوری۔
إرغَامٌ بِالدَّفع: ادائیگی پر مجبور کرنا۔
إرغَامٌ عَلَی: مجبور کرنا۔
عَلَی الرَّغم مِنْ، رَغماً مِنْ: ناپسندیدگی وناگواری کے باوجود۔
رُغَام: ناک کی ریزش۔
رَغَام: مٹی۔
(رغو) رَغَا الشَّیُٔ ـُ رَغواً و رَغًی و أَرغَی: جھاگ آنا، جھاگ دار ہونا۔
أَرغَی غَضَباً: غصہ سے جھاگ نکلنا۔
إرغَاء: منہ سے جھاگ آنا، پیچ وتاب کھانا۔
رَغوَة، رُغَاوَة: جھاگ ج: رُغًی و رَغَاوَی
رَغوَةُ الصَّابُون: صابن کا جھاگ۔
رَغوَةُ الطَّبِیخ: پکی ہوئی چیز کا جھاگ۔

ر............ف

رَفَأَ ـَ رَفئاً و رِفَاءً: رفو کرنا، مرمت کرنا۔
رَفَأَ السَّفِینَةَ: کشتی کو کنارہ سے لگانا۔
رَفَّأَ تَرفِئَةً: شادی کی مبارکباد دینا۔
رِفَاء: اتفاق ویگانگت۔

مَرْفَأ ج: مَرَافِئُ: پورٹ، بندرگاہ، جہازوں کے لنگر انداز ہونے کی جگہ۔
رَفَتَ ـُ رَفتاً: توڑنا، چورہ کرنا۔
رُفَات: مردہ کا جثہ، بوسیدہ چیز، چورہ، ریزہ ریزہ شدہ۔
رَفَد ـِ رَفداً و رِفَادَةً و أرْفَدَ: مضبوط کرنا، استحکام عطا کرنا۔
رِفْدٌ: سہارا، ٹیک، مدد، عطیہ۔
رَافِدج: رَوَافِدُ: معاون، مدد
رِفَادَة: زخم کی پٹی۔
رَفْرَفَ الطَّائِرُ: پرندہ کا پروں کو ہلانا۔
رَفْرَفَ العَلَمُ: پرچم لہرانا۔
رَفْرَفَ العَيْنَ: آنکھ پر پٹی باندھنا۔
رَفْرَفُ العَجَلَة: (فی السَّيَّارَة لو الدَّرَّاجة): مڈگارڈ۔
تَرَفْرَفَ: لہلہانا، ہلنا۔
رَفَسَ ـُ رَفساً و رِفَاساً و رُفُوساً: لات مارنا، سینہ پر لات مارنا۔
رَفَسَ السِّلاحُ النَّارِيُّ: آتشیں ہتھیار مارنا۔
رَفْسَةٌ: ایک لات۔
رَفَّاس: دخانی کشتی۔
رَفْش: بیلچہ، نان بائی کا بیلچہ، تنویر کریدنی۔
رَفَضَ ـُ رَفضاً: نامنظور کرنا، رد کرنا، ٹھکرانا، ریجکٹ کرنا، نظرانداز کرنا، (ضد قبلَ)
رَفَضَ الدَّعوى القَضَائِيَّةَ: مقدمہ خارج کرنا۔
رَفَضَ حَوَالَةً مَالِيَّةً: منی آرڈر واپس کرنا۔
إرْفَضَاض: (۱) لوگوں کی روانگی مجلس کی برخاستگی، (۲) ازالہ (۳) آنکھ سے آنسو ڈھلکنا۔

رَفْض: نامنظوری، انکار، رد۔
رَفْضُ الاسْتِسْلام: ہار نہ ماننا۔
رَفْضُ الاعْتِرَاف: عدم تسلیم۔
رَفْضُ الاعْتِرَافِ بِحُقُوقِ الشَّعْب: عوام کے حقوق کو تسلیم نہ کرنا۔
رَفْضُ الانْدِمَاج: انضمام سے انکار۔
رَفْضُ الإنْذَار: دھمکی کو نظرانداز کرنا۔
رَفْضُ الإيْضَاحَات: تفصیلات سے انکار۔
رَفْضُ التَّسْلِيم: حوالگی سے انکار۔
رَفْضُ التَّعْلِيق على: تبصرہ سے اکار۔
رَفْضُ زِيَادَةِ المُسَاعَدَاتِ الكذا: امداد میں اضافہ سے انکار۔
رَفْضُ السَّمَاحِ بالتَّقَيُّدِ بكذا: کسی چیز کا پابند ہونے سے انکار۔
رَفْضُ القُبُول: منظوری سے انکار۔
رَفْضُ القرار: تجویز نامنظور کرنا، فیصلہ ماننے سے انکار کرنا۔
الرَّفْضُ الكُلِّيّ: بالکلیہ انکار۔
رَفْضُ المَجْلِس القَرَارَ: مجلس کا تجویز کو نامنظور کرنا۔
رَفْضُ المُفَاوَضَاتِ المُبَاشِرَة: براہ راست بات چیت سے انکار۔
رَفْضُ المُقْتَرحَات: تجاویز نامنظور کرنا۔
رَفْضٌ وَاضِحٌ: صریح انکار۔
تَرَفَّضَ: متعصب ہونا، تعصب۔
رَفِيض مَرْفُوض: نامنظور۔
رَفَعَ ـَ رَفعاً: اٹھانا (ضد وَضَعَ) (۲) بلند کرنا (۳) قائم کرنا (۴) زائل کرنا، ہٹانا، ختم کرنا۔

رَفعَهُ إلى كذا: ترقی دینا۔
رَفَعَ عَنه: تخفیف کرنا۔
رَفْعُ الاُجُور: اجرتوں میں اضافہ۔
رَفْعُ احتِجَاجِ ضِدّ......: احتجاج کرنا۔
رَفْعُ استِقَالَةٍ إلَى: استعفا پیش کرنا
رَفْـعُ الأمْرِ إلَـى: کسی کے پاس معاملہ لے جانا، اپیل کرنا۔
رَفْعُ الأيْدِي لِأخْذِ الأصْوَات: رائے شماری کے لیے ہاتھ اٹھانا۔
رَفْعُ الثَّمَنِ فِـى المَزَاد: نیلامی میں دام بڑھانا۔
رَفْـعُ الجَلْسَةِ:(فى المَحْكَمَة) اجلاس برخاست کرنا۔
رَفْعُ الحَجزِ عَنْ كَذَا: پابندی اٹھانا۔
رَفْـعُ الحِرَاسَةِ عَنْ: پہرہ اٹھانا، نگرانی ختم کرنا۔
رَفْعُ الحَظْر: پابندی ختم کرنا، پابندی ہٹانا
رَفْعُ دَعْوىٰ: کیس دائر کرنا۔
رَفْعُ الرُّوحِ المَعْنَوِيّة: حوصلہ بلند کرنا۔
رَفْعُ السِّتَارَ عَنْ: نقاب کشائی۔
رَفْعُ السِّعْرِ: بھاؤ بڑھانا۔
رَفْعُ السَّمَّاعَة: ٹیلیفون ریسیور اٹھانا۔
رَفْعُ الشَّعْبِيَّة إلى القِمَّة: عوامی مقبولیت انتہا کو پہنچانا۔
رَفْعُ الشئى إلى مُستوىً أعْلَى: اعلیٰ معیار پر لے جانا۔
رَفْعُ الصَّوْتِ ضِدَّ أحَدٍ: کسی کے خلاف آواز اٹھانا۔
رَفْعُ الظُّلْمِ عَنِ النَّاس: لوگوں سے مظالم کو دور کرنا۔
رَفْعُ العَقِيرَةِ ضِدَّ فُلان: آواز اٹھانا۔
رَفْعُ العَلَم: پرچم کشائی کرنا، پرچم لہرانا۔
رَفْعُ الغِطَاءِ: انکشاف کرنا۔
رَفْعُ الشئِي عَنْ اَحدٍ: ازالہ کرنا۔
رَفْـعُ الـقَـضِيَّةِ عَـلَـى: مقدمہ کرنا، کیس دائر کرنا۔
رَفْـعُ الـقَـضِيَّة والـدَّعْـوَة إلى: اپیل کرنا، مقدمہ دائر کرنا۔
رَفْـعُ الـلِّثَامِ عَنِ الوَجْـه: آنچل ہٹانا، پردہ فاش کرنا، راز کھولنا۔
رَفْعُ المُسْتَوىٰ: معیار اونچا کرنا، بڑھانا۔
رَفْـعُ الـمُسْتَوىٰ المَعَاشِيّ: معیار معیشت بلند کرنا۔
رَفْعُ المُعَوِّقَاتِ: رکاوٹیں ختم کرنا۔
تَـرَفَّـعَ عَـنْ كَذَا: برتری ظاہر کرنا، تکبر کرنا۔
تَرَافَعَ الخَصْمَانِ إلى الحَاكِم: حاکم کے پاس فریقین کا مقدمہ لے جانا۔
تَرَافَعَ المُحَامِىُ أمَامَ المَحْكَمَةِ عن أحَـدٍ: وکیل کا عدالت میں مقدمے کی پیروی کرنا۔
ارْتِـفَـاع: (۱) بلند ہونا، چڑھنا (۲) زائل ہونا (۳) زیادہ ہونا، اضافہ ہونا، بڑھنا (۴) بلندی۔
اِرْتِـفَـاعُ الاُجُـور: کرائے بڑھنا، مزدوریاں بڑھنا۔
ارْتِفَاعُ الأسْعَار: قیمتیں بڑھنا۔
اِرْتِفَاعٌ جُنُونِيٌّ لِلأسْعَار: نرخوں میں

ہوش ربا اضافہ، ہوس ربا گرانی۔
اِرْتِفَاعُ الرُّوْحِ المَعْنَوِيَّة: حوصلہ بلند ہونا۔
اِرْتِفَاعٌ فی الثَّمن: قیمت میں اضافہ۔
اِرْتفاعٌ مَلْحُوظ: نمایاں اضافہ۔
رَفْعٌ: بلندی، ازالہ، منسوخی۔
رَفْعُ المَال: خاتمہ ٹیکس۔
رِفْعَةٌ: بلندی۔
رِفْعَةُ سُلْطَان: بلندیِ اقتدار۔
رِفْعَةُ مَقَام: بلندیِ مرتبہ۔
رَفِيْعٌ: عالی مقام، بلند مرتبہ، بلند۔
رَفِيْعُ القَدْر: بلند حیثیت۔
الرَّفِيْعُ والوَضِيْعُ: شریف ورذیل، اعلیٰ و ادنیٰ، بلندو پست۔
رَافِعَة: اٹھانے کا آلہ، کرین جرثقیل۔
رِافِعَةٌ: بلند، ہائی، گراں۔
مُرْتَفِعُ الثَّمَن: گراں قیمت۔
مُرْتَفِعَاتُ جَوْلَان: گولان کی پہاڑیاں۔
الدَّعْوَى المَرْفُوْعَة: پیش شدہ مقدمہ۔
(رف) رَفَّ القَلْبُ ـَـ رَفّاً: دل نرم ہونا، مہربان ہونا۔
رَفَّ الجَنِيْنُ: پیٹ میں بچہ کا ہلنا۔
رَفَّتِ العَيْنُ: آنکھ پھڑکنا۔
أَرَفَّ الطَّائِرُ و الرَّايَةُ: پرندہ کا پھڑ پھڑانا، پرچم کا لہلہانا، ہلنا۔
رَف ج: رُفُوْف: دیواری تختہ جس پر سامان رکھتے ہیں۔

رَفَقَ ـُـ رَفْقاً و أَرْفَقَ: نفع پہنچانا۔
رَفُقَ به وله و عليه ـُـ رِفْقاً و تَرَفَّقَ: نرمی برتنا، مہربانی کرنا، رحم کرنا۔
أَرْفَقَ الشَّئَ بكَذا: نتھی کرنا، منسلک کرنا، ملانا، شامل کرنا۔
رَافَقَهُ مُرَافَقَةً: ساتھ دینا، ساتھ رہنا (۲) ساتھ چلنا۔
اِرْتَفَقَ به: فائدہ اٹھانا۔
رِفْق: نرمی، مہربانی، رحم، آہستگی۔
رُفْقَة: صحبت، ساتھ، معیت (۲) ساتھیوں کی جماعت۔
رَفِيْق: کامریڈ، پارٹنر، ساتھی، دوست، ہم سفر، ہم پیشہ، معشوق ج: رِفَاق و رُفَقَاء۔
رَفِيْقَة ج: رَفِيْقَات: شریک کار، ساتھن (۲) محبوبہ، معشوقہ۔
مِرْفَق، مَرْفِق ج: مَرَافِق: کہنی۔
مَرَافِقُ الحَيَاة: ضروریاتِ زندگی، شعبہ ہائے زندگی۔
مَرَافِقُ الخَدَمَاتِ بالمَنَازِل: مکانات سے ملحقہ ضروری عمارتیں، جیسے حمام وغیرہ۔
مَرَافِقُ عَامَّة: عوامی ضروریات، یا عمارتیں جو زندگی کے لیے ناگزیر ہوں۔
مَرَافِقُ المَنْزِل: ضروریاتِ خانہ۔
مُرْفَقٌ بكَذا: ہم رشتہ، منسلک، نتھی
مُرْفَقٌ بالخِطَاب: خط کے ساتھ منسلک، خط کے ساتھ ملحق۔
مُرْفَقٌ لكَذا: نتھی۔
مِرْفَقَةُ المَكْتَب: بلاٹنگ پیڈ، جس پر کاغذات رکھ کر لکھتے ہیں۔

مُرتَفَق: (۱) سہارا (۲) بیت الخلا (۳) آرام کرنے کی جگہ۔
مُرتَفِق: حق انتفاع رکھنے والا۔
رَفَلَ ــُ رَفلاً و رُفُولاً و رَفَلاناً: دامن گھسیٹتے ہوئے ناز وانداز سے چلنا۔
تَرَفَّلَ: اترا کر چلنا، اکڑ کر چلنا۔
رِفلُ الثَّوب: دامن ج: أرفَال و رُفُول رَفَهَ ــَ رَفهاً و رُفُوهاً و تَرفُّهَ: خوشحال ہونا، آسودہ حال ہونا۔
رَفُهَ العَیشُ ــُ رَفَاهَةً و رَفَاهِیَةً: زندگی کا فراخ وآسودہ ہونا۔
رَفَّهَ تَرفِیهاً: خوشحال بنانا، آسودگی کا عادی بنانا، فارغ البال بنانا۔
رَفَّهَ عَن نَفسِه: بارِ خاطر ہلکا کرنا۔
رَفَاهٌ، رَفَاهَةٌ، رَفَاهِیَةٌ: خوشحالی، آسودگی، فارغ البالی۔

ر..........ق

رَقَأَ ــَ رَقناً و رُقُوءاً: خون یا آنسوؤں کا بند ہونا، منقطع ہونا، تھمنا، خشک ہونا۔
أرقَأَ الدَّمعَ أو الدَّمَ: خون یا آنسو بند کرنا، خشک کرنا۔
الرَّقُوءُ: خون بند کرنے والی چیز۔
رَقَبَ ــُ رَقَابَةً و رَقباً و رُقُوباً: (۱) دیکھنا، تاکنا، انتظار میں رہنا، ستاروں وغیرہ کو دیکھنا (۲) نگرانی کرنا، نظر رکھنا (۳) ڈرنا۔
رَاقَبَ مُرَاقَبَةً: (۱) حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا۔
رَاقَبَ اللّٰهَ: اللہ سے ڈرنا۔
رَاقَبَ و تَرَقَّبَ: منتظر رہنا (۲) تاک میں رہنا، گھات میں لگنا۔
رَقَبَة ج: رِقَاب و رَقَبٌ: گردن۔
غَلِیظُ الرَّقَبَة: موٹی گردن والا۔
رِبَاطُ الرَّقَبَة: ٹائی۔
رِقَابَة: نگرانی، کنٹرول، سنسر شپ، سپرویژن۔
رِقَابَةٌ حُکُومِیَّة: اسٹیٹ کنٹرول، سرکاری نگرانی۔
رِقَابَةٌ صَارِمَة: زبردست نگرانی۔
رِقَابَةٌ علی الصُّحُف: اخبارات پر سنسر۔
رِقَابَةٌ علی الصَّرف: خرچ کی نگرانی۔
رِقَابَةٌ مُحَاسَبِیَّة: حسابی نگرانی۔
رِقَابَةٌ مُخبِرِیَّة: تحقیقی نگرانی۔
رِقَابَةُ المَطبُوعَات: سنسر، خطوط اور دیگر مطبوعہ اشیاء کی چھان بین۔
الرِّقَابَةُ القَضَائِیَّة: عدالتی نگرانی۔
رُقُوب و تَرَقُّب: انتظار۔
رَقِیب ج: رُقَبَاء: محافظ، پہریدار، نگران، منتظر، تاک میں رہنے والا۔
مُرَاقَبَة: سپروائزری، کنٹرولنگ۔
المُرَاقَبَةُ الإدَارِیَة: انتظامی کنٹرول۔
مُرَاقَبَةُ تِلِیفُونِیَّة: ٹیلیفون سنسر۔
المُرَاقَبَةُ الثُّنَائِیَّة: ڈبل نگرانی، دوہری نگرانی، ڈبل کنٹرول۔
المُرَاقَبَةُ الجُمرُکِیَّة: کسٹم کنٹرول۔
مُرَاقَبَةُ الحُضُور: حاضری کی نگرانی۔
مُرَاقَبَةُ الحُکُومة: گورنمنٹ کنٹرول، سرکاری کنٹرول۔
المُرَاقَبَةُ الدَّاخِلِیَّة: اندرونی کنٹرول۔

مُـراقَبةُ دَقِیـقَة: کڑی نگرانی، سخت کنٹرول۔
مُـراقَبةُ الـصَّـادِرَات: ایکسپورٹ کنٹرول۔
مُراقَبةُ قَضِیَّةٍ وغَیرِها: کیس دیکھنا۔
مُراقَبةُ مَطبُوعَاتٍ: سنسرشپ۔
مُراقَبةُ المِیزَانِیَة: بجٹ پر نظر رکھنا۔
مُراقَبةُ النَّقد: ایکسچینج کنٹرول۔
الـمُـراقِـب: اورسیر، مشاہد، اتالیق، کنٹرولر، سپروائزر، نگراں، مبصر، سپرنٹنڈنٹ، انسپکٹر۔
مُراقِب الحِسَابَات: آڈیٹر حسابات
مُراقِبٌ سِیَاسِیّ: سیاسی مبصر۔
مُراقِبٌ عامّ: آڈیٹر جنرل۔
الـمُراقِبُ العَسکَرِیّ: فوجی مشاہد، مبصر۔
مُراقِبُ مَطبُوعَاتٍ: سنسر، سنسر کرنے والا۔
مُراقِبُو الاُمَم: بین الاقوامی مبصرین۔
المُراقِبُون: مشاہدین، مبصرین۔
الـمُـرَاقِبُونَ الدُّوَلِیُّون: بین الاقوامی مبصرین، مشاہدین۔
مَـرْقَب ج: مَـرَاقِبُ: (۱) رصدگاہ (۲) انتظارگاہ، تعاقب کی جگہ۔
مَـرْقَبٌ فَـلَـکِیّ: تلسکوپ، رصدگاہ کی دوربین۔
مُرتَقَب: متوقع۔
رَقَـدَ ـــ رُقُوداً و رُقَاداً: (۱) سونا (۲) مرنا (۳) لیٹنا، آرام کرنا۔

رَقَدَ الحَرُّ أو الرِّیحُ: گرمی یا ہوا کا بند ہونا۔
رَقَدَتِ السُّوقُ: بازار مندا ہونا، بند ہونا۔
رَقَـدَتِ الـدَّجَـاجَةُ عـلـی بَیضِهَا: مرغی کا انڈے سینا۔
إرْقَادٌ و تَرْقِید: سلانا، لٹانا۔
إرْقَـادُ و تَـرْقِـیدُ الـدَّجَـاجَةِ عَلَی الْبَیض: مرغی کو انڈوں پر بٹھانا۔
رُقَاد، رُقُودٌ: نیند، موت، آرام۔
رَاقِدٌ: سویا ہوا، لیٹا ہوا، مردہ۔
مَـرْقَدٌ ج: مَرَاقِد: بستر، خوابگاہ، آخری آرام گاہ، مزار، قبر۔
مُرقِدٌ: نیند لانے والی دوا۔
رَقْرَق: شراب میں پانی ملانا۔
تَرَقْرَقَتِ العَینُ: آنکھ میں آنسو بھر آنا۔
تَرَقْرُق: ستارے یا سراب کا چمکنا۔
تَـرَقْـرُقُ الـدُّمُـوعِ فِـی الـعَـیْنَینِ مِنْ شِـدَّةِ الْاِنْـفِـعَـال: غایت تاثر سے آنکھوں میں آنسو بھر آنا۔
رَقَـشَ ـــ رَقْشاً و رَقَّشَ تَرْقِیشاً: نقاشی کرنا، مزین کرنا، سجانا۔
أرْقَشُ: چتی دار، چتکبرا۔
رَقَصَ ـــ رَقْصاً: ناچنا۔
تَرْقِیص، إرْقَاص: نچانا۔
رَاقِص: ڈانسر۔
رَاقِصَة: ڈانسر (عورت) رقاصہ۔
رَاقَـصَـه مُراقَصَةً: ڈانس کرنا، کسی کے ساتھ ناچنا۔
رَقْصٌ: ڈانس، ناچ۔
رَقْصَةٌ (فَنُّ الرَّقص): ڈانس، ڈانس کا ایک

حصہ، ناچ کی کوئی قسم۔
رَقَّاصَة: ڈانس کرنے والی۔
رَقَّاصُ السَّاعَة: گھڑی کا پنڈولم۔
رَقَّاصُ السَّاعَةِ الصَّغِيْرَة: بیلنس ویل
مَرْقَص: ناچ گھر، ڈانسنگ ہال۔
رَقَّطَ تَرْقِيْطاً: نقطے یا چتیاں ڈالنا، روشنائی کے نشان ڈالنا۔
رَقِطَ ـَـ رَقَطاً: چتی دار ہونا، روشنائی یا رنگ کے چھینٹے پڑنا۔
اَرْقَطُ: چھینٹے دار، چتی دار۔
رَقَعَ ـَ رَقْعاً و رُقْعَةً و رَقَّعَ: پیوند لگانا، کپڑے کی گٹھائی کرنا (۲) مارنا۔
رَقُعَ الرَّجُلُ ـُ رَقَاعَةً: بیہودہ اور بے وقوف ہونا، بے حیا ہونا۔
رَقِيْعٌ ج: رُقَعَاءُ: بے وقوف، بے حیا۔
رُقْعَة ج: رُقَعٌ و رِقَاعٌ: پیوند، کپڑے کا ٹکڑا، (۲) قطعہ زمین وغیرہ، ایریا۔
رُقْعَةُ الاَرْضِ: مساحت، کمپاؤنڈ۔
رُقْعَةُ السُّلْطَان: دائرہ اقتدار۔
رُقْعَةُ العُنْوَان: لیبل، چٹ۔
خَطُّ الرُّقْعَة: عربی کا ایک خاص رسم الخط جو عام تحریروں میں استعمال ہوتا ہے۔
رَقَاعَة: بے حیائی، بے وقوفی۔
مُرَقِّعَة: اسٹینسل۔
رَقَّقَ و اَرَقَّ: پتلا کرنا، باریک کرنا۔
رَقَّ ـــ رِقّاً و رِقَّةً: (۱) باریک ہونا (ضد: غَلُظَ) (۲) پتلا ہونا (ضد: ثَخُنَ)
رَقَّ لَه: رحم کرنا، دل نرم ہونا، رحم آنا، ترس آنا۔
رَقَّ و تَرَقَّقَ لَهُ: شفقت کرنا، مہربانی کرنا۔

اِسْتِرْقَاق: غلام بنانا (۲) غلامی
رِقّ: غلامی۔
رِقُّ التَّصْوِيْرِ الشَّمْسِيِّ: فوٹو کی فلم۔
اِلْغاءُ الرِّقِّ: خاتمہ غلامی۔
رِقَّة: پتلا پن، باریکی، نزاکت، لطافت۔
رِقَّةُ الاَوْضَاع: حالات کی نزاکت۔
__ الجِسْم: دبلا پن۔
__ الطَّبْع: شرافت طبع۔
__ الجَانِب: نرم مزاجی، تواضع وانکساری
__ القَلْب: رحم دلی۔
رُقَاق: پتلی روٹی، پتلا گندھا ہوا آٹا۔
رَقِيْـــق، رَقّ: (۱) پتلا، باریک (۲) غلام ج: اَرِقَّاء و رُقُوْق
رَقِيْقُ الجَانِب: متواضع۔
__ الجِسْم: دبلا، کمزور جسم۔
__ الحَال: خستہ حال، غریب۔
__ القَلْب: رحم دل۔
رَقِيْقَة ج: رَقَائِق: پتلی پلیٹ (۲) چھلکا۔
مِرْقَاقُ العَجِيْن:
مَرْقُوْق: (وا) بقلاوة: پیسٹری۔
رَقَمَ ـُ رَقْماً: لکھنا۔
رَقَمَ و رَقَّمَ الحِصَانَ: داغ دینا۔
رَقَمَ و رَقَّمَ الشَّيْئَ (نَمَّ): نمبر ڈالنا۔
رَقْمٌ ج. اَرْقَامٌ: نمبر، عدد، ریکارڈ۔
رَقْمُ الاستدلال: حوالہ نمبر، ریفرنس نمبر۔
رَقْمُ الاِشَارِيّ: ریفرنس نمبر، حوالہ نمبر۔
رَقْمُ مُتَسَلْسِل: سیریل نمبر، سلسلہ نمبر۔
الرَّقْمُ القِيَاسِيّ: ریکارڈ۔
رَقْمُ الكُود: کوڈ نمبر۔

الارْقَامُ القِیَاسِیَة: انڈکس نمبرات، ریکارڈ۔
اَرْقَامٌ مُسَلْسَلة: سیریل نمبر، سلسلہ نمبر۔
رَقِیْمٌ: لکھی ہوئی چیز، نوشتہ، رسالہ
مِرْقَمٌ: نمبرنگ مشین۔
رَقِیَ ـَـ رُقِیاً و رَقْیاً، ورُقِیَةً و اِرْتَقَی: چڑھنا (۲) ترقی کرنا۔
رَقَی ـــــ رَقْیاً، و رُقِیاً، ورُقْیَةً: جھاڑ پھونک کرنا، تعویذ گنڈا کرنا، آسیب زدہ کا اثر زائل کرنا۔
رَقَّی تَرْقِیَةً: ترقی دینا، درست کرنا، ترقی یافتہ بنانا۔
رُقِیٌّ: ترقی۔
رَاقٍ، رَقَّاءٌ: ترقی کرنے والا، ترقی یافتہ۔
رَاقٍ، مُرْتَقٍ: ترقی یافتہ، مہذب۔
تَرْقِیَة: ترقی دینا۔
تَـرْقِیَةٌ بالاَقْدَمِیَة: سینیارٹی (تقدم) کی بنیاد پر ترقی دینا۔
تَـرْقِیَةُ الـمَـوَاهِب: صلاحیتوں کو اجاگر کرنا۔
اِرْتِقَاءٌ: ترقی، بلندی، چڑھائی۔
مِرْقَاةٌ: سیڑھی، زینہ، منتقل ہونے والی سیڑھی ج: مَرَاقٍ

ر............ک

رَکِبَ ـَـ رُکُوباً: سوار ہونا۔
___ الأَهْوَالَ: مصائب میں مبتلا ہونا۔
___ البَحْرَ: سمندر میں سفر کرنا۔
___ الهَوَاءَ: اڑنا، ہوائی سفر کرنا۔
___ هَوَاهُ: نفسانی خواہشات کا تابع بننا۔
رَکِبَ و ارْتَکَبَ الذَّنْبَ: ارتکاب جرم کرنا
اِرْتَکَبَ الْفَحْشَاءَ: گناہ کرنا، جرم کرنا
رَکَّبَ و اَرْکَبَ: سوار کرنا (۲) جوڑنا (ضد: فَکَّ)
___ الْاَشْیَاءَ: جمع کرنا، جوڑنا، باہم ملانا۔
___ الْفَصَّ فی الخَاتَم: انگوٹھی میں نگ جڑنا۔
___ الدَّوَاءَ: دواؤں کا مرکب تیار کرنا۔
تَرَکَّبَ مِنْ: مرکب ہونا، جڑنا، بننا۔
رَکْبٌ، رُکْبَانٌ: قافلہ۔
رَکْبُ الحَیَاةِ المُعاصِرَة: موجودہ زندگی کا کارواں۔
رُکْبَة ج: رُکَبٌ: گھٹنا۔
رِکَابٌ ج: رُکُبٌ: زین میں لگا ہوا لوہے کا حلقہ جس میں سوار پاؤں رکھتا ہے۔
رِکَابٌ و: رَاحِلَة: سواری کے اونٹ ج: رَکَائِبُ و رُکُبٌ
رَکُوب: سواری کا جانور، سواری ج: رُکُبٌ
رُکُوبُ الهَوَی: اتباع نفس۔
رُکُوبُ الهَوَاءِ: اڑان، پرواز۔
رُکُوبُ المِصْعَد: لفٹ پر کھڑا ہونا۔
رَاکِبٌ ج: رُکَّاب: سوار (ضد: مَاشٍ). (۲) ضد رَاجِلٌ (۳) مسافر، پائنچر
رَکَبٌ: (عَانَة): پیڑو۔
تَرْکِیب ج: تَرْکِیبَات: تنصیب، فٹنگ، جڑائی، لیک اپ۔
تَرْکِیبُ الآلَاتِ: مشینری کی فٹنگ۔
تَـرْکِیبُ الاَحْرُفِ الطِّبَاعِیَة: کمپوزنگ۔
تَـرْکِیبُ خَطِّ هَاتِفی ٹیلیفون لائن

بنانا۔
تَرْکِیبُ معامِلَ (مُختبرات): تجربہ گاہیں قائم کرنا۔
تَرْکِیبُ مُعِدَّاتٍ: آلات نصب کرنا
تَرْکِیبُ الصَّوارِیْخ بالطَّائِرات: ہوائی جہازوں پر راکٹ نصب کرنا۔
تَرکیبَاتُ التَّدفِئة: ہیٹنگ، فٹنگ، گرم کرنے کے برقی آلات لگانا۔
مَرْکَبٌ ج: مَرَاکِبُ: کشتی، جہاز، سواری۔
مَرْکَبٌ شِرَاعِيٌّ: بادبانی کشتی۔
مَرْکَبة: گاڑی، گھوڑا گاڑی۔
مَرْکَبَةُ تِرام: ٹرام کار۔
مَرْکَبَةُ الفَضاء: خلائی گاڑی۔
المَرْکَبَةُ الفَضَائِيَّة: چاند گاڑی۔
مُرَکَّب: (ضد: مُفَکُوک) جڑا ہوا۔ (۲) ضد بَسِیطٌ: مُرَکَّب، مجموعہ اجزا۔
رِبْحٌ مُرَکَّبٌ: سود مرکب۔
مَرْکُوبٌ: (۱) سواری کا جانور (۲) جوتا
رَکَدَ ـ رُکُودًا: ساکن ہونا، ٹھہرنا، جمنا، حرکت بند ہونا، پانی کا ٹھہرنا۔
الرُّکُود: انجماد۔
رُکُودُ التِّجارَة: (ن) کاروبار ٹھپ ہونا، کاروبار میں کمی آنا۔
رُکُودُ الدَّخل: آمدنی ختم ہونا۔
رَکَزَ ـ رَکْزًا و رَکَّزَ: زمین میں گاڑنا، جمانا، راسخ کرنا، ایک لفظ میں کسی چیز کو منحصر کرنا۔
رَکَزَ و ارْتَکَزَ: تھوڑا توقف کرنا۔
رَکَزَ وارْتَکَزَ عَلَى شَيْئٍ: سہارا لینا، قائم ہونا، جمنا، راسخ ہونا، قرار پانا۔
رَکَّزَ على شَيْءٍ (تَرکیدًا): زور دینا۔
رَکْزَة: معمولی وقفہ۔
رِکَازٌ: دفینہ، مدفون قدرتی خزانہ، سونے وغیرہ کا مدفون ذخیرہ ج: اَرْکِزَة
تَرْکِیزٌ: مرکزی بنانا، ایک مرکز پر جمع کرنا، گاڑنا، راسخ کرنا، کسی چیز پر زور دینا (۲) کامل توجہ، طبیعت کا جماؤ۔
تَرْکِیزُ الاَضْوَاءِ عَلى: روشنی ڈالنا، توجہ مرکوز کرنا۔
تَرکیزُ الجُهُوْدِ فی: کوشش کرنا، جدوجہد کو مرکوز کرنا۔
تَرکیزُ الحَمْلَةِ عَلى شَيْءٍ: کسی کام کے لیے مکمل مہم چلانا۔
تَرکیزُ السُّلْطَةِ بِیَدَیْه: مکمل اختیار ہاتھ میں لینا۔
تَرْکِیزُ السُّلطَةِ فی یَدِ اَحَدٍ: کسی کے ہاتھ میں مکمل اقتدار دینا۔
تَرْکِیزُ الضَّربَةِ عَلى مَکانٍ: نشانہ لگا کر مارنا، نشانہ بنانا۔
التَرْکِیز علی جَانِبٍ: کسی پہلو پر زور دینا۔
التَرْکِیزُ علی شَيْءٍ: زور دینا، توجہ مرکوز کرنا، نشانہ پر مارنا۔
تَرْکِیزُ العَیْنِ علی: نگاہ جمانا۔
تَرْکِیزُ المِدفَعِيَةِ علی: توپخانہ کا نشانہ بنانا۔

تَرَكُّزُ البَحثِ حَولَ كذا: کسی نقطہ پر بحث مرکوز ہونا۔
تَرَكُّزُ السُّلطَةِ: طاقت اکٹھا ہونا۔
تَرَكُّزُ المُحادثةِ على مَوضُوعِ كذا: کسی موضوع پر بات چیت کا مرکوز ہونا۔
تَرَكُّزُ المُفاوَضاتِ على: بات چیت مرکوز ہونا۔
تَرَكُّزُ النَّشاطاتِ في: سرگرمیوں کا کسی سلسلہ میں یکجا ہونا۔
تَواكُز: متحد المرکز ہونا۔
مَرْكَز ج: مَراكِز: (۱) وسط، دائرہ، محور (۲) حالت، پوزیشن، حیثیت (۳) مرتبہ عہدہ (۴) پوسٹ، آسامی (۵) ڈسٹرکٹ، ضلع (مصری) (۶) سینٹر، چوکی، اڈہ۔
مَركَزُ أبحاثِ الفضاءِ: فضائی تحقیقات کا مرکز۔
مَركَز اِجتِماعِيّ: جماعتی پوزیشن (۲) سوشل مرکز۔
مَركَزُ الإدارَة: ہیڈکوارٹر، ہیڈآفس، صدر دفتر، افسر انتظامیہ کا صدر مقام۔
مَركَز إدارَةِ الطَّيَرانِ: ہوابازی کا دفتر۔
مَركَزُ الإذاعَةِ اللّاسِلكِيَّة: براڈ کاسٹنگ اسٹیشن۔
مَركَزُ الأُستاذِ: پروفیسری کی پوزیشن۔
مَركَزُ الاِستِفتاءِ: پولنگ بوتھ۔
مَركَزُ البُولِيس: پولیس اسٹیشن۔

مَركَزُ التَّدرِيب: ٹریننگ سنٹر۔
مَركَزُ التَّفتِيش: مرکز تفتیش، تحقیقاتی مرکز۔
مَركَزُ التِّلِيفُون: ٹیلیفون ایکسچینج۔
مَركَزُ التَّموِين: سپلائی کا مرکز۔
مَركَزُ الخِلافات: نقطہ اختلاف۔
مَركَز رِعايَةِ الشَّباب: یوتھ ویلفیئر سنٹر۔
المَركَزُ الرَّئِيسِيّ: ہیڈ آفس، مرکزی دفتر، صدر دفتر۔
مَركَز أو سِنترال تِلِيفُون: سنٹرل ٹیلیفون ایکسچینج۔
مَركَز فارِغ: خالی پوسٹ، خالی اسامی۔
مَركَزُ القُوَّة: پاور پوزیشن، طاقتور عنصر۔
مَركَزُ القِيادَة: ہیڈکوارٹر، کمانڈنگ آفس۔
مَركَز مالِيّ: مالی پوزیشن۔
مَركَز تَفَرُّج: تماشہ گاہ۔
مَركَزُ المُراقِبِين الدُّوَلِيِّين: بین الاقوامی مبصرین کا مرکز۔
مُرَكَّز: ٹھوس۔
مَركَزَةُ شَيءٍ: سنٹرلائز کرنا، مرکز کے تحت کرنا۔
مَركَزِيّ: درمیانی، مرکزی، سنٹرل۔
مَركَزِيَّة: مرکزیت۔
رَكَضَ ـُـ رَكضاً: (۱) دوڑنا، چوکڑی بھرنا (۲) ایڑ لگانا، پیر مار کر دوڑانا۔
رَاكَضَهُ مُراكَضَةً: دوڑ میں مقابلہ کرنا۔
• اِرتَكاض: ہلنا، مضطرب ہونا، پیٹ میں

بچہ کا حرکت کرنا۔
رُکْض: دوڑ، ریس۔
رَکَّاض: تیز دوڑنے والا، بہت دوڑنے والا۔
رَکَعَ ـَ رُکُوعاً: احتراماً جھکنا، سر جھکانا، نماز کا رکوع کرنا۔
رَکَّ ـِ رَکَاکَۃً و رَکّاً: لچر اور کمزور ہونا، اجزاء کلام کی ترکیب ناموزوں ہونا۔
رَکَّ الأمْرَ فی عُنُقِہٖ: کام سونپنا، ذمہ دار بنانا۔
رَکَاکَۃ: لچرپن، کمزوری، بوداپن، غیر موزونیت، پھسپھساپن۔
رَکِیک: پھسپھسا، بےجوڑ، بے ربط، ناموزوں
رُکَاک، رَکِیک: کمزور رائے، ضعیف العقل،
رَکَلَ ـُ رَکْلاً: لات مارنا۔
رَکَمَ ـُ رَکْماً: ڈھیر لگانا، اکٹھا کرنا۔
تَرَاکَم، ارْتِکَام: ڈھیر لگنا، انبار ہونا۔
رُکْم، رُکَام: ڈھیر، انبار۔
رَکَنَ ـُ رُکُوناً و اَرْکَنَ إلیہ: مائل ہونا، بھروسہ کرنا، سہارا لینا۔
أرْکَنَ إلَی الْفِرَارِ: آمادۂ فرار ہونا، بھاگنا۔
أرْکَنَ علی: (۱) پناہ لینا، بھروسہ کرنا۔
یُرْکَنُ إلَیْہ: قابل اعتماد۔
رُکْن ج: اَرْکَان: کونہ، گوشہ (۲) سہارا، ستون (۳) جز، اصل، بنیاد۔
رُکُون: ارکان، اعتماد، بھروسہ۔
أرْکَانُ الشَّیْءِ و دَعَائِمُہ: ارکان۔
أرْکَانُ حَرْب: اسٹاف افسر (فوج میں)
رَئِیسُ أرْکَانِ حَرْب: چیف جنرل
مِرْکَن ج: مَرَاکِن: چھوٹا ٹب، کپڑے وغیرہ دھونے کا ٹب یا حوض۔

ر............م

رَمَّ ـُ رَمّاً: درست کرنا، ہاتھ سے پونچھنا۔
رَمَحَ ـَ رَمْحاً: نیزہ مارنا (۲) دوڑنا۔
رُمْح ج: رِمَاح: بلم، لاٹھی جس کے سرے پر نیزہ لگا ہوتا ہے (۲) نیزہ۔
رَمَّاح: نیزہ بردار۔
رَمِدَ ـَ رَمَداً و أُرْمِدَ الرَّجُلُ: آشوب چشم کا مریض ہونا، آنکھ دکھنا۔
رَمَّدَ الشَّیْءَ تَرْمِیداً: راکھ میں ڈالنا، راکھ میں دبانا، لاش کو جلانا۔
رَمَدٌ فِی العَیْن: آشوب چشم۔
رَمَدِیّ: امراض چشم کا ماہر۔
رَمِدٌ، رَمْدَان، أرْمَدُ: آنکھ کا مریض، دکھتی آنکھ والا۔
رَمَاد: راکھ۔
مَرْمَد: مرگھٹ، مردے جلانے کی جگہ۔
رَمَزَ ـُ رَمْزاً إلی: اشارہ، دلیل، کنایہ، مارک، نشان۔
رَمْزُ الحُرِّیَّۃ: نشان آزادی۔
رَمْزٌ نَابِض: زندہ علامت۔
رَمْزِیّ: علامتی، اشاراتی۔
رَامُوز: نمونہ۔
رَمَسَ ـُ رَمْساً: دفن کرنا، چھپانا۔
ارْتِمَاس: پانی میں ڈوبنا۔
رَمْس ج: رُمُوس: قبر۔
رَمَشَ ـِ رَمْشاً: انگلیوں سے پکڑنا۔

رَمَش بِعَينِه: (دا) کنکھیوں سے دیکھنا۔
رَمَضَاء: سخت گرمی۔
رَمَقَ ـُـ رَمْقاً: دیکھنا، نگاہ ڈالنا۔
رَمَقَ و رَمَّقَ إِلَيه: ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، دیر تک دیکھنا۔
رَمَقٌ: زندگی کی بقیہ سانس۔
الرَّمَقُ الاَخِير: آخری سانس۔
سَدَّ رَمَقَه: جان بچانا، سانس باقی رکھنا۔
مَرْمُوق: قابل لحاظ، ممتاز۔
رَمَّلَ: ریت ڈالنا، ملنا۔
اَرْمَلَ وتَرَمَّلَ الرَّجُلُ: مرد کا بلا بیوی رہ جانا، بیوی کا مر جانا۔
اُرْمِلَتِ المَرْأةُ و تَرَمَّلَتْ: بیوہ ہونا۔
رَمْلٌ ج: رِمَال: ریت (۲) روشنائی خشک کرنے کا پوڈر۔
رَمْلِيٌّ، مُرْمِل: ریتیلا۔
اَرْمَل ج: اَرَامِل: جس کی بیوی مر گئی ہو۔
اَرْمَل ، اَرْمَلَة: بیوہ۔
رَمَّال: ریت فروخت کرنے والا۔
رَمَّمَ و رَمَّ ـِـ رَمّاً و مَرَمَّةً: اصلاح کرنا۔
لا يُرَمّ: نا قابل اصلاح۔
رَمَّ العَظْمُ ـِـ رَمّاً، ورِمَّةً، ورَمِيماً و أَرَمَّ: بوسیدہ ہونا۔
رِمَّة ج: رِمَامٌ و رِمَمٌ: (۱) ہڈی کا بوسیدہ ٹکڑا (۲) انسان یا حیوان کا سڑا ہوا جثہ (دا)
بِرُمَّتِه: سب کا سب، تمام۔
رَمِيم، رُمَام: بوسیدہ۔
رُمَّانٌ و: رُمَّانَة: انار، انار کا درخت۔
أُرْمَنِيّ: آرمینیہ کا رہنے والا۔

أُرْمِينِيَة: ملک آرمینیا۔
رَمَى ـِـ رَمْياً: پھینکنا، ڈالنا، تیر چلانا۔
رَمَى بِقَذِيفَةٍ: بم وغیرہ پھینکنا۔
رَمَى بِرَصَاص: گولی مارنا۔
رَمَى إلى: قصد کرنا۔
رَمَى بِكَلامِ إلى: اپنے کلام سے کسی بات کا قصد کرنا۔
رَمَى عَنه: زائل کرنا، ہٹانا۔
رَمَى بِكَذا: الزام لگانا، عیب لگانا۔
اِرْتَمَى: گرنا، پڑنا (مطاوع رَمَى)
اِرْتَمَى عَلَى قَدَمَيْ فُلانٍ: قدموں میں گرنا۔
رَمْيَة: (۱) ایک دفعہ کا پھینکنا (۲) ایک ضرب۔
رَمْيَةٌ مِنْ غَيْرِ رَامٍ: اتفاقاً پیش آ جانے والی چیز۔
رَمْيَةُ حَجَرٍ مِنْ هُنَا: چور اس جگہ ہے۔
رَامٍ ج: رُمَاةٌ: تیر انداز، نشانہ باز۔
رَامٍ الى كذا: اس کا مقصد یہ ہے۔
مَرْمَى: تیر اندازی کی جگہ (۲) مقصد ج: مَرَامٍ
مَرْمَى النَّظَرِ: انتہائے نظر، حدنگاہ۔

ر.........ن

اَرْنَب ج: اَرَانِبُ: خرگوش م: اَرْنَبَة
اَرْنَبَةُ الأَنْفِ: ناک کا بانسہ۔
رِنْجَة: (مع) ہیرنگ مچھلی۔
رَنَّحَ تَرْنِيحاً: جھکانا، کمزور بنانا۔
تَرَنَّحَ: چکولے کھانا، جھومنا، لڑکھڑانا، نشہ وغیرہ کی وجہ سے قدم لڑکھڑانا۔
مَرْنَحَةُ السَّفِينَة: کشتی کا اگلا حصہ

مُتَرَنِّح: جھولتا ہوا، جھومتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا، ڈگمگاتا ہوا، ڈانواڈول۔

رَنَّقَ النَّظَرَ إليه: دیر تک دیکھنا۔

رَوْنَق: بہار، حسن، رونق، آب وتاب

رَنْكَة: ہیرنگ مچھلی۔

رَنَّمَ و تَرَنَّمَ: گانا، ترنم سے پڑھنا۔

تَرْنِيمَة: گانا۔

رَنَّ ــــ رَنِيناً: ٹن ٹن آواز ہونا، گونجنا، گھنٹی بجنا (۲) زور سے رونا، غمگین آواز سے رونا۔

رَنِين: آواز، گونج، گھنٹی جیسی آواز، رونے کی آواز۔

رَنِينُ الجرس: گھنٹی کی آواز۔

رَنِينُ المِسَرة: ٹیلیفون کی گھنٹی۔

رَنَّة: ٹن، جھنکار، گونج۔

رَنَّان: گونجدار، بجتا ہوا۔

نُقُودٌ رَنَّانَة: بجتے سکے (روپے) کھرے سکے۔

رَنَّة: (معرب) شمالی ہرن۔

(رنو) رَنَا اليه ــــ رَنْواً و رُنُوّاً: ٹکٹکی باندھنا، لگاتار دیکھنا۔

ر.........ہ

رَهِبَ ــــ رَهَباً و رَهْبَةً، ورُهْباً: ڈرنا

رَهَّبَ وأَرْهَبَ: ڈرانا، خوف زدہ کرنا، رعب بٹھانا۔

تَرْهَبَة: دھمکی دینا۔

تَرَهَّبَ: راہب بننا۔

رَهْبَة، رُهْبىٰ: ڈر، خوف۔

رَهِيبٌ: خوفناک، بھیانک، خطرناک۔

رَهْبَنَة، رَهْبَانِيَّة: ترک دنیا، گوشہ نشینی، رہبانیت۔

رَاهِبٌ ج: رُهْبَان: تارک الدنیا (۲) گرجا کا مذہبی رہنما۔

إِرْهَاب: دہشت انگیزی، دہشت پسندی (۲) ڈرانا، دہشت پھیلانا۔

إِرْهَابِيّ: دہشت پسند، دہشت انگیز۔

رَهَجٌ، رَهَجٌ: (۱) غبار (۲) غنڈہ گردی، فساد انگیزی۔

إِرْهَاج: گرد اڑانا۔

أَرْهَجَ بَيْنَهُمْ: باہم اشتعال پھیلانا، ایک کو دوسرے کے خلاف اکسانا۔

(رهش) اِرْتَهَاشُ أَرْجُلِ الخَيْلِ: گھوڑے کی ٹانگوں کا چلتے وقت باہم ٹکرانا۔

رَهْط ج: أَرْهَاط و أَرْهُط: جماعت

رَهَفَ ــــ رَهْفاً و أَرْهَفَ: (۱) پتلا کرنا، باریک کرنا، کمزور و دبلا کرنا۔

رَهَفَ و أَرْهَفَ السَّيفَ أو الذِّهنَ: تلوار یا ذہن کو تیز کرنا۔

أَرْهَفَ أُذُنَيه: سننے کے لیے کان تیز کرنا، کان کھڑے کرنا۔

اِرْهَافُ الحِسّ: ذکاوت حس

رَهُفَ ــــ رَهَافَةً و رَهَفاً: دبلا ہونا، پتلا ہونا۔

رَهِيف: پتلا، دبلا، کمزور۔

رَهِيف و مُرْهَف: تیز، دھاردار۔

رَهِقَ ــــ رَهَقاً و أَرْهَقَ: ظلم کرنا، پریشان کرنا، تکلیف دینا، مجبور کرنا، پریشانی میں مبتلا کرنا۔

رَهِقَ ــــ رَهَقاً: (۱) ظلم کرنا (۲) بے وقوف ہونا، کم عقل ہونا۔

إِرْهَاق: پریشانی، انتہائی تھکان (۲)

پریشانی میں ڈالنا۔
رَاهَقَ الغُلَامُ: قریب البلوغ ہونا، سن بلوغ کو پہنچنا (۲) جوان ہونا۔
مُرَاهَقَة: بلوغ (۲) جوانی۔
مُرَاهِقٌ: سن شباب کو پہنچنے والا۔
رَهِلَ ـــ رَهَلاً: (۱) لٹکنا ڈھیلے بدن کا ہونا، نرم وگداز بدن کا ہونا۔
رَهِلٌ، مُتَرَهِّلٌ: ڈھیلا، نرم، گداز۔
رِهْمَة: معمولی بارش، ہلکی لگاتار بارش۔
مَرْهَمٌ ج: مَرَاهِم: پھوڑے پھنسی کی دوا۔
رَهَنَ الشَّیْئَ فُلاناً و اَرْهَنَ: رہن رکھنا، گروی رکھنا۔
اَرْهَنَ کذا: رہن بنانا، رہن کرنا۔
رَاهَنَ علی کذا: بازی لگانا۔
اِرْتَهَنَ الشَّیْءَ: بطور رہن لینا (۲) رہن رکھ لینا۔
اِرْتَهَنَ بِالْاَمْرِ: کسی معاملہ کا پابند ہونا۔
رَهْنٌ، رَهِیْنَة: رہن رکھی ہوئی چیز (۲) رہن کی طرح مقید آدمی، یرغمال۔
رَهْنٌ بِاِشَارَتِه: حکم کا منتظر، پابند، تابع، اشارہ پر چلنے والا، وابستہ، مقید۔
رَهْنَ اِشَارَةِ فُلَانٍ: اشارہ کا تابع۔
رَهْنَ التحقِیق: زیر تحقیق۔
رَهْنَ کذا: کسی چیز کے رحم وکرم پر۔
رَهْنُ حِیَازَةٍ: رہن قبضہ۔
رِهَانٌ: شرط، بازی۔
رِهَانٌ خَاسِرٌ: ہاری ہوئی بازی۔
رَهَائِنُ و: رِهَان و رَهِیْنَة: یرغمال۔

رَهِیْنٌ بِاَعْمَالِه: اپنے کاموں کا پابند۔
رَهِیْن، مَرْهُوْن: گروی رکھی ہوئی چیز۔
رَاهِنٌ: (۱) رہن رکھنے والا (۲) حاضر وموجود، واقع، ثابت وقائم۔
الحَالَةُ الرَّاهِنَة: موجودہ حالت۔
مُرْتَهِن: رہن لینے والا۔

ر............و

رَوَّبَ و اَرَابَ اللَّبَنَ: دودھ جمانا، دہی بنانا، دہی جمانا۔
رَابَ اللَّبَنُ ـــ رَوْباً: دودھ جمنا، دہی بننا، دہی بنانا۔
رَوْبٌ: چھاچھ، دہی۔
رُوْب: گون، ایک خاص لباس جو عدالت وغیرہ میں پہنا جاتا ہے۔
رَائِبٌ، مُرَوَّب: (۱) جما ہوا، دہی بنا ہوا (۲) مکھن نکلا ہوا دودھ۔
رُوْبِیَة: (مع) روپیہ مساوی ۶۵ ملیم تقریباً۔
رُوْبُوط: روبوٹ، انسان کے شکل کی خودکار مشین۔
رَوْثُ الحَیَوَان ج: اَرْوَاث: لید۔
رَاثَ الحَیَوَانُ ـــ رَوْثاً: لید کرنا۔
رَوَّجَ الاَمْرَ و الْخَبَرَ تَرْوِیْجاً: عام کرنا، پھیلانا، رواج دینا، اشاعت کرنا، فروغ دینا۔
رَوَّجَ الشَّائِعَاتِ: افواہیں پھیلانا۔
رَوَّجَ الصَّادِرَاتِ: ایکسپورٹ کو ترقی دینا، برآمد شدہ اشیاء کو پھیلانا۔
رَوَّجَ العُمْلَةَ: سکہ رائج کرنا، چلانا۔
رَاجَ الاَمْرُ و العُمْلَةُ ـــ رَوَاجاً:

رواج پانا، عام ہونا، پھیلنا۔
رَاجَ الخَبَرُ: خبر پھیلنا، مشہور ہونا۔
رَاجَتِ الإشَاعَةُ: افواہ پھیلنا۔
رَاجَتِ السِّلْعَةُ: بازار میں کسی سامان کی مانگ ہونا، مقبولیت ہونا۔
رَاجَتِ السُّوْقُ: بازار کا چالو ہونا۔
رَائِجٌ، مُرَوَّجٌ: رواج یافتہ، چالو، رائج الوقت، عام، شائع۔
مُرَوِّجٌ: دلال (۲) افواہ پھیلانے والا۔
رَوَّحَ و أَرَاحَ: آرام پہنچانا، آرام دینا، فرحت بخشنا، سکون پہنچانا۔
رَوَّحَ عَنْ نَفْسِهِ: جی بہلانا، دل خوش کرنا۔
أَرَاحَ الأَعْصَابَ: ذہن کو آرام پہنچانا۔
رَاحَ ـُـ رَوَاحاً: (۱) شام کے وقت آنا یا جانا (۲) جانا۔
تَرَوَّحَ بِالمِرْوَحَةِ: پنکھے کی ہوا لینا، پنکھا جھلنا۔
رَاوَحَ بَيْنَ العَمَلَيْنِ: یکے بعد دیگرے کرنا، باری باری مشغول ہونا۔
رَاوَحَ بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ: باری باری ایک ایک ٹانگ پر کھڑا ہونا۔
أَرْوَحَ و تَرَوَّحَ المَاءُ: پانی میں بدبو پیدا ہونا۔
تَرَاوَحَ العَدَدُ بين كذا و كذا: تعداد کا بین بیان ہونا (اتنا یا اتنا)۔
تَرَاوَحَ العُمْرُ بَيْنَ كذا و كذا عاماً: عمر کا چند سالوں کے بین بین ہونا۔
ارْتَاحَ وَاسْتَرَاحَ: آرام کرنا، آرام پانا، سکون حاصل کرنا، خوش ہونا۔

رَاحٌ: شراب۔
رَاحَةٌ: ریسٹ، آرام، سکون، راحت۔
رَاحَةٌ نَفْسِيَّةٌ: ذہنی سکون۔
رَاحَةُ اليَدِ: ہتھیلی، کف دست ج: رَاحَاتٌ
رَائِحَةٌ: رَوَائِحُ: بو
رَائِحَةٌ ذَكِيَّةٌ: خوشبو۔
رَائِحَةٌ خَبِيْثَةٌ: بدبو۔
ذَكِيُّ الرَّائِحَة: خوشبودار۔
خَبِيْثُ الرَّائِحَة: بدبودار۔
رُوْحٌ ج: أَرْوَاحٌ: (۱) جان (۲) ست، خلاصہ، جوہر (۳) جذبہ، حوصلہ۔
رُوْحُ التَّخَاذُلِ: شکست خوردگی کی ذہنیت۔
رُوْحٌ زَاخِرَةٌ: بے پایاں جذبہ۔
رُوْحٌ سَائِدَةٌ: عام جذبہ۔
رُوْحٌ شِرِّيْرٌ: خبیث روح، آسیب۔
رُوْحُ الصَّبْرِ: برداشت کا مادہ۔
رُوْحٌ طَيِّبَةٌ: پاکیزہ جذبہ، نیک جذبہ۔
رُوْحُ القِتَالِ: جذبہ جہاد، لڑائی کا جذبہ۔
رُوْحٌ مُرْتَفِعَةٌ: بلند حوصلہ۔
رُوْحٌ مَعْنَوِيَّةٌ: حوصلہ، مورل MORALE
الرُّوْحُ المَعْنَوِيَّةُ العَالِيَةُ: زبردست حوصلہ۔
رُوْحٌ مُنْهَارَةٌ: پست حوصلہ۔
رُوْحُ النَّصْرِ: جذبہ کامرانی۔
رُوْحٌ نِضَالِيَّةٌ: جنگی جذبہ۔
رِيْحٌ ج: رِيَاحٌ و أَرْيَاحٌ: چلتی ہوئی ہوا، تیز ہوا، محسوس ہوا۔
رَيِّحٌ: انتہائی ہوادار۔
رَيْحَانٌ: خوشبودار نبات ج: رَيَاحِيْنُ

اِرْتِیَاح: خوشی، مسرت قلب۔
الاِرْتِیَاحُ إِلَی القَوْل: بات دل کو لگنا۔
اَرْیَحِیٌّ: فراخ طبیعت، وسیع الاخلاق۔
اَرْیَحِیَّة: بہترین خصلت جو اعلیٰ افعال کو پسند کرتی ہے۔ ج: اَرَائِح
تَرْوِیح: پنکھا جھلنا، ہوا کرنا۔
تَرْوِیحُ القَلْب: دل خوش کرنا۔ تسکین بخشنا۔
اِسْتِرَاحَة: آرام پانا (۲) آرام، ریسٹ (۳) ریسٹ ہاؤس، ویٹنگ روم۔
مُرِیْح: آرام دہ (ضد: مُتعِب) (۲) نفخ پیدا کرنے والی چیز۔
مُرْتَاح: بحالت سکون و آرام، خوش۔
مُرْتَاحُ البَال: مطمئن۔
مِرْوَحَة ج: مَرَاوِح: پنکھا۔
مِرْوَحَةٌ کَهْرَبِیَّة: بجلی کا پنکھا۔
مِرْوَحَةُ الخَیْش: چھت کا پنکھا۔
مِرْوَحَة (مَنْفَس): ہوادان، کھڑکی، روشندان۔
مَرْیُوْح: آسیب زدہ۔
مُسْتَرَاحٌ: بیت الخلا، طہارت خانہ۔
رَوْدَ: (ن) گشت لگانا، گھومنا، تلاش میں پھرنا، تلاش و جستجو کرنا۔
رَادَ البِلَادَ: کسی انکشاف و تحقیق کے لیے کسی ملک کی سیاحت کرنا۔
اِرْتِیَادُ الفَضَاء: خلائی کھوج۔
اِرْتِیَادُ قِمَمِ الجبال: کوہ پیمائی۔
رَاوَدَهُ مُرَاوَدَةً: پھسلانا، ورغلانا، کسی برائی پر آمادہ کرنا۔

اِرَادَة: چاہنا، ارادہ کرنا، پسند کرنا (۲) خواہش، جذبہ۔
الاِرَادَة: آمادگی۔
اِرَادَةٌ مِنْ حَدِیْد: آہنی ارادہ
رُوَیْدًا: آہستہ۔
رَائِد ج: رُوَّاد: اسکاوٹ، جستجو و تلاش کرنے والا (۲) جاسوس (۳) رہنما، قائد (۴) سیاح (۵) نامعلوم اشیاء کی کھوج لگانے والا۔
رُوَّادُ الفَضَاءِ: خلائی مسافر، خلاباز
مُرَاد: قصد، نیت۔
مِرْوَد: آنکھ کی سلائی، سرمہ کی سلائی۔
رَوَّزَ تَرْوِیْزِ: اندازہ کرنا، تخمینہ کرنا۔
رُوْسُو: ایک مشہور فرانسیسی رائٹر۔
رُوْسِیَا: روس۔
رُوْسِیٌّ مُتَطَرِّف: انتہا پسند اشتراکی۔
رَوَّضَ تَرْوِیْضًا و رَاضَ المُهْرَ ۔ رَوْضًا و رِیَاضًا و رِیَاضَة: گھوڑے کو سدھانا، بلانا، چلا کر قابو میں کرنا، چلنے کی عادت ڈالنا۔
رَوَّضَ الحَیَوَانَ البَرِّیَّ: مانوس بنانا، ہلانا۔
رَاوَضَه مُرَاوَضَةً: کسی کو فریب دے کر کام لینا، کام پر لگانا۔
تَرَاوَض: بیع و شراء میں باہم جھگڑنا
تَرَیَّض: تفریح کرنا۔
رَائِض، مُرَوِّضُ الخَیْل: گھوڑوں کا سائیس۔
رَوْضَة ج: رِیَاض: (۱) باغیچہ (۲) سرسبز زمین۔
رَوْضَةُ الاَطْفَال: چلڈرن گارڈن، بچوں کا

نرسری اسکول۔
رِیاضَة: جسمانی ورزش، کسرت، ٹریننگ۔
اَلْعَابٌ رِیَاضِیَّة: ورزشی کھیل (۲) جسمانی کرتب۔
رِیَاضِیّ: علم ریاضی کا عالم (۲) ورزشی کھیلوں کا عادی یا شوقین۔
رَوَّعَ تَروِیعاً و رَاعَهٗ ـُ رَوْعاً و اَرَاعَ: ڈرانا، گھبرادینا۔
رَاعَه و ارْتَاعَه: ڈرنا، گھبرانا۔
رَوْع، رَوْعَة: ڈر، خوف۔
سَكَّنَ رَوْعَه و هَدَّأَه: گھبراہٹ دور کرنا۔
رُوْع: دل، نقطۂ قلب (۲) ذہن، عقل۔
خطرَ بِرُوْعِه: اس کے دل میں آیا۔
اُلْقِي فِي رُوْعِه: اس کے دل میں ڈالا۔
رَوْع: حسن و جمال، شان و شوکت، آب و تاب۔
رَائِع: شاندار، خوشنما۔
رَائِعَةُ النَّهَار: دن کی روشنی۔
مُرِيْع، مُرَوِّع: خوفناک، بھیانک
رَوَاغ، رُوَيْغَة: مکر و حیلہ، چال۔
رَوَّاغ، مُرَاوِغ: مکار، چالاک۔
رَاغَ ـُ رَوْغاً و رَوَغَاناً، و رَوَاغاً: دھوکہ اور چال سے الگ ہونا، بچ نکلنا، نشانہ سے ہٹنا۔
رَاوَغَه مُرَاوَغَة: دھوکہ دینا۔
رَاوَغَهٗ فِي الْكَلَام: چکنی چپڑی باتیں کرنا۔
مُرَاوِغ: دھوکہ باز، چالاک۔
رَوَّقَ تَرْوِيقاً: صاف کرنا۔
رَوَّق اللَّيْلُ: رات کا تاریکی پھیلانا۔
رَوَّق الْبَيْتَ: گھر کے سامنے برآمدہ بنانا، سائبان ڈالنا۔
رَوَّق الدَّوَاءَ وغَيْرَه: بھبکے کے ذریعہ پانی ٹپکانا، عرق کشید کرنا، مقطر کرنا۔
رَاقَ ـُ رَوْقاً: صاف ہونا۔
رَاقَه ـُ: پسند آنا، بھانا، بھلا لگنا، اتفاقاً حسب خواہش ہوجانا۔
اِرَاقَة: بہانا۔
تَرَوَّق: ناشتہ کرنا۔
رُوْق، رِوَاق ج: اَرْوِقَة: برآمدہ، سائبان، پردہ جو دروازہ پر بطور سائبان ڈالا جائے، ہال، گیلری، شیڈ۔
رائق: صاف، خوشنما۔
رَاوُوق، مُرَوِّق: فلٹر، صاف کرنے کا آلہ۔
تَرْوِيقَة: ناشتہ۔
رُوْل: (مع) فہرست مقدمات۔
رَوْم، مَرَام: مقصد، مطلب، قصد۔
رَامَ ـُ رَوْماً: قصد کرنا، چاہنا۔
رُوْم: (مع) رم، گنے کی شراب۔
رُوْمَاتِزْم: (مع) جوڑوں کی بیماری۔
رَوْنَق: بہار، خوشنمائی۔
رَانَ ـُ رَوْناً: سخت ہونا۔
رَوَى ـِ رِوَايَة: روایت کرنا، کہانی کہنا، بات نقل کرنا، قصہ بیان کرنا۔
رَوَى عنه: نقل کرنا۔
رَوِيَ ـَ رِيّاً و اَرْوَى: سیراب کرنا۔
رَوِيَ ـَ رِوىً و ارْتَوَى: سیراب ہونا، پیاس بجھنا۔

اَرْوَی الزَّرْعَ وغَیْرَہ: آب پاشی کرنا، آب رسانی کرنا۔
اَرْوَی الغُلَیلَ: پیاس بجھانا۔
تَرَوَّی: غور کرنا، سوچنا۔
رُوَاء: خوشنمائی، چہرہ کی رونق، آب و تاب (۲) آبِ شیریں۔
رِوَایة: (۱) خبر (۲) افواہ (۳) کہانی، اسٹوری (۴) حدیث (۵) بیان (۶) ناول ج: رِوَایات۔
__ بُولِیْسِیَّة: جاسوسی ناول۔
__ خَیَالِیَّة: رومانی کہانی۔
__ تَمْثِیْلِیَّة: فلمی کہانی، ڈرامائی کہانی۔
__ هَزْلِیَّة: مزاحیہ ناول۔
__ مُحْزِنَة (مَأْسَاۃ): داستانِ غم ٹریجڈی۔
رَوِیَّة: سوچ، غور (۲) ذہن (۳) قوتِ فکر
رَیّ: آبپاشی، سیرابی۔
رَیَّان، مُرْتَوٍ: سیراب (۲) تروتازہ
رِیَة (رِئَة): پھیپھڑا۔
تَرَوٍّ: تفکر۔
بِتَرَوٍّ: سوچ کر، غور فکر سے۔

ر............ی

رَیْبٌ، رِیْبَة، اِرْتِیَاب: شک۔
رَابَه ـِ رَیْباً ورِیْبَةً و أَرَابَ: شک میں ڈالنا۔
اِرْتَیَابَ: شک میں پڑنا۔
تَرَیَّبَ و اسْتَرَابَ: کسی کی طرف سے شک میں ہونا اور ڈرنا۔
مُرْتَابٌ: شکی، شک کرنے والا۔
مُرْتَابٌ فِی العَقِیْدَۃ: بددین۔
مُرِیْب: مشکوک، قابل شک، شک میں ڈالنے والا۔
رَیْثَمَا: اتنی دیر کہ، اس قدر کہ۔
رَاثَ ـِ رَیْثاً و تَرَیَّثَ: ٹھہرنا، توقف کرنا، دیر کرنا۔
رَیَّشَ الطَّائِرُ وراشَ ـِ رَیْشاً: پرندہ کے پر نکل آنا۔
رَاشَ ـِ رَیْشاً و تَرَیَّشَ: مال جمع کرنا۔
رَاشَ السَّهْمَ: تیر میں پر لگانا۔
رِیْشٌ ج: اَرْیَاش: پر۔
رِیْشَةُ الکِتَابَة: قلم۔
رِیْشَةُ المُصَوِّر: نقاش کا برش۔
رِیْشِیّ: پروں کا۔
رَیْعُ المَالِ: مال سے فائدہ اٹھانا، دولت کو بڑھانا۔
رَاعَ ـِ رَیْعاً و رُیُوْعاً ورَیَعَاناً: نشوونما پانا۔
رَیْعٌ: پیداوار غلہ (۲) نفع۔
رَیْعٌ و رَیْعَان: ہر چیز کا اول و افضل حصہ۔
اَرْضٌ مَرِیْعَة: زرخیز زمین۔
رِیْف ج: اَرْیَاف: دیہات، کھلی جگہ، زراعتی زمین۔
رِیْفِیّ: دیہاتی، زراعتی۔
رِیْق: لعاب ج: اَرْیَاق و رِیَاق
بَلَعَ رِیْقَه: سانس لینا، آرام کرنا۔
(ریل) رَالَ ـِ رَیْلاً و رَیَلَ: رال بہنا۔
رِیَال: ایک سکہ برابر ۲۰۰ ملیم تقریباً، ڈالر۔
رَیَّمَ و رَامَ ـِ رَیْماً بِالْمَکَانِ: قیام کرنا۔

رَئمٌ: رِئمٌ: سفید ہرن (۲) قبر (۳) چھوٹا پہاڑ۔
رَئِمَ عَلَيَّ: دھمکی دینا (ا)
رِئمَة: دیمچی کا ابال۔
رَانَ ـــ رَيْناً و رُيُوناً: غالب آنا۔
رَانَتْ فَتْرَةٌ مِنَ الصَّمْتِ: سکوت طاری ہوگیا۔
(ربی) اَرْبَى الرَّايَةَ: پرچم اٹھانا، جھنڈا گاڑنا۔
رَايَة ج. رَايَات: پرچم، جھنڈا۔
رَايَةُ شَادن: پتنگ۔

ز

ز.........أ

زِئبَق: پارہ (فرّار)۔

زَأبَقَ الشئَ: پارہ کی قلعی کرنا۔

زِئبَقِی: پارہ کا، پارہ نما، سیمابی، تیز طرار۔

زَأَرَ ـَـ زَئِرَ ـَـ زَأرً وزَئِیرًا: چنگھاڑنا، گرجنا، گرج کر بولنا، شیر کا چیخنا۔

زَئِیر: شیر کی چنگھاڑ، آواز، گرج۔

ز.........ب

زَبَّبَ العِنَبَ: انگور کو خشک کرنا۔

تَزَبَّبَ العِنَبُ: انگور کا خشک ہونا۔

زَبِیبٌ: منقی، خشک انگور۔

زَبِیبٌ بَنَاتِیّ: کشمش۔

زَبَدَ اللَّبَنَ ـِ زَبدًا: بلونا، مکھن نکالنا۔

زَبَّدَ اللَّبَنُ: دودھ پر مکھن آنا۔

أزبَدَ: (۱) جھاگ آنا (۲) غصہ آنا، پیچ و تاب کھانا۔

زُبدَةٌ: مکھن، کریم، بتر ج: زُبَدٌ

زُبدَةُ الشئِ: خلاصہ، جوہر، اصل جوہر، بہترین حصہ۔

زُبدَةُ المَوضُوع: خلاصہ مضمون۔

زَبَدٌ: جھاگ (۲) میل، گندگی ج: أزبَادٌ

زِبدِیَّة (سُلطَانِیَة): پیالہ ج: زَبَادِیّ

زَبَاد: ایک قسم کی خوشبو۔

لَبَنٌ زَبَادِیّ: چھاچھ، کھٹا دودھ۔

الزَّبَادِیّ: دہی۔

زِبرٌ ج: زُبُور: کتاب۔

زَبُورٌ: ج: زُبُرٌ: کتاب، کتاب داؤد علیہ السلام

زُبرٌ و: زُبرَة: لوہے کا بڑا ٹکڑا۔

زِبرَا: (معرب) زبرا، گورخر۔

زِبرِج: زینت، زیور۔

زَبَرجَد: ایک قیمتی پتھر۔

زَبَطَ البَطُّ ـِ زَبطًا و زَبِیطًا: مرغابی کا بولنا۔

زَبطٌ: کیچڑ

زَوبَعَة: طوفان ہوا، مصیبت، سمندری طوفان، سخت آندھی ج: زَوَابِع

زَبَقَ ـُ زَبقًا: بال اکھاڑنا، چونٹنا

زِبلٌ: گوبر۔

ـــ الحَمَام: کبوتر کی بیٹ۔

زَبَّال: صفائی کرنے والا، غلاظت اٹھانے والا بھنگی۔

زُبَالَة: کوڑا، جھاڑن۔

صُندُوقُ الزُبالَة: کوڑے کا ڈبا، کوڑا جمع کرنے کا ظرف۔
عَرَبَةُ الزُبالَة: کوڑے کی گاڑی۔
مِجرَفَةُ الزُبالَة: کوڑا اٹھانے کا پنجہ۔
زَنبِيل ج: زَنابِيل: ٹوکری، کنڈی، پتوں کا بنا ہوا تھیلا، بید کا بنا ہوا تھیلا۔
مَزبَلَة ج: مَزابل: کوڑا خانہ۔
(زبن) زُبَانَى، زَبَانٌ: کانٹا، ڈنک
زَبانِيَة: وہ فرشتے جو کافروں کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔
زَبُون ج: زَبائِنُ: کسٹمر، آسامی، گاہک۔
زُبيَةٌ و: زُبىً: عمارت کا وہ پشتہ جس پر پانی نہ پہنچ سکے۔
بَلَغَ السَّيلُ الزُبىَ: پانی سر سے گزرنا، معاملہ حد سے بڑھنا۔

ز............ج

زَجَجَ الحَاجِبَ: ابرو کو باریک کرنا، لمبا کرنا۔
___ : (۲) شیشہ بنانا۔
زَجَّ ــُـ زَجّاً: پھینکنا، ڈالنا۔
زَجَّهُ و به في السِّجن: قید کرنا۔
زُجُّ العَصا: لاٹھی کا نچلا لوہا۔
___ الشَرِيط: ٹیگ، فیتہ کے سرے پر لگا ہوا باریک لوہا وغیرہ جس کے ذریعہ کاغذ نتھی کیا جاتا ہے۔
زُجاج: گلاس، آبگینہ، کانچ، شیشہ۔
زُجاجٌ مُسَطَّح: ہموار شیشہ۔
زُجاجَة: شیشی، بوتل (۲) شیشہ کا ٹکڑا
زُجاجِيٌّ: شیشہ کا
أَوَانٍ زُجاجِيَّة: شیشے کے برتن۔

زَجَرَ ــُـ زَجراً: ڈانٹنا، دھمکانا، جھڑکنا۔
___ عن: منع کرنا، روکنا۔
اِزدِجار، اِنزِجار: رکنا، باز آنا۔
زَجرٌ: دھمکی، ڈانٹ، جھڑکی، ممانعت۔
زَاجِرٌ: (۱) دھمکانے والا (۲) ضمیر (۳) دھمکی ج: زَوَاجِرُ
زَجَلَ ــُـ زَجلاً: (۱) تیر مارنا (۲) کبوتر کو دور جگہ بھیجنا۔
حَمامُ الزَّاجِل: نامہ بر کبوتر۔
زَجىٰ و أَزجىٰ: ہانکنا، لے جانا۔
أَزجَى التَّحِيَّةَ: سلامی دینا۔
___ الشُكرَ: شکریہ ادا کرنا۔

ز............ح

زَحَرَ ــَـ زَحِيراً، وزُحاراً، و زُحارَةً: آہ بھرنا، مرض پیچش میں مبتلا ہونا۔
زُحارٌ، زَحِيرٌ: درد و بے چینی کی آواز۔
زَحزَحَة: ہٹانا۔
تَزَحزَحَ عَن مَكانِهِ: اپنی جگہ سے ہٹنا۔
زَحَفَ ــَـ زَحفاً و زُحُوفاً، و زَحَفاناً: رینگنا، گھسٹنا، آہستہ چلنا (۲) زمین کو ہموار کرنا۔
___ الجَيشُ: فوج کا دشمن کی طرف بڑھنا پیش قدمی کرنا۔
زَحّافَة: (۱) رینگنے والا جانور (۲) زمین کو ہموار کرنیوالا آلہ۔
زَحف: مارچ، پیش قدمی۔
زَحفٌ على السُّلطَة: اقتدار کے لیے دوڑ دھوپ۔
زَحفٌ و تَقَدُّم: پیش قدمی۔

زَحَلَ عَنْ مَكَانِه ــ زَحْلاً و زُحُولاً: ہٹنا۔
إزْحَال، تَزْحِيل: دور کرنا، ہٹانا۔
زُحَلٌ: ایک سیارہ۔
زَحْلَقَة: پھسلانا، لڑھکانا، جگہ کو پھسلواں بنانا۔
تَزَحْلَق: پھسلنا، پھسلواں ہونا۔
قَبْقَابُ الزَّحْلَقَة: پہیہ دار کھڑاؤں
زُحْلُوقَة، مَزْلَقَة: پھسلواں زینہ، وہ تختہ جس سے بچے پھسلتے ہیں۔
زَحَمَ ــ زَحْماً و زَحْمَةً و زَاحَمَه: ہجوم کرنا، بھیڑ لگانا، تنگی پیدا کرنا۔
زَحَمَ الطَرِيقَ: راستہ روکنا۔
زَحْمَةُ المُرُوْر: ٹریفک جام، ٹریفک کی کثرت
زَاحَمَه مُزَاحَمَةً: مقابلہ کرنا، رکاوٹ بننا، مزاحم ہونا، ٹکر لینا، مناظرہ کرنا۔
ازْدِحَام: جگہ کا کثرت عدد سے تنگ ہونا۔ بھیڑ ہونا، ہجوم ہونا، بھر جانا۔
تَزَاحُمٌ: کھوے سے کھوا ملنا، ایک دوسرے کے لیے مزاحم ہونا۔
زَحْمَة، زِحَام، ازْدِحَام: بھیڑ۔
مُزَاحِم: مقابل، مخالف۔
مُزَاحَمَة: مقابلہ، ٹکر، مخالفت، کمپیٹشن۔
مُزَاحَمَةٌ على المَنَاصِب: عہدوں کی لڑائی۔
زِحَامٌ: ازدحام، ہجوم۔
بِنْزِیْ مُزْدَحَمٌ: بھرا ہوا، بھیڑ لگا ہوا۔
بِنْزِی: مصروف۔

ز.........خ

زَخَّ الجَمْرُ ــِ زَخًّا و زَخِيخاً: چنگاری کا چمکنا۔
زَخِيخ: چمک، تارہ۔
زَخَرَ البَحْرُ ــَ زَخْرًا و زُخُورًا، و زَخِيرًا: دریا کا چڑھنا، موجیں مارنا۔
زَاخِرٌ: بھرا ہوا، ٹھاٹھیں مارتا ہوا۔
زَخْرَفَة: مزین کرنا، آراستہ کرنا، ملمع کرنا، ایمبرائیڈر
زُخْرُف ج زَخَارِف: زینت، ڈیکوریشن، سجاوٹ، سامان زینت، باطل و بے حقیقت چیز۔
زُخْرُفِي: آرائشی، زیبائشی۔
مُزَخْرَف: آراستہ۔
مُزَخْرِف: ڈیکوریٹر، آراستہ کرنے والا۔
زَخَمَ ــَ زَخْماً: سختی سے ہٹانا، دھکیلنا۔
زَخِمَ اللَّحْمُ ــَ زَخَماً و زَخَمَةً: گوشت میں بدبو ہونا۔
زَخَمَة: بدبو (۲) کوڑا۔

ز.........ر

زَرَبَ المَوَاشِيَ ــُ زَرْباً: جانوروں کو باڑے میں بند کرنا۔
زَرِبَ المَاءُ ــَ زَرَباً: پانی بہنا۔
زَرِيبَة ج: زَرَائِبُ: جانوروں کا باڑا، شیڈ، سائبان۔
مِزْرَابٌ ج: مَزَارِيبُ: پرنالہ۔
زَرَدَ ــُ زَرْدًا: گلا گھونٹنا۔
زَرِدَ ــَ زَرْدًا و زَرَدًا: جلدی جلدی لقمہ نگلنا۔
زَرْدُشْتِي: آتش پرست۔
الزَّرْدِيَة: پلاس۔
زَرَّرَ و زَرَّ القَمِيصَ ــُ زَرًّا: گھنڈی لگانا،

بٹن لگانا۔
زَرْعِينَه: آنکھ کو تنگ کرنا۔
زِرّج: أزرار: بٹن، گھنڈی (۲) قمیص کی آستین۔
زِرّ كَهْرَبَائِيّ: بجلی کا بٹن، سوئچ۔
__ الطَّرْبُوش: ترکی ٹوپی کا پھندنا۔
__ الجَرَسِ الكَهْرَبَائِي: بجلی کی گھنٹی کا بٹن۔
زَرْزَرَ العُصْفُورُ: چڑیا کا بولنا۔
زَرَعَ ــ زَرْعًا و زِرَاعَةً: بیج ڈالنا، بونا۔
__ الأَرْضَ: زمین میں کاشت کرنا۔
__ النَّبَاتَ: گھاس بونا۔
زَرْعٌ ج: زُرُوع: کھیتی، بوئی ہوئی چیز۔
زَرْعُ الخَوْف: دہشت پھیلانا۔
زِرَاعَة: کاشت، کھیتی باڑی، کاشتکاری
__ البَسَاتِين: باغ لگانا۔
زِرَاعِيّ: کاشت سے متعلق، زراعتی۔
خَبِيرٌ زِرَاعِيّ: ماہر زراعت۔
زَرَّاعٌ، زَارِعٌ: (۱) کاشتکار، کسان (۲) صاحب کاشت، مالک کاشت۔
الزِّرَاعَة الكَثِيفَة: گھنی کھیتی۔
الزِّرَاعَةُ المُرَكَّزَة: زبردست کھیتی۔
مَزْرَعَة: فارم، کھیت۔
مَزْرَعَةٌ تَعَاوُنِيَّة: امداد باہمی فارم۔
مَزْرَعَةُ دَوَاجِن: مرغیوں وغیرہ کا فارم۔
مَزْرَعَةٌ نَمُوذَجِيَّة: نمونہ کا فارم۔
مُزَارِعٌ: کسان، کاشتکار۔
زَرَفَ ــ زَرْفًا: کودنا۔
__ فِي الكَلَام: جھوٹ ملانا۔
زَرِفَ الجُرْحُ ــ زَرْفًا: زخم کا ہرا ہونا۔
زَرَافَة: زرافہ، ایک جانور جو اونٹ کے مشابہ ہوتا ہے، اگلی ٹانگیں لمبی اور پچھلی چھوٹی ہوتی ہیں (۲) جماعت۔
زَرَافَات: (۱) جماعتیں (۲) گروہ گروہ
زَرَقَ الطَّائِرُ ــ زَرْقًا: بیٹ کرنا۔
زَرِقَ ــ زَرَقًا و زُرْقَةً: نیلگوں ہونا، آسمانی رنگ ہونا۔
زَوْرَق ج: زَوَارِق: چھوٹی کشتی، جہاز
__ بُخَارِيّ: اسٹیمر، موٹر بوٹ، اسٹیم لانچ
زَوْرَقٌ مُوطَرِيٌّ: موٹر بوٹ۔
زَوْرَقُ الإِطْفَاء: فائر بوٹ۔
زَوْرَقُ الصَّوَارِيخ: راکٹ بردار چھوٹا جہاز۔
أَزْرَقُ: نیلا ج: زُرْق
__ سَمَاوِيّ: آسمانی۔
القُبَّةُ الزَّرْقَاءُ: آسمان
زَرْكَشَة (مع): مزین کرنا، نقش و نگار بنانا۔
زَرْكَشٌ: چاندی کے تاروں کا ریشمی کپڑا۔
زَرَى ــ زَرْيًا و زِرَايَةً و تزريًا عَلَى: عیب لگانا۔
أَزْرَى بِهِ: عیب لگانا، ذلیل کرنا۔
__ بِالأَمْر: حقیر و ذلیل سمجھنا۔
اِسْتِزْرَاء: عیب لگانا، حقیر سمجھنا۔
زَرِيّ: عیب دار، حقیر، قابل نفرت (۲) معمولی، تھوڑا۔
اِزْدِرَاء: حقارت، ذلت، عیب
مُزْدَرٍ: حقارت آمیز، عیب دار۔

ز .... ع

زَعَجَ ۔ زَعجاً و أَزْعَجَ: گھبرانا، گھبرادینا، پریشان کرنا، ڈرانا، ہوش اڑانا۔
إِزْعَاج: گھبراہٹ، پریشانی۔
انزِعَاج: ڈرنا، سہنا گھبراجانا۔
زَعَجٌ، انزِعَاج: گھبراہٹ، پریشانی۔
مُزْعِجٌ: پریشان کن، وحشتناک، ڈراؤنا۔
زَعِرٌ، أَزْعَرُ: کم بالوں والا۔
أَزْعَرُ: بے دم۔
زَعْزَعَة: ہلانا۔
تَزَعْزُعٌ: ہلنا۔
زَعْزَعٌ ج: زَعَازِعُ: سخت ہوا، تیز ہوا
زَعَفَ ۔ زَعْفاً: فوراً مارڈالنا۔
زَعَقَ ۔ زَعْقاً: چیخنا، چلانا۔
زَعْقٌ، زَعِيق: چیخ، آواز۔
مَاءٌ زُعَاق: تلخ وکڑوا پانی۔
زَعِلَ ۔ زَعَلاً: تنگ دل ہونا، مکدر رہونا
تَزْعِيل: (دا) مکدر بنانا، بے کیف کرنا۔
إِزْعَال: پریشان کرنا، تنگ دل کرنا۔
زَعِل، زَعْلاَن: تنگ دل، پریشان۔
زَعَمَ ۔ ـُ ۔ زَعْمًا و زِعْمًا، و زُعْمًا و مَزْعَمًا: دعویٰ کرنا، بے حقیقت دعویٰ کرنا۔
زَعُمَ ۔ ـُ ۔ زَعَامَةً: لیڈر بننا، سردار بننا۔
زَعْمٌ: دعوی
زَعَامَة: لیڈری، لیڈرشپ، سرداری، قیادت
زَعِيمٌ ج: زُعَمَاء: لیڈر، صدر، سردار، پیشوا، راہنما۔
ـــ عِصَابَة: کسی گروہ کا سرغنہ، سردار، گروپ لیڈر۔

الزَّعِيمُ الرُّوحِي: مذہبی پیشوا۔
الزُّعَمَاءُ الرُّوحِيُّون: مذہبی پیشوا۔
الزُّعَمَاءُ المُحَافِظُون: روایت پسند رہنما۔
تَزَعُّمُ الأَحْزَاب: پارٹیوں کا لیڈر بننا۔
تَزَعُّمُ فِكْرَة: کسی خیال کا مدعی ہونا۔
مَزْعُوم: نام نہاد۔
مَزَاعِمُ: دعوے۔

ز............غ

زَغَبٌ: چھوٹے بال، چھوٹے پر۔
زَغْزَغَة: پوشیدہ کرنا، چھپانا۔
زَغَلَ ۔ زَغْلاً: ڈالنا، پانی ڈالنا۔
زُغْلُول ج زَغَالِيلُ: بچہ۔

ز............ف

زَفَّتَ تَزْفِيتاً: تارکول ملنا، لگانا، ڈالنا
زِفْتٌ: تارکول۔
زَفَرَ ۔ ـِ ۔ زَفْرًا و زَفِيرًا: لمبی سانس لینا (۲) لمبی لمبی آہیں بھرنا (۳) آگ بھڑکنے کے وقت آواز نکلنا۔
زَفَّرَ تَزْفِيرًا: چکناہٹ ملنا۔
زَفِرٌ: میلا، بودار۔
زَفْرَة ج: زَفَرَات: لمبی سانس، آہ
زَفِير: سانس کی آواز۔
زَفْس: (مع) زیس، کوہ اولمپس کے دیوتاؤں کا سردار۔
زَفَّ الطَّائِرُ ۔ ـِ ۔ زَفًّا و زَفِيفًا: پرندہ کا پر پھیلانا۔
زَفَّ العَرُوسَ إِلَى زَوجِهَا ۔ ـُ ۔ زِفَافًا و زَفَّةً: دولہن کو رخصت کرنا، شوہر کے

گھر بھیجنا۔
زَفَّ البُشریٰ: خوشخبری دینا۔
زَفَّة: جلوس۔
زِفَاف: رخصت، شادی۔
مِزَفَّة: پالکی، دولہن کی گاڑی۔
ز............ق
زَقْزَقَ الطَّائِرُ فَرْخَه: پرندہ کا اپنے بچہ کو چوگا دینا۔
___ الطِّفْلَ: بچہ کو پاؤں پر بٹھا کر نچانا۔
زَقَفَ ـُ زَقْفًا: اچکنا۔
زَقَّ الطَّائِرُ ـُ زَقًّا: پرندہ کا بیٹ کرنا۔
زِقُّ المَاءِ: مشکیزہ ج: زِقَاق و أَزْقَاق زُقَاق ج: أَزِقَّة: تنگ راستہ، گلی
زَقَمَ ـُ زَقْمًا: نگلنا۔
زَقَمَ الكِتَابَ: کتاب کا حاشیہ کاٹنا۔
ز............ک
زَكَبَ ـُ زَكْبًا: برتن کو بھرنا۔
زَكِيبَة: (دا) بوری، بڑا تھیلا۔
زَكَمَ ـُ زَكْمًا: زکام کا سبب بننا، زکام میں مبتلا کرنا۔
زُكِمَ ـــ زُكَامًا و زُكْمَة: زکام میں مبتلا ہونا۔
زَكَنَ ـَ الأَمرَ زَكْنًا: تاڑنا، سمجھنا۔
زَكَانَة: اصابت رائے، سمجھ بوجھ۔
(زکو) زَكَا ـُ زُكُوًّا و زَكِيَ ـَ زَكِيَ و زَكَاءً: (۱) نیک وصالح ہونا (۲) کھیتی کا بڑھنا، خوش عیش ہونا، نشو ونما پانا۔
زَكِيَ ـَ بِه: لائق ہونا۔
زَكَّى تَزْكِيَةً: پاک کرنا، نیک کرنا۔

___ المَالَ: مال کی زکوۃ دینا۔
تَزْكِيَة: تصدیقنامہ، کیریکٹر سارٹیفکٹ
زَكَاة: (۱) پاکیزگی (۲) مال کی مقررہ مقدار جو صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے ادا کرنی ضروری ہے۔
زَكِيّ: نیک وصالح۔
ز............ل
زَلَابِيَة: (مع) جلیبی، گلگلے وغیرہ۔
زَلَجَ البَابَ ـُ زَلْجًا: دروازہ کو چٹخنی سے بند کرنا۔
زَلِجَ ـــَ زَلَجًا: پھسلنا، لڑھکنا، (۲) پھسلتے ہوئے چلنا۔
زَلَجٌ، زَلِيجٌ: پھسلواں۔
مِزْلَاج ج: مَزَالِيج: چٹخنی۔
مِزْلَجٌ ج: مَزَالِج: پہیوں دار کھڑاؤں جس پر پاؤں رکھ کر پھسلتے ہوئے چلتے ہیں۔
مَزْلَجَة: پھسلنے کی جگہ۔
زَلَحَ ـَ زَلْحًا: چکھنا۔
زَلَحَتْ رَأْسُهُ: (۱) سر کے بال اڑجانا۔
أَزْلَحُ: گنجے سر کا۔
زَلْزَلَة: ہلانا، جھٹکے دینا، بھونچال لانا (۲) زلزلہ۔
تَزَلْزُل: ہلنا، جھٹکا لگنا، بھونچال آنا
مِقْيَاسُ الزَلَازِل: زلزلہ پیما۔
زَلَطَ ـِ زَلْطًا: تیز چلنا۔
___ (دا): نگلنا۔
زَلَّطَ الأَرْضَ تَزْلِيطًا: زمین میں کنکریاں ڈالنا، کنکریٹ بچھانا، (۲) برہنہ کرنا۔
تَزَلَّط: (۱) برہنا ہونا۔

زَلَطٌ و : زَلَطَة: کنکری، کنکریٹ۔
وَابُورُ الزَّلَط: سڑک کوٹنے کا انجن
زَلَعَة: (۱) بڑا مرتبان۔
زَلَفَ ـُ زَلْفًا و زَلِيفاً و تزَلَّفَ إِليه: آگے آنا، قریب آنا، تقرب حاصل کرنا۔
ـــ و زَلَّفَ تَزْلِيفًا: آگے کرنا، قریب کرنا۔
زَلَفٌ ، زُلْفی، تَزَلُّف: قرب، تقرب،
مُتزلِّف: طفیلی۔
زَلِقَ ـَ زَلَقًا: پیر پھسلنا۔
زَلَّـقَ تَـزْلِـيـقـاً: پھسلانا، دور کرنا، چکنا کرنا۔ پھسلواں بنانا۔
زَلِقٌ: پھسلواں، چکنا۔
زُلَّيق: آڑو۔
مَـزْلَـقَـان: لیول کراسنگ، ریلوے کراسنگ
زَلْقَة: ایک لغزش۔
زَلاقة، مَزْلَقَة: پھسلواں جگہ۔
انْزِلَاق: پھسلنا، نہ جمنا، نہ ٹھہرنا۔
مِزْلَقَة: پھسلنے کا تختہ۔
زَلَّ ـِ زَلًّا و زَلَلاً: (۱) غلطی پر ہونا (۲) پیر پھسل کر گرنا، لغزش کرنا، ٹھوکر کھانا
إِزْلال: لغزش کرانا، ٹھوکر کا سبب بننا۔
زَلَّة: غلطی، لغزش، ٹھوکر۔
زُلال: صاف شیریں پانی۔
زُلَالُ الْبَيْض: انڈوں کی سفیدی
زَلَمَة: ہیئت، قد۔

ز............م

زَمُتَ ـُ زَمَاتَةً و تزَمَّتَ: باوقار ہونا، پر شوکت ہونا، سنجیدہ ہونا۔
زَمْجَرَة: دڑو کنا، چنگھاڑنا، شور مچانا۔
زَمْجَرَةُ الْمِدْفَعِيَة: توپ خانہ کا گونجنا، توپخانہ کی گرج۔
زَمَرَ ـِ زَمْرًا و زَمِيرًا و زَمَرَ: بانسری بجانا
زُمْرَة ج: زُمَرٌ: جماعت، گروپ۔
زُمْرَةُ الْمُنْتَخِبِين: ووٹروں کا حلقہ، حلقہ انتخاب۔
زَمَّارٌ، زَامِرٌ: بانسری بجانے والا۔
زَمَّارَة، مِزْمَار: بانسری، بین۔
مَزَامِيرُ: و: مِزْمَار: بانسری، بین (۲) مخصوص گیت (۳) و: مَـزْمُـور: حضرت داؤد علیہ السلام کی دعائیں وغیرہ۔
زُمُرُّد: ایک قیمتی پتھر۔
زَمْزَمَة: گونج، گرج۔
زَمْـزَمِيَّة: پانی کی بوتل، صراحی (۲) تھرماس ج: زَمْزَمِيَّات
زَمْزَمَةُ الصَّارُوخ: راکٹ کی خوفناک آواز۔
زَمَعَ و أَزْمَعَ على: عزم کرنا، پختہ ارادہ کرنا
مُزْمِعٌ: عازم، قریب الوقوع۔
زَمَلَ ـُ زَمْلاً و زَامَلَة: ساتھی ہونا، رفیق کار ہونا۔
زُمْلَة: ساتھی، جماعت، ایسوسی ایشن۔
زَمِيلٌ ج: زُمَلاء: ساتھی۔
زَمِيلٌ فی صِنَاعَةٍ أو مَنْصِبِ: ہم پیشہ، ہم عہدہ۔
زَمِيلٌ فی عَمَلٍ: رفیق کار، شریک کار، پارٹنر
زِمَالَة: رفاقت، رفاقت کار۔
إِزْمِيل: رانپی، چھینی۔
زَمَّ ـُ زَمًّا: باندھنا، مضبوط کرنا۔
زِمَاءٌ ج: أَزِمَّة: (۱) لگام (۲) تائی (۳) باگ

ڈور

لَازِمَا لَهُ: بے مہار، بے لگام، آزاد

زَمِنَ ـــَـ زَمَناً و زُمْنَة وزَمَانَةً: (۱) دائمی مریض ہونا (۲) معذوروا پاہج ہونا۔

إِزْمَان: کسی چیز کا دیر تک برقرار رہنا، زیادہ وقت گزرنا (کسی چیز پر) بیماری کا جڑ پکڑنا، دائمی ہونا۔

زَمِنٌ: اپاہج، دائم المرض۔

زَمَنٌ: صائم، زمانہ، وقت ج: أَزْمَانٌ و أَزْمُنٌ

الزَّمَنُ فی صَالِحِ المُتَفَائِل: زمانہ امیدوار کے مفاد میں ہے۔

زَمَنٌ قِیَاسِیٌ: متعین وقت۔

زَمَنِیٌ: وقتی، دنیوی، عالمی۔

الخَیْرَاتُ الزَّمَنِیَّةُ: دنیوی اقتدار۔

القُنْبُلَةُ الزَّمَنِیَّة: ٹائم بم۔

زَمَانَة: اپاہج پن، دائمی بیماری۔

مُزْمِن: کہنہ، جڑ پکڑا ہوا، (مرض) پرانا، دائمی۔

زَمْهَرِیر: شدید سردی۔

ز............ن

زَنَّأ بَوْلَه ـــَـ زَنْئًا: پیشاب روکنا۔

زَنَّأَ عَلَیه تَزْنِئَةً: تنگی کرنا۔

زَنَاةُ البَوْل: پیشاب کا بند، بندش۔

زَنْبَرَ عَلَیْه: تکبر کرنا۔

زُنْبُرٌ ج: زُنْبُرکَات: اسپرنگ، پیچ دار کمانی۔

زُنْبُرکِیّ: اسپرنگ دار

زُنْبُور: بھڑ ج: زَنَابِیر

زُنْبَة: سوراخ کرنے کا اوزار۔

زَنْبِیل: کنڈی، ٹوکری ج: زَنَابِیل

زِنْجٌ ج: زُنُوجٌ و زِنْجِیّ: کالا آدمی، نیگرو قوم۔

زَنْجَبِیل: سونٹھ، ادرک۔

زَنِخَ الزَّیْتُ ـــَـ زَنَخًا: تیل کا خراب ہونا۔

زَنْدٌ ج: زِنَادٌ: چقماق۔

__ البُنْدُقِیَة: بندوق کا گھوڑا۔

زَنْدَقَة: کفر اختیار کرنا، کافرانہ روش اختیار کرنا۔

تَزَنْدُق: ملحد ہونا، کافر ہونا۔

زِنْدِیق ج: زَنَادِقَة: کافر، ملحد۔

زِنْزَانَة: جیل کی کوٹھری ج: زِنْزَانَات

زَنَقَ ـــِـ زَنْقًا: بخل کرنا، تنگی کرنا، اخراجات میں کمی کرنا۔

زِنَاق: طوق۔

زِنْک: (توتیا، خارصین) جست، تانبے اور جرمن سلور کا مرکب جو بلاکوں کے چھاپنے اور بجلی کی بیڑی وغیرہ میں کام آتا ہے۔

زَنِمٌ، أَزْنَمُ: کن کٹا۔

زَنِیم، مُزَنَّم: کمینہ، اجنبی۔

زَنَّ ـــِـ زَنًّا: (دا) ٹن ٹن بولنا، گونجنا۔

زَنّ: آواز، گونج۔

زَنُوبِیَا: (دا) سگار۔

زَنَی ـــِـ زَنْیًا و زِنًی: بدکاری کرنا، زنا کرنا۔

ز............ھ

زَهِدَ ـــُـ فیه و عنه زُهْدًا وزَهَادَةً: کنارہ کش ہونا، بے پرواہ ہونا، چھوڑنا۔

__ فِی الدُّنْیَا: تارک الدنیا ہونا۔

زُهْد: (۱) مذہبیت (۲) بے رغبتی (۳) دنیا سے بے رغبتی، عبادت گزاری۔

زَهِيد: معمولی، حقیر، تھوڑا۔
زَهِد ج: زُهَّاد: خدارسیدہ، انتہائی عبادت گزار، تارک الدنیا۔
__ فی شیئ: کنارہ کش، بے تعلق۔
الزَّاهِدُ فی المَنصِب: عہدہ سے کنارہ کش، ناطلب گار عہدہ۔
زَهَرَ ـــ زُهُورًا و زَهرًا: چمکنا۔
اِزْدِهَار: فروغ پانا، روشن ہونا، چمکنا، سرسبز و تازہ ہونا، عروج پر پہنچانا، زور پکڑنا (۲) ترقی، بہار، درخشانی، فروغ۔
إزْهَار و تزْهِير: روشن کرنا۔
زَهْرَة: کلی، پھول
زَهرَةُ الدُّنيا: دنیوی آرائش۔
زَهرَةُ الكِبرِيت: پھول جھڑی۔
زَهْر ج: أزْهار: پھول۔
زُهرَة: ایک سیارہ کا نام۔
زَهرِيَّة ج: زَهرِيَات: گلدان پھول رکھنے کا برتن۔
زَاهِر: روشن، چمکدار
زَاهِر و مُزْهِر: پھولدار
أزْهَرَ الشَّجرُ إزْهَارًا: درخت پر پھول آنا۔
مِزْهَر: عود، آلہ طرب ج: مَزَاهِر
مَزْهَرِيَّة: گلدان۔
أزْهَر: روشن، چمکدار
الأزْهَرَان: شمس وقمر
زَهَقَتْ نَفسُه ـــ زُهُوقًا: (۱) روح نکلنا (۲) ہلاک ہونا۔
زَهِقَ الشئ ـــ زُهوقًا: (۱) ناپید ہونا (۲) کمزوروست پڑجانا۔
زَهِقَ منه: (دا) تنگ آنا۔
إزْهَاق: باطل کونیست ونابود کرنا، ناپید کرنا، ہلاک کرنا، کمزور بنانا۔
زَاهِق، زَهُوق: کمزوروست ہلاک وناپید ہونے والا۔
زَهقَان: تنگ دل، پریشان (دا)
(زَهُوَ) زَهَا ـــ زَهْواً: (۱) روشن ہونا (۱) نشوونما پانا، بڑھنا (۳) غرور کرنا۔
زَهْوٌ: (۱) غرور (۲) گمراہی (۳) خوشنمائی، بہار، اتراہٹ۔
زُهَاء: مقدار، تقریباً، مانند۔
زَاهٍ: بھڑکدار، چمکدار، روشن۔
لَونٌ زَاهٍ: کھلا ہوا صاف رنگ (ضد قاتم)

ز .... و

زَوَّجَ تزْوِيجًا فُلانًا اِمرَأةً أوبامرَأةٍ: شادی کرنا، بیاہنا۔
تزَوَّجَ فُلانَةً أوبفُلانَةٍ: شادی کرلینا
زَاوَجَه مُزَاوَجَةً: تعلق قائم کرنا یا کرانا
تَــزَاوُج: مختلف لوگوں یا خاندانوں کا شادی کے ذریعہ باہم متعلق ہونا۔
اِزْدِوَاجٌ فی الأعْمَال وَبالأعْمَال: دوعملی۔
زَوْج: (۱) خاوند (۲) بیگم، اہلیہ، میڈم (۳) کسی چیز کا جوڑا، دو کا مجموعہ
زَوْجُ أحْذِيَة: جوتوں کا جوڑا۔
زَوْجِی: جفت، عدد جفت۔
زَوْجَة: میڈم، بیگم، اہلیہ۔
زِوَاج: میرج، شادی، بیاہ۔
__ غَيْرُ شَرْعِيّ: ناجائز شادی۔

ـــ عُرفِیّ أو مَدَنِیّ: سول میرج قانونی یا باضابطہ شادی۔
حَفلَةُ الزَوَاج: تقریب شادی
زِوَاجِیّ: ازدواجی۔
زَاجٌ (مِلحٌ أخضَرُ): نیلاتھوتھا۔
مُتزَوِّج، مُزَوَّج: شادی شدہ
مُزدَوِج: ڈپلی کیٹ، ڈبل، دوہرا۔
مُزدَوِجُ الجِنسِيَّة: دوہری شہریت والا۔
رزوح إزَاحَةً: ہٹانا، دور کرنا۔
إزَاحَةُ السِتَارعن شيٍ: پردہ ہٹانا، نقاب کشائی، ظاہر کرنا، فاش کردینا۔
زَاحَ ـُ زَوحًا و زَوَاحًا و انزَاحَ: ہٹنا، دور ہونا، الگ ہونا۔
زَوَّدَهٗ بكذا تزويدًا: دینا، بہم پہنچانا، سپلائی کرنا، مہیا کرنا۔
زَوَّدَهٗ و أزادَه: زادِراہ دینا، اشیائے خوردنی و سامان ضرورت دینا۔
زَادٌ: (۱) توشہ سفر، زادہ راہ (۲) راشن، اشیائے خوردنی ج: أزوَادٌ و أزوِدَة
مِزوَد ج: مَزَاوِدُ: توشہ دان، مسافر کا سفری تھیلا۔
تَزَوَّدبكذا: توشہ لینا، فراہم ہونا، اشیائے ضرورت لینا (۲) لیس ہونا۔
تزَوُّدُ السَّفِينَةِ بأسلِحَةٍ نوَوِيَّة: جہاز کا ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہونا۔
تزوِيدُ الحُكُومَة بالأسلِحَة: حکومت کو ہتھیار سپلائی کرنا۔
تزوِيدُ شيٍ بجسَدِه: باڈی لگانا۔
تزوِيدٌ بمَقَاعِدَ: سیٹنگ، سیٹیں لگانا۔

التزوِيدُ بالبِترُول: پٹرول سپلائی کرنا۔
تزوِيدُ بالتروس: گیرفٹ کرنا۔
التزوِيدُ بجرَايَة: راشن دینا۔
تزوِيدُ بالكَهرَبَاء: بجلی سپلائی کرنا۔
التزوِيدُ بالمُوظَّفِين: اسٹاف مہیا کرنا۔
التزوِيدُ بالمِيَاه: آب رسانی۔
مُزَوَّدٌ بالأسلِحَة الثقِيلَة: بھاری اسلحہ سے لیس۔
زَوَّرَ تزوِيرًا: کھوٹ ملانا، جعلی بنانا، کلام میں جھوٹ کی آمیزش کرنا، جعل سازی کرنا، پرفریب بنانا، بے بنیاد بنانا (۲) جعل سازی، غلط بیانی، فریب کاری۔
زَوِرَ بالطَّعَامِ ـَ زَوَرًا: اچھو ہونا، گلے میں لقمہ اٹکنا۔
زَارَه ـُ زِيَارَةً و زَورًا و مَزَارًا: ملاقات کرنا۔ (۲) مہمان بن کر آنا، (۳) کسی ملک کے دورہ پر آنا یا جانا (۴) کسی مقام کی برکت حاصل کرنے کیلئے آنا یا جانا،
تزَاوُر باہم ملاقات کرنا۔
زُور: (۱) جھوٹ (۲) جھوٹا (۳) بہتان (۴) کھوٹا، جعلی، گھڑا ہوا۔
زَورَة: ایک ملاقات، ایک دورہ۔
زَائِر ج: زُوَّار: ملاقاتی، مہمان، وزیٹر، غیر ملکی مہمان جو سیر وسیاحت کیلئے آئے ہوں۔
زِيَارَة: ٹور، معائنہ، ملاقات، دورہ، کسی جگہ پر آمد ج: زِيَارَات
زِيَارَةٌ خاطِفَة: مختصر دورہ۔
زِيَارَةُ الدَّولَة بدَعوَةٍ رَسمِيَة: سرکاری دعوت پر کسی ملک کا دورہ کرنا۔

زِيَارَةٌ رَسْمِيَة: سرکاری دورہ۔
زِيَارَةٌ رَسْمِيَة لِلدُّوَل: ممالک کا سرکاری دورہ کرنا۔
زِيَارَةٌ قَصِيرَة: مختصر دورہ۔
زِيَارَةُ المَرِيضِ المُشْرِفِ علی المَوْت: جاں بہ لب بیمار سے ملاقات۔
زِيَارَةُ المَعْرِض: نمائش دیکھنا۔
تَزْوِيرُ الانتِخَابات: الیکشن میں جعلسازی، فریب دہی کرنا۔
تَزْوِيرُ الحِسَابَات: حسابات میں جعل سازی کرنا۔
مُزَوَّر: جعلی، باطل، گھڑا ہوا، بے حقیقت۔
مُزَوِّر: جعل ساز۔
مَزَار: قابل زیارت مقام۔
زوس (معرب) زيس: کوہ اولمپس کے دیوتاؤں کا سردار۔
(زوغ) زَاغَ ـُ: نکل بھاگنا۔
زَوَف: (ن) پرندہ کا زمین پر پروں کو ہلانا۔
زَوَّقَ تَزْوِيقاً: آراستہ کرنا، مزین کرنا۔
زُوَيْقَة: تاش کا پتا۔
زَاوُوق: پارہ
مُزَوَّق: آراستہ، ملمع کیا ہوا، چکنی چپڑی بات۔
زَالَ ـُ زَوَالاً وزَوَلاناً: زائل ہونا، معدوم ہونا، ختم ہونا، ناپید ہونا، سورج ڈھلنا۔
لازَالَ، مَازَالَ، لَمْ يَزَلْ: برابر، مسلسل۔
زَاوَلَ العَمَلَ مُزَاوَلَةً: کوئی کام مسلسل کرنا، پیشہ کے طور پر کرنا، پریکٹس کرنا۔
إزَالَة: دور کرنا، زائل کرنا، ختم کرنا۔
إزَالَةُ الآثَار: نشانات مٹانا۔
إزَالَةُ الضَّرُورَة: (دا) پیشاب کرنا
زَوَال: خاتمہ، انعدام۔
زَائِل: ختم ہو جانے والا، زوال پذیر۔
مِزْوَل ج: مَزَاوِلُ: ٹیلیفون کا ڈائل۔
مِزْوَلَة: دھوپ گھڑی۔
مُزَاوَلَة: پریکٹس، مشق۔
مُزَاوَلَةُ السُّلْطَة: اختیارات استعمال کرنا۔
مُزَاوَلَةُ النَّشَاط: سرگرمی شروع کرنا۔
زُولَا: زولا، مشہور فرانسیسی ناول نگار۔
زُولُوجِيَا: (مع) علم الحیوان۔
زَوَى تَزْوِيَةً و تَزَوَّى و انزَوَى: گوشہ نشین ہونا۔
زَاوِيَة ج: زَوَايَا: (۱) گوشہ، کونہ، کارنر (۲) گوشہ عبادت، خانقاہ، درگاہ (۳) نقطہ نظر۔
زَاوِيَةٌ ثَابِتَة: متعین نقطۂ نظر۔

ز............ی

زَيَّتَ الآلَةَ وزَارَتَ ـِ زَيْتاً: مشین کو تیل یا گریس لگانا۔
زَيْت ج: زُيُوت: تیل، روغن زیتون
ــــ الغَاز: مٹی تیل۔
زَيْتِي: تیل نکالنے والا (۲) تیل جیسا
زَيَّات: تیل فروش۔
مَزْيَتَة: آئل کین، تیل ٹپکانے کی کپی۔
زَيْتُون: زیتون کا پھل۔
زَيْتُونَة: درخت زیتون۔
زَيْتُونِي: زیتونی رنگ کا، روغن زیتون کا
زَيْتٌ خَام: غیر صاف شدہ تیل، خام تیل
زَيْتُ الخَرْوَع: کاسٹر آئل۔

زَيْتُ البتْرُول: پٹرولیم۔
زَيْتُ بِتْرُوْلٍ خام: کروڈ آئل، خام تیل۔
زِيج: آسمانی جنتری جس سے سیاروں کا حال معلوم ہوتا ہے۔
__ البَنَّاء: معمار کا سوت
(زيح) زَاحَ ـــِـ زَيْحاً و زُيُوحاً، و زَيَحاناً: دور ہونا، ہٹنا۔
إزَاحة: ہٹانا، دور کرنا، منتقل کرنا۔
__ اللِّثَام عَنْ: نقاب ہٹانا، پردہ ہٹانا، پردہ اٹھانا۔
(زيد) زَادَ ـِـ زِيَادَةً و زَيْدًا: زیادہ ہونا۔
زَادَ= وزَيَّدَ: زیادہ کرنا۔
زَادَعنه: تجاوز کرنا۔
زَادَإلَيه ـِـ زِيَادَةً: اضافہ کرنا۔
زَادَ النَّارَلَهَبًا: آگ پر تیل چھڑکنا۔
زَايَدَ مُزَايَدَةً: قیمت بڑھانا، زیادہ سے زیادہ قیمت لگانا، بولی بولنا۔
تَزَيَّدَ السِّعْرُ: قیمت بڑھنا۔
تَزَايُد: اضافہ۔
تَـزَايُد فی البَيْع: ایک دوسرے سے بڑھ کر قیمت لگانا۔
تَزَايُدُ البَطَالة: بیکاری بڑھنا۔
تَزَايُدُ الشَّكَاوىٰ: شکایات میں اضافہ ہونا۔
تَـزَايُدُ النَّشَاطَات: سرگرمیوں میں اضافہ ہونا۔
ازْدِيَاد: اضافہ، توسیع۔
ازْدِيَادُ الحَمل: لوڈ بڑنا۔
ازْدِيَادُ الضَّغْطِ علي: دباؤ بڑھنا۔
زِيَادَة: (۱) زیادتی، اضافہ (ضد نقص)
(۲) الاؤنس، کام کی مقررہ اجرت کے علاوہ دی جانے والی رقم (۳) فاضل و بقیہ چیز۔
__ علی كذا: اضافہ، شئی مزید۔
زِيَادَةُ الأَسْعَار: قیمتوں میں اضافہ۔
زِيَـادَةُ الإنْتَاج: پیداوار بڑھانا، پیداوار میں اضافہ۔
زِيَادَةُ البَطَالة: بے روزگاری میں اضافہ۔
زِيَادَةُ التَّضخُّمُ فی البِلاد: ملک میں افراد کا اضافہ۔
زِيَادَةُ التَّضَخُّم المَالِيّ: افراط زر میں اضافہ۔
زِيَادَةُ تَوْزِيْع الصَّحِيفَة: اخبار کی اشاعت میں اضافہ۔
زِيَادَةُ خُطُورَةِ المَوقِف: صورت حال کی نزاکت میں اضافہ۔
زِيَادَةُ سُخطِ الشَّعْب و تذَمُّرِه: عوام کی دل برداشتگی اور غصہ میں اضافہ۔
زِيَادَةُ الصَّادِرات: برآمدات میں اضافہ۔
زِيَادَةُ غَلَيَانِ الشَّعْب: عوام کے غصہ میں اضافہ ہونا۔
زِيَادَةٌ فی الأُجُور: مزدوری میں اضافہ، تنخواہوں میں اضافہ۔
زِيَادَةٌ (فی الفَاتُورة): اوور چارج۔
زِيَادَةٌ كَبِيرَة: زبردست اضافہ۔
زِيَادَةٌ مَلْحُوظَة: غیر معمولی اضافہ۔
الزِيَادَةُ مِنْ حِدَّةِ التوَتُّر: کشیدگی میں اضافہ کرنا۔
الزِيَادَةُ مِنَ الخُطُورَة: سنگینی میں اضافہ کرنا۔

زِیَادةُ المَوْقِف اشْتِعَالاً: صورت حال کا زیادہ بھڑک جانا۔
زَائِدٌ: (۱) فاضل از ضرورت، غیر لازم (۲) کثیر (۳) اضافہ شدہ۔
زَائِدٌ عَن الحَدّ: حد سے زائد۔
زَائِدةٌ دُوْدِیَة: زائد آنت، اپنڈکس۔
اِلْتِهَابُ الزَائِدةِ الدُوْدِیَّة: اپنڈی سائیٹس، زائد آنت میں سوزش ہونا۔
مَزَاد: نیلام۔
بَاعَ بالمَزَاد: نیلام کرنا۔
طَرَحَ بالمَزَاد: نیلام میں ڈالنا۔
مُزَایِد (ضد مُنَاقِص): قیمت بڑھانے والا۔
مُزَایَدَة: فروختگی بذریعہ نیلام (ضد مُنَاقَصَة)
مَزِیْد: اضافہ، اضافہ شدہ۔
مُزَایَدات: مبالغ، بڑھا چڑھا کر کی جانیوالی باتیں، بے حقیقت باتیں۔
المُزَایَدةُ فی الخُطَب: تقریروں کا مقابلہ
مُزَایَدةُ مُنَافَسَةِ: مقابلہ کی بولی۔
مُزَایَداتٌ سِیَاسِیَة: سیاسی پیچیدگیاں
مُزَایِد: نیلامی میں بولی لگانے والا۔
زِیْرُ المَاء (دَنٌّ) مٹکا۔
زَیَّطَ و زَاطَ ــِ زَیْطًا و زِیَاطًا: شور مچانا، جھگڑنا۔
زَیَّاط: شور و شعب کرنے والا۔
زَیْغ، زَیَغَان: ٹیڑھ، کجی۔
زَاغَ ــِ زَیْغًا و زُیُوغًا، و زَیَغَانًا: ٹیڑھا ہونا، جھکنا (۲) بھکنا، گمراہ ہونا۔
زَیَّغَ: ٹیڑھا کرنا (۲) کجی درست کرنا۔
أَزَاغَ عَنِ الطَّرِیْق: منحرف کرنا، گمراہ کرنا۔
زَاغ: ایک قسم کا کواج: زِیْغَان
زَاغ جِیْفِیّ: مردار خور کوا۔
زَائِغ: ٹیڑھا، کج، گمراہ۔
زَیَّفَ الدَّرَاهِمَ و زَافَ ــِ زَیْفاً: کھوٹا سکہ بنانا، کھوٹ ملانا، جعلی بنانا۔
زَافَ ــِ زُیُوفاً: کھوٹا ہونا۔
تَزْیِیْف: جعل سازی، فریب کاری، غلط بیانی۔
زَیْف، زَائِف: کھوٹا، جعلی، بے حقیقت
عُمْلَةٌ زَائِفَة: کھوٹا سکہ۔
تَزْیِیف: جعل سازی، فریب کاری، غلط بیانی۔
تَزْیِیفُ العُمْلَة: سکہ میں کھوٹ ملانا۔
مُزَیَّف: جعلی، غیر حقیقی، بے حقیقت۔
مُزَیِّف: جعلساز۔
زِیْقُ الثَّوْب: کالر۔
زِیْقُ البَنَّاء: معمار کی ڈوری یا سوت جس سے ردوں کی ہمواری دیکھی جاتی ہے۔
زِیْق: (۲) (دا) عمارت کا حصہ۔
زَیَّلَ تَزْیِیْلاً: الگ الگ کرنا، جدا کرنا۔
زَایَلَ المَکَانَ مُزَایَلَةً: الگ ہونا، جدا ہونا۔
زَالَ: الگ ہونا، ہٹنا۔
مَازَالَ، لَم یَزَلْ: برابر، مسلسل۔
زَیْلُفُون: (معرب) ایکزیلوفون، ایک چوبی باجا جس میں لکڑی کے پردے ہوتے ہیں اور ضرب لگانے یا رگڑنے سے بجتا ہے۔
زَیَّنَ تَزْیِیناً و زَانَ ــ زَیْناً: آراستہ کرنا،

زیب دینا، سجانا۔
تَزَیَّنَ بکذا: آراستہ ہونا، سجنا، (۲) سر کے بال کترنا۔
تزیین: آراستگی۔
اِزْدِیَان: آراستہ ہونا۔
زَیْنٌ، زَیَانٌ: خوبصورت (۲) زیب، سامان زینت۔
زِیْنَة ج زِیْنَات: آرائش، بناؤ سنگار سامان زینت۔
خِوَانُ الزِّیْنَة: سنگار کی شیشے دار میز
غُرْفَةُ الزِّیْنَة: سنگار کا کمرہ۔
مُزَیَّن، مُزْدَانٌ: آراستہ۔
مُزَیِّن: حجام، بال بنانے والا۔
زِیٌّ: ج: أَزْیَاءٌ: فیشن، اسٹائل (۲) طرز (۳) لباس (۴) بھیس، روپ، ہیئت۔
تَزَیَّابِزِیِّ کذا: بھیس اختیار کرنا، ہیئت بنانا، فیشن اختیار کرنا۔

س

س.........أ

سَأَلَ ۔ سُؤَالاً و تَسْآلاً، وَمَسْأَلَةً: مانگنا، طلب کرنا۔

سَأَلَهُ سُؤَالاً: سوال کرنا۔

سَأَلَهُ عَنْ كذا: پوچھنا، دریافت کرنا۔

أَسْأَلَهُ سُؤْلَه: ضرورت یا طلب پوری کرنا۔

تَسَوَّلَ: بھیک مانگنا۔

تَسَاءَلَ بِانْدِهَاشٍ: حیرت سے پوچھنا۔

سُؤَال ج: أَسْئِلَة: (۱) سوال، باز پرس، انکوائری (۲) طلب (۳) بھیک۔

سُؤَالٌ مَطْرُوح: زیر بحث سوال۔

سَائِل: طالب (۲) پوچھنے والا (۳) مانگنے والا (۴) بہنے والا، سیال چیز (ضد جَامِد)

سَائِلٌ قَابِلٌ لِلالْتِهَاب: آگ پکڑنے والا سیال مادہ۔

مَسْأَلَة ج: مَسَائِل: ضرورت، [illegible]ب (۲) معاملہ، حل طلب معاملہ، قضیہ، مسئلہ، پرابلم۔

مَسْأَلَةٌ تَحْتَ الْبَحْث: زیر بحث سوال۔

الْمَسْأَلَةُ الطَّبِيعِيَّة: معمولی بات۔

مَسْأَلَةٌ مُتفجِّرة: دھماکہ خیز مسئلہ۔

مَسْأَلَةٌ مُجَامَلَة: رکھ رکھاؤ کا مسئلہ۔

مَسْأَلَةٌ يُطْلَبُ حَلُّهَا: قابل حل مسئلہ۔

الْمَسَائِلُ الْكُبْرَى: اہم مسائل۔

الْمَسَائِلُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالدِّفَاع: دفاعی مسائل۔

مَسْئُول: ذمہ دار، جواب دہ۔

مَسْئُولٌ حُكُومِيّ: حکومت کا ذمہ دار۔

مَسْئُولُ التَّمْوِين: سپلائی افسر۔

مَسْئُولٌ عَنْ: انچارج۔

مَسْئُولٌ نِقَابِيّ: آرگنائزر۔

الْمَسْئُولُون: ذمہ داران۔

مَسْئُولِيَّة ج: مَسْئُولِيَّات: ذمہ داری۔

الْمَسْئُولِيَّةُ الْجَمَاعِيَّة: اجتماعی ذمہ داری۔

مَسْئُولِيَّةٌ غَيْرُ مُحَدَّدَة: غیر محدود ذمہ داری۔

الْمَسْئُولِيَّةُ الْفَرْدِيَّة: انفرادی ذمہ داری۔

مَسْئُولِيَّةٌ مُشْتَرِكَةٌ: مشترکہ ذمہ داری۔
الـمَسْئُولِيَّاتُ التَّعَاقُدِيَّةُ: معاہدہ سے متعلق ذمہ داریاں۔
سَئِمَ ـَـ كذا سَآمَةً وسَأْماً: اکتانا، دل اچٹنا، طبیعت اچاٹ ہونا۔ بور ہونا، آزردہ ہونا۔
أَسْأَمَه: اکتا دینا، طبیعت اچاٹ کردینا۔

س ....ب

سَبَانَخ، إِسْبَانَخ: (معرب) اسفاناج، پالک، اسی قسم کی اور سبزی۔
سَبَّبَ تَسْبِيباً: سبب بننا، وجود میں لانا۔
(هٰذَا السَّفَرُ يُسَبِّبُ لَكَ الْمَرَضَ)
تَسَبَّبَ به و إليه: واسطہ اور ذریعہ بننا۔
تَسَبَّبَ بالأَمْر: سبب بننا۔
تَسَبَّبَ عَنْ شَيْءٍ: سبب بننا۔
تَسَبَّبَ في كذا: سبب بننا۔
مُسَبِّبٌ: سبب بننے والا، ذرائع پیدا کرنے والا، محرک۔
سَبَبٌ ج: أَسْبَاب: (۱) علت، وجہ (۲) اصل (۳) باعث و محرک (۴) ذریعہ، واسطہ (۵) دلیل و ثبوت (۶) رسی۔
سَبَبٌ كَافٍ: مکمل ثبوت۔
سَبَبٌ وَاهٍ: کمزور و لچر دلیل۔
سَبَّ ـُـ سَبّاً: گالی دینا، برا کہنا، عیب لگانا، آڑے ہاتھوں لینا۔
سَبَّ الدِّينَ: توہین مذہب کرنا۔
سَابَّه و تَسَابُّوا: باہم گالی گلوچ کرنا۔
سَبٌّ، سِبَابٌ: گالی، تہمت، عیب۔
سَبَّابَة: انگشت شہادت، انگوٹھے سے متصل انگلی۔
سَبَتَ ـِـ سَبْتاً: (۱) مونڈنا (۲) آرام لینا (۳) سبت منانا یعنی سنیچر کے دن مذہبی تقریب کرنا۔
أَسْبَتَ: سنیچر کے دن میں داخل ہونا۔
سَبْتٌ، يَوْمُ السَّبْتِ: سنیچر، شنبہ۔
سَبْتُ النُّورِ: ایک مسیحی تہوار۔
سَبْتِيّ: سبت کا عقیدہ رکھنے والا۔
سَبَتٌ: ٹوکری (دا)
سَبَتُ الجَوَّالَة: سائڈ کار، بغلی کار۔
سُبَات: نیند، اونگھ۔
مَسْبُوت: حالت اونگھ میں، حالت جمود میں، بیماری کی غنودگی کی حالت میں، خواب آلودہ، بے جان و بے سدھ۔
سِبْتَمْبر: (مع) ماہِ ستمبر۔
سَبَحَ ـَـ سَبْحاً و سِبَاحَةً: تیرنا، تیز دوڑنا۔
سَبَّحَ تَسْبِيحاً: پاکی بیان کرنا، تسبیح پڑھنا۔
سُبْحَة: دانوں کی تسبیح۔
سَبْح و سِبَاحَة: تیراکی۔
سَبَّاح: تیراک۔
سَابِح: تیرتا ہوا۔
تَسْبِيحَة ج: تَسْبِيحَات: تسبیح کے کلمات۔
سَبَّخَ تَسْبِيخاً: گہری نیند سونا (۲) زمین میں کھاد ڈالنا۔
سَبِخ: گندی زمین، کیچڑ دار زمین۔
سَبْخ، سِبَاخ: (دا) کھاد۔
سَبْخ بَلَدِيّ: قدرتی کھاد۔

سَبخ کِیمِیَاوِیّ: مصنوعی کھاد۔
سَبَرَ ـُ سَبراً: آزمانا، جانچنا۔
سَبَرَ غَورَہ: گہرائی معلوم کرنا، حقیقت جاننا۔
سَبُّورَة: تختہ سیاہ، بلیک بورڈ۔
مِسبَر، مِسبَار ج: مَسَابِیر: گہرائی معلوم کرنے کا آلہ۔
سِبرتُو: اسپرٹ۔
سَبُطَ الشَّعرُ ـُ سَبَاطَةً وسُبُوطًا و سُبُوطَةً: بالوں کا سیدھا ہونا۔
أسبَطَ الرَّجُلُ: خوف سے چپ ہونا
سِبط ج: أسبَاط: (۱) پوتا (۲) نواسہ (۳) خاندان۔
سَبِط: سیدھے بال۔
سَبطُ الیَدَینِ: سخی، فراخ دست۔
سُبَاطَة: کوڑی، کوڑی خانہ
سَبَعَ القومَ ـَ سبعاً: ساتواں ہونا۔
سَبَعَ وسَبَّعَ الشَّيَ: سات گنا کرنا۔
سَبُع ج: سِبَاع: خونخوار جانور، درندہ۔
سُبع: ساتواں۔
سَبعَةُ أضعَاف: سات گنا۔
سَبعُون: ستر (۷۰)
سَبعُونِيّ: ستر سال کا۔
سَابِع: ساتواں۔
سُبَاعِيّ: سات رکنی، ہفت گوشہ۔
سُبَاعِيُّ الأحرُف: سات حرفی۔
أُسبُوع ج: أَسَابِیع: ہفتہ۔
أُسبُوعُ الآلام: (نصاریٰ کے نزدیک) ہفتہ مصائب۔
أُسبُوعِيّ: ہفتہ وار، ویکلی۔

سَبَغَ الشَّیٔ ـُ سُبُوغاً: (۱) مکمل ہونا (۲) کپڑے کا دراز ہونا (۳) زندگی کا خوشگوار ہونا۔
أسبَغَ الرَّجُلُ: زرہ پوش ہونا،
سَابِغ: وسیع، دراز۔
سَابِغَة ج: سَابِغَات: زرہ
سَبَقَ إلی کذا ـِ سَبقاً: آگے بڑھنا۔
سَبَقَ ـِ: گزرنا، مذکور ہونا۔
سَبَقَ عَلَی: غالب ہونا۔
سَبَقَ اَن قُلتُ: میں پہلے کہہ چکا ہوں۔
سَبَقَ مَوعِدَہ: وقت سے پہلے آنا۔
سَابَقَہ مُسَابَقَةً: دوڑ میں آگے نکلنا، غالب آنا (۲) مقابلہ کرنا۔
سَابَقَ الرِّیحَ: ہوا سے آگے بڑھنا، انتہائی تیز چلنا۔
تَسَابَقَ: باہم (دوڑ میں) مقابلہ کرنا۔
التَّسَابُقُ عَلَی......: دوڑ، دوڑ لگانا، مقابلہ کرنا۔
اَسبَقُ: سینئر۔
سَبق، أسبَقِیَّة: تقدم، سبقت، سینیارٹی۔
سَبَق، سُبقَة: دوڑ کی شرط۔
سَبق، سِبَاق: دوڑ، ریس۔
سِبَاق، مُسَابَقَة: مقابلہ، کمپیٹیشن، دوڑ۔
سِبَاقُ المَرَاکِب: کشتیوں یا جہازوں کی دوڑ۔
سِبَاقُ الخَیل: گھوڑ دوڑ۔
سِبَاقُ التَسَلُّح: ہتھیار بندی کی دوڑ، اسلحہ بندی کی دوڑ، فوجی ساز و سامان کی دوڑ، ہتھیاروں کی دوڑ۔

سِبَاقٌ فی العَدْو: ریس، بھاگنے کا مقابلہ۔
حَلْبَةُ السِّبَاقِ، مَيْدانُ السِّبَاقِ: دوڑ کا میدان۔
سَابِقٌ: مذکور، گزشتہ، پہلا، پیش رو (ضد لَاحِقٌ)
السَّابِقُ ذِكْرُه: مذکورہ بالا۔
السَّابِقُ لِأَوَانِه: قبل از وقت۔
سَابِقُ مَعْرِفَةٍ: پہلی شناسائی۔
سَابِقُ مَعْرِفَةٍ بكذا: سابقہ، واسطہ۔
سَوَابِقُ جِنَائِيَّة: جرائم کا ریکارڈ۔
كَشْفُ السَّوَابِقِ: سابقہ جرائم کی فہرست جو پولیس کے پاس رہتی ہے۔
سَابِقَة: (۱) نظیر (۲) نمونہ (۳) سابقہ جرم، پولیس ریکاڈ ج: سَوَابِقُ لَهُ سَابِقَةٌ مِنْ نَوْعِهِ: اسی قسم کا اس کا پہلا جرم ہے۔
سَابِقاً: پہلے، اب سے پہلے، بیفور ٹائم (۲) پہلے، گزشتہ زمانہ میں۔
سَبَّاق: سب سے آگے رہنے والا، پیش پیش رہنے والا۔
مُسْبَقاً: پیشگی، پہلے سے، پہلے ہی۔
مَسْبُوق: (۱) پیچھے رہ جانے والا (۲) وہ شخص جس کا کوئی سابقہ جرم ہو (۳) وہ شخص جس کی کوئی رکعت چھوٹ گئی ہو۔
غَيْرُ مَسْبُوقٍ: جس کا کوئی سابقہ جرم نہ ہو، جس سے کوئی آگے نہ بڑھا ہو۔
مُسَابِقٌ: مقابل، مزاحم۔
مُسَابَقَة: کمپٹیشن، مقابلہ۔
مُسَابَقَةُ الجَمَالِ: مقابلہ حسن۔
سَبَكَ ـِ سَبْكاً وسَبَّكَ: پگھلا کر سانچے میں ڈالنا، کھرا کھوٹا دیکھنا، ڈھالنا، آزمانا۔
اِنْسِبَاك: ڈھلنا، پگھلنا۔
سَبْكُ المَعَادِنِ: دھاتوں کی گلائی۔
سَبَّاكُ المَعَادِنِ: دھاتوں کی گلائی اور ڈھلائی کا کام کرنے والا (۲) پائپ جوڑنے والا۔
سَبِيكَة ج: سَبَائِكُ: سونے چاندی یا دیگر دھاتوں کا پگھلا ہوا ڈلا، ڈھلی ہوئی تختی۔
مَسْبَك ج: مَسَابِكُ: معدنیات کی ڈھلائی کا کارخانہ، فاؤنڈری۔
مَسْبَكُ حُرُوفِ الطِّبَاعَة: ٹائپ فاؤنڈری۔
سَبَّلَ المَالَ: مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنا۔
سَبَّلَ الشَّيْءَ: عام ومباح کرنا۔
إِسْبَال: پردہ ڈالنا، لٹکانا۔
إِسْبَالُ الدُّمُوعِ: آنسو بہانا۔
إِسْبَالُ المَاءِ: پانی بہانا۔
إِسْبَالُ الزَّرْعِ: کھیتی کا خوشہ نکل آنا۔
شَعْرٌ أَسْبَلُ: سیدھے بال۔
سَبَل: بارش۔
سَبَلَة، سُنْبُلَة: خوشۂ گندم وغیرہ (۲) ڈاڑھی کا اگلا حصہ۔
سَبِيل ج: سُبُل: راستہ (۲) پانی کی سبیل، عام لوگوں کے پانی پینے کی جگہ، میڈیم۔
عَلَى سَبِيلِ التَّجْرِبَة: تجرباتی طور پر۔
سُبُلٌ مُتَشَعِّبَة: شاخ در شاخ راستے۔
اِبْنُ السَّبِيلِ: مسافر، پردیسی۔
(سَبُو) سَبَا: ملک یمن کے ایک قبیلہ کے سردار کا نام۔

ذَهَبُوا أَیْدِی سَبَا: ضرب المثل بمعنی منتشر ہونا، شیرازہ بکھرنا (سبا کے بیٹے مختلف جہات میں منتشر ہو گئے تھے اس وقت سے انتشار وافتراق کی ضرب المثل بن گئی)۔

سَبٰی ـ سَبْیاً و سِبَاءً و اسْتَبٰی: قید کرنا۔

سَبَی العَقْلَ: ذہن پر قابض ہونا، اسیر بنالینا۔

سَبَی الرَّجُلَ: جلاوطن کرنا۔

سَبِیٌّ ج: اَسْبِیَاءُ: اسیر، قیدی۔

سَبْیٌ: قید، جلاوطنی۔

سَاب، مُسْتَب: قید کرنے والا۔

سَبِیرتُو: اسپرٹ، الکحل۔

سَبُّوْنَةُ الشُّبَّاک: چٹخنی۔

س..........ت

سَتَال: (STALL) (۱) میلے یا بازار میں عارضی دکان (۲) سودا بیچنے کی میز (۳) تھیٹر میں سامنے کی نشستیں۔

سِتّ، سِتَّة: چھ (۶)

سِتّ: (۲) خاتون۔

سِتَّةُ أَضْعَافِ: چھ گنا۔

سِتُّوْن: ساٹھ (۶۰)

السِّتُّوْن: ساٹھواں۔

سِتُّوْنِیّ: ساٹھ سال کا۔

سَاتّ (سَادِس): چھٹا۔

سَتَرَ ـُ سَتْراً و سَتَر: چھپانا، ڈھانکنا، حفاظت کرنا۔

سَتَرَتِ الوَجْهَ بکذا: گھونگھٹ کرنا

تَسَتَّرَ و اسْتَتَار: چھپنا، پوشیدہ ہونا، آڑ لینا۔

تَسَتُّر علی......: پردہ پوشی۔

تَسَتُّر علی الجَرِیْمَة: جرم کی پردہ پوشی۔

تَسَتُّر علی المُجْرِم: مجرم کو پناہ دینا۔

سِتْر، سِتَار: آڑ، رکاوٹ۔

سِتَار، سِتَارَة: پردہ، چلمن، چق، آڑ۔دیوار۔ ج: سَتَائِر

سِتَار حَدِیْدِیّ: آہنی دیوار۔

مَاوَرَاءَ السِّتَار: پس پردہ۔

سُتْرَة، سِتْرَة: کوٹ، آستین دار، صدری، جیکٹ، لباس، پردہ، آڑ۔

سُتْرَةُ الفَضَاء: خلائی لباس۔

سُتْرَة هِنْدِیَّة (تُلْبَسُ تَحْتَ القَمِیْص): بنیان۔

مُسْتَتِر، مَسْتُور: پوشیدہ، رازمیں، پردہ غیب میں۔

سَاتِر تُرَابِیّ: مٹی کی دیوار۔

ستکُوزَا، أُستکوزا: جھینگا (مچھلی)۔

السَّاتَان: سائن، اطلس۔

سَاتِین، سَتِیْنِیَة، سَاتِیْنِیَة: اونی یا سوتی چمک دار کپڑا (اطلس جیسا)

س..........ج

سَجَدَ ـُ سُجُوداً: سر جھکانا (تعظیماً یا عبادۃً) سجدہ کرنا۔

سَجَدَ له: عبادت کرنا۔

سُجُود: عبادت، سجدہ۔

سَجَّادَة ج: سَجَاجِیْد: قالین، جانماز، کارپیٹ۔

سَجَعَ ـَ سَجْعاً: کبوتر کا بولنا (۲) کلام کو مقفّیٰ بنانا، قافیہ بندی کرنا۔

سَجْعٌ ج: أَسْجَاع و سُجُوع: وہ کلام

منثور جس کے جملوں کے آخری حرفوں پر حرکت اور سکون کی یکسانیت ملحوظ ہو۔
سَجعَة: مقفّٰی کلام کا ایک حصہ۔
سَجُف، سِجَاف: پردہ، دروازہ کا پردہ۔
سَجَلَ ـُ سَجلاً: پانی بہانا۔
سَجْلٌ ج: سُجُول و سِجَال: بڑا ڈول (۲) فقیر کا چنبل (۳) عطیہ۔
سَجَّلَ تَسجِيلاً: درج کرنا، رجسٹر میں لکھنا، بیان یا گواہی وغیرہ کو قلمبند کرنا، ریکارڈ کرنا، محفوظ کرنا، نوٹ کرنا، رجسٹر میں اندراج کرنا (۲) ریکارڈنگ، حفاظت، رجسٹری، اندراج۔
سَجَّلَ اختِرَاعاً: نئی ایجاد کو رجسٹرڈ کرانا۔
سَجَّلَ خِطَاباً بِالبَرِيد: خط کی رجسٹری کرنا۔
سَجَّلَ صَوْتاً: ریکارڈ کرنا، محفوظ کرنا۔
سَجَّلَ الشَّيَ: بطور یادگار کوئی چیز محفوظ کرنا۔
سَاجَلَهُ مُسَاجَلَةً: مقابلہ کرنا۔
تَسجِيلُ رِسَالَةٍ(بالبَرِيدِ المَضمُون) رجسٹری۔
تَسجِيلُ الزَّمَن: ٹائم ریکارڈنگ۔
تَسجِيلُ الصَّوتِ على الأسْطوانة أو الشَّرِيط: آواز ٹیپ کرنا۔
تَسجِيلٌ صَوتِيٌ: آوازوں کی ریکارڈنگ۔
تَسجِيلٌ على الشَّرِيط: ٹیپ کرنا۔
تَسجِيلُ عَدَدٍ أو كَمِيَّةِ شَيٌ: تعداد یا مقدار نوٹ کرنا۔
تَسجِيلُ قَضِيَّةٍ: کیس درج کرنا۔
تَسجِيلُ المَسكَن على فُلان: کسی کے نام مکان رجسٹری کرنا۔
تَسجِيلُ المَبلَغ لِفُلانٍ في المَصرِف: بینک میں کسی کے نام پر رقم درج ہونا۔
سِجِلٌّ: (۱) رجسٹر (۲) ریکارڈ یعنی قدیم دستاویزات ج: سِجِلَّات
سِجِلُّ الشَّرَف: رجسٹر معاینہ۔
سِجِلُّ الأسْهُم: شیئرز رجسٹر۔
سِجِلُّ بِاَسْمَاءِ الأعضَاءِ: ممبران کا رجسٹر۔
سِجِلُّ الحَالَات: کیس بک۔
سِجِلُّ القَضَايا: کیس بک، مقدمات کی رجسٹر۔
سِجِلَّات: رکارڈس، کاغذات، قدیم تاریخی دستاویزیں۔
سِجِلَّاتُ التَّكَالِيفُ: لاگت ریکارڈس
سِجِلَّاتُ المُحَاسَبة: کاغذات حساب، محاسبی کا ریکارڈس۔
سِجَال: الحَربُ سِجَالٌ بَينَهُم: لڑائی جاری ہے۔ ان کے درمیان۔
مَكتَبُ التَّسجِيل: رجسٹری آفس۔
مُسَجِّلٌ: درج رجسٹر کرنے والا، کلرک کاغذات کو محفوظ رکھنے والا۔
المُسَجِّل (اَمِينُ السِجِلِّ): رجسٹر
مُسَجِّلُ العُقُودِ: رجسٹرار۔
مُسَجِّلُ العُقُودِ الرَّسمِيَّة: رجسٹرار، سرکاری افسر جو معاملات کی رجسٹری کرتا ہے۔
المُسَجِّلَة: ریکارڈر۔
مُسَجِّلَةُ الشَّرِيط: ٹیپ ریکارڈ

مُسَجِلَةُ النَّقْد: سیل رجسٹر۔ کیش رجسٹر۔
مُسَجِلَةُ الوَقْت: ٹائم ریکارڈ کلاک۔
مُسَجَّل: رجسٹری شدہ، رجسٹرڈ، ریکارڈ، پیٹنٹ۔
خطابٌ مُسَجَّل: رجسٹرڈ لیٹر۔
سَجَمَ ـُـ سَجْماً و أَسْجَمَ: بہانا، پانی گرانا۔
سُجُوم: بہنا، پانی گرنا (۲) ہم آہنگی، یکسانیت، تناسب، میل، جوڑ (۳) حسن ترتیب، مربوط کام۔
اِنْسِجَامُ الاَصْوات: آوازوں کا ہم ساز ہونا۔
اِنْسِجَامُ الأَشْيَاء: باہم یکساں و مربوط ہونا۔
اِنْسِجَامُ الشئی مع کذا: جوڑ کھانا، جوڑ لگنا، ہم آہنگ ہونا (۲) فٹ ہونا۔
سَجَنَ ـُـ سَجْناً: قید کرنا۔
سِجْنٌ ج: سُجُون: قید خانہ، جیل۔
سِجْنُ الإِصْلاح: اصلاحی قید خانہ۔
السِّجْن مدی الحیاة: عمر قید۔
سِجْنٌ مُؤَبَّد: عمر قید۔
سِجْنٌ مَعَ الأَعْمَالِ الشَّاقَّة: قید با مشقت۔
سَجَّان: جیلر، افسر قید خانہ۔
سَجِين ج: سُجَنَاء: قیدی۔
سَجَا ـُـ سَجْواً: رات کا سنسان ہونا (۲) میت کو ڈھانپنا۔
سَجِيَّة ج: سَجَايَا: طبیعت، عادت۔

س .... ح

سَحَبَ ـَـ سَحْباً: کھینچنا، گھسیٹنا، لینا، چھیننا، ضبط کرنا، واپس لینا، ٹپکانا، پیچھے ہٹانا، اکسانا، وو دُرا کرنا، نکالنا۔
سَحْبُ الاِسْتِقَالَةِ عَنْ: استعفا واپس لینا۔
سَحْبُ الأَسْلِحَةِ من: ہتھیار چھین لینا۔
سَحْبُ الاِقْتِرَاح: تجویز واپس لینا۔
سَحْبُ التَرْشِيح: امیدوار کا نام واپس لینا۔
سَحْبُ الثِّقَةِ۔
سَحْبُ الجَوَاز: پاسپورٹ ضبط کر لینا۔
سَحْبُ الجَيْشِ من مَكَان كذا: فوج کو کسی جگہ سے ہٹانا۔
سَحْبُ الرُّخْصَة: پرمٹ ضبط کر لینا، لائسنس ضبط کر لینا۔
سَحْبُ السَّفِيرِ من بَلَدٍ: سفیر کو کسی ملک سے واپس بلانا۔
سَحْبُ السُّلْطَةِ: اختیار چھیننا، کمیشن واپس بلانا۔
سَحْبُ الشَّكَاوِى: شکایات واپس لینا۔
سَحْبُ القُوَّات: فوجیں ہٹانا۔
سَحْبُ كَمْبِيَالَةٍ: بل حاصل کرنا۔
سَحْبُ الكَمْبِيَالَةِ من بَنْكٍ إلى آخر: ایک بینک سے دوسرے بینک کا ڈرافٹ لینا۔
سَحْبُ وَرَقَةِ يَانَصِيبْ: لاٹری نکالنا۔
سَحْبُ الماءِ بالمِضَخَّة: پمپ سے پانی کھینچنا۔
سَحْبُ المَبْلَغِ مِنَ البَنْكِ: بینک سے رقم نکالنا۔
سَحْبُ المَطَالِب: مطالبات واپس لینا۔

سَحبُ المَعُونَة: ایڈ بند کردینا، امداد بند کرنا۔
سَحبُ مِلَفٍ مِنَ مَكَانِهِ: فائل اپنی جگہ سے نکالنا۔
سَحبُ المُوافَقَة: منظوری واپس لینا۔
سَحبُ المُوافَقَةِ علی الاقتِرَاح: تجویز کی منظوری واپس لینا۔
سَحبُ النَّفس: سانس لینا۔
سَحبُ الوَدَائع: بینکوں سے سرمایہ نکالنا۔
سَحبُ الوَدَائِع المَصرِفِيَة: بینک سے امانتیں نکالنا۔
المَسحُوبُ عَلَيهِ: جس کے نام پر رقم نکالی گئی ہو۔
إسحَابُ القُوّاتِ الى الخطُوط: لائنوں پر فوجوں کو ہٹانا۔
انسِحَاب: کھینچنا، گھسٹنا، واپس ہونا، پیچھے ہٹنا، انخلاء۔
انسِحَابٌ جُزئيٌ: جزئی انخلاء۔
انسِحَابُ جَمِيعِ العَنَاصِرِ الاَجنَبِيَة: تمام غیرملکی افراد کا انخلاء۔
انسِحَابُ القُوّاتِ إلى الخطُوط: لائنوں پر فوج کا واپس ہونا۔
انسِحَابُ القُوّاتِ من......: فوجوں کا کسی جگہ سے ہٹنا۔
انسِحَابٌ كَامِلٌ: مکمل انخلاء
الانسِحَابُ من......: علیحدگی اختیار کرنا۔
الانسِحَابُ مِنَ العَمَل: کام چھوڑنا
الانسِحَابُ مِنَ الوَظِيفَة: عہدہ سے الگ ہونا۔
سَحَاب ج: سُحُب: بادل۔
سَحَابَة: بدلی، ایک بادل۔
سَحَابَةَ النَّهار: تمام دن، پورا دن، سارا دن۔
مُستَحَبُ الهَوَاء: ہوا کی رو، ہوا کا جھونکا۔
السَّاحِب: بینک سے رقم نکالنے والا۔
سُحتٌ: حرام، حرام مال، حرام کمائی۔
سَحَتَ ـــ سَحتاً: حرام مال کمانا۔
سَحَجَ ـــ سَحجاً: چھیلنا، رگڑنا، چھلائی کرنا، رندہ کرنا، کھال چھیلنا، ملنا۔
مِسحَاجٌ: بڑا رندہ۔
مَسحُوجٌ: چھیلا ہوا، رندہ کیا ہوا۔
سَحَّ المَاءُ ـــ سُحُوحاً: پانی بہنا، برسنا، رسنا، آہستہ بہنا۔
سَحَّتِ العَينُ: آنکھ سے آنسو جاری ہونا۔
عَينٌ سَحَّاحَة: اشکبار آنکھ۔
سَحَرَ ـــ سَحراً: جادو کرنا (۲) دھوکہ دینا (۳) فریفتہ بنالینا (۴) دل موہ لینا۔
سَحَرَ الفِضَّةَ: چاندی پر سونے کا ملمع کرنا۔
سَحَرَ سُحُوراً: سحری کھانا۔
سَحِرَ ـــ سَحَراً: جلدی کرنا۔
سِحرٌ: جادو، دھوکا۔
سَحَرٌ: تڑکا، اخیر رات، پو پھٹنے سے پہلے۔
ساحِرٌ: سحرانگیز، دلکش، جادوگر۔
سَحَّار: جادوگر، شعبدہ باز۔
سَحُور: سحر کا کھانا، سحری۔
سَحَقَ ـــ سَحقاً: (۱) کوٹنا، پیسنا، باریک کرنا (۲) ناپید کرنا، صفایا کرنا۔

سَحُقَ ـُ سُحْقاً: دور ہونا۔
سَحُقَ الثَّوبُ ـُ سَحَاقَةً سُحُوْقَةً: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔
انْسِحَاق: باریک ہونا، ہلاک وبرباد ہونا۔
سُحْق: دوری، ہلاکت۔
سَحِيق: دور، بہت دور۔
أكْثَرِيَّةٌ سَاحِقَةٌ: بھاری اکثریت۔
مَسْحُوْق: کٹا ہوا، پسا ہوا، باریک، پاؤڈر ج: مَسَاحِيقُ
مَسْحُوْقُ الأَسْنَان: دانتوں کا منجن، ٹوتھ پاؤڈر۔
سَحَلَ ـَ سَحْلاً: چھیلنا، رندہ کرنا، رندا پھیرنا۔
مِسْحَل ج: مَسَاحِلُ: رندہ۔
مِسْحَلُ الحَدَّاد: ریتی۔
سَحَنَ ـَ سَحْناً: کوٹنا۔
سَحْنَة: نشان، علامت، اثر، رنگ، ہیئت۔
مِسْحَنَة: موسل، موسلی۔
(سحو) سَحَا ـُ سَحْواً و سَحْياً واسْتَحَى: مونڈنا، بال اتارنا، مٹی کھرچنا۔
سِحَايَة: دماغ کی جھلی۔
الالْتِهَابُ السِّحَائِيُّ: سرسام۔
مِسْحَاة: بیلچہ، کدال۔

س ...... خ

سَخِرَ ـَ سُخْرِياً و سُخْرٌ: بیگار لینا، بلا معاوضہ اور بے رضا کار کام لینا۔
سَخِرَ به و منه ـَ سَخْراً وسُخْراً وسُخْرِيَّةً، و سُخْرِيَةً: مذاق کرنا، مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا۔
سُخْرَة و سُخْرِيَة: مذاق، ٹھٹھا (۲) بیگار، بلا معاوضہ خدمت۔
سُخْرِيٌّ: مزاحیہ، مذاقیہ، غیر سنجیدہ۔
ثِيَابُ السُّخْرِيَة: بہروپ کا لباس، جسے دیکھ کر ہنسی آئے۔
سَاخِر: مسخرہ، مذاقی۔
سَخِطَه و عليه ـَ سَخَطاً و سُخْطاً: ناراض ہونا۔
إسْخَاط: ناراض کرنا، ناگواری کا باعث بننا۔
سُخْط، سَخَط: ناراضگی، ناگواری۔
سَاخِط: غضبناک، ناراض۔
مَسْخَطَة: ناراضگی کا سبب۔
سَخُفَ ـُ سَخَافَةً و سُخْفاً و سُخْفَةً: کمزور طبیعت اور کمزور ارادہ ہونا، نامعقول وبیہودہ ہونا، نادان ہونا۔
سُخْف و سَخَافَة: کمزوری، نامعقولیت، کم عقلی، نادانی، بیہودگی۔
إسْخَافُ الرَّأي: رائے کو غلط قرار دینا، احمقانہ قرار دینا۔
سَخِيف: (۱) کمزور، لچر (۲) بیہودہ (۳) نامعقول (۴) نادان، کم عقل۔
سَخُنَ ـُ سُخُونَة و سَخَانَة: گرم ہونا (۲) بخار میں مبتلا ہونا۔
تَسْخِين، إسْخَان: گرم کرنا، گرما گرم دینا۔
تَسْخِينُ المَوْقِف: صورت حال میں گرمی پیدا کرنا۔

المُسَخِّن: ہیٹر۔
سُخُن، سَخِین، سَاخِن: گرم، تپتا ہوا۔
سَخَّان، مِسْخَن: پانی گرم کرنے کا سماور، پانی گرم کرنے کی خاص ٹینکی، ہیٹر، چولہا۔
السَّخَّانة (جهازُ التَّسْخِين): ہیٹر۔
سُخُونَة، سَخَانة: گرمی، بخار، حرارت
سَخِيَ ـــ سَخاً و سَخاءً سَخَاءً: سخی ہونا، فراخ دل ہونا۔
تَسَاخَي و تَسَخَّي: سخی بننا۔
سَخِيّ ج: أَسْخِيَاء: فراخ دست، سخی۔

س .... د

سَدَّدَ تَسْدِيْداً: صحیح راستہ دکھانا، سیدھا کرنا، درست کرنا۔
سَدَّدَ نَحوَ كذا: نشانہ لگانا۔
سَدَّدَ حِسَاباً: حساب چکانا۔
سَدَّدَ القَرْضَ: قرض ادا کرنا، چکانا۔
تَسْدِيْد: ادائیگی، بیباقی۔
تَسْدِيْدُ الزَّكَاة: زکوٰۃ ادا کرنا۔
تَسْدِيْدُ الضَّرِيْبَة: ٹیکس ادا کرنا۔
تَسْدِيْدُ القُرُوْض: قرضوں کی ادائیگی۔
سَدَّ ـــُ سَدًّا: بند کرنا، روکنا، سوراخ بند کرنا، شگاف بند کرنا۔
سَدَّ بِسِدَادةٍ: ڈاٹ لگانا۔
سَدَّ الفَرَاغَ: خلا پر کرنا۔
سَدَّ مَسَدَّه: قائم مقام ہونا، جگہ لینا۔
سَدَّ ـــِ سَدَاداً و سَدَداً، و سُدُوْداً: (۱) سیدھا ہونا، صائب الرائے ہونا، صحیح روش پر ہونا، درست کار ہونا۔
سَدّ ج: سُدُوْد و أَسْدَاد: بندش، رکاوٹ، آڑ، پانی کا بند، ڈیم۔
سَدُّ الاِحْتِيَاج: ضرورت پوری کرنا۔
سَدُّ ثُغْرةٍ كذا: رخنہ بند کرنا۔
سَدُّ الحَاجَاتِ بكذا: ضرورتیں پوری کرنا۔
سَدُّ حَاجَاتِ النَّقْص: کمی کو پورا کرنا۔
سَدُّ الطَّرِيْقِ أمامَ المُحَادَثَات: بات چیت کا دروازہ بند کرنا۔
سَدُّ الطَّرِيْقِ على فُلَان: کسی پر راستہ بند کرنا۔
السَّدُّ العَالي: ہائی ڈیم۔
مَسْدُوْد: ڈاٹ، منجمد، منجمد سرمایہ جس کے صرف کی اجازت نہ ہو۔
مُحْكَمُ السَّدِّ: مضبوطی سے بند کیا ہوا۔
سِدَاد: ڈاٹ و: سِدَادَةٌ
سِدَادَة: ڈاٹ (بوتل وغیرہ کی)
سَدِيْد: درست، پختہ، مضبوط، معقول۔
سَدِيْدُ الرِّمَايَة: نشانہ پر مارنے والا، نشانہ باز۔
رَأْيٌ سَدِيْد: دانشمندانہ رائے۔
اِنْسِدَاد: بند ہونا، ڈاٹ لگانا۔
اِنْسِدَادُ حَاجَةٍ: ضرورت پوری ہونا۔
اِنْسِدَادُ فَرَاغ: خلا پر ہونا،
سُدَّة: دروازہ، منبر، تخت۔
سَدِرَ ـــَ سَدَرًا و سَدَارَةً: بے پرواہ ہونا، (۲) حیران و پریشان ہونا، بھٹکنا۔
سَادِر: بے پرواہ، بیباک۔
سِدْرٌ: بیری کا درخت۔

سَدِرَ البَصَرُ ـَ سَدَراً: خیرہ ہونا، چندھیا جانا۔

سَدَسَ القَومَ ـُ سَدساً: قوم سے چھٹا حصہ لینا۔

سَدَّسَ العَدَدَ: چھ بنانا۔

سَدَّسَ الشَّکلَ: چھ زاویہ والی شکل بنانا۔

سُدُس: چھٹا حصہ۔

سُدَاسِيّ: چھ رکنی، چھ نفری، شش پہلو۔

سُدَاسِيُّ الحُرُوف: چھ حرفی۔

سُدَاسِيُّ الأرکَان: شش گوشہ۔

سُدَاسِيُّ السُّطُوح: شش پہلو۔

مُسَدَّس ج: مُسَدَّسَات: ریوالور، پستول۔

سَادِس: چھٹا۔

سَدِکَ بِالشَّئِ ـَ سَدَکَ، وسَدْکاً: لازم ہونا، چمٹنا۔

سَدَلَ، سَدْلاً واَسْدَلَ وَسَدَّلَ: لٹکانا، بال یا کپڑے کو لٹکانا، پردہ لٹکانا۔

سُدْل ج: اَسدَالٌ و سُدُولٌ: پردہ۔

سِدْل: ہار ج: سُدُول:

انسِدَال: لٹکنا۔

سَدِمَ ـَ سَدَماً: نادم ہونا، پشیمان ہونا۔

سَدِیم: کہرا، دُھند (۲) سدیم، سحابہ (NEBULA) ج: سُدُم۔

سَدَنَ ـُ سَدْناً و سِدَانَةً، و سِدَاناً: کعبہ یا عبادت خانہ کی خدمت کرنا، کنیسہ کی خدمت کرنا۔

سَادِنٌ ج: سَدَنَة: کنیسہ یا بت خانہ کا خادم، زمانہ قدیم میں کعبہ کا خادم، عبادت گاہ کا متولی۔

سَدَنَةُ الرَّوضَة: درگاہ کے مجاورین۔

سَدَّی و أسْدَی إلَی: احسان کرنا، حسنِ سلوک کرنا۔

سَدَّی النُّصحَ إلیه: ہمدردی کرنا، نصیحت کرنا، خیر خواہی کرنا، مشورہ دینا۔

سَدَی ـِ سَدْیاً: تانا تننا، تانا ڈالنا۔

سُدَیً: بیکار، لغو۔

سَدَاةُ النَّسِیج: تانا (ضد لُحمَةٌ)

س..........ذ

سَذَاجَة: سادگی، بھولاپن، ناتجربہ کاری۔

سَاذِج مع سادہ: پلین، معمولی، نیک آدمی، صاف دل۔

س..........ر

سَرَبَ ـُ سَرَباً وسُرُوباً و تَسَرَّب: بہنا، چپکے سے نکلنا، کھسک جانا۔

تَسَرَّبَ فی الشئِ: سرایت کرنا۔

تَسَرَّبَ الخَبَرُ إلی: خبر پہنچنا۔ پھیلنا۔

تَسَرَّب الشئ إلی النَّفس: ذہن میں اترنا۔

تَسَرَّبَ المَعلُومَاتِ عَن شئٍ: معلومات حاصل کرنا۔

تَسَرَّبَ الوَبَاءُ إلی......: وبا پھیلنا۔

تَسَرَّبَ المَاءُ فی الأرضِ: پانی کا زمین میں خشک ہونا، جذب ہونا۔

سَرَّبَ إلیه الشئَ تَسرِیباً: بھیجنا، چھوڑنا، روانہ کرنا۔

تَسرِیب: منتشر کرنا، ٹکڑیاں ٹکڑیاں کرکے چھوڑنا۔

سَرَبٌ ج: اَسْرَابٌ: سرنگ، پانی کے اندر کا راستہ۔

سِرب ج: أسْرَابٌ، سُرْبَة ج: سُرَبٌ: ڈار، قطار، ٹکڑی، جماعت، بڑی تعداد۔

سِرْبُ طُيُور: پرندوں کا جھنڈ۔

سِرْبُ طَائِرَاتٍ: فلائٹ، ہوائی جہازوں کی کھیپ، ہوائی جہازوں کی ٹکڑیاں۔

سَرَاب: سراب، وہ ریت جو دوپہر کو پانی جیسی معلوم ہو، بے حقیقت چیز، فریب۔

اَسْرُب: سیسہ، پنسل کا سیسہ۔

مَسْرَب: پانی کی نالی۔

سَرْبَلَة: پہنانا۔

تَسَرْبُل: پہننا۔

مُسَرْبَل: ملبوس۔

سِرْبَال: لباس، کپڑا، کُرتا۔

سَرَّجَ الحِصَانَ و أسْرَجَ: زین کسنا۔

سَرَجَ ـــ سَرْجاً: چہرہ کا چمکنا۔

سَرَجَ ـــ سَرْجاً: جھوٹ بولنا۔

سَرْجٌ ج: سُرُوْجٌ: زین۔

سَرَّاجٌ: زین ساز (۲) جھوٹا۔

سِرَاجٌ ج: أسْرِجَة: چراغ۔

سِرَاجَة: زین سازی (۲) نگندوں کی سلائی۔

سِيَرَج: تلوں کا تیل۔

مِسْرَجَة: لمپ، چراغ ج: مَسَارِجُ

مَسْرَجَة ج: مَسَارِج: شمع دان، لمپ اسٹینڈ۔

سَرْجَنَ الأرْضَ: کھیت میں پانس دینا، کھاد دینا۔

السِرْجِين: (مع) گوبر، لید (۲) پانس، کھاد۔

سَرَحَ ـــ سَرْحاً: مویشی کو چرانے کیلئے لے جانا (۲) چرانے کے لیے جانا، چھوٹنا۔

سَرِحَ العَقْلُ: ذہن کا منتشر ہونا۔

سَرِحَ الرَّجُلُ ـــ سَرْحاً: ضروریات کے لیے کہیں جانا۔

سَرْحٌ: مویشی۔

سَرَّحَ تَسْرِيحاً المَاشِيَةَ: مویشی کو چرنے کے لیے چھوڑنا (۲) ہٹانا، دور کرنا۔

سَرَّحَ القَوْمَ: رہا کرنا، آزاد چھوڑنا۔

__ الجَيْشَ: فوج توڑنا۔

__ الأمْرَ: آسان بنانا۔

__ الشَّعْرَ: کنگھی کرنا۔

__ العَامِلَ: سبکدوش کرنا۔

__ المَرْأةَ: طلاق دینا۔

__ عَنْهُ: غم دور کرنا، کلفت دور کرنا۔

تَسْرِيحُ الجُنُود: سپاہیوں کو آزاد کرنا۔

تَسْرِيحُ الخُطَى لكذا: رفتار تیز کرنا، کسی کام کے لیے جلدی کرنا۔

مُسَرِّحُ العَمَل: میدان کار۔

سَرَاح: رہائی۔

أطْلَقَ سَرَاحَه: رہا کرنا۔

مُطْلَقُ السَّرَاح: آزاد، رہا۔

سَارِحُ الفِكْر: پراگندہ ذہن، پریشان خیال، منتشر دماغ، آزاد خیال۔

مَسْرَح: چلنے کی جگہ (۲) تھیٹر، تماشا گاہ، اسٹیج (۳) میدان، مرکز، اکھاڑ (۴) چراگاہ۔ ج: مَسَارِح.

مَسْرَحُ الدِّعَايَة: پروپیگنڈہ اکھاڑا۔

مَسْرَحٌ سِيَاسِيّ: سیاسی اسٹیج۔

مِسْرَح: کنگھی۔
مَسْرَحُ النَّظَر: حدنگاہ۔
مَسْرَحِيَة: ڈراما۔
خَشْبَةُ الْمَسْرَح: تھیٹر کا اسٹیج۔
سِرْحَان: بھیڑیا ج: سَرَاحٍ، و سَرَاحٌ، و سَرَاحِينُ
سَرْخَس: فرن، ایک قسم کا پودا۔
سَرَدَ ـُ سَرْداً: سوراخ کرنا۔
سَرَدَ الحَدِيثَ: بیان کرنا، نقل کرنا، تفصیل سے بیان کرنا۔
سَرَدَ الشَّوَاهِدَ: دلائل بیان کرنا۔
سَرَدَ تَفَاصِيلَ الْمَوْضُوع: معاملہ کی تفصیلات بیان کرنا۔
سِرْدَابٌ: (۱) سرنگ (۲) تہہ خانہ ج: سَرَادِيبُ
سَرْدَقَ الْمَكَانَ سَرْدَقَةً: خیمہ نصب کرنا، شامیانہ لگانا۔
سُرَادِق ج: سُرَادِقَات: خیمہ، شامیانہ، پنڈال۔
سَرْدِين: ایک قسم کی مچھلی، سار دین۔
سَرَّه ـُ سُرُوراً، ومَسَرَّةً: خوش کرنا
سُرَّ بِكَذَا: خوش ہونا۔
سَارٌّ: خوش کن، مسرت بخش، دلچسپ
مَسْرُور: خوش، شاداں۔
سِرّ ج: أسرار: راز، بھید۔
سِرٌّ مُبْهَمٌ: سربستہ راز۔
سِرُّ تُجَّار: چیف مرچنٹ (دا)۔
سِرُّ عَسْكَر: (دا) فیلڈ مارشل۔
كَاتِمُ أو كَاتِبُ السِّرّ: پرائیویٹ سیکرٹری۔

سِرّاً: رازدارانہ طور پر، خفیہ طور پر اندرونی طور پر، آہستہ سے، خاموشی سے چپکے چپکے۔
سِرِّيّ: خفیہ، رازدارانہ، پوشیدہ۔
سِرِّيٌّ لِلْغَايَة: انتہائی خفیہ۔
بُولِيس سِرِّيّ: خفیہ پولیس۔
حِبْرٌ سِرِّيّ: خفیہ روشنائی۔
السِّرِّيَّة: رازداری۔
سِرِّيَّةٌ كَامِلَة: مکمل رازداری۔
مُحَاكَمَةٌ سِرِّيَة: خفیہ مقدمہ۔
مَصَارِيفُ سِرِّيَّة: (سرکاری) خفیہ اخراجات۔
اسْتَسَرَّ الشيءَ و أسَرَّه: راز میں رکھنا۔
أسَرَّ إليه: راز کہنا، خفیہ بات کرنا۔
أسَرَّه: خوش کرنا۔
سَرَّرَه: خوش کرنا۔
تَسَارٌّ: باہم سرگوشی، راز کی باتیں کرنا۔
سَارَّه مُسَارَّةً: خفیہ بات کہنا، راز بتانا۔
السَّرَر و السِّرَرَ والسُّرُّ: نال جسے دائی بچہ کے پیٹ سے الگ کرتی ہے۔ (۲) ناف ج: أسِرَّة و أسْرَار
سُرٌّ، سِرَارٌ: ہتھیلی یا پیشانی کے خطوط۔
سُرَّة: ناف ج: سُرَرٌ
سَرَّاء: خوشی، خوشحالی، مسرت و شادمانی۔
أسَارِيرُ الوَجْه: چہرہ کے خطوط۔
أبْرَقَتْ أسَارِيرُ وَجْهِه: اس کا چہرہ چمک اٹھا۔
سَرِير ج: سُرُر و أسِرَّةٌ: چارپائی، تخت، بیڈ (سَرِيرٌ يَتَّسِعُ لِشَخْصَيْن) ڈبل بیڈ
سَرِيرَة ج: سَرَائِرُ: نیت، دل کی بات، راز،

حقیقت پنہاں۔
السَّرِیْرَہ: نیک نیت، خوش باطن، پاک طینت۔
مِسَرَّة: ٹیلیفون۔
سَرَطَ ـُ سَرْطاً: نگلنا۔
السَّرَطَان: (آفَةٌ مُهْلِكَة): کینسر۔
تَسَرْطَن: کینسر ہونا۔
مُسَرْطَن (مُصَابٌ بِالسَّرَطَان): کینسر کا مریض۔
سَرُعَ ـُ سَرَاعَةً و سُرْعَةً و سَرْعاً: تیز رفتار ہونا (ضد بَطُؤَ)
سَرِعَ ـَ سَرَعاً: جلدی کرنا۔
سُرْعَةٌ: اسپیڈ، رفتار، تیزی۔
سُرْعَةُ السَّيْر: تیز رفتاری۔
سُرْعَةُ الإنْجاز: فوری تکمیل، فوری کامیابی۔
سُرْعَةُ البَتّ: فوت فیصلہ۔
سُرْعَةُ التَأثُّر: ذکاوت حس۔
سُرْعَةٌ خارِقَة: غیر معمولی تیزی، رفتار۔
سُرْعَةٌ فَوْقَ سُرْعَةِ الصَّوْت: آواز سے زیادہ رفتار۔
سُرْعَةٌ کالبَرْق: بجلی کی سی تیزی۔
سُرْعَةٌ لم تَكُنْ مُنْتَظَرَةً: غیر متوقع عجلت۔
سُرْعَةُ النُّمُوّ: تیز رفتار ترقی۔
سَرْعَانَ: (۱) جلدی کرو (۲) کس قدر تیز۔
سَرْعَانَ مَا: بہت جلد۔
سَرِيْع: تیز رفتار (۲) جلدی کیا جانے والا، فاسٹ۔
سَرِيْعُ التَأثُّر: ذکی الحس، اعصابی آدمی، منفعل المزاج۔

أسْرَعَ فی العَمَل: جلد کام کرنا۔
أسْرَعَ فِی المَشْی: تیز چلنا۔
أسْرَعَ إلی: لپکنا، بڑھنا۔
تَسَرَّعَ إلی: سبقت کرنا، جلدی سے پہنچنا، عجلت کرنا۔
تَسَرَّعَ الأمْرُ: کسی کام کا جلد ہو جانا۔
مُتَسَرِّع: جلد باز۔
تَسَارَعَ إلی: لپکنا، جلدی کرنا۔
سَارَعَ إلی: لپکنا۔ سبقت کرنا۔
سَارَعَ فی: کوشش کرنا۔
أسْرَعُ مَا يَجِبُ: ضرورت سے زیادہ تیز۔
بِأسْرَعِ مَا يُمْكِنُ: جس قدر جلد ممکن ہو۔
سَرْغُو: (معرب) سرگم، گھاس کی وہ قسم جس میں باجرے اور چینی گنے کے پودے شامل ہیں۔
سَرِفَ الأمْرَ ـَ سَرَفاً: کسی کام کو بیکار چھوڑ دینا۔
أسْرَفَ المَالَ: فضول خرچ کرنا۔
أسْرَفَ فی التَّوَقُّع: ضرورت سے زیادہ امید رکھنا۔
أسْرَفَ فی شَيْءٍ: حد سے بڑھنا۔
مُسْرِف: فضول خرچ، حد سے تجاوز کرنے والا۔
سَرَقَ ـِ سَرِقَةً و سَرَقاً: چرانا، چوری کرنا (۲) لوٹنا (۳) اغوا کرنا۔
سَرَقَ مُؤَلَّفاً: کتاب کی چوری کرنا، دوسرے کی تصنیف اپنی طرف منسوب کرنا۔

سَرِقَة: چوری، چوری کا جرم۔
سَرِقَةٌ بِإِكْرَاه: ڈکیتی، ڈاکا۔
سَرِقَةُ الأَشْخَاصِ :لوگوں کا اغوا۔
سَارِق ج: سُرَّاق و سَرَقَة: چور۔
اسْتَرَقَ: کوئی کام چوری سے کرنا۔
اسْتَرَقَ السَّمْعَ: چوری سے سننا۔
سَرَّقَه تَسْرِيقاً: چور بنانا، چور ٹھہرانا۔
سَرْكُومَه :(معرب) سرکوما، ورم حمی، گوشتین ابھار، دنبل لحمی، دنبل گوشتین۔
سَرْمَدِيّ: دائمی، ابدی۔
سَرْوٌ: درخت سرو۔
سَرَا ـُ سَرْواً: زائل کرنا (۲) کھینچنا، اتارنا۔
سَرَاو سَرُوَ ـُ سَرَاوَةً و سَرْواً :صاحب مروت وسخاوت ہونا، شریف ومعزز ہونا۔
سَرِيٌّ ج: أَسْرِيَاء: معزز، شریف، سخی، صاحب شرف وعزت م: سَرِيَّة
سِرْوَال ج: سَرَاوِيل، سِرْوَالَة: ج: سراويلات: (۱) پتلون (۲) نیچے کا پاجامہ (۳) پاجامہ۔
سِرْوَال فَضْفَاض: شلوار، ڈھیلا، پاجامہ۔
سَرَى ــ سُرىً و سُرْيَةً و مَسْرىً: چلنا، رات کو چلنا۔
سَرَى ــ سَرَيَاناً وَسَرْياً، وسِرَايَةً: چلنا، دوڑنا، سرایت کرنا، رگوں میں خون دوڑنا۔
سَرَى فِي الشَّيْئِ: اثر کرنا، نفوذ کرنا۔
سَرَى عَلَيْهِ القَانُونُ: قانون لاگو ہونا۔
سَرَى الهَمُّ: غم دور ہونا۔
سَرَيَان: اطلاق، نفاذ۔
سَرَيَانُ الإِشَاعَةِ عَنْ شَيْئٍ: افواہیں پھیلنا۔
سَرَيَانُ الأَوَامِرِ: احکام نافذ ہونا۔
أَسْرَى: رات کو چلنا۔
أَسْرَى عَنْهُ: غم وکلفت دور کرنا۔
سَرَّى عنه تَسْرِيَةً: غم اور تکلیف دور کرنا۔
سَرِيَّة ج: سَرَايَا: فوج کی ایک ٹکڑی۔
سَرَايَا الدِّفَاع: دفاعی فوجی دستے۔
سَرَاي: مسافر خانہ، سرائے، جگہ، محل۔
سَارِي المَفْعُول: معمول بہ، نافذ العمل
سَارِيَة ج: سَوَارٍ: ستون، بانس، شہتیر، لکڑی کا ستون، پول، کھمبا۔
سَارِيَةُ العَلَم: فلیگ پول۔

س............ط

مَسْطَبَة: چبوترہ۔
سَطَحَ ـَ سَطْحاً و سَطَّحَ :ہموار کرنا، سطح دار بنانا، لٹانا، بچھانا، پھیلانا۔

تَسَطَّحَ و اسْتَطَاحَ: پھیلنا، ہموار ہونا، چت لیٹنا۔
سَطْحٌ ج: سُطُوح: (۱) ہر چیز کا ظاہری پہلو (۲) اوپر کا حصہ (۳) چھت۔
سَطْحُ الأرْض: گراؤنڈ۔
سَطْحُ المَرْكَب: ڈیک، جہاز کا بالائی حصہ۔
سَطْحٌ مُسْتَو: پلین، ہموار سطح۔
سَطْحِيّ: ظاہری، اوپری (۲) اوچھا، کم مایہ، نا گہرا، معمولی۔
مَعْرِفَةٌ سَطْحِيَّة: معمولی علم۔
سَطْحِيًا: ظاہری طور پر۔
سَطِيح، مُسَطَّح: ہموار، بچھا ہوا۔
سَطَرَ ـُ سَطْرًا: لکھنا۔
سَطَّرَ و سَطَّرَ بِالمِسْطَرَة: لائن ڈالنا، سطریں کھینچنا۔
سَاطُور ج: سَوَاطِير: بُغدہ، تبر، چھرا، قصائی کا گوشت کاٹنے کا تبر نما اوزار
أُسْطُورَة: من گھڑت کہانی، افسانہ، طلسم ج: أَسَاطِير
أُسْطُورِيّ: افسانوی، دیو مالائی۔
تَسْطِير: کراسنگ، لائن ڈالنا۔
مُسَطَّر: لائن دار، رول دار۔
مِسْطَرَة ج: مَسَاطِر: لائن کھینچنے کی پٹی، جدول کش، اسکیل، پیمانہ۔
مِسْطَرَةُ المَسَافَات (فی الآلَةِ الكاتِبَة): اسپیشل یارڈ۔
سَيْطَرَ و تَسَيْطَرَ على: اقتدار حاصل کرنا، کنٹرول کرنا، حکومت کرنا، قابو پانا۔
سَيْطَرَة: اقتدار، تسلط، قبضہ، کنٹرول، ہولڈ۔

السَّيْطَرَةُ الجَوِّيَّة: فضائی کنٹرول، فضائی بالادستی۔
سَيْطَرَةُ الدَّوْلَةِ على بُلْدَان: حکومت کا شہروں پر کنٹرول۔
السَّيْطَرَةُ الشَّامِلَة: عمومی اقتدار۔
السَّيْطَرَةُ على: گرفت میں لینا، اقتدار حاصل کرنا، قابو پانا، کنٹرول کرنا۔
السَّيْطَرَةُ على الاوْضَاع: حالات پر قابو پانا۔
السَّيْطَرَة علىٰ جميع منافذ الحدود: سرحدوں کے تمام ناکوں پر کنٹرول۔
السَّيْطَرَة على السُّكَّرِ: شکر پر کنٹرول کرنا۔
السَّيْطَرَة على المَوْقِف: صورت حال پر قابو پانا۔
السَّيْطَرَةُ على النُّمُوِّ السُّكَّانِيِّ: اضافہ آبادی پر کنٹرول۔
مُسَيْطِر: حکمران صاحب اقتدار، قابو یافتہ۔
المُسَيْطِر على نَفْسِه: خود پر قابو یافتہ
سَطَعَ النورُ ـَ سُطُوعًا و سَطْعًا: روشنی پھیلنا۔
سَطَعَ الأمْرُ: کسی معاملہ کا واضح اور ظاہر ہونا۔
سُطُوعُ نَجْمِ فُلَان: ستارہ عروج پر ہونا۔
سَاطِع: روشن، ظاہر و باہر۔
سَطَلَ ـِ سَطْلًا: بیہوش کرنا، مدہوش کرنا۔
انْسِطَال: بیہوش ہونا، مدہوش ہونا۔
سَطْلٌ ج: أَسْطَال و سُطُول: بالٹی۔

اُسْطُول ج: اَسَاطِیل :بیڑا، جہازوں کا بیڑا۔

مَسْطُول :بے ہوش، مدہوش۔

سَطَمَ ـُ سَطْماً :بند کرنا، بڑھئی کا کسی سوراخ کو بند کرنا، منہ یا دروازہ بند کرنا۔

سِطام :ڈاٹ (۲) آگ کریدنی۔

سَطْوٌ :(ن) حملہ کرنا، حملہ آور ہونا۔

سَطَا عَلَی المکَانِ ـُ سَطواً و سَطْوَةً : چھاپہ مارنا۔

السَّطْوُ علی عَرَبةٍ اَوْطَائِرة :ہائی جیک، اغوا۔

السَّطْوُ علی مَقَرِّ الحِزب :پارٹی کے ہیڈکوارٹر پر حملہ۔

سَطْوَة: اقتدار، اثر و رسوخ۔

س.........ع

سَعِدَ ـَ و سَعُدَ ـُ سَعَادَةً :خوش نصیب ہونا، خوش حال ہونا، (ضد شَقاوَة)

سَعَدَ ـَ و سَعْداً و سُعُوداً :بابرکت ہونا (۲) خوش بخت ہونا۔

سَعْدٌ :برکت (ضد نَحْسٌ)

سَعَادَة: خوش بختی، خوشحالی، خوش نصیبی۔

سَعَادَتُکُم :آنجناب (تعظیمی لقب)۔

صَاحِبُ السَّعَادَة :عزت مآب۔

سَعِید: خوش بخت، خوشحال: ج: سُعَدَآء

سَعِید و مَسْعُود :نیک اقبال، بابرکت

سَعْدَانٌ: کبوتری۔

...ـدٌ ج: سَوَاعِد :بازو (۲) ہاتھ، ہتھیلی سے کہنی تک کا حصہ۔

سَوَاعِدُنا لَنْ تَکِلَّ :ہمارے بازو کمزور نہیں ہو سکتے۔

سَاعِدَة: چھوٹی نہر، جو بڑی نہر سے نکلتی ہے۔

إسْعَاد :خوشحال بنانا، خوش نصیب بنانا، کامیاب بنانا، قسمت چمکانا، خوش کرنا۔

سَاعَدَه مُسَاعَدَةً :مدد دینا۔

مُسَاعَدة :امداد، مدد، تقویت، ہیلپ، سپورٹ، گرانٹ۔

مُسَاعَدَةُ الدُّوَلِ المُحْتَاجة :غریب ممالک کی امداد۔

المُسَاعَدَاتُ الاَجْنَبِیَّة :بیرونی امدادیں۔

المُسَاعَدَاتُ الاقْتِصَادِیَّة :مالی امدادیں۔

المُسَاعَدَاتُ الثُّنَائِیَّة :دوطرفہ امدادیں۔

المُسَاعَدَاتُ العَیْنِیَّة :مالی امدادیں۔

المُسَاعَدَاتُ الفَنِیَّة: ٹیکنیکل امدادیں۔

المُسَاعِد :ہیلپر، مددگار، اسسٹنٹ، معاون۔

مُسَاعِدُ مُحَاسِب :اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ۔

مُسَاعِدُ المُحَرِّر: معاون ایڈیٹر۔

مُسَاعِدُ المُدَرِّس: مانیٹر۔

مُسَاعِدُ مُدِیْر :اسسٹنٹ منیجر۔

مُسَاعِدُ مُدِیْرِ الأمْن :ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس (D.S.P)

مُسَاعِدُ المُدِیْرِ العَامّ :اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل، ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل۔

مُسَاعِدُ المُفَتِش: سب انسپکٹر۔
سَعَرَ ۔ سَعْراً و سَعَّرَ وأَسْعَرَ: آگ سلگانا۔
سَعَّرَ السِّلْعَةَ: سامان کا نرخ مقرر کرنا، قیمت لگانا، قیمت متعین کرنا۔
سُعِرَ و انْسَعَرَ الکَلْبُ: کتے کا دیوانہ ہو جانا، آدمی کا دیوانہ ہو جانا۔
اِنْسِعَارُ النَّار: آگ بھڑکنا۔
اِسْعَارٌ و تَسَعُّرٌ: آگ بھڑکنا۔
سَاعَرَہ مُسَاعَرةً: سودا کرنا، بھاؤ کرنا۔
تَسْعِیرٌ: قیمت مقرر کرنا، نرخ متعین کرنا۔
التَّسْعِیرَةُ الرَّسْمِیَة: سرکاری نرخ نامہ۔
مُسَعَّرٌ: مقررہ داموں والا۔
سِعْرٌ: پرائز، قیمت، ریٹ، نرخ، بھاؤ ج: أَسْعَار
سِعْرُ الاِطِّلاع: ڈیمانڈ ریٹ۔
سِعْرُ التَّبَادُل: شرح تبادلہ۔
سِعْرُ السُّوق: مارکیٹ نرخ، بازار کا بھاؤ۔
سِعْرُ التَّحْوِیْل: تبدیلی کا ریٹ۔
السِّعْرُ الجَارِی: موجودہ نرخ۔
سِعْرُ الجُمْلَةِ: تھوک کے دام۔
سِعْرُ الخَصْمِ الَّذی یُحَدِّدُہُ البَنْکُ المَرْکَزِیّ: کنسیشن ریٹ جس کی تحدید سینٹرل بینک کی جانب سے ہو۔
سِعْرٌ رَسْمِیّ: سرکاری بھاؤ۔
سِعْرٌ إِلْزَامِیّ: جبری نرخ۔
سِعْرٌ سَائِد: مروجہ بھاؤ۔
سِعْرُ الشِّرَاء: خریداری نرخ۔
سِعْرُ شِرَاءِ شِیْکٍ: چیک ریٹ۔

سِعْرُ الصَّرْف: ایکسچینج کا بھاؤ، مبادلہ زر کا بھاؤ۔
سِعْرُ الفَائِدَة: شرح سود۔
سِعْرُ الفَائِدَةِ علی المُوْدَعَات: ڈپازٹ ریٹ، امانتوں پر شرح سود۔
سِعْرٌ مُوَحَّد: ایک دام، متعین بھاؤ۔
سِعْرُ الوَحْدَة: یونٹ ریٹ۔
سِعْرُ الیَوْم: آج کا بھاؤ۔
بِسِعْرِ: بھاؤ سے، ریٹ سے۔
بِسِعْرِ مُشْتَرَانَا: ہماری خرید پر۔
بِسِعْرٍ مُعَیَّن: مقررہ قیمت پر۔
اِرْتِفَاعُ السِّعْر: نرخ بڑھنا، گراں ہوا۔
اِنْخِفَاضُ السِّعْر: بھاؤ گرنا۔
أَسْعَارٌ مُحَدَّدَة: کنٹرول ریٹ۔
سُعْرٌ: دیوانگی۔
سُعَار: سگ گزیدگی، ہڑک (۲) پیاس کی شدت۔
سَعِیْرُ النَّار: آگ کی لپٹ۔
مِسْعَرٌ و مِسْعَارُ النَّار: آگ کریدنی
مَسْعُوْر: سگ گزیدہ۔
سَعَطَ الدَّوَاءَ ۔ سَعْطاً و سَعَّطَ: ناک میں دوا پہنچانا، بذریعہ سانس ناک میں دوا چڑھانا۔
اسْتَعَطَ السَّعُوطَ وغَیْرَہ: ناس سونگھنا۔
مِسْعَط (عُلْبَةُ النَّشُوق): ناس کی ڈبیہ۔
سَعَفَ ۔ سَعْفاً و أَسْعَفَهُ عَلَی أَمْرٍ: امداد پہنچانا، مدد دینا۔
سَعَفَ و أَسْعَفَ بِحَاجَتِہ: ضرورت کو پورا کرنا۔

سَاعَفَهُ مُسَاعَفَةً : مدد کرنا، ساتھ دینا۔
إِسْعَاف :امداد، ریلیف، حاجت روائی۔
الإِسْعَافُ الأَوَّلِيّ: فرسٹ ایڈ۔
إِسْعَافٌ طِبِّيٌّ أَوَّل :فرسٹ میڈیکل ایڈ، ابتدائی طبی امداد۔
لَجْنَةُ الإِسْعَاف :ریلیف کمیٹی، امدادی کمیٹی۔
سَعَلَ ـُ سُعَالاً و سُعْلَةً: کھانسنا۔
سُعْلَة، سُعَال: کھانسی۔
سُعْلَةٌ مُتَقَطِّعَة: رک رک کر اٹھنے والی کھانسی۔
سِعْلَاة، سِعْلِيٰ ج: سَعْلَيَات: بھوتنی۔
سَعٰی ـَ سَعْياً: جانا، چلنا۔
___ لِلأَمْرِ وفيه: کوشش کرنا۔
___ إِلَى :دوڑنا۔
___ به سِعَايَةً: چغلی لگانا، شکایت کرنا۔
سَعْيٌ ج: مَسَاعٍ: کوشش، دوڑ دھوپ، بھاگ دوڑ۔
السَّعْيُ وَرَاءَ السَّلَام: امن کے لیے کوشش۔
السَّعْيُ وَرَاءَ السُّلْطَة: اقتدار کے لیے بھاگ دوڑ کرنا۔
المَسَاعِي الحَمِيْدَة: اچھی کوششیں۔
المَسَاعِي المُخَطَّطَة : منصوبہ بند کوششیں۔
سِعَايَة: چغل خوری، شکایت۔
سَاعٍ ج: سُعَاة :(۱) کوشاں (۲) چغل خور (۳) ایلچی، قاصد۔
سَاعِي البَرِيْد: ڈاکیہ، پوسٹ مین۔
سَاعِي المَكْتَب: آفس بوائے۔

س............غ

سَغِبَ ـَ سُغُوباً و سَغَباً : بھوکا ہونا، سخت بھوک لگنا۔
سَغَبَ ـَ سَغِبَ سَغَباً وسَغَابَةً: آنتوں کا قل ہو اللہ پڑھنا۔
سَغَبٌ، سَغَابَة :بھوک۔

س............ف

سُفْتَجَة (مع)(حَوَالَةٌ مَالِيَّة) :ہنڈی ج: سَفَاتِج
سَفَحَ الدَّمَ ـَ سَفْحاً و سُفُوحاً: خون بہانا۔
سَفَحَ الدَّمْعَ :آنسو بہانا۔
تَسَافُح و مُسَافَحَة: زنا کرنا۔
سَفْحُ الجَبَلِ ج: سُفُوح: دامن کوہ۔
سِفَاح :زنا۔
سَفَّاح: خونریز، ظالم وسفاک۔
سَفَدَ ـِ سَفْداً وسَافَدَ الذَّكَرُ أُنْثَاهُ: نر کا مادہ سے جفتی کھانا، جفتی کرنا۔
سَفَّدَ اللَّحْمَ تَسْفِيْداً: گوشت کو سیخ پر لگانا۔
سَفُّوْد: گوشت بھوننے کی سیخ، سلاخ ج: سَفَافِيْد
سَفَرَ ـِ ـُ سَفْراً وسُفُوراً :(۱) مسافر ہونا (۲) عورت کا چہرہ کھلنا، جلوہ گر ہونا، بے نقاب ہونا۔
سَفَّرَ تَسْفِيْراً :سفر پر بھیجنا، مسافر بنانا، مال روانہ کرنا۔
سَفَرَ و أَسْفَرَ: چہرہ کھولنا۔
أَسْفَرَ الصُّبْحُ أو الوَجْهُ: روشن ہونا۔
أَسْفَرَ الشَّيْءُ عَنْ كَذا: نتیجہ برآمد ہونا۔
سَافَرَ إِلَى مُسَافَرَةً: سفر کرنا۔
المُسَافِر: پانجر، آنا جانا، آیا گیا۔
سِفْرٌ ج: أَسْفَار: کتاب۔

سِفرٌ ج: أسفار: سفر، روانگی، کوچ، جرنی، ٹریول۔
الأسفارُ المُنزَّلة: آسمانی کتابیں۔
سَفرَةٌ: ایک سفر۔
سَفَریات: اسفار۔
سُفرَة ج: سُفَر: (۱) زادِ راہ (۲) کھانے کی میز (۳) دسترخوان۔
سِفَارَة: (۱) وساطت (۲) ایک ملک کی طرف سے دوسرے ملک میں دائمی اور مکمل نمائندگی، سفارت (۲) سفارت کا عہدہ، پیشہ سفارت (۳) سفارت خانہ، ایمبیسی۔
سِفَارَة مُفوَّضِيَّة: لیگیشن، سفارتخانہ کا چھوٹا درجہ۔
سَفِيرٌ ج: سفراء: قاصد، ایلچی، ایک ملک کا دوسرے ملک میں مستقل نمائندہ، سفیر، ایمبیسیڈر۔
سَفِيرٌ بِوزَارَةِ الخَارِجِيَّة: وزارت خارجہ میں سفیر۔
سَفِيرٌ فَوقَ العَادَة: وہ سفیر یا قونصل جو مخصوص کاموں کے لیے مقرر کیا گیا ہو، غیر معمولی سفیر، بااختیار سفیر۔
سَفِيرٌ لَدَى بَلَد: کسی ملک میں متعینہ سفیر۔
سَفِيرٌ مُتجَوِّل: گشتی سفیر۔
سَفِيرة (زَوْجَةُ سفير): سفیر کی بیوی، خاتون سفیر۔
سُفُور: چہرہ کشائی، نقاب کشائی، بے نقابی، رونمائی، بے پردگی، بے حیائی۔
سُفُورُ المُبَاحَثَاتِ عَنْ كَذَا: بات چیت کا نتیجہ نکلنا۔
سَافِر: بے نقاب، روشن، ظاہر، واضح، مبینہ، مبینہ طور پر۔
مُتَسَفِّر: (دا) ریل کے ذریعہ جانے والے سامان اور جانوروں کا نگراں۔
سَفَرْجَل: بہی یا بہی کا درخت۔
سَفْسَطَة: منطقی مغالطہ، وہ استدلال وقیاس جس کی بنیاد مغالطہ پر ہو۔
سَفَطَ السَّمَكَ ـُ سَفْطاً: مچھلی کے سفنے اتارنا، مچھلی صاف کرنا۔
سَفَط السمك ج: أسفاط: مچھلی کا سفنا۔
سَفَط: ٹوکری۔
سَفَعَ الحَرُّ وَجْهَهُ ـَ سَفْعاً: گرمی کا چہرہ کو جھلسنا، گرمی یا لوب کے تھپیڑے لگنا (۲) طمانچہ مارنا۔
أسْفَعُ اللَّوْن: جھلسے ہوئے رنگ کا، سیاہی مائل۔
سَفَّ ـَ سَفّاً و اسْتَفَّ الشئ: پھانکنا۔
سَفَّ الخُوصَ ـُ سَفِيفاً: کھجور کے پتوں کو بنّنا۔
سَفَّ الطَّائر: پرندہ کا زمین پر چلنا۔
أسَفَّ النَّظَرَ إلَيْهِ: گھور کر دیکھنا، تیز نظر سے دیکھنا۔
سَفُوف: سفوف، پاؤڈر، پھنکی۔
سَفَقَ ـِ سَفْقاً: طمانچہ مارنا (۲) دروازہ زور سے بند کرنا۔
سَفَكَ ـِ سَفْكاً: خون بہانا، قتل کرنا۔
سَفْكُ الدِّمَاءِ: خونریزی۔
سَفَّاك: خونریزی، ظالم، قاتل۔

سَفَلَ ـُ سُفُولاً و سَفَالاً ء سَفُلَ ـُ سَفَالَة :(۱)پست ہونا(ضد عُلُوّ)(۲) نیچا ہونا(ضد اِرْتِفَاع)(۳)ذلیل وحقیر ہونا،کم درجہ ہونا۔
تَسَفَّلَ :بتدریج نیچا ہونا،پست ہونا۔
سِفْلٌ :(ضد عُلُوّ)فروتنی،پستی۔
سُفْلٌ و سُفَالَة : سب سے نیچا حصہ،کم درجہ اور گھٹیا چیز،پیندا،تلی۔
سُفْلِیٌّ :پست،زیریں،تحتانی۔
سَفَالَة :دناءت،کمینہ پن،گھٹیاپن۔
سَافِلٌ :(۱)پست گھٹیادرجہ،(۲) کمینہ
أَسْفَلُ :پست ترین۔فروتر،بہت نیچا۔
سَفِينَة ج: سُفُن :کشتی،جہاز۔
سَفِينَةٌ حَرْبِيَّة :جنگی جہاز۔
سَفِينَةٌ شِرَاعِيَّة :بادبانی کشتی۔
سَفِينَةٌ بُخَارِيَّة :دخانی کشتی،جہاز،اسٹیمر۔
سَفِينَةٌ بِالْمُوتَر :موٹر بوٹ۔
سَفِينَة حَمُولَة : مال بردار جہاز۔
سَفِينَة رُكَّاب : پانجر اسٹیمر۔
سَفِينَةُ شَحْنٍ :بار برداری کا جہاز۔
سَفِينَةُ الفَضَاء :خلائی جہاز۔
سَفَّان : کشتی ساز،جہاز سازی۔
سَفِينَةُ نَقْلٍ : ٹرانسپورٹ جہاز۔
سِفَانَة :کشتی سازی،جہاز سازی۔
سَفِين، إِسْفِين :چھینی،لوہے اور لکڑی کاٹنے کا اوزار۔
سَفْنَج، إِسْفَنْج :اسپنج۔
سَفِهَ ـَ سَفَهاً و سَفَاهاً و سَفَاهَةً :نادان ہونا،بے وقوف ہونا،کم عقل ہونا۔

سَفَّهَ الرَّجُلَ تَسْفِيهاً : بے وقوف بنانا،کم عقل ٹھہرانا۔
سَفَّهَ الرَّأْيَ :رائے کو غیر دانشمندانہ قرار دینا،غلط قرار دینا۔
سَفَهٌ، سَفَاهَة :(ضد حِلْم) بے وقوفی،نادانی،کم عقلی، بے حیائی (۲) زیادتی، فضول خرچی۔
سَفَاهَاتٌ صِبْيَانِيَّة :بچگانہ حماقتیں۔
سَفِيهٌ ج: سُفَهَاء :(۱)بے وقوف، نادان(۲)بدزبان(۳)فضول خرچ۔

س............ق

سَقَر: جہنم کا ایک نام۔
سَقَطَ ـُ سُقُوطاً: گرنا،ٹھوکر کھانا۔
سَقَطَتْ دَوْلَةٌ :شکست کھانا،مغلوب ہونا،ختم ہونا۔
سَقَطَ جَرِيحاً :زخمی ہوکر گر جانا۔
سَقَطَ صَرِيعاً: چت ہوجانا۔
__ فِي الاِمْتِحَان: فیل ہونا۔
__ مِنْ عَيْنِ فُلَانٍ :کسی کی نظروں سے گر جانا،حقیر ہوجانا۔
__ علی :پانا،پہنچانا،ہاتھ لگنا۔
سُقِطَ و أُسْقِطَ فِي يَدِه :نادم ہونا،حیران و پشیمان ہونا،لغزش کرنا۔
أَسْقَطَ إِسْقَاطاً :گرانا۔
__ مِنَ الحِسَاب :کم کرنا،گھٹانا،حذف کرنا(۲)نظرانداز کردینا۔
__ حَقّاً: حق یا حصہ ساقط کرنا۔
__ الدَّعْوَى: مقدمہ ختم کرنا۔
__ العُضْوِيَّة :ممبری ختم کرنا۔

___ المُؤامرةَ: سازش ناکام بنانا۔
أَسْقَطَ إمْرَأَةً حُبْلَى: حاملہ عورت کا حمل گرانا۔
أَسْقَطَتِ المَرْأَةُ: عورت کا حمل ساقط ہونا۔
تَسَقَّطَ الخَبَرَ: خبر حاصل کرنا۔
تَسَاقَطَ: جھڑنا، لگاتار گرنا۔
تَسَاقُطُ الثُلُوج: برف باری۔
مُسَاقَطَة: گرانا، جھاڑنا، برسانا۔
سُقُوط: تنزل، زوال، تباہی، بربادی۔
سُقُوطُ الأَحْكَامِ العُرْفِيَة: مارشل لاختم ہونا۔
سُقُوطُ الأعْذَار: عذر ختم ہونا۔
سُقُوطُ إمْبَراطُورِيَة: شہنشاہیت کا زوال۔
سُقُوطُ القَنابِلِ عَلى الأحْياءِ السَّكَنِيَّة: آبادی والے علاقوں پر بم گرنا۔
سُقُوطُ نِظَام الحُكْم: نظام حکومت کا زوال۔
سُقُوطُ النُقَطِ: مورچے ٹوٹنا۔
سَقَطٌ: (۱) بے کار، معطل (۲) لوٹ۔
سَقَطٌ: اولا، ژالہ۔
سِقْطٌ: ناتمام بچہ، ساقط شدہ بچہ۔
سَقْطَةٌ: ایک دفعہ کا گرنا، ایک لغزش۔
سَقَطِيٌّ: پرانے کپڑوں کا تاجر۔
مَسْقَط: گرنے کی جگہ۔
مَسْقَطُ الرَّأْس: جائے ولادت۔
سَقَعَ ــَـ سَقْعاً: تھپڑ مارنا۔
سُقْعٌ ج: أَسْقَاع: کونہ، گوشہ۔
سَقَفَ ــُـ سَقْفاً و سَقَّفَ: چھت ڈالنا، چھت دار بنانا۔

سَقْفٌ ج: سُقُوف و أَسْقُف و سُقُف: چھت۔
سَقْفٌ خَارِجِيٌّ: سطح۔
مِصْبَاحُ السَّقْف: دیواری لمپ۔
سَقِيفَة ج: سَقَائِفُ: سائبان، چھت، گاڑی وغیرہ کی چھت۔
أُسْقُف ج: اَسَاقِفَة: (قسیس سے بڑا عہدہ) بشپ، پادری (مطران سے کم درجہ)
أُسْقُفِيَّة: بشپ کا عہدہ۔
سَقِمَ ــَـ سَقَماً و سَقُمَ ــُـ سُقْماً و سَقَامَةً: بیمار ہونا، بیمار رہنا۔
انْسَقَام: (۱) دُبلا ہونا۔
سُقْم، سَقَمٌ، سَقَام: بیماری (۲) دُبلا پن، نزاکت۔
سَقِيم: بیمار، لاغر۔
سَقِيمُ الغَرَام: بیمار عشق۔
سُقُمْرِى: (مع) ماکریل، ایک قسم کی بحری مچھلی۔
سَقَنْقُور: (مع) چھوٹی قسم کی چھپکلی۔
سَقَى ــِـ سَقْياً و اَسْقَاه: پلانا، پانی دینا، سیراب کرنا، آبپاشی کرنا۔
سَاقَاه مُسَاقَاةً: پینے میں شریک ہونا۔
اسْتَقَاهُ اسْتِقَاءً: پانی مانگنا، پینے کی خواہش کرنا۔
اسْتَقَى الخَبَرَ: خبر حاصل کرنا۔
اسْتَقَى المَعْلُومَاتِ من: معلومات فراہم کرنا۔
سِقَاء ج: أَسْقِيَة: مشک۔

سَقّاء: سقہ، پانی پہنچانے والا۔
سِقَايَة: خدمت آب رسانی۔
سَقْيٌ: آبپاشی، سیرابی، آب رسانی۔
سَاقِيَة ج: سَوَاقِ: رہٹ (۲) چھوٹی نہر (۳) پلانے اور سیراب کرنیوالی۔
مَسْقِيٌّ: سیراب شدہ۔

س.........ک

سَكَبَ ـُ سَكْباً: ڈالنا، بہانا، گرانا۔
اِنسِكَاب: بہنا۔
سَاكِبُ كَأْسٍ: جام بھر کردینے والا۔
اُسْكُوب ج: أَسَاكِيبُ: زبردست بارش۔
سَكَتَ ـُ سُكُوتاً: خاموش ہونا۔
سُكِتَ سَكْتَةً: سکتہ میں آنا، سکتہ کی بیماری ہونا۔
تَسْكِيت و إِسْكَات: خاموش کرنا۔
إِسْكَاتُ صَوْتِ الضَّمِيرِ: ضمیر کی آواز دبانا۔
إِسْكَاتُ الْمَدَافِع: توپوں کو خاموش کردینا۔
سَكْتَة: نقطہ، نشان وقف، ایک بیماری، شاک۔
سَكْتَةٌ دِمَاغِيَة: دماغی شاک۔
سَكْتَةٌ قَلْبِيَة: ہارٹ اٹیک۔
سُكُوتٌ لِفَتْرَةٍ: تھوڑی دیر چپ رہنا، خاموش رہنا، وقفہ کی خاموشی۔
سُكُوت و سِكِّيت: خاموش طبیعت آدمی۔
سَاكِت: خاموش، ساکن، سنسان۔
سَكِرَ ـَ سُكْراً: بیہوش ہونا، نشہ ہونا۔
سَكَرَ ـُ سَكْراً سَكَرَ الْبَابَ: دروازہ بند کرنا۔
سَكَّرَ و أَسْكَرَ: بیہوش کرنا، نشہ چڑھانا۔
سَكَّرَ الشَّيْئَ تَسْكِيراً: شکر ملانا، میٹھا کرنا۔
سَكَّرَ الشَّرَابُ: شربت کا خشک ہوکر شکر ہو جانا۔
سَكَّرَ الْفَاكِهَةَ: پھل کا مربّٰی بنانا۔
سُكْر: نشہ، بیہوشی، مدہوشی۔
سُكَّر: چینی، شکر، شوگر۔
سُكَّرُ بَنْجَرٍ: چقندر کی شکر۔
سُكَّرٌ خَام: خام شکر، گڑ، شکر، کھانڈ وغیرہ۔
سُكَّرُ الْقَصَب: گنے کی شکر۔
السُّكَّرُ الْمُكَرَّر: صاف کردہ شکر (چینی)۔
سُكَّرٌ نَاعِمٌ: دانہ دار شکر، کاسٹر شوگر۔
قَصَبُ السُّكَّر: گنا۔
سُكَّرِيّ: شکر کا۔
مَرَضُ الْبَوْلِ السُّكَّرِيّ: پیشاب میں شکر آنے کی بیماری۔
سَكَّرِين: (مع) شکرین۔
سَكَّرٌ، مُسْكِرٌ: نشہ آور، مدہوش کن۔
سَكْرَة: نشہ، مدہوشی ج: سَكَرَات
سَكْرَةُ الْمَوْت: کیفیت نزع۔
سَكْرَان ج: سُكَارَى: نشہ والا، بیہوش، نشہ میں چور، مست۔
سُكَارَى بِالْحَمَاس: جوش میں دیوانے۔
سُكَّرِيَّة: (دا) شکردان۔
سِكْرِتِير: (مع) سیکرٹری (كَاتِبُ السِّرِّ)
سِكْرِتَارِيَّة: سکریٹری آفس، سکریٹریٹ سکریٹری کا عہدہ۔
السِّكْرِتِيرُ الأَوَّلُ: چیف سیکرٹری، فرسٹ

سیکرٹری۔
سِکْرِتِیرُ التَّحْرِیْر: معاون مدیر۔
السِّکْرِتِیرُ الثَّانِی: انڈر سیکرٹری۔
سِکْرِتِیرٌ فَخْرِیٌّ: اعزازی سیکرٹری، آنریری سکریٹری۔
سِکْرِتِیرُ العَامُّ: جنرل سیکرٹری۔
سِکْرِتِیرٌ مُسَاعِد: اسسٹنٹ سیکرٹری۔
سِکْرِتیرة: خاتون سیکرٹری، لیڈی سیکرٹری۔
سُکْرُجَة: طشتری، پلیٹ ج: سَکَارِجُ
سَکَعَ ـَ سَکْعاً وَتَسَکَّعَ: بے مقصد و بے ہدایت پھرنا۔
تَسَکَّعَ: (دا) طمانچہ مارنا۔
سَکْعَکَع: (مع) ممولا وغیرہ کی قسم کی چڑیاں جن کی دم ہلتی رہتی ہے، دم جنباں۔
سَکِفَ البَابَ ـَ سَکْفاً: دروازہ میں چوکھٹ لگانا۔
سَکَّاف، إِسْکَاف: موچی، جفت ساز (۲) جوتوں کی مرمت کرنے والا۔
أُسْکُفَّةُ البَاب: دروازے کی چوکھٹ۔
سِکَافَة: جوتا سازی، جوتے بنانے یا مرمت کرنے کا پیشہ۔
سَکَّ ـُ سَکّاً البَابَ: بند کرنا۔
سَکَّ الرَّجُلُ ـَ سَکَکاً: بہرہ ہونا، پردۂ کان کا تنگ ہونا۔
سَکَّ النُّقُودَ ـُ سَکّاً: کرنسی بنانا، روپے وغیرہ ڈھالنا۔
سَکُّ العُمْلَة: سکہ ڈھالنا۔
سَکُّ النُّقُود: سکہ ڈھالنا۔
سِکَّة ج: سِکَکٌ: ڈھلا ہوا سونے یا چاندی وغیرہ کا سکہ۔
سِکَّةُ المَسْکُوکَات: سکہ ڈھالنے کی ڈائی۔
سِکَّة (۲) ج: سِکَکٌ: راستہ، سڑک۔
سِکَّةُ الحَدِیْد: ریلوے۔
سَکَّةٌ حَدِیْدِیَّة تحت أَرضِیَّة: انڈر گراؤنڈ ریلوے۔
سِکَّةٌ حَدِیْدِیَّةٌ کَهْرَبَائِیَّة: الیکٹرک ریلوے۔
سِکَّةُ المِحْرَاث: ہل میں لگا ہوا لوہا۔
مَحَطَّةُ السِّکَّةِ الحَدِیْدِیَّة: ریلوے اسٹیشن۔
قِطَارُ السِّکَّةِ الحَدِیْدِیَّة: ریل گاڑی۔
خَطُّ السِّکَّةِ الحَدِیْدِیَّة: ریلوے لائن۔
قَنَاطِرُ السِّکَّة: ریلوے پل۔
مَصْلَحَةُ السِّکَّة: ریلوے محکمہ۔
السِّکَکُ الحَدِیْدِیَّةُ الضَّیِّقَة: چھوٹی ریلوے لائنیں، چھوٹے گیج کی ریلوے لائنیں۔
سَکَنَ ـُ سُکُوناً: (۱) سکون پذیر ہونا، حرکت بند ہونا، ہوا بند ہونا۔
سَکَنَ إِلَیْه: آرام پانا۔
سَکَنَ المَکَانَ وَبِه سَکَناً وَسُکْنَی: سکونت پذیر ہونا۔
سَکَنَ الحَرْف: حرف کا حرکت سے خالی ہونا۔
سَکَنَ الدَّارَ: رہنا، رہائش اختیار کرنا۔
سَکَنَ الرَّجُلُ البَیْتَ: آباد ہونا۔
سَکَنَ عَنْهُ الوَجَعُ وَالأَلَمُ: اس کی تکلیف

یا درد زائل ہو گیا۔
سَكَنَ الغَضَبُ: غصہ ٹھنڈا ہونا، کم ہونا۔
سَكَنَ لَهَبُ النَّار: آنچ کم ہونا۔
سَكَنَالجَأْشُ: مطمئن ہونا۔
سَكَّنَ تَسْكِيناً: (۱) حرکت بند کرنا، ٹھہرانا، ساکن کرنا (۲) سکون و آرام بخشنا۔
سَكَّنَ الألَمَ: درد یا تکلیف ختم کرنا۔
سَكَّنَ الجُوعَ، الشَّهوةَ، الغَضَبَ: بھوک، خواہش اور غصہ ختم کرنا۔
سَكَّنَ الحَرْفَ: حرف کو ساکن کرنا۔
سَكَّنَ الرَّوْعَ: گھبراہٹ دور کرنا، تسلی دینا۔
سَكَّنَ و أسْكَنَ الدَّار: آباد کرنا، بسانا، رہائش کی جگہ دینا۔
إسْكَان: ہاؤسنگ، آباد کرنا، آبادکاری
الإسْكَانُ التَّعَاوُنِيّ: کوآپریشن ہاؤسنگ
سَاكَنَه مُسَاكَنَةً: ساتھ رہنا، کسی عورت کے ساتھ بلا شادی رہنا۔
سَكُنَ ـُ سُكُونَةً: غریب محتاج ہونا۔
اسْتِكَانَة: فروتنی، عاجزی۔
سَكَنٌ، سُكْنَى: رہائش۔
سَكَنٌ و مَسْكَن: رہائش گاہ، مکان، کوارٹر۔
سَكَنٌ مَصْلَحِيّ: سرکاری رہائش گاہ۔
سُكُون: (۱) ٹھہراؤ، خاموشی، بندش، (۲) آرام، قرار، دل جمعی (۳) جزم۔
يُسْكَنُ: قابل رہائش۔
سَاكِنٌ ج: سُكَّان: باشندہ، رہنے والا۔
سُكَّانُ المَرْكَب: کشتی کا پتوار۔
سِكِّين: چھری، چاقو ج: سَكَاكِين
سَكَّان، سَكَاكِينِيّ: چھری ساز۔
سَكِينَة: وقار، سنجیدگی۔
مَسْكَنٌ رَسْمِيّ: سرکاری رہائش گاہ۔
مَسَاكِنُ العُمَّال: کارکنوں کے کوارٹر۔
مُسَكِّن: سکون بخش، فرحت بخش۔
مَسْكُون: آباد، معمور۔
المَسْكُونَة: دُنیا، عالم، آبادی۔
مَسْكَنَة: غربت، افلاس، ذلت، بے چارگی، بدحالی۔
مِسْكِين: ج: مساكين: بے چارہ، غریب۔
سَكُوتَة: (مع) اسکوٹر۔

س..........ل

سَلأ السَّمْنَ ـَ سَلأً: گھی صاف کرنا۔
سِلاء: صاف کیا ہوا گھی۔
سَلَبَ ـُ سَلْباً و اسْتَلَبَ: چھیننا، لوٹنا، سلب کرنا، اُچکنا، کھینچ لینا۔
سَلِبَ ـَ سَلَباً: ماتم کے کپڑے پہننا۔
سَلَبٌ: (۱) لوٹ کا مال، چھینا ہوا مال، لوٹ کھسوٹ (۲) نفی (ایجاب کی ضد)
سَلْبُ اِخْتِصَاصِ أحَدٍ: اختیار چھیننا۔
سَلْبُ الحُرِّيَّةِ وَ كَبْتُها: آزادی سلب کرنا۔
عَلامَةُ السَّلْب: (..........)
سَلْبِيّ: منفی، انکاری۔
سِلاب: ماتمی لباس۔
سَلَّاب: لٹیرا۔
اُسْلُوب ج: أسَالِيب: طرز، رنگ ڈھنگ، طور طریقہ، کیفیت، ٹون۔
اُسْلُوبُ الحَيَاة: طرز زندگی۔

سَلَتَ ۔ سَلْتاً : زائل کرنا، کسی چیز پر لگی ہوئی گندگی دور کرنا، صاف کرنا (۲) کھینچنا، سونتنا، (۳) عجلت کے ساتھ کپڑے بدن سے اتارنا۔
اِنْسِلات: الگ ہو جانا، کھچ جانا۔
اِنْسِلات مِنْ: بھاگنا، فرار ہونا۔
سَلَحَ الطَّائِرُ ۔ سَلْحاً: پرندہ کا بیٹ کرنا۔
سَلَّحَ تَسْلِيحاً: مسلح کرنا، ہتھیار بند کرنا۔
التَسْلِيحُ الذَّرِيّ :ایٹمی ہتھیاروں سے لیس کرنا۔
تَسَلُّح: ہتھیار بند ہونا، مسلح ہونا، جنگی تیاری، لڑائی کی تیاری۔
التَسَلُّحُ بالمَرُوْنَة: لچک رکھنا۔
تَسَلُّحٌ جَدِيْد: جدید ہتھیار بندی۔
سَلْحُ الطُّيُور: پرندوں کی بیٹ۔
سِلاَحٌ ج: أَسْلِحَة: ہتھیار، فوج کا ایک حصہ۔
سِلاَحُ البَحْرِيَّة: بحری بیڑہ۔
السِلاَحُ الجَوِّيّ :ایئر فورس، ہوائی فوج، فضائی فوجی طاقت۔
سِلاَحُ الدِفَاع: زرہ۔
سِلاَحُ الطَّيَران: فضائی طاقت، ہوائی فوج۔
سِلاَحُ الرَّدْع: محافظ ہتھیار، دفاعی ہتھیار۔
سِلاَحُ الصَّوَارِيْخ: راکٹ بردار فوج۔
سِلاَحُ الطَّيَران :فضائی فوج، ہوائی فوج، فضائیہ۔
سِلاَحُ الفُرْسَان: گھوڑ اسوار فوج۔
سِلاَحُ المُدَرَّعات: بکتر بند فوج۔
سِلاَحُ المِدْفَعِيَّة: توپخانہ بردار فوج۔

تَحْتَ السِّلاَح: فوجی خدمت پر مامور
سِلاَحِيّ: تاجر اسلحہ۔
الأَسْلِحَةُ البَحْرِيَّة: بحری ہتھیار۔
أَسْلِحَةٌ رَادِعَة: حفاظتی ہتھیار۔
أَسْلِحَةٌ مُتَطَوِّرة :نئے ہتھیار، ترقی یافتہ ہتھیار۔
الأَسْلِحَةُ النَّارِيَّة: آتشیں ہتھیار۔
أَسْلِحَةٌ هُجُومِيَّة: جارحانہ ہتھیار۔
مُسَلَّح: پولیس۔
سُلَحْفَاة: کچھوا ج: سَلاَحِف
سَلَخَ الذَّبِيْحَةَ ۔ سَلْخاً: کھال اُتارنا، کھال کھینچنا۔
سَلَخَ البَشَرَة: کھال چھیلنا
سَلَخَ الثُّعْبَان: سانپ کا کینچلی سے باہر آنا۔
سَلَخ و انْسَلَخَ الشَّهْرُ: گزرنا۔
اِنْسِلاَخ مِنْ :الگ ہونا، کپڑوں سے عاری ہونا۔
سَلْخُ الحَيَّة و مِسْلاَخُها: سانپ کی کینچلی۔
سَلِيْخ: بے مزہ۔
سَلِيْخ و مَسْلُوخ: جس کی کھال اتاری گئی ہو۔
مُنْسَلِخ: (۱) کھال اتارا ہوا (۲) گزشتہ۔
سَلْخَانَة، مَسْلَخ: مذبح۔
سَلِسَ ۔ سَلاَسَةً :(۱) نرم ہونا (۲) آسان ہونا (۳) رواں ہونا (۴) تابع وفرمانبردار ہونا۔
سَلِسٌ :رواں، نرم، سہل، تابع۔
سَلاَسَة: نرمی، آسانی، روانی۔
سَلْسَبِيْل :اہل جنت کی شراب۔

سَلْسَلَ الشَّیْئَ بِالشَّیْئِ: ایک چیز کو دوسری کے ساتھ جوڑنا۔
سَلْسَلَهُ: زنجیر سے باندھنا، زنجیر گلے میں ڈالنا۔
سَلْسَلَ النَّسَبَ إلی: سلسلہ نسب کو کسی خاص فرد تک پہنچانا۔
سَلْسَلَ الْمَاءَ: نشیبی جگہوں میں پانی بہانا۔
تَسَلْسَلَ الْمَاءُ: پانی بہنا، جاری ہونا۔
سَلْسَلٌ: چھوٹا آبشار (۲) آب شیریں۔
سِلْسِلَة ج سَلَاسِلُ: (۱) زنجیر (۲) ارتباط، اتصال (۳) سلسلہ۔
سِلْسِلَةُ الظَّهْر: پشت کی زنجیر نما ہڈی۔
سِلْسِلَةُ الْمَسَّاح: پیمائش کرنے والے کی چین، فیتا۔
سِلْسِلَةٌ مُنَظَّمَة: کورس (علاج وغیرہ کا)
مُسَلْسَلٌ: (۱) زنجیر سے بندھا ہوا (۲) نمبروار (۳) لگاتار (۴) سلسلہ، سلسلہ اور پروگرام، سیریل۔
مُسَلْسَلٌ مُصَوَّر: باتصویر سلسلہ۔
مُتَسَلْسِلٌ: سلسلہ وار۔
رِوَایَةٌ مُتَسَلْسِلَة: مسلسل کہانی۔
سَلُطَ ــُـ سَلَاطَةً و سُلُوطَةً: زبان دراز ہونا، تیز زبان ہونا۔
سَلَّطَهُ علی کذا تَسْلِیطًا: غالب بنانا، مسلط کرنا، حاکم بنانا۔
تَسَلَّطَ علی: قابض ہونا، غالب ہونا، حاکم بننا، اقتدار حاصل کرنا۔
تَسَلُّط: اقتدار۔
التَّسَلُّطُ الأَجْنَبِیّ: غیر ملکی غلبہ، غیر ملکی اقتدار۔
تَسَلُّطِیٌّ: ظالمانہ۔
سُلْطَة: اقتدار، اختیار، حکومت، کمیشن، غلبہ، اثر، منصب، عہدہ، ہولڈ، اتھارٹی۔ ج: سُلُطَات
سُلْطَةٌ اِخْتِیَارِیَّة: اختیار تمیزی۔
سُلْطَةٌ بَرْلَمَانِیَّة: پارلیمنٹری اختیار۔
سُلْطَةٌ تَامَّة: فل پاور، کل اختیار۔
سُلْطَةُ التَّشْرِیع: اختیار قانون سازی، منصب قانون سازی۔
سُلْطَةٌ تَشْرِیعِیَّة: قانونی اختیار، قانون سازی کا اختیار۔
سُلْطَةُ تَفْوِیض: کامل اختیار۔
سُلْطَةٌ تَقْدِیرِیَّة: اختیار تمیزی۔
سُلْطَةٌ تَنْفِیذِیَّة: ایگزیکیٹیو ورکنگ پاور، عملی اختیارات، انتظامی اختیارات، انتظامی عہدہ دار، ایڈمنسٹریشن۔
سُلْطَةٌ رَئِیسِیَّة: اعلیٰ اختیار۔
سُلْطَةُ السِّیَادَة: اختیارات حکومت، اقتدار اعلیٰ۔
سُلْطَةٌ سِیَاسِیَّة: سیاسی اختیار، سیاسی اقتدار۔
السُّلْطَةُ الشَّرْعِیَّة: قانونی حکومت، قانونی اختیار، جائز اقتدار۔
سُلْطَةُ الْقَضَاء: حکام عدالت، منصب قضا۔
سُلْطَةٌ زَمَنِیَّة: وقتی اقتدار۔
سُلْطَةٌ مُطْلَقَة: اقتدار و اختیار کامل، خود مختار حکومت، مطلق العنان حکومت۔
السُّلْطَةُ الْعُمُومِیَّة: پبلک اتھارٹی، عوامی اختیار۔
سُلْطَةٌ قَضَائِیَّة: عدالتی اختیار، عدالتی پاور۔

السُلطَةُ القَائِمةُ بالإدَارة: انتظامی پاور۔
سُلطَةٌ كامِلَة: فل پاور، مکمل اختیار۔
السُلطَةُ المُختَصَّة: بااختیار ادارہ، بااختیار جماعت، بااختیار حکام، متعلقہ حکام۔
لاسُلطَةَ لَهُ: بے اختیار۔
سُلطَاتٌ إدارِيَّة: انتظامی ادارے۔
سُلطَات الأمن: حفاظتی پولیس، حفاظتی حکام۔
سُلطَات: اختیارات، افسران، حکام، اتھارٹیز۔
السُلطَاتُ الحُكومِيَّة: سرکاری حکام۔
سُلطَاتُ مَخفَرِ الشُرطَة: تھانہ کے حکام، ذمہ داران۔
سَلَطَة: (مع) سلاد، ساگ کا کچومر یا کچالو، چٹنی۔
سَلاطَة: سلاد، مخلوط کچی سبزیاں۔
سَلاطَة: (۲) زبان درازی، بے حیائی،
سَلِيط: زبان دراز، بے حیا۔
مِسْلاط: چابی کے دانت۔
مِسلاطٌ سِينَمائِيّ: بائسکوپ۔
مُتَسَلِّط: غالب، قابو یافتہ۔
سَلطَعُون: (مع) (۱) کیکڑا، سرطان (۲) برج سرطان (۳) کانٹا۔
سَلْطَنَة: سلطان بنانا، حاکم بنانا۔
تَسَلطُنٌ: سلطان وحکمراں بننا۔
سُلطَان ج: سَلاطِين: حکمراں (۲) اقتدار۔
سُلطَانُ أرض: زمین پر تسلط، قبضہ، عمل داری، حکومت۔
سُلطَانِيَّة: (دا) پیالہ، گول برتن، ڈونگا۔
سَلِعَتِ الرِجلُ ـ سَلعًا (تَشَقَّقَتِ القَدَمُ): پیروں کا پھٹنا۔
سَلِعَتِ الأرضُ وانسَلَعَتْ: زمین میں شگاف پڑنا۔
سَلْعٌ: (شَق) پھٹن، رخ، دراڑ، شگاف ج: سُلوع
سِلعَة ج: سِلَعٌ: سامان تجارت۔
سِلعَةٌ كاسِدَة: خراب اور ردی سامان۔
سِلعَةٌ شائِعَة: مروجہ سامان۔
سِلعَةٌ مُتَداوِلَة: چالو سامان، مروجہ سامان۔
سِلعَةٌ مُصَدَّرة: ایکسپورٹ کیا ہوا مال۔
سِلَعٌ حُرَّة: فری سامان جس پر کسٹم نہ ہو۔
سِلَعٌ سَهلَةُ المَنال: آسانی سے ملنے والا سامان۔
سِلَعٌ صَغِيرة: چھوٹی تجارتی اشیاء (جیسے سوئی دھاگہ)۔
السِلَعُ الصِناعِيَّة: صنعتی سامان۔
سِلَعٌ غَيرُ نَمطِيَّة: غیر معیاری سامان۔
سِلَعٌ قابِلَةٌ لِلتَلَف: ضائع ہونے والا سامان، خراب ہونے والا سامان۔
سِلَعٌ مُعَمَّرة: دیر تک رہنے والا سامان۔
سِلَعٌ مُمتَازة: اعلیٰ قسم کا سامان۔
سِلَعٌ اِستِهلاكِيَّة: اشیائے صرف، سامان صرف۔
سِلَعٌ اِستِهلاكِيَّة شائِعَةُ الاستِعمَال: عام استعمال کی اشیائے صرف۔
سِلَعُ الأعمَال: سامان تجارت۔
سِلَعٌ إنتاجِيَّة: پیداواری سامان۔
سِلَعٌ تَموِينِيَّة: سپلائی کا سامان۔
سَلَفَ الأرضَ ـ سَلفًا و أسلَفَ: زمین کو

کاشت کے لیے ہموار کرنا۔
سَلَفَ ـُ سَلَفاً و سُلُوفا : گزرنا، مقدم ہونا، آگے بڑھنا۔
سَلَّفَ و أَسْلَفَ : (۱) قرض دینا (۲) پیشگی دینا (۳) آگے بڑھانا۔
التَّسلِيفُ الزِّرَاعِيُّ: زرعی قرضہ۔
التَّسلِيفُ العَقارِيُّ: جائیداد قرض۔
تَسَلَّفَ و اسْتِلاف: قرض لینا، لون لینا۔
سَلَفٌ (ضد: خَلَف): (۱) اگلے لوگ، آباؤاجداد (۲) قرض۔
سَلَفاً: پیشگی، پہلے۔
سِلْفٌ: (دا) ہم زلف، ساڑھو۔
سِلْفَة: بھاوج، دیورانی، جٹھانی۔
سُلْفَة: قرض مع سود، ایڈوانس، لون Loan
سُلْفَةٌ بدُوْن ضَمان: بلاضمانت قرض
سُلْفَةُ الحِذَاء: جوتے کا تلا۔
سُلْفَةٌ مِنَ المَصْرِف: بینک قرض۔
سُلاف، سُلافَة: عمدہ شراب۔
سَالِف ج: سَلَفٌ: گزشتہ، مقدم۔
سَالِفُ الذِّكر: جس کا ابھی ذکر ہوا جس کا ذکر پہلے ہو چکا، مذکورہ بالا۔
فِيْ سَالِفِ الزَّمَان: گزشتہ زمانہ میں۔
سَالِفَة ج: سَوَالِف : (۱) گردن کا بالائی حصہ (۲) گردن۔
سَالِفاً: پہلے۔
مِسْلَفَة ج: مَسَالِفُ : ہنگا جس سے ہل چلانے کے بعد زمین ہموار کی جاتی ہے۔
سُلْفَات: (مع) سلفیت، گندھک کے تیزاب کا نمک۔

سُلْفِيد: (مع) سلفائڈ، گندھک اور کسی عنصر یا جزو مستقل کا مرکب۔
سَلَقَ ـُ سَلْقاً: گوشت اور انڈا وغیرہ اُبالنا، جوش دینا، کھولانا۔
سَلَقَ الحَرُّ النَّبَاتَ: گرمی کا نبات کو جلانا۔
تَسَلَّقَ: چڑھنا، بیل کا چڑھنا۔
سَلاقَةُ اللِّسَان: زبان کی تیزی۔
سَلاقُون: لال مٹی۔
سَلِيقَة، مَسْلُوقَة: گوشت کا سوپ، اُبلا ہوا کھانا۔
سَلَكَ ـُ سُلُوكاً: راستہ پر چلنا (۲) روش اختیار کرنا (۳) برتاؤ کرنا (۴) قصد کرنا (۵) شامل کرنا، پرونا۔
سَلَكَ المَكَانَ: داخل ہونا۔
سَلَكَ بمُوْجِبِ كَذا: کسی چیز کے مقتضا کے مطابق کام کرنا۔
سَلَكَ و أَسْلَكَ: پرونا، منسلک کرنا۔
سَلَكَ الخَيطَ: گرہ کھولنا۔
سَلَكَ الأَمْرَ المُعَقَّدَ: پیچیدہ معاملہ کو سلجھانا۔
سَلَكَ الأَسْنَانَ: دانتوں میں خلال کرنا۔
اِنْسِلاك: منسلک ہونا، داخل ہونا (۲) اشتراک۔
سِلْكٌ ج: أَسْلاك : (۱) تار (۲) دھاگہ (۳) لڑی (۴) لائن (۵) سلسلہ۔
سِلْكٌ تِلِغْرافِيّ: کیبل، ٹیلی گرام لائن۔
سِلْكٌ كَهْرَبائي: بجلی کا تار۔
سِلْكٌ مَعْدِنِيّ: لوہے تانبے وغیرہ کا تار، تار برقی، وائر۔
السِّلْكُ الدِّبْلُومَاسِيّ: سفارتی جماعت،

سفارتی عملہ، سیاسی باڈی۔
السِلْکُ السِیاسِیّ: سیاسی لائن۔
السِلْکُ الصَّحفِیّ: پریس لائن۔
السِلْکُ القُنصُلِیّ: کونسلر سروس۔
لاسِلْکِیّ، بلاأسْلاک: وائرلیس۔
إشارَةٌ لاسِلْکِیَّة: وائرلیس سگنل۔
رِسَالَةٌ لاسِلْکِیَّة: وائرلیس پیغام، ریڈیائی پیغام۔
مُخابَرَةٌ لاسِلْکِیَّة: وائرلیس اطلاعات، وائرلیس کے ذریعہ بات چیت، پیغام رسانی۔
جِهازُ التِقَاطٍ لاسِلْکِیّ: وائرلیس سیٹ۔
عَامِلُ اللَّاسِلْکِیّ: وائرلیس آپریٹر
سَلْکُ البَحْرِ: کشتی رانی، جہاز رانی۔
سَلْکُ الهَوَاءِ: ہوابازی۔
سَلَّاکَةُ الأسْنَان: دانتوں کا خلال۔
سُلُوک: طرزِ عمل، روش، طور طریق، ایکشن، معاملہ۔
السُلُوکُ الأخْلَاقِیُّ: مورل، اخلاقی برتاؤ۔
سُلُوکٌ جَمَاعِیٌّ: معاشرتی طور وطریق، اجتماعی اخلاق، سماجی برتاؤ۔
سُلُوکٌ یَتَّصِفُ بِالأمَانَةِ والإسْتِقَامَة: ایماندارانہ اور مساوی برتاؤ۔
حُسْنُ السُلُوک: اچھا برتاؤ، نیک چلن۔
سُوءُ السُلُوک: بدچلنی، بدسلوکی، برا طرزِ عمل، غلط برتاؤ۔
السُلُوکِیَّة: طرزِ عمل، کردار، ج: سُلُوکِیَات
سَالِک: (۱) چلنے والا، روش اختیار کرنے والا (۲) علم سلوک پر چلنے والا۔
مَسْلَکٌ ج: مَسَالِک: طریقہ، راستہ، مذہبی جماعت کا خاص طریقہ، روش، روٹ، طرزِ عمل۔
المَسْلَکُ السَّخِیف: خراب طرزِ عمل۔
مَسْلَکُ فُلانٍ مَعَ فُلان: کسی کے ساتھ کسی کا طرزِ عمل۔
سِلِیْکَا: (مع) سلیکا، ایک قسم کی سخت سفید یا بے رنگ معدنی شے جو اکثر قیمتی پتھروں اور معمولی پتھر میں پائی جاتی ہے۔
سَلَّ ـُ سَلًّا و اسْتَلَّ: آہستہ سے کھینچنا۔
سَلَّ و اسْتَلَّ السَّیْفَ: تلوار میان سے نکالنا۔
سَلَّ و اسْتَلَّ السِکِّیْنَ: چھری نکالنا، چاقو جیب سے نکالنا۔
سُلَّ، انْسَلَّ: (وا) مرض سل میں مبتلا ہونا۔
انْسِلالٌ مِنْ مَکَان: آہستہ سے نکل جانا، خفیہ طور پر نکل جانا، آنکھ بچا کر نکل جانا۔
انْسِلَالٌ إلـى: کسی جگہ خفیہ اور آہستہ پہنچنا۔
التَسَلُّلُ: دبے قدموں آنا، آہستہ آہستہ داخل ہونا، سرایت کرنا۔
التَسَلُّلُ إلی کَذا: راہ پانا، گھس آنا۔
التَسَلُّلُ إلی دَاخِلِ الأرْضِ: سرحد میں گھس آنا۔
التَسَلُّلُ دَاخِلَ الأرَاضِیْ: سرزمین میں گھس آنا۔

سِلٌّ: ایک بیماری، سل۔
سَلَّة ج. سِلال: ٹوکری، کنڈی۔
سَلَّةٌ لِلأَوْراقِ الحِفظ: فائلنگ باسکٹ
سَلَّة المُهمَلات: ردی کی ٹوکری۔
سَلّال: ٹوکریاں بنانے والا۔
: (۱) نسل (۲) خاندان کی اصل (۳) فیملی، خاندان۔
سُلالَةٌ مَلَكِيَّةٌ: شاہی خاندان۔
عِلْمُ السُّلالاتِ البَشَرِيَّة: علم الانساب۔
سَلِيلُ فُلان: فلاں کی نسل۔
سَلِيلٌ و مَسْلُول: سل کا مریض۔
سَلِيلٌ و مُسْتَلٌّ: تلوار وغیرہ سونتی ہوئی۔
مِسَلَّة: بڑی سوئی، سوا۔
مِسَلَّةُ بِناءٍ: نوکیلا برج، جیسے گرجا اور مندر پر ہوتا ہے۔
سَلِمَ ـَ مِنْ، سَلامَةً: محفوظ رہنا، ظاہری و باطنی آفات سے محفوظ رہنا، نجات پانا، بچنا۔
سَلِمَ مِنْ عَيْب: عیب سے پاک ہونا۔
سَلَّم عليه تَسْلِيماً: سلام کرنا۔
سَلَّم إلَى: سپرد کرنا، سونپنا۔
ــــ إعْلاناً قَضائِياً: عدالت کا حکم نامہ پہنچانا، وارنٹ یا پروانہ پہنچانا۔
ــــ بالأمْرِ: تسلیم کرنا، مان لینا، قبول کرنا۔
ــــ إلَى العَدُوّ: دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنا، گھٹنے ٹیکنا۔
ــــ مِنْ خَطَرٍ: خطرہ سے بچانا، محفوظ رکھنا۔
ــــ سِلاحَه إلَى: ہتھیار ڈالنا۔

سَلِّمْ لِي عَلَيْه: میری طرف سے ان کو سلام پہنچاؤ۔
سالَمَه مُسالَمَةً: صلح کرنا۔
أَسْلَمَ: مسلمان ہونا، مذہب اسلام قبول کرنا۔
أَسْلَمَ لَهُ: مطیع و منقاد ہونا۔
أَسْلَمَ أَمْرَه إلَى الله: اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا۔
أَسْلَمَ (۲) فُلاناً: بے یار و مددگار چھوڑنا، رسوا کرنا، خیانت و غداری کرنا۔
أَسْلَمَ الرُّوحَ: جان دینا۔
أَسْلَمَه لِكَذا: کسی کے رحم و کرم پر چھوڑنا۔
تَسَلَّمَ و اسْتَلَمَ: وصول کرنا، لینا، پانا، رسیو کرنا۔
تَسَلَّمَ السُّلْطان: اختیارات حاصل کرنا۔
تَسَلَّمَ العَمَلَ: کام کا چارج لینا۔
تَسَلَّمَ المَنْصِبَ: عہدہ سنبھالنا۔
تَسَلَّمَ الخِطابَ: خط وصول پانا۔
اسْتَلَمَ الحُكْمَ: حکومت سنبھالنا۔
اسْتَسْلَمَ لِفُلان: مطیع ہونا، ہتھیار ڈالنا، کسی کے سامنے اعتراف عجز کرنا، جھکنا۔
اسْتِسْلام: جھکاؤ، شکست، مغلوبیت (۲) گھٹنے ٹیکنا، ہتھیار ڈالنا، ذلیل ہونا، ہار ماننا، تحویل میں لینا، زیر ہونا۔
بالاسْتِسْلام: ہتھیار ڈال کر۔
اسْتِسْلامِيّ: شکست خوردانہ، ذلت آمیز، مغلوبانہ۔

سُلَّم ج: سَلالِم: زینہ۔
سُلَّمُ الحَرِیق: فائر اسکیپ (آگ بجھانے کی سیڑھی)۔
سُلَّمُ الرُّسُوم: چارجنگ اسکیل۔
سُلَّمُ النَّجاۃ: فائر اسکیپ (آگ بجھانے کی سیڑھی)۔
سُلَّمٌ مِیکانِیکِیٌّ: خودکار زینہ۔
سُلَّمٌ مُتنقِل: سیڑھی (ڈنڈوں یا تختوں دار)
سُلَّمٌ: ذریعہ، آلہ کار۔
اِتَّخذَہُ سُلَّماً لِأغراضِہ: اس کو اپنے مقاصد کے لیے ذریعہ بنایا۔
اَسْلَمُ الحُلُول: بہترین حل۔
سَلامۃ: حفظ و امان، تندرستی، بے عیبی، سیفٹی، حفاظت، سلامتی۔
سَلام: (۱) سلام (۲) قومی ترانہ جو صبح کو گایا جاتا ہے، سلوٹ۔
سَلام، سِلْم: امن و سلامتی، سکون، آشتی۔
سَلامٌ دائِم: دائمی امن۔
السَّلامُ الرُّوحِیّ: روحانی سکون۔
سَلامٌ عادِلٌ: منصفانہ امن۔
سَلامٌ عَسْکَرِیّ: فوجی سلام۔
السَّلامُ المُراوِغ: فریب دہ امن۔
السَّلامُ الوَطَنِی: قومی ترانہ۔
دارُ السَّلام: (۱) جنت (۲) افریقہ کا مشہور مشرقی شہر۔
دارُ او مَدِینۃُ السَّلام: شہر بغداد۔
نَھرُ السَّلام: دریائے دجلہ۔
یاسَلامُ: برائے استعجاب، عجیب، حیرت ہے، تعجب ہے، حد ہوگئی، کمال ہوگیا۔
غضب ہوگیا۔
السِّلْمُ العادِل: منصفانہ امن۔
لاسِلْمَ ولاحَرْبَ: نا امن نا جنگ
سُلامَی، سُلامِیَۃ ج: سُلامَیات و سُلامِیات: انگلیوں کی ہڈیاں، جوڑ دار ہڈیاں۔
إسْلام: خود حوالگی، اطاعت و انقیاد، دل سے ماننا، اقرار و اعتراف۔
الإسْلامُ: دین اسلام۔
اِسْتِلام: وصول کرنا، وصولیابی (۲) لائق ملامت ہونا۔
تَسْلِیم: رضا و قبول، حوالگی، سپردگی، ڈلیوری۔
تَسْلِیمُ البَرِید: ڈاک کی تقسیم، ڈلیوری۔
تَسْلِیمُ البَضائع: ڈلیوری، سامان کی حوالگی۔
تَسْلِیمٌ حالاً: فوری حوالگی، ڈلیوری
تَسْلِیمُ رِئاسۃِ الجَلْسَۃِ إلی......: کسی کو جلسہ کی صدارت سونپنا۔
تَسْلِیمُ السُّلُطات إلی......: اختیارات دینا۔
تَسْلِیمُ الطَّلَبات: آرڈر پورے کرنا۔
تَسْلِیمُ المُتَّھَم الفارِّ إلی حُکُومَتِہ: فرار ملزم کو اس کی حکومت کے حوالہ کرنا۔
تَسْلِیمُ المُذَکِّرَۃ: یادداشت دینا، میمورنڈم دینا۔
تَسْلِیمٌ مُسْتَعْجَلٌ: ایکسپریس ڈلیوری، فوری ادائیگی۔
تَسْلِیمُ المَنازِل: مکانات مالکان کے

حوالہ کرنا۔
تَسْلِيمُ وَدِيعَةٍ لِصَاحِبِها: صاحب امانت کو امانت واپس کرنا۔
سَلِيمٌ، سَالِمٌ: ثابت، بے عیب، صحیح، محفوظ، تندرست، صاف ستھرا۔
سَلِيمُ البِنيَة: تندرست۔
سَلِيمُ العَقلِ: سلیم الطبع۔
سَلِيمُ العَاقِبَة: خوش انجام۔
سَلِيمُ العَقِيدَة: صحیح العقیدہ۔
سَالِماً: محفوظ و مامون ہو کر، بہتر حالت میں
مُسَالِم: امن پسند، صلح پسند۔
مُسَالَمَة: امن پسندی، صلح جوئی۔
مُستَلِم: وصول کنندہ، رسیور۔
سَلْمُون: (مع) سالمن، ایک قسم کی نہایت لذیذ مچھلی۔
سَلاهُ ــُـ سَلْواً و سُلُوّاً: بھول جانا، فراموش کر دینا، دل سے یاد نکال دینا، کسی پر صبر کر لینا۔
سَلاعَنهُ: تسلی پانا، غم غلط ہونا، صبر آ جانا۔
سَلْوٌ، سُلْوَان: فراموش، بھول، دلاسہ، تسلی۔
سُلْوَة، تَسْلِيَة: تفریح طبع، بہلاوا، کھیل کا سامان۔
سَلِيَ الشَّيءَ وَعَنهُ ــَـ سُلِيّاً: تسلی پانا، بھلا دینا، بھولنا۔
سَلاهُ تَسلِيه: تسلی دینا، دل بہلانا، آنسو پونچھنا۔
مُسَلٍّ، مُسْلٍ: دلچسپ۔
سَلِيُولُود، سِلِيُلُويِيد: (مع) خلیہ نما (۲) مسالا جو نقل ہاتھی دانت کے ہوتا ہے۔ اور سیلولوس سے بنتا ہے، نقلی ہاتھی دانت۔

س .... م

سَمَتَ ــُـ سَمْتاً: راستہ اختیار کرنا۔
سَمْتٌ ج: سُمُوت: راستہ، جہت۔
سِمْبَاتَوِيّ: سِنبَاتَوِي: (مع) دردمند، تاثر پذیر۔
سَمُجَ ــُـ سَمَاجَةً و سُمُوجَةً: بُرا ہونا۔
سَمُحَ ــُـ سَمَاحَةً: سخی ہونا، فراخ دل ہونا۔
سَمَحَ بكذا ــَـ سَمحاً و سَمَاحاً: دل کھول کر دینا، بخشش کرنا (۲) اجازت دینا، پرمیشن دینا۔
سَمَحَ بالأمرِ: روا رکھنا، جائز قرار دینا۔
لاسَمَحَ اللّٰهُ: خدا نہ کرے، خدانخواستہ۔
سَامَحَه مُسَامَحَةً: معاف کرنا، نرمی برتنا، درگزر کرنا۔
تَسَامَحَ مَعَ احَدٍ: نرمی برتنا درگزر کرنا۔
اسْتَسْمَحَه: معافی طلب کرنا۔
اسْتِسمَاحٌ بكذا: اجازت طلبی، دریادلی۔
سَمْحٌ، سَمَاحَة: سخاوت، دریادلی، فیاضی، فراخ دلی۔
سَمْحٌ وَسَمِيحٌ: سخی فراخ دل۔
سَمَاحٌ: درگزر، معافی (۲) اجازت، داخلہ
سَمَاحَة: عالی ظرفی، رواداری۔
صَاحِبُ السَّمَاحَة: عالی جناب، ایک اعزازی خطاب۔
مَسْمُوح: جائز، مباح۔
مُسَامَحَة: تعطیل، چھٹی (۲) معافی چشم پوشی۔
سَمَدَ الأَرضَ: کھاد ڈالنا۔

سِمَادٌ ج: اَسْمِدَة: کھاد
اَسْمِدَةٌ کِیمِیَاوِیَّة: کیمیاوی کھاد
سَمِیْذ: سفید آٹا، سفید آٹے کی روٹی (۲) سوجی (۳) گیہوں کا دلیا۔
سَمَّرَ: کیل لگانا، کیل سے جوڑنا۔
سَمَّرَ المِسْمَارَ: کیل ٹھونکنا۔
سَمُرَ ـُ سُمْرَةً و اسْمَرَّ: گندمی ہونا۔
سَمَرَ ـِ سَمْرًا: رات میں باتیں کرنا، قصہ کہانی کہنا۔
سُمْرَةٌ: گندمی رنگ۔
سَمِیْر: رات کے وقت کہانی کہنے والا، باتیں کرنے والا۔
اَسْمَرُ اللَّوْن: گندمی رنگ کا۔
مِسْمَار ج: مَسَامِیْرُ: کیل
مِسْمَارٌ بُرْغِیّ: پیچدار کیل۔
مِسْمَارُ رَزَّة: دونوکی کیل۔
مِسْمَارٌ صَنَارَة: چوڑی گھنڈی دار کیل۔
مِسْمَارٌ لَوْلَبِیّ: چوڑی دار کیل۔
مِسْمَارٌ بِصَمُولَة: پیچ دار موٹی کیل، اسکرو بولٹ، بولٹ، نٹ۔
مِسْمَارُ اللَّبَن: (لِبأ) کھیس، بھینس کا ابتدائی دودھ جو کیلوں دار ہوتا ہے۔
سَمْسَرَة: دلالی کرنا (۲) دلالی، کمیشن۔
سِمْسَارٌ ج: سَمَاسِرَة: دلال۔
سِمْسَارٌ بِالعُمُولَة: کمیشن دلال، کمیشن ایجنٹ۔
سِمْسَارُ بُورْصَةِ أَوْرَاقٍ مَالِيَة: کرنسی تبدیل کرنے کا ایجنٹ۔
سِمْسَارُ عَقَار: جائیداد کا ایجنٹ۔

سِمْسَارُ مَنَازِل: ہاؤس ایجنٹ۔
سَمَاسِرَةُ الاَوْرَاقِ المَالِيَة: نوٹوں کے دلال۔
سِمْسِمٌ: تل و: سِمْسِمَة
سَمَطَ ـُ سُمُوطًا: چپ رہنا۔
سَمَطَ ـُ سَمْطًا: بکری کی کھال اتارنا یا گرم پانی ڈال کر صاف کرنا۔
سِمَاطٌ ج: سُمُط: کھانے کی میز، دسترخوان۔
سِمْطٌ ج: أَسْمَاط: لڑی۔
سَمِعَ ـَ سَمْعًا و سَمَاعًا: سننا۔
سَمِعَ بِه: خبر معلوم ہونا۔
سَمِعَ مِنْه ولَهُ: اطاعت کرنا۔
سَمِعَ عَرَضًا: اتفاقاً سننا۔
سَمِعَ عَبْرَ التِلْفُوْن كذا: ٹیلیفون پر فلاں بات سنی۔
سَمَّعَ وَأَسْمَعَ: سنانا
سَمَّعَ و أَسْمَعَ بِه: مشہور کرنا، شہرت دینا۔
تَسَمَّعَ و اسْتَمَعَ إلَى: دھیان دینا، غور سے سننا، چپکے سے سننا، کان لگانا (۲) قلب اور پھیپھڑوں کی بذریعہ آواز کیفیت معلوم کرنا۔
اسْتِمَاعُ المَحْكَمةِ إلَى البَيَان: عدالت کا بیان کو سننا۔
اسْتِمَاعُ الوَفْدِ إلَى شَرْح: وفد کا وضاحت کو سننا۔
سُمْعَة: ساکھ، شہرت۔
سُمْعَةٌ حَسَنَة: عمدہ ساکھ، نیک شہرت
سُمْعَةٌ مُمَيِّزَة: نمایاں خصوصیات، طرۂ امتیاز۔
مِسْمَعٌ، مِسْمَاع: اسٹیتھ اسکوپ، وہ طبی آلہ جس کے ذریعہ سینہ کی اندرونی

آوازیں سنی جاتی ہیں، ایرفون۔
مِسْمَاعُ الصَّدْر: اسٹیتھسکوپ۔
مَسْمُوْع: سنے جانے کے قابل، بلند۔
سَمَّاعَة: ٹیلی فون یا وائرلیس کا آلہ جسے کان میں لگا کر سنتے ہیں، ریسور۔
سَمَّاعَةُ التِّلِيفُون: ٹیلیفون ریسور۔
سَمَّاعَةُ الطَّبِيب: اسٹیتھسکوپ۔
سَمَقَ ـُـ سَمْقاً وسُمُوقاً النَّبَاتُ: لمبا ہونا۔
سَامِق: بلند، دراز۔
سَمُكَ ـُـ سُمُوكاً وسَمَاكَةً: بلند ہونا (۲) دبیز ہونا۔
سَمَّكَ تَسْمِيكاً: موٹا کرنا، دبیز بنانا۔
سُمْكٌ، سَمَاكَة: موٹاپن، دبازت۔
سَمْكٌ: (۱) موٹی اور دبیز چیز (۲) چھت۔
سَمَكٌ: ج أَسْمَاك: مچھلی۔
سَمَكَةٌ فی ثَوْب: کپڑے کی تہ کونی کلی۔
سَمَّاك: ماہی گیر، مچھلی فروش۔
سَمِيكٌ: دبیز، موٹا۔
مِسْمَكَة: کیچوے پالنے کا حوض۔
سَمَلَ ـُـ سُمُولاً وسُمُولَةً وسَمَالَةً: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔
سَمَلَ ـُـ سَمْلاً واسْتَمَلَ العَيْنَ: آنکھ پھوڑنا۔
سَمَّلَ و أَسْمَلَ الثَّوْبَ: کپڑے کو بوسیدہ بنانا۔
سَمَلٌ ج أَسْمَال: پرانے اور بوسیدہ کپڑے۔
سم: سینٹی میٹر (مخفف)
سَمَّمَ الرَّجُلَ والطَّعَامَ وسَمَّ ـُـ سَمّاً: زہر دینا، زہر ملانا۔
سَمَّمَ الجُرْحَ: زخم میں زہر پھیلانا، خراب کرنا۔
سَمَّمَ الجَوَّ: فضا مسموم کرنا۔
تَسَمَّمَ الرَّجُلُ: آدمی کو زہر چڑھ جانا۔
تَسَمَّمَ الجُرْحُ: زخم میں زہر پھیل جانا۔
سَمٌّ ج سُمُوْم: (۱) زہر (۲) سوئی کا ناکہ
سُمٌّ قَتَّال: زہر قاتل۔
سُمُّ الفَار: سنکھیا۔
سَمُوْم: لو، گرم ہوا۔
سَام، مُسِمّ: زہریلا، زہر آلود۔
سَامُّ أَبْرَصَ: چھپکلی۔
مَسَامُ الجِلْد: جلد کے باریک سوراخ۔
سَمُنَ ـُـ سِمَناً و سَمَانَةً: موٹا ہونا، بدن پھولنا۔
سَمَّنَ سَمْناً وسَمَّنَ: موٹا کرنا (۲) گھی ملانا۔
سِمَنٌ و سِمْنَةٌ: بدن کی پھلاوٹ۔
سَمْنٌ: گھی، چکناہٹ، چربی۔
سَمَّان: گھی فروش۔
سَمِين ج سُمَنَاء: موٹا، فربہ۔
مُسَمَّن: چربی سے بھرا ہوا، موٹا تازہ۔
سِمِنْتُو: سیمنٹ۔
سُمُوٌّ: بلندی، عظمت (۲) کلمہ تعظیم (اعلیٰ حضرت، حضور، عالی جناب کی جگہ، عموماً شاہ زادگان اور افرادِ خاندانِ شاہی کے لیے استعمال ہوتا ہے)۔
سَمَا ـُـ سُمُوّاً وسَمَاءً: بلند ہونا، بلند مرتبہ ہونا۔
سَمَّاه و أَسْمَاه: بلند کرنا۔
سَام: ہائی، بلند۔
سَامِی المَبَادِئ: بلند اصول انسان۔

سَمَتْ نَفْسه إلى: مشتاق ہونا۔
سَمّٰى و أَسْمٰى: نام رکھنا، نام دینا، چٹ یا نام کا لیبل لگانا۔
سَمّٰى اللَّاعِبَ للدُّخول: کھلاڑی کا نام پکارنا۔
تَسَمّٰى: (۱) نام پانا (۲) متعین ہونا۔
تَسَامٰى: (۱) باہم فخر کرنا (۲) بڑا بننا۔
سَماءٌ ج: سَمَاوَات: آسمان، آکاش۔
سَماءٌ مُتَلَبِّدَةٌ بالغُيُوم: ابر آلود آسمان۔
سَمَائِيٌّ: آسمانی (۲) علوی (ضد سُفْلِيّ) (۳) آسمانی رنگ کا۔
سَمَاوَة: چھجا، سائبان۔
سَمِيٌّ: ہم نام۔
سَمِيٌّ و سَامٍ: بلند۔
أَسْمٰى: بلند تر۔
اِسْمٌ ج: أَسْمَاء: (۱) نام (۲) شہرت (۳) عنوان، ٹائٹل۔
الاسْمُ التِّجَارِيّ: کاروباری نام، تجارتی نام۔
اِسْمٌ مُسْتَعَارٌ: فرضی نام۔
اِسْمِيٌّ: نام کا۔
اِسْمِيًّا: برائے نام۔
مُسَمًّى لاِسْمٍ: اسم بامسمّی۔
مُسَمًّى: متعین، جس کا نام تجویز کر دیا گیا ہو۔
سموكن: (مع) اسموکنگ جاکٹ، پرتکلف جاکٹ جو تمباکو پینے کے وقت استعمال کرتے ہیں۔

س..........ن

سَنَامَكِيّ: (مع) سنا، سنائے مکی، ایک مشہور مسہل دوا۔
سَنْبَلَ الزَّرْعُ سَنْبَلَةً: خوشی نکل آنا، بالیں نکل آنا۔
سُنْبُل و سُنْبُلَة ج: سَنَابِلُ: گیہوں کا خوشہ، بالی۔
سَنْبُوسَق: (مع) معین چہار اضلاعی شکل (جس کے اضلاع برابر ہوں مگر زاویے قائم نہ ہوں)۔
سُنْبُوق: چھوٹی کشتی۔
سَنت: سینٹ، امریکی ڈالر کا سوواں حصہ۔
سَنْتِيغراد: (مع) سینٹی گریڈ۔
سَنْتِيم: سینٹم، فرانسیسی فرانک کا سوواں حصہ
سَنْتِيمِتْر: سینٹی میٹر۔
سَنْجَةُ المِيزان: ترازو کا باٹ ج: سَنجات
سَنَحَ ـَـ سُنُوحاً: پیش آنا، ظاہر ہونا، سامنے آنا۔
سَنَحَ الوَقْتُ و الفُرْصَةُ: موقع ملنا۔
سَنَحَهُ عَنْ رَأْيِه سَنْحاً: رائے سے ہٹانا۔
سَانِحَة ج: سَوَانِح: موقع، فرصت۔
سَنِخَ ـَـ سَنَخاً: بگڑنا، بودار ہونا۔
سَنَدَ ـُـ سُنُوداً و اسْتَنَدَ إلَيْه و عليه: ٹیک لگانا، سہارا لینا، بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔
سَنَدَ لِلْأَرْبَعِين: چالیس سال کے قریب ہونا۔
أَسْنَدَه إلَى: سہارا دینا، چڑھانا، کسی چیز کے سہارے کھڑا کرنا (۲) حوالہ دینا۔
أَسْنَدَ المَنْصِبَ إلَى: عہدہ دینا۔
أَسْنَدَ إلَيْه الأَمْرَ: کام سپرد کرنا۔

سَدَّدَ تَسۡدِیۡدًا: مضبوط و مستحکم بنانا۔
سَانَدَہ مُسَانَدَۃً: تقویت پہنچانا، مدد دینا، پشت پناہی کرنا۔
مُسَانَدَۃٌ فِی عَبَثٍ: فضول مدد
مُسَانَدَۃُ القُوَّۃِ: فوج کے لیے کمک بھیجنا۔
سَنَدٌ ج: أَسۡنَاد و سَنَدَات: سہارا (۲) سہارے کی چیز (۳) رسید (۴) واؤچر (۵) بل (۶) وثیقہ (۷) بونڈ (۸) سپورٹ، پاور، طاقت۔
سَنَدٌ بَسِیۡط: معمولی رسید، رقعہ قرض۔
سَنَدُ البَنۡک: بونڈ۔
سَنَدُ المِلۡکِیَۃ: ملکیت نامہ۔
سَنَدَات: دستاویزات۔
سَنَدَاتٌ اِیۡرَادِیَۃ: انکم بونڈ۔
سَنَدَاتٌ حُکُومِیَۃ: سرکاری بونڈ۔
سَنَدَاتُ الخِزَانَۃ: ٹریزری بونڈ۔
سَنَدَاتُ الدَّخۡلِ: انکم بونڈ۔
سَنَدَاتٌ غَیۡرُ قَابِلَۃٍ لِلاِسۡتِدۡعَاء: ناقابل صرف بونڈ۔
سَنَدَاتٌ قَصِیۡرَۃُ لاَجَل: مختصر المیعاد بونڈ۔
سَنَدَاتٌ مُزَوَّرَۃ: جعلی دستاویزات، جعلی بونڈ۔
سَنَدَاتٌ یَانَصِیۡبُ: لاٹری بونڈ۔
اِسۡتِنَادًا اِلٰی کَذَا: اس کے حوالہ سے
مُسۡتَنَدٌ: دستاویز، ثبوت، واؤچر، ڈاکومنٹ ج: مُسۡتَنَدَات
مُسۡتَنَدٌ اَصۡلِیّ: اصلی دستاویز۔
مُسۡتَنَدٌ خَزِیۡنَۃ: کیش واؤچر۔
مُسۡتَنَدٌ سِرِّیّ: خفیہ دستاویز۔
المُسۡتَنَدَات: ثبوت، دستاویزات۔
مُسۡتَنَدَاتٌ جُمۡرُکِیَۃ: کسٹم کاغذات۔
مُسۡتَنَدَاتٌ مُؤَیَّدَۃ: تصدیق شدہ کاغذات۔
سِنۡدَان ج: سَنَادِیۡنُ: اہرن، سندان
سُنۡدُس: باریک ریشم۔
سَنۡدَوِیۡش (شَطِیۡرَۃ): (مع) سینڈوچ
سِنۡدِیۡک: (مع) آفیشل ریسور، سرکاری نگراں (کسی جائیداد وغیرہ کا)۔
سِنَّوۡر ج: سَنَانِیۡر: بلی۔
سَنۡسکرِیۡتِیَّۃ: (مع) سنسکرت۔
سَنۡکَرِیّ، (سَمۡکَرِیّ): (مع) ٹنکر، دھات کے ٹوٹے برتن جوڑنے والا۔
سَنۡکُونَا (شَجَرُ الکِیۡنَا): (مع) سنکونا کا درخت، چھال (۲) اس کی چھال کی دوائی (۳) کونین۔
سَنِمَ ـــ سَنَمًا: بڑے کوہان کا ہونا۔
تَسَنَّمَ: بلند ہونا۔
سَنَام ج: اَسۡنِمَۃ: کوہان۔
سِیۡنِمَا: (مع) سینما۔
سَنَّ وَسَنَّ السِّکِّیۡنَ ـــ سَنًّا: تیز کرنا، دھار رکھنا۔
سَنَّ سُنَّۃً: طریقہ جاری رکھنا۔
سَنَّ قَانُوۡنًا: قانون بنانا، آئین بنانا، قانون جاری کرنا۔
سَنَّنَ الوَلَدُ و اَسَنَّ: دانت نکل آنا۔دانت والا ہونا۔
اَسَنَّ الرَّجُلُ: عمر رسید ہونا، بوڑھا ہونا۔
سَنٌّ: دھار رکھنا (۲) طریقہ جاری کرنا۔
سِنٌّ ج: أَسۡنَان: دانت (۲) عمر (۳) نوک قلم وغیرہ، نب (۴) دھار۔

سِنٌّ طَاحِنَة: ڈاڑھ۔
سِنٌّ قَاطِعَة: کچلی۔
سِنُّ الإحَالَةِ على المَعَاشِ: پنشن دینے کی عمر۔
سِنُّ التَّمْيِيْز: سن شعور۔
السِّنُّ المُبَكِّرَة: کم عمری۔
اَسْنَانُ عِيْرَة: مصنوعی دانت۔
سَنُون: دانتوں کا منجن۔
سِنَان ج: اَسِنَّة: (۱) نیزہ کا پھل، دھار۔
سُنَّة ج: سُنَن: طریقہ خاص، ضابطہ۔
سُنَّةُ الطَّبِيْعَة: قانون قدرت۔
سَنَّانُ السَّكَاكِيْنِ: دھار رکھنے والا۔
مِسَنٌّ: دھار رکھنے کا آلہ ج: مِسَنَّات
مُسِنٌّ: عمر رسیدہ۔
مُسَنَّنٌ: دھاردار، تیز دانتوں والا۔
مَسْنُون: (۱) سنت کے مطابق (۲) تیز
سَنْهَدْرِيْم: (مع) سنہدرم، (قدیم) یروشلم کی عدالت عالیہ۔
(سنو) سَنَة ج: سَنَوَات: برس، سال۔
سَنَةٌ مِيْلَادِيَّة: سال عیسوی۔
سَنَة دِرَاسِيَّة: تعلیمی سال۔
سَنَةً بَعْدَ أُخْرٰى: سال بسال۔
سَنَةٌ تَقْوِيْمِيَّة: کیلنڈر سال۔
السَّنَةُ الضَّرِيْبِيَّة: ٹیکس کا سال۔
رَأْسُ السَّنَة: آغاز سال۔
سَنَوِیّ: سالانہ۔
سَنَوِيًّا: ہر سال۔
سَنُوْدِس: (مع) سائنوڈ، مجلس کلیسا، مجلس عام جس میں دینی امور کا فیصلہ ہوتا ہے۔

سَنَى ـِ سَنْياً و سَنًّى: آسان بنانا۔
تَسَنّٰی: آسان ہونا۔
سَنِیَ ـَ سَناً و سَنَاءً: بلند ہونا، بلند مرتبہ ہونا (۲) روشن ہونا، چمکنا۔
اِسْنَاءٌ: (۱) روشن کرنا (۲) بلند کرنا۔
سَنَاءٌ: بلندی، چمک، رونق، بہار۔
اِسْتِسْنَاء: بڑا سمجھنا، زیادہ سمجھنا (۲) بلند مرتبہ ہونا۔
سَنِیٌّ: (۱) بلند رتبہ (۲) بیش قیمت (۳) پر رونق، خوشنما، چمکدار۔

س ....ہ

اَسْهَبَ فِی الكَلَام: مفصل کلام کرنا، کلام کو طول دینا۔
اِسْهَاب: تطویل۔
مُسْهَبٌ: طول طویل۔
سَهِدَ ـَ سَهَداً و تَسَهَّدَ: بے خوابی میں مبتلا رہنا، نیند نہ آنا۔
سُهْدٌ، سُهَاد: بے خوابی۔
سَهِرَ ـَ سَهَراً: نیند نہ آنا، جاگتے رہنا۔
سَهِرَ علی: نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا۔
سَهَّرَ و اَسْهَرَ: نیند اڑانا، بے خواب بنانا۔
سَهَرٌ: بے خوابی، نیند نہ آنے کی بیماری۔
سَهَرُ الطَّبِيْبِ علی صِحَّةِ فُلَان: ڈاکٹر کا کسی کی صحت پر متوجہ رہنا اور خیال رکھنا۔
السَّهَرُ علی تَطْبِيْقِ كذا: کسی چیز کے اجراء کی کوشش کرنا۔
سَهَرُ العَيْن: آنکھ نہ لگنا۔
لِبَاسُ السَّهْرَة: شام کا لباس۔
سَاهِرٌ: (۱) بیدار، بے خواب۔

سَاهِرٌ علی: نگراں، محافظ، باخبر۔
مِصْبَاحٌ سَهَّارِیّ: رات کو سوتے وقت جلانے کا لیمپ، نائٹ لیمپ۔
سَهِفَ ـَ سَهَفاً: شدت کی پیاس لگنا۔
سُهَاف: سخت پیاس۔
سَهُلَ الأمْرُ ـُ سُهُولَةً: آسان ہونا (ضد عَسُر): (۲) نرم و ہموار ہونا۔
سَهَّلَ تَسْهِيلاً: ہموار کرنا، نرم کرنا۔
سَهَّلَ له: آسان کرنا، سہولت دینا۔
سَهَّلَ عَلَيْهِ: آسان بنا دینا، سہولت دینا۔
سَاهَلَه مُسَاهَلَةً: نرمی برتنا۔
تَسَهَّلَ: آسان و سہل ہونا، نرم بننا۔
إسْهَالُ البَطْن: دست جاری ہونا۔
تَسْهِيل: آسان کرنا، سہل بنانا، آسانی۔
تَسْهِيلات: آسانیاں، سہولتیں۔
تَسْهِيلاتٌ تَسْوِيقِيَّة: خرید و فروخت کی سہولتیں۔
تَسْهِيلاتٌ تَمْرِينِيَّة: مالی سہولتیں۔
تَسْهِيلاتٌ سُوقِيَّة: بازاری سہولتیں۔
تَسْهِيلاتٌ مَصْرِفِيَّة: بینک کی سہولتیں۔
سَهْلٌ: آسان، سہل، معمولی (۲) ہموار (۳) ہموار و کشادہ زمین ج: سُهُوْل
سَهْلُ المَنَال: سہل الحصول۔
سَهُوْل: دست آور دوا۔
مُسْهِلٌ: دست آور دوا۔
مُسْهِلٌ خَفِيفٌ: ملین دوا۔
مُتَسَاهِل: نرم مزاج، سہولت پسند، درگزر کرنے والا۔
سَهْمٌ ج: سِهَام و أسْهُمٌ: تیر (۲) حصہ
سَهْمٌ مَالِیّ: شیر، مالی حصہ۔
سَهْمٌ نَارِیّ: راکٹ۔
نَفَذَ السَّهْمُ ـُ نُفُوذاً: تیر کا آر پار ہونا (۲) معاملہ اختیار سے باہر ہونا۔
أسْهُمٌ: حصے، شیئرز۔
أسْهُمٌ بِتْرُول: آئل شیئرز۔
أسْهُمُ التَأسِيس
أسْهُمٌ عَادِيَّة (فی الشَرِكات): کمپنیوں کے عمومی حصے۔
أسْهُمٌ مَالِيَّة: حصے، شیئرز۔
حَمَلَةُ لأسْهُم: حصہ داران۔
سَاهَمَه فی شَیْءٍ: قرعہ اندازی کرنا۔
سَاهَمَ فی العَمَل: حصہ لینا، شریک ہونا۔
أسْهَمَ فی: حصہ لینا، شریک ہونا۔
أسْهَمَ لَهُ فی كذا: حصہ دینا، حصہ مقرر کرنا۔
مُسَاهِمٌ: (کمپنی کا) حصہ دار، شیئر ہولڈر
مُسَاهِمٌ فی العَمَل: شریک کار۔
مُسَاهَمَة: حصہ لینا۔
مُسَاهَمَةٌ فَعَّالَة: زبردست حصہ۔
المُسَاهَمَةُ والاشْتِرَاكُ مَعَ: کسی کے ساتھ اشتراک و تعاون۔
شَرِكَةُ مُسَاهَمَةٍ أو سِهَامِيَّة: لمیٹڈ کمپنی۔
سَهْوٌ: بے خبری، بھول، غفلت۔
سَهْواً: بھول کر، بے خبری میں۔
سَهَا ـُ وسَهِیَ ـَ عن كذا سَهْواً: غافل ہونا، بے خبر ہونا۔
سَهْوَان وسَهْيَان: پریشان خاطر، کھویا ہوا۔

س .... و

سُوْءٌ: برائی (۲) تکلیف، اذیت۔
__ الإِدَارَة: بدانتظامی، بدنظمی، ابتری۔
__ التَّصَرُّف: غلط کاری، بے جا استعمال، بے جا عمل۔
__ التَّغْذِيَة: بدپرہیزی، خوراک کی کمی، خراب غذا کا استعمال۔
سُوءُ التَّفَاهُم: غلط فہمی، نااتفاقی۔
__ الحَظِّ: بدقسمتی۔
__ الخُلُق: بداخلاقی۔
__ السُّلُوك: بدسلوکی، بداطواری، بدچلنی۔
سُوْءُ السُّمْعَةِ والسُّلُوك: بدنامی و بدکرداری۔
__ الظَّنّ: بدظنی۔
__ الفَهْم: کم فہمی، نادانی، غلط فہمی۔
__ المَوْقِف: صورت حال کی خرابی۔
__ النِّظَام: ابتری، نظام کی خرابی۔
__ النِّيَّة: بدنیتی۔
بِسُوْءِ قَصْدٍ: بدنیتی سے۔
بِسُوْءِ النِّيَّة: بدقسمتی سے
لِسُوْءِ الحَظِّ: بدقسمتی سے۔
تَقْدِيْرُ السُّوْء: بدشگونی۔
سُوْءَة، مَسَاءَة: برا فعل، بدی (۳) ستر۔
سَاءَ ـُ سُوْءًا: برا ہونا۔
سَاءَ الخَبَرُ فُلَانًا: رنج و تکلیف پہنچانا۔
سَاءَ الأَمْرُ فُلَانًا: طبیعت کو مکدر کرنا، ناگوار گزرنا۔
سَاءَ بِهِ ظَنًّا: بدگمانی کرنا۔

اَسَاءَ الشَّيْءَ إِسَاءَةً: خراب کرنا۔
اَسَاءَ إِلَيْه: برائی کرنا، بدسلوکی کرنا۔
اَسَاءَ التَّصَرُّفَ: غلط کارروائی کرنا۔
اَسَاءَ الفَهْمَ: غلط سمجھنا۔
اسْتَاءَ مِنْه: کبیدہ خاطر ہونا، ناگواری ہونا۔
اِسْتَاءَ مِن العَمَل: اُکتانا، دل اُچاٹ ہونا۔
سَيِّءٌ: خراب، برا۔
سَيِّءُ التَّرْبِيَة: بدتہذیب۔
سَيِّءُ الحَظِّ: بدنصیب۔
سَيِّءُ الخُلُق: بداخلاق۔
سَيِّئَة ج: سَيِّئَات: گناہ، غلطی، برائی۔
إِسَاءَة: بدسلوکی، غلط کاری، گستاخی۔
إِسَاءَةُ الاِسْتِخْدَام: غلط استعمال کرنا۔
إِسَاءَةُ اسْتِعْمَالِ المَرْكَز: پوزیشن کا غلط استعمال کرنا۔
إِسَاءَةُ التَّمْثِيل: غلط نمائندگی۔
إِسَاءَة المُعَامَلَة: بدمعاملگی۔
اسْتِيَاء: ناگواری طبع، کدورت۔
مُسِيْءٌ: غلط کار، گستاخ، گنہگار۔
مُسْتَاءٌ: کبیدہ خاطر، دل برداشت۔
سَاج: ساگون کی لکڑی۔
سَاحَة: صحن، میدان، آنگن، ایریا ج: سَاحَات
سَاحَةُ الصِّرَاعَات: اکھاڑہ۔
سَاحَةُ القِتَال: میدان جنگ۔
سَاحَةُ الوَغَى: میدان کارزار۔
سَاحَةُ الأَلْعَاب: کھیل کا میدان۔

سَاحَةُ الألْعَابِ الرِّيَاضِيَّة :ورزشی کھیلوں کا میدان، ورزش گاہ۔
سَاحَةُ المُصَارَعَات: کشتی کا میدان، دنگل۔
(سوخ) سَاخَ ـُ سَوْخاً و سُيُوخاً: گارے میں دھنسنا، پانی کی تہہ میں بیٹھ جانا۔
سَوِدَ ـَ سَوَاداً: کالا ہونا، سیاہ ہونا۔
سَادَ ـُ سُوْدَداً و سِيَادَةً: سردار بننا، بالا دست ہونا، اقتدار حاصل کرنا، صاحب اقتدار ہونا، حکمراں ہونا۔
سَادَ الشئ: پھیلنا، چھا جانا، عام ہونا۔
سَوَّدَه تَسْوِيْداً :(۱) سیاہ کرنا (۲) سردار بنانا، حکمراں بنانا، امیر بنانا۔
سَادَة و سَيِّدٌ: معززین، بڑے لوگ، سرداران قوم۔
سَادَة: (۲): (دا) سادہ، معمولی۔
قَهْوَةٌ سَادَة: بلا دودھ کی کافی۔
سَيِّدٌ ج:سَادَة :سردار، بڑا، صدر، با اقتدار، معزز آدمی۔
السَّيِّد: جناب، مسٹر، صاحب کے قائم مقام، آغا، جنٹل مین، خودمختار۔
سَيِّدُ النَّفْس: اپنا مالک، خودمختار۔
السَّيِّدَة :مادام، جنابہ، لیڈی، خاتون ج: سَيِّدَات
السَّيِّدةُ الاُولٰى: خاتون اول۔
سَيِّدَةٌ رَفِيْعَةُ المَقَام: عالی مقام خاتون۔
لِلسَّيِّدَات: برائے خواتین۔
سَائِد: مروجہ، جنرل، رائج، عام (۲) مسلط، چھایا ہوا، برسر اقتدار، غالب

سِيَادَة :(۱) اقتدار، بالادستی، حکمرانی، سرداری، اقتدار اعلیٰ، اثر و رسوخ، اعزازی لقب جیسے (سِيَادَةُ فُلَانٍ قَالَ)
السِّيَادَةُ الجَوِّيَة: فضائی بالاتری۔
السِّيَادَةُ الشَّرْعِيَّة: جائز اقتدار
السِّيَادَةُ القَانُون: قانون کی بالاتری، بالادستی
السِّيَادَةُ القَانُونِيَّة: قانونی بالادستی۔
سِيَادَةٌ مُشْتَرِكَة :مشترکہ بالادستی
السِّيَادَةُ المُطْلَقَة: مکمل بالاتری۔
السِّيَادَةُ الوَطَنِيَّة: قومی اقتدار۔
سَوْدَاء: جسم کے اخلاط اربعہ میں سے ایک خلط۔
سُوَيْدَاءُ القَلْب: نقطہ قلب۔
سَوَادٌ: سیاہی (۲) اکثریت۔
سَوَادُالنَّاس: عام لوگ، لوگوں کی بڑی تعداد۔
سَوَادُ المَدِيْنَة: شہر کے اطراف و نواح۔
السَّوَادُ الأعْظَمُ: لوگوں کی بھاری تعداد، زبردست اکثریت۔
اَسْوَدُج: سُوْدٌ: سیاہ، بلیک۔
اَسْوَدُ فَاحِمٌ، حَالِكٌ: سیاہ فام، کالا بھوت۔
اِسْوِدَاد: سیاہ ہونا۔
اِسْوِدَادُ الوَجْه: ذلیل ہونا۔
تَسْوِيْدَة: رف کاپی، مسودہ۔
مُسَوَّدَة: (ضد: مُبَيَّضَة) رف تحریر، رف کاپی، ڈرافٹ (تحریر)
مُسَوَّدَةُ خِطَاب: خطاب کا مسودہ، ڈرافٹ لیٹر۔
مُسَوَّدَةُ مُعَاهَدَةٍ: مسودۂ معاہدہ۔
مُسَوَّدَةُ الطَّبْع: پروف شیٹ، وہ کاغذ جسے

سپاہی کا رول دے کر صحیح کرتے ہیں۔
سَوَّرَ الحَدِیقَةَ وَغَیرَهَا: احاطہ کرنا، چہار دیواری بنانا۔
سَوَّرَ المَدِینَةَ: شہر کے چاروں طرف فصیل بنانا۔
سَارَ ـُ سَوراً وتَسَوَّرَ الحَائِطَ: چڑھنا، پھاندنا۔
سَائِرٌ: رواں، ترقی یافتہ، راہگیر۔
سَاوَرَهُ مُسَاوَرَةً: حملہ کرنا، غالب آنا۔
سَاوَرَتْهُ الأفكَارُ: اس پر خیالات کا ہجوم ہوا۔
سُورٌ ج: اَسوَار: دیوار، فصیل، شہر پناہ، چہار دیواری، احاطہ۔
سُورُ الحَدِیقَةِ: باغیچہ کی باؤنڈری۔
سُورٌ و سِیَاجٌ حَدِیدِیٌّ: آہنی جنگلہ۔
سُورَةٌ: کتاب اللہ کا ایک حصہ مضامین۔
سُورَةٌ: تیزی، حدّت۔
سُورٌ مِن اَسلاکٍ شَائِكَةٍ: خاردار تاروں کا احاطہ۔
سُورِیَا: ملک شام، سیریا۔
سُورِیٌّ: شام کا رہنے والا۔
سِوَارٌ: اَسوِرَةٌ: کنگن۔
سِوَارُ القَمِیصِ: قمیص کے کف۔
سِوَارِیٌّ: سوار دستہ کا سپاہی، گھوڑ اسوار سپاہی۔
مُسَوَّرٌ: گھرا ہوا، فصیل دار۔
تَسَوُّرٌ: کنگن پہننا۔
سَوَّسَ و سَوِسَ ـَ سَوساً و تَسَوَّسَ الشَّیئُ: گھن لگنا، کیڑا لگنا۔
سَوَّسَ و تَسَوَّسَ العَظمُ أوالسِّنُّ: دانت یا ہڈی میں کیڑا لگنا۔

سَاسَ الدَّوَابَّ ـُ سِیَاسَةً: مویشی کی دیکھ بھال کرنا، پرورش کرنا۔
سَاسَ القَومَ: لوگوں پر حکومت کرنا، لوگوں کے معاملات کا انتظام کرنا۔
سَاسَ العَمَلَ: کام چلانا، انتظام کرنا۔
سُوسٌ و :سُوسَةٌ: سُرسری، گھن، وہ کیڑا جو غلہ میں پیدا ہو جاتا ہے۔
سِیَاسَةٌ: انتظام، معاملات کی نگہداشت، تدبیر ملکی (۲) سربراہی (۳) حکمت عملی، ڈپلومیسی، پالیسی، اصول جہاں بانی۔
السِّیَاسَةُ الدُّوَلِیَّةُ: عام پالیسی۔
سِیَاسَةُ الاِستِكَانَةِ: ذلت آمیز پالیسی۔
السِّیَاسَةُ الاِستِیطَانِیَةُ: سامراجی پالیسی۔
سِیَاسَةٌ اِعلَانِیَّةٌ: اشتہاری پالیسی۔
سِیَاسَةُ الاِكتِفَاءِ الذَّاتِیِّ: خود کفالتی پالیسی، خود کفالتی سیاست۔
سِیَاسَةٌ اِنتِهَازِیَّةٌ: موقع پرستانہ پالیسی۔
سِیَاسَةُ الاِنفِتَاحِ: توسیعی سیاست۔
سِیَاسَةُ اِنهِزَامِیَّةٌ: شکست خوردانہ سیاست۔
سِیَاسَةُ الا ئتِمَانِ: کریڈیٹ پالیسی
سِیَاسَةُ البَابِ الخَلفِیِّ: خفیہ پالیسی۔
سِیَاسَةُ التَّخفِیضِ فی الاِنتَاجِ: پیداوار گھٹانے کی پالیسی۔
سِیَاسَةُ التَّسوِیقِ: مارکیٹنگ پالیسی۔
سِیَاسَةُ التَّعَایُشِ السِّلمِیِّ الاِیجَابِیِّ: پرامن بقائے باہم کی مثبت پالیسی۔
السِّیَاسَةُ التَّموِینِیَّةُ: سپلائی پالیسی۔
سِیَاسَةُ التَّوَسُّعِ: توسیع پسندی کی

پالیسی۔
سِيَاسَةُ التَّهْدِئَة: تھپکی دینے والی پالیسی۔
سِيَاسَةُ الحِزْب: پارٹی پالیسی۔
سِيَاسَةُ الحَزْم: احتیاط کی پالیسی۔
سِيَاسَةُ الحَزْمِ و اللِّيْنِ: احتیاط و نرمی کی پالیسی۔
سِيَاسَةٌ حَكِيْمَة: دانشمندانہ پالیسی۔
سِيَاسَةُ الحِيَاد: غیر جانبداری کی پالیسی۔
سِيَاسَةٌ دَاخِلِيَّة: داخلی پالیسی، اندرونی پالیسی۔
سِيَاسَةُ الدَّعْمِ الزِّرَاعِيِّ: زرعی بڑھاوے کی پالیسی۔
سِيَاسَةُ الشِّدَّة: تشدد کی سیاست۔
سِيَاسَةٌ ضَرِيْبِيَّة: ٹیکس پالیسی۔
سِيَاسَةُ قَمْعٍ: استحصالی پالیسی
سِيَاسَةُ اللِّيْن: نرم پالیسی۔
سِيَاسَةٌ مَالِيَّة: مالی پالیسی۔
سياسة على الإنحيا: جانبدرانہ پالیسی۔
سِيَاسَةٌ مَبْنِيَّةٌ على الحِيَادِ الإِيْجَابِيِّ: مثبت غیر جانبداری اور ناوابستگی پر مبنی سیاست۔
سِيَاسَةُ المُصَالَحَة: صلح پسندی کی پالیسی۔
سِيَاسَةُ المُغَامَرَات: خطرات والی پالیسی۔
سِيَاسَةٌ مُفْلِسَة: مفلسانہ پالیسی۔
سِيَاسَةُ المِيْزَانِيَّة: بجٹ پالیسی۔
السِّيَاسَةُ النَّقْدِيَّة: مالی پالیسی۔
سِيَاسِيّ: سیاست داں، باتدبیر آدمی (۲) پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، تدبیر ملکی سے متعلق۔
السِّيَاسِيُّ الدَّاهِيَة: چالاک سیاسی آدمی۔
السِّيَاسِيُّ المُحَنَّك: ماہر سیاستداں، تجربہ کار سیاسی۔
الدَّوَائِرُ السِّيَاسِيَّة: سیاسی حلقے۔
السِّيَاسِيُّوْنَ التَّقْلِيْدِيُّوْن: روایت پسند سیاستداں۔
السِّيَاسِيُّوْنَ المُحْتَرِفُوْن: پیشہ ور سیاستداں۔
السِّيَاسِيُّوْنَ القُدَامَى: پرانے سیاستداں۔
سَائِسٌ ج: سَاسَة: مویشی کا نگراں، سائیس، خدمت گار، منتظم، سیاستداں۔
مُسَوَّس: کیڑا لگا ہوا، کرم خوردہ۔
سَوْطٌ ج: أَسْوَاط: کوڑا۔
سَاطَه ـُ سَوْطاً: کوڑا مارنا۔
(سوع) سَاعَةٌ: وقت، ایک گھنٹہ، ٦٠ منٹ (۲) گھڑی (ـ جَيْب) جیب گھڑی، ٹائم پیس واچ۔
سَاعَةٌ دَقَّاقَة: کلاک، دیواری گھڑی۔
سَاعَةٌ شَمْسِيَّة: دھوپ گھڑی۔
سَاعَةُ تَسْجِيْلِ الزَّمَن: ٹائم ریکارڈنگ گھڑی۔
سَاعَةُ الصِّفْر: (فوجی اصطلاح میں) جنگی کارروائی کرنے کا خفیہ وقت۔
سَاعَةٌ مُنَبِّهَة: الارم گھڑی۔
سَاعَاتُ العَمَل: کام کے اوقات۔
سَاعَاتُ العَمَلِ الإِضَافِيَّة: اُوور ٹائم، زائد اوقات کار۔
سَاعَاتُ العَمَلِ المُقَرَّرَة: کام کے

مقررہ اوقات۔
فی السَّاعَةِ الثَّامِنَة: آٹھ بجے۔
فی سَاعَةٍ مُبكِرَةٍ مِنَ الصَّباح: صبح سویرے، صبح اول وقت۔
السَّاعَةَ: اب، اسی وقت۔
ابْنُ سَاعَتِه: سریع الزوال۔
السَّاعَاتِي: واچ میکر، گھڑی ساز، گھڑی فروش۔
سَوَّغَ الشئ تَسْوِيغاً: جائز بنانا، مباح کرنا، آسان بنانا۔
سَاغَ الأمرُ ـُ سَوْغاً: آسان ہونا۔
سَاغَ له: جائز ہونا۔
سَاغَ الطَّعَامُ والشَّرَابُ: کھانے پینے کا خوشگوار ہونا، جو آسانی کے ساتھ حلق سے اتر جائے۔
أسَاغَ له إسَاغَةً: کسی چیز کا نگلنا، آسان بنا دینا، خوشگوار بنانا۔
سَائِغ: (۱) جائز ومباح، روا (۲) نگلنے کے قابل، خوشگوار، نرم وتر، قابل ہضم۔
لُقمَةٌ سَائِغَة: تر لقمہ جو آسانی سے نگلا جائے۔
سَاغو: (مع) ساگو، ساگو دانہ۔
مُسَوِّغ: مُباح کرنے کا سبب، وجہ جواز۔
سَوَّفَ تَسْوِيفاً: ٹال مٹول کرنا۔
تَسْوِيفٌ فی شئ: آج کل پر ٹالنا، ٹال مٹول کرنا۔
سَوْفَ: (حرف استقبال) عنقریب۔
سَافَ، سَافَة: طبقہ، رَدّا۔
مَسَافَة ج: مَسَافَات: فاصلہ۔

سُوفِيت و: سُوفِيتِي: روسی۔
سُوفِسطَائِي: (مع) سوفسطائی (۲) سوفسطائیہ سے متعلق۔
(سو) سَاقَ ـُ سَوْقاً و سِيَاقاً و اسْتَاقَ: چلانا، ہانکنا، ڈرائیو کرنا۔
سَاقَ إلَى: لے جانا، پہنچانا، آمادہ کرنا۔
سَاقَهُ إلَى الحَرْب: جنگ میں دھکیل دینا۔
سَاقَ الحَدِيث: بات نقل کرنا، بیان کرنا۔
سَوَّقَ النَّبَاتُ: نبات کا تنہ نکل آنا۔
انْسِيَاق: چلنا، ہانکا جانا، چل پڑنا۔
تَسْوِيق: خرید وفروخت کرنا، بازار میں لانا (۲) شاپنگ، مارکیٹنگ۔
تَسَوُّق: خرید وفروخت کرنا، شاپنگ کرنا۔
سَاقٌ ج: سِيقَان: پنڈلی، ٹانگ۔
سَاقُ الشَّجَرِ: درخت کا تنہ۔
رَبطَةُ السَاق: پنڈلی بند۔
سَاقَةُ الجَيْش: فوج کا پچھلا حصہ۔
سُوق: مارکیٹ، بازار ج: اَسْوَاق
سُوقٌ دَوْرِيَّة: گشتی بازار، چلتا پھرتا بازار۔
سُوقٌ رَاقِدَة: مندا بازار۔
سُوقٌ مُستَطَارة (نَشِيطَة): چلتا بازار۔
السُّوقُ السَّوْدَاء: بلیک مارکیٹ۔
سُوقٌ اسْتِهلاكِيَة: کھپت مارکیٹ۔
سُوقُ البترول: آئل مارکیٹ۔
سُوقٌ ثَابِتَة: ٹھہرا ہوا بازار۔
سُوقُ الحُبُوب: غلہ مارکیٹ۔
سُوقٌ خَيرِيَّة: رفاہی بازار۔

سُوْق دَاخِلِيَة: ہوم مارکیٹ۔
سُوْق الذَّهَب: سونے کی مارکیٹ، گولڈن مارکیٹ۔
سُوْق رِيْفِيَّة: دیہاتی بازار۔
سُوْق ضَعِيْفَة: ہلکا بازار۔
سُوْق العَمَل: لیبر مارکیٹ۔
سُوْق العُمْلَة: روپے کی مارکیٹ۔
سُوْق الغِلَال: غلہ مارکیٹ۔
سُوْق قَوِيَّة: تیز مارکیٹ۔
سُوْق كَاسِدَة: ڈل مارکیٹ۔
سُوْق مُشْتَرَكَة: مشترکہ مارکیٹ۔
سُوْق مُضْطَرِبَة: گھٹتی بڑھتی مارکیٹ۔
سُوْق مُغْرَقَةٌ بِالسِّلَع: سامان سے بھرا ہو بازار۔
سُوْق مَفْتُوْحَة: کھلا بازار۔
سُوْق مُكْتَظَّةٌ بِالسِّلَع: سامان سے بھرا ہوا بازار۔
سُوْق نَشِطَة: چلتا ہوا بازار۔
سُوْق هَادِئَة: ڈل مارکیٹ۔
سُوْقِيّ: بازاری، عامی ج: سُوْقَة
سَائِقٌ: ڈرائیور ج: سُوَّاق
سَائِقُ القَاطِرة: انجن ڈرائیور۔
سُوَيْقَة: بزریا، چھوٹا سا بازار۔
سَوِيْق: ستو۔
سِيَاق: تسلسل، ماقبل کا ربط۔
سِيَاقُ الحَدِيْث: سلسلۂ کلام۔
في سِيَاقِ كذا: ذیل میں۔
مَسَاق: طرز، طریقہ۔
سَوَّكَ تَسْوِيْكاً و سَاكَ ـُ سَوْكاً: رگڑنا، ملنا، دانتوں میں مسواک کرنا۔
سِوَاك، مِسْوَاك: دانتوں کا برش، مسواک۔
سَوْكَرَة: بیمہ کرنا، کرانا۔
سَوَّلَ لَهُ تَسْوِيْلاً: گمراہ کرنا، فعل بد کو بہتر شکل میں پیش کرنا۔
سَوَّمَه و سَامَه ـُ سَوْماً الأمْرَ: کسی کام کا پابند بنانا، کام کی تکلیف دینا۔ (۲) کسی کو اس کی منشا پر چھوڑنا۔
سَامَ البَضَائِعَ ـُ سَوْماً: سودا کرنا، بھاؤ تاؤ کرنا، فروختگی کے لیے پیش کرنا۔
سَامَه خَسْفاً: ذلیل کرنا۔
سَاوَمَه مُسَاوَمَةً: بھاؤ اور سودا کرنا۔
مُسَاوَمة: سودے بازی، سودا۔
المُسَاوَمَةُ عَلَى السِّيَادَة: اقتدار کا سودا۔
المُسَاوَمةُ على الضَّمِيْر: ضمیر فروشی۔
على الشَّرَفِ: عزت کا سودا۔
سَائِمَة ج: سَوَائِم: مویشی۔
سِيْمَاء، سِيْمَةٌ: (۱) علامت (۲) ہیئت۔
سِيَمَا، لاسِيَّمَا: خاص طور پر۔
سَوِيَ الرَّجُلُ ـَ سِوًى: درست کار ہونا۔
سَاوَاه مُسَاوَاةً: مساوی ہونا۔
سَوَّى الأَرْض تَسْوِيَةً: برابر کرنا۔
___ وسَاوَى الشَّيْءَ بالشَّيْءِ: کسی چیز کو دوسری چیز کے برابر کرنا۔
___ الحِسَابَ: حساب چکانا۔
سَوَّى الشَّيْءَ: درست کرنا، بہتر بنانا، برابر کرنا۔
سَوَّى: بنانا، کرنا۔

سَوَّى الطَّبْخَ: کھانے کو خوب پکانا۔
اسْتَوَى: سیدھا ہونا (۲) برابر ہونا۔
اسْتَوَى على: بیٹھنا، متمکن ہونا۔
اسْتَوَى عَلَى الدَّابَّةِ: سوار ہونا۔
اسْتَوَى الثَّمَرُ: پھل پک جانا۔
اسْتَوَى الطَّبْخُ: کھانا تیار ہو جانا۔
سَوَاءٌ، سُوًى: برابر، مثل۔
سَوَاءُ السَّبِيلِ: سیدھا راستہ۔
عَلَى السَّوَاء، بِالتَّسَاوِيْ: برابر۔
سِوَى: علاوہ۔
عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ: مساوی طور پر، یکساں طور پر۔
سَوِيٌّ: ہموار، برابر۔
سَوِيًّا، سَوِيَّةً: ساتھ ساتھ، ایک ساتھ
تَسْوِيَةُ الازْمَةِ: بحران کا خاتمہ۔
تَسْوِيَةُ الأَمْرِ مَعَ أَحَدٍ: معاملہ نمٹانا۔
تَسْوِيَةُ حِسَابٍ: حساب چکانا، حساب صاف کرنا۔
تَسْوِيَةُ الحِسَابَاتِ المُتَنَازَعِ عَلَيْهَا: متنازع فیہ حسابات کا فیصلہ۔
تَسْوِيَةُ الخِلَافَاتِ بَيْنَ الدُّوَلِ: ملکوں کے اختلافات کو ختم کرانا۔
تَسْوِيَةٌ سِلْمِيَّةٌ: پرامن تصفیہ۔
تَسْوِيَةٌ شَامِلَةٌ: مکمل حل۔
تَسْوِيَةُ فُرُوقٍ: فرق ختم کرنا، امتیازات ختم کرنا۔
تَسْوِيَةُ اللَّبْسِ: اشتباہ ختم کرنا۔
تَسْوِيَةُ المَسْأَلَةِ: معاملہ کا تصفیہ۔
تَسْوِيَةُ المُشْكِلَةِ: مسئلہ کا حل۔

تَسْوِيَةُ المُنَازَعَاتِ: تصفیہ نزاعات
تَسْوِيَةٌ مُهِينَةٌ: اہانت آمیز تصفیہ، فیصلہ۔
تَسْوِيَةُ النِّزَاعِ بَيْنَ البَلَدَيْنِ: دو ملکوں کے جھگڑے کا خاتمہ۔
التَّسْوِيَةُ النِّهَائِيَّةُ: آخری فیصلہ، مکمل فیصلہ۔
تَسْوِيَةٌ وُدِّيَّةٌ: دوستانہ تصفیہ۔
اَلْمُسَاوَاةُ: برابری۔
المُسَاوَاةُ الاجْتِمَاعِيَّةُ: ڈیموکریسی، جمہوریت۔
المُسَاوَاةُ السِّيَاسِيَّةُ: ڈیموکریسی، جمہوریت۔
مُسَاوَاةُ الإِيْرَادِ: آمدنی میں مساوات۔
مُسْتَوَى: لیول، سطح، معیار ج: مُسْتَوَيَاتٌ
المُسْتَوَى الأَخْلَاقِيُّ: اخلاقی معیار۔
مُسْتَوَى الأَسْعَارِ: نرخوں کا معیار۔
مُسْتَوَى الانْتَاجِ: پیداواری معیار۔
المُسْتَوَى الرَّفِيعُ: بلند معیار۔
المُسْتَوَى العَالِي: اونچا معیار۔
مُسْتَوَى المَعِيشَةِ: معیار معیشت، معیار زندگی۔
مُسْتَوَيَاتُ الاجُوْرِ: تنخواہوں کا معیار۔
مُسْتَوٍ: پلین، برابر۔
عَلَى مُسْتَوَى السُّفَرَاءِ: سفیروں کی سطح پر۔

س .... ی

سی. ای. ایہ: سی، آئی، اے۔
سَيَّبَ تَسْيِيبًا: (۱) ترک کرنا (۲) ترک تعلق کرنا (۳) آزاد چھوڑنا۔

سَابَ ــِـ سَيْباً و انْسَابَ: بہنا (۲) سانپ کا زمین پر دوڑنا۔
انْسِيَاب: بے روک ٹوک آنا یا جانا، ایک دم آنا یا جانا۔
سَيْبٌ: دوڑ، روانی (۲) بہاؤ (۳) بارش (۴) عطیہ، بخشش، انعام، چندہ، مال ج: سُيُوب
سَائِبٌ: متروک، ہاتھ سے چھوٹ جانے والا۔
سَيَّجَ الكَرْمَ: انگور کی بیل پر باڑ لگانا، ٹٹی لگانا (بانس وغیرہ کی)
سِيَاجٌ: باڑ، احاطہ، چہاردیواری ج: سِيَاجَات و أَسْيِجَة
سِيَاجٌ حَدِيْدِيٌ: لوہے کا جنگلہ۔
مُسَيَّجٌ: دیوار یا جنگلہ سے گھرا ہوا۔
سِيجَارَة ج: سَجَائِر: سگریٹ۔
سَيَّحَ وأَسَاحَ إِسَاحَةً: (۱) بہانا (۲) پگھلانا، گھلانا۔
سَاحَ المَاءُ ــ سَيْحاً: پانی بہنا۔
سَاحَ البِلادَ سِيَاحَةً: ملکوں کی سیر کرنا۔
سَاحَ الثَّلْجُ أو المَعْدِنُ: پگھلنا، گھلنا۔
سِيَاحَة: ٹور، ٹورازم، ٹراول۔
سِيَاحِيٌ: ٹورسٹ، سیاحت سے متعلق۔
سَائِحٌ: جاری (۲) پگھلا ہوا (۳) ٹورسٹ سیاح ج: سُيَّاح
سَاحَة: (درسوح)۔
(سيخ) سَاخَ ــِـ سَيْخاً: غوطہ لگانا۔
سِيخ: لوہے کی سلاخ جس پر گوشت بھونا جاتا ہے۔
سَيَّرَ تَسْيِيراً: چلانا، چلتا کرنا۔

سَيَّرَ الأَعْمَالَ: چلانا، انجام دینا۔
سَيَّرَ سِيَاسَةَ البَلَدِ: ملک کی سیاست چلانا۔
سَارَ ــِـ سَيْراً: (۱) چلنا (۲) چالو ہونا، روانہ ہونا، جانا، حرکت کرنا، ترقی کرنا، آگے بڑھنا، طرزِ عمل اختیار کرنا۔
سَارَ بِهِ: لے جانا۔ لے چلنا۔
سَارَ بِشَيْئٍ قُدُوماً إلى الأَمَامِ: آگے بڑھانا۔
سَارَ شَوْطاً في كذا: ایک مرحلہ طے کرنا۔
سَارَ على مَهْلٍ: آہستہ چلنا۔
سَايَرَه مُسَايَرَة: ساتھ دینا، ساتھ چلنا، ہمنوائی کرنا۔
سَايَرَ العَصْرَ: زمانہ کے ساتھ چلنا۔
سَايَرَ الظُّرُوفَ: حالات کے ساتھ چلنا۔
سَيْر: چال، روش، طرزِ عمل، چلن (۲) روانگی (۳) رفتار، ترقی، مارچ۔
سَيْرُ الأَحْوَال: حالات کی رفتار۔
السَّيْرُ على خَطِّ فُلانٍ: کسی کے نقشِ قدم پر چلنا۔
سَيْرٌ لِلأَمَام: ترقی۔
سَيْرُ المَعْرَكَة: جنگ کی رفتار۔
سِيرَة ج: سِيَر: چلن، طور طریق، عادت، قصہ شخصی، سوانح حیات۔
سَيَّارَة ج: سَيَّارَات: قافلہ، ستارہ۔
سَيَّارَةٌ: (۲) موٹر کار۔
سَيَّارَةُ أُجْرَةٍ لِلرُّكَّاب: ٹیکسی۔
سَيَّارَةُ الإِطْفَاء: فائر انجن۔
سَيَّارَةُ الجِيب: جیپ گاڑی۔

سَيَّارَةٌ حَافِلَة: بس۔
سَيَّارَةٌ ذَاتُ بَدَن خَشَبِيّ: اسٹیشن ویگن۔
سَيَّارَةٌ خَاصَّة: پرائیویٹ کار۔
___ رُكَّاب: پاسنجر موٹر، بس
___ حَافِلَة: بس، لاری۔
___ النَّقْل: ٹرک۔
___ الشُّرْطَة: پولیس کی موٹر۔
___ الإسْعَاف: زخمیوں کو لے جانے والی موٹر، ہسپتال کی موٹر، ایمبولینس۔
___ الرَّشّ: چھڑکاؤ کی موٹر۔
سَيَّارَةٌ شَاحِنَة: ٹرک۔
سَيَّارَةٌ عَامَّة: بس۔
سَيَّارَةٌ عُمُومِيَّة: بس۔
سَيَّارَةٌ مُدَرَّعَة: بکتر بند گاڑی۔
سَيَّارَةٌ مُصَفَّحَة: بکتر بند گاڑی۔
سَائِر: متحرک، ترقی یافتہ، رائج، جاری (۲) تمام، کل، باقی ماندہ۔
مَسِيرَة: مارچ، تحریک، جلوس، کارروائی، مسافت۔
مَسِيرَةُ الأُمَّة: قومی تحریک۔
مَسِيرَةٌ إِنْتَاجِيَّة: پیداواری مہم۔
مَسِيرَةُ التَّحْرِير: تحریک آزادی۔
مَسِيرَةُ الثَّوْرَة: تحریک انقلاب، انقلابی کارواں۔
مَسِيرَةُ الحِدَاد: ماتمی جلوس۔
مَسِيرَةُ السَّلَام: امن مارچ۔
مَسِيرَةُ الفَلَّاحِين: کسان ریلی۔
المَسِيرَةُ النِّضَالِيَّة: مجاہدانہ مشن، انقلابی جدوجہد، سرفروشانہ تحریک۔
سِيرَج: تلوں کا تیل۔
سِيرْك: سرکس۔
سيطر: (در: سطر)۔
سَيْف، سُيُوف: تلوار۔
سَيَّاف: تلوار بنانے یا فروخت کرنے والا۔
سَافَ ـــ سَيْفاً: تلوار سے مارنا۔
سِيكَار: سگار (مع)۔
سَيَّلَ تَسْيِيلاً: جاری کرنا، بہانا، پگھلانا، آنسو بہانا، رال ٹپکانا۔
سَالَ ـــ سَيْلاً و سَيَلَاناً: جاری ہونا، بہنا، ٹپکنا، پگھلنا۔
سَالَ أَنْفُه: ناک بہنا۔
سَالَ بِهِمُ الوَادِي: کھچا کھچ بھرنا۔
سَيْل ج: سُيُول: سیلاب، رَو
سَيْلٌ جَارِف: زبردست سیلاب، ہلاکت خیز سیلاب۔
سَيْلٌ عَارِم: زبردست سیلاب۔
سَيَلَان: بہاؤ (۲) ایک مرض۔
سَيْلَة: پانی بہنے کی جگہ۔
المُسِيلُ لِلدُّمُوع: اشک آور۔
سَيَّال: (ضد: جَامِد) بہنے والا۔
سَيَّالَة: (دا) پانی کا نالہ۔
سُيُولَة: (ضد: جُمُود) روانی، بہاؤ۔
سَائِل: پتلا، بہنے والا ج: سَوَائِل
سِينَمَائِي: فلم کار
سِينَما تُغْرَاف: (مع) وہ آلہ جس سے سینما کی تصویریں حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔

ش

ش...............ا

شُؤْبُوبٌ ج: شَآبِيبُ :ایک دفعہ کی بارش، گرمیٔ آفتاب کی شدت۔

شَأْفَة: اصل، جڑ۔

شَأَمَ القَومَ ـَـ شَأْماً: براشگون دینا

شَؤُمَ و شُئِمَ علی القَومِ ـُـ شَآمَةً :لوگوں کے لیے بدشگونی کا باعث ہونا، منحوس ہونا۔

تَشَاؤُم و اسْتِشْئَام :براشگون لینا (۲) ناامیدی، مایوسی۔

شَائِمٌ: براشگون لانے والا۔

شُؤْمٌ: بدشگونی، نحوست۔

شَأْمَة: علامت نحوست۔

شِئْمَة ج: شِيَمٌ: عادت۔

شَأْنٌ ج: شُؤُوْن :(۱) حالت، کیفیت (۲) ضرورت (۳) درجہ، مرتبہ (۴) اہمیت (۵) تعلق۔

بِشَأْنِ كَذَا: بسلسلہ، سلسلہ میں۔

بِهٰذَا الشَّأْنِ: اس سلسلہ میں۔

ذُو شَأْنٍ: قابل توجہ، اہم۔

الشُّؤُوْنُ الاجْتِمَاعِيَّة: معاشرتی امور۔

الشُّؤُوْنُ البَلَدِيَّةُ و القَرَوِيَّةُ :شہری ودیہاتی امور۔

الشُّؤُوْنُ الخَارِجِيَّة: بیرونی معاملات، خارجی امور۔

الشُّؤُوْنُ الدَّاخِلِيَّة :اندرونی معاملات، گھریلوامور۔

شُؤُوْنُ الدَّوْلَة: ملکی معاملات، حکومتی معاملات۔

شَأْوٌ: غایت، مقصد، رفتار، چکر۔

جَرَى شَأْواً: ایک چکر دوڑا۔

بَعِيْدُ الشَّأْوِ :بلند مقصد، عالی ہمت

ش...............ب

شَبَّبَ و تَشَبَّبَ: زمانہ شباب کی یادتازہ کرنا، جوانی کی تجدید کرنا۔

شَبَّ ـِـ شَبَاباً: جوان ہونا۔

شَبَّ ـُـ شَبّاً النَّارَ: آگ لگنا، لگانا۔

شَبَّ الشَّيءُ: (۱) بلند ہونا (۲) بڑھنا۔

شَبَّ الشَّيءَ: مزین کرنا، آراستہ کرنا۔

اَشَبَّ و تَشَبَّبَ: جوان ہونا۔

شَبٌّ، شَابٌّ :جوان، بوا۔ ج: شَبَابٌ و شُبَّان

شَابٌّ جَلْدٌ: بہادر جوان۔
شَابٌّ يَافِعٌ: نوجوان۔
شَابَّةٌ: جوان عورت ج: شَابَّات
شَبَاب: اٹھان، جوانی۔
شَبَابِيّ: جوانی کا۔
شَبِيبَة: نوجوان پارٹی۔
شُبُوبٌ: اشتعال، ہیجان۔
شَبِثَ ـَـ شَبَثاً و تَشَبَّثَ بكذا: چمٹنا، لگنا، وابستہ ہونا، تھامنا۔
شَبَّثَهُ بكذا تَشْبِيثاً: اٹکانا، چمٹانا۔
مُتَشَبِّثٌ: وابستہ، تھامے ہوئے۔
شَبَحَ الشيءَ ـَـ شَبْحاً: پھیلانا، پھاڑنا، ہاتھ پھیلانا۔
شَبَحٌ ج: أَشْبَاح: (۱) دور سے نظر آنے والا جسم (۲) خیالی تصویر (۳) پرچھائیں۔۔
شَبَحُ الخَوْف: بھیانک تصویر۔
مِشْبَاحٌ (مِجْسَاد): اسٹیر سکوپ، جسم بین (ایک آلہ جس سے کسی جسم کے دو مختلف منظر ایک ہی تصویر میں اتار لیے جاتے ہیں اور تصویر ٹھوس معلوم ہوتی ہے)۔
شَبَرَ ـُـ شَبْراً و شَبَّرَ: بالشت سے ناپنا۔
شِبْرٌ ج: أَشْبَار: بالشت۔
شِبْراً شِبْراً: ایک ایک بالشت، چپہ چپہ۔
شَبْرَقَة: ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
شِبْرِق: بلی کا بچہ۔
شُبَاط: ماہ فروری۔
شَبِعَ ـَـ شِبَعاً: شکم سیر ہونا، کسی چیز سے دل بھر جانا، طبیعت سیر ہونا۔
شَبِعَ مِنْ كذا: اکتانا، تنگ ہو جانا۔
شَبَّعَ وَأَشْبَعَ: شکم سیر کرنا۔
تَشَبَّعَ بِالْمَاءِ: سیراب ہونا۔
تَشَبَّعَ بِرَأْيٍ: قائل ہونا، متفق ہونا۔
شِبَعٌ: شکم سیری، سیری۔
شِبْعٌ: پیٹ بھر چیز۔
شَبْعَان: شکم سیر (۲) آسودہ حال ج: شَبَاعَى
مُشْبِعٌ: کافی، اطمینان بخش (۲) غذائیت والی چیز، پیٹ بھر دینے والی چیز۔
مُشَبَّعٌ بِالْمَاءِ: پانی سے تر۔
مُشَبَّعٌ بِالْهَوَاءِ: ہوا سے بھرا ہوا۔
مُشَبَّعٌ بِالْيَأْسِ: مایوسی کا شکار۔
مُتَشَبِّعٌ بِرَأْيٍ: قائل، متفق۔
شَبِقَ ـَـ شَبَقاً: کثیر الشہوت ہونا۔
شَبَقٌ: شہوت۔
شَبَكَ ـِـ شَبْكاً و شَبَّكَ: الجھانا، پیچیدہ بنانا۔
شَبَكَ الشيءَ بِغَيْرِه: جوڑنا، ملانا۔
اشْتَبَكَ و تَشَبَّكَ: الجھنا، تصادم ہونا، گڈمڈ ہونا، جھڑپ ہونا۔
تَشَبَّكَ: جالی دار ہونا۔
شَبَكَة: جال، پھندا، نیٹ، سلسلہ ج: شَبَكَات۔
شَبَةٌ مِنَ الأَسْلَاك: تاروں یا لائنوں کا جال۔
شُبُك: سگریٹ پائپ، حقہ کی نے۔
شُبَّاك: کھڑکی، سلاخ دار کھڑکی، جنگلا ج: شَبَابِيك۔
شُبَّاكُ البَرِيد: ڈاکخانہ کی کھڑکی، پوسٹ

آفس کا کاؤنٹر۔
شُبَّاکُ التَّذکِرِ: ٹکٹ ونڈو، ٹکٹ گھر۔
شُبَّاکُ الخَزِینَۃ: بینک کاؤنٹر۔
شُبَّاکُ صَرْفِ التَّذکِرِ: بکنگ ونڈو۔
شَوبَک: بیلن۔
مِشبَک: بکسوا، کلپ۔
مِشبَکُ الحِزَام: پٹی کا کلپ۔
مِشبَکٌ للخِطَاب: لیٹر کلپ۔
مِشبَکُ الغَسِیل: کلاتھ پن۔
مِشبَکُ الوَرَق: پیپر کلپ۔
مُشَبَّک، مُتَشَابِک: اُلجھا ہوا، پیچیدہ (۲) جالی دار۔
مُشَبَّکَات: جالیاں۔
اشتِبَاک ج: اشتِبَاکَات: تصادم، (فوجوں کی) جھڑپ، الجھاؤ۔
اشتِبَاکٌ مُسَلَّح: مسلح جھڑپ، لڑائی۔
اشتِبَاکَاتٌ عَنِیفَۃ: زبردست جھڑپیں۔
اشتِبَاکَاتٌ مُنفَصِلَۃ: اکادکا جھڑپیں۔
تَشَابُکُ الأیْدِیْ: ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا۔
تَشبِیک: جالی لگانا، جالی دار بنانا۔
شِبلٌ ج: أَشبَال: شیر کا بچہ، بہادر بیٹا۔
شَبَنَ الغُلامُ ـُ شَبنًا: لڑکے کا پروردۂ نازونعم ہونا (۲) قریب ہونا۔
شَبَّہَ الشَّیْءَ بِکَذَا: مشابہ بنانا، ایک چیز کا وصف دوسری چیز کے لیے ثابت کرنا، تشبیہ دینا۔
شُبِّہَ علیہ شَیْءٌ: ناقابل فہم ہونا۔
تَشَبَّہَ بِکَذَا: مشابہ ہونا، ہم شکل ہونا، ہم وصف ہونا۔

اِشتَبَہَ فِی اَمرِہٖ: شک کرنا۔
یُشتَبَہُ فِی اَمرِہٖ: اس کا معاملہ مشکوک ہے، وہ آدمی مشکوک ہے۔
شِبہٌ و شَبَہٌ: مشابہت، تصویر، نقل۔
شِبہُ اِقطَاعِیٍّ: نیم جاگیردارانہ۔
شِبہُ جَرِیمَۃٍ: نیم جرم۔
شِبہُ جَزِیرَۃٍ: جزیرہ نما۔
شِبہُ رَسمِیٍّ: نیم سرکاری۔
شِبہُ القَارَّۃِ: برصغیر۔
شُبہَۃ ج: شُبَہ: مشتبہ چیز، مبہم چیز، شبہ، شک۔
تَحتَ الشُّبہَۃِ: مشکوک، مشتبہ۔
شُبُہَات: اعتراضات، شکوک۔
المُشتَبَہُ فی أَمرِہٖ: مشکوک۔
المُشتَبَہُ فِیہِم: مشتبہ لوگ۔
مَشبُوہٌ: ناپسندیدہ، مشتبہ، مشکوک۔
تَشَابُہُ الاَحَاسِیس: جذبات کی یکسانیت۔

ش .... ت

شَتَّتَ تَشتِیتًا: منتشر کرنا، شیرازہ بکھیرنا، الگ الگ کرنا۔
شَتَّ ـِ شَتًّا و شَتَاتًا: منتشر ہونا، شیرازہ بکھرنا۔
شَتٌّ، شَتِیتٌ، شَتَاتٌ: منتشر، متفرق
شَتَّانَ بَینَہُمَا: ان کے درمیان بڑا فرق ہے، ان میں کوئی نسبت نہیں۔
شَتّٰی: منتشر، مختلف، متفرق۔
مَصَارِیفُ شَتّٰی: متفرق اخراجات۔
مَشتَلٌ زِرَاعِیٌّ: نرسری۔
شَتَمَ ـِ شَتمًا: گالی دینا۔

شَتَّام: انتہائی دشنام طراز۔
شَتِیمَة ج: شَتَائِم: گالی، مذمت۔
شَتَاء ـــ بِالمُکان شَتواً: کسی جگہ سردی کا موسم گزارنا۔
شِتَاء: موسم سرما۔
شَتوِیّ: موسم سرما کا۔
مَشْتیً: موسم سرما گزارنے کی جگہ۔
ج: مَشْتَیَات

ش .... ج

شَجَبَ ـُـ شَجباً: (۱) رنج دینا (۲) ہلاک کرنا (۳) مذمت کرنا۔
شَجَبَ الأَمرَ بِشِدَّةٍ شَجباً: سختی کے ساتھ مذمت کرنا۔
شَجَبٌ و شُجُوب: غم، ناگواری، رنج (۲) ہلاکت (۳) سزائے موت۔
شِجَابٌ، مِشجَبٌ ج: مَشَاجِبُ: کپڑے وغیرہ لٹکانے کا ہک، ہنگر۔
شَجَّ ـُـ شَجاً: (۱) سر توڑنا، پھاڑنا (۲) زخمی کرنا۔
شَجَّة: سر کی چوٹ، سر کا زخم۔
شَجَرَ ـُـ شَجراً: مضبوط بنانا، سہارا دینا۔
شَجَرَ الخِلَافُ بَینَ ـُـ شُجُوراً: اختلاف پیدا ہونا۔
شَجَرَ مَابَینَهُم: باہم نزع واختلاف ہونا۔
شَاجَرَ و تَشَاجَرَ مَعَ: جھگڑنا۔
شَجَرٌ ج: اَشْجَارٌ: درخت۔
الشَّجَرَةُ العَائِلِیَة: شجرہ خاندان۔
الاَشجَارُ الزَّاکِیَة: خوشبودار پودے۔
شُجَیرَة ج: شُجَیرَات: پودا، چھوٹا درخت۔
شِجَار: لڑائی، جھگڑا (۲) چھتنی (۳) اسٹریچر، مریضوں کو منتقل کرنے کی چارپائی۔
شِجَارٌ عَائِلِیّ: گھریلو جھگڑا، خانگی لڑائی۔
تَشْجِیر: درخت لگانا، درخت کاری
مُشجِرٌ: درخت والا۔
مُشَجَّرٌ: درخت نما نقوش سے آراستہ۔
شَجُعَ ـُـ شَجَاعَةً: بہادر و دلیر ہونا۔
شَجَّعَ: بہادر بنانا (۲) ہمت بڑھانا، حوصلہ افزائی کرنا (۳) اکسانا، شہہ دینا، بڑھاوا دینا۔
تَشَجَّعَ: بہادر و دلیر بننا، ہمت بڑھانا، حوصلہ بڑھنا، ہمت سے کام لینا۔
شُجَاع ج: شُجعَان: بہادر، دلیر۔
شَجَاعَة: دلیری، بہادری۔
شَجَنَه ـُـ شَجناً و شَجَنَهُ و اَشجَنَه: غمگین کرنا، رنج پہنچانا۔
شَجِنَ ـَـ شَجناً: غمگین ہونا۔
شَجَنٌ ج: اَشجَان و شُجُون: غم، اندوہ۔
مُثِیرُ الشُّجُون: اندوہ گیں۔
شَجوٌ، شَجاً: غم۔
شَجِیّ: اندوہناک، غمناک۔
شَجِیَ ـَـ شَجیً: رنجیدہ ہونا، غمگین ہونا۔
شَجَاه ـُـ شَجواً و اَشجَاه: رنج دینا۔

ش .... ح

شَحَبَ ـُـ و شَحِبَ ـَـ شُحُوباً: چہرا کا رنگ بدلنا۔
شَاحِبُ اللَّون: متغیر اللون، بے رنگ، پھیکے رنگ والا۔
شَاحِبُ اللَّون و الوَجه: اداس۔

شَحَتَ ـَ شَحتاً: (دا) بھیک مانگنا۔
شَحّات: بھکاری، فقیر۔
شَحَّ بالشَّيْءِ و عَلَيه ـُـِـ شُحاً: بخل کرنا (۲) طمع ولالچ کرنا۔
شُحّ: بخل، طمع ولالچ۔
شُحُّ المَوادِ الأساسِيَة: بنیادی اشیاء کا فقدان۔
شُحَّة: خودغرضی۔
شَحِيحٌ: بخیل (۲) تھوڑا (دا)۔
شَحَذَ ـَ شَحذاً: چھری یا ذہنی کو تیز کرنا۔
شَحذٌ: تیزی۔
شَحّاذ: بھکاری، فقیر۔
مِشحَذٌ: دھار رکھنے کا آلہ یا پتھر۔
شَحَطَ ـَ شَحطاً و شَحَطاً و شُحُوطاً: دور ہونا۔
شَحط الكِبرِيتَة: دیا سلائی رگڑنا۔
إشحاط: دور کرنا، دھتکارنا۔
شَاحِط: دور دراز۔
شُحَّيطَة: دیا سلائی۔
شَحُمَ ـُ شَحامَةً: چربی دار ہونا، فربہ ہونا۔
شَحمٌ: چربی، چکنائی ج: شُحُوم
شَحمٌ رَمادَةٌ زَيتِيَّةٌ أو مَادَّةُ تَزيِيت او تَزلِيق): گریس۔
شَحمَة: چربی کا ایک ٹکڑا۔
شَحمَةُ الاُذُن: کان کی لو۔
شَحِمٌ: موٹا، چربی دار۔
شَحَنَ السَّفِينَةَ ـَ شَحناً: کشتی یا جہاز پر سامان لادنا۔
شَحَنَ البَضائِعَ: بذریعہ سمندر سامان بھیجنا۔

شَحِنَ و اَشحَنَ: بھرنا، لوڈ کرنا (۲) دور کرنا، نکالنا۔
شَحَنَ عليه ـَ شَحناً: بغض وعداوت رکھنا۔
شَاحَنَه مُشَاحَنَةً: دشمنی کرنا، جھگڑنا۔
تَشَاحُنٌ: باہم بغض وعداوت رکھنا، لڑنا، جھگڑنا۔
شَحُن: (جہاز) پر سامان وغیرہ لادنا، لوڈ کرنا، بار برداری، مال برداری (۳) وزن، لادی، لادا جانے والا سامان۔
شَحنُ البِترُولِ لِدَولَةٍ: کسی ملک کو پٹرول بھیجنا۔
شَحنُ البَضائِع: مال برداری، سامان لانا۔
شَحنُ جَدوَلِ الاَعمَالِ بالمَوضُوعَات: ایجنڈے میں موضوعات کی بھرتی کرنا۔
شَحنٌ سَرِيعٌ: ارجنٹ ڈسپیچ، ارجنٹ روانگی مال۔
شَحنُ المَتاعِ إلى بَلَدٍ: کسی ملک کو مال لاد کر بھیجنا۔
شَحنُ النَّفسِ بالثِّقَة: اپنے اندر اعتماد پیدا کرنا۔
شِحنَة: لوڈ، سامان جہاز وغیرہ پر لدھا ہوا۔ کھیپ، لدا ہوا مال، سامان وغیرہ کی کھیپ، مسالہ بیڑی وغیرہ کا ج: شِحَن
شِحنَةُ اَسلِحَة: ہتھیاروں کی کھیپ۔
شِحنَةُ البَلَد: (الشُرطَة) پولس۔
شِحنَةٌ مُتفَجِرَة: آتش گیر مادہ۔
شِحنَةٌ مُستَعجَلَة: جلد بھیجا جانے والا سامان۔

شَحنَةٌ نَاسِفَة: آتش گیر مادہ۔
شَحنَةٌ هَائِلَة: خوفناک دھماکہ خیز مادہ۔
شَحنَاتُ اَسلِحَةٍ: ہتھیاروں کی بڑی مقدار۔
شَحنَاتٌ مَادِرة: باہر بھیجا جانے والا مال۔
شَحنَاء، مُشَاحَنة: بغض وعداوت، لڑائی جھگڑا، دشمنی۔
شَاحِنَةٌ: ٹرک ج: شَاحِنَات
شَاحِنَةُ البَرِيْد: پوسٹل وین، ڈاکخانے کی ڈاک لے جانے والی گاڑی۔
شَاحِنَةٌ صَغِيرةٌ لِرَفعِ الاثقَال و نَقلِهَا: لفٹ ٹرک۔
شَاحِنٌ، مَشحُونٌ: سامان سے لدا ہوا، بھرا ہوا، پُر۔
مَشحُونٌ بِالعُنف: پُرتشدد۔
مُشَاحِنٌ: دشمن۔

ش.........خ

شَخَبَ ـُـ شَخباً: بہنا، ابلنا۔
شَخٌّ، شُخَاخٌ: (دا) پیشاب۔
شَخُتَ ـُـ شُخُوتَةً: کمزور ہونا، لاغر ہونا۔ کمزور شخصیت، لاغر۔
شَخَرَ ـِـ شَخِيراً: خراٹے لینا (۲) گھوڑے اور گدھے کا بولنا۔
شَخِير: خراٹوں کی آواز۔
شَخشَخَة: ہتھیاروں کی آواز، جھنکار۔
شَخَصَ ـَـ شُخُوصاً: چڑھنا، بلند ہونا، طلوع ہونا، چمکنا۔
شَخَصَ بَصَرُه و بِبَصَرِه: نگاہ اٹھنا یا اٹھانا۔
شَخَصَ بِبَصَرِه إلَى: نگاہ اٹھا کر دیکھنا۔
شَخَصَ مِنَ البَلَدِ: روانہ ہونا۔

شَخَّصَ تَشخِيصاً: متعین وممتاز کرنا، مجسم کرنا، مجسم کر کے دکھانا (۲) بیماری کو سمجھ کر متعین کرنا۔
تَشَخَّصَ له: دکھائی دینا (۲) مجسم بن کر سامنے آنا (۳) متعین وممتاز ہونا۔
شَخصٌ: آدمی، جسم، ذات، جثہ ج: اَشخَاص و اَشخُص
شَخصٌ ذُو آرَاءٍ عَصرِيَّة: نئے افکار کا حامل شخص۔
شَخصِيٌّ، شَخصَانِيٌّ: ذاتی، انفرادی، خصوصی، پرسنل۔
شَخصِيَّة: (۱) امتیازی حیثیت، پرسنلٹی، خصوصی، پرسنل۔
الشَّخصِيَّةُ الفَردِيَّة: انفرادی حیثیت۔
شَخصِيَّةٌ مَعنَوِيَّة: ذاتی شخصیت۔
شَخصِيَّةٌ مَفقُودَةُ الكِيَان: بے حیثیت ذات۔
أشخَاصٌ مَجهُولُو الهُوِيَة: نامعلوم افراد۔

ش.........د

شَدَّدَ علی: سختی کرنا۔
شَدَّدَ الحِرَاسَةَ علی: پہرہ سخت کرنا۔
شَدَّدَ الحِصَارَ علی: محاصرہ سخت کرنا۔
شَدَّدَ الرِّقَابَةَ علی......: سخت نگرانی کرنا۔
شَدَّدَ الشيءَ: مضبوط بنانا، پختہ کرنا۔
شَدَّدَ الامرَ: لازم کرنا۔
شَدَّدَ في كذا: تشدد برتنا، سختی برتنا۔
شَدَّدَ الصَّوتَ: آواز یا لہجہ سخت بنانا۔
شَدَّ ـُـ شَدّاً: (۱) باندھنا (۲) کھینچنا (۳) سخت کرنا۔

شَدَّهُ بِسِلْسِلَةٍ: چین کسنا۔
شَدَّ الانْتِبَاه: توجہ مبذول کرانا۔
شَدَّ أَزْرَهُ: پشت پناہی کرنا، مدد کرنا، سپورٹ کرنا۔
شَدَّ عَضُدَه: ہاتھ مضبوط کرنا، مدد کرنا۔
شَدَّ الرِّحَالَ إِلٰی: سفر کرنا۔
شَدَّ علٰی: سختی کرنا، دبانا۔
اشْتِدَاد و تَشَدُّد: سخت ہونا، پختہ ہونا۔
شَدٌّ: تناؤ، کھچاؤ۔
شَدَّة: کشش، جھٹکا، بندش، بستہ۔
شَدَّةُ وَرَقِ اللَّعِب: تاش کا پیکٹ۔
شِدَّة: (۱) طاقت (۲) سختی (۳) دباؤ (۴) تنگی (۵) مصیبت، بحران، کرائسس (۶) مضبوطی۔
الشَّدَّادَة (تَشُدُّ جُزْئَيْنِ مِنَ المَبْنٰی): ڈائی۔
شَدِيْد: سخت، مضبوط، متشدد ج: اَشِدَّاء
بَلَغَ اَشُدَّه: مرد کامل ہونا۔
اَشَدُّ اضْطِرَاباً: انتہائی ابتر۔
مُشَدَّد: مضبوط، مستحکم۔
مُشَادَّةٌ كَلَامِيَّة: جھڑپ، سخت کلامی۔
شَدَفَ ـِ شَدْفاً: کاٹنا۔
شَدِفَ ـَ شَدَفاً: جھومنا (۲) بدکنا۔
شَادُوْف: نہر سے پانی نکالنے کا بڑا ڈول جو موٹی بلی میں بندھا ہوتا ہے۔
شِدْق ج: اَشْدَاق: گوشہ دہن۔
تَشَدَّقَ بِكَلَامِه: کھل کر بات کرنا۔
شَدَهَ ـَ شَدْهاً و اَشْدَهَ: حیران کرنا، حیرت میں ڈالنا۔

شَدْوٌ: گانا، ترنم۔
شَدَا ـُ شَدْواً: گانا گانا، ترنم سے پڑھنا، پرندہ کا چہچہانا۔

ش .... ذ

شَذَبَ ـُ شَذْباً: کاٹنا، درخت اکھاڑنا۔
شَذَّبَ تَشْذِيْباً: شاخیں تراشنا، مہذب بنانا۔
شَذَّ ـُ شَذّاً و شُذُوْذاً: (۱) جماعت سے الگ ہونا (۲) خلاف قیاس ہونا، مخالف اصول ہونا (۳) منفرد ہونا۔
شَذَّذَه تَشْذِيْذاً: قاعدہ، قانون یا جماعت سے الگ کرنا، منفرد بنانا، شاذ بنانا، مستثنیٰ کرنا۔
شُذُوْذ: علیحدگی، انحراف، مخالفت اصول، جماعت سے خروج، انفرادیت، ندرت، قلت۔
شَاذٌّ: (۱) خلاف قیاس (۲) خلاف اصول، خلاف معمول (۳) کم استعمال ہونے والا (۴) اجنبی (۵) مستثنیٰ، منفرد، غیر معمولی (۶) کمیاب، نادر الوجود، نادر الوقوع۔
حَالَةٌ شَاذَّة: غیر معمولی صورت حال۔
شَذَرَ الشَّئَ ـُ شَذْراً: کسی چیز کے اجزاء میں کوئی دوسری چیز داخل کرنا۔
شَذَّرَ كَلَامَه بِشِعْرٍ: اپنے کلام میں شعر داخل کرنا۔
شَذَرَ مَذَرَ: ریزہ ریزہ، پارہ پارہ، مختلف سمتوں میں منتشر، متفرق۔
تَفَرَّقُوْا شَذَرَ مَذَرَ: مختلف سمتوں میں پھیل گئے، تتر بتر ہو گئے۔
تَشَذَّرَ: منتشر ہونا۔

شَذْرَة: سونے کا ٹکڑا ج: شَذَرَات
(شذو) شَذَا ـُ شَذْواً: خوشبو مہکنا، مہکنا، معطر ہونا (۲) مہکانا، معطر کرنا۔
شَذًا: مہک۔

ش..........ر

شَرّ: (دیکھیے: شرر)
شَرِبَ ـَ شُرْباً: پینا۔
شَرِبَ الدُّخَانَ: تمباکو پینا۔
شَرَّبَ تَشْرِيباً وأَشْرَبَ: پلانا (۲) تلقین کرنا، دماغ میں بٹھانا۔
شَارَبَهُ مُشَارَبَةً: ساتھ پینا۔
أُشْرِبَ قَلْبُه حُبَّهُ: اس کے دل میں اس کی محبت راسخ ہوگئی۔
اِشْرَأَبَّ لِشَيْءٍ: (دیکھنے کے لیے) گردن دراز کرنا، گردن دراز کر کے دیکھنا۔
تَشَرَّبَ: چوسنا، جذب کر لینا۔
شَرْبَة: گھونٹ۔
شُرْبَة (۲) (صُبَّة): سوپ، یخنی۔
شَرْبَة (۳): مسہل دوا۔
شَرَاب: پینے کی چیز، شربت (۲) شراب ج: أَشْرِبَة
شَارِبٌ: مونچھ ج: شَوَارِبُ
مَشْرَبٌ و مَشْرَبَة: پانی پینے کی جگہ۔
مَشْرَب: ذوق، طرز، طریقہ ج: مَشَارِبُ
مَشْرُوبَات و: مَشْرُوب: شربت
مَشْرُوبَاتٌ مُنْعِشَة: فرحت بخش مشروبات۔
شَرِثَ ـَ شَرَثاً: کھردرا ہونا خراب ہونا، ہاتھ کی جلد کا کثرت کار سے کھردارا ہونا۔

شَرَجَ و شَرَّجَ: زین کسنا۔
شَرَج: فیتہ، ڈور۔
شَيْرَج: تلوں کا تیل۔
شَرَحَ ـَ شَرْحاً: وضاحت کرنا، کیفیت یا تفصیل بیان کرنا۔
شَرَحَ الخَاطِرَ: دل خوش کرنا۔
شَرَحَ الأَهْدَافَ السَّامِيَةَ: بلند مقاصد کی تشریح کرنا۔
شَرَحَ حَقِيقَةَ الوَضْعِ: صورت حال کی وضاحت کرنا۔
شَرَحَ لَه الخُطَّةَ فِي العَمَلِ: طریقہ کار کی وضاحت کرنا۔
شَرَحَ مَوْقِفَ بَلَدٍ كذا: کسی ملک کی پالیسی کی وضاحت کرنا۔
شَرَحَ وِجْهَةَ النَّظَرِ: نظریہ کی وضاحت کرنا۔
شَرَحَ و شَرَّحَ تَشْرِيحاً: لمبے لمبے ٹکڑے کاٹنا، سلائس کاٹنا۔
شَرَّحَ الجُثَّةَ: پوسٹ مارٹم کرنا، موت کا سبب معلوم کرنے کے لیے لاش کی چیر پھاڑ یا معائنہ کرنا۔
التَّشْرِيحُ المِجْهَرِيّ: خورد بینی تجزیہ۔
اِنْشِرَاح: کشادہ ہونا۔
اِنْشِرَاحُ الصَّدْرِ: خوش ہونا، مطمئن ہونا۔
شَرْح: تفصیل، بیان، وضاحت۔
الشَّرْحُ المُفَصَّلُ عَنْ كذا: مکمل تفصیل۔
شَرْحِيّ: وضاحتی۔
شُرْحَة و شَرِيحَة: سلائس، لمبا ٹکڑا۔

شَرحَةُ بِطِيخ: قاش، پھانک۔
شَرِيحَة ج: شَرَائِح :لکڑی یا دھات وغیرہ کا ٹکڑا۔
شَرِيحَةُ الشُبَّاک: کھڑکی کا کواڑ۔
شَرَائِحُ خبزٍ مَفرُوشَةٌ بِالزُّبدَة: مکھن لگے ہوئے سلائس۔
مَشرَحَة: پوسٹ مارٹم یا چیر پھاڑ کا کمرہ، پوسٹ مارٹم روم۔
عِلمُ التَّشرِيح: علم تشریح، اناٹومی۔
مِشرَحَة: سلائسر۔
شَرَخَ ـُ شَرخاً: سر توڑنا۔
شَرخ: شگاف، پھٹن، کریک (ہڈی یا دیوار کا)۔
شَرخُ الشَّبَاب: نوجوانی۔
شَرَدَ ـُ شُرُوداً :بھاگنا، فرار ہونا، قبضہ سے نکلنا (۲) لفظ کا ذہن سے نکلنا (۳) گمراہ اور آوارہ ہونا۔
شَرَدَ الفِکرُ: ذہن کا منتشر ہونا
شَرَدَ عَلَي اللّٰه:اطاعت سے باہر ہونا۔
شَرَّدَ وأَشرَدَ: بھگانا، منتشر کرنا، شہر بدر کرنا، دیس سے نکالنا۔
تَشَرَّدَ: ہلاک ہونا، منتشر ہونا، آوارہ ہونا۔
شُرُود: فرار، گمراہی، پریشان خیالی، حیرانی۔
شُرُودُ الفِکر: انتشار ذہن۔
شَرِيد، مُتَشَرِّد: گمراہ، آوارہ، گم کردہ منزل۔
شَارِد :فرار ہونے والا، گمراہ، آوارہ، منتشر، ذہن سے نکلا ہوا، مشکل لفظ۔
شَارِدُ الفِکر: پریشان خیال، منتشر الذہن، پراگندہ خیال۔

شَارِدُ الذِّهن: پریشان خاطر۔
شَوَارِدُ اللُّغَة: نادر و غریب الفاظ۔
مُتَشَرِّد: بے گھر، بے ٹھکانا، آوارہ، گمراہ۔
شِرذِمَة: مختصر جماعت، ٹولی ج: شَرَاذِم و شَرَاذِيم
شَرَّ ـُ شَرّاً و شَرَارَةً: شریر ہونا، بدی کرنا۔
شَرَرَة و شَرَارَة: چنگاری ج: شَرَر و شَرَار
شَارَّه مُشَارَّةً: برا معاملہ کرنا، بدسلوکی کرنا۔
شَرّ: (۱) بدی، فساد، خرابی، گناہ، بداخلاق ج: شُرُور شَرّ (۲) (اسم فاعل) برا، خراب، بداخلاق، ج: شِرار و أشرَار
شَرَّار: جس سے چنگاریاں نکل رہی ہوں۔
شِرِّير :شرارتی، اذیت رساں، فسادی، غلط کار، گنہگار۔
شَرِسَ ـَ شَرَاسَةً: بداخلاق ہونا۔
شَرَاسَة: بدخلقی۔
شَرَاسَةُ القِتَال: لڑائی کی شدت۔
شَرَاسَةُ المَعرَكَة: جنگ کی شدت۔
شَرشَف: پلنگ کی چادر (مِلاءة)
شَرَطَ ـُ شَرطاً عليه فى كذا: شرط لگانا۔
اِشتَرَطَ: کسی چیز کا پابند بنانا، ایک چیز کو دوسری پر معلق کرنا، شرط کرنا، شرط لگانا۔
شَرَطَ و شَرَّطَ: کھال کو خون وغیرہ نکالنے کے لیے چیرنا۔
شَارَطَه مُشَارَطَةً: شرط بدنا، ایک کا دوسرے سے شرط لگانا۔
تَشَرَّطَ فى العَمَل: ماہر ہونا۔
شُرطِيّ: سپاہی، پولیس مین۔
شُرطَة: پولیس۔

شُرطَةُ الجَيش: ملٹری پولیس۔
الشُرطَةُ العَسكَرِيَّة: ملٹری پولیس۔
شَرطَة: (–) چھوٹا خط جو دو جملوں کے درمیان ہوتا ہے۔
شَرطٌ اِضافِيّ: زائد شرط۔
شَرطُ التَّحكِيم: فیصلہ سنانے کی شرط، عدالتی شرط۔
الشُرُوطُ والمُواصَفات: شروط وقیود۔
شُرُوطُ الاِستِخدام: ملازمت دینے کے شرائط۔
شُرُوطُ التَّعيِين: شرائط تقرر۔
شُرُوطُ التَّوظِيف: ملازم رکھنے کے شرائط
شُرُوطٌ سَهلَة: آسان شرطیں۔
شُرُوطُ عَقدِ التَّوكِيل: ایجنسی کے شرائط
شُرُوطٌ قَاسِيَة: سخت شرطیں۔
شُرُوطٌ مُسبَقَة: پیشگی شرائط۔
شَرطِيَة: معاہدہ، بدھی ہوئی شرط۔
شَرِيط ج: اَشرِطَة و شَرائِط: فیتا، تسمہ، ٹیپ، ریل، سلسلہ۔
__ المِصبَاح: لمپ کی بتی۔
__ الآلَةِ الكَاتِبَة: ٹائپ کا فیتا۔
__ الجُندِيّ: سپاہی کا امتیازی فیتا، پٹی جو مونڈھے پر لگی ہوتی ہے۔
__ القِيَاس: پیمائش کا فیتا، کپڑے کا گز۔
__ السِّينَما: سینما فلم۔
__ النَّار: پٹاخوں کی بتی۔
شَرِيطُ الاَحدَاث: سلسلہ واقعات۔
شَرِيطٌ مُستَطِيل: لمبی پٹی۔
شَرِيطُ التَّسجِيل: ریکارڈنگ ٹیپ۔

المُسجِّلَةُ الشَّرِيطِيَّة: ٹیپ ریکارڈر
رَايَةُ الأَشرِطَة: پٹیوں دار پرچم۔
مِشرَط: آلہ جراحی جس سے جلد کو کاٹا جائے۔
شَرَعَ ـــ شَرعاً و اشتَرَعَ: قانون بنانا، ضابطہ بنانا (۲) راہ نکالنا۔
__ مَشرُوعاً: منصوبہ بنانا، اسکیم بنانا۔
__ واَشرَعَ و شَرَّعَ عليه: نشانہ لگانا۔
__ __ سَيفَه: تلوار سونتنا۔
__ __ __ الحَبلَ: رسی باندھنا۔
شَرَعَ المَاشِيَةَ وبِهَا شُرُوعاً: جانور کو پانی پر لے جانا۔
شَرعٌ و شَرِيعَة: قانون، ضابطہ (۲) اسلامی احکام کا مجموعہ، راہ خداوندی (۳) صاف وکشادہ راستہ۔
شَرعِيّ: قانونی، جائز۔
اِبنٌ شَرعِيٌّ: حلال لڑکا۔
اِبنٌ غَيرُ شَرعِيّ: حرام لڑکا۔
المَالِكُ الشَّرعِيّ: جائز مالک، جائز اور قانونی حق دار۔
شَرعِياً: قانونی طور پر، جائز طور پر۔
شَرعِيَة: قانونی شکل، جواز۔
شَرعَة: چمڑے کا ایک ٹکڑا۔
شِرَاعُ السَّفِينَة: بادبان ج: اَشرُعٌ
سَفِينَةٌ شِرَاعِيَّة: بادبانی کشتی
شَرِيعَة ج: شَرائِع: قانون
شَرِيعَةُ البِلاد: ملکی قانون۔
شَرِيعَةُ الغَاب: جنگل کا قانون، وحشیت، بربریت۔

الشَّرِيعَةُ الغَرَّاء (السَّمحَة): اسلامی قانون، شریعت محمدی۔
نَهرُ الشَّرِيعَة: شرق اردن کی نہر
شَارِع ج: شَوَارِع: قانون ساز (۲) زندگی کی شاہراہ بتانے والا، لائحہ عمل اور منصوبے بنانے والا۔
شَارِع ج: شَوَارِع: سڑک، عام راستہ، اسٹریٹ۔
الشَّارِعُ المُسَفلَت: ڈامر روڈ۔
تَشرِيع: قانون سازی۔
التَّشرِيعُ الجِنَائِيّ: فوجداری قانون۔
تَشرِيعُ العُمَّال: لیبر قانون۔
تَشرِيعُ القَوَانِين: آئین بنانا، قوانین بنانا۔
تَشرِيعَات: قوانین، آئین۔
تَشرِيعَاتٌ جُمرُكِيَّة: کسٹم قوانین
تَشرِيعَاتٌ وِقَائِيَّة: حفاظتی قوانین
سُلطَةٌ تَشرِيعِيَّة: اختیار قانون سازی۔
مَشرُوع ج: مَشرُوعَات ومَشَارِيع: منصوبہ، اسکیم، پلان، پروجیکٹ، آئیڈیا (۲) جائز، قانونی، آئینی، دستوری۔
مَشرُوعُ قَانُون: مسودۂ قانون۔
مَشرُوعٌ إِنمَائِيّ: ترقیاتی پلان۔
مَشرُوعٌ بَدِيل: متبادل اسکیم۔
مَشرُوعٌ تِجَارِيّ: تجارتی پروگرام۔
مَشرُوعٌ تَحتَ التَّنفِيذ: زیر عمل منصوبہ۔
مَشرُوعٌ تَمهِيدِيّ: ابتدائی منصوبہ۔
مَشرُوعُ التَّوطِين: آبادکاری منصوبہ۔
مَشرُوعٌ شَامِل: جامع منصوبہ۔

مَشرُوعُ القَانُون: مسودۂ قانون، بل۔
مَشرُوعُ قَرَار: مسودۂ قرارداد، ڈرافٹ ریزولیشن، قرارداد کا مسودہ۔
مَشرُوعٌ مَرحَلِيّ: مرحلہ وار منصوبہ۔
مَشرُوعُ المِيزَانِيَّة: مسودہ بجٹ۔
مَشرُوعُ مِيزَانِيَّةٍ عُمُومِيَّة: مسودہ جنرل بجٹ، عوامی بجٹ کا مسودہ۔
مَشرُوعَاتُ استِثمَار: سرمایہ کاری کے منصوبے۔
المَشرُوعَاتُ الإِنمَائِيَّة: ترقیاتی منصوبے۔
مَشرُوعَاتٌ دِفَاعِيَّة: دفاعی اسکیمیں۔
المَشرُوعَاتُ الصِّنَاعِيَّة: صنعتی منصوبے۔
مَشرُوعَاتٌ هَندَسِيَّة: انجینئرنگ پروجیکٹ۔
مَشَارِيعُ إِنشَائِيَّة: تعمیری پروجیکٹ۔
مَشَارِيعُ التَّنمِيَة: ترقیاتی پلان، منصوبے۔
مُشَرِّع: قانون ساز۔
مُتَشَرِّع: قانون داں، بیرسٹر (۲) دیندار۔
شَرُفَ ـُـ شَرَفاً و شَرَافَةً: باعزت ہونا، بلندرتبہ ہونا۔
شَرِفَ ـَـ شَرَفاً: بلند ہونا (۲) قریب ہونا۔
شَرَّفَ تَشرِيفاً: عزت بخشنا، حیثیت بلند کرنا۔
شَارَفَه مُشَارَفَةً: کسی پر عزت وشرف میں فخر کرنا۔
شَارَفَ عَلَى الإِنتِهَاءِ مِن كَذَا: فارغ ہونے کے قریب ہونا۔

شَارَفَ المَكَانَ: کسی بلند جگہ پر چڑھنا۔
شَارَفَ و اَشْرَفَ عَلَى الْعَمَلِ: نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا۔
— — عَلَى الْمَكَانِ: قریب ہونا، سامنے ہونا۔
تَشَرَّفَ: شرف وعزت حاصل کرنا۔
تَشَرَّفَ بِالسَّلامِ عَلَى فُلَانٍ: سلامی دے کر عزت حاصل کرنا۔
تَشَرَّفَ الضَّيْفُ بِلِقَاءِ فُلَانٍ: ملاقات کا شرف حاصل کرنا۔
شَرَفٌ: آبرو، اعزاز، فخر، بلندی نسبت۔
شَرَفِيٌّ: اعزازی۔
عُضْوُ شَرَفٍ: اعزازی ممبر۔
عَلَى شَرَفٍ: اعزاز میں۔
شَرَفَةُ القَصْرِ: فصیل کا جھروکا۔
شُرْفَةٌ: بالکنی، گیلری ج: شُرَفٌ
شُرْفَةٌ خَارِجِيَّةٌ: گیلری۔
الشُّرْفَةُ الخَارِجِيَّةُ لِلْجُمْهُورِ: پبلک گیلری۔
الشُّرْفَةُ العُلْيَا: بالائی گیلری۔
شُرْفَةُ كِبَارِ الزُّوَّارِ: ممتاز مہمانوں کی گیلری۔
شُرْفَةُ المَسْرَحِ: ڈرامہ گاہ کی گیلری۔
شَرِيفٌ: معززین۔
الاَشْرَافُ: بلند مرتبہ لوگ، قوم کے بڑے، معززین۔
اِشْرَافٌ: نگرانی، سپروائزری، ڈائریکشن۔
الاِشْرَافُ الكَامِلُ عَلَى شَيْءٍ: مکمل کنٹرول۔

تَشْرِيفَةٌ: تقریب سرکاری۔
تَشْرِيفَاتِيٌّ: سرکاری تقریبات کا منتظم۔
الـمُشْرِفُ: اورسیئر، ة سپرنٹنڈنٹ، سپروائزر، نگراں۔
مُشْرِفُ اِجْتِمَاعِيٌّ: سوشل ورکر۔
مُشْرِفٌ علي: قریب، سامنے۔
مُشْرِفٌ على العَمَلِ: نگران کار، سپروائزر۔
مُشْرِفُ عُمَّالٍ: فورمین۔
شَرَقَ ـُ شُرُوقًا و أَشْرَقَ: چمکنا۔
شَرَقَ و أَشْرَقَ: روشن کرنا۔
أَشْرَقَ الكَوْنُ: کائنات کا روشن ہونا۔
اَشْرَقَ وَجْهُهُ بِشْرًا: اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔
شَرَّقَ تَشْرِيقًا: جانب مشرق چلنا۔
شَرْقٌ: جانب مشرق، مشرقی ملک۔
الشَّرْقُ الادْنَى: مشرق قریب۔
الشَّرْقُ الاَقْصَى: مشرق بعید۔
الشَّرْقُ الأَوْسَطُ: مشرق وسطیٰ، مڈل ایسٹ۔
شَرَقَةٌ: اچھو۔
شَرْقِيٌّ: ایسٹرن، مشرقی۔
شُرُوقٌ: چمک، طلوع۔
مُشْرِقٌ: چمکدار، روشن، تابناک۔
مَشْرِقِيٌّ: ایسٹرن۔
شَرِكَ ـَ شِرْكًا: شریک ہونا، شرکت کرنا۔
شَارَكَهُ مُشَارَكَةً: حصہ دار ہونا۔
اِشْتَرَكَ فِى جَرِيْدَةٍ: اخبار کا خریدار ہونا۔
اَشْرَكَهُ: شریک کرنا، حصہ دار بنانا۔

شَرَکٌ: جال، پھندا، نیٹ۔
شِرْکَۃ، شَرِکَۃ: (۱) شرکت، حصہ داری (۲) کمپنی فرم ج: شَرِکَات
شَرِکَۃٌ تِجَارِیَۃٌ: تجارتی فرم۔
شَرِکَۃُ تَعْبِئَۃٍ: پیکنگ کمپنی۔
شَرِکَۃُ الزَّیْتِ: آئل کمپنی۔
شَرِکَۃُ الطَّیَرَانِ: ہوائی کمپنی۔
شَرِکَۃُ مُسَاهَمَۃٍ مَحْدُوْدَۃٍ: لمیٹڈ کمپنی۔
شَرِکَۃُ المِلَاحَۃِ: جہازراں کمپنی۔
شَرِکَۃُ مِلَاحَۃٍ بَحْرِیَّۃٍ: جہازراں کمپنی۔
شَرِکَۃُ نَقْلٍ: ٹرانسپورٹ کمپنی۔
شَرِکَاتُ الاسْتِثْمَارِ: سرمایہ کار کمپنیاں۔
شَرِکَاتٌ مَدَنِیَّۃٌ: سول کمپنیاں۔
شِرَاکٌ: تسمہ، جوتے کا فیتا ج: اَشْرِکَۃ
اَلشَّرِیکُ: پارٹنر، حصہ دار، ساجھے۔
شَرِیکٌ عَامِلٌ: ایکٹنگ شریک، ایکٹنگ پارٹنر، کام کا شریک۔
شَرِیکٌ فِی الجَرِیْمَۃِ: شریک جرم۔
شَرِیکٌ لِلتَّضَامُنِ: برابر کا شریک (ہر چیز میں شریک)۔
شَرِیکٌ مُکَلَّفٌ بِالإِدَارَۃِ: انتظام کا شریک۔
شَرِیکٌ مُوْصٍ: مقررہ حصہ کا حصہ دار
اِشْتِرَاکٌ: (۱) شرکت، حصہ (۲) رسالہ وغیرہ کی ممبری، خریداری (۳) رسالہ کا چندہ
اِشْتِرَاکٌ سَنَوِیٌّ: سالانہ خریداری، سالانہ چندہ۔
بِالاشْتِرَاکِ: مشترک طور پر۔
اِشْتِرَاکِیٌّ: سوشلسٹ، اشتراکی۔
اِشْتِرَاکِیٌّ مُتَطَرِّفٌ: کمیونسٹ۔
اِشْتِرَاکِیَّۃ: سوشلزم۔
اِشْتِرَاکِیَّۃٌ مُتَطَرِّفَۃٌ: کمیونزم۔
مُشْتَرَکٌ: (۱) متبادل (۲) عام، مروجہ (۳) متحدہ، باہمی۔
مُشْتَرِکٌ: اخبار یا رسالہ کا خریدار۔
مُشَارَکَۃ: حصہ دار ہونا، شرکت، اشتراک۔
اَلمُشَارِکُ: حصہ دار، شریک کار۔
شَرِہَ ــــ شَرَهاً و شَرَاهَۃً إلی الطَّعَامِ: کھانے کی بے حد خواہش ہونا، بدنیت ہونا، حریص ولالچی ہونا۔
شَرَی ــِ شِرَاءً و شِرًی: خریدنا، بیچنا۔
اِشْتِرَاء: خریدنا۔
اِسْتِشْرَاء: پھیلنا۔
شِرَاءُ الحَاجِیَاتِ: شاپنگ، ضرورت کی خریداری۔
مُشْتَرَیَاتٌ نَقْدِیَّۃٌ: کیش خریداریاں
شِرْیَانٌ ج: شَرَایِیْنُ: متحرک رگیں جن میں خون دوڑتا ہے۔
شَارٍ، مُشْتَرٍ: خریدار۔

ش .... ز

شَزَرَ الرَّجُلَ و إِلَیْہِ ــِ شَزْراً: گوشۂ چشم سے دیکھنا، غضبناک نگاہوں سے دیکھنا۔
شَزْرٌ: غصہ، تیزی، نگاہ غضب، خشمگیں نگاہ۔

ش .... س

شَسَعَ ــَ شَسْعاً و شُسُوْعاً: دور ہونا۔
شَاسِعٌ: دور دراز۔
بُعْدٌ شَاسِعٌ: طویل فاصلہ۔
فَرْقٌ شَاسِعٌ: زبردست فرق۔

ش .... ص

شَصٌّ: کانٹا، ج: شُصُوص

شَصَّ ـِ شَصّاً: دانتوں سے پکڑ لینا۔

ش .... ط

شَطَّ ـُ شَطّاً و شُطُوطاً: دور ہونا، حد سے متجاوز ہونا (۲) حق سے ہٹنا (۳) موضوع سے ہٹنا (۴) ظلم کرنا۔

أَشَطَّ و اشْتَطَّ: حد سے بڑھنا، تیز ہونا

شَطَطٌ: غیر منصفانہ بات، انحراف۔

شَطٌّ ج: شُطُوط: کنارہ۔

شَطَّة: تیز مرچ (د1)

شَطْءٌ، شَاطِئٌ ج: شَوَاطِئ: کنارہ، ساحل

شَطَبَ ـُ شَطْباً: (۱) لمبائی میں پھاڑنا (۲) مٹانا (۳) لکھی ہوئی عبارت کو کاٹنا، قلم زد کرنا، حذف کرنا۔

شَطَبَ اسْمَهُ مِنْ كَذَا: نام کاٹنا، خارج کرنا۔

شَطَبَ الدَّعْوَى: مقدمہ خارج کرنا۔

شَطَبَ الشَّيْءَ: ٹکڑے ٹکڑے کرنا (۲) ختم کرنا۔

شَطَبَ كَلِمَةً: کسی لفظ کو حذف کرنا۔

الشَّطْبُ مِنْ جَدْوَلٍ: فہرست سے نکالنا۔

شَطَرَ ـُ شَطْراً: آدھا کرنا، تقسیم کرنا۔

شَطَرَ الْجَيْشَ: فوج کو دو حصوں میں تقسیم کرنا۔

شَطَرَ عَنْهُمْ ـُ شُطُوراً: الگ ہونا۔

شَطَّرَ تَشْطِيراً: تقسیم کرنا۔

شَطُرَ ـُ شَطَارَةً: چالباز ہونا۔

تَشَطَّرَ: چالاکی سے کام کرنا۔

شَاطَرَهُ مُشَاطَرَةً: حصہ بٹانا، حصہ دار بنانا، شریک ہونا، نصف نصف لینا۔

شَاطَرَهُ الْحُزْنَ أَوِ الْمُصَابَ: شریک غم اور شریک مصیبت ہونا۔

شَطْرٌ: حصہ، ٹکڑا، جز ج: شُطُور

شَطَارَة: چالاکی، چالبازی، مکاری، مہارت، ہوشیاری۔

شَاطِر: (۱) آدھا کرنے والا (۲) خبیث، چالاک، مکار۔

مَشْطُور: تقسیم شدہ۔

شَطَفَ ـُ شَطْفاً: دور نکل جانا، جانا (۲) دھونا۔

تَشْطِيف: دھلائی۔

حَوْضُ التَّشْطِيف: دیوار میں لگا ہوا ہاتھ دھونے کا ٹب۔

شَطَنَ ـُ شَطْناً: (۱) دوار کرنا (۲) باندھنا

شَطَنٌ ج: أَشْطَان: رسی، بندھن۔

تَشَيْطَنَ: شیطان بننا۔

شَيْطَنَة: شیطانی فعل کرنا۔

ش .... ظ

شَظَفٌ: تنگ دستی عسرت (س)

شَظِيَ ـَ شَظًى: پھٹنا، منتشر ہونا۔

شَظِيَّة ج: شَظَايَا و شَظِيٌّ: ٹکڑا، کرچ، پارہ، چورا (۲) پنڈلی کی ہڈی۔

ش .... ع

شَعَّبَ تَشْعِيباً: شاخ نکالنا، شاخ در شاخ کرنا۔

تَشَعَّبَ: شاخ در شاخ ہونا۔

تَشَعُّبُ الآرَاءِ: آراء کا مختلف ہونا (۲) اختلاف رائے۔

شَعَبَ ـَ شَعْباً: (۱) شاخ در شاخ کرنا (۲) منتشر و متفرق کرنا (۳) خراب کرنا (۴)

یکجا کرنا۔
شَعْبٌ ج: شُعُوب : قوم، بڑا قبیلہ، جماعت عوام، پبلک، جمہور۔
الشَّعْبُ الكَادِح: جفاکش عوام۔
شَعْبٌ مُشَرَّدٌ: ملک بدر قوم۔
الشَّعْبُ المُضْطَهَد: مظلوم عوام۔
الشَّعْبُ المُنَاضِل: سرفروش عوام۔
شَعْبِيًّا: عوامی سطح پر۔
شَعْبِيٌّ: عوامی، جمہوری۔
شِعْبٌ ج: شِعَاب: گھاٹی، جگہ، پہاڑی کا راستہ۔
شُعْبَة ج: شُعَبٌ :شاخ (٢) انتظامی شعبہ، برانچ۔
شَعْبِيَّة: عوامی مقبولیت، عوامیت۔
الشُّعُوبُ الحُرة: آزاد قومیں۔
الشُّعُوبُ غَيْرُ المُلْتَزِمَة: غیر پابند قومیں۔
الشُّعُوبُ غَيْرُ المُنحازَة: غیر جانبدار قومیں، ناوابستہ قومیں۔
الشُّعُوبُ المُحَارِبَة: برسرپیکار قومیں۔
الشُّعُوبُ المُحِبَّة لِلسَّلَام: امن پسند اقوام۔
الشُّعُوبُ المُنحازَة: جانب دار قومیں۔
شَعْبَذَة: شعبدہ دکھانا، ہاتھ کی صفائی دکھانا (٢) ہاتھ کی صفائی۔
شَعِثَ ـــــ شَعَثاً: پراگندہ ہونا، غبار آلود ہونا (٣) منتشر ہونا۔
شَعَّثَ تَشْعِيثاً: منتشر کرنا، تفریق ڈالنا۔
شَعِثٌ، اَشْعَثُ: پراگندہ، گردآلود، بدحال، بکھرا ہوا۔

شَعْوَذَة: شعبدہ بازی، ہاتھ کی صفائی، مداری کا تماشہ۔
مُشَعْوِذ: ہاتھ کی صفائی یا کرتب دکھانے والا، مداری، جادوگر۔
شَعَرَ ـــ شِعْراً: شعر کہنا۔
شَعَرَ لَهُ: شعر سنانا، کسی کے لیے شعر کہنا۔
أَشْعَرَهُ الأَمْرَ وبه: بتانا، خبر دینا، محسوس کرانا، احساس دلانا، اطلاع دینا، نوٹس دینا۔
اسْتَشْعَرَه: محسوس کرنا، سمجھنا۔
شَعْرٌ و: شَعْرَةٌ: بال۔
شَعْرٌ عَارِيَة: مصنوعی بال۔
شَعْرِيٌّ: بالوں کا، بالوں جیسا۔
شِعَارٌ: علامت، نشان امتیاز، نشان خاص (٢) بیج (٣) موٹو، جھنڈا (٤) بھیس ج: اَشْعِرَة و شِعَارَات
شِعَارٌ تِجَارِيٌّ: ٹریڈ مارک۔
شِعَارٌ مُضَادٌّ لِلحُكُومَة: حکومت مخالف پروپیگنڈا۔
شِعَارَات: نعرے، علامات، امتیازی نشانات
شِعَارَاتٌ مُزَيَّفَة: کھوکھلے نعرے۔
شِعَارَاتٌ مُنَاوِئَة: مخالف نعرے۔
شُعُور :(١) احساس (٢) علم (٣) اثرپذیری (٤) جذبہ۔
شُعُورٌ دَاخِلِيٌّ: وجدان۔
شُعُورٌ شَنِيع: براجذبہ۔
شُعُورٌ نَبِيلٌ: بلند جذبہ۔
الشُّعُورُ بالحِرْمَان: احساس ناکامی، احساس محرومیت

الشُعُورُ بالرَّاحَة: آرام پانا۔
الشُعُورُ بِالاِسْتِعْلاء: احساس برتری۔
الشُعُورُ المُعَادِی: مخالف جذبہ۔
عَدِیْمُ الشُعُور: بے حس، بے علم۔
فَاقِدُ الشُّعُور: بے حس۔
شَعِیرو: شَعِیْرَةٌ: جو، بارلی Barley۔
شَعِیْرَةٌ ج: شَعَائِرُ: مذہبی علامت، نشان خاص، علامت۔
شَاعِرٌ مَطْبُوع: فطری شاعری، طبع زاد شاعر۔
الشُّعَرَاءُ المَاجنُون: رومانی شعراء۔
إشْعَار: نوٹس، اطلاع، نوٹ، وارننگ۔
إشْعَارُ دَائِن: کریڈٹ، میمورنڈم، قرض خواہ کا نوٹس۔
إشْعَارُ وُرُوْد: اطلاع آمد۔
مَشْعَرٌ ج: مَشَاعِرُ: حس، احساس (۲) ذوق۔
مَشَاعِرُ: جذبات، احساسات۔
مَشَاعِرُ السُّرُوْر: جذبات مسرت۔
مَشَاعِرُ الشَّعْبِ الفَیَّاضَة: عوام کے زبردست جذبات۔
مَشَاعِرُ مَكْتُومَة: دبے ہوئے جذبات
مَشَاعِرُ الوُدّ: جذبات محبت۔
المَشَاعِرُ الوَطَنِیَّة: قومی جذبات۔
شَعَّ ۔ شَعًا وشَعَاعاً: پانی کا پھیلنا، منتشر ہونا۔
شَعَّ شَعِیْعاً: جلدی کرنا، تیز کرنا۔
أشَعَّ اِشْعَاعاً: پھیلانا، بکھیرنا۔
أشَعَّ الكَوْكَبُ: ستارہ کا چمکنا۔
أشَعَّتِ الشَّمْسُ: آفتاب کا شعاع ریز ہونا۔
شُعٌّ، شُعَاع ج: أشِعَّة: کرن، چمک۔
شَعِفَ بِحُبِّهِ ۔ شَعَفاً: گرفتار محبت ہونا۔
شَعَلَ ۔ شَعْلاً و اَشْعَلَ و شَعَّلَ: آگ جلانا، بھڑکانا، سگانا، سگریٹ سلگانا، دیا سلائی جلانا۔
أشْعَلَ نَارَ الحَمَاسه: جوش دلانا۔
اشْتَعَلَ: آگ جلنا، سلگنا، پھڑکنا۔
اشْتَعَلَ غَضَباً: غصہ سے بھڑکنا۔
اشْتَعَلَ رَأْسُهُ شَیْباً سر کے بال سفید ہونا۔
شُعْلَة: آگ کی لپیٹ، لو ج: شُعَل
مِشْعَلٌ كَهْرَبَائِیّ (بَطَّارِیَّة صَغِیْرَة): ٹارچ۔
مَشَاعِلِیّ: مشعل بردار۔
شَعَانِیْن: نصاریٰ کی ایک عید جو اتوار کے روز منائی جاتی ہے۔
شَعْوَاء: منتشر۔
حَرْبٌ شَعْوَاءُ: عمومی جنگ، زبردست جنگ۔

ش............غ

شَغَبَ ۔ شَغْباً: فساد برپا کرنا، شرارت کرنا، (کسی کے خلاف) ہنگامہ کرنا۔
شَاغَبَ مُشَاغَبَةً: کسی کے ساتھ شرارت کرنا، غنڈہ گردی کرنا۔
شَغْبٌ: فساد، بدامنی، شرارت، ہلڑبازی، ہنگامہ، شوروشر، فتنہ گری، غنڈہ گردی۔
شَغَّابٌ ومُشَاغِبٌ منادی: غنڈہ،

آفت کا پرکالا۔
مُشَاغَبَة: غنڈہ گردی، مفسدہ پردازی، ہنگامہ آرائی۔
شَغَرَ ـُـ شُغُوراً: (١) جگہ خالی ہونا، خالی ہونا (٢) لوگوں کا منتشر ہونا۔
شَاغِرٌ: خالی۔
شَاغُورٌ: آبشار۔
شَغَفَهُ ـَـ شَغْفاً: فریفتہ بنانا۔
شُغِفَ وَ انْشَغَفَ بِهٖ: گرفتار محبت ہونا، فریفتہ ہونا۔
شَغَفٌ بِشَيْئٍ: دل چسپی، لگاؤ۔
شَغَفُ و شَغَافُ القَلْبِ: دل کا غلاف
مَشْغُوفٌ بِهٖ: فریفتہ۔
شَغَلَ ـَـ شَغْلاً و شَغَّلَ: کام دینا، کام میں لگانا، مصروف بنانا۔
شَغَلَ المَنْصِبَ: عہدے پر رہنا، فائز رہنا۔
شَغَلَ الوَظِيفَةَ: آسامی پر کرنا، منصب کو پر کرنا۔
شَغَلَ و اَشْغَلَ المَكَانَ أوالوَقْتَ: جگہ یا وقت کو گھیرنا۔
شَغَلَ وشَاغَلَ: بے توجہ بنا دینا۔
شَغَّلَ تَشْغِيلاً: کام لینا، مشین چالو کرنا، اسٹارٹ کرنا۔
شَغَّلَ المُحَرِّكَ: موٹر چلانا۔
شَغَّلَ المَالَ: کسی کام میں سرمایہ لگانا۔
اشْتَغَلَ و تَشَاغَلَ بِهٖ: مشغول ہونا۔
اشْتَغَلَ قَلْبُهُ: پریشان ہونا۔
اشْتَغَلَ بِعَمَلٍ: کام میں لگنا، مصروف ہونا۔

اشْتَغَلَتِ الآلَةُ: مشین کا چالو ہونا۔
اشْتَغَلَ أوْقَاتاً إضَافِيَّةً: اوور ٹائم کرنا۔
شُغْلٌ ج: أشْغَالٌ: مشغلہ، کام، روک، مصروفیت، حالت، پیشہ۔
شُغْلُ الإبْرَةِ: ایمبرائڈری، پھول نکالنے کا کام، کشیدہ کاری۔
شُغْلُ البَالِ: دل کو مشغول کرنا۔
الشُغْلُ الشَّاغِلُ: اہم مشغلہ۔
شُغْلٌ شَاقٌّ: محنت کا کام۔
شُغْلُ يدٍ: دست کاری، ہاتھ کا بنا ہوا۔
شَغْلَة: کام، مشغلہ۔
الشَّغِيلُ: ورکر۔
شَغَّالٌ: مزدور، کارکن، قلی، کاریگر، بزی، مشغول، بے حد مصروف۔
مَشْغُولٌ: انگیج، بزی، مصروف۔
مَشْغَلٌ: ورک شاپ (٢) محتاج خانہ

ش........... ف

الشَّفْرَةُ: خفیہ تحریر، خفیہ تحریر لکھنے کا قاعدہ (٢) بلیڈ ج شَفْرَةُ الحِلاقَة بلیڈ ج شَفْرٌ و شِفَار
شَفَعَ ـَـ شَفْعاً و شَفَاعَةً و تَشَفَّعَ لَه أو فيه إلى فُلانٍ: سفارش کرنا۔
شَفَعَ الشَّيئَ: ایک چیز کو دوسری سے ملانا۔
شَفْعٌ: جوڑ، دو کا مجموعہ۔
شَفْعِيٌّ: (خلاف وِتريٌّ) جفت عدد۔
شَفَاعَة: سفارش۔
شَفَاعِيٌّ: سفارشی، سفارشانہ۔
شَفِيعٌ: وکیل، سفارشی ج: شُفَعَاءُ شَفَّفَ تَشْفِيفاً ـُـ شَفّاً: پتلا کرنا (٢) نڈھال بنا

دینا، کمزور بنانا۔
شَفَّ ـِ شُفُوفاً: پتلا اور باریک ہونا کہ دوسری طرف کی چیز نظر آئے، صاف اور شفاف ہونا۔
اشتفَّ الإناءَ: برتن کا پورا پانی پینا۔
استَشفَّ الشئَ: کسی چیز کا عیب جاننے کے لیے دیکھنا۔
شَفَّاف: باریک، پتلا، صاف شفاف۔
وَرَقٌ شَفَّاف: باریک کاغذ، ٹریسنگ پیپر۔
شَفِقَ ـَ شَفَقاً و اَشفَق عَلَيهِ: مہربانی کرنا، شفقت کرنا، ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا، کسی کی طرف سے فکر مند ہونا۔
شَفِقَ مِنَ الأمرِ: ڈرنا۔
شَفَنَ إليه ـِ شُفُوناً: کن انکھیوں سے دیکھنا۔
شَفَهَ ـَ شَفْهاً: ہونٹ پر مارنا۔
شَفَهَ ج: شِفَاهٌ: ہونٹ۔
شَفَةٌ و شَفاً: کنارہ۔
شَفَهِيٌّ و شَفَوِيٌّ: زبانی۔
اِمتِحَانٌ شَفَوِيٌّ: تقریری امتحان۔
شَفَهِيّاً، شَفَوِيّاً: زبانی طور پر۔
شَافَهَهُ مُشَافَهَةً: منہ در منہ بات کرنا، بالمشافہ گفتگو کرنا۔
شَفا: کنارہ ج: اَشفَاء
شَفَاهُ من المَرَضِ ـِ شِفَاءً: تندرستی عطا کرنا، اچھا کرنا۔
شَفِي الجُرحَ: زخم بھرنا۔
اَشفَى عَلى كذا: سامنے آنا قریب ہونا، متوجہ ہونا۔

اِشتَفَى: مراد پانا۔
تَشَفَّى و اَستَشفَى به: شفا پانا۔
تَشَفَّى من: انتقام لینا۔
شِفَاءُ الجُرحِ: اندمالِ زخم، زخم بھرنا۔
شِفَاءٌ مِنَ المَرَضِ: آرام ہونا، اچھا ہونا، افاقہ ہونا۔
شَافٍ: اطمینان بخش، (۲) شفا دینے والا۔
مُستَشفَى: ہسپتال، ہاسپٹل۔ج: مُستَشفَيات
مُستَشفَى أمرَاضٍ عَقلِيَّةٍ: دماغی امراض کا ہسپتال۔
مُستَشفَى المَجَاذِيبِ: پاگل خانہ، دیوانوں کا ہسپتال۔

ش ....ق

شَقِرَ ـَ شَقَراً: سرخ وزردی مائل ہونا، بھورے رنگ کا ہونا۔
شَقشَقَة: اونٹ کا بولنا۔
شَقشَقَةُ لِسَانٍ: فصاحت زبان۔
شَقشَقَةُ جَمَلٍ: اونٹ کے منہ سے نکلے ہوئے جھاگ ج: شَقَاشِق
هَدَرَت شِقشِقَتُه ـِ هَدراً: فصیح اللسان کی آواز گونجنا۔
شَقَفٌ، شَقَافَة: ٹھیکرا، پکی مٹی کا ٹکڑا۔
شَقَقَ و شَقَّ ـُ شَقّاً: پھاڑنا، چیرنا، چاک کرنا۔
شَقَّ بالمِنشَارِ: آرہ چلانا۔
شَقَّ تُرعَةً: نہر کھودنا۔
شَقَّ الطَّرِيقَ إلَى: راستہ بنانا، سڑک نکالنا۔
شَقَّ الأَرضَ: ہل چلانا۔

شَقَّ الأَمْرُ: دشوار ہونا۔
شَقَّ عَلَيهِ الأَمْرُ: کسی کام کو دشوار سمجھنا۔
شَقَّ الزَّرْعُ: کھیتی اگ آنا۔
شَقَّتِ السِّنُّ: دانت نکل آنا۔
شَقَّ عَصَا الطَّاعَةِ: نافرمانی کرنا۔
__ عَصَا القَوْمِ: پھوٹ ڈالنا۔
__ عَصَا الشِّقَاقِ: اختلاف ختم کرانا۔
__ النَّهارُ و انْشَقَّ: دن نکل آنا۔
شَاقَّهُ مُشَاقَّةً: مخالفت ودشمنی کرنا۔
اِنْشِقَاقٌ: پھٹنا، کریک ہونا۔
اِنْشِقَاقٌ عَنْ: نکلنا، نمودار ہونا۔
الانْشِقَاقُ الدَّاخِلِيّ: اندرونی خلفشار، پھوٹ۔
اشْتِقَاقٌ: ایک چیز کو دوسری میں سے نکالنا۔
تَشَقُّقٌ: تیڑ آجانا، پھٹ جانا۔
شَقٌّ ج: شُقُوقٌ: پھٹن، رخ، شگاف
شَقُّ القَلَمِ: قلم کا شگاف۔
شِقُّ الشَّيْءِ آدھا حصہ۔
شَقٌّ (۲): جسمانی محنت، مشقت، (۲) جنس۔
شِقُّ الرَّجُلِ: شبیہ، ہم شکل۔
شِقَّة، مَشَقَّة: دشواری، دقت۔
شُقَّة: (۱) دشوار سفر (۲) منزل، فلیٹ (۳) گوشۂ زمین، قطعہ زمین ج: شُقَق
شِقَّة (۲): مسافت، دشوار راستہ، سفر دراز۔
شُقَّةُ حِيَادٍ: غیر جانبدار علاقہ (دو ملکوں کے درمیان)۔
شُقَّةٌ سَكَنِيَّة: رہائشی فلیٹ۔
شُقَّةٌ مَفْرُوشَة: فرنیچر لگا ہوا فلیٹ۔

شَقَّة: مکان کا ایک حصہ، فلیٹ۔
شِقَاق: اختلاف، جھگڑا (ضد اِتحاد)
أَلْقَى الشِّقَاقَ بَيْنَهُمْ: لڑائی کرانا۔
شَقِيقٌ ج: أَشِقَّاءُ: سگا بھائی۔
شَقِيقُ الشَّيْءِ: آدھا حصہ
شَقِيقَة ج: شَقِيقَات: حقیقی بہن۔
شَقِيقَة (۲): آدھے سر کا درد۔
شَقِيقَة: پڑوسی (حکومت)
شَاقٌّ: دشوار، مشکل، تکلیف دہ، سخت، کٹھن
مُشْتَقَّاتُ البِتْرُولِ: پٹرول کی مختلف مصنوعات۔
مُشْتَقَّاتٌ نِفْطِيَّة: پٹرول سے بنی ہوئی چیزیں۔
شَقِيَ ـــَ شَقَاءً و شَقَاوَةً: (ضد سَعُدَ): بدبخت ہونا، نامراد ہونا، بدحال ہونا۔
شَقِيٌّ ج: أَشْقِيَاءُ: بدبخت، بدحال، نامراد، مجرم۔
شَقَاءٌ و شَقَاوَةٌ: بدبختی، نامرادی، زبوں حالی، جرم۔

ش............ک

شَكَّ ـــُ شَكًّا: شک کرنا، چوکا مارنا، نیزہ مارنا۔
شَكَّكَ تَشْكِيكًا: شک میں ڈالنا۔
شَكَّكَ فِي القُوَّاتِ: فوجوں میں بے اعتمادی پیدا کرنا۔
شَاكٌّ: شک میں مبتلا۔
شَاكُ السِّلَاحِ: ہتھیاروں سے لیس، ہتھیار بند، آمادہ جنگ۔
مُتَشَكِّكٌ: شکی مزاج۔
شَكَرَهُ وله على كذا ـــُ شُكْرًا: شکر ادا

کرنا، احسان کا اعتراف کرنا۔
تَشَکَّرَ له: شکر گزار ہونا۔
شُکراً لَکَ: آپ کا شکریہ۔
یَوْمُ الشُّکْرِ: ایک امریکن تہوار۔
شِکَارَة: (۱) نوٹس وغیرہ سینکنے کی جالی (۲) بیگ، تھیلا۔
شَکِسَ ــُـ شَکَاسَةً: بخیل ہونا۔
شَاکَسَه مُشَاکَسَةً: مخالفت کرنا، لڑنا، دشمنی کرنا۔
تَشَاکُس: باہم لڑنا۔
شَکِسٌ: بداخلاق، بخیل۔
شَکَاسَة: بدخلقی، تیز مزاجی۔
شَکَلَ الاَمْرُ ــُـ شُکُولاً و شَکَّلَ و اَشْکَلَ: پیچیدہ ہونا، مشکل وغیر واضح ہونا۔
شَکَّلَ و اَشْکَلَ: (۱) مقید کرنا (۲) کتاب پر اعراب لگانا (۳) مشکل بنا دینا۔
شَکَّلَ تَشْکِیلاً: (۱) مصوّر کرنا (۲) صورت بنانا، شکل دینا، نوعیت دینا (۳) ترتیب قائم کرنا، مرتب کرنا (۴) بنانا، پیدا کرنا۔
شَکَّلَ حُکُومَةً جَدِیْدَةً: نئی حکومت بنانا۔
شَکَّلَ اللَّجْنَة: کمیٹی بنانا، تشکیل دینا۔
شَکَّلَ لُحْمَةً: تانا تیار کرنا۔
شَکَّلَ الوِزَارَةَ: وزارت بنانا، ترتیب دینا۔
شَکَّلَ الشَّیئُ خَطَراً: خطرہ بننا، خطرہ پیدا کرنا۔
شَاکَله مُشَاکَلَةً: ہم شکل ہونا۔
شَکْلٌ: تصویر، شکل (۲) نقشہ (۳) ہیئت، اسٹائل (۴) کیفیت (۵) فیشن (۶) اعراب۔

شَکْلٌ و شَاکِلَة: نوعیت، طرز، صورت۔
شَکْلاً: ظاہر میں، بظاہر، صورت میں۔
بِشَکْلٍ مُبَاشِرٍ: براہ راست۔
بِشَکْلٍ مُقْنِعٍ: اطمینان بخش طور پر۔
عَلٰی شَکْلِ دَفَعَاتٍ: قسطوں کی صورت میں۔
شَاکِلَة: (۲) کوکھ، پہلو ج: شَوَاکِل
عَلٰی شَاکِلَتِه: اسی جیسا، اسی کے طرز پر۔
شِکْلٌ: (دَلال) ناز نخرا۔
شَکْلِیَّات: دکھاوے کی چیزیں۔
شِکَال: قید، بیڑی جو جانور کے پاؤں میں ڈالی جائے۔
شَکُولَاتَه: چاکلیٹ۔
تَشْکِیْلٌ: ترتیب، انتظام۔
تَشْکِیْلٌ بَحْرِیّ: بحری دستہ۔
تَشْکِیْلُ تَهْدِیْدٍ لِلسِّلْمِ: امن کے لیے چیلنج کرنا۔
تَشْکِیْلُ عَقَبَةٍ: رکاوٹ کھڑی کرنا۔
تَشْکِیْلُ وَحْدَةٍ وَطَنِیَّةٍ: قومی اتحاد قائم کرنا۔
تَشْکِیْلُ الخَطَرِ: خطرہ پیدا کرنا۔
تَشْکِیْلُ خَلِیَّةٍ: جتھا بنانا۔
تَشْکِیْلُ عُدْوَانٍ: دشمنی پیدا کرنا۔
تَشْکِیْلُ کَتَائِبَ فِدَائِیَّةٍ: جانباز فوج تیار کرنا۔
تَشْکِیْلُ لَجْنَةٍ لِتَحَرِّی الحَقَائِقِ: حقائق جاننے کے لیے کمیٹی بنانا۔
تَشْکِیْلُ اللَّجْنَةِ لِلتَّحْقِیْقِ: تحقیقاتی

کمیٹی بنانا۔
تَشْكِيلُ مَحْكَمَةٍ: عدالت قائم کرنا۔
تَشْكِيلُ المَصِيرِ: قسمت کا فیصلہ کرنا۔
تَشْكِيلٌ مِنَ الطَّائِرَاتِ: ہوائی جہازوں کی ٹکڑی۔
تَشْكِيلُ الوِزَارَةِ: وزارت بنانا، وزارت سازی۔
تَشْكِيلُ وِزَارَةٍ انْتِقَالِيَّةٍ: عبوری وزارت بنانا۔
تَشْكِيلُ وِزَارَةٍ ائْتِلَافِيَّةٍ مِنْ جَمِيعِ الأَحْزَابِ: وفاقی وزارت بنانا۔
تَشْكِيلُ الوَفْدِ: وفد کی تشکیل۔
تَشْكِيلَاتٌ: انتظامات، تیاریاں۔
تَشْكِيلَاتٌ مُقَاتِلَةٌ: لڑاکا دستے۔
تَشْكِيلَةٌ: مجموعہ، ٹکڑی، ماڈل، ڈیزائن، دستہ۔
تَشْكِيلَةٌ عَسْكَرِيَّةٌ: فوجی دستہ۔
مُشْكِلَةٌ: پیچیدہ مسئلہ، الجھن، دشواری، پیچیدگی، مسئلہ، پرابلم ج: مُشْكِلَاتٌ و مَشَاكِلُ
المُشْكِلَةُ الاقْتِصَادِيَّةُ: اقتصادی مسئلہ۔
المُشْكِلَةُ الرَّاهِنَةُ: موجودہ پریشانی
مُشْكِلَةٌ عَسِيرَةُ الحَلِّ: نا قابل حل مسئلہ۔
مُشْكِلَةٌ عَوِيصَةٌ تَسْتَعْصِي عَلَى الحَلِّ: پیچیدہ مسئلہ، گتھی، عقدہ لاینحل۔
مُشْكِلَةُ المَسَاكِنِ: ہاؤسنگ پرابلم۔
مُشْكِلَةٌ نَفْسِيَّةٌ: ذہنی الجھن۔

مُشْكِلَاتُ السَّاعَةِ: وقت کے مسائل۔
مَشَاكِلُ العُمَّالِ: مزدوروں کے مسائل۔
المَشَاكِلُ المُتَشَعِّبَةُ: طرح طرح کی مشکلات۔
المَشَاكِلُ المُلِحَّةُ: زبردست، مسائل، حل طلب مسائل۔
مُشَكَّلٌ: باترتیب، بااعراب۔
مشكول: بااعراب۔
مُشَكَّلَةٌ: مشابہت، یکسانیت۔
شَكَمَ ـُ شَكْماً: (۱) رشوت دینا (۲) منہ بند کرنا، منہ کو لگام دینا۔
شَكِيمَةٌ: خودداری، بڑائی۔
شَكِيمَةُ اللِّجَامِ: لگام کا لوہا۔
شَدِيدُ الشَّكِيمَةِ: انتہائی خوددار۔
شَكْوَةٌ و شَكْوَى (ج: شَكَاوَى) و شِكَايَةٌ و شَكِيَّةٌ: شکایت، کمپلینٹ۔
شَكْوَةٌ (۲): مشکیزہ، پانی کا ڈول ج: شُكِيّ
شَكَاهُ إِلَى فُلَانٍ بِكَذَا ـُ شِكَايَةً: شکایت کرنا۔
اشْتَكَى عَلَى فُلَانٍ: کسی کے خلاف شکایت کرنا۔
شَاكٍ: شکایت کرنے والا۔
شَاكِي السِّلَاحِ: ہتھیار بند۔
شَكَاةٌ: بیماری۔
مِشْكَاةٌ: دیواری انگیٹھی (۳) چراغ دان۔
مَشْكُوٌّ منه: جس کی شکایت ہو۔
شَكُولَاتَه: چاکلیٹ۔
ش .... ل

شَلَّحَ تَشْلِیحاً: برہنہ کرنا، کپڑے اتارنا (۲) لوٹنا۔
مُشَلَّح: لباس کا کمرہ، ڈریسنگ روم۔
شَلْشَلَة: پانی ٹپکنا، ٹپکانا۔
شَلَقَ ـُ شَلْقاً: پھاڑنا، چیرنا، لمبائی میں پھاڑنا، چاک کرنا (۲) کوڑا مارنا۔
شَلَلٌ: فالج، بے حرکتی، تعطل، خرابی۔
شَلَلٌ مُفَاجِئٌ: ناگہانی خرابی۔
شَلَّلَ و شَلَّ ـُ شَلّاً: بڑے بڑے ٹانکے لگانا، کشادہ سلائی کرنا۔
شَلَّ العُضوُ ـَ شَلَلاً: مفلوج ہونا، بے کار و بے حرکت ہونا۔
شَلَّ ـُ شَلّاً: بے حرکت بنا دینا، معطل کرنا، منجمد کرنا۔
شَلَّ الارَادة: قوت ارادہ ختم کرنا۔
شَلَّ الحرَكَةَ: چہل پہل ختم کرنا، نقل و حرکت مفلوج کرنا۔
شَلَّ فَاعِلِیَّةَ اَحَد: قوت عمل ختم کرنا۔
شَلَّ فَاعِلِیَّةَ الشَّیئِ: غیر موثر بنانا۔
شَلَّ القُوَّةَ: طاقت ختم کرنا۔
شَلَّ نَشَاطَ الحَیَاة: زندگی کی نقل و حرکت معطل کرنا۔
شَلَّة: قصد۔
شَلَّالٌ ج: شَلَّالات: آبشار۔
شِلَالَة: کچی عارضی سلائی، کشادہ سلائی۔
اَشَلُّ، مَشْلُولٌ: فالج زدہ، بیکار، معطل، بے حس۔
شِلِن: (مع) شلنگ (ایک انگریزی سکہ = ۱/۲۰ اسٹرلنگ پونڈ) ج: شِلِنات
شِلْوٌ ج: اَشْلاء: عضو، حصہ، جسم۔
شَلَا ـُ شَلْواً: بلند کرنا۔

ش .... م

شَمِتَ ـَ شَمَاتاً و شَمَاتَةً: کسی کی مصیبت پر خوش ہونا۔
شَمَاتَة: دشمن کی خوشی۔
شَمَخَ ـَ شُمُوخاً: بلند ہونا۔
شَمَخَ بِأَنْفِه: ناک چڑھانا، بڑائی میں آنا۔
شَمَخَ الشَّیئُ اِلٰی عَنَانِ السَّمَاءِ: آسمان سے باتیں کرنا۔
تَشَامَخَ: تکبر کرنا۔
شُمُوخ: بلندی۔
شَامِخ: بلند ج: شُمَّخ م: شَامِخَة ج: شَوَامِخ
شَامِخ و مُتَشَامِخ: مغرور، متکبر،
شَمَّاخ: مغرور، نک چڑھا۔
شَمَرَ ـُ شَمْراً: تیزی سے گزرنا، اکڑ کر چلنا، پیچھے ہٹانا، سکڑ جانا، سکیڑنا۔
شَمَرَ و شَمَّرَ کُمَّهُ: آستین چڑھانا۔
شَمَّرَ عَنْ سَاقِه: پائچہ چڑھانا۔
شَمَّرَ عَنْ سَاعِدِه: تیار ہونا، آستین چڑھانا۔
شِمِرٌّ و شِمَّرِیٌّ: آزمودہ کار، چالاک۔
شَمَزَتْ نَفْسُه منه ـُ شَمْزاً و اشْمَأَزَّتْ: نفرت کرنا، تنفر ہونا، ناگواری کا اظہار کرنا۔
اِشْمِئْزَاز: نفرت، ناگواری۔
بِاشْمِئْزَاز: ناگواری سے۔
تَشَمَّزَ وَجْهُه: چہرہ پر شکن پڑ جانا۔

شَمَسَ ـُ شُمُوساً و شِمَاساً: ہٹ کرنا، انکار کرنا۔
شَمِسَ ـَ الیَومُ شَمَساً: دن کا روشن ہونا، آفتاب نکلا ہوا ہونا۔
شَمَّسَ تشمِیساً: دھوپ دینا، دھوپ میں رکھنا۔
تَشَمَّسَ: دھوپ لینا، دھوپ میں کھڑا ہونا، دھوپ میں ہونا۔
شَمسٌ: آفتاب ج: شُمُوس
شَمسٌ و شَمِسٌ: دھوپ نکلا ہوا دن۔
شَمسِیٌّ: آفتابی۔
التَصوِیرُ الشَّمسِیّ: فوٹوگرافی۔
صُورَةٌ شَمسِیَة: عکسی فوٹو۔
سَاعَةٌ شَمسِیَّة: دھوپ گھڑی۔
شَمَّاس: خادم کنیسہ ج: شَمَامِسَة شَامِس،
شَمُوس: ضدی، ہٹی، ایک جگہ جم کر کھڑا ہونے والا۔
مَشمَسَة: وہ جگہ جہاں دھوپ آئے یا دھوپ حاصل کی جائے۔
شَمِطَ شَعرُہ ـَ شَمَطاً: سر کے بالوں کا سیاہ وسفیدی مائل ہونا۔
شَمَطَ ـُ شَمطاً: خلط ملط کرنا، ملانا۔
شَمَّعَ تَشمِیعاً: موم چڑھانا، کپڑے پر پالش کرنا۔
شَمعٌ ج: شُمُوع: موم
شَمعٌ اَحمَرُ: لاکھ جس سے مہر لگائی جائے۔
شَمعَة: موم بتی۔
شَمَّاع: شمع فروش، شمع ساز۔
شَمَّاعَةُ المَلابِس: کپڑے لٹکانے کا ہک یا اسٹینڈ۔
مُشَمَّع: موم دار، موم کی پالش کیا ہوا۔
مُشَمَّعُ الفَرش، قُمَاشٌ مُشَمَّعٌ: آئل کلاتھ، پالش کیا ہوا، چکنا کپڑا۔
مُشَمَّعٌ طِبِّیّ: کورٹ پلاسٹر۔
اِشمَعَلَّ: جوش پر آنا، جنگ کا تیز ہونا۔
شَمِلَ ـَ شَملاً و شُمُولاً: عام ہونا، عادی ہونا۔
شَمِلَ و اشتَمَلَ علي: مشتمل وحاوی ہونا۔
شَمْلٌ: اتحاد (۲) مجتمع چیز (۳) متفرق چیز، شیرازہ۔
جَمعُ الشَّمل: شیرازہ بندی، متحد کرنا۔
تَشَتُّتُ الشَّمل: شیرازہ بکھرنا۔
تَشتِیتُ الشَّمل: شیراز بکھیرنا۔
شَملَة ج: شَمَلات: چادر، عباء۔
شُمُول: عموم، جامعیت۔
شُمُولِیّ: ہمہ گیر۔
شَامِل: عام، جنرل، جامع، کامل، مکمل، ہمہ گیر، ہمہ جہتی، وسیع تر، وسیع پیمانہ پر۔
مَشمُولٌ بِرِعَایَة: زیر سرپرستی۔
مُشتَمَلات: مندرجات۔
شِملَّة: تیز رفتار اونٹنی۔
شَمَّلَ الرَّجُلُ تَشمِیلاً: جلدی کرنا۔
شَملَلَة: جلدی کرنا۔
شَمَّمَہٗ تَشمِیماً و اَشَمَّہٗ: سونگھانا۔
شَمَّ ـُ شَمّاً و اشتَمَّ: سونگھنا۔
شَمَّ ـُ شَمَماً: تکبر کرنا۔
تَشَمَّمَ الاَخبَار: خبریں فراہم کرنا۔
شَمٌّ و شَامَّة: سونگھنے کی قوت۔

شَمِّیٌ: سونگھنے کا۔
شَمَمٌ: غرور، تکبر، ابھار۔
شَمَّام: خربوزہ۔
شَمَّامَةُ مِصْبَاحِ الْبِتْرُوْل: لمپ کا برنر، لال ٹین کا کلا۔
شَمَّامَةُ مِصْبَاحِ الغاز: گیس منٹل، گیس کی جالی۔
اَشَمُّ ج، شُمٌّ: نک چڑھا، خوددار۔
مَشْمُوم ج: مَشْمُومَات: خوشبو، مشک، سونگھنے کی چیزیں۔

ش............ن

شَنَبٌ: دانتوں کی خوبصورتی، صفائی۔
شَنِجَ ـَ شَنَجاً و تَشَنَّجَ: اعضائے جسم کا سکڑ جانا، اینٹھنا۔
شَنَطَ ـُ شَنْطاً: باندھنا، گرہ دینا۔
شَنْطَة: بیگ، تھیلا، بستر بند ج: شَنطات
شَنْطَةٌ جِلْدِيَّة: اٹیچی۔
شَنْطَةٌ سَفَرٍ: سوٹ کیس۔
شَنْطَةٌ لِلْاَوْرَاق: بریف کیس۔
شَنْطَةٌ يَدٍ: ہینڈ بیگ۔
شَنِيْطَة (اُنْشُوْطَة): گرہ۔
شَنُعَ ـُ شَنَاعَة: (۱) انسان یا فعل کا برا ہونا (۲) بدصورت ہونا۔
شَنَّعَ عليه تَشْنِيعاً: مذمت کرنا، بدگوئی کرنا۔
شَنِيع: برا، بدشکل، وحشت ناک، بھیانک۔
شُنْعَة: برائی، بدشکلی۔
شَنَّفَ اِلَيْهِ تَشْنِيفاً: گوشہ چشم سے دیکھنا، اعتراض واستعجاب کی نظر سے دیکھنا۔
شَنَّفَ الجارية: بالیاں پہنانا۔
شَنْفَ ج: اَشْنَاف و شُنُوف: بالی، کان کا زیور۔
شَنَقَ ـُ شَنْقاً: پھانسی دینا، پھانسی پر چڑھانا۔
شَنَق: رسی، پھندا جو گلے میں ڈالا جائے۔
مِشْنَقَة: سولی یا پھانسی کی ٹکٹکی۔
مَشْنَق، مَشْنَقَة: پھانسی کی جگہ، تختہ دار۔
الشَّنِيل: شنل، ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔
شَنَّ و اَشَنَّ الغارَةَ علی: یورش کرنا، ہلہ بولنا، ہر طرف سے حملہ کرنا۔
شَنُّ الحَرْب: لڑائی شروع کرنا، جنگ چھیڑنا۔
شَنُّ حَمْلَةٍ شَامِلَةٍ: زبردست مہم چلانا، ہمہ گیر مہم چلانا۔
شَنُّ حَمْلَةٍ شَيْءٍ: مہم چلانا۔
شَنُّ غَارَاتٍ فِدَائِيَّةٍ على اَحَدٍ: گوریلا حملے کرنا۔
شَنُّ الهُجُوْمِ علی: حملہ کرنا، یورش کرنا
شَنُّ هُجُوْمٍ كَبِيْرٍ: بڑا حملہ کرنا۔

ش............ہ

شَهَبٌ، شُهْبَة: سفیدی آمیز سیاہی۔
شِهَابٌ ج: شُهُبٌ: ستارہ (۲) شہاب، نیزک (۳) آتشیں تیر۔
شَهِدَ المَجْلِسَ ـَ شُهُوْداً: حاضر ہونا، شریک ہونا۔
شَهِدَتِ المَدِيْنَةُ كذا: فلاں بات شہر میں ہوئی یا پیش آئی۔
شَهِدَتِ المَمْلِكَةُ التَّطَوُّرَاتِ: مملکت میں ترقیاں ہوئیں۔
شَهِدَتِ المَدِيْنَةُ مُؤْتَمَراً: شہر میں کانفرنس ہوئی۔
شَهِدَتِ العَالَمُ حَمْلَةً سِيَاسِيَّةً: پوری دنیا

میں سیاسی مہم چلی۔
شَہِدَ المَکانُ کذا: کسی جگہ پر کوئی چیز وقوع پذیر ہونا۔
شَہِدَتِ الاَرضُ حادِثَۃً: زمین پر حادثہ پیش آنا۔
شَہِدَ له بکذا ـ شَہادَۃً: گواہی دینا، اقرار کرنا، گواہ ہونا۔
شَہِدَ بشَہادَۃٍ خطِیَّۃ: سارٹیفکٹ دینا۔
شَہِدَ لِفُلان: کسی کی موافقت میں گواہی دینا۔
شَہِدَ علی: کسی کے خلاف گواہی دینا۔
شَہِدَہٗ ـــ شُہوداً و شاھَدَہ: واقف ہونا، دیکھنا۔
اِستَشہَدَ بِقَولٍ: دلیل کے طور پر بیان کرنا۔
اُشہِدَ و اسْتُشہِدَ: شہید ہونا۔
شُہْدٌ: شہد ج: شِہاد
شَہادَۃ: اقرار، گواہی، تصدیق۔
شَہادَۃ: تصدیق نامہ، سارٹیفکیٹ، سند۔ڈپلوما، ریکارڈ، ثبوت ج: شَہادات
شَہادَۃٌ اِبتِدائیۃ: پرائمری سرٹیفکیٹ۔
شَہادَۃُ اِخلاءِ طَرَفٍ: ڈسچارج سرٹیفکیٹ۔
شَہادَۃُ اِیْداعٍ: ڈپازٹ سرٹیفکیٹ۔
شَہادَۃُ اِیْداعٍ من البَنک: بینک ڈپازٹ سرٹیفکیٹ۔
شَہادَۃُ برَصِیدِ الاَسْہُم: بیلنس ٹکٹ۔
شَہادَۃُ تَسْجِیلٍ: رجسٹریشن سرٹیفکیٹ۔
شَہادَۃُ تَفْتِیشٍ: چیکنگ سرٹیفکیٹ۔
شَہادَۃُ تَقْدِیرٍ: حسن کارکردگی کا سرٹیفکیٹ۔
شَہادَۃُ حُسْنِ السِّیرَۃِ والسُّلُوکِ: کیرکٹر سرٹیفکیٹ، اخلاقی سرٹیفکیٹ۔
شَہادَۃُ حُضُورٍ: حاضری سرٹیفکیٹ۔
شَہادَۃُ خُلُوِّ طَرَفٍ: ڈسچارج سرٹیفکیٹ۔
شَہادَۃُ سَوابِق: ریکارڈ سرٹیفکیٹ۔
شَہادَۃٌ صِحِّیَّۃٌ: ہیلتھ سرٹیفکیٹ۔
شَہادَۃٌ طِبِّیَّۃٌ: میڈیکل سرٹیفکیٹ۔
شہادۃ عَالِیَۃ: (اجازۃ، ڈپلوما، سند فراغت)
شَہادَۃٌ عِلْمِیَّۃٌ: ڈگری۔
الشَّہازۃُ علی صِحَّۃِ شئٍ: صحت کی تصدیق۔
الشَّہادَۃُ الفَخْرِیَّۃُ: اعزازی ڈگری۔
شَہادَۃُ قَرضٍ: لون سرٹیفکیٹ، قرض کا سرٹیفکیٹ۔
شَہادَۃٌ کِتابِیَّۃٌ: تحریری سرٹیفکیٹ۔
شَہادَۃُ المُحامَاۃ: وکالت کا سرٹیفکیٹ۔
شَہادَۃٌ مَدرَسِیَّۃٌ: اسکول سرٹیفکیٹ۔
شَہادَۃُ مُرُورٍ: ٹریفک پاس۔
شَہادَۃُ مَقْدِرَۃٍ فَنِیَّۃ: فنی صلاحیت کا سرٹیفکیٹ۔
شَہادَۃُ المَولِد أو المِیلاد: برتھ سرٹیفکیٹ۔
شَہادَۃُ نَفیٍ: انکاری گواہی۔
شَہادَۃُ الوَفاۃ: ڈیتھ سرٹیفکیٹ۔
الشَّہاداتُ التَّقْدِیرِیَّۃ: اعزازی سندیں۔
شَہاداتٌ عَالِیَۃ: اعلیٰ ڈگریاں۔
اِشْہادٌ: تصدیق۔
اِسْتِشْہاد: (۱) شہادت، راہ خدا میں موت (۲) استدلال (۳) گواہی دینا۔
شَاہِدٌ: (۱) گواہ (۲) دیکھنے والا ج: شُہُود و اُشْہاد (۳) دلیل ج: شَواھِد شَاہِدُ عَینٍ أو عِیانٍ: عینی گواہ، چشم دید گواہ۔
شَاہِدَۃ: کاغذ وغیرہ کی نقل، رسید کا ٹھنی۔

الشَّاهِدَة : زمین (۲) رجسٹر مراسلات جس میں ارسال کردہ خطوط کی نقول محفوظ رکھی جاتی ہیں۔
وَرَقُ الشَّاهِدَة : کاربن پیپر، نقل کرنے کا مخصوص کاغذ۔
شُهُودُ العِيَان: عینی شاہد، چشم دید گواہ
شُهُودُ الإِثْبَات: ثبوت کے گواہ۔
شَوَاهِدُ تَارِيخِيَة: تاریخی حوالے، ثبوت۔
مَشْهَدٌ ج: مَشَاهِد : (۱) اجتماع (۲) جلوس (۳) منظر، سینری۔
مَشْهَدٌ جَمِيلٌ: شاندار سینری۔
مُشَاهَدَة: دیکھنا۔
مُشَاهَدٌ: آنکھوں دیکھا۔
مَشْهُود: لائق ذکر۔
المَشْهُودُ لَه: تصدیق شدہ۔
اليَوْمُ المَشْهُود: قیامت کا دن۔
شَهَرَه ــ شَهْراً و شُهْرَةً: مشہور کرنا، ذکر کرنا، شائع کرنا۔
شَهَرَ الحَرْبَ: اعلان جنگ کرنا۔
شَهَرَ السَّيْفَ: تلوار سونتنا۔
شَهَرَ البُنْدُقِيَةَ فى وَجْهِ أَحَدٍ: کسی پر بندوق تاننا، بندوق کا نشانہ بنانا۔
شَهَّرَ به تَشْهِيراً: ملامت کرنا، عیب بیان کرنا۔
شَاهَرَه مُشَاهَرَةً: ماہانہ اجرت پر رکھنا (۲) ماہانہ کرایہ پر لینا یا دینا۔
اشْتِهَار: مشہور ہونا، شائع ہونا۔
شَهْرُ العَسَل: شادی کا ابتدائی مہینہ، خوشگوار ایام، ہنی مون۔
الشَّهْرُ المُقْبِل: آئندہ ماہ۔
بِشَهْرٍ مُسْبَقٍ: ایک مہینہ پہلے۔
شَهْرِيّ: ماہانہ۔
شَهْرِيّاً: ماہ بماہ۔
إِشْهَار: اعلان۔
إِشْهَارٌ بالإِفْلاس: دیوالیہ ہونے کا اعلان۔
شَهَقَ ــ شَهِيقاً: گدھے کا بولنا۔
شَهَقَ الرَّجُلُ: گھٹا ہوا سانس لینا، ٹھنڈا سانس لینا (ضد زَفَر) (۲) چیخنا۔
شَهِيق: (۱) گدھے کی آواز (۲) رونے کی وجہ سے گھٹا ہوا سانس۔
شَهْقَة: چیخ۔
شَاهِق: بلند۔
عُلُوٌّ شَاهِقٌ: زبردست بلندی۔
شَهَمَ ــ شَهْماً: ڈانٹنا۔
شَهْمٌ: روشن ضمیر، شریف خوددار۔
شَهَامَة: (ک) نخوت، خودداری، شرافت، روشن ضمیری۔
شَهْوَة، شَهِيَّة: خواہش طعام، خواہش، رغبت، جذبہ ج: شَهَوَات
شَهْوَةُ انْتِقَام: جذبہ انتقام۔
إِمَاتَةُ الشَّهَوَات: خواہشات کو کچلنا۔
شَهِيَ ــ و شَهَا ــ شَهْوَةً : خواہش کرنا، راغب ہونا۔
اشْتِهَاء: خواہش کرنا، دل چاہنا۔
شَهّى تَشْهِيَة: رغبت دلانا، مرغوب بنانا۔
لا يُشْتَهَى: نامرغوب۔

شَهْوَان، شَهْوَانِيّ: خواہش پرست، لالچی، طماع۔
شَهِيّ، مُشْتَهًى، مَشْهِيّ: مرغوب، مقبول۔
اَشْهَى: مرغوب ترین۔
مُشَهٍّ: شہوت انگیز۔

ش .... و

شَابَ ـُـ شَوْباً: (۱) ملانا (۲) خراب کرنا۔
شَائِبَة ج: شَوَائِبُ: عیب، ملاوٹ، آمیزش، اثر، آفت۔
مَشُوْب: ملاوٹ کا، مخلوط، غیر خالص۔
مَشُوْبٌ بالحَذَر: احتیاط آمیز۔
شَوَّحَ تَشْوِيْحاً: انکار کرنا۔
شَوَّحَ اللَّحمَ على النَّار: گوشت کو آگ پر بھونتا۔
شَوَّرَ و أَشَارَ إلى: اشارہ کرنا۔
شَوَّرَ و أَشَارَ: سگنل دینا، اشارہ دینا۔
شَوَّرَ وشَارَ الدَّابَّةَ ـُـ شَوْراً: جانور پر بطور تجربہ سواری کرنا۔
شَارَ العَسَلَ ـُـ شَوْراً: شہد نکالنا۔
اَشَارَ إلى: بتانا، رہنمائی کرنا۔
اَشَارَ إلى: حوالہ دینا۔
اَشَارَ عليه: مشورہ دینا، نصیحت کرنا۔
شَاوَرَ و تَشَاوَرَ و اسْتَشَارَ مَعَ: مشورہ کرنا۔
شَارَة ج: شَارَات: علامتِ عہدہ، نشانِ خاص، علامت۔
اِشَارَة: مشورہ، رہنمائی، تجویز (۲) سگنل، مارک۔
اِشَارَةُ بَرْقِيَّة: ٹیلیگرام۔
رَهْنُ اِشَارَتِهِ: اشارہ کا پابند، تابع، فرمانبردار۔
اِشَارَةٌ بالأَنْوار: سگنل لائٹ۔
اِشَارَةُ سِكَّةِ الحَدِيْد: ریلوے سگنل۔
كُشْكُ الاِشَارَات (فی سِكَّةِ الحَدِيْد): ریلوے سگنل بکس۔
أَشَرْجِيّ: (مُلَوِّح، عَامِلُ الإشَارَات): سگنل مین (مع)۔
فِي إِشَارَةٍ إلى كَذَا: کسی چیز کا حوالہ دیتے ہوئے۔
اِسْتِشَارَة: مشورہ، مشورہ لینا، صلاح کاری۔
اِسْتِشَارِيّ: مشیر، شورائی۔
مُسْتَشَار: مشیر، ایڈوائزر۔
المُسْتَشَارُ الصَّحَفِيّ: صحافتی مشیر، پریس اتاچی۔
مُسْتَشَارٌ فَنِّيّ: ٹیکنیکل ایڈوائزر، فنی مشیر۔
مُسْتَشَارٌ مَالِيّ: مالی مشیر۔
مُسْتَشَارٌ مَلَكِيّ: شاہی مشیر۔
مُشِيْر: رہنما، ناصح، رہبر، ایڈوائزر۔
المُشِيْر: فیلڈ مارشل، ایک بڑا فوجی عہدہ
المُشَارُ إلَيْه: مذکورہ بالا۔
شَوَّشَ الاَمْرَ تَشْوِيْشاً: الجھن پیدا کرنا، پریشانی میں مبتلا کرنا، خلل ڈالنا، گڑبڑی پیدا کرنا۔
تَشَوَّشَ: الجھن پیدا ہونا، خلل پڑنا۔
شَاش: باریک کپڑا۔
شَاشَة ج: شَاشَات: پردہ۔
الشَّاشَةُ البَيْضَاءُ: پردۂ سیمیں، وہ پردہ جس پر متحرک تصویریں دکھائی جاتی ہیں۔

شَاشَةُ التِلْفَاز: ٹیلیویژن اسکرین۔
شَاشَةُ التِلِفِزْيُون: ٹیلیویژن اسکرین۔
شَاشَةُ الرَّادْيُو: ریڈیو اسکرین۔
شَاشَةُ السِّينَمَا: فلم اسکرین۔
شَاوِيش: سارجنٹ، دس سپاہیوں کا افسر۔
مُشَوَّش: قابلِ تشویش، غیر منظم، خراب
مُشَوَّشُ الفِكر: پریشان خاطر۔
شَوَّطَ تَشْوِيطاً: لمبا سفر کرنا۔
شَوطَ ج: أَشْوَاط: (۱) مسافت (۲) چکر، راؤنڈ (۳) حصہ، بازی (۴) مقصد، حاجت۔
شَوطٌ فِي الحَلْبَةِ: دوڑ کے میدان کا ایک چکر۔
شَوَّفَ تَشْوِيفاً: مزین کرنا (۲) دکھانا۔
شَافَ ـُ شَوْفاً: چمکانا، پالش کرنا، (۱) دیکھنا۔
تَشَوَّفَ إلى: تاک لگانا، نگاہیں لگائے رکھنا۔
شَوْف: نگاہ (۲) دندانے دار سراون۔
شَائِفٌ: دیکھنے والا۔
شَوَّقَهُ وشَاقَهُ ـُ إلى: شوق دلانا، مشتاق بنانا۔
اشْتَاقَ الشئَ وإليه: مشتاق ہونا، دل چاہنا۔
اِشْتَاقَ إلى رُؤيَتِهِ: آنکھیں ترسنا۔
شَوْق: اشتیاق، دلچسپی۔
شَائِق: دلچسپ۔
مُشْتَاق: عاشق، محب۔
شَوَّكَ الشجرَ تشويكا: کانٹے دار ہونا۔

شَوَّكَ الحَائِطَ وغَيْرَه: کانٹے لگانا (۲) کانٹوں والا بنانا۔
شَوْك: ر نٹا و: شَوْكَة
شَوْكَة: (۱) ایک کانٹا (۲) ابھری ہوئی نوک (۳) طاقت (۴) رعب و دبدبہ (۵) آل پن۔
شَوْكَةُ الأَكلِ: کھانے کا کانٹا۔
شَوْكَةُ السَّمَكِ: مچھلی کا کانٹا۔
شَوْكَةُ العَقْرَبِ: بچھو۔
شَائِكٌ، شَوِكٌ: خاردار۔
سِلْكٌ شَائِكٌ: خاردار تار۔
شَوْكِيّ: کانٹوں دار۔
الحَبْلُ الشَوْكِيّ: کانٹوں دار رسی۔
شَالَ ـُ شَوْلاً و شَوَلاناً: بلند ہونا، اوپر اٹھنا۔
اِشَالَة: بلند کرنا، اٹھوانا۔
اِشَالَةُ الجُثَّة: لاش اٹھانا۔
شَالٌ: (كُوفِيَّة) رومال جو سر اور مونڈھوں پر ڈالا جائے، مفلر (۲) شال ج: شِيلان
شَالِيَة: (دا) گملا۔
شِوَال: بیگ، تھیلا، بوری۔
مِشْوَل: چھوٹی درانتی۔
شَوَّنَ الغِلالَ: غلہ گودام میں بھرنا۔
شُونَة: غلہ کا گودام: ج شُوَن
شُونَة: اسٹور روم، اسٹور ہاؤس (۲) شیڈ، سایہ، سائبان۔
شَوَّهَ تَشْوِيهاً: صورت بگاڑنا، مسخ کرنا، خراب کرنا۔
شَوِهَ ـَ شَوَهاً و تَشَوَّهَ الوَجْهُ: چہرہ کا

بگڑنا،صورت مسخ ہونا۔
تَشَوُّهُ المَعَالِم: خدوخال خراب ہونا۔
تَشْوِيْهُ الحَقَائِق: حقائق کومسخ کرنا۔
تَشْوِيْـهُ الخُلق :بدنام کرنا،شہرت کو بٹہ لگانا،شہرت کو بگاڑنا۔
تَشْوِيْهُ السُّمْعَة: بدنام کرنا،شہرت کو بٹہ لگانا،شہرت کو بگاڑنا۔
أَشْوَهُ، مُشَوَّهٌ: مسخ شدہ،بگڑا ہوا۔
شَاةٌ: بکری ج: شِيَاهٌ
شَوَى ـِـ شَيًّا: بھوننا۔
شِوَاء، شَوِيّ: بھنا ہوا گوشت،روسٹ،
شَوَّاء: روسٹر۔
شَوَّايَة، مِشْوَاة: بھوننے اور سینکنے کا آلہ،سلاکس وغیرہ سینکنے کی جالی، کڑچھا، فرائی پن، روسٹر۔
شَوَاة: سر کی کھال۔

ش.........ی

شَيْءٌ: چیز (۲) کچھ ج: أَشْيَاء
شَيْئاً فَشَيْئاً: آہستہ آہستہ،بتدریج۔
شَاءَ ـَـ شَيْئاً و مَشِيْئَةً: ارادہ کرنا۔
شَيَّبَ و أَشَابَ: بوڑھا کرنا،بال کا سفید کرنا۔
شَابَ ـِـ شَيْباً: بالوں کا سفید ہونا،بوڑھا ہونا۔
شَيِّبٌ مَشِيْبٌ: سفید (بالوں کی صفت) سفید بالوں والا (انسان کی صفت)
شَيْتٌ: چھینٹ،رنگین ومنقش کپڑا۔
شَاحَ ـِـ شَيْحاً: کوشش کرنا۔
أَشَاحَ عَنْهُ: منہ پھیر لینا،اعراض کرنا۔
شَيَّخَ الرَّجُلُ و شَاخَ ـِـ شَيْخُوخَةً بوڑھا ہونا۔
شَيَّخَ الرَّجُلَ تَشْيِيْخاً :بوڑھا بنانا (۲) سردار اور بڑا بنانا۔
شَيْـخٌ :(۱) بوڑھا،عمر رسیدہ (۲) سردار،امیر جماعت یا قبیلہ کا بڑا (۳) گاؤں کا چودھری۔
شَيْخُ النَّار: شیطان،سردارِ جہنم۔
شَيْخَة: عمر رسیدہ عورت۔
شَيْخُوخِيّ: بڑھاپے سے متعلق۔
اِرْتِعَاشٌ شَيْخُوخِيٌّ: بڑھاپے کا رعشہ۔
مَشْيَخَة: چھوٹی ریاست جس کا سربراہ شیخ کہلاتا ہے۔
مَشَائِخُ طُرُق: صوفیاء کرام۔
شَيَّدَ تَشْيِيْداً: تعمیر کرنا،مضبوط کرنا۔
شَادَ ـِـ شَيْداً: عمارت بنانا (۲) پختہ کرنا (۳) دیوار پر پلاسٹر کرنا (۴) ہلاک ہونا۔
أَشَادَ بِذِكْرِه: تعریف کرنا۔
أَشَـادَ بِشَيْءٍ: سراہنا،خراج تحسین ادا کرنا،داد دینا۔
شِيْد: پلاسٹر،چونا گچ وغیرہ۔
مُشَيَّد: پختہ،مضبوط۔
شَيْرَج: تلوں کا تیل۔
شِيْرَةُ الحَلْوَى: (دا) مٹھائی کا شیرہ۔
شِيْشَةُ التَّدْخِين: حقہ۔
شَيَّطَ تَشْيِيْطاً و أَشَاطَ: جلانا،بھڑکانا۔
شَاطَ ـِـ شَيْطاً و تَشَيَّطَ :جلنا،بھڑکنا، مشتعل ہونا۔
اِسْتَشَاطَ غَضَباً: غصہ سے آگ بگولا

ہونا، آپے سے باہر ہونا، اشتعال پیدا ہونا، بھڑکنا۔
شَیَّعَ تَشْیِیعاً: رخصت کرنا، ساتھ چلنا، جنازہ کے ساتھ چلنا (۲) روانہ کرنا۔
شَاعَ الخَبَرُ ــِ شُیُوعاً: پھیلنا۔
شَاعَ بِالخَبَرِ ــِ شَیعاً و اَشَاعَ: پھیلانا۔
اَشَاعَ الاِضْطِرَابَ: افراتفری پھیلانا۔
شَایَعَہ مُشَایَعَةً: ساتھ ساتھ چلنا۔
تَشَیَّعَ لَهٗ: کسی کے گروہ میں شامل ہونا۔
شِیْعَةٌ ج: شِیَعٌ: فرقہ، گروہ، جماعت۔
شِیعَةُ الرَّجُل: متعلقین، حمایتی، اعوان و انصار۔
شُیُوع: اشاعت، رواج۔
عَلَى الشُیُوع، بِالشُیُوع: مشترک، مشترک طور پر۔
شُیُوعِیّ: کمیونسٹ۔
الشُّیُوعِیَّة: کمیونزم۔
شَائِع، مُشَاع: (۱) عام، جنرل (۲) مشترک (۳) مشہور، رائج۔
بِالمُشَاع: مشترکہ۔
شَائِعَةٌ ج: شَائِعَات: افواہ۔
الشَّائِعَاتُ المُنتَظِمَة: منصوبہ بند افواہیں۔
إشَاعَة: افواہ، غلط خبر ج: إشَاعَات
اِنْتِشَارُ الإشَاعَة: افواہ پھیلنا۔
تَشَیُّع: فرقہ بندی، گروہ بندی۔
مُتَشَیِّع: فرقہ بند، گروہ بند۔

شِیک: چیک (روپے کا) ج: شِیکَات
شِیکُ الإذَاعَة: ریڈیو سے ملا ہوا چیک۔
شِیکٌ بِلاَرَصِید: بلا بینک بیلنس چیک۔
شِیکٌ علی بَیَاض: سادہ چیک۔
شِیکٌ علی مَصْرِف کذا: کسی بینک کے نام کا چیک۔
شِیکٌ لِحَامِلِه: بیرر چیک۔
شِیکٌ مَرْفُوض: نا قابل قبول چیک۔
شِیکٌ مُزَوَّر: جعلی چیک۔
شِیکٌ مُسَطَّر: کراس چیک۔
شِیکٌ مُصَدَّقٌ علیه: مصدقہ چیک۔
شِیکٌ مَصْرِفِیّ: بینک چیک۔
شِیکٌ مَضَتْ مُدَّتُهُ: آؤٹ ڈیٹ چیک، اسٹال چیک۔
شِیکَاتٌ دَاخِلِیَّة: ملکی چیک۔
شِیکَاتٌ لِلدَّفع: قابل ادائگی چیک۔
شِیمَة ج: شِیَم: عادت۔
شَیَمَ: (ض) روشنی کی طرف دیکھنا۔
شَین: عیب (ضد زَین) (۲) شرم، عار۔
شَانَه ــِ شَیناً: عیب لگانا، بدزیب کرنا۔
شَائِن: عیب دار، معیوب (۲) برا، قابل مذمت۔
شَای: چائے، چائے کی پتی۔
شَایٌ بَائِتٌ: رکھی ہوئی چائے۔
شَایٌ خَفِیفٌ: ہلکی پتی کی چائے۔
شَایٌ قَوِیٌّ: تیز پتی کی چائے، اسٹرانگ ٹی۔
غُلاَیَةُ الشَّای: دم دی ہوئی چائے۔
إبْرِیقُ الشَّای: چائے دان۔
حَفْلَةُ الشَّای: ٹی پارٹی۔

ص

ص ....ا

صَالَة، صَالُوْن : بڑا کمرہ، ہال، کمرہ استقبال، برآمدہ، دعوت ہال ج: صَالَات

صَالَةُ الاِنْتِظَار: ویٹنگ روم۔

صَالَةُ البَيعِ بِالمَزَاد: نیلام گاہ، ہراج خانہ۔

صَالَةُ الرَّقْص: ڈانسنگ ہال، رقص گاہ

صَالَةُ العَرْض (فی المَتْجَر): شوروم۔

ص ....ب

صَبَأَ ــَـ وصَبُؤَ ــُـ صَبْأً و صُبُوءًا: ترک مذہب کرنا، ایک دین کو چھوڑ کر دوسرا اختیار کرنا۔

صَبَأَ السِّنُّ او النَّبَاتُ : دانت یا نبات کا اگنا۔

صَبَبٌ: ڈھلان، اتار، ڈھال، نشیب۔

صَبَّ ــُـ صَبًّا: پانی ڈالنا، بہانا (۲) سانچے میں ڈھالنا۔

صَبَّ نِقْمَتَه علی فُلان: کسی پر غصہ اتارنا۔

صَبَّ النَّهْرُ فی البَحْرِ ــِـ صَبِيباً: نہر کا دریا میں گرنا۔

صَبَّ بِه ــَـ صَبَابَةً: عاشق ہونا۔

اِنْصَبَّ: بہنا، پانی گرنا۔

اِنْصَبَّ علی: نازل ہونا، لازم ہونا۔

تَصَبَّبَ العَرَقُ مِنْهُ: پسینہ ٹپکنا۔

صَبٌّ: عاشق، فریفتہ، ج: صَبُّون

صَبَابَة: فریفتگی، عشق۔

صَبِيبٌ، مَصْبُوبٌ: ڈالا ہوا، بہایا ہوا۔

صَبِيبٌ (۲): خون، پسینہ۔

مَصَبٌّ: نہر کے گرنے کی جگہ۔

صَبُحَ الوَجْهُ ــُـ صَبَاحَةً: چہرہ کا روشن و چمک دار ہونا۔

صَبَّحَ الرَّجُلُ: صبح کو آنا۔

أَصْبَحَ الرَّجُلُ: صبح میں داخل ہونا۔

أَصْبَحَ الحَقُّ: حق ظاہر ہونا۔

أُصْبَحَ (۲): (بمعنی صَارَ): ہوگیا۔

أَصْبَحَ الشَّيْءُ فی صَالِحِ أَحَدٍ: مفاد میں ہونا۔

أَصْبَحَ المَوْقِفُ حَرِجاً: پوزیشن نازک ہونا۔

اِصْطَبَحَ و اسْتَصْبَحَ: روشن ہونا۔

اِصْطِبَاح: ناشتہ کرنا۔

عِمْ صَبَاحاً: صبح مبارک ہو۔

صُبْحَة: صبح کا کھانا۔

صَبُوحٌ صَبِيحٌ: روشن چہرہ، خوب رو۔
صَابِحٌ: تازہ، نیا۔
مِصْبَاحٌ ج: مَصَابِيحُ: لیمپ۔
المِصْبَاحُ ج: الأَمَامِيّ: ہیڈ لائٹ۔
مِصْبَاحُ تَعْلِيقٍ: قندیل، آویزاں کیا جانے والا لیمپ۔
مِصْبَاحُ الحَائِطِ: وال لیمپ، دیواری لیمپ۔
مِصْبَاحُ غَازٍ (نُورُ الغَازِ): گیس لائٹ۔
مِصْبَاحٌ فی مُقَدَّمِ القَاطِرَةِ أو التِّرَامِ أو السَّيَّارَةِ: ہیڈلائٹ۔
مِصْبَاحٌ كَهْرَبِيّ: بجلی کالمپ، بلب۔
صَبَرَ على ـِ صَبْراً و اصْطَبَرَ و تَصَبَّرَ: صبر کرنا، برداشت کرنا۔
صَبَّرَهُ تَصْبِيراً: صبر دلانا، صبر کی تلقین کرنا۔
الصَّبْرُ: جفاکشی۔
الصَّبُورُ: انتہائی جفاکش۔
الصَّابِرُ: جفاکش، محنت کش۔
صَبَعَ عليه ـَ صَبْعاً: انگلی رکھنا، انگلی سے اشارہ کرنا۔
إِصْبَعٌ: انگلی ج: أَصَابِعُ
مُصَنَّعٌ و مُصَبَّعَةٌ (شِكَارَةٌ): گوشت سینکنے کی لوہے کی انگیٹھی۔
صَبَغَ ـُ صَبْغاً: رنگنا۔
صَبَغَ فی الماءِ: ڈبونا۔
صَبْغٌ: رنگائی۔
صِبْغٌ ج: أَصْبَاغٌ: رنگ۔
صِبْغٌ تَجْمِيلِيّ: پینٹ۔
الصَّبْغُ بِأَصْبَاغٍ عَقْلِيَّةٍ: عقلی رنگ میں رنگنا۔

صِبْغَةٌ: رنگ، طرز، شکل۔
الصِّبْغَةُ الطَّائِفِيَّةُ: فرقہ وارانہ رنگ۔
صَبَّاغٌ: رنگ ریز۔
صِبَاغَةٌ: رنگریزی، رنگائی کا پیشہ۔
مَصْبَغَةٌ: رنگائی کا کارخانہ۔
صَبَّنَ تَصْبِيناً: صابن سے دھونا۔
صَبَّانٌ: صابن ساز۔
صَابُونٌ: صابن۔
صَابُونَةٌ: صابن کی ٹکیہ۔
الصَّابُونِيّ: صابن فروش، (۲) صابن ساز۔
مَصْبَنَةٌ: صابن کا کارخانہ۔
صَبُوٌّ: (ن) مائل ہونا، مشتاق ہونا،
صُبُوَّةٌ، صَبَاءٌ: شباب، جوانی۔
صَبِيُّ المَكْتَبِ: آفس بوائے، طفل مکتب۔
صِبْيَانِيّ: بچکانہ۔
صِبَا: بچپن۔
صَبَا: مشرقی ہوا۔
صَبِيَ ـَ صَباً: بچہ بننا، بچوں جیسی حرکات کرنا۔
تَصَابَى و تَعَصَّبَى: کھیل کود میں لگنا۔

ص .... ح

صَحِبَهُ ـَ صُحْبَةً و صَاحَبَةً: ساتھ ہونا، ساتھ رہنا۔
صَحِبَ، صَاحَبَ مع: دوستی کرنا، ساتھی بنانا۔
تَصَاحَبَا: باہم دوست بننا۔
أَصْحَبَهُ الشَّيْءَ: کوئی چیز ساتھ کرنا۔
اصْطَحَبَ الرَّجُلَ: ساتھ ہونا۔
اسْتَصْحَبَهُ: ساتھ لینا، ساتھی بنانا۔
صُحْبَةٌ: ساتھی، دوستی۔
صُحْبَةٌ و صَاحِبٌ: ساتھی۔

صَاحِب: ساتھی، دوست (۲) مالک۔
صَاحِبُ البَلَد: حاکم شہر۔
صَاحِبُ الدَّیْن: قرض خواہ۔
صَاحِبُ العِزَّةِ أو السَّعَادَةِ أو المَعَالی: تعظیمی لقب جو وزراء اور ان کے ہم منصبوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، آنریبل، عزت مآب۔
صَاحِبُ السُّمُوِّ المَلِکِیّ: شہزادوں اور والیان حکومت کا تعظیمی لقب۔
صَاحِبُ العَظَمَة و صَاحِبُ الجَلالَة: بادشاہ کے لیے تعظیمی القاب۔
صَاحِبُ الامْتِیَاز: لائسنس بردار، صاحب رعایت، لائسنس والا۔
صَاحِبُ حِرْفَة: پیشہ ور۔
صَاحِبُ حِصَّة: حصہ دار، شریک۔
صَاحِبُ رَأسِمَال: سرمایہ دار، مالک سرمایہ۔
صَاحِبُ الرُّخْصَة: لائسنس بردار۔
صَاحِبُ صَنْعَةٍ یَدَوِیَّة: دست کار۔
صَاحِبُ عَطَاءٍ (فی المَزَاد): نیلامی کی قیمت دینے والا۔
صَاحِبُ العَمَل: مالک کاروبار، کارخانہ دار۔
صَاحِبُ الفَخَامَة: برتری اور فوقیت کا خطاب۔
صَاحِبُ المَبْدَأ: اصول پسند آدمی۔
صَاحِبُ مَحَلٍّ لِبَیْعِ الصُّحُفِ و المَجَلَّات: نیوز ایجنٹ۔
صَاحِبُ مَصْرِف: بینکر۔
صَاحِبُ مَصْنَع: کارخانہ دار۔
صَاحِبُ مَعَاش: پنشنر۔

اَصْحَابُ الشَّأن: اصحاب معاملہ۔
اَصْحَابٌ شَرْعِیُّون: جائز ورثا۔
یَاصَاحِ یَاصَاحِب: اے میرے دوست
مَصْحُوبٌ، مُصْطَحَبٌ: ساتھ، ہمراہ۔
مَصْحُوباً بکذا: منسلک، ساتھ۔
مَصْحُوباً بِهُبُوبِ الرِّیَاحِ والأمْطَار: بادو باراں کے ساتھ۔
صَحَّحَ تَصْحِیحاً: صحیح کرنا، غلطی کی اصلاح کرنا، تندرست بنانا، ایڈٹ کرنا۔
صَحَّ ـِ صِحَّةً و اسْتَصَحَّ: تندرست ہونا، درست ہونا، بے عیب ہونا۔
صَحَّ الجُرْحُ: زخم بھرنا۔
صِحَّة: (۱) تندرستی (۲) اصلاح (۳) درستی (۴) حقیقت سچائی (۵) جواز
صِحِّیّ: صحت افزا (۲) صحت سے متعلق۔
تَصْحِیح: ترتیب، اصلاح، کریکشن۔
اِصْحَاح: کتاب کا ایک حصہ۔
مَصَحَّة، مَصَحّ: صحت افزا مقام۔
مُصَحِّحُ مُسَوَّدَاتِ الطَّبْع: پروف ریڈر۔
صَحِیح: او۔ کے، رائٹ، ٹھیک۔
صَحْرَاء ج: صَحَارَی: جنگل۔
صَحَّفَ الكَلِمَةَ تَصْحِیفاً: لفظ کو غلط پڑھنا، اس کی وضع سے ہٹانا۔
صَحَّفَ الخَبَرَ: خبر میں تحریف کرنا۔
صَحْفَة ج: صِحَاف: بڑی پلیٹ۔
صَحِیفَة ج: صُحُف: چہرہ، کاغذ۔
صَحِیفَةُ الوَجْه: چہرہ کی کھال۔
صَحِیفَةُ أخْبَار: اخبار، پیپر۔

صَحِيفَةُ أُسْبُوعِيَّة: ہفت روزہ۔
الصَّحِيفَةُ غَيْرُ الْمُنَظَّمَة: بے ضابطہ اخبار۔
صَحِيفَةُ مَحَلِّيَّة: لوکل اخبار۔
صَحِيفَةُ نِصْفُ شَهْرِيَّة: پندرہ روزہ
صَحِيفَةُ يَوْمِيَّة: روزنامہ۔
صَحَائِفُ لِلْمُرَاقَبَة: کنٹرول شیٹ۔
صُحُف و: صَحِيفَة: اخبارات، پریس۔
صَحَّاف: اخبار فروش، نیوز مین۔
صِحَافَة: اخبار نویسی، جرنلزم۔
عَالَمُ الصِّحَافَة: دنیائے صحافت۔
صُحُفِيّ: اخبار نویس، جرنلسٹ۔
صَحَفِيّ: اخباری، صحافتی۔
مُصْحَف: کتاب، لکھے ہوئے اوراق کا مجموعہ۔
الْمُصْحَفُ الشَّرِيف: قرآن کریم۔
صَحْنُ الأَكْل: پلیٹ، رکابی، طباق، ڈش ج: صُحُون
صَحْنُ الدَّار: آنگن، انگنائی۔
صَحْوٌ: ہوش، بیداری، افاقہ۔
صَحَا الْيَوْمُ ـُ صَحْواً: صاف وروشن ہونا۔
صَحْوٌ و صَاحٍ: بھلا، صاف (۲) بیدار، باہوش (ضد: سَكْرَان)
صَحَا ـُ وَصَحِيَ ـَ صَحْواً: بیدار ہونا، جاگنا، ہوش میں آنا۔
صَحَامِنَ النَّوْم: آنکھ کھلنا۔
صَحَاعَلَى صَوْتِ انْفِجَارٍ: دھماکہ کی آواز پر جاگ جانا۔
أَصْحَى و صَحَّى: ہوش میں لانا، بیدار کرنا۔

صَحْوَة: بیداری۔
صَحْوَةُ الْعَالَمِ الإِسْلَامِي: عالم اسلام کی بیداری۔
صَحْوَةٌ فِكْرِيَّة: فکری بیداری۔

ص............خ

صَخِبَ ـَ صَخَباً: زور سے چیخنا۔
صَخَبٌ: چیخ و پکار، شوروغل۔
صَخِبٌ، صَخَّابٌ: بے حد چیخنے والا۔
صَاخِبٌ: ٹھاٹھیں مارتا ہوا، شوروغل والا۔
صَخْرٌ ج: صُخُور: چٹان۔
صَخِرٌ، صَخْرِيّ: سخت پتھریلی۔

ص............د

صَدِئَ ـَ صَدَأً و صَدُؤَ ـُ صَدَاوَةً: زنگ آلود ہونا۔
صَدَأ: زنگ۔
صَدِئٌ، مُصْدَأ: زنگ آلود۔
مُصْدِئ: آکسیجن۔
صَدَحَ ـَ صَدْحاً: گانا، چہچہانا۔
صَدَّدَ تَصْدِيداً و اَصَدَّ الْجُرْحُ: زخم میں پیپ پڑنا۔
صَدَّ ـُ صَدّاً: روکنا، منع کرنا، ہٹانا۔
صَدَّ الْهُجُومَ: حملہ کو روکنا۔
صَدَّ عَنْهُ: اعراض کرنا۔
صَدَدٌ: قصد، سامنے، سلسلہ۔
بِصَدَدِ كَذَا: بسلسلہ، درباره۔
بِهٰذَا الصَّدَد: اس سلسلے میں، اس بارے میں۔
صَدِيد: پیپ۔
صَدَرَ إليه ـُ صُدُوراً: جانا، پیدا ہونا، پیش

ہونا۔
صُدِرَ: سینہ میں تکلیف ہونا۔
صَدَّرَ الكِتَابَ تَصدِيرا: کتاب کا پیش لفظ لکھنا۔
صَدَّرَ التَّأشِيرَةَ: ویزا جاری کرنا۔
صَدَّرَ و أَصْدَرَ إلى: روانہ کرنا۔
صَدَّرَ و أَصْدَرَ البَضَائِعَ إلى: بیرون ملک مالِ تجارت بھیجنا، ایکسپورٹ کرنا۔
أَصْدَرَ أَمراً: حکم صادر کرنا۔
أَصْدَرَ حُكماً: فیصلہ صادر کرنا۔
أَصْدَرَ الجَرِيدَةَ: اخبار نکالنا۔
أَصْدَرَ قَانُوناً: قانون جاری کرنا، قانون نافذ کرنا۔
اَصْدَرَ الكِتَابَ: کتاب شائع کرنا، کتاب کا اجرا کرنا۔
صَادَرَ المَالَ: مال سرکاری قبضہ میں لینا، چھاپہ مارنا۔
تَصَدَّرَ المَجْلِسَ: صدر بننا، صدر مقام میں بیٹھنا۔
تَصَدَّرَ الحَفْلَةَ: وسط محفل میں بیٹھنا۔
تَصَدَّرَ قَائِمَةَ شيءٍ: سرفہرست ہونا۔
صَدْرٌ ج: صُدُورٌ: صدر (۲) سینہ (۳) دل
صَدْرُ الشيءِ: سامنے کا حصہ، پہلا حصہ۔
الصَّدْرُ الأَوَّلُ: ابتدائی دور۔
بَنَاتُ الصَّدْرِ: ہموم وافکار۔
ذَاتُ الصَّدْرِ: دل کی باتیں، راز۔
رَحْبُ الصَّدْرِ: وسیع الظرف، فراخ دل۔
بِصَدْرٍ رَحِيبٍ: کشادہ دلی سے۔
مُنْقَبِضُ الصَّدْرِ: تنگ دل۔

صَدْرِيّ: سینہ کا۔
صُدْرَةٌ، صُدَيْرِيّ: واسکٹ، صدری
صَدْرِيَةٌ و صُدَيْرِيَةُ الثَّدْيَيْنِ: عورتوں کا سینہ بند۔
صَادِرٌ: جاری شدہ (۲) جانے والا (۳) باہر جانے والا مال ج: صَادِرَات
صَادِرٌ عَنْ: پیدا شدہ۔
الصَّادِرَات: برآمدات، برآمد شدہ مال۔
صُدُورُ الأوَامِرِ مِنْ فُلانٍ إلى: احکام جاری ہونا۔
صُدُورُ تَعْلِيمَاتٍ: ہدایات جاری ہونا۔
صُدُورُ الصَّحِيفَةِ من، ب: اخبار نکلنا۔
إِصْدَار: جاری کرنا، ایشو کرنا۔
إِصْدَارُ الأَمْرِ إلَى فُلانٍ بشَيْءٍ: آرڈر دینا، حکم دینا۔
إِصْدَارُ الأَحْكَامِ عَلَى كَذا: کسی سلسلے میں فیصلے صادر کرنا۔
إِصْدَارُ الأَمْرِ بِالقَبْضِ: گرفتاری کا وارنٹ جاری کرنا۔
إِصْدَارُ الأَمْرِ بِوَقْفِ تَنْفِيذٍ: اسٹے آرڈر دینا۔
إِصْدَارُ الأَوَامِرِ: احکام جاری کرنا۔
إِصْدَارُ أَوْرَاقِ النَّقْدِ: نوٹ جاری کرنا۔
إِصْدَارُ بَلَاغٍ رَسْمِيٍّ: سرکاری بیان جاری کرنا۔
إِصْدَارُ تَأْشِيرَةٍ: ویزا جاری کرنا۔
إِصْدَارُ التَّعْلِيمِ إِلَى المَنْدُوبِ: نمائندہ کو ہدایت دینا۔

إِصْدَارُ خِطَابِ اِعْتِمَادٍ: اتھارٹی لیٹر جاری کرنا۔
إِصْدَارُ الْقَرَارِ بِشَأْنِ كَذَا: تجویز پاس کرنا۔
إِصْدَارُ صَحِيفَةٍ: اخبار نکالنا، اخبار کا اجراء۔
تَصْدِيرٌ: برآمد کرنا، ایکسپورٹ، مال کی روانگی، (۳) اداریہ۔
تَصْدِيرُ السِّلْعَةِ إِلَى الْخَارِجِ: ایکسپورٹ کرنا، بیرون ملک سامان روانہ کرنا۔
تَصْدِيرُ الْكِتَابِ: کتاب کا پیش لفظ لکھنا۔
مُصَادَرَةٌ: چھاپہ مارنا، ضبط کرنا۔
مُصَادَرَةُ الْأَمْوَالِ: جائیداد ضبط کرنا۔
الْمُصَادَرَةُ عَلَى الْمُمْتَلَكَاتِ: جائیداد ضبط کرنا۔
مُصَادَرَةُ الْكَسْبِ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ: ناجائز آمدنی کی ضبطی۔
الْمُصَدِّرُ (التَّاجِرُ الْمُصَدِّرُ): ایکسپورٹر۔
مَصْدَرٌ: سرچشمہ، ذریعہ، اصل ج: مَصَادِرُ
مَصْدَرُ الطَّاقَةِ: ذریعہ توانائی۔
مَصَادِرُ: مآخذ، ذرائع، حلقے، وسائل۔
مَصَادِرُ الْإِبْلَاغِ: ذرائع سراغرسانی۔ ذرائع اطلاع۔
الْمَصَادِرُ الْأُمُّ: بنیادی مآخذ۔
مَصَادِرُ الْإِيرَادِ: ذرائع آمدنی۔
مَصَادِرُ بَيَانَاتٍ: ذرائع معلومات۔
مَصَادِرُ الدَّخْلِ: ذرائع آمدنی۔
مَصَادِرُ رَئِيسِيَّةٌ: بنیادی وسائل۔
مَصَادِرُ الْمُخَابَرَاتِ: ذرائع سراغرسانی۔
مَصَادِرُ مُقَرَّبَةٌ مِن: قریبی حلقے۔
مَصَادِرُ الْمِيَاهِ: آبی وسائل۔
مَصَادِرُ وَثِيقَةُ الصِّلَةِ بِفُلَانٍ: کسی سے قریبی تعلق رکھنے والے حلقے۔
مَصَادِرُ وِزَارِيَّةٌ: وزارتی حلقے۔
مَصْدُورٌ: سل کا مریض۔
صَدَعَ ـَ صَدْعاً: پھاڑنا، چاک کرنا۔
صَدَعَ بِالْحَقِّ: اقرار و اعلان حق کرنا،
صُدِعَ ـَ صُدَاعًا: دردسر میں مبتلا ہونا۔
صَدَّعَهُ تَصْدِيعاً: دردسر میں مبتلا کرنا، پریشان کرنا۔
تَصْدِيعُ الصِّرَاعِ: لڑائی بڑھانا، جھگڑا بڑھانا۔
تَصَدُّعٌ وَانْصِدَاعٌ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا، پھٹنا، ٹوٹنا، شگاف پڑنا۔
تَصَدَّعَ النَّاسُ: مجمع منتشر ہونا۔
اِنْصِدَاعُ الشَّيْءِ: کریک کرنا، دراڑ پڑنا۔
صَدْعٌ: دراڑ، رخ، شگاف۔
صُدَاعٌ: دردسر۔
مَصْدُوعٌ: پھٹا ہوا (۲) دردسر کا مریض۔
صُدْغٌ ج: أَصْدَاغٌ: کنپٹی۔
صَدَفَ عَنْ كَذَا ـِ صَدْفاً: روکنا، باز رکھنا، ہٹانا۔
صَدَفَ وَتَصَدَّفَ عَنْ كَذَا: باز رہنا، ہٹنا۔
صَدَفَ وَصَادَفَ: اچانک ہونا، اتفاقاً ہونا۔
صَدَفَهُ وَصَادَفَهُ: اچانک ملنا۔

صَدَف: سیپی ج: اَصْدَاف
أَصْدَاف صَخْرِيَّة: چٹانی خول۔
مُصَادَفَةٌ: ایکسیڈنٹ، اتفاق، چانس۔
مُصَادَفَةً: بائی چانس، اتفاقاً
مُصَادَفَات: ہنگامے، اتفاقات۔
بِالمُصَادَفَة: اتفاقاً
صُدْفَة: اتفاق۔
صُدْفَةً، بالصُّدْفَةِ: اچانک، اتفاقاً، کبھی، بہت کم۔
صَدَقَ ـُ صِدْقاً: سچ کہنا، سچ بولنا۔
صَدَقَ قَوْلُهُ: ٹھیک ثابت ہونا۔
صَدَقَ فی وَعْدِهِ: وعدہ پورا کرنا۔
صَدَقَهُ النُّصْحَ أو الحُبَّ: سچی ہمدردی یا سچی محبت کرنا۔
يَصْدُقُ عَلَيْهِ كذا: اس پر فلاں بات منطبق ہوتی ہے، چسپاں ہوتی ہے۔
صَدَّقَ الكَلَامَ و الرَّجُلَ: تصدیق کرنا۔
يُصَدَّقُ: قابل تصدیق۔
لا يُصَدَّقُ: نا قابل تصدیق۔
صَادَقَهُ: دوستی کرنا۔
صَادَقَه على، مُصَادَقَةً: منظوری دینا، جائز قرار دینا۔
صَادَقَ المَجْلِسُ على قَرَارٍ: مجلس کا تجویز کو منظور کرنا۔
اَصْدَقَ اِبْنَتَه: مہر دینا۔
تَصَدَّقَ بشيءٍ: خیرات کرنا۔
التَّصْدِيقُ على: منظوری دینا، تصدیق کرنا، توثیق کرنا، پاس کرنا، منظور کرنا۔
التَّصْدِيقُ عَلَى الاِتِّفَاقِيَة: معاہدہ کی توثیق کرنا۔
تَصْدِيقٌ على إمْضَاءٍ أوْ تَوْقِيعٍ: دستخط کی تصدیق۔
تَصْدِيقُ التَّوْقِيعَاتِ عَلى الوَثَائِق: دستاویزی دستخطوں کی توثیق۔
الوَثَائِق: دستاویزی دستخطوں کی توثیق۔
التَّصْدِيقُ على القَوَانِين: آئین منظور کرنا۔
التَّصْدِيقُ على مُعَاهَدَةٍ: معاہدہ کو آخری شکل دینا، منظوری دینا۔
صِدْق: (۱) سچائی (۲) حقیقت (۳) اخلاص (۴) امانت۔
صِدْقاً: یقیناً، واقعہ۔
صِدَاق: مہر۔
صَدَاقَة: فرینڈ شپ، میل جول، دوستی، محبت، دوستانہ تعلقات۔
صَدَاقَةٌ مُتَبَادِلَة: باہمی دوستی۔
صَدِيق ج: أَصْدِقَاء: دوست، ہمنوا۔
صَادِق: سچا، مخلص، دیانت دار، حقیقی۔
صَادِقُ الإِيمَان: پختہ ایمان رکھنے والا، سچا مومن۔
مُصَادَقَة: دوستی۔
مُصَادَقَةٌ على كذا: موافقت، تائید، منظوری۔
مُصَدَّق: سارٹیفائڈ، تصدیق شدہ۔
مُصَدَّقٌ عَلَيْه مِنْ جِهَةٍ رَسْمِيَة: سرکاری تصدیق شدہ۔
صَدَمَ ـِ صَدْمًا و صَادَمَ مُصَادَمَةً: ٹکرانا، ٹکر مارنا۔

اِصطدام ، تَصَادُم: ٹکر ہونا، ٹکرانا، دو چیزوں یا خیالات کا ٹکرانا۔
صِدام: ٹکراؤ، بھیڑ۔
صِدامٌ بِالأَیدِی: ہاتھا پائی۔
صِدامُ دَام: خون ریز تصادم۔
الصِّدامُ الدَّوِی: خون ریز تصادم۔
صِدامٌ مُباشر: براہ راست ٹکراؤ۔
صِدامٌ مُسلَّح: مسلح ٹکراؤ۔
صِدامٌ مَعَ الشُّرطَة: پولیس کے ساتھ ٹکراؤ۔
صَدمَة: ایک ٹکر، ایک جھٹکا۔
صَدمَةٌ عَصَبِیَّة: اشتعال وغم کی کیفیت۔
صَدمَةٌ عَنِیفَة: زبردست ٹکر۔
صَدمَةٌ کَهرَبَائِیَة: شاک، بجلی کا شاک۔
صَدِیَ ـــ صَدیً: سخت پیاسا ہونا۔
اَصدَی الجَبَلُ: پہاڑ سے آواز بازگشت ہونا، آواز گونجنا۔
تَصَدّٰی لَه: (۱) پیچھا کرنا، تعاقب کرنا (۲) درپے ہونا، پیچھے پڑنا (۳) نمٹنا (۴) انجام دینے کی کوشش کرنا۔
التَّصَدِّی لِلأَخطَار: خطرات کا مقابلہ۔
التَّصَدِّی لِلقُوَّات: فوج کا پیچھا کرنا۔
التَّصَدِّی لِلمُشکِلَة: پریشانی کا مقابلہ کرنا۔
صَدَی الصَّوت: آواز بازگشت ج: أَصدَاء
الصَّدَی الوَاسِعُ: زبردست گونج۔
صَدَی وَاسِعُ الاِنتِشَار: زبردست صدائے بازگشت۔

ص............ر

صَرُحَ ـــ صَرَاحَةً: صاف اور واضح ہونا۔
صَرَّحَ تَصرِیحاً: وضاحت کرنا، صاف لفظوں میں کہنا (۲) اجازت دینا۔
صَرَّحَ وصَارَحَ بکذا: ظاہر کرنا، واضح کرنا۔
صَرحٌ ج: صُرُوح: محل، بلند عمارت۔
صَرحٌ مُمَرَّد: بلند و بالا عمارت، فلک بوس محل۔
صَرَاحَة: صاف گوئی، وضاحت۔
تَصرِیح: اظہار، بیان، اخباری بیان، پریس بیان (۲) پرمٹ، لائسنس، اجازت (۳) اجازت نامہ، ڈکلریشن، گرین لائٹ، اعلان، اقرارنامہ، ج: تَصرِیحات
تَصرِیحٌ بِإِنزَالِ البِضَاعَة: زمین پر سامان اتارنے کی اجازت۔
تَصرِیحٌ بِالفُور: اعلان بالفور۔
تَصرِیحُ الجُمرُک: کسٹم پاس، اجازت نامہ۔
تَصرِیحُ الدَّوَائِرِ السِّیَاسِیَّة: سیاسی حلقوں کا بیان۔
تَصرِیحٌ صَحَفِیّ: پریس بیان، اخباری بیان۔
تَصرِیحٌ قَصِیر: مختصر بیان۔
تَصرِیحٌ مَغشُوش: جعلی اجازت نامہ۔
تَصرِیحٌ مِن جَانِبٍ وَاحِدٍ: یک طرفہ بیان۔
تَصَارِیحُ: بیانات و تَصرِیح
تَصَارِیحُ لِلاِستِیرَاد: درآمدی

لائسنس۔

المُصَرَّح لَهُ: پرمٹ لینے والا۔

صَرَخَ ۔ صُراخاً: چیخنا۔

صَرَخَ و اسْتَصْرَخَ: فریاد کرنا، پکارنا، آواز دینا۔

صَرْخَة: چیخ، ایک چیخ۔

صَرْخَةٌ فی وَادٍ: صدا بصحرا۔

صُراخ، صَرِیخ: چیخ، چیخ و پکار۔

صَارُوخ: میزائل، راکٹ ج: **صَوَارِیخُ**

صَارُوخُ أرْضٍ جَوّ: زمین سے فضا میں مار کرنے والا راکٹ۔

صَارُوخُ جَوّ أرْضٍ: فضا سے زمین پر مار کرنے والا راکٹ، میزائل۔

صَارُوخُ جَوّ جَوّ: فضا سے فضا میں مار کرنے والا راکٹ، میزائل۔

صَوَارِیخُ عَابِرَةُ القَارّات: براعظم سے براعظم پر مار کرنے والے راکٹ، میزائل۔

صَارُوخَة: تارپیڈو۔

صِرَّة: سخت سردی۔

صَرَّرَ وصَرَّ أذُنَیْه ۔ صَرّاً: سننے کیلئے کان کھڑے کرنا۔

صَرَّ ۔ صَرّاً: باندھنا۔

صَرَّتِ الأسْنَانُ ۔ ـِ صَرّاً وصَرِیراً: دانتوں کا بجنا۔

أصَرَّ علی: برقرار رہنا، ضد کرنا، اصرار کرنا، اڑ جانا، اڑ بیٹھنا، عزم کرنا۔

صَرَّ و صَرِیرُ البَاب: دروازہ کھلنے یا بند ہونے کی آواز۔

صَرِیرُ الأسْنَان: دانت بجنے کی آواز۔

صُرَّة ج: صُرَر: تھیلی، گٹھڑی، بنڈل، بیگ۔

صُرَّةُ نُقُود: پیسوں کا بٹوا، منی بیگ۔

صَرَّارُ اللَّیْل: جھینگر۔

صِرَاط ج: صُرُط: راستہ۔

صَرَعَ ۔ صَرْعاً: پچھاڑنا، زمین پر گرانا۔

انْصَرَعَ: گرنا، پچھڑنا۔

صَارَعَه مُصَارَعَةً: گرانے کی کوشش کرنا (۲) کشتی لڑنا۔

تصَارَعَ: باہمی کشمکش، کشتی لڑنا۔

تَصَارُعُ الآراء وتَبَایُنُهَا: اختلاف رائے۔

تَصَارُعُ الأحْزَاب علی کذا: کسی شے پر پارٹیوں کی باہمی آویزش، لڑائی۔

صَرْع: مرگی۔

صُرَعَة: زبردست پہلوان۔

صِرَاع ج: صِراعات: جھگڑا، رسہ کشی، کشمکش، تعارض، ٹکراؤ۔

صِرَاعٌ حَادّ: زبردست رسہ کشی۔

الصِّرَاعُ الحِزْبِیّ: پارٹی جھگڑا، جماعتی کشمکش۔

صِرَاعٌ دَاخِلِیّ: اندرونی کشمکش۔

صِرَاعٌ سَافِر: کھلی لڑائی۔

صِرَاعٌ طَبَقِیّ: طبقاتی کشمکش۔

صِرَاعُ الطَّبَقَات: طبقاتی کشمکش۔

الصِّرَاعُ العَرَبِیُّ الاِسْرَائِیْلِی: عرب اسرائیل جھگڑا۔

صِرَاعٌ عُنْصُرِیّ: نسلی کشمکش۔

الصِّرَاعُ فی أوْجِهِ: کشمکش اپنے عروج پر ہے۔

صِرَاعُ المَصَالِح: مفادات کی کشمکش۔
صِرَاع مَعَ فُلان: کسی کے ساتھ رسہ کشی۔
الصِّرَاع مِنْ أَجل البَقَاء: زندہ رہنے کے لیے جدوجہد۔
صِرَاعٌ نَفسِيّ: ذہنی کشمکش۔
صِرَاعٌ نَفسِيٌّ عَنِيف: زبردست ذہنی کشمکش۔
صِرَاعَة: کشتی کا پیشہ۔
صَرِيْع: گرا ہوا، پچھڑا ہوا۔
مَصْرَعٌ ج: مَصَارِيْع: کواڑ، شٹر۔
مُصَارِع: پہلوان، کشتی لڑنے والا۔
مَصْرُوْع: مرگی کا مریض۔
صَرَفَ ـ صَرْفًا: (۱) بدلنا (۲) گردانا (۳) خرچ کرنا (۴) دور کرنا، ہٹانا (۵) تقسیم کرنا (۶) ختم کرنا۔
__ عَنْ: روکنا، باز رکھنا۔
__ النَّظَرَ عَنْ: توجہ ہٹانا۔
__ الوَقْتَ: وقت لگانا۔
صَرَفَهُ مِنَ الخِدْمَة: ڈسچارج کرنا، ڈیوٹی سے ہٹانا۔
صَرَفَ و صَرَّفَ النُّقُودَ: چینج لینا، ریزگاری لینا۔
صَرَفَ و صَرَّفَ الفِعْلَ: گردانا، مختلف شکلیں بنانا۔
صَرَّفَهُ فِي الأَمْر: مختار بنانا، اختیار دینا۔
صَرَّفَ (۲): فروخت کرنا۔
__ المَاءَ: پانی تقسیم کرنا۔
__ التَّذَاكِرَ: ٹکٹ بانٹنا۔
__ العُمْلَةَ: سکہ چلانا۔
__ الدُّمَّلَ أو الوَرَمَ: زائل کرنا۔

تَصَرَّفَ فِي: کارروائی کرنا، طرزِ عمل اختیار کرنا، اختیار سے کام لینا۔
تَصَرَّفَ معه كذا: سلوک کرنا۔
انْصَرَفَ: جانا، واپس جانا۔
انْصَرَفَ عَنْ: ہٹنا، دور ہونا۔
انْصَرَفَ عَنِ المَبَادِئِ: اصول سے ہٹنا۔
صَرْفُ الشِّيك: چیک کیش کرنا۔
صَرْفُ مَعَاشِ أَحَدٍ: پنشن جاری کرنا۔
صَرْفُ مَعَاشٍ اِسْتِثْنَائِيّ لِأَحَدٍ: کسی کو خصوصی پنشن دینا۔
صَرْفُ النُّقُود: تبادلہ رقم، ایک سکہ دے کر دوسرا لینا، بڑے سکہ کے بدلہ چھوٹے لینا۔
صَرْف ج: صُرُوْف: گردش زمانہ، انقلاب۔
صِرْف: خالص، صاف بغیر ملاوٹ کا۔
صِرَافَة: تبدیلی سکہ کا کام، بینک میں رقم کے لین دین کا کام۔
صَارِفُ النُّقُود: خازن، کیشیر۔
صَارِفُ التَّذَاكِر: بکنگ کلرک، ٹکٹ بابو۔
صَرَّاف: کیشیر، تحویلدار روپیہ تبدیل کرنے والا، سکہ بدلنے والا، کرنسی بدلنے والا، رقم کا لین دین کرنے والا۔
صَرَّافُ النُّقُود: رقم یا سکہ تبدیل کرنے والا۔
صَرَّاف فِي بَنْك: بینک کیشیر۔
صَيْرَفِيّ: رقم کا لین دین کرنے والا، روپیہ تبدیل کرنے والا، منی چینجر۔
صَرِيْفُ الأَسْنَان: دانتوں کے بجنے کی آواز۔
تَصَرُّف: عمل، کارروائی، اختیار، اقدام، ایکشن، طرزِ عمل، تدبیر، فعل، روش

ج:تَصرُّفَات
التَصَرُّف بالمُؤاخذةِ مَعَ اَحَدٍ: کسی سے باز پرس کا اختیار۔
التَصَرُّف بناءً على توجيهاتٍ مِنْ اَحَدٍ: کسی کی ہدایات کے مطابق اقدام کرنا۔
التَصَرُّف دُوْنَ الرُّجُوْع إلى أَحَدٍ: اپنی رائے سے کام لینا۔
التَّصرُّف الصِبْيَانيّ: بچکانہ روش۔
التَّصَرُّفُ على خِلافِ التَّعْلِيْمَات: ہدایات کے خلاف کرنا۔
مُطْلَقُ التَصَرُّف: مطلق العنان۔
تَصرُّفَات: حرکات، اقدامات، حالات، معاملات، طورطریقے، کارروائیاں، افعال وحرکات۔
تَصرُّفَات مَعَ: معاملات۔
تَصَارِيْفُ الدَّهر: انقلاب زمانہ۔
مَصْرِفٌ: بینک ج: مَصارِف
مَصْرِفُ الدَّم: بلڈ بینک، خون کا بینک۔
مَصْرِف غَيْرُ رِبَوِيّ: غیر سودی بینک۔
مَصْرِفُ المَال: بینک۔
مَصْرِفُ المَاء: نالی۔
المَصْرِفِيّ (صَاحِبُ المَصْرِف): بینکر۔
مَصَارِفُ و: مَصْرِف: بینک چارجز۔
مَصْرُوْف: خرچ شدہ، خرچ ج: مَصْرُوْفَات و مَصَارِيْف
مَصْرُوْف الجَيْب: جیب خرچ، پاکٹ منی۔

مَصْرُوْفَات: اخراجات۔
مَصْرُوفَاتٌ إدَارِيَّة: دفتری اخراجات، انتظامی اخراجات۔
المَصْرُوْفَاتُ الاَهْلِيَّة: قومی اخراجات۔
مَصْرُوفَاتٌ بَيْعِيَّة: فروختگی کے اخراجات۔
مَصْرُوْفَاتٌ تَعْوِيْضِيَّة: معاوضوں کا خرچ۔
مَصْرُوْفَاتٌ ثَابِتَة: مقررہ چارجز، مقررہ مصارف، مستقل اخراجات۔
مَصْرُوْفَاتٌ جَارِيَة: موجودہ اخراجات
مَصْرُوْفَاتٌ حُكُوْمِيَّة: سرکاری اخراجات۔
المَصْرُوْفَاتُ السِرِّيَّة: خفیہ اخراجات۔
مَصْرُوْفَاتُ شَحْنٍ: لدان چارج، مال کے لدان کے اخراجات۔
مَصْرُوْفَاتُ شِرَاءٍ: خریداری خرچ۔
المَصْرُوْفَاتُ العَامَّة: پبلک اخراجات۔
مَصْرُوْفَاتٌ غَيْرُ عَادِيَّة: غیر معمولی اخراجات۔
مَصْرُوْفَاتٌ قَضَائِيَّة: عدالتی اخراجات۔
مَصْرُوْفَاتٌ قَوْمِيَّة: قومی اخراجات۔
مَصْرُوْفَاتٌ مُبَاشِرَة: ڈائرکٹ اخراجات۔
المَصْرُوْفَاتُ المَحَلِّيَّة: لوکل اخراجات۔
مَصْرُوْفَاتٌ مَدْفُوْعَةٌ مُقَدَّمًا: پیشگی ادا کردہ اخراجات۔
مَصْرُوْفَاتٌ مَنْزِلِيَّة: گھریلو اخراجات۔
مَصَارِيْفُ: کاسٹ، لاگت، اخراجات۔
مَصَارِيْفُ إدَارِيَّة: دفتری اخراجات۔

مَصَارِيفُ البَنْك :بینک چارجز ،بینک کے اخراجات۔
مَصَارِيفُ البَرِيد: ڈاک خرچ۔
مَصَارِيفُ تِجَارِيَّة: تجارتی اخراجات۔
مَصَارِيفُ التَخْلِيص الجُمْرُكِيّ: کسٹم سے چھڑانے کے اخراجات۔
مَصَارِيفُ التَعْبِئَة: پیکنگ چارج، پیکنگ کے اخراجات۔
المَصَارِيفُ الثَابِتَة: مستقل اخراجات۔
مَصَارِيفُ حَزْمٍ وَلَفٍّ: پیکنگ چارج۔
مَصَارِيفُ الحِفْظ :ہولڈنگ چارج، اخراجات حفاظت۔
مَصَارِيفُ الدِّعَايَة:اخراجات اشتہار۔
مَصَارِيفُ الدَّعْوَى :ڈگری خرچ، مقدمہ کے اخراجات۔
مَصَارِيفُ سَنَوِيَّة: سالانہ اخراجات۔
مَصَارِيفُ شَتَّى: متفرق اخراجات۔
المَصَارِيفُ الصَّغِيرَة: چھوٹے اخراجات۔
مَصَارِيفُ عَارِضَة: وقتی اخراجات۔
مَصَارِيفُ القَضِيَّة: اخراجات مقدمہ۔
مَصَارِيفُ النَّقْل: کرایہ باربرداری۔
مُتَصَرِّف :بااختیار، صاحب اختیار، حکمراں، کلکٹر، کارروائی کرنے والا۔
صَرَمَ ۔ِ صَرْماً وصَرَّمَ: کاٹنا۔
صَرُمَ ۔ُ صَرَامَةً: تلوار کا تیز ہونا (۲) سخت مزاج ہونا۔
صُرِمَ وَانْصَرَمَ أَجَلُهُ: موت آنا۔
انْصِرَام: منقطع ہونا، گزرنا، ختم ہونا۔
صُرْمَة و صِرْم: جوتا۔

صَرَامَة : تیزی، سخت مزاجی، (۲) متانت، وقار۔
صَارِمٌ: کاٹنے والا، سخت مزاج (۲) قطعی، حتمی۔
مُنْصَرِم: منقطع، گزشتہ۔

ص.........ط

(صطب) مِصْطَبَة ج: مَصَاطِبُ: پتھر کی بینچ، چبوترہ۔

ص.........ع

صَعُبَ ۔ُ صُعُوبَةً: دشوار ہونا۔
صَعَّبَ تَصْعِيباً: دشوار بنانا۔
تَصَعَّبَ و تَصَاعَبَ: دشوار ہونا۔
اِسْتَصْعَبَ: دشوار سمجھنا۔
صَعْبٌ: دشوار، مشکل۔
صُعُوبَة: دشواری، مشکل ج: صُعُوبَات
بِصُعُوبَةٍ بَالِغَة: بڑی مشکل سے۔
مَصَاعِب و: مَصْعَبٌ: پریشانیاں۔
صَعِدَ ۔َ صُعُوداً: چڑھنا، اوپر اٹھنا۔
صَعِدَ به: چڑھانا، اوپر اٹھانا۔
صَعَّدَ الزَفَرَاتِ: لمبے لمبے سانس لینا، آہیں بھرنا۔
إِصْعَاد: چڑھانا، اوپر اٹھانا۔
تَصْعِيد :اوپر اٹھانا، بڑھانا، بڑھاوا دینا، تیز کرنا، فروغ دینا (۲) بھاپ بنانا۔
تَصْعِيدُ التَوَتُّر :تناؤ اور کشیدگی کو بڑھانا۔
تَصْعِيدُ الحَرْب: جنگ کو بڑھانا۔
تَصْعِيدٌ خَطِيرٌ: زبردست اضافہ۔
تَصْعِيدُ المَوْقِف :صورت حال کو سنگین بنانا، معاملہ آگے بڑھانا۔

تَصْعِيدُ النَّشَاطَات: سرگرمیاں تیز کرنا۔
تَصْعِيدُ الوَضع: صورت حال بگاڑنا۔
تَصَعُّد: بڑھنا، تیز ہونا، چڑھنا (۲) بھاپ بننا۔
تَصَاعُد: زور، اضافی شدت، اضافہ۔
تَصَاعُدُ الآهَات: آہیں نکلنا۔
تَصَاعُدُ الأعْمَال: سرگرمیاں بڑھنا۔
تَصَاعُدُ حِدَّةِ التَّوتُّر: کشیدگی میں اضافہ ہونا۔
تَصَاعُدُ الزَّفَرات: آہیں نکلنا۔
تَصَاعُدُ العَمَلِيَّات: کارروائیاں تیز ہونا۔
تَصَاعُدُ العَمَلِيَّاتِ الفِدَائِيَّة: گوریلا سرگرمیوں میں اضافہ ہونا۔
تَصَاعُدُ المَسَائِل: مسائل بڑھنا۔
تَصَاعُدُ المُظَاهَرَات: مظاہروں میں اضافہ ہونا، شدت ہونا۔
تَصَاعُدُ النِّطَاق: دائرہ وسیع ہونا۔
صُعُود: چڑھائی۔
فِي صُعُود: چڑھتا ہوا ابھرتا ہوا۔
صُعَدَاء: گہرا سانس۔
صَعِيد: بلند زمین، بالائی حصہ (۲) سطح (۳) میدان (۴) پلیٹ فارم۔
الصَّعِيدُ الدَّاخِلِيّ: اندرونی سطح۔
الصَّعِيدُ السِّيَاسِيّ: سیاسی سطح۔
الصَّعِيدُ العَالَمِيّ: بین الاقوامی سطح۔
الصَّعِيدُ النِّيَابِيّ: پارلیمنٹری سطح۔
عَلَى الصَّعِيدِ الإقْلِيمِيّ: صوبائی سطح پر۔
عَلَى الصَّعِيدِ الدُّوَلِيّ: بین الاقوامی سطح پر۔
عَلَى الصَّعِيدِ العَالَمِي: بڑے پیمانہ پر۔
عَلَى الصَّعِيدِ القَومِيّ: قومی سطح پر۔
صَاعِد: ترقی پذیر، روز افزوں۔
المُتَصَاعِد: روز افزوں، بڑھتا ہوا، اضافہ پذیر۔
مِصْعَد: لفٹ۔
مِصْعَدَةٌ آلِيَّة أو كَهْرَبِيَّة: لفٹ، بجلی کا زینہ۔
صَعِرَ وَجْهُه ـَ صَعَراً: منہ ٹیڑھا ہونا۔
صَعَّرَ وأَصْعَرَ خَدَّه: تکبر سے منہ پھیرنا۔
صَعَقَتْهُ السَّمَاءُ ـَ صَعْقاً وأَصْعَقَتْه: آسمان سے کسی پر بجلی گرنا، بیہوش بنانا، ہوش اڑانا۔
صَعِقَ ـَ صَعَقاً: بے ہوش ہونا (۲) چیخنا، چلانا۔
صَاعِقَة ج: صَوَاعِق: کڑک دار بجلی۔
صُعْلُوك ج: صَعَالِيك: حقیر آدمی، فقیر و محتاج۔

ص............غ

صَغُرَ ـُ صِغَراً: چھوٹا ہونا، کم رتبہ ہونا۔
يَصْغُرُنِي بِسَنَة: وہ مجھ سے ایک سال چھوٹا ہے۔
صَغَّرَ تَصْغِيراً: چھوٹا کرنا، کم کرنا، قیمت گھٹانا، حیثیت کم کرنا۔
اِسْتِصْغَار: چھوٹا سمجھنا، کم سمجھنا، حقیر و ذلیل سمجھنا۔
صِغَر: چھوٹا پن۔
صِغَرُ السِّنّ: کم عمری۔

صَغِیرٌ: چھوٹا، کم حیثیت ج: صِغَار
صَغِیرُ النَّفس: تنگ ظرف، چھوٹی طبیعت کا۔
صِغَارُ المُلَّاک: چھوٹے زمیندار۔
صَاغِر: ذلیل، ذلت پسند ج: صَغَرَة
الاَصْغَرُ: جونیر، جدید۔
أَصْغَرُ شَیْءٍ: چھوٹی سے چھوٹی چیز۔
صَغِيَ ـَ صَغًى: مائل ہونا، متوجہ ہونا۔
أَصْغَى إِلَى حَدِيثِهِ إِصْغَاءً: کان لگانا، غور سے سننا، توجہ سے سننا۔
صَاغٍ، مُصْغٍ: متوجہ، غور سے سننے والا، چوکنا رہنے والا۔

ص.........ف

صَفَحَ عنا ـَ صَفْحاً: درگزر کرنا۔
صَفَحَ و صَفَّحَ الشَیْءَ: پھیلانا، پتلا کرنا، معدنیات کی چادریں بنانا، معدنیات کا پتر بنانا یا پتر چڑھانا (۲) زرہ پوش بنانا۔
صَفَّحَهُ تَصْفِیحاً: پلیٹ چڑھانا، پلیٹ نما بنانا۔
صَافَحَهُ مُصَافَحَةً: ہاتھ ملانا۔
تصفح الأَمْرَ: غور کرنا، کچھ دیر دیکھنا۔
تصفح الکِتَابَ: ورق گردانی کرنا، پڑھنا۔
اِسْتَصْفَحَهُ الذَّنْبَ: معافی چاہنا، مغفرت طلب کرنا۔
صَفْحٌ: درگزر، معافی۔
ضَرَبَ عَنْهُ صَفْحاً: منہ پھیر لینا۔
صَفْحَة: چہرہ، رخ (۲) کاغذ کی ایک جانب (۳) پیج، صفحہ (۴) پلیٹ ج: صَفَحَات
صَفْحَةٌ بَیْضَاءُ: صاف ریکارڈ۔

صَفَّاحٌ و صَفُوحٌ: غفار، معاف کرنے والا۔
صَفِیحٌ: مسطح، چپٹی چیز (۲) ٹن، پتھر کی سل۔ چادر۔
صَفِیحَة ج: صَفَائِح: معدنی پلیٹ، معدنی چادر، لوہے وغیرہ کی چادر۔
صَفِیحَةُ بَنْزِین: پٹرول کین، پٹرو ٹن۔
صَفِیحَةٌ رَفِیقَة (مِنْ وَرَقٍ مُقَوًّی أَوْ مُشَمَّعٍ): اسٹینسل۔
صَفِیحَةٌ مُدَرَّجَة (علی وَجهِ السَّاعَة): ڈائل۔
صَفِیحَةٌ مَعْدِنِیَّة: دھات کی پلیٹ۔
تَصْفِیحٌ: معدنی چادر چڑھانا۔
مُصَفَّحٌ: جس پر لوہے وغیرہ کی چادر چڑھی ہوئی ہو (۲) مسطح (۴) زرہ پوش۔
سَیَّارَاتٌ مُصَفَّحَة: بکتر بند گاڑیاں۔
صَفَدَهُ ـِ صَفْداً و اَصْفَدَهُ و صَفَّدَهُ تَصْفِیداً: لوہے سے جکڑنا۔
صِفَاد، صَفَدٌ ج: أَصْفَاد: قید، بیڑی۔
صَفِرَ ـَ صَفَراً: برتن وغیرہ کا خالی ہونا۔
صَفَرَ ـِ صَفِیراً و صَفَّرَ: (۱) سانپ کا پھنکارا مارنا (۲) ہونٹوں سے آواز نکالنا (۳) سیٹی بجانا۔
صَفَّرَ تَصْفِیراً: (۱) سیٹی بجانا (۲) زرد بنانا، زرد رنگنا۔
صَفَّرَ و اَصْفَرَ: خالی کرنا۔
اِصْفِرَار: زرد ہونا۔
اِصْفَرَّ وَجْهُهُ: اتنا سا منہ نکل آیا۔
صَفَرٌ: مرض یرقان (۲) بھوک۔
صَفَرٌ، صَفِیر تَصْفِیر: سیٹی، آواز۔

صُفْرٌ: خالی۔
صفرُ البلد: خالی ہاتھ، مفلس۔
صُفرٌ: (۱) سونا (۲) پیتل۔
صِفْرٌ: نقطہ، کچھ نہیں، صفر، نل NIL
صَفْرَاءُ (م): زرد (۲) صفراوی مادہ (۳) سونا۔
صُفْرَة، صُفَارٌ، اصْفِرَار: زردی، رنگ کا پھیکا پن۔
صُفَارٌ أوْ صُفْرُ البَيْض: انڈوں کی زردی۔
صَفَّارَة: سیٹی کو منہ سے لگا کر بجائی جائے۔
صَفَّارَةُ الإنْذَار: خطرے کی گھنٹی، سائرن
صَفِيرٌ: سیٹی کی آواز۔
أَصْفَرُ: زرد، پیلے رنگ کا (۲) پھیکے رنگ کا ج: صُفْرٌ
صَفْصَفٌ: ہموار زمین۔
صَفَعَ ـ صَفْعاً: تھپڑ مارنا، طمانچہ مارنا۔
صَفْعَةٌ: طمانچہ۔
صَفَّفَ الشيئَ تَصْفِيْفاً: مرتب کرنا، لائن سے لگانا، صف در صف کرنا۔
صَفَّ ـُ صَفّاً: (۱) صف وار لگانا (۲) لائن میں کھڑا کرنا یا کھڑا ہونا (۳) ترتیب دینا، جمانا، پٹری بٹھانا۔
صَفَّ الحُرُوْفَ: کمپوز کرنا، ترتیب دینا۔
تَصَافَّ، اصْطَفَافَ: ترتیب وار ہونا، لائن میں لگنا۔
صَفٌّ ج: صُفُوْف: لائن، سیدھا خط (۲) درجہ (۳) تعلیمی درجہ، کلاس (۴) کالم۔
صَفٌّ جَانِبِی: وہ لائن جس میں برابر برابر کھڑے ہوں۔
صَفٌّ طُوْلِی: وہ لائن جس میں آگے پیچھے کھڑے ہوں۔
صَفٌّ فی مَدْرَسَةٍ: کلاس۔
صَفٌّ مِنَ الجُنُود: سپاہیوں کی لائن۔
فی صُفُوْفِ الجَمَاهِيْر: عوام میں
صُفَّة: دیوار میں لگا ہوا تختہ۔
صَفَّاف: کمپوزیٹر، ٹائپ کو ترتیب دینے والا۔
المُصَفُّ: کمپوز کیا ہوا۔
مِصَفُّ الاَحْرُف المِطْبَعِيَّة: کمپوزنگ اسٹک، وہ پلیٹ جس پر ٹائپ ترتیب دیا جائے، چیزیں جوڑنے (جمانے) کی پٹری۔
صَفَقَ البَابَ ـِ صَفْقاً: زور سے بند کرنا۔
صَفَقَ و صَفَّقَ بِيَدَيْهِ تَصْفِيقاً: تالی بجانا، ہاتھ پر ہاتھ مارنا۔
صَفَقَ بِجَنَاحَيْه: بغل بجانا، بغل سے آواز نکالنا۔
صَفَقَ الدَّمَ: خون کو ایک جسم سے دوسرے میں منتقل کرنا۔
صَفُقَ النَسِيْجُ ـُ صَفَاقَةً: کپڑے کا ٹھکا ہوا ہونا، دبیز ہونا۔
صَفُقَ الرَّجُلُ: بے حیا ہونا۔
صَفْقٌ و تَصْفِيْقٌ: تالیاں۔
صَفْقُ الدَّم: تبادلہ خون۔
تَصْفِيْقٌ حَادٌّ: زوردار تالی۔
صَفْقَة: (۱) ایک دفعہ تالی بجانا (۲) معاملہ، سودا، تجارتی کاروبار، ڈیلنگ معاملہ تجارت ج: صَفَقَاتٌ
صَفْقَةٌ رَابِحَة: نفع بخش سودا۔
صَفْقَةٌ خَاسِرَة: گھاٹے کا سودا۔

صَفقَةُ اَسلِحَةٍ: ہتھیاروں کا معاملہ، اسلحہ کا سودا۔
صَفقَةٌ شَامِلَةٌ: ہمہ گیر سودا۔
صَفقَةُ الطَّائِرَاتِ: ہوائی جہازوں کا سودا۔
صَفقَةٌ مَالِيَّةٌ: مالی سودا۔
صَفِيقٌ: دبیز، ٹھکا ہوا کپڑا۔
صَفِيقُ الجِلدِ: موٹی کھال کا۔
صَفِيقُ الوَجهِ: بے حیا۔
صَفوٌ، صَفَاءٌ: صفائی، نکھار (۲) اخلاص۔
صَفوُ و صَفَاءُ العَيشِ: زندگی کی بہار۔
صَفَاءُ السَّمَاءِ: آسمانی صاف ہونا۔
صُفوَة: (۱) خلاصہ، نچوڑ (۲) منتخب لوگ، چیدہ، ممتاز۔
صَفِيٌّ ج: أَصفِيَاءُ: خالص دوست۔
صَفِيٌّ و صَافٍ: صاف، بے غبار، پر بہار۔
صَافٍ: نٹ، خالص (قیمت) (وزن)
صَافِي الدَّخلِ: نٹ آمدنی، خالص آمدنی۔
صَافِي المُرَتَّبِ: خالص تنخواہ۔
صَافِي النِّيَّةِ: مخلص۔
صَفَّى تَصفِيَةً: صاف کرنا، نکھارنا، مقطر کرنا، ٹپکا کر صاف کرنا، چھلنی سے چھاننا۔
صَفَّى الحِسَابَ: حساب صاف کرنا۔
صَفَّى علي الخَشَبِ: رندہ پھرنا۔
اَصفَى لہ و صَافَاہُ مُصَافَاةً: خالص دوستی کرنا، اخلاص برتنا۔
اِصطَفَى و اِستَصفَى: منتخب کرنا، چھانٹنا، انتخاب کرنا۔
تَصفِيَة: صفایا، خاتمہ، تطہیر۔
تَصفِيَةُ اَحَدٍ مِنَ الجَيشِ: فوج سے نکالنا۔
تَصفِيَةُ الاِقطَاعِ: خاتمہ زمینداری۔
تَصفِيَةُ الثَّغرِ: شگاف ختم کرنا۔
تَصفِيَةُ الثَّورَةِ: انقلاب کا خاتمہ کرنا۔
تَصفِيَةُ الجَوِّ: فضا درست کرنا۔
تَصفِيَةُ الجُنُودِ: فوجوں کا صفایا کرنا۔
تَصفِيَةُ الحِرَاسَةِ: نگرانی اٹھانا۔
تَصفِيَةُ الحِسَابِ: حساب صاف کرنا۔
تَصفِيَةُ الخِلَافِ: اختلاف ختم کرنا۔
تَصفِيَةٌ علي الخَشَبِ: رندہ پھیرنا۔
تَصفِيَةُ القَضِيَّةِ: مسئلہ کا حل نکالنا۔
تَصفِيَةُ القَوَاعِدِ العَسكَرِيَّةِ: فوجی اڈوں کو ہٹانا۔
تَصفِيَةُ النُّفُوسِ: دلوں کی صفائی کرنا۔
مِصفَاة: ریفائنری، تیل وغیرہ صاف کرنے کا کارخانہ۔
مِصفَاة: فلٹر، باریک چھلنی جس سے چائے وغیرہ چھانی جائے ج: مَصَافٍ
مُصطَفًى: چیدہ، پسندیدہ۔

ص........ق

صَقَعَ الدِّيكُ ــــ صَقعاً و صَقِيعاً صُقَاعاً: چیخنا، بانگ دینا۔
صَقَّعَ تَصقِيعاً: بے حد سرد ہونا۔
صُقعٌ ج: اَصقَاعٌ: مقام، ملک، علاقہ۔
صَقعَة: سخت سردی۔
صُقَاعٌ وصَقِيعٌ: مرغ کی آواز، بانگ۔
صِقَاعٌ: وہ روپوش جس کے ذریعہ زہریلی گیس وغیرہ سے چہرہ کی حفاظت کی جائے، گیس بچاؤ نقاب۔

صَقِيعٌ: برف یا پالا جو شب میں آسمان سے گرتا ہے۔
مِصْقَع ج: مَصَاقِع: بلیغ، بلند آواز۔
صَقَلَ ـُ صَقْلاً: پالش کرنا، چمکانا، اجاگر کرنا، چکنا کرنا۔
صَقِيل، مَصْقُول: چکنا، چمک دار، پالش کیا ہوا، اجاگر۔
صِقَالَةُ المَرْكَب: جہاز کا زینہ۔

ص .... ک

صَكَّ ـُ صَكًّا: زور سے مارنا، دروازہ بند کرنا۔
اصْطِكَاك: لرزنا، کپکپانا۔
اصْطِكَاكُ الْأَسْنَان: دانتوں کا بجنا۔
صَكٌّ ج: صُكُوك: وثیقہ، دستاویز، بونڈ، چارٹر۔
صَكٌّ مَالِيّ: چک۔

ص .... ل

صَلَبَ ـِ صَلْباً: سولی پر لٹکانا۔
صَلَبَ و صَلَّبَ: مضبوط بنانا۔
صَلُبَ ـُ صَلَابَةً: سخت ہونا۔
صَلَّبَ المَوْقِفَ: پالیسی سخت کرنا۔
تَصَلَّبَ: سخت بن جانا۔
تَصَلَّبَ مَعَهُ: سختی کا برتاؤ کرنا۔
تَصَلُّبُ الأَعْضَاءِ: اعضاء سخت ہونا، ٹائٹ ہونا۔
صَلْبَة: عارضی ستون وغیرہ جو عمارت کی ڈاٹ یا لنٹر کے لیے کھڑا کیا جائے۔
صَلْبَةٌ رَأْسِيَّة: گول ڈاٹ کا مچان۔
صُلْبٌ ج: أَصْلَاب: پیٹھ کی ہڈی (۲) مجازاً پیٹھ، نسل (۳) فولاد۔
صُلْبٌ و صَلِيبٌ: سخت دل۔
فِي صُلْبِ المَوْضُوع: اصل موضوع پر۔
صَلِيب ج: صُلْبَان: وہ لکڑی جس پر سولی دی جائے، صلیب۔
الصَّلِيبُ الأَحْمَرُ: ریڈ کراس۔
صَلَابَة: سختی، ٹھوس پن۔
صَلُتَ ـُ صُلُوتَةً: روشن و چمکدار ہونا۔
أَصْلَتَ السَّيْفَ: تلوار میان سے نکالنا۔
صَوْلَجَان ج: صَوَالِج و صَوَالِجَة: موٹھ دار ڈنڈا، گیند کھیلنے کا بلا۔
لِعْبُ الصَّوْلَجَان: ہاکی، کرکٹ۔
صَلُحَ ـُ صَلَاحاً و صلاحية: ٹھیک ہونا (۱) نیک ہونا۔
صَلُحَ لِكَذَا: لائق ہونا۔
صَلَّحَ و أَصْلَحَ: درست کرنا، اصلاح کرنا، مرمت کرنا، صحیح کرنا، سیدھا کرنا، ٹھیک کرنا۔
أَصْلَحَ بَيْنَهُمْ: صلح کرانا۔
أَصْلَحَ الخَلَلَ: خرابی دور کرنا۔
صَالَحَهُ مُصَالَحَةً: صلح کرنا (ضد خاصَمَ)
اصْطَلَحَ عَلَى كَذَا: کسی مفہوم کی ادائیگی کے لیے کوئی لفظ خاص کرنا، مقرر کرنا۔
اسْتَصْلَحَهُ: ٹھیک پانا، نیک پانا، ٹھیک سمجھنا (۲) ٹھیک کرنا یا کرانا، مرمت کرنا یا کرانا۔
إِصْلَاح: ریپیرنگ، تصحیح، درستگی۔

إِصْلاحٌ زِرَاعِيٌّ: زرعی اصلاح۔
تَصْلِيحٌ: ریپیرنگ، مرمت، درستگی۔
التَّصْلِيحَاتُ الزُّجَاجِيَّةُ: شیشہ کی اصلاح کاری۔
التَّصَالُحُ مَعَ العَدُوِّ: دشمن کے ساتھ مل جانا۔
صُلْحٌ: امن، سلامتی، صلح۔
الصُّلْحُ و المَوَدَّةُ: امن وآشتی۔
صُلْحٌ تَعَاقُدِيٌّ: معاہداتی امن۔
صُلْحٌ مُفْرَدٌ: انفرادی صلح۔
صَلاحٌ: درستگی، نیکی۔
صَلاحُ الخُلق: اخلاق کی درستگی۔
صَلاحِيَّةٌ: لیاقت، صلاحیت (۲) اختیار۔
صَلاحِيَّةٌ إِئْتِمَانِيَّةٌ: قرضہ کی گنجائش۔
صَلاحِيَّةُ الجَوازِ للاسْتِعْمَال: پاسپورٹ میں گنجائش، پاسپورٹ کا قابل استعمال ہونا۔
صَلاحِيَّةُ القُوَّةِ الحَرْبِيَّةِ: جنگی طاقت کا معیار۔
صَلاحِيَّات: اختیارات۔
صَالِحٌ: (۱) ٹھیک، مناسب، فٹ (۲) نیک، صالح (۳) لائق (۴) منفعت، مفاد، نفع۔
الصَّالِحُ العَامّ: مفاد عامہ۔
صَالِحٌ لِلفِلاحَة: قابل کاشت۔
مَصْلَحَة: فائدہ (۲) محکمہ، ڈپارٹمنٹ، ادارہ، ایڈمنسٹریشن۔
مَصْلَحَةُ الاسْتِعْلامَات: محکمہ اطلاعات۔
مَصْلَحَةُ البَرِيد: محکمہ ڈاک۔
مَصْلَحَةُ البِلادِ العُلْيَا: ملک کا مفاد اعلیٰ۔
مَصْلَحَةُ الجَمَارِك: کسٹم کا محکمہ۔
مَصْلَحَةٌ حُكُومِيَّةٌ: سرکاری محکمہ۔
مَصْلَحَةٌ خَاصَّة: خصوصی مفاد۔
مَصْلَحَةُ الرَّيّ: محکمہ آبپاشی۔
مَصْلَحَةُ السِّكَكِ الحَدِيدِيَّة: ریلوے محکمہ۔
مَصْلَحَةُ الضَّرائِب: محکمہ انکم ٹیکس۔
المَصْلَحَةُ العَامَّة: رفاہ عام، مفاد عام۔
مَصْلَحَةُ العَمَل: لیبر محکمہ۔
مَصْلَحَةُ الكَنْس و التَّنْظِيف: محکمہ آرائش بلدہ۔
مَصْلَحَةُ النَّقْل: محکمہ ٹرانسپورٹ۔
المَصْلَحَةُ الوَطَنِيَّة: قومی مفاد۔
مَصْلَحِيّ: ڈپارٹمنٹل، محکمہ جاتی۔
لِمَصْلَحَةِ فُلان: فلاں کے مفاد میں، فلاں کے فائدے کے لیے۔
لَهُ فِيهِ مَصْلَحَة: اس میں اس کا فائدہ ہے۔
مَصَالِحُ: مفادات۔
المَصَالِحُ الأَهْلِيَّة: قومی مفادات۔
المَصَالِحُ الحَيَوِيَّة: زندگی کے مفادات۔
المَصَالِحُ الضَّخْمَة: زبردست مفادات۔
مَصَالِحُ مُتَبَادِلَة: باہمی مفادات۔
مَصَالِحُ مُشْتَرَكَة: مشترکہ مفادات۔
مُصْلِحٌ: ریفارمر، مصلح۔

مُصْلِحُ الْمَاكِينَات: میکا نک۔
مُصْطَلَحٌ ج: مُصْطَلَحَات: اصطلاح۔
صَلِخَ ۔ صَلَخاً: بہرا ہونا۔
صَلَخ: بہراپن۔
أَصْلَخُ: بہرا۔
صَلَدَ ۔ صُلُوداً و أَصْلَدَ: (۱) چقماق کا آگ نہ نکالنا (۲) سخت و خشک ہونا۔
صَلْدَة صَلُود: خشک، سخت۔
صُلُودَة: خشکی۔
صَلَّدَ السَّائِلَ تَصْلِيداً: سائل کو خالی ہاتھ واپس کرنا۔
تَصَلَّدَ السَّائِلُ: سیال شے کا جم جانا۔
صَلْصَلَة: زیور یا ہتھیاروں کی آواز، جھنکار۔
صَلْصَال: بجنے والی مٹی۔
صَلْصَة: (د) شوربا۔
صَلِعَ ۔ صَلَعاً: سر کے بال اڑ جانا۔
صَلِفَ ۔ صَلَفاً و تَصَلَّفَ غیر واقعی وصف بیان کرنا، ڈینگ مارنا۔
صَلَف: بے جا تعریف، ڈینگ، (۲) تکبر، شیخی۔
صَلِف: متکبر، دعویدار (۲) بے مزہ۔
صَلَّ السِّلَاحُ ۔ صَلِيلاً: ہتھیاروں کا آواز دینا۔
صَلِيلُ السِّلَاحِ: ہتھیاروں کی جھنکار۔
صَلَمَ ۔ صَلْماً: کان وغیرہ کاٹنا۔
(صلو) صَلَّى صَلَاةً: نماز پڑھنا۔
صَلَّى بِالنَّاس: لوگوں کو نماز پڑھانا۔
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ: اللہ کا رحمت نازل کرنا۔
مُصَلَّى: نماز کی جگہ، عید گاہ۔
مُصَلَّى الْعِيد: عید گاہ۔
صَلَى ۔ صَلْياً: آگ میں سینکنا، بھوننا، آگ میں جلانا۔
أَصْلَاهُ إِصْلَاءً: آگ میں ڈالنا۔
اصْطَلَى و تَصَلَّى: آگ پر ہاتھ تاپنا، گرمی حاصل کرنا (۲) آگ میں جلنا۔
صَلَايَة: کھرل۔
مُصْطَلَى: انگیٹھی جو دیوار میں لگی ہو۔

ص.........م

صَمَتَ ۔ صَمْتاً و صُمُوتاً: خاموش ہونا۔
صَمَّتَ تَصْمِيتاً: خاموش کرنا۔
صِمِّيتٌ، صَمُوت: کم گو، خاموش طبیعت۔
صَامِت: خاموش، بے آواز، بے زبان
حَائِطٌ مُصْمَتٌ: ایسی دیوار جس میں کوئی روشن دان وغیرہ نہ ہو۔
صَمَخَ أُذُنَه ۔ صَمْخاً: کان کا پردہ پھاڑنا۔
صِمَاخُ الأُذُن: کان کا پردہ ج: صُمُخ و أَصْمِخَة
صَمَدَ ۔ صَمْداً و صَمَّدَ فُلَاناً و لَهُ و إِلَيْهِ: قصد کرنا۔
صَمَدَ و صَمَّدَ لَهُ: جمنا، ثابت قدم رہنا۔
صَمَدَ و صَمَّدَ الزُّجَاجَة: ڈاٹ لگانا۔
صَمَدَهُ و صَمَّدَهُ بِالْعَصَا: لاٹھی سے مارنا۔
صَمَد: لازوال، قائم، دیرپا۔
صَامِد: ثابت قدم، مضبوط۔
صَامِدٌ لِلْمَاءِ: واٹر پروف۔
صَامِدٌ لِلنَّار: فائر پروف۔
صُمُود: پامردی، ثابت قدمی، مقابلہ۔
الصُّمُودُ ضِدَّ الضَّغْطِ: دباؤ کے خلاف اڑ

جانا۔
صَمْغٌ ج:أَصْمَاغ: گوند۔
اَصْمَغَتِ الشَّجَرَةُ: درخت پر گوند نکلنا۔
صَمَّغَ الشئ تَصْمِيغاً: گوند لگانا۔
صَمْغِيّ: گوند جیسا، گوند کا۔
صَمَلَ ـُ صُمُولاً: سخت ہونا (۲) سنبھالنا (۳) برقرار رہنا۔
صَمُولَة، صَامُولَة: پیچ، کابلا، ڈھبری، نٹ Nut۔
مِسْمَارٌ بِصَمُولَةٍ: پیچ دار کیل۔
مِفْتَاحُ صَمُولَةٍ: چابی جس سے کابلا کھولا جائے۔
صَمَّمَ الشئ تَصْمِيماً: خاکہ تیار کرنا، ڈیزائن تیار کرنا۔
صَمَّمَ عَلَى: پختہ ارادہ کرنا۔
صَمَّمَ وأَصَمَّ: بہرا بنانا۔
صَمَّ الزُّجَاجَةَ ـُ صَمّاً: ڈاٹ لگانا۔
صَمَّ ـَ صَمَماً: بہرا ہونا۔
تَصَامَّ عَنِ الحَدِيثِ: کانوں میں انگلیاں دے لینا، بات نہ سننا، بہرا بن جانا۔
صِمَامٌ، صِمَّة: ڈاٹ، وال۔
صَمَمٌ: بہرا پن۔
صَمِيم: خالص، اصل۔
مِنْ صَمِيمِ الفُؤَادِ: تہ دل سے، دل کی گہرائی سے۔
اَصَمُّ: بہرا ج: صُمٌّ
صَمَّاءُ: بہری۔
تَصْمِيم ج: تَصْمِيمَات و تَصَامِيمُ: خاکہ، ڈیزائن (۲) اسکیم۔
تَصْمِيمُ البِنَاء: عمارت کا ڈیزائن، نقشہ۔
تَصْمِيمُ خَرِيطَةٍ لِمَدِينَةٍ: شہر کا نقشہ تیار کرنا۔
تَصْمِيمٌ فَنِيّ: باضابطہ ڈیزائن
مُصَمِّمٌ: ڈیزائنر۔

ص..........ن

صِنَّارَة ج:صَنَانِير: شکار کا کانٹا۔
صُنْبُور ج:صَنَابِيرُ: ٹونٹی۔
صُنْدُوق ج:صَنَادِيقُ: بکس، ڈبا، پیٹی، ڈبیہ، کیش، فنڈ، روپیہ کا ذخیرہ، مالی ذرائع۔
صُنْدُوقُ الادِّخَار: پراویڈنٹ فنڈ، سیونگ فنڈ، سیونگ بینک۔
صُنْدُوقُ اِدِّخَارِ بَرِيْد: پوسٹ آفس سیونگ فنڈ۔
صُنْدُوقُ اِدِّخَارِ بَرِيْد: پوسٹ آفس سیونگ فنڈ۔
صُنْدُوقُ الاقْتِرَاع: انتخابی بکس، بیلٹ بکس۔
صُنْدُوقُ الاقْتِرَاعِ السِّرِّيّ: خفیہ بیلٹ بکس۔
صُنْدُوقُ البِرّ: خیراتی بکس۔
صُنْدُوقُ البَرِيْد: پوسٹ بکس۔
صُنْدُوقُ التَّنْمِيَة: ترقیاتی فنڈ۔
صُنْدُوقُ التَّنْمِيَةِ الزِّرَاعِيَّة: زرعی ترقیاتی فنڈ۔
صُنْدُوقُ التَّوْفِير: بچت فنڈ، سیونگ بینک۔
صُنْدُوقُ الثَّلْج: آئس بکس۔

صُنُدُوقُ الرَّسَائِلِ: لیٹر بکس۔
صُنُدُوقُ الشَّكَاوِى: شکایت بکس۔
صُنُدُوقُ الطَّوَارِئ: ہنگامی فنڈ، ایمرجنسی فنڈ، فوری یا ناگہانی ضرورت کے وقت کام آنے والا فنڈ۔
صُنُدُوقُ القُمَامَات: کوڑے کی ٹرالی، کوڑے دان۔
صُنُدُوقٌ لِادِّخَارِ النُّقُود أوجَمْعِ التبرُّعَات: منی بکس۔
صُنُدُوقُ المَال: مالی فنڈ۔
الصُّنُدُوقُ المُصَوِّت: ساؤنڈ بکس۔
صُنُدُوقُ المَعَاشَات: پنشن فنڈ۔
صُنُدُوقُ المَعُونَة: امدادی فنڈ۔
صُنُدُوقُ النَّقْدِ الدُّوَلِيّ: بین الاقوامی مالی فنڈ۔
صُنُدُوقُ النُّقُود: کیش بکس۔
صُنُدُوقٌ بِقُفْل: لاکر۔
صَنَادِيْقُ تَعْبِئَة: پیکنگ بکس۔
أمِيْنُ الصُّنُدُوق: خزانچی، کیشیر، تحویلدار۔
دَفْتَرُ الصُّنُدُوق: کیش بک۔
صَنَعَ ـــ صُنْعاً و صِنَاعَةً: بنانا (۲) کرنا (۳) پیدا کرنا (۴) تیار کرنا۔
صَنَعَ إلَيْه مَعْرُوفاً: حسن سلوک کرنا، احسان کرنا۔
صَنَعَ به صَنِيْعاً قَبِيْحاً: بدسلوکی کرنا۔
صَنَّعَ البِلَادَ تَصْنِيْعاً: ملک کو صنعتی بنانا۔
صَانَعَه مُصَانَعَةً: رشوت دینا، بنا کر رکھنا، نباہنا۔

اصْطَنَعَ الشَّيْئَ: تیار کرانا۔
اصْطَنَعَ و تَصَنَّعَ: نقلی بنانا، جعلی بنانا، گھڑنا، خلاف حقیقت فعل کرنا (۲) جعل سازی، ریاکاری، بناوٹ۔
تَصَنُّعُ المَرْأة: بناؤ، سنگار۔
تَصْنِيْعٌ: صنعت کاری۔
تَصْنِيْعُ البِلَاد: ملک کو صنعتی بنانا۔
تَصْنِيْعُ الاَسْلِحَة: اسلحہ سازی۔
تَصْنِيْعٌ حَرْبِيّ: جنگی صنعت کاری۔
تَصْنِيْعُ الدَّوَاء: دواسازی۔
تَصْنِيْعٌ شامل: ہمہ گیر صنعت کاری۔
صُنْعٌ: کام، فعل، بناوٹ، ایکٹ، عمل (۲) احسان، بھلائی۔
صُنْعُ يَدٍ: ہاتھ کا بنا ہوا۔
صَنْعَة: کاریگری، ہنر۔
صَنْعَة و صِنَاعَة: پیشہ۔
صَنْعَةٌ يَدَوِيَّة: دست کاری۔
صِنَاعَة: صنعت وحرفت، انڈسٹری ج: صِنَاعَات
صِنَاعَةُ الأدَب: لٹریچر۔
صِنَاعَةُ الإعْلَان: ایڈورٹائزمنٹ، پروپیگنڈا کا فن۔
صِنَاعَةُ البِنَاء: بلڈنگ سازی۔
صِنَاعَةٌ رَئِيْسِيَّة: بنیادی صنعت۔
صِنَاعَةُ السِّلَاح: ہتھیار سازی، اسلحہ کی صنعت۔
صِنَاعَةُ الطِّبَاعَة: پرنٹنگ، پرنٹ۔
صِنَاعَةٌ مَوْسِمِيَّة: وقتی صنعت، موسمی صنعت۔
صِنَاعَةُ النَّسِيْج: ٹیکسٹائل انڈسٹری، پارچہ بافی کی صنعت۔
صِنَاعَةٌ شَرِيْفَة: معزز پیشہ، معزز کام۔

صِنَاعَةٌ يَدَوِيَّة: دست کاری، ہاتھ کا ہنر۔
صِنَاعَاتٌ اسْتِهْلَاكِيَّة: مصنوعات صرف، کھپت والی مصنوعات۔
صِنَاعَاتٌ ثَقِيلَة: ہیوی انڈسٹری، بھاری صنعتیں۔
الصِّنَاعَاتُ الخَفِيفَة: ہلکی صنعتیں۔
الصِّنَاعَاتُ الزِّرَاعِيَّة: زرعی صنعتیں۔
صِنَاعَاتٌ كِمِيَائِيَّة: کیمیاوی صنعتیں۔
الصِّنَاعَاتُ النَّاشِئَة: چھوٹی صنعتیں، معمولی صنعتیں۔
صِنَاعِيّ: (۱) صنعتی، ٹیکنیکل، انڈسٹریل (۲) مصنوعی، نقلی، بناوٹی، غیر فطری۔
حَرِيرٌ صِنَاعِيّ: مصنوعی ریشم۔
صَنِيع: فعل۔
صَنِيع و صَنِيعَة: احسان، بھلائی۔
صَانِع ج: صُنَّاع: کاریگر، میکر، ہنر مند۔
صَانِعُ أَحْذِيَة: جفت ساز۔
صَانِعُ السِّلَاح: ہتھیار ساز۔
صَانِعُ العُطُور: پرفیومر، عطر ساز۔
صَانِعٌ مَاهِر: ہوشیار کاریگر۔
صَانِعُ المَرَائِي: آئینہ ساز۔
الصَّانِعُ اليَدَوِيّ: دست کار۔
صَانِع و صَنَائِعِيّ: کاریگر، کارکن، مزدور۔
صَانِعُ الإِسْتِعْمَار: سامراجی تخلیقات۔
مَصْنَع: ج: مَصَانِع: کارخانہ، مل، فیکٹری، ورکشاپ، پلانٹ۔
مَصْنَعُ تَعْبِئَة: پیکنگ پلانٹ۔
مَصْنَعُ الزُّبْدَة والجُبْن: ڈیری
مَصْنَعُ الرِّجَال: شخصیت ساز ادارہ۔

مَصْنَعٌ صَغِير: ورکشاپ۔
مَصْنَعُ الطُّوب: اینٹیں بنانے کا کارخانہ۔
مَصْنَعُ مَلَابِس: کلاتھ فیکٹری (مل) کپڑوں کا کارخانہ۔
مَصْنَعُ وَرَق: پیپر ورکس، پیپر مل۔
مَصَانِعُ: کارخانے، ملز، و: مَصْنَع
مَصَانِعُ الحَدِيد: لوہے کے کارخانے۔
مَصَانِعُ الغَزْل: سوت کے کارخانے۔
مَصَانِعُ القُطْن: کاٹن ملز۔
مَصْنُوعٌ بِاليَد: ہاتھ کا بنا ہوا۔
مَصْنُوعٌ فِي البَيْت: گھر کا بنا ہوا۔
مَصْنُوعَاتٌ زُجَاجِيَّة: کانچ کی مصنوعات۔
المَصْنُوعَاتُ المَحَلِّيَّة: مقامی یا ملکی مصنوعات۔
مَصْنَعِيَّة: اجرت مزدور (وا)
مُصْطَنَع: جعلی، نقلی، جھوٹا، غلط۔
صَنَّفَ تَصْنِيفاً: نوع بنوع کرنا (۲) کتاب لکھنا۔
تَصْنِيفُ السُّكَّان حَسَبَ السِّنّ: عمر وار آبادی کی ترتیب۔
صِنْفٌ ج: أَصْنَاف و صُنُوف: قسم، نوع، کوالٹی (۲) مرتبہ، درجہ۔
أَصْنَافٌ رَدِيئَة: خراب کوالٹی۔
مُصَنَّف ج: مُصَنَّفَات: کتاب۔
صَنَق: بدبو۔
صِنْوٌ: سگا بھائی، جڑواں بھائی۔
ص ل.........ہ

صَهْ (اُسْكُتْ): خاموش رہ۔
صَهْبَاءُ: شراب۔
صَهِبَ: (س) سرخی مائل ہونا۔
صَهَدَ الحَرُّ وَجْهَه ــ صَهْداً: دھوپ یا گرمی کا چہرہ کو جھلسنا۔
صَهْدٌ: تپش، آگ کی حرارت۔
صَهِيْد وصَيْهَد: گرمی کی شدت۔
يَوْمٌ صَهِيْد: سخت گرمی کا دن۔
صَهَرَ الْمَعْدِنَ ــ صَهْرًا: معدنیات کو پگھلانا، گلانا۔
صَهَرَ الحَدِيْدَ: لوہے کو پگھلانا۔
صَاهَرَهُمْ وفِيْهِمْ وإلَيْهِمْ مُصَاهَرَةً: داماد بنانا یا بننا، ازدواجی رشتہ قائم کرنا۔
انْصَهَرَ فِی: ڈھل جانا، گھل جانا۔
صِهْرٌ ج: أَصْهَارٌ: داماد (۲) بہنوئی۔
صَهِيْر ومَصْهُوْر: گلا ہوا، پگھلا ہوا۔
مَصْهَر: فاؤنڈری۔
صِهْرِيْج ج: صَهَارِيْج: پانی کا حوض، پانی کا تالاب، پانی کی ٹینکی، ٹینک۔
صِهْرِيْجُ القَاطِرَة: ریلوے انجن کے پیچھے لگا ہوا کوئلوں کا ڈبا۔
عَرَبَةُ الصِّهْرِيْج: ٹنک ویگن۔
صَهَلَ الحِصَانُ ــ صَهِيْلاً: ہنہنانا۔
صَهِيْل: گھوڑے کی آواز، ہنہناہٹ۔
صَهْوَة ج: صِهَاءٌ و صَهَوَات: پیٹھ، گھوڑے کا وہ حصہ جس پر سوار بیٹھتا ہے۔
صَهْيَنَة: صیہونی بنانا۔
صِهْيَوْنِيَّة: فلسطین میں یہود کی نو آبادی قائم کرنے کی تحریک۔

ص .... و

صَوَّبَ السَّهْمَ إلَى: تیر کو نشانہ پر لگانا، رخ کرنا، نشانہ لگانا۔
صَوَّبَ الخَطَأَ: غلطی کی اصلاح کرنا۔
صَابَ ــُ صَوْباً: بارش ہونا، نیچے اترنا۔
صَابَ واَصَابَ غَرَضَهُ: مقصد کو پالینا۔
أَصَابَ الرَّجُلُ فی الأَمْرِ: حق بجانب ہونا۔
أَصَابَ رَاحَةً: آرام پانا۔
أَصَابَ الهَدَفَ: مقصد کو پالینا۔
أَصَابَ الشَّیْءَ والرَّجُلَ: لاحق ہونا، پہنچنا۔
أَصَابَ مَطْلُوبَه: مقصد حاصل کرنا۔
أَصَابَ فی عَمَلِه: ٹھیک کام کرنا۔
أُصِيْبَ بِجُنُوْنٍ: کریک ہونا، دماغ خراب ہونا۔
أُصِيْبَ بِرَمَدٍ فی العَيْنِ: آنکھ دکھنا۔
أُصِيْبَ بَصَرُه: بینائی ختم ہونا۔
أُصِيْبَ بِمَرَضٍ: بیماری میں مبتلا ہونا۔
صَوْبٌ: جانب، طرف، جہت، گوشہ۔
صَوَابٌ: درست، ٹھیک (۲) عقل، ہوش۔
أَضَاعَ صَوَابَه: ہوش گم ہونا۔
صَائِبٌ، مُصِيْبٌ: درست کار، صحیح۔
إِصَابَةٌ: چوٹ، ضرب، نقصان (۲) درستگی۔
إِصَابَةٌ فِی حَادِثٍ: ایکسیڈنٹ۔
إِصَابَةٌ مُبَاشِرَة: براہ راست ضرب۔
إِصَابَةٌ مَرَضِيَّة: بیماری کا حملہ۔
إِصَابَاتٌ بَسِيْطَة: معمولی چوٹیں۔

اِصَابَاتٌ جَسَدِیَّة: جسمانی نقصانات۔
اِسْتِصْوَاب: پسندیدگی۔
مُصَاب: (۱) مصیبت زدہ، آفت رسیدہ، مجروح، مبتلا (۲) حادثہ۔
المُصَابُ بِالفَقْر: افلاس زدہ۔
مُصَابٌ و مُصِیبَةٌ: مصیبت
ج: مَصَائِبُ
صَوَّتَ تَصْوِیْتاً: آواز نکالنا، کسی چیز سے آواز پیدا ہونا، چیخنا۔
صَوَّتَ لہ فی کذا: انتخاب میں رائے دینا، ووٹ دینا۔
صَوْت ج: اَصْوَاتٌ: آواز (۲) ووٹ
صَوْتٌ فِی اِنْتِخَاب: ووٹ۔
صَوْتُ اِنْفِجَارٍ مُرْعِبٍ مُخِیْفٍ: دھماکہ کی خوفناک آواز۔
صَوْتٌ بَحِیْحٌ: بیٹھی ہوئی آواز۔
صَوْتٌ ضَجِرٌ: اکتائی ہوئی آواز۔
صَوْتٌ ضِدٌّ: مخالف ووٹ۔
صَوْتٌ مُتَهَدِّج: بیٹھی ہوئی آواز، بھرائی ہوئی آواز۔
صَوْتٌ مَدِیْد: بلند آواز۔
صَوْتٌ مُرْتَعِش: کپکپائی ہوئی آواز۔
الصَّوْتُ المُرَجِّعُ: کاسٹنگ ووٹ۔
صَوْتٌ مُغْتَاظ: غصہ میں بھری ہوئی آواز
صَوْتٌ هَادِرٌ ضِدَّ فُلان: کسی کے خلاف گرجتی ہوئی آواز۔
صَوْتٌ وَاطِیءٌ: پست آواز۔
رَجْعُ الصَّوْت: صدائے بازگشت۔
صَوْتِیّ: آوازدار۔

حَرْفٌ صَوْتِیّ: پڑھا جانے والا حرف۔ (ضد: حَرْفٌ صَامِتٌ)
صِیْت: شہرت، کیرکٹر۔
ذَائِعُ الصِّیْت: شہرہ آفاق، مشہور
صَیِّتٌ: بلند آواز۔
تَصْوِیْت: چیخ، آواز (۲) ووٹنگ، ووٹ دینا۔
تَصْوِیْتٌ بتلاوۃِ الأَسْمَاء: نام بول کر رائے شماری کرنا، رول کال ووٹنگ
تَصْوِیْتٌ بِرَفْعِ الیَد: ہاتھ اٹھا کر ووٹ دینا۔
التَّصْوِیْتُ فی جَانِبِ اَحَدٍ: کسی کو ووٹ دینا، کسی کے حق میں ووٹ دینا۔
تَصْوِیْتُ المَجْلِسِ عَلَى الاقْتِرَاح: تجویز پر مجلس کا رائے دینا۔
تَصْوِیْتُ دَوْلَةٍ علی جَانِبَ القَرار: کسی ملک کا قرار داد کے حق میں ووٹ دینا۔
مُصَوِّت: ووٹر، وہ شخص جسے رائے دہی کا حق ہو۔
(صوخ) صَاخَ فی کذا ـُ صَوْخاً: داخل ہوا، دھنسا۔
اَصَاخَ لہ: کان لگانا۔
اَصَاخَ بِسَمْعِہ: کان لگا کر سننا۔
صَوْدَا: سوڈا۔
صَوْدَا کَاوِیَة: سوڈا کاسٹک۔
مَاءُ الصَّوْدَا: سوڈا واٹر۔
صَوْدَا الغَسْل: واشنگ سوڈا۔
صَوَّرَ تَصْوِیْراً: فوٹو کھینچنا، نقشہ بنانا۔

صَوَّرَ الشَّیئَ: منظر کشی کرنا (۲) شکل دینا، صورت بنانا۔
تَصَوَّرَ الشَّیئَ: خیال کرنا۔
تَصَوَّرَ لَهُ الشَّیئُ: کسی چیز کا خیال آنا۔
صُوْرَة ج: صُوَر: (۱) فوٹو، تصویر (۲) سین، منظر، شکل (۳) نمونہ، مثال (۴) کیفیت (۵) نقشہ (۶) کاغذ کی نقل، کاپی۔
صُوْرَةٌ طِبْقَ الْأَصْل: نقل مطابق اصل۔
صُوْرَةٌ رَسْمِيَة: سرکاری نقل۔
صُوْرَةٌ شَمْسِيَة: عکسی تصویر، فوٹو۔
صُوْرَةٌ وَصْفِيَة: وضاحتی نقشہ۔
صُوْرَةٌ اَصْلِيَّة: اوریجنل کاپی، اصل کاپی۔
صُوْرَةٌ بِالكَرْبُون: کاربن کاپی۔
صُوْرَةٌ ثَانِيَة: ڈپلی کیٹ۔
صُوْرَة الحُكم: فیصلہ کی نقل۔
صُوْرَةٌ ضَوْئِيَّة: فوٹوگراف۔
الصُّوْرَة الطِّبَاعِيَّة: پرنٹ کاپی۔
صُوْرَةُ الفَاتُورة: بیجک کاپی۔
صُوْرَة فُوتُو غرَافِيَّة: فوٹو اسٹیٹ کاپی، عکسی تصویر۔
الصُّوْرَةُ المُحْزِنَة: افسوسناک صورت
صُوْرَةُ مُسْتَنَدٍ مُصَدَّقٌ عَلَيْهَا: تصدیق شدہ نقل، مصدقہ نقل۔
صُوْرَةُ مُشَكَّلة: عریاں تصویر۔
صُوْرَةٌ مُظْلِمَة: تاریک صورت۔
الصُّوْرَةُ المُقْتَرحَة: مجوزہ شکل۔
صُوْرَةٌ مُوْجَبَة: پازیٹیو۔
صُوْرَةٌ هَزْلِيَّة: کارٹون۔
صُوَرٌ فُوتُو غرَافِيَّة: البم۔
الصُّوَرُ المُتَحَرِّكَة: چلتی پھرتی تصویریں۔
صُوْر: ہارن۔
صُوْرِيّ: ظاہری، صورت ہی صورت کا۔
بِصُوْرَةٍ اَفْضَلَ: زیادہ بہتر طریقہ پر۔
بِصُوْرَةٍ حَاسِمَةٍ: قطعی طور پر۔
بِصُوْرَةٍ عَنِيفَة: تشدد آمیز طریقہ پر۔
بِصُوْرَةٍ غَيْرِ مَضْمُونَة: غیر اطمینان بخش طریقہ پر۔
بِصُوْرَةٍ فِعْلِيَة: عملی طور پر۔
بِصُوْرَةٍ مَضْمُونَة: اطمینان بخش طریقہ پر۔
تَصَوُّرٌ مَبْدَئِيٌّ: بنیادی نظریہ۔
تَصَوُّرِيٌّ: آئیڈیل، نظریاتی۔
تَصْوِيْرَة: فوٹو، تصویر۔
تَصْوِيْرٌ زَيْتِي: رنگین تصویر۔
تَصْوِيْرٌ فُوتُوغرَافِيّ: عکسی تصویر، فوٹو۔
تَصْوِيْرُ المَوْقِف: صورت حال بتانا۔
لَوْحَةُ التَّصْوِيْر: فوٹوگرافی کی پلیٹ۔
آلَةُ التَّصْوِيْرِ الشَّمْسِيَ: کیمرا
مُصَوِّر: آرٹسٹ۔
مُصَوَّرٌ جُغْرَافِيّ: میپ، اٹلس۔
المُصَوِّرُ السِّيْنَمَائِيّ: کیمرا مین۔
مُصَوِّرٌ شَمْسِيّ: فوٹوگرافر۔
المُصَوِّرُ الضَّوئِيّ: کیمرا مین، فوٹوگرافر۔
مُصَوِّرَاتِي: فوٹوگرافر۔
صُوْص: (دا) مرغی کا بچہ جو انڈے سے نکلا ہو ج: صِيْصَان
صُوْع، صَاع: کھیل کا میدان۔
صَاعَ ـــ صَوْعًا: ڈرانا (۲) ناپ کردینا

(۳) منتشر کرنا (۴) موڑنا۔
اِنْصِیَاع: لوٹنا، مطیع ہونا، تیزی سے دوڑنا۔
الاِنْصِیَاعُ لِأَحَدٍ: سرتسلیم خم کرنا۔
صَاعٌ ج: اَصْوَاعٌ و صِیْعَان: ایک پیمانہ۔
(صوغ) صَاغَ ـُ صَوْغاً: کسی نمونہ پر کوئی چیز تیار کرنا، بنانا، گھڑنا، سونا چاندی کو ڈھالنا، گھڑنا۔
صَاغَ الکَلِمَةَ: کلمہ کو کسی خاص شکل پر بنانا۔
ـــ الکَلَام: بات گھڑنا، کلام کو عمدہ بنانا، کسی خاص طرز پر تیار کرنا۔
ـــ المِیْثَاقَ: معاہدہ تیار کرنا۔
صَائِغٌ ج: صَاغَة: سنار، زیورات بنانے والا۔
صَاغ: (دا) ایک فوجی عہدہ (میجر)
صِیْغَة ج: صِیَغ: مخصوص شکل، فرمہ کلمہ کی صورت، فعل کی شکل، عبارت، مضمون
صِیْغَةُ الاتِّفَاقِیَة: معاہدہ کی شکل، معاہدہ کا مضمون۔
صِیْغَةُ عَمَلٍ: طریقہ کار، نوعیت کار۔
صِیْغَةٌ فَعَّالَة: موثر شکل۔
صِیْغَةُ القَانُون: قانونی شکل۔
صِیْغَةُ المَعَادِن: معدنیات ڈھالنے کا سانچہ۔
صِیْغَةٌ و مَصَاغٌ: زیور۔
صِیَغُ التَّدَاخُل: مداخلت کی شکلیں، عنوانات۔
صِیَاغَةُ المُعَاهَدَة: معاہدہ کی ترتیب، معاہدہ کی عبارت، مضمون۔

مَصُوغَات: زیورات۔
صُوْفٌ: (ا) اُون، بکری اور اونٹ کے بال (ہ) اونی کپڑا۔
صُوْفٌ مَغْزُوْل: اونی دھاگہ۔
صُوْفِيّ: اونی، اُون کا (۲) تصورف اختیار کرنے والا۔
صَوَّاف: اُون فروش، اُونی کپڑوں کا تاجر۔
صَوَّلَ الذَّهَبَ وَغَیْرَہ: پانی سے دھوکر صاف کرنا، غلہ صاف کرنا۔
صَوَّلَ البَیْدَرَ: جھاڑو دینا۔
صَالَ ـُ صَوْلاً: جست لگانا۔
صَالَ عَلَیْہ: حملہ کرنا۔
صَوْلَة: طاقت، قوت، دبدبہ۔
ذُوْصَوْلَة: طاقتور۔
مِصْوَلَة: جھاڑو۔
صَوْلَجَان: موٹھ دار ڈنڈا۔
صَوَّمَ تَصْوِیْماً: روزہ رکھانا، روزہ دار بنانا۔
صَامَ عَنْ کذا ـُ صَوْماً: رکنا، باز رہنا۔
صَامَ ـُ صَوْماً و صِیَاماً اسلامی شریعت کے مطابق روزہ رکھنا۔
صَامَ عَنِ الطَّعَام: کھانے سے باز رہنا، برت رکھنا۔
صَوْمَعَة ج: صَوَامِع: راہب کا عبادت خانہ، چھوٹا کمرہ، کوٹھڑی، کیبن (بڑے کمرے کا اندرونی کمرہ)۔
صَوَامِعُ الغِلَال: غلہ کے گودام۔
(صون) صَانَ ـُ صَوْناً: حفاظت کرنا۔
صِوَان، صُوَانَات: (ا) کواڑ دار الماری،

کپڑوں یا کتابوں کی الماری۔
صُوَان: (۲) بکس (۳) خیمہ۔
صَوَّان: سخت ترین پتھر۔
صَائِنٌ: محافظ، بچاؤ کرنے والا۔
صِيَانَة: تحفظ۔
مَصُوْن: محفوظ۔
صُوَّة: نشان راہ، سڑک پر لگا ہوا بورڈ جس سے مختلف سمتیں معلوم ہوتی ہیں ج: صُوىً
صَوَى ـِـ وصَوِيَ ـَـ صَوىً و صُوِيّاً: خشک ہونا (درخت یا تھن وغیرہ کا)۔

ص .... ی

صَيَّح تَصْيِيْحاً: چیخنا۔
صَاحَ ـِـ صَيْحاً: چیخنا، چلانا، شور مچانا، مرغ کا بولنا۔
صَاحَ عليه: جھڑکنا، دھمکانا۔
صَاحَ به: آواز دینا۔
صَيْحٌ و صِيَاحٌ: چیخ۔
صَيَّاح: شور مچانے والا۔
صَيْحَة: ایک چیخ، ایک آواز۔
صَيْحَة الحَرْب: اعلان جنگ۔
صَيْدٌ ج: صُيُود: شکار۔
صَادَ ـِـ و اصْطَادَ: شکار کرنا۔
اِصْطَادَ الكُرَة: بال کیچ کرنا، گیند کو پکڑنا۔
صَائِد، صَيَّاد: شکاری۔
صَيَّادَة: غلیل۔
مِصْيَدَة: پھندا، جال ج: مَصَائِدُ
مِصْيَدَةُ الفِيْرَان: چوہے دان۔
مَصْيَدَة: شکارگاہ۔
مُتَصَيِّدُ الاَصْوَاتِ فی الانْتِخَابَات: الیکشن میں کنویسنگ کرنے والا۔
صَيْدَلَة: دواسازی۔
صَيْدَلِيَّة: فارمیسی، انگریزی دواخانہ۔
صَيْدَلِيّ، صَيْدَلَانِيّ: انگریزی دوائیں فروخت کرنے والا۔
صَيَّرَ تَصْيِيْراً: ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، بنانا۔
صَارَ ـِـ صَيْرُوْرَةً: (۱) ہونا (۲) واقع ہونا (۳) پیش آنا (۴) ایک حالت سے دوسری میں منتقل ہونا۔
صَارَ يَفْعَلُ: کرنے لگا۔
صَارَ إلى كذا: پہنچنا۔
صَارَ به إلى كذا: پہنچانا۔
صَارَ مَوْضِعَ ثِقَةِ فُلان: اعتماد حاصل کرنا، معتمد بن جانا۔
مَصِيْر: انجام، انتہائے کار، حشر، نتیجہ ج: مَصَائِرُ مَصِيْرُ البِلادِ: ملک کی قسمت، انجام۔
مَصِيْرُ الحَرْب: جنگ کا نتیجہ۔
المَصِيْرُ القَوْمِيّ: قومی حشر۔
مَصِيْرٌ مَحْتُوم: یقینی انجام۔
المَصِيْرُ المُحْزِنُ: افسوسناک انجام۔
مَصِيْرٌ وَخِيم: برا انجام۔
مَصِيْرِيّ: موت وحیات سے متعلق، بنیادی۔
تَقْرِيْرُ المَصِيْر: قسمت کا فیصلہ کرنا، انجام طے کرنا۔
(صيع) صَاعَ ـِـ صَيْعاً: ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکانا، انتشار پیدا کرنا، منتشر کرنا،

پھوٹ ڈالنا۔
انْصِيَاع: تیزی سے لوٹنا۔
انْصِيَاعُ الطَّائِرِ: پرندہ کا فضا میں اُڑنا۔
صَيَّفَ تَصْيِيفاً و اصْطَافَ: گرمی کا موسم گزارنا۔
صَيْف: موسمِ گرما۔
صَيْفِيّ: گرمی کا، موسمِ گرما کا۔
مَصِيف: گرمی گزارنے کا مقام، ٹھنڈا مقام ج: مَصَايِفُ۔
صِين: چین۔
الصِّينُ الشَّعْبِيَّة: عوامی چین، ڈیموکریٹک چین۔
صِينِيّ: چینی، چین کا باشندہ۔
صِينِيّ و صَوَانِيّ: چینی مٹی کے برتن۔
صِينِيَّة: سینی، ٹرے ج: صِينِيَّات۔

ض

ض.............أ

ضَؤُلَ ـــُـ ضَآلَةً: (۱) کمزور ہونا (۲) کم اور معمولی ہونا۔

ضَئِیلٌ: کمزور (۲) معمولی، آف، دھیما۔

ضَئِیلُ الفَاعِلِیَّةِ: معمولی کارکردگی والا، بے اثر۔

تَضَاؤُلٌ: کمزور پڑ جانا (۲) گراوٹ، زوال، کمزوری۔

تَضَاؤُلُ سُلْطَةِ الدَّوْلَةِ: ملک کے اقتدار کا زوال۔

تَضَاؤُلُ العَامِلِ عَنْ أَدَاءِ وَظِیفَةٍ: کارکن کا ادائیگی فرض میں کوتاہی کرنا۔

ضَأْن و: ضَائِن: بکری۔

ضَأْنِیّ: بکری کا (۲) بکری کا گوشت۔

ض.............ب

ضَبَّبَ و ضَبَّ علی کذا ـــِـ ضَبًّا: (۱) انتہائی خواہشمند ہونا (۲) مضبوط پکڑنا۔

ضَبَّبَ البَابَ: دروازہ کو بمضی تالے سے بند کرنا یا موسل سے بند کرنا۔

أَضَبَّ النَّهَارُ: دُھند آلود ہونا۔

ضَبَابٌ: دُھند، کُہر، وہ ابخارات جو زمین کو گھیر کر دھند لا بنا دیتے ہیں۔

ضَبَابٌ كَثِیفٌ: زبردست کُہر۔

ضَبَّةُ البَابِ: بمضی تالہ، موسل یا چٹخنی جو دروازہ کے اندرونی جانب لگی ہوتی ہے۔

إِضْبَارُ الأَوْرَاقِ: فائل کرنا، فائلنگ۔

إِضْبَارَة ج: أَضَابِیرُ: (۱) فائل (۲) کاغذات کا بستہ یا بنڈل (۳) مسل۔

خِزَانَةُ إِضْبَارَاتٍ: فائل رکھنے کی الماری۔

ضَبَطَ ـــُـ ضَبْطاً: (۱) پکڑنا، قابو میں لانا (۲) گرفتار کرنا (۳) درست کرنا، ایڈجسٹ کرنا، گھڑی کا وقت ٹھیک کرنا، گھڑی ملانا، ملان کرنا، چیک کرنا، غلطی درست کرنا (۴) مرتب کرنا (۵) قابو پانا، کنٹرول کرنا (۶) ضبط کرنا، جذبات پر قابو پانا (۷) غالب آنا (۸) پختہ اور مضبوط بنانا۔

اِنْضَبَطَ: ایڈجسٹ ہونا، اپنی جگہ پر فٹ ہونا۔

ضَبْطٌ: (۱) تصحیح (۲) ملان، چیکنگ (۳) مضبوطی (۴) گرفتاری (۵) ہولڈ (۶) ضبطِ نفس۔

ضَبْطُ الجَرِیدَةِ: اخبار ضبط کرنا۔

ضَبْطُ السَّاعَةِ بِسَاعَةٍ: گھڑی ملانا۔

ضَبطُ النَّسل: برتھ کنٹرول۔
ضَبط و انضِبَاط: گرفتاری، ضبطی۔
بالضَّبط: ٹھیک ٹھیک، صحیح طور پر۔
ضَبطِیَّة: پولیس اسٹیشن۔
ضَابِط: افسر ج: ضُبَّاط۔
ضَابِطُ اتِّصَال: افسرِ رابطہ۔
ضَابِطُ الصِّحَّة: ہیلتھ آفیسر۔
ضَابِطُ الطَّیَرَان: افسرِ فضائیہ۔
ضَابِطٌ فی البَحرِیَّة: کمانڈر۔
ضَابِطٌ قَضَائِیّ: عدالتی افسر۔
ضَابِطٌ کَبِیرٌ: جنرل آفیسر۔
ضَابِطُ المَخفَر: انچارج کوتوالی، تھانیدار، تھانہ انچارج، داروغہ۔
ضَابِطُ مَیدَان (ضَابِطٌ اَعلَی رُتبَةً مِنْ کَابتَن): فیلڈ آفیسر۔
الضَّابِطُ المُنَفِّذ: ایگزیکٹوافسر۔
الضُّبَّاط: افسران۔
ضُبَّاطُ الشُّرطَة: پولیس افسران۔
الضُّبَّاطُ العَسکَرِیُّون: فوجی افسران۔
ضَابِطَة: پولیس۔
ضَوَابِط: اصول۔
مَضبَطَة: معاہدہ، پروٹوکول۔
مَضبَطَةُ مَجلِسٍ أو جَلسَةٍ: کارروائی، روئداد۔
مِضبَط: کنٹرول کی مشین۔
مَضبُوط: درست، پختہ، صحیح، منضبط، مرتب۔
ضَبُعٌ ج: ضِبَاع: بجو۔

ض .... ج

ضَجَّ ـِ ضَجّاً و ضَجِیجاً: شوروغل کرنا۔
ضَجَّ المَکَانُ بکذا: گونجنا۔
ضَجَّة: شور، ہنگامہ، اُدھم۔
الضَّجَّةُ الکُبرَی: بڑا ہنگامہ۔
ضَجِیج: شوروغل، ہنگامہ۔
ضَجِرَ ـَ ضَجَراً و تَضَجَّرَ من: تنگ آنا، پریشان ہونا۔
اَضجَرَه: پریشان کرنا، تنگ کرنا۔
ضَجَرٌ من: اچاٹ پن، گھٹن، تنگی، پریشانی، اُکتاہٹ۔
ضَجِرٌ، مُتَضَجِّرٌ: پریشان، اکتایا ہوا۔
مُضجِر: پریشان کن۔
ضَجَعَ ـَ ضَجعاً و ضُجُوعاً و اضطَجَعَ: لیٹنا، سونا۔
ضَاجَعَهُ الهَمُّ: غم سوار ہونا۔
ضَاجَعَ المَرأَةَ: ہم بستری کرنا۔
ضُجَعَة: آرام پسند، کاہل۔
مَضجَع ج: مَضَاجِع: بستر، پلنگ، خوابگاہ، سونے کا کمرہ۔

ض .... ح

ضَحضَحَ السَّرَابُ: سراب چمکنا۔
ضَحضَاحٌ: کم گہرا، اُتھلا، پچھلا۔
ضَحِکَ ـَ ضِحکاً: ہنسنا۔
ضَحِکَ عَلَیهِ و مِنهُ: مذاق اُڑانا۔
ضَحِکَ مَعَه: مذاق ودل لگی کرنا۔
ضَحَّکَ و اَضحَکَ: ہنسانا۔
ضَحَّکَ علیه: ذریعہ مذاق بنانا۔
ضِحکٌ: ہنسی، مذاق۔
ضُحکَة، اُضحُوکَة، مَضحَکَة: ہنسی کا

ذریعہ۔

ضَحّاک، مُضحِک: مسخرہ، ہنسنے ہنسانے والا، مزاحیہ، مذاقی۔

ضَحُوک: بہت ہنسنے والا، ہنس مکھ۔

مُضحِک: مضحکہ خیز۔

ضَحْلٌ: نا گہرا، اُتھلا، پایاب (ضِد عَمِیق)۔

ضَحِيَ ـَ ضَحَاءً: منکشف ہونا (۲) دھوپ میں نکلنا۔

ضَحّٰی بکذا تَضْحِيَةً: قربان کرنا، قربانی دینا۔

اَضْحٰی: ہوگیا۔

اَضْحٰی یَفْعَلُ: کرنے لگا۔

اَضْحَی الشَّیْءَ: (۱) ظاہر کیا (۲) دھوپ میں لایا۔

تَضْحِيَة: قربانی ج: تَضْحِیَات۔

ضَحْوَة، ضُحَی، ضَحِیَّة: (۱) ظہور (۲) دن کی روشنی (۳) دن چڑھنے کا وقت۔

ضَحِیَّة ج: ضَحَایَا، اُضْحِیَّة ج: اَضَاحِيّ: قربانی کا جانور (۲) ناکردہ گناہ (۳) شکار، بھینٹ۔

ذَهَبَ ضَحِیَّةَ کذا: ناکردہ گناہ، مارا گیا، شکار ہوگیا، بھینٹ چڑھ گیا۔

ضَحَایَا کذا: کسی چیز کی نذر ہونے والے، شکار ہونے والے، زدگان۔

ضَاحِیَة ج: ضَوَاحٍ: شہر سے متصل علاقہ، اطراف۔

ضَوَاحِي البَلْدَة: اطراف شہر۔

ض............خ

ضَخَّ المَاءَ ـُ ضَخًّا: پانی بہانا، چھڑکنا۔

ضَخٌّ: زمین سے پانی وغیرہ نکالنا۔

ضَخُّ البِتْرُول وغَیْرِہٖ: پٹرول نکالنا، پمپنگ کرنا۔

مِضَخَّة: پچکاری، پمپ، ہینڈ پمپ۔

مِضَخَّةُ الحَرَائِق: فائر انجن۔

مِضَخَّةُ ذَاتُ ضَغْطٍ عَالٍ: زبردست دباؤ والا پمپ، ہائی پریشر پمپ۔

المِضَخَّةُ النَّافُورِیَّة: جیٹ پمپ۔

ضَخُمَ ـُ ضَخَامَةً: بھاری بھر کم ہونا، بڑے سائز کا ہونا، موٹے ڈل کا ہونا۔

تَضَخَّمَ: (۱) بڑا ہونا (۲) بھاری بھر کم ہونا، بڑے سائز کا ہونا (۳) زیادہ ہونا، بڑھنا (۴) اضافہ، افراط۔

تَضَخُّمُ الإنْتَاج: پیداوار میں اضافہ ہونا۔

تَضَخُّمٌ جَامِعٌ: تباہ کن افراط۔

تَضَخُّمُ العُمْلَة: کرنسی کی افراط۔

تَضَخُّمٌ مَالِيٌّ: افراط زر۔

تَضْخِیمُ ذَاتٍ: کسی کی شخصیت کو بڑا بنا کر پیش کرنا۔

ضَخْمٌ: زبردست، بڑے سائز کا بھاری بھر کم، عالیشان، شاندار۔

ض............د

ضَدَّہٗ ـُ ضَدًّا: غالب آنا۔

ضَادَّہٗ مُضَادَّةً: مخالفت کرنا۔

مُضَادٌّ: مخالف، برعکس، برخلاف۔

مُضَادٌّ لِلثَّوْرَة: مخالفِ انقلاب، انقلاب مخالف۔

مُضَادٌّ لِلدَّبَّابَات: ٹینک شکن۔

ضِدٌّ: مخالف، خلاف۔
ضِدَّ کذا: برعکس، مقابلہ میں۔

ض .... ر

ضَرَبَ ـِ ضَرْباً: (۱) مارنا۔
__ ضَرْباً مُبَرِّحاً: ضربِ کاری لگانا۔
__ الجُرْحُ أو الضِّرْسُ: زخم یا ڈاڑھ میں درد ہونا، زخم میں پیپ پڑنا۔
__ عَلَى الكَلِمَةِ: قلم زد کرنا، کاٹنا۔
__ الجَرَسَ: گھنٹی بجانا۔
__ الخَيْمَةَ: ڈیرہ لگانا۔
__ اَطْنَابَه: جڑ پکڑنا، راسخ ہونا۔
__ الأَجَلَ: وقت مقرر کرنا۔
ضَرَبَ المَوْعِدَ مَعَ: کسی کے ساتھ گفتگو کا وقت مقرر کرنا۔
__ البَيْضَ: انڈے پھینٹنا۔
__ البَابَ عَلَى اَحَدٍ: دروازہ کھٹکھٹانا۔
__ اَخْمَاساً لِاَ سْدَاسٍ: دھوکہ دینے کی کوشش کرنا (۲) حیران و پریشان ہونا۔
__ عَدَداً في آخر: ضرب دینا۔
__ عَنْه صَفْحاً: منھ پھیرنا، کنارہ کش ہونا، توجہ ہٹانا۔
__ عَلَيْهِ ضَرِيْبَةً: ٹیکس لگانا۔
__ النُّقُودَ: سکہ ڈھالنا۔
__ الخَاتَمَ: انگوٹھی گھڑنا۔
__ طُوباً: اینٹ بنانا۔
__ عُنُقَهُ: سر اڑانا، گردن مارنا۔
__ بِالسِّلَاحِ النَّارِيِّ: شوٹ کرنا، گولی مارنا۔
__ مَثَلاً: مثال بیان کرنا، مثال دینا، مشہور قول یا کہاوت کہنا۔
__ فِي البُوْقِ: ہارن بجانا۔
__ تِلِغْرَافاً: تار کرنا، ٹیلیگرام دینا۔
__ تِلِفُوناً: (۱۰) ٹیلیفون کرنا۔
__ عَنْه: رخ پھیرنا، توجہ ہٹانا۔
__ إليه: مائل ہونا۔
ضَرَبَتِ العَقْرَبُ: ڈنک مارنا۔
ضَرَّبَ و ضَرَّبَ بَيْنَهُمْ: پھوٹ ڈالنا۔
ضَارَبَه مُضَارَبَةً: مزاحمت کرنا، مقابلہ کرنا۔
تَضَارَبَ القَوْلَيْنِ: دو باتوں کا باہم متناقض ہونا۔
اَضْرَبَ اِضْرَاباً: قائم کرنا۔
اَضْرَبَ عَنْهُ: اعراض کرنا۔
اَضْرَبَ العَامِلُ عن العَمَلِ: ہڑتال کرنا، اسٹرائک کرنا۔
إِضْرَابٌ عَامٌّ: جنرل اسٹرائک۔
إِضْرَابُ العُمَّالِ: مزدور ہڑتال، لیبر ہڑتال۔
إِضْرَابٌ عَنِ العَمَلِ: ہڑتال۔
إِضْرَابٌ عَنِ الطَّعَامِ: بھوک ہڑتال۔
اضْطَرَبَ: (۱) جوش میں آنا، مضطرب ہونا (۲) حرکت میں آنا (۳) مختل ہونا (۴) بے چین ہونا (۵) پریشان ہونا۔
ضَرْبٌ: (۱) چال (۲) مار چوٹ (۳) قسم (۴) مصیبت، آفت ج: ضُرُوْب۔
ضَرْبُ الأَهْدَافِ: ٹھکانوں پر حملہ کرنا، نشانہ بنانا۔
ضَرْبُ الحَلْقَةِ الفُوْلَاذِيَّةِ حَوْلَ اَحَدٍ: مضبوط حصار قائم کرنا۔

ضَرْبُ الرَّقْمِ القِيَاسِيِّ: ریکارڈ قائم کرنا۔
ضَرْبُ الطَّائِرَاتِ المُدُنَ: ہوائی جہازوں کا شہروں کونشانہ بنانا۔
ضَرْبُ العِمَارَةِ بالطُّوْبِ و الحِجَارَةِ: عمارت پر اینٹ پتھر برسانا۔
الضَّرْبُ فی العُمْقِ: اندر تک گھس کر حملہ کرنا۔
ضَرْبُ المِثَالِ فی كذا: مثال قائم کرنا، ریکارڈ قائم کرنا۔
ضَرْبُ المُخَيَّمَاتِ فی كذا: کیمپ لگانا۔
ضَرْبُ الوَحْدَةِ: اتحاد کونقصان پہنچانا۔
ضَرْبَة: وار، حملہ، چوٹ۔
ضَرْبَةٌ اَخِيْرَةٌ: آخری وار، آخری حملہ۔
ضَرْبَةُ الطَّيَرَانِ: فضائی حملہ۔
ضَرْبَةٌ قَاسِيَة: ضربِ کاری، کاری ضرب۔
ضَرْبَةٌ قَاضِيَة: آخری وار، جان لیوا ضرب۔
ضَرْبخَانَة: (دا) دارالضرب جہاں سکے ڈھالے جاتے ہیں۔
ضَارِبٌ إلَى الحُمْرَةِ: سُرخی مائل۔
الضَّارِبُ إلَى السَّوَادِ: مائل بہ سیاہی۔
ضَارِبُ الكُرَةِ: بیٹس مین۔
قُوَّةٌ ضَارِبَة: زبردست قوت۔
ضَرِيْبَة: ٹیکس ج: ضَرَائِبُ۔
ضَرِيْبَةُ الاَرَاضِی أو العَقَارِ: زمین کا ٹیکس۔
ضَرِيْبَةُ الاَرْبَاحِ: منافع ٹیکس۔
ضَرِيْبَةُ الاَمَانِ: جزیہ۔
ضَرِيْبَةُ الاَطْيَانِ: خراج۔
ضَرِيْبَةٌ اِضَافِيَّة: سرچارج، سرٹیکس، زائد ٹیکس۔
ضَرِيْبَةٌ اِضَافِيَّةٌ علَى الدُّخُوْلِ المُرْتَفِعَة: بڑھتی ہوئی آمدنیوں پر سرٹیکس۔
ضَرِيْبَةٌ اِضَافِيَّةٌ علَى الوَارِدَاتِ: درآمدات پر سرچارج۔
ضَرِيْبَةُ الاِنْتَاجِ المَحَلِّيِّ: ایکسائز ڈیوٹی، مقامی پیداوار کا ٹیکس۔
ضَرِيْبَةُ المُسَقَّفَات (المَبَانِی): ہاؤس ٹیکس۔
ضَرِيْبَةُ الدَّخْلِ: انکم ٹیکس۔
ضَرِيْبَةُ الدَّخْلِ العَامِّ: جنرل انکم ٹیکس، عمومی آمدنی پر ٹیکس۔
ضَرِيْبَةُ الرَّأسِ: پول ٹیکس۔
ضَرِيْبَةُ الصَّادِرَاتِ: اکسپورٹ ٹیکس۔
الضَّرِيْبَةُ الصَّافِيَة: خالص ٹیکس۔
ضَرِيْبَةٌ عَقَارِيَّة: زمین کا ٹیکس۔
ضَرِيْبَةٌ عَلَى الإِيْرَادِ: انکم ٹیکس۔
ضَرِيْبَةٌ علی المَنَازِلِ: ہاؤس ٹیکس۔
ضَرِيْبَةٌ مُبَاشِرَةٌ: ڈائرکٹ ٹیکس۔
ضَرِيْبَةٌ غَيْرُ مُبَاشِرَةٍ: اِن ڈائرکٹ ٹیکس۔
ضَرِيْبَةُ المَبِيْعَاتِ: سیلز ٹیکس۔
ضَرِيْبَةُ المُرُوْرِ: ٹول ٹیکس۔
ضَرِيْبَةُ المَلَاهِی: کھیلوں کا ٹیکس۔
ضَرِيْبَةُ المَنَازِلِ: ہاؤس ٹیکس۔
ضَرِيْبَةُ الوَارِدِ: امپورٹ ٹیکس۔
ضَرَائِبُ عَلَى الاَمْلَاکِ: پراپرٹی ٹیکس، جائیداد ٹیکس۔
ضَرَائِبُ المَبَانِی: بلڈنگ ٹیکس۔
الضَّرَائِبُ المَحَلِّيَّة: لوکل ٹیکس۔
مَصْلَحَةُ الضَّرَائِبِ: ٹیکس کا محکمہ۔

اِضْطِرَاب: (۱) گڑبڑ (۲) بدامنی، ابتری (۳) فساد (۴) تردد (۵) ہنگامہ، افراتفری ج: اضْطِرَابَات۔
اِضْطِرَابَات: ہنگامے، فسادات۔
اِضْطِرَابَاتٌ عَنِيفَة: زبردست ہنگامے۔
اِضْطِرَابَاتٌ طَائِفِيَّة: فرقہ وارانہ جھگڑے، ہنگامے۔
تَضَارُب: تضاد، تناقض۔
تَضَارُبُ الآرَاء: اختلاف آراء۔
مُضْرِب: اسٹرائکر، اسٹرائک کرنے والا۔
مِضْرَبُ الكُرَة: بلا، بیٹ۔
مِضْرَبٌ و مِضْرَابُ التِّنِس: ٹینس کھیلنے کا بلا، ریکیٹ۔
مِضْرَب ج: مَضَارِبُ: خیمہ۔
مَضْرُوْب: وہ عدد جسے ضرب دی گئی۔
مَضْرُوْبٌ فِيه: وہ عدد جس میں ضرب دی گئی۔
مُضَارِبٌ تِجَارِيٌّ: تجارت میں مقابلہ کرنے والا۔
مُضَارِبٌ عَلَى الصُّعُوْد: خریدار۔
مُضَارِبٌ عَلَى النُّزُوْل: بائع۔
مُضَارَبَة: مزاحمت کرنا، مقابلہ کرنا۔
مُضَارَبَةٌ تِجَارِيَّة: تجارتی مقابلہ۔
ضَرَجَ ۔ُ ضَرْجاً و ضَرَّجَ تَضْرِيجاً: لت پت کرنا، ملوث کرنا۔
اِنْضِرَاجٌ: ہواباز کا پیراشوٹ کے ذریعہ نیچے اترنا۔
مُضَرَّجٌ بِالدَّم: خون آلود۔

ضَرَحَ القَبْرَ ۔َ ضَرْحاً: قبر کھودنا۔
ضَرِيْح ج: اَضْرِحَة: قبر۔
ضَرَّرَ تَضْرِيْراً: زبردست نقصان پہنچانا۔
ضَرَّ ۔ُ ضَرّاً و أَضَرَّ: نقصان دینا۔
أَضَرَّهُ عَلَى: مجبور کرنا۔
أَضَرَّ الرَّجُلُ: مرد کا دوسری بیوی کرنا، پہلی بیوی کی سوکن لانا۔
اضْطَرَّهُ إِلَى: مجبور کرنا۔
اُضْطُرَّ إِلَى: مجبور ہونا، مجبور کیا جانا۔
اِضْطِرَار: ایمرجنسی۔
اِضْطِرَارِيّاً: غیر اختیاری طور پر۔
اِنْضِرَار و تَضَرُّر: نقصان اٹھانا۔
الضَّرَرُ: نقصان ج: اَضْرَارٌ۔
اَضْرَارٌ بَسِيطَة: معمولی نقصانات۔
ضَرَّةُ المَرْأَة: سوکن ج: ضَرَائِرُ۔
ضَرَّاءُ: مُصیبت، سختی۔
ضَرُوْرَة: حاجت، ضرورت ج: ضَرُوْرَات۔
ضَرُوْرَةٌ قُصْوَى: سخت ضرورت، شدید ضرورت۔
ضَرُوْرَاتٌ أَسَاسِيَّة: بنیادی ضرورتیں۔
ضَرُوْرِيَّات: ضرورتیں، ضروری چیزیں۔
ضَرُوْرِيَّاتُ الحَيَاةِ: ضروریات زندگی۔
ضَرُوْرِيَّاتٌ مَأْلُوفَة: عام ضرورت۔
ضَرِيْر ج: اَضِرَّاء: نابینا۔
مَضْرُوْر: نقصان اٹھانے والا، نقصان رسیدہ۔
ضَرِسَ ۔َ ضَرْساً: کسی چیز کو دانتوں کے ذریعہ زور سے پکڑنا، ڈاڑھوں سے پکڑنا یا دبانا۔
ضِرْسٌ ج: أَضْرَاس: ڈاڑھ۔

ضِرسُ العَقل: عقل ڈاڑھ۔
ضَرَطَ ـِ ضَرطاً و ضُرَاطاً: گوز مارنا۔
ضَرٌ، ضُرَاط: گوز۔
ضَرَّاط و ضَرُوْط: گوز مارنے والا۔
ضَرَعَ ـَ ضُرُوعاً و تضرَّعَ إليه: گڑگڑانا، اظہارِ عجز کرنا۔
ضَارَعَهُ مُضَارَعَةً: مشابہ ہونا۔
ضَرعٌ ج: ضُرُوْع: تھن۔
مُضَارَعَة: مشابہت۔
ضِرغَام، ضَرغَم: شیر قوی ج: ضَرَاغِمُ۔
ضَرِمَ ـَ ضَرَماً: آگ سلگنا، بھڑکنا۔
اضطِرَام: آگ بھڑکنا، دہکنا۔
ضَرَّمَ و اَضرَمَ: آگ سلگانا، بھڑکانا۔
ضَرَمَة: آگ، انگارا ج: ضَرَمٌ۔
مُضطَرِم: روشن، سلگتا ہوا، مشتعل۔
ضِرُوٌ ج: ضِرَاءٌ: شکاری کتا۔
ضَارٍ: خونخوار، درندہ ج: ضَرَارٍ۔
ضَرَاوَة: درندگی، شِدّت، خونخواری، بے رحمی، بے دردی۔

ض............ع

ضَعضَعَة: منہدم کرنا، کمزور بنانا۔
مُتَضَعضِعٌ: منہدم، کمزور، بے جان۔
ضَعُفَ ـُ ضُعفاً: کمزور ہونا
ضَعَفَ ـَ ضَعفاً و ضَعَّفَ و ضَاعَفَ: ڈبل کرنا، دوگنا کرنا۔
اَضعَفَه و ضَعَّفَه: کمزور بنانا، کمزور قرار دینا۔
اِضعَاف: ہلکا اور دھیما کرنا۔
إضعَافُ الرُّوحِ المَعنَوِيَّة: حوصلہ پست کرنا، مورل گرانا۔
إضعَافُ الصُّمُود: مقابلہ میں کمزوری پیدا کرنا۔
إضعَافُ القُدرَة: صلاحیت کم کردینا۔
تَضَاعُفٌ: دوگنا ہوا، ڈبل ہونا (۲) شدّت، زور۔
مُضَاعَفَةُ الجُهُود: کوششوں میں اضافہ۔
مُضَاعَفَةُ المَرَض: بیماری میں اضافہ۔
مُضَاعَفَات: اثرات۔
مُضَاعَفَاتُ المَرَض: بیماری کے اثرات۔
ضُعف: کمزوری۔
ضِعف: دوگنا ج: أضعَاف۔
ضَعِيفُ البِنيَة: لاغر جسم۔
ضَعِيفُ الشَّخصِيَّة: کم حیثیت، معمولی پوزیشن والا۔

ض............غ

ضَغَثَ ـَ ضَغثاً: ملانا، خلط ملط کرنا (۲) جمع کرنا، سمیٹنا۔
ضِغثٌ: بوجھ، گٹھڑی، مٹھی بھر گھاس ج: اَضغَاث۔
ضِغثٌ علی إبَالَةٍ: بوجھ در بوجھ، مصیبت بالائے مصیبت۔
اَضغَاثُ احلَام: پراگندہ خواب، موہوم امیدیں۔
ضَغَطَ ـَ ضَغطاً: دبانا (۲) نچوڑنا۔
ضَغَطَ علی: (۱) دباؤ ڈالنا، زور دینا (۲) مجبور کرنا، تنگ کرنا (۳) غصب کرنا۔

ضَغْطٌ: دباؤ، تنگی، زور۔
الضَّغْطُ البَارُومِتْرِیّ: بیرومیٹر کا دباؤ۔
ضَغْطُ الدَّمِ العَالِی: ہائی بلڈ پریشر، بڑھے ہوئے خون کا دباؤ۔
ضَغْطُ الدَّمِ الوَاطِئُ: لو بلڈ پریشر، گھٹے ہوئے خون کا دباؤ۔
ضَغْطُ السُّکّان: آبادی کا دباؤ۔
ضَغْطٌ سِیَاسِیّ: سیاسی دباؤ۔
الضَّغْطُ الطَّبِیْعِیّ: فطری دباؤ۔
ضَغْطٌ عَالٍ: ہائی پریشر۔
ضَغْطٌ علی حُکُومَةٍ: کسی حکومت پر دباؤ۔
الضَّغْطُ عَلَی الاَعْصَابِ: اعصاب پر زور ڈالنا، اعصاب پر دباؤ۔
الضَّغْطُ عَلی کِیَان کذا: وجود پر دباؤ۔
ضَغْطُ العَمَلِ: کام کا دباؤ، کام کا ہجوم، رش۔
الضَّغْطُ المُتَزَایِدُ علَی اَحَدٍ: بڑھتا ہوا دباؤ۔
ضَغْطٌ نَفسِیّ: ذہنی دباؤ۔
ضَغْطٌ هَابِطٌ: لو بلڈ پریشر، گھٹے ہوئے خون کا دباؤ۔
مَضْغُوط: جام، دبا ہوا۔
ضَغِنَ ـَ علیه ضَغَناً: کینہ رکھنا، دشمنی رکھنا، حسد کرنا۔
ضِغْنٌ و ضَغِیْنَةٌ: کینہ، حسد ج: اَضْغَان و ضَغَائِنُ۔
ضَغِنٌ: حاسد، کینہ ور۔

ض............ف

ضِفْدِع و ضُفْدُع: مینڈک ج: ضَفَادِع۔
ضَفَرَ ـِ ضَفْراً و ضَفَّرَ تَضْفِیْراً: بال گوندھنا، چوٹی کرنا۔
ضَافَرَہ مُضَافَرَةً: معاونت کرنا۔
ضَفِیْرَة ج: ضَفَائِر و ضُفُر: چوٹی۔
مَضْفُور: جس کے بال گندھے ہوئے ہوں۔
ضَفَفٌ: قلتِ مال، کم مائیگی (۲) جلد بازی۔
ضَفَّة: جماعت (۲) کنارہ ج: ضِفَاف۔
ضِفَّةُ النَّهر: نہر کا کنارہ ج: ضِفَاف۔
ضَفَا الإنَاءُ والحَوْضُ ـُ ضَفْواً: چھلکنا، پانی سطح سے اوپر ہونا۔
ضَافٍ: زائد، سطح سے زائد۔
اَضْفَاہ اِضْفَاءً: بھر دینا، وسیع کرنا۔
اَضْفَی علیه اِضْفَاءً: جواب دینا، جوابی فعل کرنا (۲) عطا کرنا، دینا۔
اَضْفَی المَنْصِبَ علی اَحَدٍ: کسی کو منصب دینا۔

ض............ل

ضَلُعَ ـُ ضَلَاعَةً: مضبوط و طاقتور ہونا۔
ضَلِعَ ـَ ضَلَعاً: ٹیڑھا ہونا۔
ضَلَّعَ تَضْلِیْعاً: ٹیڑھا کرنا، موڑنا۔
اِضْطَلَعَ بِمَسْئُولِیَّة کذا: ذمہ داری لینا۔
تَضَلَّعَ مِنَ العِلْم: علم کی دستگاہ حاصل کرنا، علم میں پختہ ہونا۔
ضِلَع ج: اَضْلَاع: پسلی۔
ضَلِیْع: مضبوط، طاقتور۔
ضَلَّلَ تَضْلِیْلاً و أَضَلَّ: گمراہ کرنا، دھوکہ دینا۔
أَضَلَّ الشَّیْئَ: ضائع کرنا۔
ضَلَّ ـِ ضَلَالاً و ضَلَالَةً: گمراہ ہونا، راستہ بھولنا، بھٹکنا، ضائع ہونا۔

ضَلَّ سَعْيُهُ: کوشش بے کار ہونا۔
ضَلَال: گمراہی، دھوکہ۔

ض............م

اِضْمَحَلَّ: ناپید ہونا، معدوم ہونا (۲) سُست ہونا، کمزور پڑ جانا، بے جان ہو جانا (۳) انحطاط۔
ضَمَخَ ـُـ البَدَنَ ضَمْخاً: مَلنا، خوشبو وغیرہ ملنا۔
ضَمَدَ ـِـ ضَمْداً و ضِمَاداً و ضَمَّدَ تَضْمِيداً: زخم پر لیپ کرنا، پلاسٹر وغیرہ چڑھانا۔
ضِمَاد و ضِمَادَة: لیپ، بینڈیج، پلاسٹر جو زخم پر ہو ج: اَضْمِدَة و ضَمَائِد ضِمَادَة (۲) ڈریسنگ۔
ضَمُرَ ـُـ ضُمُوراً: دُبلا اور کمزور ہونا، چھوٹے جسم کا ہونا (ضد ضَخُم)۔
اَضْمَرَ الأَمْرَ: پوشیدہ رکھنا، دل میں رکھنا۔
اَضْمَرَ لَهُ الشَّرَّ او الحِقْدَ: بغض رکھنا۔
اَضْمَرَ و ضَمَّرَ: کمزور و دُبلا کرنا۔
تَضَمَّرَ: کمزور و دُبلا بن جانا، لاغر ہونا۔
اِنْضِمَار: پژمردہ ہونا۔
ضُمْرٌ، ضُمُور: دُبلا پن۔
ضِمَار: نا قابلِ وصول قرض۔
ضَمِيرٌ ج: ضَمَائِر: (۱) باطن، دل (۲) ذہن۔
حَيُّ الضَّمِيرِ: زندہ دل۔
فَاقِدُ الضَّمِيرِ: مُردہ دل، بے دل۔
مُضْمَرٌ: پوشیدہ۔
مِضْمَار: میدان، دوڑ کا میدان ج: مَضَامِيرُ۔
مِضْمَارُ الخَيْلِ: ریس کورس، گھوڑ دوڑ کا میدان، ریس گراؤنڈ۔
ضَمَّ ـُـ ضَمّاً: ملانا، سمیٹنا، یکجا کرنا، متحد کرنا، الحاق کرنا۔
ضَمَّ الشَّيءَ إلَى: اضافہ کرنا، شامل کرنا، ضم کرنا، ملحق کرنا۔
ضَمَّ الشَّيءُ كذا: شامل ہونا، مشتمل ہونا۔
ضَمُّ اَعْضَاءٍ جُدُدٍ: نئے ممبروں کو شامل کرنا۔
ضَمُّ الصُّفُوف: شیرازہ بندی کرنا۔
ضَمُّ دُوَلٍ إلَى تَنْظِيمٍ اِتِّحَادِيّ: وفاقی ریاست قائم کرنا۔
ضَمُّ عُضْوٍ إلَى لَجْنَةٍ او هَيْئَةٍ: ممبر بنانا۔
تَضَامَّ القَوْمُ: متحد ہونا۔
اِنْضِمَامٌ إلَى: ملنا، شامل ہونا، کسی کے ساتھ ہو جانا، ملحق ہونا، ضم ہونا (۲) اشتراک، شمولیت۔
اِنْضِمَامٌ إلَى التَّيَّار: دھارے میں بہنا۔
الانْضِمَامُ إلَى جَمْعِيَّةٍ: جماعت میں شامل ہونا۔
الانْضِمَامُ إلَى صُفُوفِ المُعَارَضَة: اپوزیشن کی صف میں ملنا، شامل ہونا۔
الانْضِمَامُ إلَى الدُّوَلِ الاُخْرَى: دیگر حکومتوں سے وابستہ ہونا۔
اِنْضِمَامٌ إلَى مُعَاهَدَةٍ: معاہدہ میں شریک ہونا، شامل ہونا۔

اِنضِمَامٌ عَلَى: مشتمل ہونا۔
ضَمٌّ: شمولیت، الحاق، اضافہ (۲) فولڈنگ۔
ضِمَام: (مِشْبَکُ وَرَقٍ) پیپر کلپ۔
ضَمِنَ ـــ ضَمَاناً: کفیل ہونا، ضامن ہونا۔
ضَمَّنَه تَضْمِيناً: ضامن قرار دینا۔
تَضَمَّنَ: مشتمل ہونا۔
تَضَمَّنُ جَدْوَلِ الاَعْمَالِ كذا: ایجنڈے میں شامل ہونا۔
تَضَمَّنُ المَشَارِيعِ: منصوبوں میں شامل ہونا۔
تَضَمَّنُ الدَّوْرَة مُحَاضَرَاتٍ: میعادی اجلاس میں تقریروں کا شامل ہونا۔
تَضَمَّنُ المُذَكِّرة شَرْحاً لكذا: ایجنڈے یا میمورنڈم میں کسی چیز کی وضاحت ہونا۔
ضِمْنَ: اندر، درمیان، ذیل۔
ضِمْنَ كَذَا: ضمن میں، ذیل میں، فلاں چیز کے تحت۔
ضِمْنَ مُخَطَّطٍ: كذا: فلاں منصوبہ کے تحت۔
ضِمْناً: ذیلی طور پر، ضِمناً۔
ضَمَان: گارنٹی، ضمانت، ذمہ داری، تحفظ، یقینی۔
الضَّمَانُ الاِجْتِمَاعِيّ: سوشل سیکورٹی۔
ضَمَانٌ شَخْصِيّ: ذاتی ضمانت، شخصی ضمانت۔
الضَّمَانُ لِلسِّرِّيَّة: رازداری کی حفاظت۔
ضَمَانٌ مَالِيّ: مالی ضمانت۔
ضَمَانٌ مَصْرِفِيّ: بینک گارنٹی۔
ضَمَانَة: گارنٹی۔

ضَامِن: کفیل، ضامن، گارنٹی دینے والا، ذمہ دار۔
تَضَامُن: اتحاد و اشتراک، یک جہتی۔
التَّضَامُنُ الآسِيَوِيُّ الاَفْرِيقِيّ: افروایشین اتحاد۔
تَضَامُنٌ إِسْلَامِيّ: اسلامی اتحاد، اشتراک۔
التَّضَامُنُ العَرَبِيّ: عرب اتحاد۔
تَضَامُنٌ مُطْلَق: مکمل اتحاد، تعاون، مکمل یکجہتی۔
التَّضَامُنُ مَعَه: حمایت و تعاون۔
تَضَامُنِيّ: مشترکہ، متحدہ۔
بِالتَّضَامُن: متحدہ طور پر۔
مَضْمُون: مضمون (۲) مصداق (۳) محفوظ و مامون، مکفول، ضمانت دیا ہوا (۴) قابلِ اعتماد۔

ض..........ن

ضَنُکَ ـــ ضَنَاكَةً: کمزور جسم اور کمزور رائے ہونا، تنگ ہونا۔
ضَنُکَ عَيْشُه: تنگ حال ہونا۔
ضَنْک: تنگی۔
عَيْشٌ ضَنْکٌ و مَعِيْشَةٌ ضَنْکٌ: عُسرت کی زندگی۔
فی ضَنْکٍ: تنگ دست۔
ضَنَّ بالشيْ ـــ ضَنًّا و ضَنَانَةً: بخل کرنا
ضَنِين: (۱) بخیل (۲) کم، معمولی۔
ضَنِيَ ـــ ضَنًى و ضَنَاءً: کمزور دُبلا ہونا، تھکنا۔
اَضْنَاه اِضْنَاءً: کمزور بنانا، تھکانا۔

ضَنًی: تھکان، کمزوری۔
مُضْنًی: ،کمزور، لاغر۔
مُضْنًی بِالْمَتَاعِب: مصیبتوں کا مارا۔

ض .... ہ

ضَهَدَهُ ـَـ ضَهْداً و اضْطَهَدَه: ظلم وزیادتی کرنا، تکلیف دینا۔
اِضْطَهَدَ الشَّعْبَ: عوام پر ظلم کرنا۔
اِضْطِهَاد: ظلم۔
الاِضْطِهَادُ الْمَذْهَبِیّ: فرقہ وارانہ ظلم۔
مُضْطَهَد: مظلوم۔
مُضْطَهِدٌ: ظالم۔
ضَهِیٌّ: مُشابہ۔
ضَاهَاهُ مُضَاهَاةً: مُشابہ ہونا۔

ض .... و

ضَوْءاً و أَضَاءَ الْمِصْبَاحَ أو الْبَیْتَ: روشن کرنا۔
إِضَاءَة: (۱) روشن کرنا، لائٹ کرنا (۲) روشن ہونا (۳) روشنی۔
إِضَاءَةُ الأَنْوَار: بتیاں روشن کرنا۔
إِضَاءَةُ الْعُقُول: ذہنوں کو روشن کرنا۔
ضَاءَ ـُـ ضَوْءاً و ضِیَاءً: روشن ہونا۔
اِسْتَضَاءَ: روشن ہونا، اُجالا ہونا۔
اِسْتَضَاءَ بِه: روشنی حاصل کرنا۔
ضَوْءٌ ج: أَضْوَاءٌ: روشنی، لائٹ۔
عَلَی ضَوْءِ كَذَا: فلاں چیز کی روشنی میں۔
ضَوْئِیّ: روشنی سے متعلق۔
ضَوِّیٌّ: لیمپ روشن کرنے والا ملازم۔
مُضِیٌّ: روشن (۲) روشن کرنے والا۔

ضَارَ ـُـ ضَوْراً: سخت بھوک لگنا۔
ضَارَ فُلَاناً: نقصان پہنچانا۔
تَضَوَّرَ: درد سے تڑپنا۔
ضَوْضَاء: شوروغل، آوازیں، ہنگامہ۔
ضَاعَتِ الرَّائِحَةُ ـُـ ضَوْعاً و تَضَوَّعَتْ: مہکنا۔
ضَاعَ الْمِسْكُ: مشک کی خوشبو آنا۔

ض .... ی

ضَیْر: نقصان۔
ضَیَّعَ تَضْیِیعاً و أَضَاعَ إِضَاعَةً: ضائع کرنا، برباد کرنا، کھونا (۲) نقصان اٹھانا۔
ضَاعَ ـِـ ضَیَاعاً: برباد ہونا، گم ہونا۔
ضَیْعَة ج: ضِیَع و ضَیْعَات: زمین (۲) جاگیر (۳) چھوٹا گاؤں، بستی۔
ضَیَّفَهُ تَضْیِیفاً و أَضَافَه: مہمان بنانا، ضیافت کرنا۔
أَضَافَ الشَّیْءَ إِلَی: ملانا، اضافہ کرنا، شامل کرنا۔
ضَافَ ـِـ ضَیْفاً و تَضَیَّفَ: مہمان بننا۔
انْضَافَ إِلَیْه انْضِیَافاً: مائل ہونا، منضم ہونا۔
اِسْتَضَافَهُ: ضیافت طلب کرنا۔
ضَیْفٌ ج: ضُیُوف: مہمان، ملاقاتی، آیا گیا۔
ضِیَافَة: میزبانی۔
اِضَافَة: زیادتی، شمولیت۔
اِضَافَةً إِلَی كَذَا: بشمول اس کے۔
بِالإِضَافَةِ إِلَی كَذَا: بشمول اس کے، باوجودیکہ۔

اِضَافِيّ: زائد، مزید، مقررہ وقت سے زائدہ، اوور ٹائم، ایڈیشنل، ایکسٹرا۔
مُضِيف: میزبان۔
مُضِيفَة بِالطَّائِرَة: فلائنگ ہوسٹس، ایر ہوسٹس۔
مَضِيف، مَضِيفَة: مہمان خانہ، گیسٹ ہاؤس۔
مِضْيَاف: بڑا مہمان نواز۔
ضَيَّقَ تَضْيِيقاً: تنگ کرنا (۲) سمیٹنا، (ضد: وَسَّعَ، بَسَطَ)۔
ضَيَّقَ عَلَى: دبانا، پریشان کرنا۔
___ على العَدُوِّ: محاصرہ کرنا۔
___ الخِنَاقَ على: ظلم کرنا، پریشان کرنا، زندگی دوبھر کرنا، جینا دشوار کرنا۔
___ و ضَايَقَ على: سختی کرنا، دباؤ ڈالنا۔
___ عَلَيْهِ الحِصَارَ: محاصرہ سخت کرنا۔
___ الفَجْوَةَ أو الهُوَّةَ: خلیج کم کرنا۔
___ شُقَّةَ الخِلَافِ: اختلاف کی خلیج کم کرنا۔
___ مَجَالَ الشَّيْءِ: دائرہ تنگ کرنا، میدان تنگ کرنا۔
ضَايَقَهُ مُضَايَقَةً: ستانا، پریشان کرنا۔
تَضَايَقَ: تنگ ہونا، تنگ آنا، اُکتانا، پریشان ہونا۔
تَضَايَقَ مَالِيّاً: مالی پریشانی میں مبتلا ہونا۔
ضَاقَ ـِ ضِيقاً: تنگ ہونا، چھوٹا ہونا۔

ضِيق: تنگی، عسرت، سختی، پریشانی، گھٹن، اُلجھن، چھوٹا پن۔
ضِيقٌ مَالِيّ: مالی تنگی، مالی بحران، کرائسس۔
ضِيقٌ نَفْسِيٌّ: ذہنی کوفت۔
ضِيقَة، ضَائِقَة: بدحالی، غربت، تنگی۔
ضَائِقَةٌ مَالِيَّةٌ: مالی پریشانی۔
ضَيِّقٌ: چھوٹا، تنگ، محصور، پریشان، منقبض، اکتایا ہوا۔
ضَيِّقُ الانْتِشَار: قلیل الاشاعت۔
ضَيِّقُ الرُّقْعَة: چھوٹے پیمانے کا۔
ضَيِّقُ العَقْل: تنگ ذہن۔
مُضَايِق: پریشان کن۔
مُضَايِقَات: پریشانیاں۔
مَضِيق ج: مَضَايِقُ و مَضِيقَات: تنگنائے (۲) آبنائے، دو پہاڑوں یا دو سمندروں کے درمیان تنگ راستہ۔
مَضَايِقُ تيرَان: آبنائے تیران۔
مَضَايِقُ العَقَبَة: خلیج عقبہ کی آبی راہیں۔
مُتَضَايِق: پریشان، منقبض۔
مُتَضَايِقٌ مِنْهُ: اُکتایا ہوا۔
ضَيْم: ظلم۔
ضَامَهُ ـِ ضَيْماً: ظلم کرنا۔
ضَائِم: ظالم۔
مُسْتَضَام: مظلوم۔

ط

ط............أ

طَأطَأَ رَأسَه: سر جھکانا۔

ط...........ب

طَبَّ ـُـ طَبّاً و طَبَّبَ تَطبِیباً: دوا کرنا، علاج کرنا۔

تَطَبَّبَ: دوا استعمال کرنا۔

اِستَطَبَّ الطَّبِیبَ: ڈاکٹر سے مشورہ کرنا۔

طِبٌّ: علاج، علم العلاج، میڈیسن۔

طِبِّی: میڈیکل۔

طَبِیبٌ ج: أَطِبَّاءُ: معالج، حکیم، ڈاکٹر۔

طَبِیبٌ جَرَّاح: سرجن، آپریشنر۔

طَبِیبُ الأَسنَان: ڈینٹسٹ۔

طَبِیبُ الجَدوَل: پینل ڈاکٹر۔

طَبِیبٌ رَسمِیّ: میڈیکل ایگزامینر۔

الطَّبِیبُ العَصرِیّ: ڈاکٹر۔

الطَّبِیبُ المُدَاوِی: معالج ڈاکٹر۔

الطَّبِیبُ المُقِیمُ (فی المُستَشفَی): ہاؤس فزیشین۔

طَبِیبُ العُیُون: آنکھوں کا ڈاکٹر۔

طَبَّة: (مَسنَد) مسند، تکیہ، گدا (۲) پیڈ جس پر خط وغیرہ رکھ کر لکھتے ہیں۔

طَبَخَ ـُـ طَبخاً: پکانا، تیار کرنا۔

اِنطَبَاخ: پکنا۔

صِنَاعَةُ الطَّبخ، طِبَاخَة: پکانے کا پیشہ۔

طَبَّاخ: باورچی۔

طَبِیخ: پکا ہوا کھانا، پکی ہوئی چیز۔

مَطبَخ: باورچی خانہ، کچن، ریسٹورنٹ۔

مِـطـبَـخ: تیل سے کام کرنے والا چولہا، اسٹوو۔

طَبَرٌ: تبر، کلہاڑی نما اوزار۔

طَـابُـور: فوج کی ایک بٹالین (۲) فائل (۳) کالم (۴) قافلہ ج: طَوَابِیرُ۔

الطَّابُورُ الخَامِس: ففتھ کالم۔

طَبَاشِیر: چاک، کھریا۔

طَبطَابَة: (مِضرَبُ الکُرَة) بلا، بیٹ۔

طَبَعَ الکِتَابَ ـَـ طَبعاً: چھاپنا۔

طَبَعَ: نشان لگانا۔

طَبَعَ عَلَیهِ: مہر لگانا۔

طَبَعَ الدِّرهَمَ: سکہ ڈھالنا۔

طَبَعَ مِنَ الطِّینِ ـــ إنَاءً: مٹی کا برتن بنانا۔

طُبِعَ عَلَی کَذَا: کسی چیز کا عادی ہونا۔

طَبِعَ و انْطَبَعَ: منقش و منعکس ہونا۔
طَبَّعَ الحَيَوَانَ تَطْبِيعاً: جانور کو سدھانا، مانوس بنانا، عادی بنانا۔
تَطَبَّعَ بِطِبَاعٍ: خصلت اختیار کرنا، عادت اختیار کرنا۔
انْطِبَاع: متاثر ہونا، چھاپ لگنا۔
انْطِبَاعَات: تاثرات و: انْطِبَاع۔
تَطْبِيع: معمول پر لانا، مانوس بنانا، عادی بنانا۔
تَطْبِيعُ العَلاقَاتِ الدِّبْلُومَاسِيَّة: سفارتی تعلقات معمول پر لانا۔
طَبْع: چھپائی، پرنٹنگ (۲) نشان۔
طَبْعُ الحَجَر: پتھر کی چھپائی۔
طَبْعُ الحُرُوف: ٹائپ کی چھپائی۔
وَرَقُ الطَّبْع: پرنٹنگ پیپر۔
الطَّبْعُ بالرَّوْسَم: اسٹینسا کاٹنا۔
طَبْعاً، بالطَّبْع: قدرتی طور پر، یقیناً، بلاشبہ، ٹھیک۔
طِبَاعَة: چھپائی۔
طِبَاعَةٌ بالاسْتِنْسَاخ: مموگرافی نقلیں تیار کرنا، ڈبل کاپی تیار کرنا۔
طَبْعَة: ایک دفعہ کی چھپائی، ایڈیشن ج: طَبَعَات۔
طَبْعَةٌ اُسْبُوعِيَّة: ہفتہ وار ایڈیشن۔
طَبْعَةٌ حَدِيثَة: نیا ایڈیشن۔
الطَّبْعَةُ الزَّرْقَاء: بلو پرنٹ۔
طَبْعَةٌ قَدِيمَة: پرانا ایڈیشن۔
طَبْعَةٌ قَادِمَة: اگلا ایڈیشن۔
طَبْعَةٌ مِنْ كِتَاب: پرنٹ ایڈیشن۔
طَبْعَةُ يَوْمِ الاَحَد: سنڈے ایڈیشن۔

طَبْعٌ ج: طِبَاع، طَبِيعَة ج: طَبَائِع: فطرت، عادت، مزاج، موڈ۔
بِطَبِيعَةِ الحَال: بہ مقتضائے حال، قدرتی طور پر۔
طَبِيعِيّ: فطری، معمولی، معمول کے مطابق، نارمل، قدرتی، نیچرل (۲) اصل، غیر مصنوعی (ضد: مُصْطَنَع) (۳) علم الطبیعیات کا ماہر۔
عِلْمُ الطَّبِيعِيَّات: سائنس۔
طَبَّاع: تلوار وغیرہ بنانے والا۔
طَابِع، طَبَّاع: پرنٹر، چھپائی کا کام کرنے والا۔
طَابَع: (۱) نشان، لیبل، علامت (۲) چھاپ، اثر، انداز (۳) ڈیٹر، اسٹامپ ج: طَوَابِع۔
طَابِعٌ اِسْلَامِيّ: اسلامی طرز، اسلامی نشان۔
طَابِعٌ بَرِيدِيّ: پوسٹیج اسٹامپ، ڈاک ٹکٹ۔
طَابِعُ التَّهْوِيلِ و المُبَالَغَة: مبالغہ آرائی اور دہشت انگیزی کا انداز۔
طَابِعُ التَّبَرُّعَات: چندہ کا ٹکٹ۔
الطَّابِعُ الثَّوْرِيّ: انقلابی چھاپ، انقلابی رنگ۔
طَابِعٌ بَعْغِيّ: فزیکل اسٹامپ۔
طَابِعٌ دُوَلِيّ: بین الاقوامی چھاپ۔
مَطْبُوعٌ عَلَى: کسی چیز کا پیدائشی عادی۔
شَاعِرٌ مَطْبُوع: فطری شاعر۔
مَطْبُوعَات: مطبوعہ اشیاء، لٹریچر، چھپا ہوا مواد، پرنٹیڈ میٹر۔
مَطْبُوعَاتٌ دَوْرِيَّة: گشتی پمفلٹ،

وقفہ وقفہ سے شائع ہونے والے لٹریچر۔
قَلَمُ المَطْبُوعَات: پریس آفس جہاں رسائل واخبارات وکُتب وغیرہ کی چھان بین وغیرہ امور طے کئے جائیں۔
مُطَبَّع: سدھایا ہوا، عادی بنایا ہوا۔
مَطْبَعَة ، مَطْبَع: پریس، پرنٹنگ آفس۔
مِطْبَعَة: چھپائی کی مشین، پرنٹنگ پریس، پریس۔
غَلْطَةٌ مِطْبَعِيَّة: چھپائی کی غلطی۔
مِطْبَعَةُ حَجَرٍ: لیتھو پریس۔
مَطْبَعِيٌّ: پرنٹر، پریس مین، پریس والا، چھاپنے والا، چھپائی کا کام کرنے والا۔
طَبِقَ ـــ طَبَقاً: ہاتھ وغیرہ کا منجمد ہونا، نہ پھیلنا۔
طَبَّقَ الشَّيُ تَطْبِيقاً: عام ہونا۔
ـــ الشَّيَ: ڈھانپنا۔
ـــ قَاعِدَةً عَلَى: جاری کرنا، منطبق کرنا، نافذ کرنا۔
ـــ عُقُوبَاتٍ علی: تادیبی کارروائی کرنا، سزائیں دینا۔
ـــ القَرَارَ: تجویز پر عمل کرنا، عملی جامہ پہنانا۔
ـــ نِظَامَ اللاَّمَرْكَزِيَّة: لامرکزی نظام جاری کرنا۔
طَبَقَ و أَطْبَقَ: بند کرنا، ملانا (جیسے: أَطْبَقَ شَفَتَيْه)۔
أَطْبَقُوا علی الأمْر: متفق ہونا۔
طَابَقَهُ مُطَابَقَةً: موافق ہونا۔
انْطِبَاق ، تَطَبُّق: بند ہونا، ملنا۔
انْطِبَاق و تَطَبُّق علی: منطبق ہونا، فٹ ہونا۔
تَطَبُّقُ البِنَاء: (دا) عمارت کا منہدم ہونا۔
تَطْبِيق: مطابقت، عملی تشکیل، تنفیذ، اجراء، عملی جامہ پہنانا۔
طَبِقٌ، مَطْبُوق: بند، محصور۔
طَبَقٌ: ڈھکن، کور، پلیٹ، سینی، طشتری ج: أطْبَاق۔
طَبَقٌ طَائِر: اڑن طشتری۔
طِبْقٌ: مطابق، موافق۔
طِبْقَ المَرَام: حسب منشا۔
طِبْقاً لکذا: اس کے مطابق، بر بناء۔
طِبْقاً للمُعَاهَدَة: معاہدہ کے مطابق۔
طَبَقَة: (۱) درجہ، کلاس، طبقہ (۲) حالت (۳) زمین کی ایک تہہ ج: طَبَقَات۔
الطَّبَقَةُ الاجْتِمَاعِيَّةُ الدُّنيَا: لوئر کلاس کے لوگ۔
الطَّبَقَةُ الاجْتِمَاعِيَّةُ العُلْيَا: امیرانہ درجہ، شاہانہ درجہ۔
الطَّبَقَةُ البَاغِيَة: باغی لوگ۔
الطَّبَقَةُ الحَاكِمَة: حکمراں طبقہ۔
الطَّبَقَةُ الدُّنيَا: چھوٹا طبقہ۔
الطَّبَقَةُ الرَّاقِيَة: ترقی یافتہ لوگ، ترقی یافتہ طبقہ۔
طَبَقَةٌ رَأْسَمالِيَّة: سرمایہ دار طبقہ۔
الطَّبَقَةُ السُّفْلَى: چھوٹا طبقہ۔
الطَّبَقَةُ العَالِيَة: بڑا طبقہ۔
الطَّبَقَةُ العَامِلَة: مزدور طبقہ۔
الطَّبَقَةُ العُلْيَا: اعلیٰ طبقہ۔

طَبَقَةُ العُمَّال: مزدور طبقہ۔
الطَبقَةُ الفقِيرَة: غریب طبقہ۔
الطَبقَةُ الكَادِحَة: محنت کش طبقہ۔
الطَبقَةُ المُترفَة: خوش حال طبقہ۔
طَبَقَةُ المُثقَّفِين: تعلیم یافتہ طبقہ۔
طَبقَةُ المَنبُوذِين: اچھوت، پست اقوام۔
طَبقَةٌ مُخلَّفَة: اچھوت۔
طَبقَةٌ مَهضُومَةُ الحُقُوق: مظلوم طبقہ۔
الطَبقَةُ الوُسطَى: درمیانہ طبقہ، مڈل کلاس۔
طَبقَاتُ الأَرض: زمین کی تہیں۔
طَبقِيّ: طبقاتی۔
طِبَاق: (۱) تمباکو (۲) مطابق۔
طَابَق: منزل ج: طَوَابِق۔
الطَّابِقُ الأَرضِيّ: زمین دوز منزل، نچلی منزل، گراؤنڈ فلور۔
طَابَقٌ مِن بَيتٍ: اسٹوری، منزل۔
مُطبِق: زیر زمین قید خانہ (۲) مکمل، زبردست، گھٹا ٹوپ۔
مُنطَبِقٌ على مَقَايِيسِ الجِسم: بدن پرفٹ۔
مُطَابِقٌ لِلزِيِّ الحَدِيث: فیشن ایبل۔
مُطَابَقَةُ الحِسَابَات: حسابات کی یکسانیت صحت۔
مَطبُوق: بند، محصور۔
طَبَلَ ـُ طَبلاً: ڈھول بجانا۔
طَبلٌ ج: اَطبَال و طُبُول: ڈھول۔
طَبلَةُ الفُنغرَاف: ساؤنڈ بکس۔
طَبَّال: طبلچی، ڈھولچی۔
طَبَنَ النَّارَ ـُ طَبناً: راکھ میں آگ دبانا۔

طُبنَة: باسی روٹی۔
طَبُونَة، طَابُونَة: (مَخبَز) تنور، بیکری، بسکٹ وغیرہ کا کارخانہ۔
طَبَّانُ العَجَلَة: ٹائر۔
طَبَنجَة: پستول ج: طَبنجَات۔
طَبنجَةٌ بِمُشطٍ: خودکار پستول۔

ط۔۔۔۔۔۔۔۔۔ج

طَجَنَ ـُ طَجناً و طَجَّنَ تَطجِيناً: تلنا۔
طَاجِنٌ ج: طَوَاجِن: کڑھائی، فرائنگ پین، کڑچھا۔

ط۔۔۔۔۔۔۔۔۔ح

طِحَال، اَطحِلَة: تلی۔
طُحلُبٌ، طِحلِبٌ: کائی، وہ سبزی جو پانی کے اوپر جم جاتی ہے۔
طَحلَبَ المَاءُ: پانی پر کائی جمنا۔
طَحَنَ الغَلَّةَ ـَ طَحناً: پینا۔
طَحَّان: پیسنے والا۔
طَحِين: آٹا۔
طَاحُونَة، مِطحَنَة ج: مَطَاحِن: آٹا پیسنے کی چکی یا مشین، آٹا مل۔
التَّطَاحُن: باہمی ٹکراؤ۔
تَطَاحُنُ الاَحزَابِ فِيمَا بَينَهَا: پارٹیوں کا آپس میں دست و گریباں ہونا۔
التَطَاحُنُ فی الآرَاء: خیالات کا ٹکراؤ۔
مَطحَنَة ج: مَطَاحِن: آٹے کا مل۔

ط۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

طَرَأَ ـَ طَرءاً طُرُوءاً على: طاری ہونا، پیش آنا، رونما ہونا، اچانک پیش آنا۔

اَطْـرَاْهُ اِطْـرَاءً: حد سے زیادہ تعریف کرنا۔

طَرَأ التحسُّنِ علی: اصلاح ہونا۔

طَرَأ التـطوُّرَاتِ علی القَضِيَّة: مقدمہ میں بہتر تبدیلی آنا۔

طَرَأ التطوُّرِ علی مَوْقِفِ الوِلَايَة: صوبہ کی پالیسی میں بہتر تبدیلی آئی۔

طَرَأ التغيُّر: تبدیلی پیدا ہونا۔

طَرَأ الفِكْرَة عَلَى الذِّهْن: ذہن میں خیال آنا۔

طَارِئٌ: غیر متوقع، وقتی، ایمرجنسی، ہنگامی، اچانک پیش آنے والا ج: طَوَارِئ۔

طَارِئَة ج: طَوَارِئ: ہنگامی حالت۔

اِعْتِمَادُ مَصْرُوْفَاتِ الطَّوَارِئ: ہنگامی اخراجات کا فنڈ۔

طَـرِبَ ــــ طَرَباً: مست ہونا، خوش ہونا، خوشی سے جھومنا۔

طَرَّبَ تَطْرِيباً: گانا۔

اَطْرَبَ اِطْرَاباً: مست بنانا، خوش کرنا۔

هِزَّةُ الطَّرَب: خوشی کی لہر، سرمستی۔

طَرِبٌ: خوش، مست۔

طَرُوْب: بیحد خوش، مست، بےخود۔

مُـطْـرِبٌ: خوش کن، مست بنانے والا (۲) گانے والا۔

طَرْبُوش ج: طَرَابِيْش: ترکی ٹوپی۔

طَرْبُوش المِدْخَنَة: چمنی کیپ۔

طُرْبِيْد: (مع) تارپیڈو۔

طَـرَحَ الشيْئَ و بِـه ــ طَرْحاً: ڈالنا، پھینکنا، ایک طرف ڈالنا، چھوڑنا۔

ـــ الثَوْبَ عَلَيْه: پہننا۔

ـــ مِنْ: گھٹانا، کم کرنا۔

ـــ عَلَيْهِ سُئوالاً: سوال کرنا۔

ـــ عَلَيْهِ مَسْئَلَةً: پیش کرنا۔

ـــ عَلَى الأرْض: گرانا۔

ـــ الحُلُول: حل پیش کرنا۔

ـــ المُقْتَرَحَات: تجاویز پیش کرنا۔

طَرَحَتِ الحُبْلَى: حاملہ عورت کا حمل ساقط ہو جانا۔

طَرَّحَ الحُبْلَى: حمل ساقط کرانا۔

طَارَحَهُ الاَسْئِلَة: سوال و جواب کرنا۔

طَرْحٌ: پیشکش ج: طُرُوحَات۔

طِرْحٌ: اسقاط شدہ بچہ۔

طَرَّاحَة: گدا (دا)۔

طَرِيْح، مَطْرُوْح، مُنْطَرِحٌ: گرا ہوا، پڑا ہوا۔

طَرِيْحُ الفِرَاش: صاحب فراش، بیمار۔

بالطَّرِيْحَة: ٹھیکہ پر۔

اُطْـرُوْحَة: تھیسز، وہ تحقیقی موضوع جو ڈگری حاصل کرنے کے لئے مقرر کیا جائے۔

مَطْرَحٌ: جگہ، گرنے کی جگہ ج: مَطَارِح۔

مَطْرُوْحٌ: گرا ہوا، پڑا ہوا، پیش کیا ہوا۔

مَطْرُوْحٌ مِنْهُ: وہ عدد جس میں سے چھوٹا عدد گھٹایا گیا ہو۔

مَطْرُوْحُ الفِرَاش: صاحب فراش، بیمار۔

طَـرَدَ ــــ طَرْداً: دور کرنا، ہٹانا، باہر نکالنا، برطرف کرنا، برخواست کرنا، جلاوطن کرنا۔

طَرَّدَهُ و طَارَدَهُ مُطَارَدَةً و طِرَاداً: تعاقب

کرنا، جانور کا پیچھا کرنا۔
اِطِّرَاد: یکے بعد دیگرے ہونا، کثرت سے ہونا۔
اِستِطْرَاد: اضافہ کرنا (۲) تفصیل۔
طَرْدٌ: (مص) اخراج، برطرفی، جلاوطنی۔
طَرْدُ دِبْلُومَاسِيٍّ مِنَ القُطْر: ڈپلومیٹ کو ملک سے نکالنا۔
طَرْدُ سَفِيْرٍ مِنَ القُطْر: سفیر کو نکالنا۔
طَرْدُ مُرَاسِلِ الصَّحِيْفَة: نامہ نگار کو نکالنا۔
طَرْدُ قُوَّاتِ الاحْتِلَال: قابض فوجوں کو نکالنا۔
طَرْدٌ: پیکٹ، بنڈل، پارسل ج: طُرُوْد۔
طَرْدٌ لِمُسْتَعْجَلٍ: اکسپریس پارسل۔
طَرْدٌ جَوِّيٌّ: ایر پارسل، ہوائی پارسل۔
طَرْدٌ مُحَوَّلٌ عَلَيْهِ: سی-او-ڈی پارسل۔
طَرْدٌ مُسَجَّلٌ: رجسٹرڈ پارسل۔
طَرَّاد: کروزر، جنگی جہاز۔
طَرَّادُ النَّهر: پُل۔
طَرِيْد، مَطْرُوْد: دور، نکالا ہوا، آوارہ، نظر انداز کیا ہوا۔
طَرِيْدَة: وہ شکار جس کا تعاقب کیا جائے۔
الطَّرِيْدَان: دن رات۔
طَارِدٌ: پیچھا کرنے والا۔
اِطِّرَاد: کثرت، تسلسل۔
مُطَّرِد: لگاتار، مسلسل (۲) عام۔
طَرَّ السِّكِّيْنَ ـُـ طَرًّا: تیز کرنا۔
طَرَّ الشَّارِبُ طُرُوْرًا: مونچھیں نکالنا۔
طُرًّا: سب۔
طُرَّة ج: طُرَرٌ: پیشانی (۲) طغرا۔

طَرَّزَ الثَّوْبَ تَطْرِيْزًا: بیل بوٹے بنانا۔
طَرْزٌ: (۱) ہیئت (۲) طریقہ (۳) طرز، نمونہ (۴) فیشن۔
طِرَازٌ: نیشن، ڈیزائن، قسم، ٹائپ، طرز، اسٹائل، کیماگری، طریقہ ج: اَطْرِزَة و طُرُزٌ۔
طِرَازٌ مِنَ السَّيَّارَات: ماڈل۔
مِنْ طِرَازٍ حَدِيْثٍ: نئے فیشن کا۔
مِنْ طِرَازٍ قَدِيْمٍ: پرانے فیشن کا۔
تَطْرِيْز: ایمبرائڈری، کشیدہ کاری۔
طَرَسَ ـِـ طَرْسًا: مٹانا۔
طِرْسٌ ج: اَطْرَاسٌ و طُرُوْسٌ: صفحہ، کاغذ۔
طَرِشَ ـَـ طَرَشًا: بہرا ہونا۔
اَطْرَشُ: بہرام: طَرْشَاءُ۔
طَرَشٌ، طُرْشَة: بہرا پن۔
طَرَّشَ تَطْرِيْشًا: بہرا بنادینا۔
طَرَفَ بِعَيْنِهِ ـِـ طَرْفًا: پلک جھپکنا۔
طَرَّفَهُ تَطْرِيْفًا: کنارہ پر کردینا، انتہا پسند بنانا۔
اَطْرَفَ إِطْرَافًا: انوکھی بات کہنا۔
اَطْرَفَهُ بِكَذَا: تحفہ دینا۔
تَطَرُّف: حد سے بڑھنا (۲) تجاوز، انتہا پسندی۔
طَـرْف: (۱) آنکھ (۲) کنارہ، ہر چیز کا آخری حصہ (۳) نوک ج: اَطْرَاف۔
طَـرَف: پارٹی، فریق (۲) جہت، سائڈ (۳) حصہ، جسم، عضو ج: اَطْرَاف۔
طَرَفَان: فریقین۔
طَرَفَانِ مَعْنِيَّان: متعلقہ دو فریق۔
طَرَفَا الخُصُوْمَة: مقدمہ کے دو فریق۔
الطَّرَفُ الآخَرُ: فریقِ ثانی۔

طَرَفُ الخِمَار: آنچل۔
طَرَفٌ فِي قَضِيَّةٍ: کسی مقدمہ کا فریق۔
طَرَفٌ فِي نِزَاعٍ أو دَعْوىً أو عَقْدٍ: پارٹی، فریق۔
طَرَفٌ مُسْتَدَقٌّ: نب، نوک۔
أَخْلَى طَرَفَهُ: بر طرف کرنا، بری کرنا۔
أَطْرَافُ الجِسْمِ: اعضاءِ جسم۔
أَطْرَافُ العَقْدِ: معاہدہ کے فریق۔
الأَطْرَافُ المُتَنَازِعَةُ: متنازع فریق۔
الأَطْرَافُ المُتَحَارِبَةُ: برسرِ پیکار فریق۔
أَطْـرَافٌ مَعْنِيَّةٌ بكذا: کسی چیز سے متعلق فریق۔
طَرَافَة: خوبی، عمدگی۔
طُرْفَة ج: طُرَفٌ: چٹکلا، دلچسپ بات۔
طَـرِيْفَة ج. طَـرَائِفُ: انوکھی بات (۲) تحفہ، ہدیہ۔
فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ: پلک جھپکنے میں۔
طَـرِيْفٌ: (۱) عجیب وانوکھا، شاندار، عمدہ (۲) نیا حاصل کردہ مال۔
مُتَـطَـرِّفٌ: انتہا پسند، غیر معتدل ج: مُتَطَرِّفُونَ۔
طَرَقَ ــُـ طَرْقاً: کوٹنا۔
__ الطَّرِيْقَ: راستہ پر چلنا۔
__ بِالبَالِ: دل میں آنا۔
__ البَابَ: کھٹکھٹانا۔
__ المَوْضُوعَ: موضوع پر طبع آزمائی کرنا۔
__ أَسْوَاقاً جَدِيْدَةً: نئی منڈیاں تلاش کرنا، اختیار کرنا۔
أَطْرَقَ إِطْرَاقاً: خاموش رہنا، گردن یا سر جھکانا۔
أَطْرَقَ مُفَكِّراً: سوچ میں پڑنا۔
تَطَرَّقَ إِلَيْهِ: راہ پانا، خاموشی سے پہنچنا۔
تَطَرَّقَ إِلَيْهِ الشَّكُّ: شک پیدا ہونا۔
تَـطَـرَّقَ إِلَى بَحْثِ شَيْئٍ: کسی چیز پر بحث چھیڑنا۔
اِنْطِـرَاق: کُٹ جانا، کوٹنے کے نتیجہ میں کسی چیز کا پھیلنا، چھنا۔
طَرْقَةٌ: ایک ضرب، ایک چوٹ۔
طَرْقَتَان: دو دفعہ۔
قَة: چلتا پرزا، چالاک، گھاگ۔
طَرِيْقٌ: روٹ، روڈ، راستہ ج: طُرُق۔
طَرِيْقٌ أَرْضِيٌّ: زمینی راستہ۔
طَرِيْقُ التَّخْطِيْط: پلاننگ کا طریقہ۔
طَرِيْقٌ جَانِبِيٌّ: برابر کا راستہ، کسی ایک جانب کا راستہ۔
طَرِيْقٌ رَئِيْسِيٌّ: شاہراہ، مین روڈ، عام راستہ۔
طَرِيْقُ عَدَمِ الانْحِيَاز: غیر جانبدارانہ راستہ۔
طَرِيْقٌ مَسْدُوْد: بند راستہ۔
بِطَرِيْقِ كذا: براہ، بواسطہ۔
بِـطَـرِيْقٍ غَيْرِ مُبَاشِرٍ: بالواسطہ، اِن ڈائرکٹ۔
بِـطَـرِيْقٍ مُبَاشِرٍ: براہِ راست، بلاواسطہ، ڈائرکٹ۔
عَنْ طَرِيْقِ كذا: بواسطہ، بذریعہ۔
عَنْ طَرِيْقِ الأَجْهِزَةِ الدُّوَلِيَّةِ المُتَخَصِّصَةِ: بین الاقوامی اسپیشل اداروں کے ذریعہ۔
عَنْ طَرِيْقِ المُفَاوَضَات: بات چیت

کے ذریعہ۔
فِیْ طَرِيقِهِ إِلَى الحَلّ: حل ہونے والا۔
قَطَعَ ــَ الطَّرِيْقَ علی: راستہ روکنا۔
قَاطِعُ الطَّرِيْق: ڈاکو ج: قُطَّاع۔
طَرِيْقَة ج: طَرَائِق: (۱) حالت (۲) کیفیت (۳) طرز، طریقہ، فیشن (۴) واسطہ (۵) مذہب ومسلک (۶) سسٹم۔
الطَّرِيْقَةُ التَجْرِيْبِيَّة: تجرباتی طریقہ۔
طَرِيْقَةُ التَّفْكِيْر: آئڈیالوجی، سوچنے کا انداز، طرزِفکر۔
طَرِيْقَةٌ عَصَبِيَّة: متعصّبانہ طریقہ۔
الطَّرِيْقَةُ العِلْمِيَّة: سائنٹیفک طریقہ۔
الطَّرِيْقَةُ الفَنِيَّة: سائنٹیفک طریقہ۔
طَرِيْقَةٌ فِى التَّصْوِيْت: ووٹنگ کا طریقہ۔
بِطَرِيْقَةٍ عَشْوَائِيَة: اندھادھند۔
بِطَرِيْقَةٍ نِظَامِيَة: نمبروار، قاعدہ کے مطابق، حسبِ ضابطہ۔
طُرُقُ التِجَارَة: کاروباری طریقے۔
طُرُقٌ فَرْعِيَّة: سائڈروڈ۔
الطُّرُقُ المُخْتَصَرَة: مختصر راستے۔
الطُّرُقُ الدِبْلُومَاسِيَة: ڈپلومیٹک ذرائع۔
مِطْرَقٌ و مِطْرَقَةٌ ج: مَطَارِقُ: ہتھوڑا۔
مَطْرُوْق: کوٹا ہوا، چھنا ہوا، چالو، مستعمل۔
طَارِمَة: لکڑی کا کمرہ، کیبن۔
طُرُمْبَة ج: طُرُمْبَات: (۱) پمپ (۲) سرنج (۳) پچکاری۔
طَرُوَ ــُ طَرِيَ ــَ طَرَاوَةً: تازہ ہونا، نرم ہونا، خوشگوار ہونا۔
طَرِيٌّ: تازہ، خوشگوار۔
إِطْرَاءٌ: حد سے زیادہ تعریف۔
طَرَاوَة: تازگی، نرمی، خوشگواری۔

ط .... ز

طَازَج: تازہ (مع)۔
طَازَجُ التَّحْضِيْر: تازہ تیار کیا ہوا۔

ط .... س

طَسْتٌ و طِشْتٌ: سلفچی، ہاتھ دھونے کا برتن ج: طُسُوْت و طُشُوْت۔

ط .... ع

طَعِمَ ــَ طَعْماً: چکھنا، کھانا۔
تَطَعَّمَ: چکھنا۔
طَعَّمَ تَطْعِيْماً: ٹیکہ لگانا، دیوار وغیرہ پر کوئی چیز لگانا۔
طَعَّمَ بِلِقَاحِ الجُدَرِیِّ: چیچک کا ٹیکہ لگانا۔
طَعَّمَ النَّبَاتَ: قلم لگانا۔
طَعَّمَ بِكَذَا: مدد پہنچانا۔
طَعَّمَ القُوَّاتِ بِقُوَّاتٍ جَدِيْدَةٍ: نوجوں کو نئی کمک پہنچانا۔
إِطْعَام: کھلانا۔
اِسْتِطْعَام: کھانا مانگنا (۲) ذائقہ چکھنا۔
طَعْمٌ: ذائقہ، لذّت، مزہ، ٹیسٹ۔
لَا طَعْمَ لَهُ: بے مزہ۔
طَعِمٌ: خوش ذائقہ۔
طَعَامٌ ج: أَطْعِمَة: کھانا، روزینہ، اشیائے خوردنی۔
طَعَامُ المَرْضَى: پرہیزی کھانا۔
أَطْعِمَةٌ مُعَلَّبَة: ڈبوں میں بند کھانے۔

خِوَانُ الطَّعَام: کھانے کی میز۔
مَطْعَم ج: مَطَاعِمُ: ریسٹورنٹ، کھانے کا ہوٹل، کینٹین۔
مَطْعَمٌ بِلاَ خَدَم: سیلف سروس ہوٹل۔
طَعَنَهُ بِالرُّمحِ ـُ طَعناً: نیزہ مارنا، خنجر وغیرہ مارنا۔
طَعَنَ فِي السِّنِّ: بوڑھا ہونا۔
طَعَنَ فِيهِ و عَلَيْهِ ـَ طَعناً: طنز کرنا، تنقید کرنا، اعتراض کرنا، آواز کسنا۔
طَعَنَ في شَرَفِه: عزت پر حملہ کرنا۔
طَعَنَ في قَوْلِه: بات کو غلط ثابت کرنا، رد کرنا، رد و قدح کرنا۔
طَعَنَ فيه و عليه "بِالنَّشر": الزام لگانا، بدنام کرنا، ہتک آمیز بیان شائع کرنا۔
طَعْنٌ: خنجر وغیرہ کی ضرب (۲) نقد و اعتراض (۳) تہمت۔
طَعْنَة ج: طَعَنَات: آوازہ، چھینٹا۔
طَاعِنٌ في السِّنِّ: عمر رسیدہ۔

ط.........غ

طَغَا ـُ و طَغَى ـَ طَغياً و طُغيَاناً: (۱) جوش میں آنا (۲) حد سے بڑھنا (۳) پانی میں طغیانی آنا (۴) سرکشی کرنا (۵) سیلاب آنا۔
طُغيَان: (۱) سرکشی (۲) طغیانی، سیلاب۔
الطُّغيَان و الاِستِبدَاد: ظلم و استبداد۔
طَاغٍ ج: طُغَاة: سرکش، نافرمان، ظالم، حد سے بڑھنے والا باغی۔
الطَّاغِيَة: جابر۔

ط.........ف

طَفِئَتِ النَّارُ ـَ طُفوءاً و انطَفَأَتْ: آگ بجھنا، روشنی ختم ہونا، بجھنا۔
طَفَأَ و أَطفَأَ: بجھانا، گل کرنا، پیاس بجھانا، چونا بجھانا۔
إِطفَاءُ الاَنوَار: بلیک آوٹ (۲) بتیاں گل کرنا۔
مُطفَأ: بجھا ہوا، ماند، ناچمکدار۔
مِطفَأة، طَفَايَة: بجھانے کا آلہ۔
مِطفَأةُ الحَرَائِق: فائر انجن، فائر بریگیڈ ریج: مَطَافِئُ۔
اِطفَائِي: فائر مین۔
طَفَحَ الإِنَاءُ ـَ طُفُوحاً: برتن کا بھرنا، چھلکنا، لبالب بھرنا۔
طَفَحَتْ كَأسُهُ: اس کا جام چھلک گیا۔
طَفَحَ مِنهُ: تنگ آنا، پریشان ہونا۔
طَفَّحَ و اَطفَحَ: لبالب بھر دینا، چھلکانا۔
اِطَّفَحَ القِدرَ: جھاگ اتارنا۔
كَيلٌ طَافِحٌ: لبریز پیمانہ۔
طُفَاحَة: جھاگ۔
طَفَرَ ـِ طَفراً و طُفُوراً: چھلانگ لگانا۔
طَفَرَتِ الدُّمُوعُ مِنَ العَيْنِ: آنسو ڈھلکنا۔
طَفْرٌ و طَفرَة: چھلانگ۔
طَفَّفَ المِكيَالَ تَطفِيفاً: پیمانہ کو پورا نہ بھرنا۔
طَفِيف: ناقص، کم، تھوڑا۔
طَفِقَ بِمُرَادِه ـَ طَفَقاً و طُفُوقاً: مراد پالینا۔
طَفِقَ يَفْعَلُ: کرنے لگا، کرتا رہا۔
طَفَّلَ و تَطَفَّلَ: طفیلی بننا۔
طِفلٌ ج: أَطفَال: بچہ، بے بی، شیر خوار بچہ۔
طِفلٌ غَيرُ شَرعِيّ: فلاں کا ناجائز بچہ۔
طِفلِيّ (خَاصٌّ بِالاَطفَال): بے بی سے

متعلق، بچے سے متعلق۔
الطُفُولیٰ: بچکانہ۔
رَوْضَۃُ الاَطْفَال: بچوں کا تربیتی اسکول۔
طُفَیلِیّ: زائد، دوسروں کے ساتھ لگا ہوا۔
طَفَا ـُـ طَفْواً و طُفُوّاً: تیرنا، پانی کے اوپر تیرنا۔
طَفَتْ صُوَرٌ اَمَامَ العَیْنِ: آنکھوں میں پھرنا۔
طَافِیَۃ: (۱) برف کا ٹکڑا، تیرتا ہوا تودہ۔
طَافٍ: تیرتا ہوا۔

ط............ق

طَقْسٌ ج: طُقُوس: (۱) آب و ہوا (۲) موسم (۳) رسم و رواج۔
طَقْسٌ دِیْنِیّ: مذہبی تہوار، میلہ۔
طَقْمٌ: کسی چیز کا سیٹ، مجموعۂ اشیاء۔
طَقْمُ ثِیَابٍ: کپڑوں کا جوڑا۔
طَقْمُ اَسْنَانٍ: مسوڑھا، جبڑا، دانتوں کی پلیٹ۔
طَقْمُ سُفْرَۃٍ: لوازم دسترخوان۔
طَقْمُ شَايٍ: چائے کے لوازم، ٹی سیٹ۔
طَـاقِم: عملہ، کارکنوں کی جماعت، گروپ ج: اَطْقُم۔
طَاقِمُ السَّفِیْنَۃ: جہاز کا اسٹاف۔

ط............ل

طَلَبَ ـُـ طَلَباً: چاہنا، مانگنا، آرڈر دینا، طلب کرنا۔
طَلَبَ إِلَیْہِ: درخواست کرنا، اپیل کرنا، گزارش کرنا۔
طَلَبَ مِنْہُ: مطالبہ کرنا، فرمائش کرنا۔
طَلَبَ الزَّوَاجَ: پیغام نکاح دینا۔
طَلَبَہُ تِلِیفُونِیاً: ٹیلیفون پر بلانا۔
تَطَلَّبَ: مقتضی ہونا، تقاضا کرنا۔
تَطَلَّبَ الوَقْتَ: وقت درکار ہونا۔
طَالَبَہُ مُطَالَبَۃً: مطالبہ کرنا۔
طَـلَبٌ ج: طَلَبَات: درخواست، ریکوائسٹ، اپلیکیشن (۲) اپیل، التماس، گزارش (۳) سوال (۴) فرمائش (۵) مانگ، ڈیمانڈ (۶) تقاضہ (۷) آرڈر (۸) خواہش۔
طَلَبُ الاِجْتِمَاعِ لکذا: اجلاس بلانا۔
طَـلَـبُ الْـکَـلِمَۃِ مِنْ اَحَدٍ: تقریر کے لئے کہنا۔
طَلَبٌ دَرِیْدِیّ: میل آرڈر، ڈاک والا آرڈر۔
طَلَبٌ بِالْحَاحٍ: اصرار کے ساتھ فرمائش۔
طَلَبٌ تِجَارِیّ: آرڈر۔
طَلَبُ تَعْوِیْضٍ عَنْ: کلیم کرنا۔
طَلَبُ تَوْظِیْفٍ: ملازمت کی درخواست۔
طَلَبٌ ثَابِتٌ: مستقل آرڈر۔
طَـلَـبُ الـسَّـمَـاحِ لِفُلَانٍ بکذا: کسی کو اجازت دینے کی درخواست۔
طَلَبٌ عَلَی العُمَّالِ: لیبر ڈیمانڈ۔
طَلَبٌ عَلَی قَرْضٍ: قرضہ ڈیمانڈ۔
طَلَبٌ قَوِیّ: زبردست مانگ۔
طَلَبُ اللِّقَاءِ مع اَحَدٍ: ملاقات چاہنا۔
طَلَبٌ مُسْتَعْجَل: فوری آرڈر۔
طَـلَـبُ المُقَابَلَۃ: ملنے کے لئے بلانا، ملاقات کی درخواست۔
طَـلَـبُ الـمُـکَالَمَۃِ التِلِفُونِیَّہ: ٹیلیفون کال چاہنا۔

طَلَبُ مُناقَصةٍ: ٹینڈر مانگنا۔
طَلَبٌ مِنَ المَحْكَمة إثْباتَ مِلْكِيَّةٍ: عدالت کی طرف سے ملکیت کے ثبوت کا مطالبہ۔
الطَّلَبُ المُؤَجَّل: میعادی آرڈر۔
طَلَبٌ نامٍ: بڑھتی ہوئی مانگ۔
طَلَبُ وَظِيفَةٍ: ملازمت کی درخواست۔
طَلَبُ وَقْفِ المُساعَداتِ النَّووِيَّة لكذا: ایٹمی امدادیں بند کرنے کی درخواست۔
طَلَبُ اليَدِ لِلزَّواج: آفر کرنا، شادی کی فرمائش کرنا۔
تَحْتَ الطَّلَب: حکم کے تابع۔
عِنْدَ الطَّلَب: عند الطلب، بوقتِ ضرورت۔
طِلْبَة: مطلوبہ چیز۔
طَلِبَة: عبادت، فریاد۔
طَلَباتٌ غَيْرُ مُنَفَّذَة: غیر تعمیل شدہ آرڈر، غیر تکمیل شدہ فرمائشات۔
طَلَباتٌ لَمْ تُسَلَّم: آرڈر جو پورے نہ کئے گئے ہوں۔
طَلَباتٌ مُتَكَرِّرَة: مسلسل فرمائشیں۔
طَلَباتٌ مَوْسِمِيَّة: سیزنل (موسمی) آرڈر۔
طالِبٌ: درخواست کنندہ، اپیل کرنے والا (۲) فرمائش کنندہ (۳) اسٹوڈنٹ، شاگرد، متعلم، ودیارتھی ج: طُلّاب و طَلَبة۔
طالِبٌ مُتَقَدِّم: کسی ملازمت وغیرہ کا امیدوار، کنڈیڈیٹ۔
طالِبُ الزَّواج: شادی کا خواستگار، امیدوار۔
طالِبُ اسْتِخْدام: نوکری کی درخواست کرنے والا۔
طالِبُ الاسْتِئْناف: اپیل کنندہ۔
طالِبُ حَقٍّ: کلیم والا، صاحب کلیم۔
الطّالِبُ المُعَلِّم: اسٹوڈنٹ ٹیچر، اسٹوڈنٹ مدرس۔
طالِبُ المُناقَصة: ٹینڈر والا۔
طالِبٌ مُتَفَوِّق: امتیاز حاصل کرنے والا طالب علم۔
طالِبُ الوَظِيفَة: ملازمت کا خواہاں۔
طُلّابُ السَّلام: امن پسند۔
مُطالَبٌ: جواب دہ، ذمہ دار۔
مَطالِبُ: مطالبات، ضروریات، خواہشات۔
مُطالِبٌ بِحَقٍّ: مدعی، دعویدار۔
مُطالِبٌ بِالعَرْش: تخت کا دعویدار۔
مَطالِبُ الشَّعْب: عوامی خواہشات۔
مَطالِبُ فادِحَة: بھاری مطالبات۔
مُطالَباتٌ جُمْرُكِيَّة: کسٹم کلیم۔
مُطالَبَة: کلیم، ڈیمانڈ، کلیم کرنا، ڈیمانڈ کرنا۔
المُطالَبَةُ بِتَعْوِيض: معاوضہ طلب کرنا۔
المُطالَبَةُ بِتَعْوِيضِ الأضْرار: معاوضہ نقصانات کا کلیم۔
المُطالَبَةُ بِحُقُوقٍ: حقوق مانگنا۔
المُطالَبَةُ بِشَيْءٍ: دعویٰ کرنا، مطالبہ کرنا۔
المُطالَبَةُ بِالعَمَل على إطْلاقِ السَّراح: رہائی کی کارروائی کا مطالبہ۔
المُطالَبَةُ بِوَسِيطٍ جَدِيدٍ: نئے ثالث کا

مطالبہ۔
مَطْلَب: (۱) مقصد، مانگ، ڈیمانڈ، مطالبہ (۲) موضوع، مسئلہ، بحث (۳) غرض، مفاد، مقصد، خواہش (۴) واجب الادا ج: مَطَالِبُ۔
مَطْلَبٌ قَوْمِيٌّ: قومی مفاد۔
مَطْلُوب: قابلِ ادائیگی، مطالبہ، ضرورت ہے (اشتہاری زبان)۔
مَطْلُوب العَمَل: کام کے لئے ضرورت ہے۔
مَطْلُوبٌ مُدَرِّس: مدرس کی ضرورت (اشتہار)۔
مُتَطَلِّبُ مُعَالَجةٍ طِبِّيَّةٍ: طبی علاج کا محتاج، مقتضی۔
مُتَطَلَّبات: ضروریات، مقاصد۔
طَلَحَ ـــُ طَلَاحاً: (ضد صَلُحَ) بگڑنا، خراب ہونا۔
طَلْحٌ: کیلا۔
طَالِحٌ: فاسد، ناکارہ (ضد صَالِح)۔
طَلْحِيَّة: کاغذ کا ایک شیٹ (فَرْخ وَرَقٍ)۔
طَلِيحَةُ وَرَقٍ: کاغذ کارِم۔
طَلَسَ الكِتَابَةَ ـــِ طَلْساً: مٹانا۔
طِلْسٌ: نہ پڑھا جانے والا، مٹا ہوا۔
طَلَّاسَة: ڈسٹر، مٹانے والی چیز۔
طَيْلَسَان: چوغا ج: طَيَالِسَانات و طَيَالِس۔
أَطْلَس: ایک ریشمی کپڑا (۲) اٹلس۔
المُحِيطُ الأَطْلَسِيّ: بحر اٹلانٹک۔
طِلَسْم: معمہ، ناقابلِ فہم بات ج: طَلَاسِم۔

طَلَعَ ـــُ طُلُوعاً: روشن ہونا، طلوع ہونا۔
ـــ عليه: سامنے آنا، اچانک آنا۔
ـــ و طَلِعَ ـــَ: چڑھنا، بلند ہونا۔
ـــ عَلَى الأمْر: واقف ہونا۔
ـــ النَّبَاتُ والسِّنُّ: نبات یا دانت اُگنا۔
أَطْلَعَهُ عَلَى: واقف کرنا، اطلاع دینا، مطلع کرنا۔
أَطْلَعَهُ عَلَى الأمْر: راز بتانا۔
طَلَّعَ تَطْلِيعاً: (۱) نکالنا (۲) چڑھانا، بلند کرنا (۳) قے کرنا۔
طَالَعَ مُطَالَعَةً: پڑھنا، غور سے پڑھنا۔
اِطَّلَعَ عَلَى: واقف وباخبر ہونا (۲) محسوس کرنا، معلوم کرنا، پتا چلنا، دریافت کرنا، انکشاف کرنا۔
اِطَّلَعَ عَلَى العَمَل: نگرانی کرنا۔
اِطِّلَاع: واقفیت (۲) انفارمیشن (۳) نوٹس۔
الإطِّلَاعُ عَلَى الفَلْسَفَه: فلسفہ دانی۔
اِسْتَطْلَعَ: آمد یا طلوع کا خواہشمند ہونا (۲) معلومات کرنا، جستجو کرنا۔
اِسْتَطْلَعَ رَأْيَه: رائے لینا، معلوم کرنا۔
اسْتِطْلَاع: تحقیق، انکوائری، تجسس، کھوج، دیکھ بھال۔
اِسْتِطْلَاعِيّ: تفتیش وتلاش سے متعلق، تحقیقاتی۔
تَطَلُّع: شوق، نگاہِ شوق، امنگ۔
تَطَلَّعَ إلى: متمنی ہونا، آرزومند ہونا، نظر رکھنا، کسی کی آمد کے انتظار میں نگاہ اٹھانا، دیکھنا۔

تطلّعَ فِی: سمجھنے کی کوشش کرنا۔
تطلّعات: امیدیں، توقعات۔
تطلّعاتُ الجماهِیر أو الشّعب: عوامی توقعات۔
تطلّعاتٌ قومِیّة: قومی امنگیں۔
طَلعُ النّخل: کھجور کی کلی۔
طَلعَة: جھلک، دید، ظہور۔
طَلِیعَة: وین، سامان ڈھونے کی بڑی گاڑی، آمد کی خبر دینے والا ج: طلائع۔
طَلِیعَةُ الجَیش: مقدمۃ الجیش، راستہ کی دیکھ بھال کرنے والا دستہ (۲) پیش پیش رہنے والی جماعت ج: طَلائعُ۔
فِی طَلِیعَةِ: آگے آگے، پیش پیش، سرِفہرست۔
طَلائعُ الشَّیءِ: اوائل، ابتدائی حصے۔
طَلائعُ ثَورِیّة: انقلابی فوج، انقلابی دستے۔
طَالِعٌ: (۱) چڑھنے والا (۲) قسمت کا ستارہ، قسمت ج: طَوالِع۔
سَیِّئُ الطَّالِع: بدقسمت۔
مَطلَعٌ: (۱) آغاز (۲) جائے آغاز (۳) زینہ (۴) قصیدہ کا پہلا شعر ج: مَطالِعُ۔
مُطّلِعٌ عَلَی: واقف کار۔
مُطَالِع: پڑھنے والا، مطالعہ کرنے والا، اسٹڈی کرنے والا۔
مُطالَعَة: اسٹڈی۔
طَلِقَ ــ طَلَقاً: دور ہونا، چھوٹنا۔
طَلُقَتِ المَرأةُ ــ طَلاقاً: عورت کا مطلقہ ہونا۔
طَلُقَ الرَّجُلُ ــ طُلُوقَةً: خندہ رُو ہونا۔
طَلُقَ الوَجهُ: چہرہ کھلنا۔
طَلُقَ اللِّسانُ: فصیح ہونا۔
طَلَّقَ تَطلِیقاً: چھوڑنا، آزاد کرنا، طلاق دینا۔
اَطلَقَهُ: آزاد کرنا، آزاد چھوڑنا۔
اَطلَقَ اِشارَةَ تَحذِیرٍ: ہارن دینا۔
اَطلَقَ یَدَهُ: ہاتھ کھولنا۔
اَطلَقَ بُندُقِیَّةً اَو نَاراً: شوٹ کرنا۔
اَطلَقَ الحُرِّیَّةَ: آزادی بحال کرنا۔
اَطلَقَ الغازَ: گیس چھوڑنا۔
اَطلَقَ الغازَ المُسِیلَ لِلدُّمُوعِ: اشک آور گیس چھوڑنا۔
اَطلَقَ لَهُ العِنَانَ: بے لگام چھوڑنا، سرپٹ دوڑانا، آزاد چھوڑنا۔
اَطلَقَ فِیهِ النّارَ: فائر کرنا۔
اَطلَقَ النّارَ أو الرَّصاصَ علی: شوٹ کرنا، گولی چلانا، گولی برسانا، فائرنگ کرنا۔
اَطلَقَ المِدفَع: توپ چلانا۔
اِستَطلَقَ البَطنُ: پیٹ چلنا۔
اِنطَلَقَ: (۱) جانا (۲) چھوٹنا (۳) گولی چلنا، فائر کرنا (۴) روانہ ہونا، اسٹارٹ ہونا۔
اِنطَلَقَ مُسرِعاً: سرپٹ دوڑنا۔
اِنطَلَقَ وَجهُه: چہرہ کھلنا۔
اِنطَلَقَ مِن بَینِهِمَا سِرِّیّاً: آنکھ بچا کر نکل جانا۔
اِنطَلَقَت رَصاصَاتُ الشَّتِیمَة: گالیوں کی بوچھاڑ ہونا۔
اِنطَلَقَ التِلفُونُ صَارِخاً: ٹیلیفون کی

گھنٹی زور سے بجی۔
اِنطِلاق: آزادی، رہائی، حرکت، چھوٹ۔
الانطِلاقُ فی العَمَل: کام جاری رکھنا، کام میں لگے رہنا۔
اِنطِلاقُ القَذِیفَة: گولہ چھوٹنا۔
اِنطِلاقُ المِدفَع: توپ چھوٹنا۔
اِنطِلاقُ النَّار: آگ برسنا، فائر ہونا۔
اِنطِلاقٌ نَحوَ التقَدُّم: ترقی کی طرف دوڑنا۔
انطِلاقُ الوَبَاء: وبا پھیلنا۔
انطِلاقاً مِنْ کذا: فلاں چیز کے تحت۔
انطِلاقاً مِنَ المَبَادِئ: اصول کے تحت۔
انطِلاقَة: سفر، خاص حرکت، اقدام، تحریک۔
طَلْق: دردِ ولادت۔
طَلْقٌ و طِلْق: آزاد، کھلا۔
طَلْقُ الیَدَین: کشادہ دست۔
طَلْقُ اللِّسَان: زبان دراز، فصیح اللسان۔
لِسَانٌ طَلْقٌ: تیز زبان۔
هَوَاءٌ طَلْقٌ: کھلی ہوا۔
طَلْقٌ نَارِیٌّ: شوٹ، فائر۔
طَلَاقَة: فصاحت (۲) زباں زوری، زبان کی روانی (۳) زباں درازی۔
طَلَاقَةُ الوَجه: خندہ روئی، چہرے کی شگفتگی۔
طَلْقَةٌ نَارِیَّة: فائر ج: طَلَقَات۔
الطَّلَقَاتُ الجَوِّیَّة: ہوائی فائرنگ۔
طَلَقَاتُ المَدَافِع: توپوں کی گرج، توپوں کی آوازیں۔
طَلَقَاتُ المِدفَعِیَة: توپ خانہ کی گولہ باری۔

إِطْلَاق: اسٹارٹ کرنا، چھوڑنا، توپ وغیرہ داغنا، ریلیز کرنا (۲) آزاد کرنا، رہائی (۳) عموم۔
عَلَى الإِطْلَاق: عموماً، قطعی طور پر
مُطلَق: (۱) عام، غیر محدود و غیر مقید (۲) پورا، کامل، مکمل (۳) مستبدانہ، ڈکٹیٹرانہ، مطلق العنان۔
مُطلَقُ التَّصَرُّف: مطلق العنان۔
مُطلَقُ التَّفوِیض: فل پاور آدمی، کامل الاختیار۔
مُطلَقُ السَّرَاح: آزاد۔
مُطلَقاً: بالکل (نہیں)۔
مُنطَلَق: مرکز، اصول، مقامِ کار، قاعدہ، سرچشمہ، آغاز، میدانِ کار، دائرۂ آزادی ج: مُنطَلَقات۔
المُنطَلَقُ الرَّئِیسِیّ: اصل بنیاد۔
مُنطَلَقُ العَمَلِیَّات: کارروائی کا مرکز۔
مُنطَلَقَاتٌ اِبتِدَائِیَّة: بنیادی اصول۔
المُنطَلَقَاتُ الأُولَى: بنیادی اصول۔
طَلَل: کھنڈر، عمارت کا شکستہ ملبہ ج: أطْلَال۔
طَلَلُ الدَّار: نشت گاہ۔
طَلَّ الغَرِیمَ ـُـ طَلّاً: صاحبِ قرض کو ٹلانا۔
طَلَّتِ السَّمَاءُ ـُـ طَلّاً: شبنم برسنا۔
أَطَلَّ عَلَى: سامنے آنا، سامنے نظر آنا، سامنے ہونا۔
أَطَلَّ مِنْ: جھانکنا، آگے کی طرف نکلا ہوا ہونا۔
طَلّ: شبنم، پھوار۔
مُطِلٌّ عَلَى: سامنے نظر آنے والا۔

طَلَمَ الخُبزَ ـُ طَلْماً: بیلنا، بیلن سے روٹی کو بڑھانا۔
مِطْلَمَة: بیلن جس سے روٹی بڑھائی جائے۔
طُلُمْبَة: واٹر پمپ، دستی پمپ، نل۔
طَلَاوَة: رونق، آب، حسن۔
طَلَى ـِ طَلْياً: روغن کرنا، پالش کرنا، ملمع کرنا۔
طَلَى بِالذَّهَبِ: سونے کا ملمع کرنا۔
اِنطَلَتْ عَلَيْهِ الحِيْلَةُ: اس پر حیلہ کامیاب ہوگیا، فریب چل گیا۔
طِلَاءٌ: پالش، روغن، رنگ، پیسٹ، پینٹ، چمکانے کا مصالحہ ج: أَطْلِيَة۔
طِلَاءُ الاَظَافِرِ: ناخنوں کو لگانے والی سرخی۔
الطِلَاءُ بِالكَهرَبَاءِ: الیکٹروپلاٹنگ، بجلی کی پینٹنگ۔
طَلَّاءٌ: روغن گر، پینٹر۔

ط.........م

طَمَثَتِ المَرْأَةُ ـِ طَمْثاً: حیض آنا۔
طَمَحَ بِهِ ـَ طَمْحاً و طُمُوحاً: لے جانا۔
طَمَحَ بَصَرُهُ إِلَى: نگاہ اٹھنا۔
طَمَحَ بِبَصَرِهِ: دیکھتے رہنا۔
طَمَحَ الرَّجُلُ إِلَى كَذا: آنکھیں لگنا، توقع کی نگاہ سے دیکھنا۔
طُمُوحٌ: (۱) جاہ طلبی (۲) بلند پروازی، بلند خیالی، اولوالعزمی، امنگ۔
طَمُوح: بلند خیال، عالی حوصلہ۔
طُمُوحات: بلند خواہشات، بلند توقعات۔
طَامِحٌ، طَمَّاحٌ، طَمُوح: بلند پرواز، جاہ طلب، بلند ہمت، لالچی، غرض مند، بڑے خواب دیکھنے والا۔
مَطْمُوح: متوقع۔
مَطْمَح ج: مَطَامِحُ: لالچ، غرض، مقصد۔
مَطْمَحَة: ذریعہ حرص، لالچ کا ذریعہ۔
طَمَرَ ـِ طَمْراً و طُمُوراً و طَمَّرَ تَطْمِيراً: دفن کرنا۔
طَمَرَ النَّارَ: آگ کو راکھ میں دبانا۔
طَمَرَتِ الآثَارُ: آثار مٹنا۔
طِمْرٌ: پرانا کپڑا ج: اَطْمَارٌ۔
طُومَار: کاغذ یا کپڑے وغیرہ کا رول۔
مَطْمُور: مدفون۔
طَمَسَ ـِ طَمْساً: مٹانا، برباد کرنا، نشان مٹانا۔
طَمَسَ ـُ طُمُوساً و انْطَمَسَ: مٹنا، برباد ہونا، نشان مٹنا۔
طَمَسَ بَصَرُهُ: بینائی ختم ہونا۔
طَمَّسَ: مٹانا، صورت بگاڑنا۔
مَطْمُوس: مٹا ہوا، جو پڑھا نہ جاسکے، نہ پڑھا جانے والا۔
طَمْطَام: سمندر کی چوڑائی۔
طَمَاطِم: ٹماٹر۔
طَمِعَ فِيهِ ـَ طَمَعاً: لالچ کرنا۔
طَمُعَ ـُ طَمَاعَةً: لالچی ہونا۔
طَمِعَ فِي لِقَائِهِ: آنکھیں ترسنا۔
طَمَّعَ و اَطْمَعَ: لالچ دلانا، ہمت دلانا۔
طَمَعٌ: خواہش، لالچ، حب زر، حرص، غرض ج: اَطْمَاع۔
الطَّامِعُ فِي السُّلْطَةِ: اقتدار کا خواہشمند۔

الطَّامِعُ فی السِّیَادَة: اقتدار پسند۔
طَمَّاع: بے حد لالچی۔
مَطْمَعٌ: لالچ، غرض، مقصد ج: مَطَامِعُ۔
مَطْمَعَة: ذریعہ حرص، لالچ کا ذریعہ۔
طَمَّ الماءُ ـِ طَمّاً و طُمُوماً: پانی پھیلنا۔
طَمَّ الإناءُ: برتن بھرنا۔
طَمَّ البئرَ و الحُفرةَ: پاٹنا، بھرنا۔
طَامَّة: انتہائی چالاک۔
طَمْـنَـهُ و طَـمْـأَنَـهُ علی شیٍٔ: کسی چیز کا اطمینان دلانا۔
طَمْأَنَ الشیٔ: جھکانا۔
اِطْمَأَنَّ: مطمئن ہونا، بے خوف ہونا (۲) جھکنا، پست ہونا۔
اِطْمَأَنَّ علی الحیاۃِ و الکرامۃ: جان اور عزت سے بے فکر ہو جانا۔
طُـمَـأْنِینَة: سکون، بے خوفی، اطمینان، آرام، ریسٹ۔
مُطْمَئِنّ: بے خوف، بے فکر۔
أرْضٌ مُـطْـمَـئِـنَّـة: نشیبی زمین، پست زمین۔
طَـمَـی ـِ طَـمْـیاً و طَـمَا ـُ طُمُوّاً: پانی چڑھنا، پانی کی سطح بلند ہونا۔
طَمَی النهرُ: نہر میں پانی بھر جانا۔

ط..........ن

طَنَّبَ بالمکان تَطْنِیباً: قیام کرنا، پڑاؤ ڈالنا۔
أطْنَبَ فِی المَدْحِ: مبالغہ آمیز، تعریف کرنا، حد سے زیادہ تعریف کرنا۔
طَنْطَنَ طَنْطَنَة: گھنٹی کی سی آواز نکلنا۔
طَنْطَنَةُ الأجْرَاس: گھنٹیوں کی آواز۔
طُـنُـفٌ، طَـنَـفٌ: چھجا (۲) دروازہ کا سائبان ج: أطْنَاف و طُنُوف۔
طُنْفُسَة: قالین ج: طَنَافِس۔
طَـنَّ و طَنَّ ـِ طَنِیناً: گھنٹی بجنا، گھنٹی کی سی آواز نکلنا، مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہونا۔
طُنٌّ: ٹن ج: أطْنَان۔
طُنٌّ مِتْرِیّ: ایک ہزار کلوگرام۔

ط..........ہ

طَهُرَ ـُ طُهْراً و طَهَارَةً: پاک ہونا۔
طَهَّرَ تَطْهِیراً: پاک کرنا۔
طَهَّرَ الأحْزَاب: پارٹیوں کا صفایا کرنا۔
طَهَّرَ بالماءِ: طہارت کرنا۔
طَهَّرَ الجَیْش: فوج کی تطہیر کرنا۔
طَهَّرَ الصِّحَافَةَ: صحافت کو نکھارنا۔
طَاهِرُ الذَّیْل: پاکدامن۔
طَاهِرُ القَلْب: نیک دل۔
طَهَا ـُ طَهْواً و طَهَایَةً: پکانا۔
طَاهٍ: پکانے والا، باورچی ج: طُهَاة۔

ط..........و

طُوب و: طُوبَة: پختہ اینٹ۔
طُوبٌ نِیٌّ: کچی اینٹ۔
طُوبٌ حَرَارِیّ: پختہ اینٹ، کھپریل۔
طَوَّاب: اینٹ بنانے والا۔
طُوبَجِیٌّ: (مع) توپ چلانے والا۔
طُوبَجِیَّة: توپ خانہ (مع)۔
طَـوَّحَ بِـهِ تَـطْـوِیـحاً: مصائب میں ڈالنا، خطرات میں ڈالنا، دور پھینکنا۔
طَاحَ ـُ طَوْحاً: ہلاکت کے قریب ہونا، ہلاک ہونا، بھٹکنا۔

أَطَاحَ: کاٹنا۔
أَطَاحَ بہ: ہلاک کرنا، خاتمہ کرنا۔
أَطَاحَ بِنِظَامِ الحُکْم: حکومت کا تختہ الٹنا۔
تَطَوَّحَ: مصیبت میں پھنسنا، تڑپنا۔
طَوْدٌ: پہاڑ ج: أَطْوَاد۔
إِنْطِيَاد: فضا میں بلند ہونا۔
مُنْطَاد: بڑا غبارہ ج: مَنَاطِيْدُ۔
طَوَّرَهُ تَطْوِيْراً: ترقی دینا، تبدیل کرنا۔
طَوْرٌ ج: أَطْوَار: حال (۲) مرحلہ (۳) وقت (۴) درجہ (۵) کیفیت۔
طَوْراً: کبھی۔
طُوْر: پہاڑ۔
طُوْرُ سِيْنَا: کوہِ سینا، ایک پہاڑ جو جزیرہ نمائے سینا میں واقع ہے۔
طَارٌ، طَارَة: (إطَار) چوکھٹا، فریم، گھیرا۔
تَطْوِيْرٌ: ترقی دینا، تبدیلی لانا، ترقی، بہتر تبدیلی، تشکیلِ جدید، نئے طرز پر تشکیل دینا، تبدیل کرنا۔
تَطْوِيْرُ العَلَاقَات: تعلقات بڑھانا۔
تَطْوِيْرُ العَمَلِيَّةِ الإِنْتَاجِيَّة: پیداواری صلاحیت بڑھانا۔
تَطَوُّر: انقلاب، ترقی، تبدیلی ج: تَطَوُّرَات۔
التَّطَوُّرُ الاِقْتِصَادِيّ: اقتصادی ترقی۔
تَطَوُّرٌ حَضَارِيّ: تمدنی ترقی۔
تَطَوُّرُ الدَّوْلَةِ عَلَى مُسْتَوىً عَالٍ: ملک کا بڑے پیمانہ پر ترقی کرنا۔
تَطَوُّرُ العَلَاقَاتِ مَعَ أَحَد: تعلقات میں تبدیلی یا ترقی۔
تَطَوُّرُ المَعْرَكَةِ ضِدَّ فُلَان: کسی کے خلاف جنگ پلٹ جانا۔
تَطَوُّرُ المَوْقِفِ فِي كَذَا: صورتِ حال کا بدل جانا۔
تَطَوُّرُ الوَضْع: صورتِ حال کا بدل جانا، پوزیشن بدل جانا۔
تَطَوُّرَات: تبدیلیاں، اتار چڑھاؤ۔
تَطَوُّرَاتُ الوَضْع: صورتِ حال میں تبدیلیاں۔
تَطَوُّرِيّ: تغیر پذیر۔
المُتَطَوِّر: تغیر پذیر، ترقی یافتہ۔
طُوْرْبِيْد: (مع) تارپیڈو۔
سَفِيْنَةُ طُوْرْبِيْد: تباہ کن بحری جہاز (سَفِيْنَةُ نَسَّافَة)۔
طَوَّسَ تَطْوِيْساً: مزین کرنا۔
طَوَّسَ المَعْدِنُ: دھات کو زنگ لگنا۔
تَطَوَّسَ: اظہارِ زینت کرنا۔
طَاسٌ، طَاسَةٌ ج: طَاسَات: پیالہ، پیالی۔
طَاوُوْس: مور ج: طَوَاوِيْس۔
طَاعَ ـُـ طَوْعاً و انْطَاعَ و أَطَاعَ: تابع دار ہونا، اشارہ پر چلنا۔
طَوَّعَ تَطْوِيْعاً: فرماں بردار بنانا، تابع دار بنانا، آسان بنانا، رضا کار بنانا۔
تَطَوَّعَ بِكَذَا: کسی کام کو رضا کارانہ طور پر انجام دینا۔
طَاوَعَهُ فِي الأَمْرِ عَلَيْهِ: موافقت کرنا، ساتھ دینا۔

طَاعَةٌ: فرماں برداری، تقلید۔
طَاعَةُ عَمْيَاءُ: کورانہ تقلید۔
الطَّاعَةُ لِلقَانُون: احترام قانون۔
طَوْعٌ ، طَيِّعٌ ، طَائِعٌ ، مُطِيعٌ: فرمانبردار۔
طَوْعُ العِنَانِ: آسان۔
طَوْعُ إِشَارَتِهِ: اس کے اشارے کے تابع، فرمانبردار۔
طَوْعاً: خوشی سے، اختیاری طور پر۔
طَوْعاً أَوْ كُرْهاً: خوشی یا ناخوشی سے، خواستہ ناخواستہ۔
تَطَوُّع: غیر واجب شدہ کام کی انجام دہی، رضا کاریت، والنٹیری۔
التَطَوُّعُ لِخِدْمَةٍ: والنٹیری، کسی خدمت کے لئے آمادگی۔
طَواعِيَةً: برضا، مرضی سے۔
المُطِيعُ لِلقَانُون: قانون کا پابند۔
المُطَوِّعُ لِخِدْمَةٍ: والنٹیر۔
مُتَطَوِّع: رضا کار، والنٹیر۔
مُسْتَطَاع: ممکن، امکان میں۔
طَوَّفَ تَطْوِيفاً و طَافَ بِهِ ـُـ طَوَافاً: گھمانا، پھرانا۔
طَافَ بِالمَكَانِ و حَوْلَهُ ـُـ طَوَافاً: اردگرد گھومنا، چکر لگانا۔
طَافَ البَلَدَ: گشت کرنا۔
طَافَ بِهِ الخَيَالُ: خواب دیکھنا۔
طَافَ النَّهْرُ: نہر کا پانی باہر نکلنا۔
طَوْف: دیوار (۲) چوکیدار۔
طَائِفٌ، طَوَّاف: گشت کرنے والا، گرداں۔

طَوَّافُ تِجَارِيّ: دلال، ایجنٹ۔
طَوَّافُ بَرِيدٍ: پوسٹ مین۔
طَائِفَة ج: طَوَائِفُ: جماعت، پارٹی، کٹیا گری، فرقہ، ایک مذہب کو ماننے والے افراد، زُمرہ، درجہ۔
طَائِفِيّ: گروہی، فرقہ وارانہ، فرقہ پرست۔
مَطَافٌ فِي: ٹور کرنا، گشت کرنا۔
طَوَّقَ تَطْوِيقاً: گھیرا ڈالنا، گھیراؤ کرنا، احاطہ کرنا، گلے میں طوق ڈالنا۔
طَوَّقَ بِذِرَاعَيْهِ: گلے میں باہیں ڈالنا۔
طَاقَ الشَيْءَ ـُـ طَوْقاً و طَاقَةً: قادر ہونا، قدرت رکھنا۔
لَا يُطَاقُ: نا قابلِ برداشت، طاقت سے باہر۔
تَطْوِيق: گھیرا، احاطہ، محاصرہ۔
تَطْوِيقٌ مِنْ جَانِبِ قُوَّاتٍ مُعَادِيَةٍ: دشمن فوجوں کی جانب سے محاصرہ۔
تَطَوُّقُ الحَيَّةِ: سانپ کا سمٹنا۔
طَاقٌ: محراب ج: طَاقَات و طِيقَان
طَاقَة، طَوْق، إِطَاقَة: قدرت، برداشت، توانائی، انرجی، طاقت، صلاحیت۔
طَاقَة (۲): گچھا، مجموعہ (۲) کھڑکی، روشندان۔
الطَّاقَةُ الذَّرِّيَّةُ: ایٹمی توانائی، ایٹمی طاقت، ایٹومک انرجی۔
طَاقَة شَمْسِيَّة: شمسی توانائی۔
الطَّاقَةُ القُصْوَى: پوری طاقت، ایڑی

چوٹی کا زور۔
الطَّاقَةُ الكُلِّيَة: مکمل صلاحیت۔
الطَّاقَةُ الكَهْرَبَائِيَة: بجلی کا پاور، بجلی کی توانائی، الیکٹرک پاور۔
طَاقَاتٌ بَشَرِيَّة: افرادی طاقت، صلاحیت۔
طَاقَاتٌ مُعَطَّلَة: مفلوج صلاحیتیں۔
طَاقَاتٌ نَوَوِيَة: ایٹمی طاقتیں۔
طَاقِيَّة: ٹوپی ج: طَاقِيَات۔
طَوْق: گھیرا، گلے کی مالا ج: أطْوَاق۔
طَوْقُ القَمِيص: کالر۔
مُطَاق: قابلِ برداشت، قابلِ تحمل۔
مُطَوَّق: گھیرا ہوا، طوق ڈالا ہوا۔
طَوَّلَ لَهُ تَطْوِيلاً: ڈھیل دینا، طول دینا۔
طَوَّلَ بَالَهُ عَلَى شَيْئٍ: صبر کرنا۔
طَوَّلَ و أَطَالَ: دراز کرنا، پھیلانا۔
طَالَ ـُـ طُولاً و اسْتَطَالَ: دراز ہونا، لمبا ہونا، بڑا ہونا۔
طَاوَلَ مُطَاوَلَةً: ٹلانا، ٹال مٹول کرنا۔
تَطَاوَلَ عَلَى: زیادتی کرنا، دست درازی کرنا۔
طَالَمَا: بسا اوقات، بہت دفعہ، اکثر۔
طُول: لمبائی، بلندی۔
طُولُ الأنَاة: صبر۔
طُولَ اليَوْم: تمام دن۔
عَلَى الطُّول: مسلسل۔
طُوَّال: بڑا، بہت لمبا۔
الخَطُّ الطُّوَّالِيّ: (ریلوے) مین لائن، جی ٹی روڈ، شاہراہ۔

قِطَارٌ طُوَّالِيّ: ڈائرکٹ ٹرین۔
طُوَّالَة: لکڑی کی ٹانگیں جن پر مداری چلتا ہے۔
طَوِيل: لمبا، دراز، بلند، بڑا (ضد مَرِيض و قَصِير)۔
طَوِيلُ البَاع: طاقتور۔
طَوِيلُ اللِّسَان: زباں دراز۔
طَوِيلُ اليَد: چور۔
طَوِيلُ الأجَل: طویل المیعاد۔
طَوِيلُ الأمَد: طویل المیعاد۔
طَوِيلُ المَدَى: دُوررس۔
طَائِل: نفع، فائدہ۔
طَائِل و طَائِلَة: قدرت۔
لَا طَائِلَ فِيه أو تَحْتَه: بے سود۔
أمْوَالٌ طَائِلَة: بے حد دولت۔
طَاوِلَة: میز ج: طَاوِلَات۔
طَاوِلَةٌ مَائِلَةُ السَّطْح: ڈیسک۔
طِيلَةَ مُدَّةِ كذا: اس پورے عرصہ میں۔
طُولُونَاتَه: (وَسَق) ٹن (نَحْوُ أَلْفَيْ رَطْل)۔
طَوَى ـِ طَيّاً: لپیٹنا، موڑنا۔
طَوَى البِئْرَ: کنویں کو پختہ بنانا۔
__ البِلَادَ: مسافت طے کرنا، گھومنا، سفر کرنا، سیاحت کرنا۔
__ الحَدِيثَ: چھپانا۔
__ كَشْحَهُ عَلَى: چھپانا۔
طَوَى صَحِيفَتَه: چھوڑنا، فارغ ہونا۔
طَوِيَ ـَ طَوًى: بھوکا ہونا، آنتوں کا قل ہو اللہ پڑھنا۔

طَوًی: بھوک۔
عَلَی الطَّوَی: بھوک کی حالت میں۔
طَوِیّ: لچکدار، مڑ جانے والا۔
طَوَوِیٌّ، اِنْطِوَائِیٌّ: خودغرض۔
طَوَوِیَّة، اِنْطِوَائِیَّة: خودغرضی۔
طَوِیَّة: خیر (۲) دل (۳) عادت۔
سَلِیمُ الطَّوِیَّة: نیک خُو۔
طَوَّایَة: فرائی پن۔
طَیٌّ: فولڈنگ۔
طَیَّ کَذَا: فلاں چیز کے ساتھ، منسلک، منسلکہ۔
فِی طَیِّ کَذَا: اس کے ضمن میں، ساتھ۔
طَیَّة ج: طَیَّات: تہہ، موڑ، شکن۔
طَیَّة، طِیَّة: نیت۔
مُنْطَوٍ عَلَی التَّمیِیزِ أو التَّفْرِقَة: امتیاز آمیز۔
مَطْوِیّ: لپٹا ہوا۔
مِطْوًی، مِطْوَاة: جیبی چاقو ج: مَطَاوٍ۔

ط............ی

طَیَّبَ تَطْیِیباً: خوشبودار بنانا، خوشگوار بنانا۔
طَیَّبَ خَاطِرَهُ: دل خوش کرنا، تسلی دینا، ہمت دلانا، حوصلہ افزائی کرنا۔
طَابَ ـِ طِیباً: خوشگوار ہونا، صاف اور اچھا ہونا، لذیذ ہونا (۲) بیمار کا صحتیاب ہونا۔
طَابَ قَلْبُهُ و نَفْسُهُ: دل خوش ہونا۔
طَابَ عَیْشُهُ: زندگی خوشگوار ہونا۔
طَابَ عَنْهُ نَفْساً: چھوڑنا، بیزار ہونا۔
اِسْتَطْیَبَ الشَّیْءَ و اسْتَطَابَهُ: بہتر پانا یا سمجھنا۔
طُوبَی: خوشی، شادمانی، خوش خبری۔
طَابَة: شراب (۲) بلّا (گیند کا)۔
طِیبٌ: خوشبو ج: طُیُوب و أَطْیَاب۔
عَنْ طِیبِ خَاطِرٍ: بہ خوشی، بہ طیب خاطر۔
أَطَایِب: خوشگوار و عمدہ چیزیں۔
طَیِّب: اچھا، عمدہ، بہتر، خوشگوار، لذیذ (۲) ٹھیک ہے، بہتر ہے (کسی بات کے جواب میں کہا جاتا ہے)۔
طَیِّبُ الخُلُق: خوش اخلاق۔
طَیِّبُ الرَّائِحَة: خوشبودار۔
طَیِّبُ القَلْب: نیک دل۔
طَیِّبُ النَّفْس: نیک طبیعت۔
طَیَّحَ تَطْیِیحاً: ضائع کرنا، دور پھینکنا۔
طَاحَ ـِ طَیْحاً: ضائع ہونا، ہلاک ہونا۔
طَائِحَة: آفت ج: طَوَائِح۔
طَیَّرَ تَطْیِیراً: اڑانا، بلند کرنا۔
__ الطَّیَّارَة: پتنگ اُڑانا۔
__ رَأْسَه: سر قلم کرنا۔
__ نَوْمَهُ: نیند اڑا دینا۔
طَارَ ـِ طَیَرَاناً: اُڑنا، پرواز کرنا۔
طَارَ الصِّیتُ: شہرت ہونا، چرچا ہونا۔
طَارَ عَقْلُه: ہوش گم ہونا۔
طَارَ طَائِرُهُ: غصہ ہونا۔
طَارَ إِلَیه: تیزی سے جانا۔
تَطَیَّرَ بالشَّیْءِ و مِنْهُ: بُری فال لینا، بُری توقع قائم ہونا، مایوس ہونا۔
تَطَایَرَ و اسْتَطَارَ: منتشر ہونا پھیلانا۔

طَيْرٌ ، طَائِرٌ ج: طُيُوْر : پرندہ۔
طَيَرَان: اُڑان، پرواز، ہوابازی، فلائنگ۔
طَيَرَانٌ مَدَنِيّ: شہری ہوابازی۔
طِيَرَة: بدشگونی، بدفالی، نحوست۔
طَيَّارٌ: (۱) ہواباز (۲) پرواز کرنے والا (۳) پائلٹ (۴) بھاپ بن کر اڑ جانے والا (۵) سریع الزوال۔
طَيَّارُ فَضَاءٍ: ہواباز، خلاباز۔
طَيَّارَة: ہوائی جہاز۔
طَيَّارَةٌ صَارُوْخِيَّة: راکٹ جہاز۔
طَيَّارَةُ الصِّبْيَان: پتنگ۔
طَائِر: پرواز کرنے والا (۲) پرندہ۔
طَائِرُ الصِّيْتِ: شہرت یافتہ۔
طَائِرَةٌ: پلین، ہوائی جہاز ج: طَائِرَات۔
طَائِرَةٌ عَمُوْدِيَّة أو حَوَّامَة: ہیلی کوپٹر۔
طَائِرَةٌ قَاذِفَةُ القَنَابِلِ: بمبار جہاز۔
طَائِرَةٌ مَدَنِيَّة: سول ہوائی جہاز۔
الطَّائِرَةُ المُغِيْرَة: حملہ آور ہوائی جہاز۔
طَائِرَةٌ مُقَاتِلَةٌ: جنگی جہاز۔
طَائِرَةٌ نَفَّاثَة: جیٹ طیارہ۔
طَائِرَةُ النَّقْلِ: باربردار جہاز، ٹرانسپورٹ جہاز۔
طَائِرَاتُ رَشٍّ عَمُوْدِيَّة: دوا چھڑکنے والے ہیلی کوپٹر۔

الطَّائِرَاتُ القَاذِفَة: بمبار جہاز۔
مَطَار: ہوائی اڈہ ج: مَطَارَات۔
مَطَارُ التَّفْرِيْغ: ہوائی اڈہ، جس پر سامان اُتارا جائے۔
المَطَارُ الحَرْبِيّ: جنگی ہوائی اڈہ۔
مَطَارُ الشَّحْن: ہوائی اڈہ جہاں سامان لادا جائے۔
مُسْتَطِيْر: منتشر، پھیلا ہوا، عام (۲) بدشگون آدمی، مایوس ہونے والا۔
طَيْشٌ، طَيَشَان: خفیف الحرکاتی، ناسمجھی، اوچھاپن۔
طَاشَ ـــِ طَيْشاً: ناسمجھ ہونا، بے موقع مذاق کرنا، بیہودگی کرنا۔
طَاشَ السَّهْمُ عَنِ الغَرَضِ: تیر کا نشانہ سے ہٹنا۔
طَائِشٌ: ناسمجھ، بیہودہ، کم عقل۔
طَيْف: خیال ج: اَطْيَاف۔
طَافَ خَيَالُه ـــِ طَيْفاً: سوتے میں کسی کا خیال آنا۔
طَيَّنَ الحَائِطَ: گارے سے لپائی کرنا۔
طِيْنٌ: مٹی، پانی ملی ہوئی مٹی، پلاسٹر۔
طِيْنٌ خَزَنِيّ: چینی مٹی جس سے چینی برتن بنائے جاتے ہیں۔

ظ

ظ .... ب

ظَبْیٌ: ہرن ج: ظِبَاء۔

ظَبْیَہ: ہرنی۔

ظ .... ر

ظَرُفَ ـُ ظَرَافَةً: عقل مند ہونا۔

ظَرَّفَ تَظْرِیْفاً: مزین کرنا۔

تَظَارَفَ، تَظَرَّفَ: اظہارِ ظرافت کرنا، ہوشیار و عقل مند ہونا۔

اِسْتَظْرَفَهُ: ہوشیار سمجھنا۔

ظَرْفٌ ج: ظُرُوْف: (۱) لفافہ (۲) حالت (۳) کارتوس۔

ظَرْفٌ عَلَیْهِ طَابَعٌ: ٹکٹ دار لفافہ، ٹکٹ لگا ہوا لفافہ۔

ظَرَافَة: ہوشیاری، خوش اسلوبی۔

ظُرُوْف: حالات، کیفیات، احوال۔

ظُرُوْفٌ خَطِیْرَة: سنگین حالات۔

ظُرُوْفٌ دَقِیْقَةٌ لِلْغَایَة: انتہائی نازک حالات۔

ظُرُوْفٌ عَصِیْبَة: پرآشوب حالات۔

ظُرُوْفُ العَمَل: کام کی کنڈیشن۔

ظُرُوْفٌ مُشَدَّدَة: سخت حالات۔

ظَرِیْف: ہوشیار، خوش اسلوب ج: ظُرَفَاء۔

ظ .... ف

ظَفِرَ بِه ـَ ظَفَراً: فتح پانا، غلبہ پانا۔

ظَفِرَ مَطْلُوْبَهُ: پانا، حاصل کرنا۔

ظَفَّرَ و اَظْفَرَ: کامیاب بنانا۔

ظُفُرٌ: ناخن ج: اَظْفَار۔

ظُفُرُ الطَّیْرِ أو الحَیَوان: پنجہ، پیر۔

ظَفَر: فتح، کامیابی، غلبہ، فتح مندی۔

ظَفِرٌ، ظَافِرٌ، مُظَفَّرٌ: کامیاب، فتح مند۔

ظ .... ل

ظِلْفٌ: کھر، سم ج: اَظْلَاف۔

ظَلَّلَ تَظْلِیلاً و أَظَلَّهُ إظْلَالاً: سایہ ڈالنا، سایہ فگن ہونا، چھپانا، ڈھانک لینا۔

تَظَلَّلَ و اسْتَظَلَّ ب: سایہ حاصل کرنا۔

ظَلَّ: باقی رہا۔

ظَلَّ صَامِتاً: خاموش رہا۔

ظَلَّ التِلِیفُونُ هَادِئاً: ٹیلیفون خاموش رہا۔

ظَلَّ عَلَى مَوْقِفِه: اپنے موقف پر جما رہا، برقرار رہا۔

ظِلٌّ: سایہ ج: اَظْلَال۔

تَقَلَّصَ الظِّلُّ: سایہ سمٹنا۔

ظَلِیل ، مُظِلّ: سایہ دار۔
ظُلَّة: سائبان ج: ظُلَل۔
مِظَلَّة: چھتری، شیڈ ج: مِظَلَّات۔
مِظَلَّةُ التِلِیفُون: ٹیلیفون بوتھ۔
مِظَلَّةُ هُبُوطٍ: پیراشوٹ۔
مِظَلَّةٌ وَاقِیَةٌ (مِهبَط): پیراشوٹ، ہوائی (فوجی) چھتری۔
جُندِیُّ المِظَلَّة: چھاتہ بردار سپاہی۔
ظَلَمَ ـــِ ظُلماً: ظلم کرنا، ناانصافی کرنا، حق تلفی کرنا، بدسلوکی کرنا۔
تَظَلَّمَ: شکوۂ ظلم کرنا، ظلم برداشت کرنا۔
إنظلم الرَّجُلُ: مظلوم ہونا۔
ظُلم: ناانصافی، حق تلفی، بدسلوکی۔
ظُلمَة ، ظَلَام: تاریکی۔
بَحرُ الظُلُمات: بحراٹلانٹک۔
ظُلَامَة ، مَظلِمَة ج: مَظَالِم: ظلم، شکوۂ ظلم۔
ظَالِم: غیر منصفانہ، غیر منصف۔
ظَلِیم: مظلوم۔
مُظلِم: بلیک، تاریک۔
مُظلِمٌ قَلِیلاً: ڈِم۔

ظ............م

ظَمِئَ ـَـ ظَمأً: پیاسا ہونا۔
ظَمِئٌ ، ظَمآن: پیاسا ج: ظِمَاء۔

ظ............ن

ظَنَّ ـــُ ظَنًّا: خیال کرنا، گمان کرنا، جاننا (۲) یقین کرنا (۳) شک کرنا۔
ظَنَّهُ و اَظنَّهُ بکذا: الزام لگانا۔
ظَنّ: خیال، گمان، اٹکل، اندازہ ج: ظُنُون۔
ظِنَّة ، مَظِنَّة: شک، بدگمانی ج: مَظَانّ۔
ظَنُون: بدسلوک، شکی۔
ظَنِین: متہم ج: اَظِنَّاء۔

ظ............ہ

ظَهَرَ ـــَ ظُهُوراً: ظاہر ہونا، واضح ہونا، سامنے آنا، نکلنا، باہر آنا۔
ظَهَرَ الخِلَافُ: اختلاف پیدا ہونا۔
ظَهَرَ الجَبَلَ: چڑھنا۔
ظَهَرَ عَلَیهِ: غالب آنا۔
ظَهَّرَ تَظهِیراً: بیک کرنا، پیچھے ہٹانا۔
ظَاهَرَهُ مُظَاهَرَةً: معاونت کرنا (۲) اظہار کرنا، نمائش کرنا۔
اَظهَرَ اِظهَاراً: ظاہر کرنا، واضح کرنا، نکالنا، سامنے لانا، شائع کرنا۔
اَظهَرَ التَّمَنُّعَ: انکار کرنا۔
تَظَاهَرَ بِالاَمرِ: اظہار کرنا۔
تَظَاهَرَ القَومُ: باہم تعاون کرنا۔
تَظَاهَرَ بِالشیئِ: کسی بات کا دعویٰ کرنا۔
تَظَاهَرُوا: مظاہرہ کرنا۔
اِستَظهَرَ علی: فتح حاصل کرنا، غالب آنا۔
اِستَظهَرَ بہ: مدد چاہنا۔
اِستَظهَرَ الدَّرسَ: سبق محفوظ کر لینا، دوہرانا۔
ظَهر: پیٹھ، پشت، بالائی حصہ ج: اَظهُر و ظُهُور۔
ظَهراً لِبَطنٍ: اُلٹا، اوندھا۔
بَینَ ظَهرانَیهِم: ان کے درمیان۔
ظُهر: دوپہر ج: اَظهَار۔
بَعدَ الظُهر: سہ پہر۔
ظِهَارَة: (ضد: بِطَانَة) اوپر کا کپڑا، ابرہ۔

ظُهُوْر: نمائش، وضاحت، اُبھار۔
حُبُّ الظُّهُوْر: خودنمائی۔
ظَهِيْر: مددگار ج: ظُهَراءُ۔
ظَهِيْرة: دوپہر ج: ظَهَائِرُ۔
ظَاهِرٌ: واضح، نمایاں، آشکارا (۲) ظاہری، اوپری، بیرونی (ضد: حَقِيقِيّ و ضد: دَاخِل أو بَاطِن)۔
ظَاهِرُ البَلَد: نواحِ شہر۔
ظَاهِرَة: منظر، صورت، مظہر، صورت حال ج: ظَوَاهِرُ۔
ظَاهِرَةٌ جَوِّيَّة: فضائی مظہر، فضائی حالت، فضائی صورت حال۔
ظَاهِرَةٌ عِلْمِيَّةٌ أو طَبِيعِيَّة: وہ شے جس کا علم بالبداہت ہو۔
ظَاهِرَةٌ عَالَمِيَّة: عالمی صورتِ حال۔
ظَوَاهِرُ طَبِيْعِيَّة: قدرتی، مظاہر۔
إِظْهَار: انکشاف، اعلان۔
تَظَاهُرَة: مظاہرہ، جلوس (۲) نمائش ج: تَظَاهُرَات۔
تَظَاهُرَاتٌ جَمَاهِيرِيَّة: عوامی مظاہرے۔

مَظْهَر: صورت، منظر، روپ، روئے کار، شکل، ظاہر شے ج: مَظَاهِرُ۔
مَظْهَرٌ خَارِجِيّ: فرنٹ، چہرہ۔
المَظْهَرُ العَام: گیٹ اَپ، ظاہری منظر۔
مَظْهَرٌ: شو۔
المَظَاهِرُ الجَوْفَاءُ: بے حقیقت شکلیں، مناظر، ٹیپ ٹاپ، کھوکھلے مظاہرے۔
مَظَاهِرُ الحَيَاة: زندگی کے نقوش، مناظر۔
المَظَاهِرُ الخَلَّابَة: دلکش مناظر۔
مَظَاهِرُ صَاخِبَة: زبردست مظاہرے۔
مَظَاهِرُ عِدَائِيَّة: دشمنانہ مظاہرے، جارحانہ مظاہرے، معاندانہ مظاہرے۔
مُظَاهَرَة: معاونت (۲) نمائش (۳) احتجاجی جلوس، مظاہرہ۔
مُظَاهَرَةٌ ضَخْمَة: بھاری مظاہرہ۔
مُظَاهَرَةٌ مُعَادِيَةٌ لِلحُكُومَة: حکومت مخالف مظاہرہ۔
القِيَامُ بالمُظَاهَرَة: مظاہرہ کرنا۔
المُتَظَاهِرُ: مظاہرہ کنندہ۔

ع

ع.........ب

عَبَأَ الجَيشَ تَعْبِئَةً: فوج تیار کرنا، بھرتی کرنا (۲) تیار کرنا۔

عَبَأَ الشَّئَ: بھرنا (۲) پیک کرنا، یکجا کرنا۔

لَا أَعْبَأُ بِه: میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، کسی شمار میں نہیں لاتا۔

لَا يُعْبَأُ بِه: ناقابل اعتناء۔

عِبْءٌ ج: أَعْبَاء: بوجھ، ذمہ داری، وزن، لوڈ، چارج۔

عِبْءُ الإِثْبَات: ثبوت کی ذمہ داری۔

أَعْبَاءٌ عَائِلِيَّة: خانگی ذمہ داریاں۔

عَبَاءَةُ البَرْد: گون۔

عُبْوَة: پیکنگ، پیکٹ۔

عُبْوَةٌ نَاسِفَة: آتشگیر غبارہ۔

تَعْبِئَة: بھرتی، پیکنگ، تیاری۔

تَعْبِئَةُ الأَجْوَاءِ ضِدَّ فُلَان: کسی کے خلاف فضا کو تیار کرنا، استعمال کرنا۔

تَعْبِئَةُ الجَمَاهِير: عوام کو تیار کرنا، اکسانا۔

تَعْبِئَةُ الجُهُود: کوششیں یکجا کرنا۔

تَعْبِئَةُ الشَّعْب: عوام کا ذہن بنانا، پبلک کی ذہن سازی کرنا۔

تَعْبِئَةُ الشُّعُور: جذبہ پیدا کرنا۔

التَّعْبِئَةُ الصِّنَاعِيَّة: صنعتی تیاری۔

تَعْبِئَةُ الضَّغْط: دباؤ ڈالنا۔

تَعْبِئَةُ الطَّاقَات: صلاحیتوں کو کام میں لانا، یکجا کرنا۔

التَّعْبِئَةُ العَامَّة: (فوج میں) عام بھرتی۔

تَعْبِئَةُ القُوَى: طاقتوں کو یکجا کرنا۔

مُعَبَّأٌ فِي صَفَائِح: ٹن میں پیک۔

مُعَبَّأٌ فِي عُلْبَة: ٹن میں پیک، ڈبے میں بند۔

مُعَبِّئ: پیکر، پیک کرنے والا۔

عُبَاب: (۱) پانی کی لہر، دستِ موج (۲) موج، تیز دھارا۔

عَبَثَ ـِ عَبْثاً: ملانا، خلط ملط کرنا۔

عَبِثَ ـَ عَبَثاً: کھیلنا، کھیل بنانا، بے فائدہ، مذاق کرنا۔

عَبَثٌ: کھیل (۲) باطل (۳) لغویات (۴) مذاق۔

عَبَثاً: بے فائدہ (فَعَلَ ذٰلِكَ عَبَثاً)۔

عَبَدَ اللّٰهَ ـُ عِبَادَةً: پرستش کرنا، بندگی کرنا۔

عَبِدَ الشیٔ و بہ ۔ عَبَداً: لازم ہونا۔
عَبَّدَہ و اسْتَعْبَدَہ: غلام بنانا۔
عَبَّدَ الطَّرِیقَ: راستہ ہموار کرنا۔
تَعَبَّدَ: عبادت گزار بننا۔
عَبْدٌ ج: عِبَاد: بندہ، انسان آزاد ہو یا غلام۔
عَبْدُ المَطَالِب: خواہشات کا بندہ۔
عَبْدٌ ج: عَبِید: غلام، محکوم (ضد حُرّ)۔
عِبَادَۃ: پوجا، پرستش، بندگی۔
عِبَادَۃُ الاَوْثَان: بت پرستی۔
عِبَادَۃُ النَّار: آتش پرستی۔
عِبَادَۃُ النُّجُوم: ستارہ پرستی۔
عَابد ج: عُبَّاد: عبادت گزار۔
عُبُودِیَّۃ، عُبُودَۃ: بندگی، غلامی، محکومی۔
اِستِعبَاد: غلامی، غلام گردی۔
مَعْبَد: عبادت گاہ، جائے عبادت ج: مَعَابِدُ۔
مُعَبَّد: ہموار، درست کیا ہوا۔
عَبَرَ ۔ عَبْراً و عُبُوراً: پار کرنا، گزرنا۔
عَبَرَتْ عَیْنُہٗ: آنکھ میں آنسو آنا۔
عَبَّرَ تَعْبِیراً: بیان کرنا، تعبیر کرنا، تشریح کرنا (۲) وزن کرنا۔
عَبَّرَ عَمَّا فی نَفْسِہٖ أو ضَمِیرِہٖ: اظہارِ مافی الضمیر کرنا۔
اِعْتَبَرَ الشیٔ اعْتِبَاراً: شمار کرنا، شمار میں لانا (۲) جانچنا (۳) خیال کرنا۔
اِعْتَبَرَ الرَّجُلَ: حیثیت دینا، نظر میں لانا، اعزاز کرنا، اہمیت دینا، اعتبار کرنا، قدر کرنا۔
اِعْتَبَرَ بہ: نصیحت حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا۔
عَبْرَ کذا: فلاں چیز کے پار، فلاں سے پہلے، پسِ پردہ، آڑ میں، اندر، درمیان، ذیل میں، اس کے دوران، ذریعہ۔
عَبْرَ الاَجْیَالِ: صدیوں سے۔
عَبْرَ البَحْرِ: سمندروں میں، سمندر پار۔
عَبْرَ التَّارِیْخ: تاریخ کے دوران، تاریخ میں۔
عَبْرَ الجِسْر: پل کے پار۔
عَبْرَ القُرُوْن: تاریخ کے دوران، تاریخ میں۔
عَبْرَ المُحِیْطَات: سمندروں میں یا پار۔
عَبْرَ وَسَائِلِ الاِعْلَام: ذرائعِ ابلاغ کی راہ سے۔
عَبْرَۃ: آنسو ج: عَبَرَات۔
عِبْرَۃ: نصیحت، مثال جسے دیکھ کر یا سُن کر انسان اس جیسے کا ارتکاب نہ کرے ج: عِبَرٌ۔
عِبْرِیّ: عبرت آمیز، رقت آمیز۔
عِبَارَۃ: تعبیر، شرح، تفصیل، وضاحت، طرز ادا، اسلوبِ بیان، پیراگراف، الفاظ، مضمونِ خط وغیرہ ج: عِبَارَات۔
عِبَارَۃٌ عَنْ کذا: وہ یہ ہے، وہ نام اس چیز کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، کسی چیز کی مراد۔
عِبَارَۃٌ مَحْمُومَۃ: پُرجوش الفاظ۔
عِبَارَۃٌ مَشْطُوبَۃٌ أو مَحْذُوفَۃ: کینسل شدہ عبارت۔
عِبَارَۃٌ لَاذِعَۃ: سخت الفاظ، تکلیف دہ عبارت۔
عَبِیر: خوشبو۔
عُبُور: کراسنگ۔
عَابِرٌ: گزرنے والا، زائل ہونے والا (۲) سرسری، طائرانہ (۳) چلتا ہوا۔

عَابِرُ السَّبِیل: راہگیر، مسافر، آتا جاتا، راہ گیر۔
عَائِرَةُ مُحِیطَات: گہرے سمندروں میں چلنے والا جہاز۔
نَظْرَةٌ عَابِرَة: اچٹتی ہوئی نگاہ، طائرانہ نظر۔
اِعْتِبَار: حیثیت، درجہ (۲) حال (۳) احترام شان (۴) شمار، اہمیت (۵) اثر، دخل۔
اِعْتِبَارَات: مخصوص حالات، مفروضات، قدریں۔
اعْتِبَارَاتٌ اِنْسَانِیَّة: انسانی قدرتیں۔
یَسْتَحِقُّ الاعْتِبَارَ: قابل اعتناء، لائق احترام۔
بِهٰذَا الاعْتِبَار: اس لحاظ سے۔
تَعْبِیْر: بیان، اظہار، محاورہ، ترجمانی ج: تَعْبِیْرَات۔
التَّعْبِیْرُ عَنِ الْأَفْكَار: اظہار خیال۔
التَّعْبِیْرُ عَنْ صَدَاقَة: دوستی کا اظہار۔
التَّعْبِیْرُ عَنْ عَمِیْقِ الفَرْحَة: انتہائی خوشی کا اظہار۔
بِتَعْبِیْرٍ آخَرَ: بالفاظ دیگر۔
مُعْتَبَر: باحیثیت۔
مِعْبَرَة: چھوٹی کشتی ج: مَعَابِرُ۔
عَبَسَ ـِ عَبْساً و عُبُوْساً: ترش رُو ہونا، مُنھ بگاڑنا۔
عَبَسَ و عَبَّسَ الوَجْهَ: چہرہ پر شکن پڑنا۔
عَبْس، عُبُوْس، عُبُوْسَة: ترش روئی (۲) اُداسی۔
عَبُوْس، عَابِس: (۱) ضد مُتَبَسِّم ترش رو (۲) اُداس۔
عَبْقَر: مسکنِ جنات۔
عَبْقَرِیّ: باکمال، بے مثال (۲) شاہکار، انتہائی بڑا آدمی، جینیس۔
العَبْقَرِیُّ المُلْهَم: خداداد صلاحیتوں کا مالک۔
عَبْقَرِیَّة: کمال، فطری، قابلیت۔

ع .... ت

عَتَبَه ـُ عَتْباً و عَاتَبَه: ملامت کرنا، اظہارِ ناراضگی کرنا، فہمائش کرنا۔
عَتْبٌ، عِتَاب: ملامت، ناراضگی۔
عَتَبَةُ البَاب: (العُلْیَا و السُّفْلٰی) (۱) سردل (۲) چوکھٹ (۳) آستانہ ج: عَتَبٌ و عَتَبَاتٌ۔
عَتَبَةُ شَیْخٍ و ضَرِیْحه: آستانہ، درگاہ۔
عَتُدَ ـُ عَتَاداً و عَتَادَةً: تیار ہونا۔
عَتَاد: سامان جو کسی خاص مقصد کے لئے تیار کیا گیا ہو، سازوسامان ج: اَعْتِدَة و عُتُد۔
عَتَادٌ عَسْكَرِیّ: فوجی سامان۔
عَتِدٌ: موجود، تیار۔
عَتَقَ ـِ عِتْقاً و عُتُقَ ـُ عَتَاقَةً: پرانا ہونا۔
عَتَقَ و اَعْتَقَ: آزاد کرنا۔
عِتْق: آزادی (۲) قدامت۔
عَتِیْق: پرانا، قدیم۔
عَتِیْق، مَعْتُوق و مُعْتَق: آزاد۔
عَتِیْقَة: شراب۔
عَاتِق: کندھا ج: عَوَاتِقُ و عُتُقٌ۔
عَاتِق و مُعْتِق: آزاد کرنے والا۔

أَخَذَ عَلَى عَاتِقِه: ذمہ لینا۔
أَلْقَى عَلَى عَاتِقِهِ: ذمہ داری ڈالنا۔
خَمْرٌ عَتِيقَةٌ: شراب کہنہ۔
عَتَلَ ـُ عَتْلاً: اٹھانا، کھینچنا۔
عَتَلَة: ہاتھ کی دو پہیوں کی گاڑی جس پر قلی سامان اٹھاتے ہیں ج: عَتَل۔
عَتَّال: حمال، قلی۔
عَتَمَ ـِ عَتْماً و عَتَّمَ و أَعْتَمَ: تاخیر کرنا (۲) رات کا ایک حصہ گزرنا۔
عَتَّمَ تَعْتِيماً: تاریک ہونا۔
عَتَمَة: تاریکی۔
مُعْتِمٌ: تاریک۔
عَتِهَ و عُتِهَ ـَ عَتَهاً: کم عقل ہونا، ناسمجھ ہونا۔
مَعْتُوه: ناسمجھ، کم عقل۔
عَتَا ـُ عُتُوّاً: سرکشی کرنا، بڑائی کرنا، حد سے بڑھنا۔
تَعَتَّى: نافرمانی کرنا۔
عَاتٍ: سرکش، مغرور (۲) سخت، تیز و تند۔
لَيْلٌ عَاتٍ: تاریک رات۔
عُتُوٌّ و عُتِيٌّ: بڑائی، سرکشی۔

ع .... ث

عُثٌّ: ایک کیڑا جو اونی کپڑے وغیرہ کو کھالیتا ہے و: عُثَّة۔
عَثَّتِ العُثَّةُ الصُّوفَ: کیڑا لگنا۔
مَعْثُوثٌ: کیڑا لگا ہوا، کرم خوردہ۔
عَثَرَ ـُ عَثْراً و عِثَاراً: ٹھوکر کھانا، پیر پھسلنا، گرنا، لغزش ہونا۔
عَثَرَ عَلَى الشَّيْءِ ـُ عَثْراً و عُثُوراً: مطلع ہونا، واقف ہونا، پتہ چلنا (۲) اتفاقاً پانا۔
عَثَرَ جَدُّه: قسمت خراب ہونا۔
عَثَّرَ و أَعْثَرَ: ٹھوکر لگوانا، گرانا، لغزش کرانا۔
أَعْثَرَهُ عَلَى كذا: بتانا، پتہ دینا، مطلع کرنا۔
عَثْرَة: لغزش، ٹھوکر، غلطی ج: عَثَرات۔
حَجَرُ عَثْرَةٍ: راہ کا روڑا، رکاوٹ۔
تَعَثُّر: لغزش، ٹھوکر، غلطی۔
تَعَثُّرُ الاجْتِمَاع: اجتماع کی ناکامی۔
تَعَثُّرُ المُحَاوَلات: کوششیں ناکام ہونا۔
عَاثِر: غلط، برا، بے مراد۔
حَظٌّ عَاثِرٌ: پھوٹی تقدیر، بد نصیب۔

ع .... ج

عَجِبَ ـَ عَجَباً: تعجب کرنا۔
أَعْجَبَ و عَجَّبَ: حیرت میں ڈالنا (۲) خوش کرنا، راضی کرنا۔
أَعْجَبَه كذا: پسند آنا، اسے یہ چیز پسند آئی۔
أُعْجِبَ بِالشَّيْءِ: پسند کرنا، دلدادہ ہونا، حیرت اور استحسان کی نظروں سے دیکھنا۔
أُعْجِبَ بِنَفْسِه: خود پسند ہونا، اپنے اوپر ناز کرنا، تکبر کرنا، اترانا۔
عُجْبٌ: خود پسندی، اتراہٹ، بڑائی۔
عَجِيب، عُجَاب: حیرتناک، قابلِ تعجب۔
عَجِيبَة: انوکھی بات ج: عَجَائِبُ۔
أُعْجُوبَة: حیرت انگیز نمونہ ج: أَعَاجِيبُ۔
أُعْجُوبَةٌ مِعْمَارِيَّة: فنِ تعمیر کا حیرت انگیز نمونہ، شاہکار۔

مُعْجِب: قابلِ تعجب، حیرت انگیز۔
مُعْجَبٌ بِذَاتِہ: خود پسند۔
مُعْجَبٌ بکذا: عاشق، دلدادہ، نازاں۔
عَجَّجَ الغُبَارَ: گرد اڑانا۔
عَجَّجَ البَيْتَ مِنَ الدُّخَان: گھر کو دھویں سے بھرنا۔
عَجَّ ـِ عَجّاً و عَجِیْجاً: چیخنا، آواز بلند کرنا۔
عَجَّ المَكَانُ بكذا: بھر جانا، ہجوم ہونا، ٹھٹ لگ جانا۔
عَجٌّ، عَجِيْج: شور وغل، چیخ و پکار۔
عُجَّةُ البَيْض: آملیٹ۔
عَجَاجٌ، عَجَاجَة: دُھواں، گرد۔
عَجَّاج: ہنگامہ خیز، انتہائی شور کرنے والا۔
عَجَزَ ـِ عَجْزاً: قادر نہ ہونا، زچ ہونا، قاصر رہنا، تنگ آنا۔
عَجَزَ عَنْ إِتْمَام شَيْءٍ: فیل ہونا، ناکام ہونا۔
عَجَّزَ و أَعْجَزَ: عاجز بنانا، ناقص بنانا۔
عَجَزَ ـُ عُجُوراً: بوڑھا ہونا۔
عَجْزٌ: خامی، خرابی، کمی، نقصان، مجبوری، شارٹیج، بے بسی، معذوری، کمزوری، کوتاہی۔
عَجزٌ غِذَائِيّ: غذائی کمی۔
عَجزٌ فی التَّسْلِيْم: حوالگیِ سامان میں کمی۔
عَجزٌ فی المِيْزَانِيَّة: بجٹ میں کمی، خسارہ۔
عَجزُ المِيْزَان: عدم توازن۔
عَجزُ مِيْزَانِ القُوَى: طاقت کا عدم توازن۔
عَجزُ المِيْزَانِيَّة: بجٹ کا خسارہ، کمی۔
عَجُزٌ و عَجزٌ: ہر چیز کا پچھلا حصہ، سرین ج: أَعْجَاز۔

عَجِز، عُجُوز: پیرانہ سالی۔
عِجَازَة: مصنوعی سرین۔
عَجُوْز: بوڑھی عورت ج: عَجَائِزُ (۲) بوڑھا مرد ج: عُجُزٌ۔
عَجُوْزَة: (۱) بوڑھی عورت۔
عَاجِز: کمزور، بے بس، ناقص، کوتاہی، قاصر، ناکام، نامکمل، اپاہج، معذور، مجبور ج: عَجَزَة۔
عَاجِزٌ عَنْ: فیل، بے بس۔
عَاجِزٌ عَنِ الدَّفْع: ادائیگی سے معذور۔
عَاجِزٌ عَنِ العَمَل: کام سے معذور۔
مُعْجِزَة: عجیب وغریب چیز، مافوق العادت چیز، خرقِ عادت۔
عَجَفَ نَفْسَه عَنْ ـِ عَجْفاً: باز رکھنا۔
عَجَّفَ و أَعْجَفَ الدَّابَّةَ: کمزور بنانا۔
عَجُفَ ـُ عَجَفاً: کمزور دُبلا ہونا۔
عَجِیْف: کمزور، دبلا۔
عَجَّلَ تَعْجِيلاً و عَجِلَ ـَ عَجَلاً و تَعَجَّلَ و اسْتَعْجَلَ: جلدی کرنا۔
عَجَّلَ و اسْتَعْجَلَ: تیز کرنا، دوڑانا۔
عَجَّلَ الأَمْرَ: کسی کام کو عجلت سے کرنا۔
عَجَّلَ لَهُ مِنَ الثَّمَنِ كذا: قیمت کا کچھ حصہ پیشگی ادا کرنا۔
التَعَجُّل: عجلت پسندی، جلد بازی۔
مُعَاجَلَة: کسی پر سبقت کرنا۔
عَجِلٌ: عجلت پسند، تیز، تیز رفتار۔
عِجْلٌ: بچھڑا، کٹڑا، گائے، بھینس کا بچہ۔
عِجْلَة: بچھڑی، کٹڑی ج: عِجَل و عِجَال۔

عِجْلُ البَحْرِ: سمندری گائے۔
عَجَل، عَجَلَة: جلد بازی، تیزی۔
عَجَلَة: (۱) پہیہ (۲) گاڑی ج: عَجَلات
عَلَی عَجَلٍ: جلد، تیز رفتاری سے، پھرتی سے۔
عُجْلَة: ماحضر، وہ کھانا جو موجود ہو۔
عَجُول: جلد باز، عُجلت پسند۔
عَجُول و عَجِيل: تیز رفتار۔
عَاجِل (ضد آجِلٌ) فوری، بلا تاخیر ہونے والی چیز، ہنگامی۔
عَاجِلاً: جلد، ابھی، فوری، جلدی۔
عَاجِلاً أوْ آجلاً: جلد یا بدیر۔
عَاجِلَة: اکسپریس گاڑی۔
مُعَجَّل، مُسْتَعْجَل: فوری انجام پانے والا، ہنگامی، ارجنٹ۔
مُعَجَّل: (۲) ضد مُؤَجَّل: ایڈوانس، پیشگی، فی الوقت، بلا تاخیر۔
مُسْتَعْجَل: تیز رفتار۔
مُسْتَعْجَلَة: (دا) سست رفتار گاڑی (ضد: عَاجِلَة)۔
طَرِيق مُسْتَعْجَلَة: شارٹ کٹ، مختصر راستہ۔
عَجَمَهُ و عَجَمَ عُوْدَهُ ـُ عَجْماً: آزمانا، جانچنا۔
أَعْجَمَ إعْجَاماً: وضاحت کرنا، ابہام رفع کرنا (۲) نقطے لگانا۔
إنْعَجَمَ عَلَيْهِ الشَّیُٔ: مبہم ہونا، واضح نہ ہونا۔
عَجَم: غیر عرب، فارسی یا ایرانی لوگ۔
بِلَادُ العَجَم: ایران، غیر عرب۔
عَجْمَاء: جانور، چوپایا ج: عَجْمَاوات۔
عَجَمَة: گٹھلی ج: عَجَم۔
عُجْمَة: ابہام، گنجلک، عدم وضاحت۔
أَعْجَمِیّ: اجنبی، غیر عربی۔
أَعْجَم: (۱) غیر عربی (۲) گونگا (۳) بے زبان، ناسمجھ ج: عُجْم۔
مُعْجَم: (۱) مبہم، غیر واضح (۲) نقطہ دار۔
مُعْجَم: (۲) ڈکشنری ج: مَعَاجِم۔
مُعْجَمُ الكَلِمَات: فرہنگِ الفاظ۔
حُرُوف المُعْجَم: حروفِ تہجی۔
عَجَنَ الدَّقِيقَ ـِ عَجْناً: آٹا گوندھنا۔
عَجِين، عَجِينَة: گندھا ہوا آٹا۔
عَجِينَة: آٹے کا پیڑا ج: عَجَائِن۔
عَجِينُ الفَوَاكِه: پھلوں کا مربی۔
عَجِينَةُ الوَرَق: خمیر شدہ مادہ جس سے کاغذ تیار کیا جائے۔
عَجَّان: آٹا گوندھنے والا۔
مِعْجَن: کونڈا، تغاری، آٹا گوندھنے کا برتن ج: مَعَاجِن۔
مِعْجَنٌ آلِیٌّ: آٹا گوندھنے کی خودکار مشین۔
مُعَجَّنَات: (فَطَائِر) پیسٹری، کیک۔
مَعْجُون: پیسٹ، معجون ج: مَعَاجِين
مَعْجُونُ الأسْنَان ٹوتھ پیسٹ۔
عَجْوَة: بند کی ہوئی کھجور (ڈبے میں) (۲) عمدہ اور پختہ کھجور۔

ع .... د

عَدَّدَ المَيِّتَ تَعْدِيْداً: مُردہ کے اوصاف بیان کرنا۔
عَدَّدَ: شمار کرنا۔
عَدَّہ ـُـ عَدّاً: (۱) شمار کرنا، گننا (۲) گمان کرنا، سمجھنا (۳) شمار میں لانا۔
أَعَدَّ إِعْدَاداً: تیار کرنا، مہیا کرنا۔
أَعَدَّهُ لِلْأَمْرِ: آمادہ وتیار کرنا۔
لَا يُعَدُّ: بے شمار، بے حساب، نا قابل شمار۔
اِعْتَدَّ بِنَفْسِه: اپنے کو اہمیت دینا، بننا۔
اِعْتَدَّ الشَّیْءَ: گمان کرنا، اندازہ لگانا۔
اِعْتَدَّ بِالشَّیْءِ: اہمیت دینا، حیثیت دینا، شمار میں لانا، اعتبار کرنا۔
لَا يُعْتَدُّ بِه: اس کی کوئی حیثیت نہیں۔
اِسْتَعَدَّ لِلْأَمْرِ: تیار ہونا۔
أَعِدْ: دوبارہ ارشاد فرمایئے، پھر ارشاد فرمایئے۔
عَدٌّ: شمار (۲) گمان، کاؤنٹنگ۔
عَدَدٌ: (۱) نمبر، ہندسہ (۲) گنتی (۳) تعداد (۴) شمارہ ج: أَعْدَاد۔
عَدَدٌ خَاصٌّ عَنْ: خاص نمبر۔
عَدَدُ السُّكَّانِ: آبادی۔
عَدَدٌ مُمْتَازٌ: خاص نمبر۔
عَدَدٌ مِنْ جَرِيْدَةٍ أَو مَجَلَّةٍ: اخبار یا رسالہ کا شمارہ۔
عَدَدٌ زَوْجِيٌّ: جفت نمبر۔
عَدَدٌ فَرْدِيٌّ: طاق نمبر۔
عَدَدٌ قَانُونِيٌّ: ضابطہ کی تعداد۔
عَدَدٌ مُبْهَمٌ: غیر متعین تعداد۔

عَدَدِيّ: نمبری۔
بِهٰذَا العَدَدِ: اتنا، اتنی تعداد میں۔
عُدَّة: تیاری (۲) تیار کردہ سامان ج: عُدَد۔
عُدَّةُ التِلِفُون: ٹیلیفون سیٹ۔
عِدَّة: چند، کچھ (۲) مشین (۳) پرزا۔
عِدَاد: شمار، تعداد۔
عَدَّادٌ، عَادٌّ، آلَةُ العَدِّ: کاؤنٹر، شمار کرنے کی مشین، میٹر۔
عَدَّادُ الكَهْرَبَاءِ وَالمَاءِ والغَازِ: بجلی پانی اور گیس کا میٹر ج: عَدَّادَات۔
عَدَّادُ التَّاكْسِيْ: ٹیکسی میٹر۔
عَدَّادُ الغَازِ: گیس میٹر۔
عَدِيْد: چند، کئی، گنے چنے، متعدد۔
إِعْدَاد: تیاری۔
إِعْدَادُ تَقْرِيْرٍ عَنْ: رپورٹنگ رپورٹ کرنا۔
إِعْدَادُ جَدْوَلِ الأَعْمَالِ: ایجنڈا تیار کرنا۔
إِعْدَادُ خُطَّةٍ: اسکیم بنانا، منصوبہ تیار کرنا۔
إِعْدَادُ الفَوَاتِيْرِ: بل تیار کرنا، بل بنانا۔
إِعْدَادُ مَسَاكِنَ: ہاؤسنگ، مکانات تیار کرنا۔
اِسْتِعْدَاد: تیاری، صلاحیت ج: اِسْتِعْدَادَات۔
اِسْتِعْدَادَاتٌ مُبَكِّرَة: قبل از وقت تیاریاں۔
تَعْدَادُ الأَنْفُسِ: مردم شماری۔
مُتَعَدِّدُ الأَطْرَافِ: متعدد فریق والا۔
مُعَدٌّ: تیار کردہ۔

مُعَدٌّ لکذا: فِٹ، مطابق۔
مُعَدَّات: اسباب، ذرائع۔
مُعَدَّاتُ الاِشَارَة: سگنل آلات۔
مُعَدَّاتُ تَصْوِيرٍ جَوِّيَ: فضائی تصویر کشی کے آلات۔
مُعَدَّاتُ الرَّاحَة: اسبابِ راحت۔
مُعَدَّاتٌ عَسْكَرِيَّة: فوجی سامان۔
مُعَدَّاتُ الْمَكْتَب: دفتری ضروریات۔
مُسْتَعِدّ: تیار، آمادہ، چُست، ریڈی، فارورڈ۔
عَدَسٌ: دالِ مسور و: عَدَسَة۔
عَدَسَة، عَدَسِيَّة: چشمہ وغیرہ کا شیشہ۔
عَدَسَةٌ مُكَبِّرَة: وہ شیشہ جس سے کوئی چیز بڑی نظر آئے۔
عَدَلَ ـِ عَدْلاً و اَعْدَلَ و عَدَّلَ: سیدھا کرنا۔
عَدَلَ: انصاف کرنا۔
عَدَلَ فُلاناً بِفُلان: برابر کرنا۔
عَدَلَ عَنْ كَذا عُدُوْلاً: انحراف کرنا، ہٹنا، چھوڑنا۔
عَدَلَ عَنْ رَأيِه: رائے سے رجوع کرنا۔
عَدَّلَ تَعْدِيلاً: برابر کرنا، ہموار کرنا۔
عَدُلَ ـُ عَدَالَةً: مُنصف مزاج ہونا، عادل و انصاف پرور ہونا۔
عَادَلَه مُعَادَلَةً: ہم وزن ہونا، برابر ہونا۔
اِعْتِدَال: سیدھا ہونا، متوسط الحال ہونا، درمیانی درجہ کا ہونا، بہتر اور خوشگوار ہونا۔
اِعْتِدَال (۲): معتدل مزاجی، اعتدال پسندی (ضد: تطرُّف)۔

عَدْلٌ: انصاف۔
عَدَالَة: (۱) انصاف (۲) مساوات (۳) منصف مزاجی۔
عَدْلٌ، عَادِلٌ: انصاف پرور، مُنصف ج: عُدُوْل۔
عِدْلٌ، عَدِيْل: بدل، مثل، قیمت (خُذْ عِدْلَه كَذا و كَذا) (۲) وزن۔
عِدْلٌ ج: عُدُوْل و اَعْدَال: بوری۔
العُدُوْلُ عَنِ الاِسْتِقَالَة: استعفیٰ سے انحراف۔
عَدِيْل: (۱) نسبتی بھائی (۲) ہم وزن۔
تَعْدِيْل: تبدیلی، ترمیم، اصلاح، ردّوبدل ج: تَعْدِيْلات۔
تَعْدِيْلُ اِتِّفَاقٍ: معاہدہ میں ترمیم، معاہدہ کو تبدیل کرنا۔
تَعْدِيْلُ الاَوْضَاع: حالات سُدھارنا۔
تَعْدِيْلُ الحُدُوْد: سرحدوں میں ردوبدل کرنا۔
تَعْدِيْلٌ دُسْتُوْرِيّ: دستوری ردوبدل۔
تَعْدِيْلُ القَوَانِيْن: قوانین میں ترمیم کرنا۔
تَعْدِيْلُ مِيْزَانِ القُوَى: طاقتی توازن درست کرنا۔
التَّعْدِيْلُ الوِزَارِيّ: وزارتی ردوبدل۔
تَعْدِيْلات: اصلاحات۔
تَعْدِيْلاتٌ اِقْلِيْمِيَّة: صوبائی تبدیلیاں۔
تَعْدِيْلاتٌ طَفِيْفَة: معمولی تبدیلیاں۔
تَعْدِيْلاتٌ مُنْتَظَرَة: متوقع تبدیلیاں۔
تَعْدِيْلاتٌ وِزَارِيَّة: کابینی تبدیلیاں۔
تَعَادُل، مُعَادَلَة: توازن، برابر۔

مُعَادَلَة: مساوات، سند کا دوسری سند سے تقابل، موازنہ۔
مُعَادَلَةُ الإِيْرَاد: آمدنی میں مساوات۔
مُعَادَلَةُ السُّلْطَة: اقتدار کی منصفانہ تقسیم۔
مُعَدَّل: سیدھا، ہموار (۲) اوسط، ایورج، تناسب، (۳) ریٹ، رفتار (۴) ترمیم شدہ ج: مُعَدَّلات۔
مُعَدَّلُ الأُجُوْر: تنخواہوں کا معیار۔
مُعَدَّلُ الاسْتِهْلاک فِي السَّاعَة: فی گھنٹہ خرچ کا اوسط۔
مُعَدَّلُ التَّحْوِيْل: تبدیلی سکہ کا ریٹ۔
مُعَدَّلُ التَّوَالُد: اوسط پیدائش، تناسب پیدائش۔
مُعَدَّلُ الوَفَيَات: مرنے کا اوسط، مرنے کی رفتار، شرح اموات۔
مُعْتَدِل: معتدل مزاج (۲) درمیانہ میڈیم (۳) سیدھا (۴) مناسب (۵) خوشگوار۔
مُتَعَادِل: برابر۔
عَدِمَ الشئُ ـَ عُدْماً و عَدَماً: مفلس ہونا، نہ پانا، کسی چیز سے تہی دست ہونا، ضائع کرنا، گم کرنا، مفقود ہونا (أنا عَدِمْتُ كُلَّ مَا كَسَبْتُ)۔
عُدِمَ و انْعَدَمَ: مفقود ہونا۔
إِعْدَام: مفلس بنانا، کسی چیز سے تہی دست بنانا، ضائع کرانا (أعْدَمْتُهُ المَالَ)۔
إِعْدَام (۲): نیست و نابود کرنا، ہلاک کرنا، عدم کو پہنچانا (۳) قتل کرنا، پھانسی دینا، سزائے موت دینا۔
إِعْدَامٌ كَهْرَبِيّ: بجلی کے ذریعہ ہلاک کرنا۔
الحُكْمُ بِالإِعْدَام: سزائے موت کا فیصلہ۔
أعْدَمَهُ الحَيَاةَ: اس کی زندگی کا خاتمہ کر ڈالا۔
عَدَمٌ، عُدْم، اِنْعِدَام: نہ ہونا، فقدان۔
عَدَمُ الاتِّفَاقِ عَلَى شَيْءٍ: کسی شے پر اتفاق رائے نہ ہونا۔
عَدَمُ الخُضُوْعِ لِسُلْطَةِ المَرْكَز: مرکز کے زیر اقتدار نہ ہونا۔
عَدَمُ الاسْتِقْرَار: عدم استحکام۔
عَدَمُ الِالْتِفَات: بے توجہی، آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا۔
عَدَمُ الامْتِثَالِ لِأَحَدٍ: حکم عدولی۔
عَدَمُ الانْحِيَاز: غیر جانبداری، ناوابستگی۔
عَدَمُ انْسِجَام: بے ربطگی۔
عَدَمُ الانْضِبَاط: ڈسپلن شکنی، بے ضابطگی۔
عَدَمُ البَتّ: پینڈنگ میں ڈالنا۔
عَدَمُ التَفْرِقَة: عدم امتیاز۔
عَدَمُ تَقْدِيْرِ الجَمِيْل: احسان فراموشی۔
عَدَمُ تَمَرْكُز: لامرکزیت۔
عَدَمُ التَّنَاسُق: یکجہتی کا فقدان، بے ربطگی۔
عَدَمُ التَّنْفِيْذ: عدم اجراء۔
عَدَمُ التَّوْفِيْق: ناکامی۔
عَدَمُ الثِّقَة: بے اعتمادی۔
عَدَمُ الحَذَر: بے احتیاطی۔
عَدَمُ حُضُوْر: غیر حاضری۔
عَدَمُ خِبْرَة: ناتجربہ کاری۔

عَدَمُ الشَّرْعِيَة: غیر قانونی ہونا، عدم جواز۔
عَدَمُ شَرْعِيَةِ نِظَامِ الحُكْمِ: نظامِ حکومت کا غیر قانونی ہونا۔
عَدَمُ طَاقَةِ: بے بسی۔
عَدَمُ العُنْف: عدم تشدد۔
عَدَمُ الفَصْل فی: پینڈنگ میں ڈالنا۔
عَدَمُ الفَعَّالِيَّة: بے اثری، عدمِ دلچسپی۔
عَدَمُ قُبُولٍ: نامنظوری۔
عَدَمُ كَفَاءَةٍ: نا قابلیت۔
عَدَمُ المَعْرِفَةِ بِاَحَدٍ: لاعلمی۔
عَدِيْم: کسی چیز سے خالی، تہی دست۔
عَدِيْمُ الحَيَاة: مُردہ، مقتول۔
عَدِيْمُ الخَوْف: بیباک۔
عَدِيْمُ القُوَّة: بے طاقت، کمزور۔
عَدِيْمُ النَّظِيْر: بے مثال۔
عَدِيْمُ المَال: مُفلس۔
عَدِيْمُ الضَّرَر: بے ضرر۔
عَادِم: غیر موجود (۲) بے کار، ضائع، نا قابلِ وصول (قرض وغیرہ)، گم شدہ (خط وغیرہ) نا قابلِ اصلاح۔
مَعْدُوْم: ناموجود، گم شدہ۔
مَعْدُوْمُ الحَيَاة: بے جان، مُردہ۔
عَدَنَ الحَجَرَ ـــ عَدْناً: پتھر اکھاڑنا۔
عَدَّنَ تَعْدِيْناً: کان کھودنا، کان سے معدنیات نکالنا۔
عَدْن: جنّتِ عدن۔
تَعْدِيْن: کان کنی۔
مَعْدِن: دھات (جیسے لوہا، تانبا، پیتل، سونا وغیرہ) (۲) جڑ، اصل (۳) کان جہاں دھاتیں پیدا ہوں ج: مَعَادِنُ۔
مَعْدِنٌ كَرِيْم: قیمتی دھات۔
مَعْدِنِيٌّ: معدنیاتی۔
مُعَدِّن: کانکن، زمین سے دھات وغیرہ نکالنے والا۔
عَدُوٌّ: دشمن ج: اَعْدَاء۔
عَدُوٌّ رَئِيْسِيّ: خاص دشمن، سب سے بڑا دشمن۔
عَدُوٌّ رَقْم وَاحِد: نمبر ایک دشمن۔
عُدْوَان: دشمنی، زیادتی، ظلم، جارحیت، حملہ، چڑھائی۔
عُدْوَانٌ بِغَيْرِ اسْتِفْزَاز: بے اشتعال حملہ۔
عُدْوَانٌ سَافِرٌ: ننگی جارحیت، مبینہ جارحیت۔
عُدْوَانٌ صَارِخ: علانیہ عداوت، برملا دشمنی۔
عُدْوَانِيّ: جارحانہ، دشمنانہ، جنگجویانہ۔
عَدْوَى: تعدی امراض۔
عِدًى: دشمنان۔
عَدَا ـُ عَدْواً: دوڑنا۔
عَدَا و عَدَّى عَنِ الاَمْر: چھوڑنا، کنارہ کش ہونا۔
عَدَا و اَعْدَى إِعْدَاءً: بیماری لگنا، دوسرے کی بیماری میں مبتلا ہونا۔
عَادَاهُ مُعَادَاةً: دشمنی رکھنا۔
تَعَدَّى الشَّيْءُ: حد سے بڑھنا، قانون وغیرہ کی خلاف ورزی کرنا۔
تَعَدَّى عَلَى حُقُوقِ الغَيْر: دوسروں کے حقوق میں دراندازی کرنا۔
تَعَدَّى و اعْتَدَى عَلَى: زیادتی کرنا، ظلم کرنا۔

اَعْدَاهُ اِعْدَاءً: دشمن بنانا۔
عَدَا، مَا عَدَا: علاوہ، سوا۔
عِدَاءٌ، عَدَاوَةٌ: دشمنی، مخالفت۔
عِدَاءٌ سَافِرٌ: کھلی دشمنی۔
عِدَائِیٌّ: جارحانہ، دشمنانہ، مخالفانہ۔
عَدَّاءٌ: دوڑ لگانے والا۔
عَادٍ: دوڑنے والا۔
اِعْتِدَاءٌ: زیادتی، ظلم، دشمنی، حملہ، دست درازی، جارحیت۔
اِعْتِدَاءٌ سَافِرٌ: کھلی جارحیت۔
اِعْتِدَاءٌ صَارِخٌ: کھلی جارحیت۔
اِعْتِدَاءَات: چیرہ دستیاں۔
مُعَاهَدَةُ عَدَمِ اِعْتِدَاءٍ: ناجنگ معاہدہ۔
مُعْتَدٍ: جارح، حملہ آور، دشمن۔
مُعَدِّيَة: نہر کو پار کرنے والی کشتی۔

ع .... ذ

عَذُبَ ـُ عُذُوبَةً: شیریں ہونا، میٹھا ہونا۔
عَذَّبَ تَعْذِيباً: میٹھا کرنا (۲) سزا دینا، تکلیف پہنچانا، عذاب دینا۔
تَعَذَّبَ: سزا پانا، تکلیف اٹھانا، عذاب میں مبتلا ہونا۔
عَذْبٌ: شیریں، میٹھا۔
عَذَاب: تکلیف، سزا۔
عُذُوبَة: شیرینی۔
عُذُوبَةُ الكَلِمَات: باتوں کی مٹھاس۔
تَعْذِيب: ایذا رسانی، تکلیف دہی۔
عَذَرَ ـِ عُذْراً: ترکِ ملامت کرنا، معذور سمجھنا، عذر قبول کرنا، معاف کرنا۔
تَعَذَّرَ: دشوار ہونا، ممتنع ہونا، ناممکن الحصول ہونا۔
اِعْتَذَرَ مِنْ و عَنْ: معذرت کرنا، مجبوری ظاہر کرنا۔
اِعْتَذَرَ إِلَيْهِ: عذر پیش کرنا۔
اَعْتَذِرُ إِلَيْكَ: معاف کیجئے۔
عُذْرٌ: بہانہ، وہ دلیل جس کے ذریعہ مجبوری ظاہر کی جائے ج: اَعْذَار۔
عَذْرَاءُ: کنواری، دوشیزہ ج: عَذَارَى
عَذْرَاوِيَّة: کنوارپن۔
عُذْرِيّ: غیر شادی شدہ، پاکدامن (۲) دوشیزگانہ۔
عِذَار: حیا (۲) رخسار۔
خَلَعَ عِذَارَهُ: اس نے شرم بالائے طاق رکھ دی۔
خَالِعُ العِذَار: بے حیا۔
مَعْذِرَة: عذر، حجت، درگزر، معافی ج: مَعَاذِرُ و مَعَاذِيرُ۔
مُتَعَذِّر: دشوار، ممنوع، ناممکن الحصول۔
عِذْق: کھجور کا خوشہ، گچھا ج: عُذُوق و اَعْذَاق۔
عَذَلَ ـِ عَذْلاً: ملامت کرنا۔
عَذُول: ملامت کرنے والا۔

ع .... ر

عَرُبَ ـُ عُرُوبَةً: عربی الاصل ہونا۔
عَرَّبَ تَعْرِيباً: عربی میں منتقل کرنا، عربی میں ترجمہ کرنا، تعریب کرنا۔
عَرَّبَ و اَعْرَبَ: کسی لفظ کو عربی بنانا، عربی جیسا بنانا، عربی زبان میں شامل کرنا، عربیانا۔
عَرَّبَ التَّعْلِيمَ: تعلیم کو عربیانا۔

اَعْرَبَ عَنْ: ظاہر کرنا، تعبیر کرنا۔
اَعْرَبَ عَنِ الاَسَف: اظہارِ افسوس کرنا۔
اَعْرَبَ عَنِ الاِهْتِمَامِ بكذا: کسی چیز سے دلچسپی ظاہر کرنا۔
اَعْرَبَ عَنِ الرَّغْبَةِ فِى كذا: کسی چیز کی خواہش کا اظہار کرنا۔
اَعْرَبَ عَنِ التَّائِيْدِ لكذا: کسی چیز کی حمایت کا اظہار کرنا۔
اَعْرَبَ عَنِ الاِعْجَابِ بِشَيْءٍ: اظہار پسندیدگی کرنا۔
اَعْرَبَ عَنِ الاَمَلِ: امید ظاہر کرنا۔
اَعْرَبَ عَنِ الإِيْمَانِ بشَيْءٍ: یقین ظاہر کرنا۔
اَعْرَبَ عَنِ التَّقْدِيْرِ لشَيْءٍ: قدر افزائی کرنا، اظہارِ پسندیدگی کرنا۔
اَعْرَبَ عَنِ القَلَقِ اِزَاءَ كَذَا: اظہار افسوس کرنا، تشویش ظاہر کرنا۔
تَعَرَّبَ و اِسْتَعْرَبَ: عرب بننا، عرب باشندہ بننا۔
عَرَبِي: (۱) عرب باشندہ (۲) عربی زبان۔
عَرَبِيَّة: (۱) عرب کی رہنے والی (۲) عربی زبان۔
الجَامِعَةُ العَرَبِيَّة: عرب لیگ۔
عَرَبَة: گاڑی، ویگن ج: عَرَبَات۔
عَرَبَةُ تَرَامْوَاي: ٹرام کار۔
عَرَبَةُ سِكَّةِ الحَدِيْد: ریل کا ڈبہ۔
عَرَبَةُ نَقْلِ البَضَائِع: باربرداری کی گاڑی۔
عَرَبَةُ المُسْتَشْفَى: ایمبولنس۔

عَرَبَةُ نَوْم: سلیپنگ کار، ریل کا ڈبہ جو مسافروں کے سونے کے لئے مخصوص ہو، سلیپر۔
عَرَبَةُ العَفْش: سامان کی گاڑی، لگیج وین۔
عَرَبَةٌ لِلجَرِّ: ٹرالی۔
عَرَبَةُ مِدْفَع: توپ گاڑی۔
عَرَبَةٌ مُغَطَّاة: بند گاڑی۔
عَرَبَةُ اَكْلٍ: ڈائننگ کار۔
عَرَبَةُ الاَمْتِعَة: لگیج بوگی۔
عَرَبَةُ البَرِيْد: میل (ڈاک) کا ڈبہ۔
عَرَبَةُ بِضَاعَة: سامان کا ویگن۔
عَرَبَةُ التَّرُولِي: ٹرالی بس، ٹرام گاڑی۔
عَرَبَةٌ جَوِّيَّة: فضائی گاڑی۔
عَرَبَةُ الحَمَّال: قلی کا ٹھیلا، پورٹر ٹرک۔
عَرَبَةٌ صَغِيْرَة: ٹرالی۔
عَرَبَةُ صِهْرِيْج: ٹینک کار۔
عَرَبَةُ الطَّعَام: ڈنر ویگن۔
عَرَبَةُ يَد: ہاتھ کی گاڑی۔
عَرَبَةُ نَقْلٍ (بِسِكَّةِ الحَدِيْد): ریلوے ویین۔
عَرَبَةُ الاَطْفَال: بچوں کی گاڑی۔
عَرَبَةُ اُجْرَة: کرایہ کی گاڑی۔
عَرَبَاتُ النَّوْم: سلیپرس، سونے کی بوگیاں۔
عُرُوبَة: عربیت۔
عَرَبْجِي: گاڑی بان۔
تَعْرِيْب: عربی زبان میں ترجمہ۔
مُعَرَّب: عربی بنایا ہوا، مترجم۔
مُعَرِّب: مترجم (۲) ظاہر کرنے والا۔
عَرْبَدَة: (۱) بداخلاق ہونا (۲) فساد پھیلانا،

خرمستیاں کرنا، شرارت کرنا۔
عِرْبِیْد، مُعَرْبِد: فسادی، غنڈہ۔
عَرْبَسَة: رکاوٹیں کھڑی کرنا۔
عَرَجَ ـِـ عُرُوْجاً: چڑھنا، بلند ہونا۔
عَرِجَ ـَـ عَرَجاً: لنگڑا ہونا۔
عَرَّجَ تَعْرِيْجاً: ٹھہرنا، رُکنا، مُڑنا۔
عَرَّجَ عَلٰى يَمِيْنِهِ: دائیں طرف مُڑنا۔
عَرَّجَ الخَطَّ: ٹیڑھا کرنا۔
اِعْرَاج: لنگڑا بنانا۔
اِنْعِرَاج: لنگڑا ہونا، ٹیڑھا ہونا، مڑنا۔
تَعَرُّج: ٹیڑھا ہونا، مُڑنا، مائل ہونا۔
تَعَارُج: لنگڑا بننا۔
عَرَجٌ، عَرَجَان: لنگڑاپن۔
اَعْرَجُ: لنگڑا ج: عُرْجٌ۔
مِعْرَج، مِعْرَاج: سیڑھی (سُلَّمٌ نَقَّالٌ) ج: مَعَارِجُ و مَعَارِيْجُ مُتَعَرِّج: ٹیڑھا، جھکا ہوا۔
عَرٌّ و مَعَرَّة: عیب، گناہ۔
عَرٌّ، عُرَّة: خارش (اونٹ کی خارش)۔
عَرَّ ـُـ عَرّاً: عیب لگانا۔
عُرْسٌ: رخصتی، زفاف، ولیمہ کا کھانا، شادی ج: أَعْرَاس۔
وَلِيْمَةُ العُرْسِ: دعوتِ ولیمہ۔
عِرْسٌ: دولہا، دولہن ج: اَعْرَاس (عِرْسُ الرَّجُلِ، عِرْسُ الْمَرْأَة)
عَرُوْس: (۱) دولہن (۲) دولہا ج: عَرَائِس
عَرُوْسَة: گڑیا (۲) دولہن۔
عَرِيْس: دولہا۔
عِرِّيْس، عِرِّيْسَة: شیر کا مسکن، کچھار، درندوں کے رہنے کی جگہ۔
اَعْرَسَ اِعْرَاساً: ولیمہ کرنا۔
عَرَشَ ـِـ عَرْشاً و عَرَّشَ بِالْمَكَان: قیام کرنا۔
__ البَيْتَ: تعمیر کرنا، چھت ڈالنا۔
__ الكَرْمَ: انگور کی بیل ٹٹی پر چڑھانا۔
عَرَّشَ الكَرْمُ: انگور کی بیل کا ٹٹی پر چڑھنا۔
عَرْشٌ: تختِ شاہی (۲) چھت ج: عُرُوْش۔
عَرْشُ المَمْلَكَة: تختِ سلطنت۔
عَرْشٌ و عَرِيْش: خیمہ یا شامیانہ، سائبان۔
عَرْش و تَعْرِيْشَة: ٹٹی، لکڑی یا لوہے کی جالی جس پر انگور کی بیل ڈالی جاتی ہے۔
عَرِيْش: جانوروں کا باڑا ج: عُرُش۔
مُعَرَّش، مَعْرُوْش: ٹٹی یا جالی پر چڑھی ہوئی بیل وغیرہ۔
عَـرْصَةُ الدَّار: (۱) صحنِ خانہ (۲) کھلی ہوئی جگہ ج: عِرَاص و عَرَصَات۔
عَرَضَ ـِـ عَرْضاً: (۱) ظاہر کرنا (۲) پھیلانا (۳) درخواست کرنا (۴) پیش کرنا۔
عَرَضَ الشَّيْءَ عَلَيْهِ: دکھانا، پیش کرنا۔
عَرَضَ رَأْياً: تجویز پیش کرنا۔
عَـرَضَ الـجُنْدَ: فوج کی نمائش کرنا، فوج کو سڑکوں سے گزارنا۔
عَرَضَ لَهُ كَذَا: پیش آنا، سامنے آنا۔
عَرَضَ لَهُ فِكْرٌ: خیال آنا، ذہن میں آنا، ذہن میں تدبیر آنا۔
عَرُضَ ـُـ عَرَاضَةً: چوڑا ہونا۔
عُرِضَ: دیوانہ ہونا۔
عَرَّضَ تَعْرِيْضاً: چوڑا بنانا۔

عَرَّضَهٗ لکذا: سامنے لاکھڑا کرنا، کسی خطرہ میں مبتلا کرنا، نشانہ بنانا، زد میں لانا۔
عَرَّضَ السَّلامَ لِلخَطَر: امن کو خطرہ میں ڈالنا۔
عَرَّضَ البَلَدَ للمُؤامَرَة: ملک کو سازش میں پھنسانا۔
عَرَّضَ النَّفسَ لِلمَوت: موت کے منہ میں ڈالنا۔
عَرَّضَ بہ و لَهٗ: کسی کے متعلق بات کہنا مگر الفاظ غیر صریح استعمال کرنا، اشاروں کنایوں میں بات کرنا۔
عَارَضَهٗ مُعَارَضَةً: مخالفت کرنا، آڑے آنا، مقابلہ کرنا، خلاف کرنا، آڑے ہاتھوں لینا۔
عَارَضَ الشَّئَ بِالشَّئ: ایک چیز کا دوسری سے مقابلہ کرنا۔
اَعْرَضَ عَنْهُ: منہ پھیرنا، بے رُخی اختیار کرنا، نظر انداز کرنا، چھوڑنا، منحرف ہونا، پسِ پشت ڈالنا۔
اِعْتَرَضَ لَهٗ: پیش آنا، سامنے آنا (۲) رکاوٹ بننا، آڑے آنا۔
اِعْتَرَضَ علی: نکتہ چینی کرنا۔
تعَرَّضَ لکذا: خطرہ میں پڑنا، کسی چیز کی زد میں آنا، شکار ہونا، دوچار ہونا۔
تعَرَّضَ الاَمْرَ وله: پیچھا کرنا، لگے رہنا۔
تعَرَّضَ لِلاَمْر: مداخلت کرنا۔
تَعَرَّضَ السَّلامُ لِلْخَطَر: امن کا خطرہ میں پڑنا۔
تَعَرَّضَ لِاَلْوَانٍ مِنَ التَّعْذِيب: طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہونا۔
تَعَرَّضَتِ البَضَائِعُ لِلتَّلَف: سامان کو نقصان پہنچنا۔
تَعَرَّضَ البَلَدُ لِلاَخْطَار: ملک کو خطرات درپیش ہونا۔
تَعَارَضَ مَعَ: مڈ بھیڑ ہونا، تصادم ہونا، منافی ہونا۔
تَعَارَضَ الشَّئُ مَعَ المَصَالِح: مفادات کے خلاف ہونا، مفادات سے ٹکرانا۔
اِسْتَعْرَضَ: جائزہ لینا، نظر ثانی کرنا، گزرے ہوئے واقعات پر تبصرہ کرنا (۲) سامان دکھانے کی فرمائش کرنا (۳) فوج کا معائنہ کرنا۔
عَرْضٌ: پیش کش، آفر (۲) پھیلاؤ (۳) چوڑائی (۴) نمائش، پریڈ (۵) سپلائی (۶) سامان ج: اَعْرَاض و عُرُوض۔
عَرْضٌ مُوْجَز: مختصر نمائش، مختصر جائزہ۔
عَرْضُ حَالٍ: عرضداشت، درخواست۔
عَرْضُ سِعْرٍ: آفر کرنا۔
عَرْضُ الفِيلْم: فلم دکھانا۔
عَرْضُ القَرَارِ عَلَى المُؤتَمَر: کانفرنس میں تجویز پیش کرنا۔
عَرْضُ القَضِيَّةِ عَلَى المَحكَمَة: عدالت میں کیس پیش کرنا۔
العَرْضُ و الطَّلَب: سپلائی اور ڈیمانڈ، مانگ اور فراہمی۔
العَرْضُ الكُلِّيّ: مکمل سپلائی، مکمل پیش کش۔
عُرْضٌ: جانب، گوشہ۔
عِرْضٌ: آبرو ج: اَعْرَاض۔

بَیْعُ العِرْضِ: عصمت فروشی، زنا۔
عَـرَض: (۱) صفت، خاصہ (۲) غیر دوامی چیز (خلاف جوہر) (۳) اتفاق، چانس۔
عَرَضِیّ: (۱) غیر جوہری (۲) عارضی، ٹمپریری، ہنگامی، اتفاقی۔
عُرْضَة: عرض، نشانہ، ہدف۔
عُرْضَةٌ له: کسی چیز کا شکار، نشانہ پر، خطرہ میں، سامنے۔
عُرْضَةٌ لِلْخَطأ: خطاپذیر، غلطی کا نشانہ۔
عَـرُوض: میزانِ شعر، شعر کو وزن کرنے کے اصول وقواعد۔
عُرُوض فَـنِّـيَّة: فنی مظاہرے، فنی نمائش۔
عَرِیْض: چوڑا۔
عَـرِیْـضَة: درخواست، عرضداشت، پٹیشن، عرضی ج: عَرَائِض۔
عَرِیْضَةُ الدَّعْوَی: عرضی دعویٰ۔
عَرِیْضَةُ الاِسْتِئْناف: درخواست اپیل۔
مُقَدِّمُ العَرِیْضَة: درخواست گزار۔
عَارِض: رکاوٹ، مانع، واقعہ ج: عَوَارِض۔
عَـــارِض: پیش آمدہ، درپیش، غیر دائمی (۲) جنون۔
عَـارِضَةٌ خَشَبِيَّة أو مَعْدِنِيَّة: گارڈر ج: عَوَارِض۔
إِعْرَاض: بے اعتنائی، روگردانی۔
اِعْتِرَاض، مُعَارَضَة: رکاوٹ، مقابلہ، احتجاج، مخالفت۔
اِعْتِرَاضُ الـمَشَاکِل: مشکلات پیش آنا۔
تَعَارُض: تصادم، اختلاف، ٹکراؤ، اپوزیشن۔
تَعَارُضُ المَصَالِح: مفادات کا ٹکراؤ۔
التَّعَارُضُ مَعَ شَيْءٍ: منافی ہونا۔
إِسْتِعْرَاض: جائزہ۔
إِسْتِعْرَاضٌ سَرِیْعٌ: سرسری جائزہ۔
إِسْتِعْرَاضُ المَوْقِفِ: صورتِ حال کا جائزہ۔
مَـعْرِض: نمائش، شو، شوروم، نمائش گاہ، نمائش ہال ج: مَعَارِض۔
مَعْرِضُ رِسَالَةِ الجَامِعَة: یونیورسٹی مشن نمائش۔
مَعْرِضٌ زِرَاعِيٌّ: زرعی نمائش۔
المَعْرِضُ العَالَمِيّ: عالمی نمائش۔
الـمَعْرِضُ الدُّوَلِيّ: بین الاقوامی نمائش۔
فی مَعْرِضِ کذا: ذیل میں، اس کے دوران، اس کے ذیل میں۔
مَعْرُوض: برائے فروخت۔
مَعْرُوضَات: سامانِ فروخت، اشیائے نمائش۔
غُرْفَةُ المَعْرُوضَات: شوروم۔
مُعَارِض: مخالف، مقابل۔
مُعَارِضٌ له: برعکس، بے جوڑ۔
مُعَارِضُوْنَ و مُؤَيِّدُوْنَ: مخالف و موافق۔
مُعْتَرِض: پیش آمدہ، آڑے آنے والا، نکتہ چیں، احتجاج کنندہ۔
عِبَارَةٌ مُعْتَرِضَة: درمیانِ کلام کی وضاحتی عبارت۔
مُـعَـارَضَة: مخالفت، اعتراض (۲)

رکاوٹ (۳) اپوزیشن۔
مُعَارَضَةٌ عَلَنِيَةٌ: کھلم کھلا مخالفت۔
مُعَارَضَةُ كِفَاحٍ: جدوجہد میں رکاوٹ ڈالنا۔
مُعَارَضَةُ المُحَامِي: وکیل کا اعتراض۔
المُعَارَضَةُ البَنَّاءَة: تعمیری اختلاف۔
المُعَارَضَةُ الشَّعْبِيَّة: عوامی مزاحمت۔
حِزْبُ مُعَارَضَةٍ: حزبِ اختلاف، اپوزیشن پارٹی۔
عَرَفَ ـــ عِرْفَاناً و مَعْرِفَةً: جاننا، پہچاننا۔
عَرَفَ الأمْرَ: واقف ہونا۔
عَرَفَ المَرْأَةَ: صحبت کرنا۔
عَرَّفَ تَعْرِيفاً: بتانا، باخبر کرنا (۲) وضاحت کرنا (۳) کاہن کا پیش گوئی کرنا۔
عَرَّفَ الرَّجُلَ بِالرَّجُلِ: تعارف کرانا۔
اِعْتَرَفَ بِالأمْرِ: اقرار کرنا۔
اِعْتَرَفَ بشيءٍ: تسلیم کرنا، ماننا۔
اِعْتَرَفَ بالدَّوْلَة: حکومت کو تسلیم کرنا۔
اِعْتَرَفَ بِالشَّهَادَة: ڈگری منظور کرنا۔
اِعْتِرَافٌ بِالجَمِيلِ: احسان شناسی۔
اِعْتَرَفَ إِلَى الكَاهِنِ: کاہن سے کسی معاملہ کی حقیقت دریافت کرنا۔
تَعَرَّفَ الشيءَ: جاننا، پتہ چلنا۔
عُرْفٌ: رواج، سسٹم۔
العُرْفُ التِّجَارِيّ: کمرشیل سسٹم، تجارتی طریقۂ کار، کاروباری اصطلاح۔
العُرْفُ الدِّبْلُومَاسِيّ: سفارتی قاعدہ، سفارتی دستور۔
عُرْفاً: رواجاً، عام طور پر۔
عُرْفِيّ: مروجہ۔
العَارِفُ بِالشيءِ: آشنا۔
عَارِفُ الجَمِيلِ: احسان شناس۔
العَارِفُون: واقف کاران۔
العَرِيْف: مانیٹر ج: عُرَفَاء۔
عَرِيْفُ الحَفْلِ: صدرِ مجلس، یا مجلس کا اناؤنسر۔
اِعْتِرَافٌ خَطِيرٌ: زبردست اعتراف۔
اِعْتِرَافٌ دِبْلُومَاسِيّ: سفارتی اقرار۔
تَعْرِيفٌ: انٹروڈکشن (تعارف)، اصطلاح ج: تَعْرِيفَات۔
التَعَرُّفُ على ......: شناخت، تعارف۔
التَعَرُّفُ على الآرَاءِ و الأفْكَار: افکار و خیالات سے واقفیت۔
التَعَرُّفُ عَلَى البَضَائِع: سامان کی شناخت۔
التَعَرُّفُ على الذَّات: خود شناسی۔
تَعَرُّفٌ عَلَى مَعَالِمِ البِلَادِ: ملک کی خصوصیات سے واقفیت۔
تَعَارُفُ الشَّخْصَيْنِ: آشنائی ہونا۔
مَعْرِفَةٌ ج: مَعَارِف: آشنا، آشنائی۔
مَعْرِفَة: آشنائی، نالج۔
مَعْرِفَةُ الجَمِيلِ: احسان شناسی۔
مُعْتَرِفٌ بالإحْسَان: احسان مند۔
مُعْتَرَفٌ به: تسلیم شدہ۔
عَرَقَ العَظْمَ ـُ عَرْقاً و عَرَّقَ: ہڈی سے گوشت اُتارنا۔
عَرِقَ ـَ عَرَقاً: جسم سے پسینہ نکلنا۔
عَرَّقَهُ تَعْرِيقاً: پسینہ دلانا۔
عَرَّقَ بِالرُّخَام تَعْرِيقاً: ماربل لگانا۔

عَرَّقَ و اَعْرَقَ ـ تَعَرَّقَ: جڑ پکڑنا، درخت کی جڑیں زمین میں پھیلنا۔

اَعْرَقَ الجِسْمُ: پسینہ آنا۔

تَعَرَّقَ العَظْمَ: ہڈی چچوڑنا۔

تَعَرُّقٌ بِالرُّخَامِ: ماربلنگ۔

عَرَق: پسینہ۔

عِرْق: رگ ج: عُرُوْق۔

عَرِيْق: جڑ گرفتہ، راسخ، ڈوبا ہوا، جس کی جڑ مضبوط ہو، پرانا۔

عَرِيْقُ النَّسَبِ: عالی نسب۔

مُعَرَّق: ماربل دار۔

عَرْقَلَ الأَمْرَ: رکاوٹ ڈالنا، روڑے اٹکانا، دشواری پیدا کرنا (۲) ناکام بنانا۔

عَرْقَلَةُ الحَرَكَةِ: آمدورفت میں رکاوٹ ڈالنا۔

عَرْقَلَةُ المَسَاعِيْ: کوششوں میں رخنہ ڈالنا۔

عَرْقَلَةُ مَسِيْرَةٍ: راہ میں رکاوٹ ڈالنا۔

تَعَرْقَلَ الأَمْرُ: رکاوٹ پڑنا، تعویق میں پڑنا، دشوار ہونا۔

عَرْقَلَة: رکاوٹ، اڑنگا ج: عَرَاقِيْل۔

عَرَاقِيْلُ: رُکاوٹیں، دشواریاں۔

عَرَكَ ـُ عَرْكاً: ملنا، رگڑنا، مانجھنا۔

عَرَكَهُ الدَّهْرُ: زمانہ نے اس کو تجربہ کار بنادیا۔

عَرِكَ ـَ عَرَكاً: لڑائی میں سخت جاں ہونا۔

عَارَكَهُ مُعَارَكَةً: جنگ کرنا، لڑنا، مزاحمت کرنا۔

تَعَارَكَ و اعْتَرَكَ القَوْمُ: برسرِ پیکار ہونا، باہم لڑنا۔

عَرْكٌ: جانچ، آزمائش۔

عِرَاكٌ، مُعَارَكَة: لڑائی، رسا کشی۔

عَرِيْكَة: عادت، طبیعت ج: عَرَائِك۔

لَيِّنُ العَرِيْكَةِ: نرم خو، نرم مزاج۔

مَعْرَك، مَعْرَكَة، مُعْتَرَك: میدانِ جنگ، اکھاڑا۔

مَعْرَكَة: لڑائی، جھگڑا، فساد، ایکشن ج: مَعَارِك۔

مَعْرَكَةُ الدَّبَّابَاتِ: ٹینکوں کی جنگ۔

مَعْرَكَةٌ شَرِسَةٌ: بھیانک لڑائی، زبردست جنگ۔

مَعْرَكَةٌ عَنِيْفَةٌ: گھمسان کی جنگ۔

مَعْرَكَةٌ اِنْتِخَابِيَّةٌ عَنِيْفَةٌ: زبردست انتخابی مہم۔

مَعْرَكَةٌ بِالرَّصَاصِ: گولیوں کی جھڑپ۔

مَعْرَكَةٌ تِلْفِزْيُوْنِيَّةٌ: ٹیلیویژن پر دکھائی دینے والا معرکہ، ٹیلیویژن پر دکھائی دینے والا جھگڑا۔

مَعْرَكَةٌ حَاسِمَةٌ: فیصلہ کن لڑائی۔

المَعْرَكَةُ حَامِيَةٌ بَيْنَ فُلَانٍ و فُلَانٍ: گرما گرمی جاری ہے۔

مَعَارِكُ: جھڑپیں۔

مَعَارِكُ طَاحِنَةٌ: گھمسان کی لڑائیاں۔

مَعَارِكُ طَائِفِيَّةٌ: فرقہ وارانہ فسادات۔

عَرِيْنٌ، عَرِيْنَةٌ: شیر کا مسکن، جنگلی جانوروں کے رہنے کی جگہ ج: عُرُن و عَرَائِن۔

عُرْوَة: (۱) کاج (۲) حلقہ، کڑا (۳) رسّی کا پھندا (۴) برتن کا قبضہ (۵) قابلِ اعتماد ج:

عُرِّیَ۔

عَرَاهُ ـُ عَرْواً و اعْتَرَاهُ: پیش آنا، سامنے آنا (۲) لاحق ہونا (۳) طاری ہونا۔

عَرَتْهُ دَهْشَةٌ: اس پر خوف طاری ہوگیا۔

عَرِیَ ـَ عُرْیاً و تَعَرَّی من: برہنہ ہونا، کسی صفت سے عاری ہونا۔

عُرْیٌ، عُرْیَةٌ: برہنگی، عُریانیت۔

عَرَّاهُ تَعْرِیَةً: لباس اُتارنا، برہنہ کرنا، نقاب اُتارنا۔

عَرَّاهُ مِنْ: نہتا کرنا، مجرد کرنا، الگ کرنا۔

عَرَّی المُؤَامَرَةَ: سازش کا پردہ فاش کرنا۔

عَرَّی الجُنَاةَ عَنِ القَانُونِ: مجرموں کو قانون سے آزاد کرنا۔

عُرْیَانٌ، عَارٍ: برہنہ، بے لباس۔

عُرْیَانٌ کَمَا وَلَدَتْهُ اُمُّهُ: مادرزاد ننگا۔

عَارٍ: برہنہ (۲) خالی (۳) نہتا۔

عَارِی الاَقْدَامِ: برہنہ پا۔

عَارِی الرَّأْسِ: برہنہ سر۔

عَارِیَةٌ: اُدھار، عارضی طور پر لی ہوئی چیز، لون، قرض۔

عَارِیَةٌ و مُسْتَعَارٌ: مصنوعی، عارضی۔

شَعْرٌ مُسْتَعَارٌ: مصنوعی بال، وِگ۔

عَرَاءٌ: کھلی جگہ، خلا۔

مُعَرًّی: (۱) برہنہ (۲) بے غلاف (۳) کھلا ہوا (۴) خالی از حاشیہ یا ترجمہ۔

مَعَارِی الجِسْمِ: جسم کے کھلے ہوئے حصے۔

ع............ز

عَزَبَ ـُ عُزُوْبَةً: غیر شادی شدہ ہونا، کنوارا رہنا۔

عَزَبَ ـِ عُزُوْباً و اَعْزَبَ: دور ہونا، او جھل ہونا۔

عَزَبٌ، أَعْزَبُ، عَازِبٌ: غیر شادی شدہ، کنوارا ج: عُزَّاب و عُزُبٌ۔

عُزُوْبَةٌ، عُزْبَةٌ: تجرد، کنوار پن۔

عِزْبَةٌ: کھیت، فارم (دا)۔

عَزَرَ ـِ عَزْراً و عَزَّرَ: ملامت کرنا۔

عَزَّزَ تَعْزِیْزاً: (۱) مدد کرنا (۲) مضبوط بنانا، طاقت بہم پہنچانا، بڑھانا، ترقی دینا، مستحکم کرنا (۳) کمک پہنچانا (۴) رتبہ بلند کرنا (۵) کنفرم کرنا۔

عَزَّزَ الاِسْتِقْلَالَ: خودمختاری میں استحکام پیدا کرنا۔

عَزَّزَ التَّعَاوُنَ: تعاون بڑھانا۔

عَزَّزَ السَّلَامَ: امن کو مستحکم کرنا۔

عَزَّزَ السَّیْطَرَةَ: قبضہ مستحکم کرنا، کنٹرول واقتدار مضبوط کرنا۔

عَزَّزَ العَلَاقَاتِ: تعلقات مضبوط کرنا۔

عَزَّزَ القُوَّاتِ: فوجوں کو کمک پہنچانا۔

عَزَّزَ مَسِیْرَةَ النِّضَالِ التَّحَرُّرِیِّ: جہادِ آزادی کی تحریک مستحکم کرنا۔

عَزَّزَ و اَعَزَّهُ: محبت کرنا، پسند کرنا، اہمیت دینا (۲) محبوب و پسندیدہ ہونا۔

اَعَزُّ: محبوب تر۔

اَعَزُّ الطَّالِعِ: بلند اقبال۔

عَزَّ ـِ عِزّاً: طاقتور ہونا (۲) کمیاب ہونا۔

عَزَّ عَلَیْهِ: محبوب ہونا (۲) شاق ہونا۔

یَعِزُّ عَلَیَّ اَنْ اُعَاقِبَهُ: اسے سزا دینا

میرے لئے شاق ہے۔
اعْتَزَّ و تعَزَّزَب: عزت حاصل کرنا۔
اِعْتَزَّ و تَعَزَّزَ: مضبوط ہونا، تقویت حاصل کرنا۔
اِعْتَزَّ و تَعَزَّزَ: سربلند ہونا، فخر کرنا، ناز کرنا۔
اِعْتَزَّ بِالصَّدَاقَةِ: دوستی کو سراہنا۔
تَعَزَّزَ: طاقتور ہونا۔
اِسْتَعَزَّ عَلَيْهِ: غالب ہونا۔
عِزٌّ: عزت، اعزاز (۲) سختی۔
صَاحِبُ العِزَّةِ: عالی جناب (بلند درجہ لوگوں کا لقب)۔
عَزِيْز: (۱) مضبوط و طاقتور (۲) محبوب و پیارا (۳) کمیاب (۴) مُعزز۔
عَزِيْزُ الجَانِبِ: طاقتور (۲) بارسوخ و باقتدار آدمی۔
عَزِيْزُ المَنَالِ: ناممکن الحصول، ناقابلِ گرفت۔
عَزِيْزُ النَّفْسِ: عالی ظرف، بلند حیثیت، خوددار۔
تَعْزِيْزٌ عَسْكَرِيٌ: فوجی کمک۔
مُعْتَزٌ: سربلند، نازاں۔
عَزَفَ ــِ عَزْفًا: گانا۔
عَزَفَ السَّلَامَ الوَطَنِيَّ: قومی ترانے کی دھن بجانا۔
عَزَفَ ... الشَّيْءِ: کنارہ کش ہونا۔
عَزَفَ عَلَى آلَةِ الطَّرَبِ: آلۂ موسیقی بجانا۔
عَزَفَتْ نَفْسُهُ عَنْ كَذا: اُکتانا، دل گھبرانا۔
عَزِيْف: بھیانک آواز، ناگوار آواز۔
عَزِيْفُ الرَّعْدِ: گرج کی آواز۔
عَزِيْفُ الرِيْحِ: ہوا کی آواز۔
عَازِف: گانے بجانے والا، سارنگیا، گانے بجانے کا ماہر، موسیقار، سازندہ۔
مِعْزَف و مِعْزَفَة: باجا، ساز، آلۂ موسیقی ج: مَعَازِف۔
عَزَقَ الأَرْضَ ــِ عَزْقًا: زمین پھاڑنا، کھودنا، زمین کھود کر پانی نکالنا۔
عَزَقَة: نٹ، واشر۔
مِعْزَقَة: کدال، بیلچہ ج: مَعَازِق۔
عَزَلَ ــِ عَزْلاً و عَزَلَ الشَيْءَ عَنْ غَيْره: علیحدہ کرنا۔
عَزَلَ: گوشہ نشین بنانا، الگ تھلگ کرنا (۲) جدا کرنا۔
عَزَلَ عَنْ مَنْصِبِ: برطرف کرنا، ملازمت سے برخاست کرنا، معزول کرنا، منصب سے ہٹانا۔
عَزَلَ البَلَدَ عَنْ: ملک کو کاٹنا۔
عَزَلَهُ عَنِ المُجْتَمَعِ: معاشرے سے کاٹنا، الگ کرنا۔
عَزَلَ القُوَّةَ: فوج کو نہتا کرنا۔
عَزَلَهُ عَنِ العَرْشِ: تخت سے اُتارنا۔
عَزَّلَه: (۱) رہائش تبدیل کرنا۔
اِعْتَزَلَ الشَيْءَ و عَنْهُ: کنارہ کش ہونا، علیحدہ ہونا، برطرف ہونا۔
اِعْتَزَلَ الحَيَاةَ العَامَّةَ: عام زندگی سے کنارہ کش ہونا۔
عَزْل: معزولی، علیحدگی، برطرفی۔
عُزْلَة، اِعْتِزَال: گوشہ نشینی، کنارہ کشی۔

عُزْلَةٌ دِبْلُومَاسِيَّة: سفارتی علیحدگی۔
عَازِل: فاصل، جُدا کرنے والا۔
اَعْـزَلُ: نہتا، بے ہتھیار ج: عُـزْل و عُزَّل۔
اِنْعِزَال: علیحدگی، یکسوئی، گوشہ نشینی، الگ تھلگ ہو جانا، سمٹ جانا۔
اِنْعِزَالِيُّون: علیحدگی پسند لوگ۔
اِنْعِزَالِيَّة: علیحدگی پسندی، علیحدگی پسندانہ رجحان۔
مِعْزَال: نہتا، خالی ہاتھ۔
مَعْزِل: علیحدگی کی جگہ، خلوت خانہ، علیحدہ جگہ، ایک طرف۔
بِمَعْزِلٍ عَنْ كذا: جُدا، دور، علیحدہ، بے تعلق۔
مَعْزُوْل: الگ تھلگ۔
عَزَمَ علی ـِ عَزْماً: پختہ ارادہ کرنا، تہیہ کرنا۔
عَزْمٌ، عَزِيْمَة: پختہ ارادہ۔
عَزْمٌ أَكِيْدٌ: آہنی ارادہ، پختہ ارادہ۔
عَزْمٌ مُصَمَّمٌ: پختہ ارادہ۔
عَـزِيْمَة: قوی ارادہ، حوصلہ ج: عَـزَائِمُ (۲) تعویذ۔
عُزُوْمَة: ولیمہ، دعوتِ ولیمہ (دا)۔
عَزَالَهُ و إِلَيْهِ ـُ عَزْواً: منسوب ہونا۔
عَزَا الشَّيْئَ الى فُلان: منسوب کرنا، نسبت کرنا (۲) الزام لگانا۔
اِعْتَزَى إِلَيْهِ و لَهُ: منسوب ہونا۔
عَزَا ـَ عَزَاءً: صبر کرنا، تسلّی پانا۔
عَزَاءٌ: صبر، تسلّی، غم خواری، دلاسا۔
عِزْوَة: نسبت، انتساب (۲) رشتہ دار۔
عَزَى إليه ـِ عَزْياً: منسوب کرنا۔
عَـزِىَ و تَـعَزَّى عنه: تسلّی پانا، غم بھول جانا، ڈھارس بندھنا۔
عَـزَّى الـمُصَابَ تَعْزِيَةً: مصیبت زدہ کو تسلّی دینا، تعزیت کرنا۔
تَعْزِيَة: تعزیت ج: تَعَازٍ۔
خِطَابُ تَعْزِيَة: تعزیت نامہ۔

ع............س

يَعْسُوْب: مکھیوں کی رانی، شہد کی مکھی (نر)۔
عَسْجَد: سونا (۲) جواہر۔
عَسَرَ ـُ عُسْراً: تنگ دست ہونا۔
عَسِرَ ـَ عُسْراً و عَسَراً: دشوار ہونا۔
عَسَرَ الغَرِيْمَ ـُ عُسْراً: قرض دار سے باوجود اس کی عُسرت کے قرض مانگنا، تنگ کرنا، پریشان کرنا۔
عَسَّرَ الأَمْرَ تَعْسِيْراً: دشوار بنانا۔
عَسَّرَ عَلَيْهِ: تنگی پیدا کرنا۔
أَعْسَرَ الرَّجُلُ: تنگ دست ہونا، مفلس ہونا۔
تَـعَسَّرَ و تَـعَاسَرَ و اسْتَعْسَرَ الأَمْرُ: دشوار ہونا۔
اِسْتَعْسَرَ الأَمْرَ: دشوار سمجھنا۔
عَسِرٌ، عَسِيْر: دشوار، مشکل۔
عُسْرٌ و عُسْرَةٌ: تنگ دستی، مالی پریشانی۔
مُعْسِر: تنگ دست، مفلس۔
عَسَسٌ: چوکیدار، رات کو پہرہ دینے والا و: عَاسٌّ، عَسَّاس۔
عَسَّ ـُ عَسّاً: رات کو پہرہ دینا، سراغ رسانی کرنا۔

عَسَفَ ۔ِ عَسْفاً: ظلم کرنا، تشدد کرنا۔
عَسَفَ فِي الأَمْرِ: بے تدبیری سے کام لینا۔
عَسَّفَ و اَعْسَفَ: سخت کام میں مبتلا کرنا، سخت کام لینا۔
تَعَسَّفَ و اعْتَسَفَ الأَمْرَ: بے سوچے کام کرنا۔
تَعَسَّفَ عَنِ الطَّرِيْقِ: راہ سے ہٹنا۔
عَسْفٌ: ظلم، تشدد۔
عَسَّاف، عَسُوْف: ظالم، متشدد۔
تَعَسُّفِيٌّ: ظالمانہ، تشدد آمیز۔
عَسْكَرَ القَوْمُ: لوگوں کا جمع ہونا۔
عَسْكَرَ الجُنْدُ او الجَيْشُ: فوج کا خیمہ زن ہونا، کیمپ لگانا، قیام کرنا، پڑاؤ ڈالنا، ٹینٹ لگانا۔
عَسْكَر: فوج، لشکر ج: عَسَاكِرُ۔
عَسْكَرِيٌّ: فوجی، ملٹری سپاہی۔
حَاكِمٌ عَسْكَرِيٌّ: ملٹری گورنر۔
حُكْمٌ عَسْكَرِيٌّ: مارشل لاء۔
مَجْلِسٌ عَسْكَرِيٌّ: کورٹ مارشل۔
مُعَسْكَر: کیمپ، بلاک، بارک، فوجی کیمپ ج: مُعَسْكَرَات۔
المُعَسْكَرُ الاشْتِرَاكِيُّ: کمیونسٹ بلاک، کمیونسٹ کیمپ۔
مُعَسْكَرُ اعْتِقَالٍ: نظر بندی کیمپ۔
مُعَسْكَرٌ رَأْسُمَالِيٌّ: سرمایہ دارانہ بلاک۔
مُعَسْكَرُ الشَّرْقِ: مشرقی بلاک۔
مُعَسْكَرٌ شُيُوْعِيٌّ: کمیونسٹ بلاک۔
مُعَسْكَرُ الغَرْبِ: مغربی بلاک۔
مُعَسْكَرُ العَمَلِ الإِلْزَامِيِّ: لیبر کیمپ۔
عَسَلَ الطَّعَامَ ۔ُ عَسْلاً و عَسَّلَهُ: شہد ملانا، میٹھا کرنا۔
عَسَلٌ: شہد۔
شَهْرُ العَسَلِ: ماہِ عروسی۔
عَسَلِيٌّ: شہد کا، شہد جیسا۔
عَسَّال: شہد فروش۔
عَسَّالَة، مَعْسَلَة: شہد کی مکھی کا چھتا، مکھی پالنے کا بکس۔
مَعْسُوْل: شیریں، میٹھا، شہد بھرا۔
كَلَامٌ مَعْسُوْلٌ: میٹھی باتیں۔
لِسَانٌ مَعْسُوْلٌ: شیریں زبان۔
عُسْلُج، عُسْلُوْج: نرم شاخ۔
عَسَى: امید ہے، شاید۔

ع .... ش

عَشِبَ المَكَانُ ۔ُ عَشَابَةً و عَشِبَ عَشَباً و عَشَّبَ: کسی جگہ گھاس اگنا۔
عُشْبٌ: تر گھاس ج: اَعْشَاب۔
عُشْبٌ و عُشْبَةٌ: کوئی خاص گھاس۔
عُشْبِيٌّ: نباتی۔
عَشِبٌ، مُعْشِبٌ: بہت گھاس والا۔
عَشَّاب: جڑی بوٹیوں کا ماہر، نباتات کا ماہر، نباتات کا تاجر (۲) گھاس فروش۔
عَاشِب: گھاس خور جانور ج: عَوَاشِبُ۔
عَشَرَ المَالَ ۔ُ عَشْراً و عُشُوْراً: مال کا دسواں حصہ وصول کرنا۔
عَاشَرَهُ مُعَاشَرَةً: مل جل کر رہنا، کسی کے ساتھ زندگی گزارنا، ہم صحبت ہونا، اختلاط رکھنا۔

اَعْشَرَ القَوْمُ: لوگوں کا دس ہونا۔
اَعْشَرَ العَدَدَ: دس بنانا، دس کر دینا۔
عُشْر: دسواں حصہ ج: اَعْشَار۔
عُشْرِیّ: اعشاری۔
عَشْر و عَشَرة: دس (۱۰)۔
عَشَرَةُ أضْعَافٍ: دس گنا۔
عِشْرُوْن: بیس (۲۰)۔
العِشْرُوْنَ: بیسواں۔
عِشْرَة، مُعَاشَرَة: صحبت، اختلاط، آپس داری۔
عِشْرِیّ: اجتماعیت پسند، اختلاط پسند، ملنسار۔
عَشَّار: عُشر وصول کرنے والا۔
عُشَرَاء: حاملہ چوپایہ۔
عَشِیْر: ساتھی، دوست، رشتہ دار ج: عُشَرَاء۔
عَشِیْرَة: قبیلہ ج: عَشَائِرُ و عَشِیْرَات۔
عَاشِر: دسواں۔
مَعْشَر: جماعت ج: مَعَاشِر۔
مِعْشَار: دسواں حصہ۔
عَشَّشَ و اعْتَشَّ الطَّائِرُ: گھونسلا بنانا، آشیانہ بنانا۔
عُشّ: گھونسلا، آشیانہ ج: اَعْشَاش و عُشُوْش و عِشَشَة و عِشَاش۔
عِشَّة: جھونپڑی۔
عَشِقَ الشَّیْءَ ـَ عِشْقاً: عاشق ہونا، فریفتہ ہونا۔
تَعَشَّقَهُ: معاشقہ کرنا۔
عِشْق: شدتِ محبت، فریفتگی، والہانہ چاہت۔
عَشِیْق، مَعْشُوْق: محبوب۔
عَشِیْقَة: محبوبہ۔
عَشَم: حرص، لالچ (۲) امید۔
عَشَّمَهُ: امید دلانا۔

تَعَشَّمَ: امید کرنا۔
عَشَّی تَعْشِیَةً: رات کا کھانا کھلانا۔
عَشِیَ ـَ عَشاً: رتوندہ ہونا، رات کو نظر نہ آنا، شب کور ہونا (۲) ضعفِ بصر میں مبتلا ہونا۔
عَشِیَ و تَعَشَّی: رات کا کھانا کھانا۔
عَشَاء: رات کا کھانا، ڈنر۔
عَشَاءٌ رَسْمِیٌّ تَكْرِیْماً لِفُلَانٍ: کسی کے اعزاز میں سرکاری ڈنر پارٹی۔
عَشَاءٌ فَاخِر: شاندار ڈنر۔
عَشَاء و عَشَاوَة: شب کوری، ضعفِ بصر۔
عِشَاء، عَشِیَّة: رات کا اول حصہ۔
عَشِیَّةُ اَمْسِ: گزشتہ شام، کل شام۔
عَشْوَاء، عَشْوَة: تاریکی۔
عَشْوَائِیّ: اندھادھند۔
اَعْشَی: شب کور، کمزور نگاہ ج: عُشْوٌ۔

ع .... ص

عَصَبَ ـِ عَصْباً: لپیٹنا، موڑنا۔
عَصَبَ و عَصَّبَ: پٹی باندھنا (متعدی)۔
تَعَصَّبَ: پٹی باندھ لینا (لازم)۔
تَعَصَّبَ لَهُ و مَعَهُ: طرفدار ہونا، طرفداری کرنا۔
تَعَصَّبَ علیه: کسی کے خلاف تعصب برتنا۔
تَعَصَّبَ فِی مَذْهَبِهِ: مسلک اور عقیدے میں متشدد ہونا۔
تَعَصَّبَ و اعْتَصَبَ القَوْمُ: جماعت بن جانا۔
تَعَصَّبَ و اعْتَصَبَ العُمَّالُ: لیبر کا

اسٹرائک کرنا۔
عَصَبٌ: (۱) پٹھا (۲) دھاگا ج: أعْصَابٌ۔
عَصَبُ الحيَاةِ الاقْتِصَادِيَّة: اقتصادی زندگی کی شہ رگ۔
الاَعْصَابُ المُتَوَتِّرَة: شکستہ اعصاب، تنے ہوئے اعصاب۔
الاَعْصَابُ المُرْهَقَة: تھکے ہوئے اعصاب۔
عَصَبِيّ: اعصابی، منفعل المزاج، زودرنج۔
عُصْبَة، عِصَابَة: جماعت، لیگ، ٹولی، گروہ ج: عُصَبٌ و عِصَابَات۔
عُصْبَة، عِصَابَة، عِصَاب: پٹی، بینڈ تج۔
عُصْبَةُ الاُمَم: انجمنِ اقوام۔
عُصْبَةٌ إسْلَامِيَّة: مسلم لیگ۔
عِصَابَةُ الإجْرَام: جرائم پیشہ ٹولی، گروہ۔
عِصَابَةٌ حَاكِمَة: برسرِ اقتدار ٹولی۔
حَرْبُ العِصَابَات: گوریلا جنگ۔
يَوْمٌ عَصِيبٌ: انتہائی گرم دن۔
وَقْتٌ عَصِيب: پُر آشوب زمانہ، ہنگاموں کا دور۔
عَصَبِيَّة، تَعَصُّب: گروہ بندی، مذہبی طرفداری، دینی غیرت وحمیت۔
عَصَبِيَّة: (۲) قرابت، رشتہ داری۔
عَصَبِيَّةٌ عُنْصُرِيَّة: نسلی تعصب۔
العَصَبِيَّة: غصہ، اشتعال، منفعل المزاجی۔
مُعَصَّبٌ، مَعْصُوب: پٹی بندھا ہوا۔
مُتَعَصِّب: غیرت مند، باحمیت (۲) جماعتی طرفداری کرنے والا۔
مُتَعَصِّبٌ لِمَذْهَب: مسلک میں متشدد (۲) کٹر مذہبی۔
عَصَدَ ـِ عَصْداً: موڑنا، لپیٹنا۔
عَصِيدَة: دلیا، حریرہ۔
عَصَرَ ـِ عَصْراً: نچوڑنا، عرق نکالنا، زخم دبا کر اس کا مواد نکالنا۔
عَصَرَ الغَسِيلَ: کپڑے کو نچوڑنا۔
عَصَرَ الحُبُوبَ: تیل نکالنا۔
عَاصَرَ فُلاناً مُعَاصَرَةً: ہم عصر ہونا۔
تَعَصَّرَ، اِنْعَصَر: نچڑنا۔
تَعَصَّرَ: (۲) عصری ہونا، ماڈرن ہونا، ماڈرن بننا۔
عَصَّرَ الشئَ تَعْصِيراً: ماڈرن بنانا، موجودہ دور کے مطابق بنانا۔
عَصْرٌ: سہ پہر۔
عَصْرٌ و عُصْر: زمانہ، دور، وقت، ڈیٹ ج: عُصُور۔
عَصْرُ الذَّرَّة: ایٹمی دور۔
العُصُورُ المُظْلِمَة: تاریک ادوار۔
عَصْرِيّ: جدید، نیا، ماڈرن، موجودہ، نئے دور کا، آج کل کا، اپ ٹو ڈیٹ۔
عُصَارَة، عَصِير، عَصِيرَة: رس، عرق، جوس (۲) نچوڑ، خلاصہ۔
عَصِيرُ الوَرْد: آبِ گل۔
عَصَّارَة، مِعْصَرَة: نچوڑنے یا تیل نکالنے کا آلہ، کپڑا نچوڑنے کی مشین، جوس نکالنے کی مشین، لیموں نچوڑنے کی مشین۔
عَصَّارَةٌ و مِعْصَرَةُ الزُّيُوت: آئل مل۔
عَصَّارَةٌ و مِعْصَرَةُ البُرْتقال و اللَّيْمُون و اَمْثَالِهِمَا: پھلوں سے عرق نکالنے کا

آلہ۔
عَصَّارَةٌ و مِعْصَرَةُ قَصَبِ السُّكَّر: کولھو۔
اِعْصَارٌ: جھونکا، بگولا، طوفان ج: اَعَاصِیْرُ۔
مُعَاصَرَة: ہم عصری۔
مُعَاصِر: ہم عصر، موجودہ، دورِ حاضر کا۔
عُصَصٌ: دُم کی جڑ۔
عَصَّ ـَ عَصّاً: سخت ہونا۔
عُصْعُص: دُم کی ہڈی ج: عَصَاعِصُ۔
عَصْعَصَة: سخت ہونا۔
عَصَفَتِ الرِّيْحُ ـِ عَصْفاً: ہوا کا تیز چلنا، طوفان آنا، آندھی چلنا۔
عَصَفَ بِهِ الغَضَبُ: آگ بگولا ہونا۔
عَصَفَتِ المِحْنَةُ بِكَذَا: آزمائش کا طوفان آنا۔
عَصْفَة: ہوا کا ایک جھونکا۔
عُصَافَة: تنکا۔
عَاصِف: طوفانی، طوفان خیز۔
عَاصِفَة: آندھی، طوفان ج: عَوَاصِفُ۔
عَاصِفَةٌ رَعْدِيَّة: طوفانِ بادوباراں، طوفانِ برق وباد۔
عَاصِفَةٌ شَعْبِيَّة: عوامی طوفان۔
عَاصِفَةٌ هَوْجَاءُ: سخت آندھی۔
عُصْفُوْر: چڑیا ج: عَصَافِيْرُ۔
عَصَمَ ـِ عَصْماً: روکنا، باز رکھنا، بچانا، حفاظت کرنا۔
عَصَمَ و اَعْصَمَ: باندھنا۔
اِعْتَصَمَ و اسْتَعْصَمَ بِهِ: پناہ لینا، دامن تھامنا، ساتھ لگ جانا۔
اِعْتَصَمَ و اسْتَعْصَمَ بِالصَّبْرِ: صبر سے کام لینا۔

اِعْتَصَمَ و اسْتَعْصَمَ بِالصَّمْتِ: سکوت اختیار کرنا۔
عَصْمٌ، عِصْمَة: حفاظت، بچاؤ۔
عِصْمَة: پاکدامنی، معصومیت، بے گناہی۔
صَاحِبَةُ العِصْمَة: معزز خاتون کے لئے بطور لقب استعمال ہوتا ہے (۲) بے گناہ، بے خطا (۳) پاکدامن۔
اِمْرَأَةٌ فِي عِصْمَةِ رَجُلٍ: شادی شدہ۔
فِيْ عِصْمَةِ فُلَان: (۱) فلاں کے نکاح میں (۲) فلاں کی حفاظت میں۔
عُصْمَة: گلے کی مالا، ہار ج: عُصَم۔
عِصَام: رسی، ڈوری، تسمہ، پیٹی ج: اَعْصِمَة۔
عَاصِمَة: پایۂ تخت، دارالحکومت، راجدھانی، ج: عواصم۔
مِعْصَمٌ: کلائی ج: مَعَاصِمُ۔
سَاعَةُ المِعْصَم: ہاتھ کی گھڑی۔
مَعْصُوْم: بے گناہ، محفوظ۔
عَصَا ـُ عَصْواً: لاٹھی مارنا۔
عَصَا: لاٹھی، ڈنڈا، چھڑی ج: عِصِيٌّ۔
العَصَا السِّحْرِيَّة: جادو کی چھڑی۔
شَقَّ عَصَا الطَّاعَة: مخالفت کرنا، اپنی جماعت سے نکل کر اس کی مخالفت کرنا۔
اَلْقَى عَصَا التَّرْحَال: قیام کرنا۔
اِنْشَقَّتْ عَصَاهُمْ: پھوٹ پڑنا۔
عَصٰى ـِ عِصْيَاناً و مَعْصِيَةً: نافرمانی کرنا۔
عَصٰى و عَاصٰى و اسْتَعْصٰى عليه: بغاوت کرنا، سرکشی کرنا، کسی کے خلاف سر اٹھانا۔
اِسْتَعْصٰى و تَعَصّٰى الاَمْرُ: دشوار ہونا۔
اِسْتَعْصَى المَرَضُ: بیماری کا خطرناک

ہونا، لاعلاج ہونا۔

عِصْيَان ، مَعْصِيَة: نافرمانی، سرکشی، خطا کاری، گنہگاری، حکم عدولی۔

العِصْيَانُ المَدَنِيّ: سول نافرمانی۔

عِصْيَانٌ مُسَلَّحٌ: مسلح بغاوت۔

عَاصٍ: گنہگار، نافرمان، سرکش ج: عُصَاة۔

مُتَعَصٍّ ، مُسْتَعْصٍ: دشوار، لاعلاج۔

ع .... ض

عَضَدَ ـُ عَضْداً و عَاضَدَه: مدد کرنا، طاقت بہم پہنچانا، پشت پناہی کرنا۔

تَعَاضَدُوا: باہم مدد کرنا۔

تَعَاضُد و تَكَاتُف: اتحاد۔

عَضْدٌ ، تَعْضِيد: پشت پناہی، معاونت، مدد۔

تَعْضِيدُ التَّعَايُش: بقائے باہم کو مضبوط بنانا۔

عَضُدٌ ، مُعَضِّد: مددگار، پشت پناہ۔

عَضُد: بازو، بانہہ، کہنی سے مونڈھے تک کا حصہ ج: اَعْضَاد ، اَعْضُد۔

عَضَّضَ تَعْضِيضاً: زور سے کاٹنا (دانتوں سے کاٹنا)۔

عَضَّضَ عَلَى اللِّجَام: لگام کو دانتوں سے چبانا۔

عَضَّ ـَ عَضّاً: دانتوں سے کاٹنا، دانت مارنا، منہ مارنا۔

عَضَّ الشَّيْءَ: پکڑنا، تھامنا۔

عَضَّة: ایک دفعہ کا کاٹنا۔

عَضَّاض ، عَضُوض: کٹکھنا۔

مَعْضُوض: دانت لگایا ہوا، کاٹ کھایا ہوا۔

عَضِلَ ـَ عَضَلاً: موٹی پنڈلیوں والا ہونا۔

اَعْضَلَ الاَمْرُ إعْضَالاً: دشوار ہونا۔

أعْضَلَ و عَضَّلَ و تَعَضَّلَ الدَّاءُ الأَطِبَّاءَ: بیماری کا اطبا کو عاجز بنا دینا۔

عَضِلٌ: موٹی پنڈلیوں والا۔

عَضَلَة: پٹھا ج: عَضَلات و عَضَل۔

عَضَلِيّ: پٹھوں سے متعلق (۲) مضبوط۔

عُضَالٌ: لاعلاج بیماری۔

مُعْضِلٌ: دشوار، پریشان کن۔

مُعْضِلَة: مشکل، دشواری، پرابلم۔

عُضْوٌ: ممبر، رکن (۲) جسم کا ایک جوڑ ج: اَعْضَاءٌ۔

عُضْوٌ عَامِل: فعال ممبر۔

عُضْوٌ فَخْرِيّ: اعزازی ممبر، آنریری ممبر۔

عُضْوٌ فی الاُمَمِ المُتَّحِدَة: اقوامِ متحدہ کا ممبر۔

عُضْوٌ فی نِقَابَة: کارپوریٹر۔

عُضْوُ مَجْلِسٍ: ممبر کونسل، کونسلر۔

عُضْوُ مَجْلِسِ الاِدَارَةِ المُنْتَدَبُ: مینیجنگ ڈائریکٹر۔

العُضْوُ المُحْتَرَم: آنریبل ممبر۔

عُضْوُ مَجْلِسِ النُّوَّاب: ممبر پارلیمینٹ۔

عُضْوٌ مُرَاقِب: مشاہد ممبر۔

اَعْضَاء و عُضْو: ممبران، ارکان۔

اَعْضَاءُ لَجْنَةِ الاِسْتِقْبَال: ارکان استقبالیہ۔

اَعْضَاءٌ مُنْتَسِبُون: شریک ممبران۔

اَعْضَاءٌ مُنْضَمُّونَ لِلْجَمْعِيَّة: اسمبلی میں شامل ممبران، اسمبلی کے ممبران۔

اَعْضَاءُ لَجْنَةِ التَّحْلِيف: ممبرانِ

جیوری۔
اَعضَاءُ الوِزَارَة: منسٹری، وزارت کے ارکان۔
اَعضَاءُ الوَفد: ارکانِ وفد۔
عُضوِيَّة: ممبری، رُکنیت۔
عُضوِيَّةُ شَرَفٍ: اعزازی ممبر۔
عُضوِيَّةُ فَخرِيَّة: اعزازی ممبری۔
عُضوِيَّةٌ فَعَّالَة: موثر ممبری۔
العُضوِيَّةُ فی الاُمَمِ المُتَّحِدَه: اقوامِ متحدہ کی ممبری۔

ع............ط

عَطاء (در: عطو)۔
عَطِبَ ـَ عَطَباً و اعتَطَبَ: ہلاک ہونا، ضائع ہونا، خراب ہونا، بگڑنا، بے کار ہونا۔
عَطَبَ ـِ عَطباً و اَعطَبَهُ: ہلاک کرنا، ضائع کرنا، خراب کرنا، بگاڑنا۔
عَطَبٌ: ہلاکت، بگاڑ، خرابی۔
عَطَبٌ ظَاهِرٌ: ظاہری بگاڑ۔
سَرِيعُ العَطَب: جلد خراب ہونے والا۔
اَعطَابٌ بَشَرِيَّة: جانی نقصانات۔
عَطَّرَ تَعطِيراً: خوشبودار بنانا، مہکانا۔
عَطِرَ ـَ عَطَراً و تَعَطَّرَ: خوشبودار ہونا، معطر ہونا (۲) خوشبو لگانا۔
تَعَطَّرَتِ البِنتُ: لڑکی کا شادی نہ کرنا۔
عِطرٌ: خوشبو (۲) روح، خلاصہ، ست ج: عُطُور۔
عِطرٌ رَائِج: چالو عطر۔
عِطرٌ جذّاب: پسندیدہ عطر۔
عِطرٌ برائحةٍ ذَكِيَّة: بہترین خوشبو والا عطر۔
العِطرُ ذُو المُستَوَى الرَّفِيع: اعلیٰ معیار کا عطر۔
عَطِرٌ، عِطرِيّ: خوشبودار۔
عَطَّار: عطر فروش، پرفیومر (۲) دوافروش، جڑی بوٹی بیچنے والا۔
عِطَارَة: عطریات، خوشبوئیں، جڑی بوٹیاں (۲) عطر سازی، عطر فروشی، عطاری۔
مُعَطَّر: خوشبودار۔
عَطَسَ ـُ عَطساً و عُطَاساً: چھینکنا، چھینک آنا۔
عَطسٌ و عُطَاسٌ: چھینک۔
عَاطُوس: ناس، ہلاس۔
عَطِشَ ـَ عَطَشاً: پیاسا ہونا، پیاس لگنا۔
عَطِشَ إلَيه: مشتاق ہونا۔
عَطَّشَ تَعطِيشاً: پیاسا بنانا۔
عَطَشٌ: پیاس۔
عَطِشٌ، عَطشَانٌ، عَاطِش: (۱) پیاسا (۲) مشتاق۔
عَطَفَ إلَيه ـِ عَطفاً و عُطُوفاً: مائل ہونا۔
عَطَفَ كَلِمَةً عَلَى اُخرَى: ایک کلمہ کا دوسرے پر عطف کرنا۔
عَطَفَ عَنه: ہٹنا، اعراض کرنا۔
عَطَفَ الشيَّ: جھکانا۔
عَطَفَ و عَطَّفَ: موڑنا۔
عَطَفَ و تَعَطَّفَ علی: شفقت کرنا، ہمدردی کرنا۔
اِعتَطَفَ و تَعَطَّفَ: کوٹ پہننا۔
اِستَعطَفَه: رحم کی درخواست کرنا،

رضامند کرنا۔
عَطْفٌ: جھکاؤ، میلان (۲) مڑاؤ (۳) رحم، شفقت، مہربانی، ہمدردی۔
عَطْفَة، مُنعَطِف: گلی، موڑ مُنعَطِفَات۔
عِطَاف: کوٹ ج: عُطُف و اَعْطِفَة۔
عَاطِف: ملانے والا۔
عَاطِف، عَطُوف: مہربان، مشفق۔
عَاطِفَة: جذبہ ج: عَوَاطِفُ۔
عَاطِفَةٌ ثَارِيَّة: انتقامی جذبہ۔
عَاطِفَةٌ صَادِقَة: بجاجذہ، سچا جذبہ۔
عَاطِفِيّ: جذباتی۔
عَاطِفِيَّة: جذباتیت۔
عَوَاطِفِيٌّ: جذباتی۔
اِنعِطَاف: موڑ ج: اِنعِطَافَات۔
تَعَاطُفٌ مَعَ اَحَدٍ: ہمدردی، اظہار ہمدردی۔
مِعْطَف: کوٹ ج: مَعَاطِفُ۔
مِعْطَفٌ وَاقٍ مِنَ المَطَر: واٹر پروف کوٹ۔
مُتَعَاطِفٌ مَعَ: ہمدرد۔
عَطِلَ ـــ عَطَلاً و عُطُلاً من كذا: خالی ہونا۔
عَطَّلَ تَعْطِيلاً: (۱) زیور اُتارنا (۲) بیکار کرنا، بے کار بنا دینا، معطل کرنا، کام بند کرنا، کام میں رکاوٹ ڈالنا، روکنا، مانع ہونا۔
عَطَّلَ الشيئَ: بیکار بنا کر ڈالنا۔
عَطَّلَ المَجْلِسَ: میٹنگ ملتوی کرنا۔
عَطَّلَ الآلَةَ: مشین کو بے کار کر دینا۔
عَطَّلَ الجَرِيدَةَ أو الصَّحِيفَةَ: اخبار بند کرنا۔
عَطَّلَ الطَّابَعَ البَرِيدِيَّ: ڈاک ٹکٹ کینسل کرنا۔
عَطَّلَ القُدُرَاتِ: صلاحیتوں کو بیکار کرنا۔
تَعَطَّلَ: بے کار ہو جانا، بے مشغلہ ہونا، کام بند ہونا، رکاوٹ پڑنا۔
تَعَطَّلَتِ المَدْرَسَةُ: اسکول کی چھٹی ہونا۔
تَعَطَّلَتِ الجَرِيدَةُ: اخبار بند ہونا۔
تَعَطَّلَتْ مَاكِينَةُ الطَّائِرَةِ: ہوائی جہاز کی مشین کا فیل ہو جانا۔
تَعَطَّلَتِ المَصَالِحُ: مفادات کا ختم ہونا۔
عُطُلٌ مِنْ كذا: خالی۔
التَّعْوِيضُ عَنِ العُطْلِ و الضَّرَر: حرجانہ، معاوضہ نقصان۔
عُطْلَة: (۱) چھٹی، تعطیل (۲) خالی وقت (۳) بے کاری۔
العَطَالَة: بے روزگاری، بے کاری۔
عَاطِلٌ: (۱) بے کار، بے مشغلہ (۲) خالی۔
تَعْطِيل: التواء، رکاوٹ، تعویق، بے کاری۔
مُعَطِّلات: رکاوٹیں۔
مُعَطَّل: مفلوج، بے کار، بے روزگار، آف (OFF)، بے مشغلہ، معرض التواء میں۔
المُتَعَطِّلُون: بے روزگار۔
مِعْطَال، عَوَاطِلِيّ: نکما، بے کار، بے کار رہنے کا عادی، آوارہ گرد، لوفر۔
(عطو) عَطَا ـُ عَطْواً: لینا۔

اَعْطَاهُ الشيَّ اِعْطَاءً: دینا۔
اَعْطَى مِثَالاً: مثال پیش کرنا۔
اِعْطَاءُ اِشَارَةٍ: سگنل دینا۔
اِعْطَاءُ اِنْطِبَاعٍ خَاطِئٍ عن كذا: غلط تاثر دینا۔
اِعْـطَـاءُ أَهَـمِّيَةٍ قُـصْـوَى لِشَـيْءٍ: زبردست اہمیت دینا۔
اِعْطَاءُ التَّعْلِيمَاتِ له بكذا: کسی کو ہدایات دینا۔
اِعْطَاءُ التَّفَاصِيلِ عَنِ الْمَوْضُوعِ: معاملہ کی تفصیلات بتانا۔
اِعْطَاءُ السُّلْطَةِ: اختیار دینا۔
اِعْطَاءُ الشَّيِ مُؤَشِراً على كذا: پتہ دینا۔
اِعْطَاءُ الصُّورَةِ عَنْ شَيْ: تصور دینا، خاکہ بتانا۔
اِعْطَاءُ الصُّورَةِ السَّوْدَاءِ عَنْ شيٍ: کسی شے کی خراب تصویر کھینچنا، بھونڈی شکل میں پیش کرنا۔
اِعْطَاءُ الفُرْصَةِ: موقع دینا۔
اِعْطَاءُ الكَلِمَةِ لاَحَدٍ: کسی کو بولنے کا موقع دینا۔
اِعْطَاءُ الشَّيِ أَوَّلِيَّةً أَوْلَى: فوقیت دینا، اولیت دینا۔
اِعْطَاءُ الـمَعْلُومَاتِ عن كذا: معلومات فراہم کرنا۔
اِعْطَاءُ المُوَافَقَةِ عَلَى كَذَا: منظوری دینا۔
تَعَاطَى: (۱) لینا (۲) استعمال کرنا۔
تَعَاطَى الاَمْرَ: انجام دینا۔

تَعَاطَى الصِّنَاعَةَ: پریکٹس کرنا۔
تَعَطَّى و اسْتَعْطَى: بھیک مانگنا۔
عَطَاء، عَطِيَّة: (۱) عطیہ (۲) پیش کش ج: عَطَاءات و عَطَايَا۔
عَطَاء: (۲) ٹینڈر ج: عَطَاءات۔
عَطَاء: (۳) کارکردگی۔
عَطَاءٌ خَيْرِيّ: خیراتی عطیہ۔
عَطَاءٌ مُلْصَقٌ عَلَيْهِ الطَّوَابِعِ: ٹکٹ لگا ہوا ٹینڈر۔
مُقَدِّمُ العَطَاء: ٹینڈر دینے والا۔
صُنْدُوقُ العَطَايَا: چندہ بکس۔
اِسْتِعْطَاء: بھیک۔
مُعْطٍ: دینے والا۔
مُسْتَعْطٍ: بھکاری۔
مُعْطَيَات: نتائج، دین، حقائق، معلومات۔

ع............ظ

عَظُمَ ـُـ عِظَماً و عَظَامَةً: بڑا ہونا، شاندار ہونا۔
عَظَّمَ تَعْظِيماً: بڑا بنانا، بڑا سمجھنا، بڑا درجہ دینا، بڑھانا، اعزاز کرنا، تعظیم واحترام کرنا۔
تَعَظَّمَ، تَعَاظَمَ، اِسْتَعْظَمَ: بڑا ہونا، بڑا بننا۔
تَعَاظُمُ الاَمْرِ: معاملہ سنگین ہونا، اہم ہونا۔
تَعَاظُمُ التَكَالِيف: اخراجات بڑھنا۔
تَعَاظُمُ مُقَاوَمَةِ القُوَى الوَطَنِيَّةِ: ملکی طاقتوں کی مزاحمت بڑھنا۔
تَعَاظُمُ النُّفُوذِ: اثرورسوخ بڑھنا۔
اِسْتَعْظَمَ الاَمْرَ: بڑا سمجھنا، اہم سمجھنا۔

عَظْمٌ: ہڈی ج: عِظَام۔
عَظْمِيّ: ہڈی کا۔
هَيْكَلٌ عَظْمِيٌّ: ہڈیوں کا ڈھانچہ۔
عِظَم ، عُظْم: بڑائی، اہمیت۔
عَظَمَة: بڑائی، شان۔
العَظَمَةُ الكَاذِبَة: بناوٹی شان۔
صَاحِبُ العَظَمَة: ہز مجسٹی، بادشاہ کا لقب۔
عَظْمَة: ہڈی کا ٹکڑا۔
عُظَامَة ، إعْظَامَة: مصنوعی سرین۔
عَظِيم: بڑا، زبردست، پُرشوکت، اہم، عظیم الشان۔
عَظِيمُ النَّفْسِ و الأَخْلَاق: عالی ظرف و بلند اخلاق۔
عَظِيمَة: مصیبت، مشکل کام، آفت ج: عَظَائِمُ۔
مُعْظَم: اکثر، بیشتر، زیادہ تر (۲) غایت۔
مُعَظَّم: قابلِ تعظیم۔
مُتَعَظِّم: متکبر، بڑا۔

ع .... ف

عَفَرَ ـِ عَفْراً: خاک آلود ہونا۔
عَفَّرَهُ فِي التُّرَاب تَعْفِيراً: مٹی میں ملانا، خاک آلود کرنا، مٹی ملنا۔
عَفَر ، عُفَار: مٹی، خاک، غبار۔
عَفَّارَةُ المَسَاحِيق: پاؤڈر ڈسٹر۔
أَعْفَر: گندمی رنگ، بھورے رنگ کا۔
عِفْرِيت: شیطان، جن، بھوت، آسیب (۲) مکار، چالاک ترین ج: عَفَارِيت۔
عَلَيْهِ عِفْرِيتٌ: آسیب زدہ۔
عِفْرِيَتَة رَفْع: لفٹنگ جیک، موٹر وغیرہ کے پہیے صاف کرنے یا ٹائر چڑھانے کے لئے گاڑی کو اوپر اٹھانے کا آلہ۔
عَفْرَتَة: شیطنت، چالاکی، مکاری۔
تَعَفْرَتَ: شیطان بننا۔
عَفَشَ ـِ عَفْشاً: جمع کرنا۔
عَفْش ، عُفَاشَة: بے فیض چیز۔
عَفْشُ المُسَافِر: مسافر کا سامان۔
عَفْشُ المَنْزِل: فرنیچر، گھر کا سامان۔
العَفْشُ الزَّائِدُ عَلَى المُصَرَّحِ بِه: اجازت شدہ سے زیادہ سامان۔
العَفْشُ المَسْمُوحُ بِه على تَذْكِرَةِ السَّفَر: ایک ٹکٹ سے جس سامان کے لے جانے کی اجازت ہو۔
العَفْشُ المَسْمُوحُ بِه مَجَاناً على التَّذْكِرَة: ایک ٹکٹ پر مفت لے جایا جانے والا سامان۔
عَفْشُ يَد: ہاتھ کا سامان۔
عَفَصَه ـِ عَفْصاً: اکھاڑنا، موڑنا۔
عَفَصَ القَارُورَةَ: بوتل وغیرہ پر غلاف چڑھانا۔
عِفَاصُ الزُّجَاجَة: بوتل کا غلاف۔
عُفُوصَة: تلخی۔
عَفَّ ـِ عَفّاً و عِفَّةً و عَفَافاً: ناجائز اور حرام چیز سے بچنا (۲) پاکدامن ہونا۔
عِفَّة ، عَفَاف: پاکدامنی، براءت۔
عَفّ ، عَفِيف: پاکدامن، پاک، بری ج: عُفُون و أَعِفَّة۔
عَفِنَ ـَ عَفَناً و عُفُونَةً و عَفَّنَ و تَعَفَّنَ: سڑنا، فاسد ہونا، پھپھوندی لگنا، غلہ یا کھانا

خراب ہونا۔
عَفَنٌ ، عُفُونَة: خرابی، پھپھوندی، بُو، تعفن۔
عَفِنٌ ، مُعَفَّن ، مُتَعَفِّن: خراب، فاسد، پھپھوندی لگا ہوا۔
عَفَا ـُ عَفواً: مٹانا۔
عَفَا عَنه: معاف کرنا، درگزر کرنا۔
عَفْوٌ: کرم، معافی، مہربانی۔
عَفْوٌ عَنِ الجَرَائِمِ السِيَاسِيَّة: سیاسی جرائم کی معافی۔
عَفْوٌ عَنِ المُجْرِمِيْنَ: مجرمین کی معافی۔
عَفْواً: معاف کیجئے (۲) خود بخود۔
عَفَاء: مٹی۔
عَافَاهُ و أعْفَاهُ: صحت عطا کرنا، شفا دینا، برائی دور کرنا، خیریت سے رکھنا۔
أعْفَى الشَعْرَ: بال چھوڑنا، بڑھانا۔
أعْفَى مِنْ: سبکدوش کرنا۔
تَعَافَى من: شفایاب ہونا۔
اِسْتَعْفَاهُ: معافی طلب کرنا۔
اِسْتَعْفَى مِنْ وَظِيْفَتِه: استعفا دینا، سبکدوشی چاہنا۔
عَفِيٌّ: طاقتور (دا)۔
عَافٍ ، مُعْتَفٍ: مٹا ہوا۔
عَافِيَة: صحتِ کاملہ (۲) طاقت (دا)۔
إعْفَاءٌ مِنْ: مستثنیٰ کرنا، سبکدوش کرنا (۲) سبکدوشی، برطرفی، استثناء۔
إعْفَاءٌ مِنَ القَضَاءِ المَدَنِيِّ: قانونی داد رسی سے استثناء۔
الاعْفَاءُ مِنَ الضَّرِيْبَة: ٹیکس معاف کرنا۔

الاِعْفَاءُ مِنَ العُضْوِيَّة: ممبری ختم کرنا۔
الاِعْفَاءُ مِنَ الرُّسُوْم: ڈیوٹی چھوڑ دینا، محصول معاف کرنا۔
الاِعْفَاءُ مِنَ الغَرَامَةِ المَالِيَة: جرمانہ ختم کرنا۔
الاِعْفَاءُ مِنَ المَسْئُولِيَّة: ذمہ داری سے سبکدوش کرنا۔
مُعْفًى مِنَ الرُّسُوْم: محصول معاف، ڈیوٹی سے مستثنیٰ۔
مُعْفًى مِنَ الضَّرِيْبَة: ٹیکس معاف، ٹیکس سے مستثنیٰ، ٹیکس فری۔

ع .... ق

عَقَبَهُ ـُ عَقْباً و اَعْقَبَه: پیچھے ہونا، بعد میں آنا، پیچھے آنا۔
أعْقَبَ الأمْرُ: کسی کام کا انجام بہتر ہونا۔
أعْقَبَ الشيُّ كذا: نتیجہ نکلنا، نتیجہ دینا۔
عَقَّبَ عَلَيْه تَعْقِيباً: گرفت کرنا، کسی کے نقائص واغلاط بیان کرنا۔
عَقَّبَ عَلَى الحَدِيْث: تبصرہ کرنا، رائے زنی کرنا، نکتہ چینی کرنا۔
عَقَّبَ عَلَى الجَرِيْدَة: اخبار پر تبصرہ کرنا۔
عَاقَبَه مُعَاقَبَةً: سزا دینا۔
عَاقَبُوا أمْراً: باری باری کرنا۔
تَعَقَّبَ لَهُ: تلاش وجستجو کرنا، پیچھا کرنا، تعاقب کرنا، درپے ہونا۔
تَعَاقُبٌ: پے درپے ہونا، لگاتار ہونا۔
تَعَاقُبُ الاِنْتِعَاشِ و الاِنْكِمَاش: اُتار چڑھاؤ ہونا۔

عَقَبَ: تابع (۲) لاحق (۳) ماتحت۔
عَقُبٌ، عَقِبٌ: ایڑی (۲) بچہ، پوتا ج: أَعْقَاب۔
رَجَعَ عَلَى عَقِبِه: الٹے پاؤں ہٹا، فوراً واپس ہوا۔
رَأْساً عَلَى عَقِبٍ: اوندھا، الٹا۔
عُقْب، عُقْبَى، عَاقِبَة: انجام، نتیجہ۔
عُقْبُ السِّيجَارَة: سگریٹ کا بجھا ہوا ٹکڑا۔
عُقْبُ قَلَمِ الرَّصَاص: پنسل کا ٹکڑا۔
عَقَبَة: گھاٹی، پہاڑی راستہ (۲) رکاوٹ، دشواری ج: عَقَبَات و عِقَاب۔
عَقَبَةٌ رَئِيسِيَّة: بڑی رکاوٹ۔
عُقَاب: ایک پرندہ ج: عُقْبَان۔
عِقَاب، عُقُوبَة ج: عُقُوبَات: سزا، پنالٹی۔
عِقَابٌ رَادِع: عبرتناک سزا۔
عُقُوبَةُ الإِعْدَام: پھانسی کی سزا، سزائے موت۔
عُقُوبَةٌ بَدَنِيَّة: جسمانی سزا۔
عُقُوبَاتٌ جِنَائِيَّة: فوجداری سزائیں۔
عُقُوبَاتٌ مَالِيَّة: مالی سزائیں۔
قَانُونُ الْعُقُوبَات: قانونِ تعزیرات۔
عَقِيبٌ: اگلا، بعد میں آنے والا۔
فِي أَعْقَابِ شَيْءٍ: نتیجہ میں، آخر میں۔
فِي أَعْقَابِ الْهَزِيمَة: شکست کے بعد۔
هُوَ فِي أَعْقَابِه: وہ اس کے اخیر میں ہے۔
عَوَاقِبُ: نتائج و: عَاقِبَة۔
عَوَاقِبُ الْحَرْب: جنگی نتائج۔
عَوَاقِبُ وَخِيمَة: خراب نتائج۔
تَعَقُّب: تلاش، پیچھا، تعاقب، جستجو۔
بِالتَّعَاقُب: مسلسل، برابر، لگاتار۔
مُعَاقِب: (۱) سزا دینے والا (۲) نمبر پر کام کرنے والا (۳) بعد میں آنے والا۔
مُتَعَاقِب: مسلسل۔
مُتَعَاقِباً: آگے پیچھے۔
الْمُعَقِّبُون: تبصرہ نگاران۔
عَقَدَ۔ عَقْداً: گرہ لگانا۔
عَقَدَ الْبَيْعَ و الْعَهْدَ: بیع کا معاملہ کرنا، معاہدہ کرنا۔
عَقَدَ الصَّفْقَةَ مَعَ أَحَدٍ: تجارتی معاملہ کرنا، سودا کرنا۔
عَقَدَ النِّيَّةَ و الْعَزْمَ عَلَى: پختہ ارادہ کرنا۔
عَقَدَ عَلَى الْمَرْأَة: شادی کرنا۔
عَقَدَ فَصْلاً: (کتاب میں) فصل قائم کرنا۔
عَقَدَ الْبِنَاءَ: عمارت میں ڈاٹ لگانا۔
عَقَدَ لِسَانَه: زبان بند کرنا۔
عَقَدَ بِهِ الأَمَلَ: آس لگانا، امید وابستہ کرنا۔
عَقَدَ النَّدْوَةَ: سیمینار کرنا۔
عَقَدَ النَّدَوَاتِ مَعَ: کسی کے ساتھ مشورے کرنا۔
عَقَدَ جَلْسَةً: میٹنگ کرنا۔
عَقَدَ اِجْتِمَاعاً: اجلاس کرنا۔
عَقَدَ الاِجْتِمَاعَ مَعَ أَحَدٍ: ملاقات کرنا۔
عَقَدَ اِجْتِمَاعاً بَيْنَ فُلَانٍ و فُلَانٍ: دو شخصوں کی ملاقات کرانا۔
عَقَدَ الاِجْتِمَاعَ فِي مَكَانٍ: میٹنگ کرنا۔
عَقَدَ اِتِّفَاقاً أَوْ اِتِّفَاقِيَّةً: معاہدہ کرنا، کنٹریکٹ

کرنا۔
عَقَدَ تَأمِیناً عَلَی الحَیَاةِ: زندگی کا بیمہ کرانا۔
عَقَدَ المُبَاحَثَاتِ: انٹرویو لینا، بات چیت کرنا۔
عَقَدَ المُفَاوَضَاتِ: بات چیت کرنا۔
عَقَدَ مُؤتَمَراً صَحَفِیّاً: پریس کانفرنس بُلانا۔
عَقَدَ و عَقَّدَ الخَیطَ: گرہ لگانا۔
عَقَّدَ تَعقِیداً: اُلجھانا، پیچیدہ بنانا۔
عَقَّدَ الکَلَامَ: مغلق بنانا، نا قابل فہم بنانا۔
عَقَّدَ الطَّبِیخَ: سالن وغیرہ کا پانی خشک کرنا۔
تَعَقَّدَ و انعَقَدَ الشَّرَابُ و اللَّبَنُ: خشک ہونا، گاڑھا ہونا (۲) بندھ جانا، ٹھہر جانا (۳) قائم ہونا۔
اِنعَقَدَ الاِجتِمَاعُ: اجلاس ہونا۔
اِنعَقَدَ المُؤتَمَرُ: کانفرنس ہونا۔
تَعَاقَدَ مَعَهُ: معاہدہ کرنا۔
تَعَاقَدَ عَلَی الصَّفقَةِ: سودا کرنا۔
اِعتَقَدَهُ: تصدیق کرنا، ماننا، سچا جاننا۔
اَعتَقِدُ کَذَا: میرا ایسا خیال ہے، مجھے یقین ہے۔
عَقدٌ: بندش، گرہ (۲) معاہدہ، ایگریمنٹ (۳) رسید و دستاویز (۴) حلقہ ج: عُقُود۔
___ مِنَ السِّنِینَ: دہائی، دس سال۔
___ مِن بِنَاءٍ: ڈاٹ۔
___ نِصفُ دَائِرِیّ: نصف دائرہ نما ڈاٹ۔
___ مُستَقِیمٌ: سیدھی ڈاٹ۔
___ مَخمُوسٌ: پنج گوشہ ڈاٹ۔
___ اِیجَارٍ: کرایہ داری کا معاہدہ۔
___ البَیعِ: معاہدۂ بیع۔
___ تَأمِینٍ: انشورنس کا معاہدہ۔
___ تَملِیکٍ: معاہدۂ تملیک۔
عَقدُ التَّنَازُلِ: دست برداری کا معاہدہ۔
عَقدٌ رَسمِیٌّ: سرکاری معاہدہ۔
عَقدُ رَهنٍ: رہن کا معاملہ، معاملۂ رہن۔
عَقدُ شِرکَةٍ: شرکت کا معاہدہ۔
عَقدُ الصَّفقَةِ: تجارتی معاملہ۔
عَقدُ صَفقَةِ اَسلِحَةٍ: ہتھیاروں کا سودا۔
عَقدُ صُلحٍ: معاہدۂ صلح۔
عَقدٌ عُرفِیّ: پرائیویٹ معاہدہ۔
عَقدُ عَمَلٍ: کام کا معاہدہ، لیبر معاہدہ۔
عَقدُ قِسمَةٍ: تقسیم کا معاملہ، معاملۂ تقسیم۔
عَقدٌ مُوَقَّتٌ: عارضی معاہدہ۔
عُقُودُ المُقَاوَلَاتِ: ٹھیکوں کے معاہدے۔
عِقدٌ: ہار ج: عُقُود۔
عِقدٌ مِنَ الخَرَزِ: موتیوں کا ہار۔
عُقدَةٌ: گرہ، پیچیدگی (۲) نا قابلِ حل مسئلہ ج: عُقَد۔
عُقدَةُ الرِّوَایَةِ: ناول کا پلاٹ۔
عَقَّاد: تسبیح بنانے والا۔
عَقِید، مُعَاقِد: معاہدہ کرنے والا۔
عَقِیدٌ: (۲) ایک فوجی عہدہ دار، لیفٹیننٹ کرنل۔
عَقِیدَة: پختہ خیال، مذہب، کسی بات کا یقین، مذہبی خیال، اعتقاد، نظریہ ج: عَقَائِد
عَقِیدَةٌ عَسکَرِیَّةٌ: فوجی نظریہ۔
عَقِیدَةٌ وَاعِیَةٌ: بابصیرت عقیدہ۔
عَقَائِدِیّ: نظریاتی، نظریاتی علم تصورات یا اس

سے متعلق۔
اِعْتِقَاد: تصدیق، ایمان، یقین، رائے، خیال۔
اِعْتِقَادٌ سَائِدٌ: عام خیال۔
تَعَاقُد ج: تَعَاقُدَات: معاہدہ۔
تَعَاقُدِیّ: معاہدہ سے متعلق، معاہدانہ مبنی برمعاہدہ۔
مُعَقَّد: پیچیدہ، الجھا ہوا، گرہ دار۔
مَعْقُود: بندھا ہوا۔
مَعْقُودُ اللِّسَان: خاموش، گونگا۔
مُعْتَقَد ج: مُعْتَقَدَات: اعتقاد۔
مُعْتَقِد: ارادت مند، مُرید۔
مُعْتَقِداً: اس خیال سے کہ۔
مُتَعَاقِدٌ: معاہد۔
الـمُتَعَـاقِدُوْن: معاہدہ کنندگان، باہم معاہدہ کرنے والے۔
عَقَرَ ــِ عَقْراً: زخم لگانا، اونٹ کے ہاتھ پیر کاٹنا۔
عَقُرَتِ الْأُنْثیٰ ــُ عُقْراً و عَقَارَةً: بانجھ ہونا۔
عَاقَرَ الشَّیْءَ مُعَاقَرَةً: ساتھ لگنا، لازم ہونا۔
اَعْقَرَهٗ اِعْقَاراً: حیران کرنا۔
عُقْر، عَقَارَة: بانجھ پن۔
عُـقْـر: (۱) گھر کا صحن، انگنائی (۲) محلّہ (۳) عورت کا مہر ج: اَعْقَار۔
عُقُر، عَاقِرٌ: بانجھ، بے نتیجہ۔
عَـقَـارٌ: جاگیر، غیر منقولہ جائیداد، زمین ج: عَقَارَات۔
عَقَارِیّ: زمین کا، جاگیر سے متعلق۔
مِلْکٌ عَقَارِیّ: زمین داری، جائیداد مشتملہ براراضی۔
عَقَّارٌ ج: عَقَاقِیْر: جڑی بوٹی، دوا۔
عَقَّارٌ مُضَادٌّ لِلْجَرَاثِیْم: پنسلین، جراثیم کش دوا۔
عَقَّارٌ وِقَائِیٌّ: حفاظتی جڑی بوٹی، دوا۔
عَقُوْرٌ: ہڑکایا، کٹکھنا ج: عُقُر۔
عَقِیْرَة: آواز۔
رَفَعَ عَقِیْرَتَه: شور مچانا، آواز نکالنا۔
عَقْرَب: بچھو ج: عَقَارِب۔
عَقْرَبُ السَّاعَة: گھڑی کی سوئی، گھنٹے بتانے والی سوئی۔
عَقْرَبُ الدَّقَائِق: منٹ بتانے والی سوئی۔
عَقْرَبُ الثَّوَانِیْ: سیکنڈ بتانے والی سوئی۔
عَقَارِب: شدائد، سختیاں۔
مُعَقْرَب: ٹیڑھا۔
عَقَصَ الشَّعْرَ ــِ عَقْصاً: بال گوندھنا، چوٹی بنانا، بالوں کو سر کے اوپر جمع کر کے باندھنا۔
عَقِیْصَة: چوٹی ج: عَقَائِص۔
عَقَفَ ــِ عَقْفاً: موڑنا۔
اَعْقَفُ، مَعْقُوفٌ: مڑا ہوا۔
قَوْسَانِ مَعْقُوْفَان: بریکٹ [ ]۔
عَقَّ الْوَلَدُ الْوَالِدَ ــُ عَقّاً و عُقُوقاً: نافرمانی کرنا، بے تعلق ہونا۔
عَقٌّ، عَاقٌّ: بے تعلق، نافرمان۔
عَقِیْق: (۱) سرخ ہیرا (۲) وادی۔
عَـقَلَ ــِ عَقْلاً: باندھنا (۲) چوپائے کے پیروں میں رسّی ڈالنا (۳) سمجھنا۔

عَقَّلَ تعقِیلاً: عقلمند بنانا۔
تَعَقَّلَ الشیٔ: سمجھنے کی کوشش کرنا، ہوش سے کام لینا۔
اُعْتُقِلَ بِتُهْمَةِ کذا: کسی الزام میں گرفتار ہونا۔
اِعْتَقَلَ الرَّجُلَ: نظر بند کرنا، حراست میں لینا، حوالات میں رکھنا، اریسٹ کرنا۔
اُعْتُقِلَ لِسَانُه: زبان بند ہونا۔
اِسْتَعْقَلَهُ: دانشمند سمجھنا۔
عَقْلَنَة: معقول بنانا۔
عَقْلٌ: قوت ادراک، ادراک، سمجھ، قوت تمیزی، حافظہ (۲) بندش، گرہ (۳) تاوانِ خون ج: عُقُوْل۔
مُخْتَلُّ العَقْل: دیوانہ۔
مِنْ عَقْلِهِ: اپنی رائے سے، بلا مشورہ۔
العَقْلُ الْاَلِکْتُرُوْنِیُّ: مشینی دماغ، کمپیوٹر۔
عَقْلِیّ: ذہنی۔
العَقْلِیَّة: ذہنیت۔
عَقْلَانِیَّة: دانشمندی۔
عُقْلَة: بانس کی گرہ ج: عُقَل۔
عُقْلَةُ التَّرْیِیْض: رسّی کا ورزشی پھندا۔
عَاقِل: عقلمند، ہوشیار، سمجھدار، دانشمند، ادراک کرنے والا (۲) دانشمندانہ (نِدَاءٌ عَاقِلٌ: دانش مندانہ نعرہ)۔
العَاقِلُ الحَازِم: محتاط دانش مند۔
عِقَالُ الدَّابَّة: چوپائے کے پیروں کی رسّی، بند ج: عُقُل۔
عَقُوْل: بے حد سمجھ دار، بڑا دانش مند۔
عَقِیْلَة: لیڈی، خاتون (۲) بیوی، بیگم، شریف و معزز عورت ج: عَقَائِل۔
اِعْتِقَال: نظر بندی، گرفتاری۔
اِعْتِقَالُ اللِّسَان: زباں بندی۔
اعْتِقَالَاتٌ جَمَاعِیَّة: اجتماعی گرفتاریاں۔
اعْتِقَالَاتٌ وَاسِعَة: بڑے پیمانے پر گرفتاریاں۔
مَعْقِل ج: مَعَاقِل: قلعہ، مرکز، پناہ گاہ۔
مُعْتَقَل: نظر بندی کی جگہ، عارضی جیل، جیل خانہ ج: مُعْتَقَلات۔
مُعْتَقَلُوْن: نظر بند لوگ و: مُعْتَقَل۔
عَقِمَ ـُـ عَقْماً و عُقْماً: عورت کا بانجھ ہونا۔
عَقَمَ اللّٰهُ الْمَرْأَةَ ـِـ و اَعْقَمَ و عَقَّمَ: بانجھ بنانا۔
عَقَّمَ تعقِیماً: بانجھ بنانا، نسبندی کرنا، نا قابلِ اولاد بنانا (۲) بے نتیجہ بنانا، بے اثر بنانا بے کار بنانا (۳) پاک کرنا (۴) بیماری کے جراثیم کو ہلاک کرنا۔
عُقْم، عَقَم: بانجھ پن (۲) عدمِ افادیت۔
عَقِیْم: بانجھ، نا قابل تولد (۲) بے نتیجہ، بے فائدہ۔
تَعْقِیْم: نسبندی۔

ع..........ک

عَکِرَ ـَـ عَکَراً: گدلا ہونا، مکدر رہونا۔
عَکَّرَ تعکِیْراً: گدلا کرنا، مکدر کرنا۔
عَکَّرَ صَفْوَهُ: کرکرا کر دینا، مزہ خراب کر دینا۔
عَکَّرَ الجَوَّ: فضا مکدر کرنا۔
عَکَّرَ العَلَاقَاتِ مَعَ فُلَانٍ: تعلقات خراب کرنا۔

عَکَرٌ: گدلاپن۔
عَکِرٌ: گدلا، غیر صاف شدہ۔
عَکَزَ ـُ عَکْزاً: نیزہ مارنا۔
عَکَزَ بہ: راستہ پانا۔
عَکَزَ و تَعَکَّزَ عَلَی: سہارا لینا، ٹیک لگانا، بار رکھنا۔
عُکَّاز، عُکَّازَة: چھڑی، لاٹھی، ڈنڈا ج: عَکَاکِیزُ۔
عَکَسَ الشيءَ ـِ عَکْساً: ترجمانی کرنا، عکاسی کرنا، عکس ڈالنا (۲) الٹا کرنا۔
عَکَسَ القرارُ کذا: ترجمانی کرنا۔
عَکَسَ مُشْکِلَةً: مسئلہ کھڑا کرنا، سامنے لانا۔
عَاکَسَہُ مُعَاکَسَةً: مخالفت کرنا، ستانا، پریشان کرنا۔
تَعَاکَسَ و انْعَکَسَ: پلٹنا، الٹنا، الٹا ہونا، عکس پڑنا۔
اِنْعَکَسَ عَلَی شَيْءٍ: اثر انداز ہونا۔
اِنْعِکَاس: اثر ج: اِنْعِکَاسَات۔
اِنْعِکَاسٌ لکذا: پرتو۔
اِنْعِکَاسَات: اثرات۔
عَکْسِيُّ الاتِّجَاہ: بیک ورڈ۔
عَکَّاسٌ: ترجمان۔
مُعَاکِس: جوابی، مخالف۔
هُجُومٌ مُعَاکِس: جوابی حملہ۔
عَمَلِیَّةٌ مُعَاکِسَة: جوابی کارروائی۔
عَکِشَ الشَّعْرُ ـَ عَکَشاً: بالوں کا مڑنا۔
عَکَفَ علی کذا ـُ عَکْفاً و عُکُوفاً: عادی ہونا، پابند ہونا (۲) متوجہ ہونا، مشغول ہونا۔

عَکَفَ و عَکَّفَ عَنْہُ: روکنا، باز رکھنا۔
عَکَفَ و تَعَکَّفَ و اعْتَکَفَ فِي: گوشہ میں بیٹھنا، عبادت کے لئے تنہائی میں بیٹھنا، معتکف ہونا۔
عَکَفَ و تَعَکَّفَ و اعْتَکَفَ عَنْ شيءٍ: کنارہ کش ہونا۔
اِعْتِکَاف: گوشہ نشینی۔
عَاکِفٌ علی کذا: پابند، عادی، متوجہ۔
المُعْتَکِف: گوشہ نشیں۔
عَکَّ الیَوْمُ ـِ عَکّاً: سخت گرمی ہونا، حبس ہونا۔
عَکٌّ، عَکِیکٌ: گرم، گرم دن۔
عَکَّة، عَکَّاء: فلسطین کا ایک شہر۔
عَکَمَ ـِ عَکْماً: سامان کو یکجا کر کے باندھنا، بنڈل بنانا (۲) بچت کرنا۔
عَکَمَ عَنْ: ترک کرنا، نہ کرنا، باز رہنا۔
عَکَمَہُ عَنْ کذا: باز رکھنا (۲) نہ دینا، روکے رکھنا۔

ع..........ل

عَلَبَ ـُ عَلْباً و عَلَّبَ: نشان لگانا (۲) ڈبہ میں بند کرنا، پیک کرنا۔
عُلْبَة ج: عُلَب: ڈبہ، پیکٹ، پارسل، ٹن، بکس، ڈبیہ۔
___ الْوَان: کلر بکس، رنگوں کا ڈبہ۔
___ التُّرُوس او المُسَنَّنَات: گیر بکس۔
___ صَفِیح: (۱) کنستر (۲) ڈولچہ یا وہ بڑا برتن جس کے اوپر پکڑنے کا حلقہ لگا ہو۔
___ سَجَائِر: سگریٹ کیس، سگریٹ بکس۔
___ کِبْرِیت: ماچس بکس۔

ـــــ نَشُوْق: ناس یا ہلاس کی ڈبیہ۔
ـــــ سَرْدِیْن: ساردین مچھلی کا ڈبہ۔
اَطْعِمَةٌ مُعَلَّبَة: ڈبوں میں بند کھانے۔
مُـعَـلَّبَـات: ڈبوں میں بند کھانے، پیک شدہ اشیاء۔
عِلْجٌ: کافر، موٹا وحشی آدمی ج: عُلُوْج۔
عَالَجَ المَرِیْضَ مُعَالَجَةً: علاج کرنا۔
عَالَجَ بِأَجْرٍ مُقَرَّرٍ: مقررہ فیس پر علاج کرنا۔
عَـالَجَ الأَمْرَ: کسی کام کو انجام دینے کی کوشش کرنا، انجام دینا، کام پر لگنا (۲) معاملہ کو نمٹانا، حل نکالنا، کام نکالنا، کام چلانا۔
عَـالَـجَ الحَدِیْدَ و الفُوْلاذَ: لوہے اور فولاد کو بار بار گرم اور ٹھنڈا کر کے اعتدال پر لانا۔
عَـالَجَ الشَّکَاوَی: شکایات کا حل نکالنا، ازالہ کرنا۔
عَالَجَ المَوْضُوْعَ: کسی موضوع پر بحث کرنا، کسی موضوع پر قلم اٹھانا، طبع آزمائی کرنا، لکھنا۔
تَـعَـالَجَ: دوا استعمال کرنا، طبیب کا علاج کرنا۔
عِلَاج، مُـعَـالَـجَة: علاج، میڈیسن، دوا، تدبیر۔
المُعَالَجَةُ المِثْلِیَّة: ہومیو پیتھک۔
عَـلَفَ الـدَّابَّةَ ـــ عَـلْفاً و عَلَّفَ: گھاس کھلانا، چارہ کھلانا۔
عَـلَفٌ، عَلُوْفَة: گھاس، چارہ ج: عِلَاف و اَعْلَاف و عُلُف۔
عَـلَفُ البَهَـائِمِ و الـدَّوَابّ: مویشیوں کا چارہ۔

عَلَّاف: گھاس فروش۔
مِعْلَف: گھاس کا کونڈا، ناند ج: مَعَالِف۔
مَـعْـلُـوْف: فربہ، گھاس دانہ کھا کر موٹا ہونے والا جانور۔
عَـلِقَ ـــ عَلَقاً و تَعَلَّقَ بہ: چمٹنا، لگنا، وابستہ ہونا، متعلق ہونا۔
عَلِقَ و تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بہ: محبت ہونا۔
عَلِقَ و تَعَلَّقَ بِالحِبَالَة: جال میں پھنسنا۔
عَلِقَ یَفْعَلُ کذا: کرنے لگا۔
عَلِقَتِ الأُنْثٰی: حاملہ ہونا۔
تَعَلَّقَ: لٹکنا۔
تَعَلَّقَ بہ: متعلق ہونا، خاص ہونا۔
عَـلَّـقَ الشَّیْئَ بِـکَـذا: آویزاں کرنا، لٹکانا، باندھنا۔
عَـلَّقَ الأَمْرَ: تعویق میں ڈالنا، پینڈنگ میں ڈالنا۔
عَلَّقَ أَهَمِّیَّةً عَلَی: اہمیت دینا۔
عَلَّقَ مَسْئُوْلِیَّةً عَلَی: ذمہ داری ڈالنا۔
عَلَّقَ عَلَی کِتَابٍ: شرح لکھنا، حاشیہ لکھنا۔
عَلَّقَ عَلَی الأَخْبَار: خبروں پر تبصرہ کرنا، رائے زنی کرنا۔
عَلَقٌ: (۱) جونک (۲) خونِ بستہ و: عَلَقَة۔
عَلَاقَة: تعلق، ربط، رشتہ ج: عَلَاقَات۔
عَلَاقَةٌ غَرَامِیَّة: عشقیہ تعلق۔
عَلَاقَةٌ اِجْتِمَاعِیَّة: سوشل تعلق۔
عَلَاقَةُ التَّبَعِیَّة: ماتحتی کا تعلق۔
عَلَاقَةٌ وَثِیْقَةُ العُرَی: مضبوط و مستحکم تعلق۔
عَلَاقَةٌ شَائِکَة: ناخوشگوار تعلق۔
عَلَاقَات تَبَعِیَّة: ماتحتی کے تعلقات۔

عَلاقَاتٌ ثُلاثِيَة: سہ فریقی تعلقات۔
عَلاقَاتٌ ثُنائِيَة: دوفریقی تعلقات۔
عَلاقَاتٌ خارِجِيَة: خارجی تعلقات، بیرونی تعلقات۔
عَلاقَاتٌ دِبلُوماسِيَة: سفارتی تعلقات۔
عَلاقَاتٌ وُدِّيَة: دوستانہ تعلقات۔
عَلَّاقَةُ الثِيَاب: کپڑے لٹکانے کا ہک۔
عَلِيقُ الدَّوَابّ: چارہ، گھاس۔
عُلَّيق: نباتی بیل۔
تَعْلِيق: (۱) التواء (۲) شرح، حاشیہ، نوٹ (۳) تبصرہ، رائے زنی، کمنٹری۔
تَعْلِيقٌ صَحَفِيّ: اخباری تبصرہ۔
تَعْلِيقٌ طَفِيف: ہلکا اور معمولی حاشیہ۔
تَعْلِيقٌ سِيَاسِيّ: سیاسی تبصرہ۔
تَعْلِيقَةٌ صَحَفِيَّة: اخباری نوٹ۔
مِصْبَاحُ تَعْلِيقٍ: آویزاں کیا جانے والا لیمپ، قندیل۔
المُعَلِّق: تبصرہ نگار۔
مُعَلِّقٌ إِذَاعِيّ: کمنٹیٹر، ریڈیو پر تبصرہ کرنے والا۔
المُعلِّقُ على الأنْباءِ: کمنٹیٹر، خبروں پر تبصرہ کرنے والا۔
مُعَلَّق: موقوف، ملتوی، لٹکایا ہوا، آویزاں، پینڈنگ۔
جِسْرٌ مُعَلَّقٌ: جھولا پل۔
مِعْلاق: زبان۔
عَلَكَ ـُ عَلْكاً: چبانا۔
عِلْكٌ: گوند ج: عُلُوک۔
عَلْكٌ: بکواس۔

عَلَّلَ تَعْلِيلاً: سبب بیان کرنا، وجہ جواز پیش کرنا، عذر پیش کرنا۔
عَلَّلَ النَّفْسَ بِكَذا: دل بہلانا۔
عَلَّلَهُ بِكَذَا: مشغول بنانا، مصروف و منہمک رکھنا، بے توجہ بنانا، باز رکھنا، بہلانا۔
عُلَّ الإِنْسَانُ عِلَّةً و اعْتَلَّ: بیمار ہونا۔
تَعَلَّلَ بكذا: مشغول ہونا، مصروفیت ظاہر کرنا (۲) عذر پیش کرنا، بہانہ بنانا۔
عَلَّ، لَعَلَّ: شاید، امید ہے۔
بَنُو عَلَّاتٍ: ایک باپ اور دو ماں کے بیٹے، علاتی بھائی۔
عِلَّة: بیماری، عیب (۲) سبب، حجت، عذر (۳) سرچشمہ، اصل ج: عِلَلٌ و عِلَّات۔
عَلَى عِلَّاتِهِ: وہ جیسا بھی ہے، بہر صورت۔
عَلِيل، مَعْلُول، مُعَلّ: بیمار۔
اِعْتِلالُ الصِّحَّة: صحت خراب ہونا۔
مُعْتَلُّ الصِّحَّة: ناتندرست۔
عَلِمَ ـَ عِلْماً: جاننا۔
عَلِمَ به: حقیقت تک پہنچنا، خوب جاننا۔
تَعَلَّمَ: سیکھنا (۲) تعلیم یافتہ ہونا (۳) پڑھنا (۴) شائستہ ہونا۔
اِسْتَعْلَمَ منه عن كذا: دریافت کرنا۔
عَلَمٌ: پرچم، جھنڈا، بینر ج: اَعْلام۔
عَلَمٌ: (۲) نشانِ راہ (۳) نشان، دھاری (۴) سردار، بڑا آدمی، بلند شخصیت (۵) پہاڑ۔
عِلْمٌ: (ضد: جَهْل) علم، تعلیم، معلومات۔
عِلْمُ طَلَبٍ: سمنِ عدالت۔
عِلْمُ الاجْتِمَاع: عمرانیات، علمِ معاشرت۔
عِلْمُ الاَحْيَاء: بیالوجی۔

عِلْمُ الاِقْتِصَاد: اکنامکس، فنِ اقتصادیات۔
عِلْمُ البِيُولُوجِيَا: بیالوجی۔
عِلْمُ تَدْوِيْنِ الحِسَابَات: اکاؤنٹنگ۔
عِلْمُ التَرْبِيَة: ایجوکیشن۔
عِلْمُ تَرْكِيْبِ الأدْوِيَة: فارمیسی، علمِ دوا سازی۔
عِلْمُ الحِسَاب: ارتھمیٹک۔
عِلْمُ الحَيَاة: بیالوجی۔
عِلْمُ الصَّنَائِعِ و الفُنُوْن: ٹیکنالوجی۔
عِلْمُ طَبَقَاتِ الأرْض: علمِ ارضیات۔
عِلْمُ الظَّوَاهِرِ الجَوِّيَة: علمِ موسمیات۔
عِلْمُ الفِلَاحَة: علمِ زراعت۔
عِلْمُ الفَلَك: علمِ فلکیات، علمِ ہیئت۔
عِلْمُ المُحَاسَبَة: حساب دانی، علم الحساب۔
عِلْمُ النَّحو و الصَّرْف: گرامر، قواعد۔
عِلْمُ الهَنْدَسَة: جومیٹری۔
عِلْماً بِأنَّهُ: یہ جان کر، یہ بات جانتے ہوئے۔
عَنْ عِلْمٍ: واقف ہوتے ہوئے۔
عُلُوْم: سائنس۔
عُلُومٌ إدَارِيَّة: انتظامی علوم۔
عُلُومٌ سُلُوْكِيَّة: تصوف۔
عِلْمِيّ: علمی، تعلیمی، مدرسہ سے متعلق۔
جَمْعِيَّةٌ عِلْمِيَّة: تعلیمی انجمن۔
صَنْعَةٌ أوْ حِرْفَةٌ عِلْمِيَّة: تعلیمی پیشہ۔
عَلَامَ (عَلَى مَا؟): کس بات پر، کس وجہ سے۔
عَلَامَة: نشان، اشارہ، ٹوکن، لیبل، مارک۔
عَلَامَة: (۲) عمدہ قسم کا آٹا (۳) نقش ساز تختی، دھات وغیرہ کی پتلی سی تختی جسے کاٹ کر حروف یا نقش دوسری چیز پر اُتارے جاتے ہیں۔
عَلَامَةُ اِسْتِفْهَام: سوالیہ نشان (؟)۔
عَلَامَةٌ تِجَارِيَّة: ٹریڈ مارک۔
عَلَامَةُ الحَصْر: بریکٹ ( )۔
عَلَامَةٌ مُمَيِّزَة: بیج، نشانِ امتیاز۔
عَلَامَاتُ الاِنْهِيَار: شکستگی کے آثار۔
عَلَامَاتُ التَشَفِّي: اطمینان کی علامتیں۔
عَلَامَاتُ المُرُوْر: ٹریفک سگنل۔
عَلَّام، عَلِيْم: باخبر، زبردست عالم۔
عَالَم: دنیا، جہان، مخلوقات۔
عَالَمُ التِّجَارَة: تجارتی دنیا۔
العَالَمُ الثَّالِث: ترقی پذیر ممالک، تیسری دنیا۔
العَالَمُ الحُرّ (يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ البِلَادِ الشُّيُوعِيَّة): آزاد دنیا۔
العَالَمُ الخَارِجِيّ: بیرونی دنیا۔
العَالَمُ الرَّأْسُمَالِيّ: سرمایہ داروں کی دنیا۔
عَالَمُ العَجَائِبَات: عجائبات کی دنیا۔
العَالَمُ النَّامِي: ترقی پذیر دنیا۔
عَالَمِيّ: بین الاقوامی، کائناتی۔
عَالِمٌ: (۱) صاحبِ علم (۲) تعلیم یافتہ۔
عَالِمٌ بالأمْر: واقف کار۔
عَالِمُ الاقْتِصَاد: ماہر اقتصادیات۔
العَالِمُ الطَّبِيْعِيّ: سائنس داں، سائنٹسٹ۔
عَالِمَة: تعلیم یافتہ عورت (۲) مغنیہ۔
عُلَمَاءُ الحَفْرِيَّات: کھدائی کے ماہرین۔
عُلَمَاءُ الذَّرَّة: ایٹمی سائنس داں۔
عَلَائِمُ الخَيْر: آثارِ نیک۔
عَلَائِمُ الشَّرّ: آثارِ بد۔

عَلْمَانِيّ: سیکولر، غیر مذہبی۔
عَلْمَانِيَّة: سیکولرازم (Secularism)۔
اِعْلَام: اطلاع، انفارمیشن، نوٹس، نشر و اشاعت، خبر رسانی، پروپیگنڈہ۔
اِعْلَامٌ شَرْعِيّ: سمن عدالت۔
اِعْلَامِيّ: اطلاعاتی، ابلاغی۔
اُعْلُومَة: نشانِ راہ، سنگِ میل، علامت، نشان ج: اَعَالِيْم۔
اِسْتِعْلَام عَنْ: انکوائری، تحقیق، معلومات حاصل کرنا۔
مَكْتَبُ اسْتِعْلَامَات: انکوائری آفس، دفتر تحقیقات۔
تَعْلِيْم: تعلیم، تہذیب۔
التَّعْلِيْمُ الاِبْتِدَائِيّ: ابتدائی تعلیم۔
التَّعْلِيْمُ الاَسَاسِيّ: بیسک تعلیم۔
التَّعْلِيْمُ الاِلْزَامِيّ: کمپلسری تعلیم، لازمی تعلیم۔
التَّعْلِيْمُ الثَّانَوِيّ: سیکنڈری تعلیم۔
التَّعْلِيْمُ الثَّانَوِيُّ الْمُتَوَسِّطُ: جونیئر سیکنڈری تعلیم۔
التَّعْلِيْمُ الْعَالِيُ: اونچی تعلیم، ہائر ایجوکیشن۔
التَّعْلِيْمُ الْفَنِّيّ: ٹیکنیکل تعلیم، فنی تعلیم۔
التَّعْلِيْمُ الْمُخْتَلِط: مخلوط تعلیم۔
تَعْلِيْمَات: ہدایت، ارشادات، احکامات۔
تَعْلِيْمَاتٌ مُسْتَمِرَّة: مسلسل ہدایات۔
مَعْلَم: نشان، اثر، بینر، مارک ج: مَعَالِم۔
مَعَالِمُ الْمَدِيْنَة: شہر کے آثار جو دور سے نظر آئیں۔
مَعَالِمُ اَثَرِيَّة: پرانی عمارتیں، نشانات، آثارِ قدیمہ۔
مَعَالِمُ الاِقْتِرَاح: تجویز کے خطوط۔
مَعَالِمُ طَامِسَة: مٹے ہوئے نشانات۔
مُعَلَّم: نشان لگایا ہوا، سکھایا ہوا۔
مُعَلِّم: استاذ، ٹیچر، اتالیق، ماسٹر۔
مُعَلِّمٌ خَاصٌّ: ٹیوٹر، خصوصی اسباق پڑھانے والا۔
مُعَلِّمَة: اُستانی۔
مَدْرَسَةُ الْمُعَلِّمِيْنَ: استادوں کی تربیت کا مدرسہ۔
مَعْلُوْمَات: ریکارڈس، معلومات۔
مَعْلُوْمَاتٌ اَوْفَى: مکمل ترین معلومات، بھرپور معلومات۔
مَعْلُوْمَاتٌ سِرِّيَّة: خفیہ معلومات۔
مَعْلُوْمَاتٌ وَثِيْقَةٌ اَكِيْدَة: مستند معلومات۔
مَعْلُوْمِيَّة: علم، واقفیت، اطلاع، نالج۔
لِلْمَعْلُوْمِيَّةِ اُذِيْعَ هٰذَا الاِعْلَانُ: اطلاع کے لئے یہ اعلان شائع کیا گیا۔
عَلِنَ ـُـ عَلَناً و اسْتَعْلَنَ: ظاہر ہونا۔
عَالَنَ و أَعْلَنَ الأَمْرَ و به: ظاہر کرنا، مشتہر کرنا۔
أَعْلَنَ إِعْلَاناً: شائع کرنا، اعلان کرنا، اشتہار دینا، ڈکلیر کرنا، نوٹس دینا۔
اَعْلَنَ الْحُكْمَ: فیصلہ سنانا، حکم سنانا۔
أَعْلَنَ عَنْ كذا: کسی چیز کے بارے میں بیان دینا۔
أَعْلَنَ الإِضْرَابَ عَنْ كذا: اسٹرائک کا

اعلان کرنا۔
أُعْلِنَ الشَّيْءُ عَنْ حُسْنِ نِيَّتِهِ: نیک نیتی کا پتہ دینا۔
أُعْلِنَ رَسْمِيّاً: سرکاری طور پر اعلان کیا گیا۔
عَلِنٌ: ظاہر۔
عَلَنِيٌّ: کھلا ہوا، آشکارا، عیاں۔
عَلَناً: کھلے طور پر، کھلم کھلا، برملا۔
عَلَانِيَةٌ: (ضد: سِرّ) ظاہر، آشکارا۔
عَلَانِيَةً: علی الاعلان، کھلے بندوں۔
إِعْلَانٌ: بیان، اشتہار، اطلاع، نوٹس، اعلان، ڈکلریشن۔
إِعْلَانٌ صَغِيْرٌ: ہینڈ بل، چھوٹا اشتہار جو تقسیم کیا جائے۔
إِعْلَانٌ رَسْمِيٌّ: سرکاری اعلان۔
إِعْلَانٌ مُلْصَقٌ عَلَى الجِدَارِ: پوسٹر۔
إِعْلَانُ حُضُوْرٍ إِلَى المَحْكَمَةِ: سمن عدالت۔
إِعْلَانُ حَلِّ مَجْلِسِ النُّوَّابِ: پارلیمنٹ توڑنے کا اعلان۔
إِعْلَانُ حَالَةِ الطَّوَارِئِ: ہنگامی حالات کا اعلان۔
إِعْلَانُ الحَرْبِ: اعلانِ جنگ۔
إِعْلَانُ نَتِيْجَةِ الاِنْتِخَابَاتِ: انتخابی نتائج کا اعلان۔
إِعْلَانٌ مُصَوَّرٌ: باتصویر اشتہار۔
الإِعْلَانُ عَنْ أَسْعَارِ البَضَائِعِ: سامان کے نرخوں کا اعلان۔
الإِعْلَانُ عَنِ السِّلَعِ: ایڈورٹائزمنٹ، سامان کا اشتہار۔
الإِعْلَانُ عَنْ وَظِيْفَةٍ خَالِيَةٍ: خالی اسامی کا اعلان۔
الإِعْلَانُ العَالَمِيُّ لِحُقُوْقِ الإِنْسَانِ: حقوقِ انسانی کا عالمی اعلان۔
الإِعْلَانُ المُشْتَرَكُ: مشترکہ بیان۔
الإِعْلَانُ اليَدَوِيُّ: ہینڈ بل۔
إِعْلَانَاتٌ قَضَائِيَّةٌ: عدالتی نوٹس۔
إِعْلَانَاتٌ مُبَوَّبَةٌ: موضوع وار اشتہارات۔
شَرِكَةُ إِعْلَانَاتٍ: ایجنسی اشتہارات۔
لَوْحَةُ عَرْضِ الإِعْلَانَاتِ: نوٹس بورڈ۔
عُلُوٌّ، عَلَاءٌ: بلندی، بلندیٔ مرتبہ۔
عُلُوٌّ شَاهِقٌ: زبردست بلندی۔
عَلَوِيٌّ: آسمانی۔
عَلَوِيٌّ، عُلْوِيٌّ: بالائی، فوقانی۔
عَلَا الرَّجُلُ ـ عُلُوّاً: غالب ہونا، بلند ہونا۔
عَلَتْ عَزِيْمَتُهُ: ارادہ بلند ہونا۔
عَلَا و عَلِيَ ـ عَلَاءً: فوقیت لے جانا۔
عَلَا و عَلِيَ و اعْتَلَى: اوپر ہونا، بلندی پر چڑھنا۔
عَلَا و عَلِيَ و اعْتَلَى الدَّابَّةَ: سوار ہونا۔
عَلَّى و أَعْلَى: ترقی دینا، بلند کرنا۔
اِعْتَلَى: اوپر چڑھنا۔
اِعْتَلَى العَرْشَ: تخت نشین ہونا۔
اِعْتَلَى مَقَالِيْدَ السُّلْطَةِ: اختیارات سنبھالنا۔
اِعْتَلَى المِنْبَرَ أَوْ مِنَصَّةَ الخِطَابَةِ: تقریر کے لئے اسٹیج پر آنا۔

تَعَالَى و اسْتَعْلَى: بلند ہونا۔
تَعَالَتِ الْهُتَافَاتُ: نعرے بلند ہونا۔
تَعَالَ: آ (واحد مذکر)۔
تَعَالَوْا: (جمع مذکر) آؤ۔
تَعَالَيْ: (واحد مونث)۔
تَعَالَيْنَ: (جمع مونث) آؤ۔
عَلَاةٌ: سندان، اہرن جس پر لوہار لوہا رکھ کر کوٹتا ہے۔
عِلَاوَة: زیادتی، اضافہ، الاؤنس ج: عَلَاوَاتٌ و عَلَاوَى۔
عِلَاوَة مَاهِيَة: تنخواہ میں اضافہ۔
عِلَاوَةٌ إِضَافِيَة: زائد الاؤنس۔
عِلَاوَةُ التَرَمُّل: بیوگی کا الاؤنس۔
عِلَاوَةُ الدَّرَجَة: گریڈ الاؤنس۔
عِلَاوَةٌ على السِّعْر: زائد چارجنگ۔
عِلَاوَةُ غَلَاءِ المَعِيْشَة: گرانی الاؤنس۔
عِلَاوَةً عَلَى كَذَا: مزید براں، علاوہ ازیں۔
عَلِيٌّ: بلند رتبہ۔
عَلْيَاءُ: آسمان۔
عَلْيَاءُ و عُلْيَا: بلند جگہ۔
عُلِّيَة: بالاخانہ، بالائی کمرہ۔
عُلِّيَة، عِلِّيُّوْن: اونچے درجہ کے لوگ، سربرآوردہ لوگ۔
عَالٍ: بلند، اونچا، زبردست، ہائی (۲) بہت خوب، بالکل ٹھیک۔
اَعْلَى: زیادہ بلند، بلند مرتبہ، ہائی، بلند تر۔
القَائِدُ الاَعْلَى: سپریم کمانڈر۔
اَعْلَاهُ: اوپر، ابھی ابھی، بالا۔
مَذْكُوْرٌ اَعْلَاهُ: مذکورہ بالا، مندرجہ بالا۔

مِنَ الاَعَالِيْ: بلندیوں سے۔
عَلْوَنَ الخِطَابَ: خط پر پتہ لکھنا۔
عُلْوَانُ الخِطَاب: خط کا پتہ۔
عُلْوَانُ الكِتَاب: کتاب کا نام۔
عَلَى القِيَاس: ناپ کے مطابق۔
عَلَى مَا: کیوں۔
عَلَى ضَوْءِ كَذَا: فلاں چیز کی روشنی میں۔
عَلَى عَهْدِ فُلَان: فلاں کے عہد میں۔
عَلَى وَشْك: بالکل قریب۔
يُغَنِّي عَلَى العُوْد: وہ ساز پر گاتا ہے۔
يَرْقُصُ عَلَى المُوسِيْقَى: موسیقی کے مطابق یا ساتھ ناچتا ہے۔
عَلَيْهِ: اس کے ذمہ، اس پر لازم ہے۔
عَلَيَّ بِهِ: اسے میرے پاس لاؤ۔
لا عَلَيْكَ: کوئی حرج نہیں۔

ع ....م

عَمَدَ إِلَيْهِ ـِ عَمْداً: قصد کرنا، ارادہ کرنا۔
عَمَدَ و اَعْمَدَ: سہارا دینا۔
عَمَّدَ تَعْمِيْداً: نصرانی بنانا۔
تَعَمَّدَ الاَمْرَ: بالقصد کام کرنا، دیدہ و دانستہ کرنا۔
اِعْتَمَدَ عَلَى: بھروسہ کرنا۔
اِعْتَمَدَ الشَّيْءُ على كَذَا: دارومدار ہونا۔
اِعْتَمَدَ الشَّيْءَ: اصل بنانا۔
اِعْتَمَدَ مَبْلَغاً: کسی کام کے لئے کوئی رقم منظور کرنا۔
لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ: ناقابلِ اعتماد۔
عَمْدٌ: سہارا، ستون۔

عَمَدَ، تعَمَّدَ: قصد۔
عَمْداً: دیدہ دانستہ، بالقصد۔
عُمْدَة، عِمَاد: سہارا، رکن۔
عُمْدَةُ البَلَد: حاکمِ شہر، ذمہ دارِ شہر۔
عُمْدَةُ القَرْيَة: مکھیا، چودھری۔
عُمْدَةُ المَدْرَسَة: مدرسہ کی ذمہ دار کمیٹی۔
عِمَاد ج: عُمُد، عَمُود ج: اَعْمِدَة: ستون، کھمبا۔
عَمُود: ستون، پول، چربی ستون، پلر، بلّی، موٹا بانس (۲) کالم ج: اَعْمِدة و عُمُد و عَمَد۔
عَمُودُ البَطْن: پشت۔
عَمُودُ التِّلِغْرَاف: ٹیلیگراف پول۔
عَمُودُ الصَّحِيْفَة: اخبار کا کالم۔
عَمُودُ السَّرِيْر: پلنگ کا پایہ۔
عَمُودٌ فَقْرِيٌّ: ریڑھ کی ہڈی۔
عَمُودُ القَنْطَرَة: پل کا پایہ، ستون۔
تَاجُ العَمُود: عمارتی ستون کا بالائی نمایاں حصہ۔
قَاعِدَةُ العَمُود: ستون کا نچلا حصہ۔
عَمُودِيّ: سیدھا، نچلا، ستون نما۔
عَمِيْد: (۱) سربراہ، صدر (۲) پرنسپل ج: عُمَدَاء۔
عَمِيْدُ السِّلْكِ السِّيَاسِيّ: جماعتِ سُفراء کا صدر۔
عَمِيْدُ الكُلِّيَّة: کالج کا پرنسپل۔
عَمِيْدُ الجَامِعَة: یونیورسٹی کا صدر، ریکٹر، شیخ الجامعہ۔
اِعْتِمَاد: بھروسہ، اعتبار، ساکھ، اعتماد (۲) کریڈٹ، قرض (۳) منظوری۔
الاِعْتِمَادُ عَلَى النَّفْس: خوداعتمادی۔
اِعْتِمَادٌ كُلِّيٌّ عَلَى كذا: مکمل اعتماد۔
اِعْتِمَادُ تَصْدِيْر: ایکسپورٹ قرض، ایکسپورٹ کریڈٹ۔
اِعْتِمَادٌ طَوِيْلُ الاَجَل: طویل المیعاد قرض۔
اِعْتِمَادٌ قَصِيْرُ الاَجَل: مختصر المیعاد قرض۔
اِعْتِمَادٌ لِمُدَّةٍ قَصِيْرَة: مختصر المیعاد قرض۔
اِعْتِمَادٌ مَصْرِفِيٌّ: بینک کریڈٹ، بینک قرضہ۔
اِعْتِمَادٌ مَالِيّ (يُخَصَّصُ لِغَرَضٍ مَّا): فنڈ۔
اِعْتِمَادُ مَصْرُوْفَاتِ الطَّوارِئ: ہنگامی اخراجات کا فنڈ۔
اِعْتِمَادُ مِيْزَانِيَّة: بجٹ پاس کرنا، بجٹ کی منظوری۔
اَوْرَاقُ اِعْتِمَاد: (سرکاری) تعارفی یا شناختی کاغذات۔
خِطَابُ اِعْتِمَاد: ہنڈی، رقعۂ مالی۔
مُعْتَمِدٌ عَلَى النَّفْس: خود کفیل۔
مُعْتَمَد: قابلِ اعتماد، مُستند، مُصدّقہ۔
مُعْتَمَد: (۲) نائب، مختار، نمائندہ، ڈپٹی۔
مُعْتَمَدٌ سِيَاسِيّ: سفیر، ڈپلومیٹک ایجنٹ۔
عَمَرَ المَنْزِلُ ـُـ بِالنَّاسِ عَمْراً: گھر آباد ہونا۔

عَمَرَ بِالْمَكَانِ: مقیم ہونا، بسنا۔
عَمَرَ و عَمُرَ: بڑی عمر پانا۔
عَمَرَ و عَمَّرَ و أَعْمَرَ: آباد کرنا، تعمیر کرنا۔
عَمَّرَهُ اللّٰهُ: خدا اس کی عمر دراز فرمائے۔
عَمَّرَ الْمِصْبَاحَ: لمپ وغیرہ میں ہوا بھرنا۔
اِسْتَعْمَرَهُ فِی الْمَكَانِ: آباد کرنا۔
اِسْتَعْمَرَ الْمَكَانَ: کسی جگہ نئی بستی قائم کرنا۔
اِسْتَعْمَرَ: (۲) نوآبادی بنانا۔
عُمْرٌ: زندگی، ایج، عمر ج: أَعْمَار۔
عُمْرٌ جَدِيْدٌ: نئی زندگی۔
نِصْفُ عُمْرٍ: سیکنڈ ہینڈ، مستعمل۔
لَعَمْرِی: میری جان کی قسم۔
لَعَمْرُ اللّٰهِ: خدا کی قسم۔
عَمْرٌ: مستورات کا سر کو باندھنے کا رومال۔
عُمْرَان: تعمیر، کثرتِ باشندگان، آبادی (۲) تہذیب وتمدن۔
عَمْرَة: سر کو ڈھانکنے کا کپڑا۔
عَمَار: سلام۔
عِمَارَة: بلڈنگ، عمارت (۲) قبیلہ۔
عِمَارَةٌ بَحْرِيَّة: سمندری بیڑا۔
عِمَارَةٌ ذَاتُ ثَلَاثَةِ أَدْوَارٍ: تین منزلہ عمارت۔
صِنَاعَةُ العِمَارَة: عمارت سازی۔
عَامِرٌ، عَمِيْرٌ: آباد، پُر رونق۔
عَمِيْرَة: بڑا خاندان، قبیلہ سے چھوٹا ج: عَمَائِر۔
عَمِيْرَة: (۲) شہد کی مکھی کا چھتا۔
الاِسْتِعْمَار: استعماریت، سامراجیت، سامراج، نوآبادکاری، نوآبادی قائم کرنا۔
اِسْتِعْمَارِیّ: سامراجی۔

مِعْمَار: عمارت بنانے والا، راج، معمار۔
مُهَنْدِسٌ مِعْمَارِیّ: فنِ تعمیر کا ماہر۔
هَنْدَسَةُ المِعْمَار: فنِ تعمیر سازی۔
مَعْمُوْر: آباد، آبادی، عالم۔
مَعْمُوْرَة: آبادی، عالم۔
مُسْتَعْمِرٌ: نوآبادکار، نوآبادیاں قائم کرنے والا، سامراجی۔
الْمُسْتَعْمِرُ القَابِضُ عَلَى الأَرْضِ: علاقہ پر قابض، سامراجی۔
مُسْتَعْمَرَة ج: مُسْتَعْمَرَات: کالونی، نوآبادی، وہ حصۂ زمین جس پر غیر ملکی جماعت قابض ہو اور اس کا سیاسی تعلق اپنے وطن سے قائم ہو۔
مُسْتَعْمَرَةُ التَّاج: شاہی علاقہ جو براہِ راست بادشاہ کے کنٹرول میں ہو۔
مُسْتَعْمَرہ مُسْتَقِلَّة: خودمختار نوآبادی، جاگیر، ریاست۔
مُسْتَعْمَرَات: نوآبادیات۔
مُسْتَعْمَرَاتُ التَّاج: شاہی نوآبادیات۔
عَمِشَتْ عَيْنُهُ ـــ عَمَشاً: بینائی کمزور ہونا۔
أَعْمَش: کمزور نگاہ، چوندھا۔
عَمُقَ ـــ و عَمِقَ ـــ عُمْقاً و عَمَاقَة: گہرا ہونا۔
عَمَّقَ و أَعْمَقَ: گہرا کرنا، گہرا بنا دینا۔
عَمَّقَ التَّعَاوُنَ بَيْن: تعاون کو فروغ دینا۔
تَعَمَّقَ فِی الأَمْرِ أَو البَحْث: کسی معاملہ یا موضوع کی گہرائی میں پہنچنا۔
تَعَمَّقَتِ الفَجْوَةُ بَيْن: خلا وسیع ہونا۔
عُمْق و عُمُق: گہرائی (۲) تلی ج: أَعْمَاق

عَمِیق: گہرا۔
عَمِیقُ التفکُر: گہری سوچ میں رہنے والا۔
اَعْمَق: انتہائی گہرا۔
عَمِلَ ـَ عَمَلاً: (۱) کرنا (۲) کام کرنا (۳) بنانا (۴) تیار کرنا (۵) مصروف ہونا (۶) کارروائی کرنا۔
عمِلَ فیه: اثر کرنا۔
___ بالاَمْر: کسی حکم کے مطابق عمل کرنا۔
___ عَلَى شَيْءٍ: کوشش کرنا، سعی کرنا، جدوجہد کرنا۔
___ عَلَى إِبَادَةِ الشَّعْب: عوام کی تباہی کی کوشش کرنا۔
___ علی إِخْرَاجِ الشيِّ مِنْ وَاقِعِهِ المُؤلِم: ناگفتہ بہ حالت سے نکالنے کی جدوجہد کرنا۔
___ علی دَعْمِ السِّلْم: استحکامِ امن کی سعی کرنا۔
___ علی إِعَادَةِ الثِّقَةِ فِي القِيَادَة: قیادت پر اعتماد بحال کرنے کی کوشش کرنا۔
___ علی دَرْءِ الأَخْطَار: خطرات دور کرنے کی کوشش کرنا۔
___ علی تَمْزِيقِ القُوَى الوَطَنِيَّة: ملکی طاقتوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرنا۔
___ علی التَّهْدِئَة: سکون پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔
___ لِحِسَابِ فُلَانٍ: کسی کے مفاد میں کام کرنا۔
___ لِلتَّسْوِيَة: حل کرنے کی کوشش کرنا۔
أَعْمَلَ المِقَصَّ علی كذا: کسی چیز پر قینچی چلانا۔
عَمَّلَهُ عَلَى البَلَد تَعْمِيلاً: کسی شہر کا حاکم یا گورنر بنانا۔
عَمَّلَ الجُرْحُ: زخم میں پیپ پڑ جانا۔
عَامَلَه مُعَامَلَةً: سلوک کرنا، طرزِ عمل اختیار کرنا، معاملہ کرنا، لین دین کرنا۔
عَامَلَهُ بطَرِيقَةٍ وَحْشِيَّة: وحشیانہ سلوک کرنا۔
تَعَامَلَ القَوْمُ: باہم لین دین کرنا۔
اِعْتَمَلَ فِي النَّفْس: کارفرما ہونا۔
اِعْتَمَلَ الصِّرَاعُ فی نَفْسِ اَحَدٍ: ذہن میں کشمکش ہونا۔
اِسْتَعْمَلَ اَحَداً لِغَرَضٍ: آلۂ کار بنانا۔
عَمَلٌ: فعل، کام، اقدام، کارروائی، مشغلہ، کاروبار، محنت کاری، ورک، مومنٹ، ایکٹ ج: اَعْمَال۔
العَمَلُ الاِجْتِمَاعِيّ: سوشل ورک۔
عَمَلُ الاِسْتِفْتَاء: رائے شماری کا عمل۔
عَمَلُ اسْتِفْتَاءٍ شَعْبِيّ: عام رائے شماری کا عمل۔
عَمَلٌ بِدِقَّةٍ: احتیاط سے کام کرنا۔
عَمَلٌ بَنَّاء: تعمیری کام، ترقیاتی کام۔
عَمَلٌ تَأدِيبِيّ: تادیبی کارروائی۔
عَمَلٌ تحتَ رِئَاسَةٍ: ماتحتی میں کام کرنا۔
عَمَلُ التَّرْتِيبَات: انتظامات کرنا۔
عَمَلُ التَّمَائِمِ و التَّعْوِيذ: تعویذ گنڈے کرنا۔
عَمَلٌ جَادٌّ: ٹھوس کارروائی۔
عَمَلٌ جَبَّار: بہت بڑا کام۔
عَمَلٌ جَمَاعِيّ: اجتماعی کارروائی۔
عَمَلُ حَاجِزٍ بَيْنَ: رکاوٹ پیدا کرنا۔

عَمَلٌ حَازِمٌ: ٹھوس کارروائی۔
عَمَلُ الحِصَارِ الاِقْتِصَادِیّ علی: اقتصادی ناکہ بندی عائد کرنا۔
عَمَلٌ رَابِحٌ: نفع بخش کاروبار۔
عَمَلٌ رَتِیْبٌ: روٹین ورک، معمول کے مطابق کام۔
عَمَلٌ رَسْمِیّ: سرکاری کام۔
العَمَلُ سِرّاً: خفیہ کارروائی کرنا۔
عَمَلٌ شَرِیْف: اچھا کام، باعزت کام۔
عَمَلُ الصَّفْقَةِ عَلَی شَيْءٍ: سودے کا کسی چیز پر اثر انداز ہونا۔
عَمَلٌ طُوْلَ الوَقْت: فل ٹائم کام۔
عَمَلُ الطَّیَّار علی الطَّائِرَة: پائلٹ کا ہوائی جہاز چلانا۔
عَمَلٌ عَبْقَرِیّ: شاہکار، قابلِ فخر کارنامہ۔
عَمَلٌ عُدْوَانِیّ: دشمنانہ کارروائی، جارحانہ اقدام۔
العَمَلُ الفِدَائِیّ: سرفروشانہ جدوجہد۔
عَمَلُ الفَوَاتِیْر: بیجک بنانا، بل بنانا۔
عَمَلُ الفَهَارِس: فہرستوں کی تیاری کا کام۔
العَمَلُ فِی حَقْلِ التَّبْشِیْر (المَسِیْحِیّ): عیسائی مشن پر کام کرنا۔
عَمَلٌ كِتَابِیّ: کلریکل ورک، محرری، منشی گری۔
عَمَلُ الكَمَائِن: کمین گاہیں بنانا۔
عَمَلٌ لا اَخْلاَقِیّ: غیراخلاقی کارروائی، اخلاق سے گراہوا فعل۔
العَمَلُ المُبَاشِر (كالمُقَاطَعَة والاِضْرَاب عَنِ العَمَل): ڈائرکٹ ایکشن، براہ راست کارروائی۔
عَمَلٌ مَدْفُوْعٌ بالسَّاعَة: ٹائم ورک۔
عَمَلٌ مُرْهِق: دشوار کام۔
عَمَلٌ مُسَلَّح: مسلح کارروائی۔
عَمَلٌ مُشْتَرَك: مشترک کارروائی، مشترکہ کاروبار، مشترکہ کام، ساجھے کا کام۔
عَمَلٌ مُكَثَّف: زبردست مشغولیت۔
العَمَلُ المَلْمُوس: نمایاں کام۔
العَمَلُ المَنُوطُ بِاَحَدٍ: مفوضہ کام۔
عَمَلٌ مُوَحَّد: متحدہ کارروائی۔
عَمَلٌ مَیْدَانِیّ: فیلڈ ورک۔
عَمَلُ نُسَخٍ عَدِیْدَة: ڈپلی کیٹ کاپیاں بنانے کا کام۔
عَمَلٌ وَحْدَوِیّ: اتحاد کی کارروائی۔
عَمَلٌ یَدَوِیّ: دست کاری۔
عَمَلِیٌّ (قَابِلٌ لِلتَّنْفِیْذ، مُمْكِنٌ تَنْفِیْذُهُ): قابلِ عمل، سہل العمل، عمل پذیر۔
اَعْمَال: کاروبار، کارروائیاں۔
الاَعْمَالُ الاِجْرَامِیَّة: مجرمانہ کارروائیاں۔
اَعْمَالٌ اِرْهَابِیَّة: دہشت پسندانہ کارروائیاں۔
اَعْمَالٌ بِنَائِیَّة: تعمیری کام۔
اَعْمَالُ شَغَبٍ عَنِیْفَة: زبردست ہنگامے، فسادات۔
اَعْمَالُ العُدْوَان: جارحانہ کارروائیاں۔
اَعْمَالُ عُنْفٍ: پُرتشدد کارروائیاں۔
اَعْمَالٌ فَوْضَوِیَّة: لاقانونیت۔
اَعْمَالٌ مَصْرِفِیَّة: بینکنگ، بینک

کاری۔
الاَعمَالُ المَکتَبِیَّة: آفس روٹین، دفتری کام، آفس ورک۔
اَعمالٌ نَقدِیَّة: مالی امور۔
اَعمالٌ هَدَّامَة: تخریبی کارروائیاں۔
اَعمالٌ یَدَوِیَّة: دست کاریاں۔
رَجُلُ الاَعمَال: عملی آدمی، مصروف آدمی۔
عُملَة: کرنسی، سکہ ج: عُملات۔
عُملَةٌ اَجنَبِیَّة: غیر ملکی سکہ۔
عُملَةٌ اَجنَبِیَّةٌ قَابِلَةٌ لِلتَّحوِیل: غیر ملکی قابلِ تبدیلی سکہ۔
عُملَةٌ جَیِّدَة: کھرا سکہ۔
عُملَةٌ زَائِفَة: کھوٹا سکہ۔
عُملَةٌ سَهلَة: سافٹ کرنسی (SOFT CURRENCY)۔
عُملَةٌ صَعبَة: ہارڈ کرنسی۔
عُملَةٌ طَفِیفَةُ القِیمَة: کم قیمت سکہ۔
العُملَةُ العُشرِیَّة: اعشاری سکہ۔
عُملَةٌ غَیرُ قَابِلٍ لِلتَحوِیل: نا قابلِ تبدیل سکہ۔
عملَة قابلَةٌ لِلتَّحوِیل: قابلِ تبدیل سکہ۔
عُملَةٌ مُتَدَاوِلَة: سکۂ رائج الوقت۔
عُملَةٌ مُجَمَّدَة: منجمد سکہ، بند کیا ہوا سکہ۔
عُملَةٌ مَحَلِّیَّة: ملکی سکہ۔
عُملَةٌ مُزَیَّفَة: کھوٹا سکہ۔
عُملَةٌ مُسَاعِدَة: معاون سکہ، عارضی سکہ۔
عُملَةٌ مَعدِنِیَّة: دھات کا سکہ۔
عُملَةٌ مُنخَفِضَةُ القِیمَة: کم قیمت سکہ۔
عُملَةٌ وَرَقِیَّة: نوٹ، کاغذی سکہ۔
العُملاتُ الحُرَّة: آزاد کرنسی۔
عُمُلاتٌ مُحکَمَةُ التَزیِیف: نا قابلِ شناخت کھوٹے سکے۔
عِمَالَة: کمیشن پر کام کرنا (۲) ایجنسی، دلالی، ایجنٹ گری، کاسہ لیسی (۳) کمیشن، مزدوری، اُجرتِ کار۔
عُمولَة: آڑھت، ایجنٹ گری، کمیشن۔
عُمولَةُ البَنک: بینک کمیشن۔
عُمولَةُ تِجَارِیَّة: تجارتی ایجنسی۔
عُمولَةُ السِّمسَار: دلال کا کمیشن۔
عُمولَةُ الوُکَلاء: ایجنٹوں کا کمیشن۔
بالعُمولَة: کمیشن پر۔
عَمَلِیَّة: خاص فعل (۲) کارروائی، آپریشن، کارکردگی، کارگزاری، کیس ج: عَمَلِیَّات۔
عَمَلِیَّةُ اِبتِزَاز: بلیک میل۔
عَمَلِیَّةُ اِجلاء: تخلیہ کی کارروائی۔
عَمَلِیَّةُ الاِستِنزَاف: خونریز کارروائی۔
عَمَلِیَّةُ الاِغتِیَال: قاتلانہ کارروائی، قاتلانہ حملہ۔
عَمَلِیَّةُ اِنتَاج: پیداواری کارگزاری۔
العَمَلِیَّةُ الاِنتِحَارِیَّة: اقدام خودکشی۔
عَمَلِیَّةُ الاِنسِحَاب: انخلاء کی کارروائی۔
عَمَلِیَّةُ تَحوِیلِیَّة: ٹرانسفر کارروائی۔
عَمَلِیَّةُ تَرمِیمِ مَبنَی: بلڈنگ کی مرمت و ترمیم کا کام۔
عَمَلِیَّةُ التَعَسُّف: ظالمانہ کارروائی۔
عَمَلِیَّةُ تَعَسُّفِیَّة: ظالمانہ کارروائی۔
عَمَلِیَّةُ تَعمِیَة: اخفاء کی کارروائی۔

عَمَلِيّةُ التفتِيش: تلاش کا کام۔
عَمَلِيّةُ التَّولِيد: دایہ گری۔
عَمَلِيّةٌ جراحِيّة: آپریشن، سرجری آپریشن، سرجیکل آپریشن۔
عَمَلِيّةٌ جسُورَة: انتہائی جرأتمندانہ کارروائی۔
عَمَلِيّةُ الختم: مہرلگانے کی ڈیوٹی۔
عَمَلِيّةُ الذَّبح: قاتلانہ کارروائی۔
عَمَلِيّةٌ سِرِّيَة: خفیہ کارروائی۔
عَمَلِيّةٌ صَغِيرَة: چھوٹا آپریشن۔
عَمَلِيّةٌ عَسكرِيَة: فوجی کارروائی، آپریشن۔
عَمَلِيّةُ العُنف: تشدد کی کارروائی۔
عَمَلِيّةٌ كَبِيرَة: بڑا آپریشن۔
عَمَلِيّةٌ مُشتَركَة: مشترکہ کارروائی۔
عَمَلِيّةٌ مَقضِيٌّ عَلَيها بِالفَشَل: یقینی طور پر ناکام ہونے والی کارروائی۔
عَمَلِيّةُ الهُجُوم: حملہ کی کارروائی۔
عَمَلِيّاتُ استِكشَاف: سراغ رسانی کی کوششیں، سراغ رسانیاں۔
العَمَلِيّاتُ التخرِيبِيّة: تخریبی کارروائیاں۔
عَمَلِيّاتُ التفتِيشِ الواسِعَةُ النِطَاق: زبردست تلاشیاں۔
عَمَلِيّاتٌ حِسَابِيّة: حسابی عمل، کام۔
العَمَلِيّاتُ الفِدَائِيّة: گوریلا کارروائیاں۔
عَمَلِيّاتُ النَّسفِ و التخرِيب: تخریبی کارروائیاں۔
عَمِيل: ایجنٹ، آڑھتی (۲) گاہک ج: عُمَلاء۔
عَامِل: (۱) کاریگر (۲) کارکن، ورکر (۳) مزدور، ملازم، نوکر (۴) حاکم ج: عُمَّال۔
عَامِل: سبب، وجہ، محرک، انجن ج: عَوامِل۔
عَامِلٌ اَسَاسِيّ: بنیادی سبب۔
عَامِلٌ بالاَجر: تنخواہ پر کام کرنے والا۔
عَامِلٌ بِاليَومِيّة: یومیہ مزدور یا کارکن، روزانہ کی مزدوری پر کام کرنے والا۔
عَامِلُ التِلغرَاف: ٹیلیگراف کارکن، ٹیلیگرافر۔
عَامِلُ التِلغرَافِ اللَّاسِلكِيّ: وائرلیس آپریٹر۔
عَامِلُ التِلفُون: ٹیلیفون آپریٹر۔
عَامِلُ الجَمع (فی المَطبَعة): کمپوزیٹر۔
عَامِلُ ضَعف: کمزوری کا باعث۔
عَامِلُ ضَغط: دباؤ کا سبب۔
عَامِلُ العَاطِفَة: جذباتی محرک۔
عَامِلٌ على كذا: نگران، منتظم۔
عَامِلٌ فی مَنجَم: کان میں کام کرنے والا مزدور۔
عَامِلُ المِصعَد: لفٹ مین۔
عَامِلٌ على البَلَد: گورنر، حاکم۔
عَامِلُ المَطبَعَة: پرنٹر۔
العَامِلُ المِيكَانِيكِيّ (كعامِلِ التِلغرَاف): آپریٹر۔
عَامِلُ الوَقت: وقت کا تقاضا۔
عُمَّال و: عَامِل: لیبر، کارکن۔
عُمَّالُ اِدَارَة: اسٹاف، عملہ۔
عُمَّالُ الاِنقاذ: امدادی عملہ۔
عُمَّالُ الشَحنِ و التفرِيغ: سامان اُتارنے چڑھانے والے مزدور۔
عُمَّالٌ عَرَضِيُّون: عارضی کارکنان یا مزدور۔
عُمَّالُ السِّكّةِ الحَدِيدِيَة: ریلوے ملازمین۔

عُمَّالٌ مُعَطَّلُون: بے روزگار مزدور۔
عوامِلُ: اسباب ومحرکات۔
العَوامِلُ البَشَرِيَة: بشری محرکات۔
المُعَامَلَةُ بالمِثل: جیسے کو تیسا، ترکی بترکی۔
مُعَامَلَةٌ تَنطَوِیْ عَلَى التَّفرِقَة: امتیازی معاملہ۔
مُعَامَلاتٌ تِجارِیَة: کاروباری معاملات۔
مُعَامَلاتٌ جُمرُکِیَة: کسٹم سے متعلق معاملات۔
مَعْمَل: مل، فیکٹری، کارخانہ۔
مَعْمَلُ التَّجلِید: جلد سازی کا کارخانہ، بائنڈنگ ہاؤس۔
مَعْمَلُ تَكرِير: ریفائنری، تیل وغیرہ صاف کرنے کا کارخانہ۔
مَعْمَلُ تَكرِيرِ السُّكر: شوگر ریفائنری۔
مَعْمَلٌ عِلمِيّ: لیبارٹری۔
مَعْمَلٌ كِيماوِيّ: (کیمیکل) لیبارٹری۔
مَعْمُول: تیار کردہ (۲) اثر۔
مَعْمُولٌ به: نافذ، جاری۔
عِمْلاق: دیو، دیوقامت، کوئی عظیم الشان قوت، غیر معمولی قابلیت یا قوت کا شخص، غیر معمولی قدو قامت کا شخص، جانور یا درخت، زبردست، بھاری ج: عَمالِقة۔
عَمَّمَ: عام کرنا (۲) پگڑی باندھنا۔
عَمَّ ـــ عُمُوماً: عام ہونا، پھیلنا۔
عَمَّ الاِستِیاءُ الأوسَاطَ الشَّعبِيَّة: عوامی حلقوں میں غم وغصہ پھیلنا۔
عَمَّ الاِضطِراب: ابتری پھیلنا۔
تعَمَّمَ: پگڑی باندھنا۔
عَامٌّ: جنرل، مشترک، مروّجہ۔
عُمُوم: سب، تمام۔
عُمُومُ الهِند: آل انڈیا، کل ہند۔
لِعُمُومِ الهِند: آل انڈیا۔
عُمُومَة: دادھیال۔
عَمِيَ ـــ عَمًى و تَعَمَّى: اندھا ہونا۔
عَمِيَ عَنْ كذا: آنکھیں بند کرلینا۔
عَمِيَ عَلَيهِ الأمْرُ: مخفی رہنا۔
عَمَّى: اندھا بنانا (۲) پوشیدہ رکھنا، پردہ ڈالنا (۳) گمراہ کرنا۔
عَمًى، عَمَايَة: گمراہی۔
أعْمَى: اندھا ج: عُمْيٌ۔
عَمْيَاءُ: اندھی۔
طَاعَةٌ عَمْيَاءُ: کورانہ تقلید۔

ع............ن

عَنْ: (۱) متعلق (۲) بسبب (۳) سے (۴) بعد (۵) برائے۔
عَنْ آخِرِهِم: سب، از اول تا آخر۔
عَنْ إذْنِكَ: آپ کی اجازت سے۔
عَنْ بُعْد: فاصلہ پر، دور سے۔
عَمَّا إذا: اس صورت میں جبکہ۔
عَنَبَ الكَرْمُ: بیل پر انگور ہونا۔
عِنَبٌ: انگور ج: أعْنَاب۔
عُنقُودُ العِنب: خوشۂ انگور۔
كَرْمُ العِنَب: انگور کی بیل۔
عَنِتَ ـــ عَنَتاً: تکلیف اٹھانا، سختی برداشت

کرنا۔
عَنَّتَ ، اَعْنَتَ: تکلیف دینا، سختی کرنا، مصیبت میں ڈالنا۔
تَعَنَّتَ الرَّجُلَ: پریشان کرنا۔
تَعَنُّتٌ: ہٹ دھرمی، شرارت، ضد۔
عَنَجَ ـُ عَنْجاً: کھینچنا۔
عِنْدَ: (ظرفِ زمان ومکان) جب، جس وقت (۲) پاس، نزدیک۔
عِنْدَمَا: جب، جس وقت۔
عِنْدَئِذٍ: اُس وقت، تب۔
عِـنْـدِیْ: (۱) میرے پاس (۲) میرے لئے (۳) میرے خیال میں۔
عَنَدَ ـُ عُنُوداً عَنِ الشیٔ: ہٹنا۔
عَنَدَ و اسْتَعْنَدَ: سرکش ہونا، ضدی ہونا۔
عَانَدَ مُعَانَدَةً: مخالفت کرنا۔
عِنَاد: مخالفت، ہٹ دھرمی، ضد (۲) نافرمانی۔
بِـعِـنَادٍ: سختی کے ساتھ، ہٹ دھرمی کے ساتھ۔
عَنِیْـد ، مُعَانِد: مخالف، سرکش، ضدی، ہٹ دھرم، ہٹی، گنہگار۔
عَنْدَلِیْب: بُلبل ج: عَنَادِلُ۔
عَنْزٌ و عَنْزَةٌ: بکری۔
عُنْصُرٌ: (۱) اصل (۲) جنس (۳) مادّہ (۴) جوہر ج: عَنَاصِرُ۔
عَنَاصِرُ: افرادِ قوم۔
العَنَاصِرُ الاِنْتِهَازِیَّة: موقع پرست عناصر۔
عَنَاصِرُ غَیْرُ مَرْضِیَّة: ناپسندیدہ عناصر۔
عَنَاصِرُ الفِتْنَة: فسادی عناصر۔
عَنَاصِرُ مُتَطَرِّفَة: انتہا پسند عناصر۔

العَنَاصِرُ المُکْتَلَة: دھڑابند عناصر۔
الـعَـنَـاصِـرُ المُشَاغِبَة: مفسد عناصر، غنڈہ عناصر۔
عَنَاصِرُ نِضَالِیَّة: جنگ جو عناصر۔
عُـنْـصُـرِیٌّ: مادی (۲) جنسی (۳) نسلی، نسل پرستانہ۔
الفَوَارِقُ العُنْصُرِیَّة: نسلی امتیازات۔
عُنْصُل: جنگلی پیاز۔
عَنُفَ بہ و علیہ ـُ عُنْفاً: سختی کرنا، تشدد کرنا۔
عَـنَّفَ: سختی کے ساتھ ملامت کرنا (۲) سرزنش کرنا (۳) سخت وست کہنا۔
عَنَّفَ و اَعْنَفَ: سختی کا برتاؤ کرنا، تشدد کرنا۔
عُنْف: تشدد، سختی۔
عُنْفُوَانُ الشَّبَاب: آغازِ جوانی۔
عُنْفُوَانُ الاِسْتِعْمَار: نوآبادکاروں کی بہار۔
عَنِیْفٌ: سخت، شدید، زبردست، تشدد آمیز۔
جِهَادٌ عَنِیْف: زبردست جدوجہد۔
اِجْرَاءاتٌ عَنِیْفَة: سخت کارروائیاں۔
اَعْنَفُ: شدیدتر، سخت ترین۔
اَعْنَفُ الاَزَمَات: سخت ترین بحران۔
تَعْنِیْف: سخت ملامت۔
عَنَقَ: گردن پکڑنا۔
عَانَقَه: گلے لگنا، بغل گیر ہونا۔
عَانَقَ فُلَاناً عِنَاقاً حَارّاً: گرم جوشی سے ملنا۔
اِعْتَنَقَ و تَعَانَقَ الرَّجُلَان: باہم بغل گیر ہونا۔
اِعْتَنَقَ الدِّیْنَ و العَقِیْدَة: مذہب و عقیدہ اختیار کرنا، اپنانا۔

اِعْتَنَقَ رَأياً: رائے رکھنا، نظریہ اپنانا۔
اِعْتَنَقَ المَبادِئَ: اصول اپنانا۔
عُنُق: گردن ج: اَعْنَاق۔
عَنْقَاء: ایک نامعلوم فرضی پرندہ۔
عِنَاق: معانقہ۔
عَنَاق: بکری کا ایک سال سے کم کا بچہ ج: اَعْنُق۔
عُنْقُود: گچھا، خوشہ ج: عَنَاقِيد
عَنْكَب، عَنْكَبُوت: مکڑی ج: عَنَاكِب و عَنْكَبُوتَات۔
نَسِيجُ العَنْكَبُوت: مکڑی کا جالا۔
عَنَّ الكِتَابَ: عنوان قائم کرنا، نام رکھنا۔
عَنَّ لهٔ ـُ عَنّاً: ظاہر ہونا، سامنے آنا، پیش آنا۔
عَنَان: بادل و: عَنَانَة۔
عَنَانُ السَّمَاء: بلندیِ آسمان۔
عِنَان: لگام، رسّی، مہار ج: اَعِنَّة۔
اَطْلَقَ لَهُ العِنَانَ: بے مہار چھوڑنا، آزادی دینا۔
عِنِّين: نامرد۔
عَنْوَةً: زبردستی، بزور۔
عَنَا ـُ عُنُوّاً: تابع ہونا، مطیع ہونا، سامنے جھکنا۔
عَنَاهُ الاَمْرُ: پریشان کرنا۔
عَنْوَنَهُ بكذا عَنْوَنَةً: سُرخی لگانا، عنوان قائم کرنا۔
عَنْوَنَ الخِطَابَ: پتہ لکھنا۔
عَنْوَنَ الكِتَابَ: نام رکھنا۔
عُنْوَان: پتہ، ایڈریس (۲) مضمون کی سرخی (۳) کتاب کا نام، ٹائٹل ج: عَنَاوِين۔

عُنْوَانٌ بِحَرْفٍ كَبِيرٍ: ہیڈلائن۔
عُنْوَانٌ بَرْقِيٌّ: تار کا پتہ۔
عُنْوَانٌ رَئِيسِيٌّ (فِي صَحِيفَةٍ): شاہ سُرخی، اخبار میں پہلی سرخی۔
عُنْوَانُ الشَّرِكَة: فرم کا نام۔
صَفْحَةُ العُنْوَان: ٹائٹل پیج۔
مُعَنْوَنٌ بِاسْمِ فُلَانٍ: کسی کے نام سے منسوب۔
عَنَى ـِ عَنْياً: ارادہ کرنا، قصد کرنا۔
عَنَى به: حفاظت کرنا (۲) توجہ دینا۔
عَنَى الاَمْرُ فُلَاناً: کسی سے متعلق ہونا، سروکار ہونا، غرض رکھنا۔
هٰذا لا يَعْنِينِي: مجھے اس سے سروکار نہیں۔
عُنِيَ بالاَمْرِ عِنَايَةً: توجہ دینا، اہتمام کرنا۔
عَنِيَ ـَ عَنَاءً: تھکنا، تکلیف اٹھانا۔
عَانَى مُعَانَاةً: تکلیف اٹھانا، مصیبت جھیلنا۔
عَانَاهُ و مِنْهُ: سامنا ہونا، دوچار ہونا، مبتلا ہونا۔
عَانَى مِنَ الاَزْمَةِ العَصَبِيَّة: ذہنی کشمکش میں مبتلا ہونا۔
عَانَتِ الحُكُومَةُ اَزْمَةً: حکومت کو بحران کا سامنا ہونا۔
اِعْتَنَى بِالاَمْرِ: توجہ دینا، اہتمام کرنا۔
اِعْتَنَى به: حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا۔
تَعَنَّى: تھکنا، تکلیف جھیلنا۔
عَنَاء: تکلیف (۲) تھکان۔
عِنَايَة، اِعْتِنَاء: توجہ، اہتمام، اٹینشن۔
أَعْنِي، يَعْنِي: مطلب یہ ہے۔
مُعَانَاة: تکلیف، پریشانی۔

مُعَاناةٌ رَهِيبَة: سخت پریشانی۔
مُعَاناةٌ قَاسِيَة: سخت تکلیف۔
مَعْنَى: مضمونِ کلام، مفہوم (۲) حقیقت
ج: مَعَان۔
لَا مَعْنَى لَهُ: بے مطلب، بے مقصد۔
مَعَان: حقائق، معانی (۲) نیک جذبات۔
مَعَانِي العَطْفِ والرِّعَايَة: شفقت و عنایت کے جذبات۔
مَعْنَوِيّ: (۱) بامعنی (۲) ضد حسّی (۳) ضد مادّی (۴) روحانی، باطنی۔
المَعْنَوِيَّة: مورل، حوصلہ، روحانیت۔
المَعْنَوِيَّةُ المُرْتَفِعَة: بڑھا ہوا حوصلہ۔
مَعْنِيٌّ بكذا: متعلق، اہتمام کرنے والا، توجہ دینے والا۔
مَعْنِيُّون: متعلقین۔
مُعْتَنٍ بكذا: توجہ و اہتمام کرنے والا۔

ع .... ہ

عَهِدَ الشئَ ـَـ عَهْداً: دیکھ بھال کرنا، نگہداشت کرنا (۲) جاننا (۳) پانا۔
___ الوَعْدَ: پورا کرنا۔
___ إلَيْه بكذا: کوئی کام سپرد کرنا، ذمہ دار بنانا (۲) ٹھیکہ دینا۔
___ إليه بِمَنْصِب: عہدہ سپرد کرنا۔
عَاهَدَه: عہد کرنا۔
عَاهَدَ نَفْسَهُ على شئٍ: کسی بات کا فیصلہ کرنا، اپنے اوپر کوئی بات لازم کرنا۔
تَعَهَّدَ: نگرانی کرنا۔
تَعَهَّدَ بكذا: ذمہ داری لینا، ٹھیکہ لینا۔
تَعَهَّدَ له بكذا: ضامن بننا، وعدہ کرنا۔

اِسْتَعْهَدَ مِنه: عہد لینا، وعدہ لینا۔
اِسْتَعْهَدَهُ من نَفْسِه: کسی سے اپنی زندگی کا بیمہ کرانا۔
عَهْد: (۱) وفاداری (۲) ذمہ (۳) وعدہ (۴) امان (۵) ضمانت (۶) ڈیٹ، زمانہ، دور
ج: عُهُود۔
عَهْدٌ على أدَاءِ الدَّوْر: کردار ادا کرنے کا عہد۔
العَهْدُ البَائِد: گزشتہ زمانہ، فرانسیسی انقلاب سے پہلے کا زمانہ۔
العَهْدُ الجَدِيد: انجیل۔
العَهْدُ القَدِيم: توراۃ۔
حَدِيثُ العَهْد: نیا، نئی پیداوار، نوعمر (قَرِيبُ العَهْد)۔
مِنْ عَهْدٍ قَرِيب: حال ہی میں، کچھ عرصہ ہوا۔
ثَابِتُ العَهْد: وفادار۔
نَقْضُ العَهْد: عہد شکنی۔
عَلَى عَهْدِ فُلَان: فلاں کے دور میں۔
قَطَعَ عَهْداً على نَفْسِه: عہد کرنا۔
عَهْدِيْ بِهِ أنّه كذا: میں اسے جانتا ہوں کہ وہ ایسا ہے۔
فِيمَا أعْهَدُ: میری دانست میں۔
عُهْدَة: ذمہ داری، چارج (۲) ضمانت (۳) کمزوری۔
عَلَى عُهْدَةِ فُلَان: فلاں کی ذمہ داری میں۔
عَهِيد، مُعَاهِد: عہد کرنے والا۔
تَعَهُّد: نگہداشت (۲) ذمہ داری، پابندی

(۳) ٹھیکہ ج: تَعَهُّدات۔
مُعَاهَدَة: معاہدہ، ایگریمنٹ۔
مُعَاهَدَةٌ تِجَارِيَّة: معاہدہ تجارت۔
مُعَاهَدَةُ تَسْلِيمِ المُجْرِمِين: تحویلِ مجرمین کا معاہدہ۔
مُعَاهَدَةُ تَعَاوُن: امدادِ باہمی کا معاہدہ۔
مُعَاهَدَةُ صَدَاقَةٍ: دوستی کا معاہدہ۔
مُعَاهَدَةُ عَدَمِ الاِعْتِدَاء: ناجنگ معاہدہ۔
مَعْهَد: ادارہ ج: مَعَاهِدُ۔
مَعْهَدُ البُعُوث: باہر سے آنے والوں کا ادارہ۔
مَعْهَدٌ عِلْمِيّ: انسٹی ٹیوٹ۔
مُتَعَهِّد: اجارہ دار، ذمہ دار، ٹھیکیدار۔
مُتَعَهِّدُ اَعْمَالٍ: کاموں کا ٹھیکیدار۔
مُتَعَهِّدُ تَوْرِيدِ عُمَّالٍ: مزدوروں کا ٹھیکیدار، سپلائی کنٹریکٹر۔
مُتَعَهِّدُ النَّقْل: ٹرانسپورٹ کنٹریکٹر۔
مَعْهُود: معلوم، مقرر۔
مَعْهُودٌ إلَيْه بكذا: اسے فلاں کام کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، وہ فلاں بات کا ذمہ دار ہے۔
عَهَرَ الـمَرْأَةَ و إلَيْها عُهُوراً و عَهَارَةً: زنا کرنا۔
عِهْر، عَهَارَة: بدکاری، زناکاری، گناہ۔
عَهِرٌ و عَاهِرٌ: زانی، بدکار۔
عَاهِرٌ، عَاهِرَة: زانیہ، فاحشہ۔
عَاهِلٌ: شہنشاہ ج: عَوَاهِل۔

ع ....و

عَوِجَ ـــ عَوَجاً و اعْوَجَّ و تَعَوَّجَ: ٹیڑھا ہونا (۲) مڑنا۔
عَوَّجَ و أعْوَجَ: ٹیڑھا کرنا، موڑنا۔
عَاجٌ: ہاتھی دانت و: عَاجَة۔
عَاجِيٌّ: ہاتھی دانت کا۔
اَعْوَجُ، مُعَوَّج: ٹیڑھا، مڑا ہوا، آڑا۔
عَوَّدَ تَعْوِيداً: عادی بنانا۔
عَادَ ـُ عَوْداً: (۱) لوٹنا (۲) ہونا۔
عَادَ إلَى الأمْر: دوبارہ کرنا۔
عَادَ عليه بكذا: اس کے حق میں یہ نتیجہ نکلا۔
عَادَتِ الحَيَاةُ النِّيَابِيَّة: پالیمنٹری دور بحال ہونا۔
عَادَ بالكرامة: وقار بحال کرنا۔
عَادَ الهُدُوءُ إلى كذا: سکون ہو جانا، امن بحال ہونا۔
عَادَتِ المَجَلَّةُ لِلصُّدُور: دوبارہ اخبار جاری ہونا۔
عَادَتِ المِيَاهُ إلى مَجَارِيهَا: حالات معمول پر آنا۔
عَادَتِ الثِّقَةُ إلي: اعتماد بحال ہونا۔
عَادَتْ حَرَكَةُ المُرُور: آمدورفت بحال ہونا۔
لَمْ يَعُدْ بالإمْكَان: ممکن نہیں رہا۔
لَمْ يَعُدْ مَوْضِعَ تَقْدِيرِه: آنکھوں سے گر گیا۔
عَادَ ـُ عِيَادَةً: بیمار پرسی کرنا۔
عَاوَدَ: دوبارہ کرنا، مکرر کرنا۔
عَاوَدَ الكُرَةَ: گیند کو دوبارہ پھینکنا۔
عَاوَدَهُ بالسُّؤال: بار بار پوچھنا۔
عَاوَدَتْهُ الحُمَّى: دوبارہ بخار آنا۔

عَاوَدَ الشئَ: عادت بنالینا۔
عَیَّدَ تَعْیِیداً: جشن منانا، عید منانا۔
عَیَّدَ عَلَیْه: عید کی مبارک باد دینا۔
اَعَادَ إعَادَةً: لوٹانا، واپس کرنا، مکرر کرنا۔
اَعَادَ الاِتِّصَالَ بِاَحَدٍ: دوبارہ رابطہ قائم کرنا۔
اَعَادَ الشئَ إلی الأذْهَانِ: یاد دلانا، یاد تازہ کرنا۔
اَعَادَ الطَّلَبَ: دوبارہ درخواست کرنا۔
اَعَادَ طَبْعَ الكِتَاب: دوبارہ شائع کرنا، دوسرا ایڈیشن نکالنا۔
اَعَادَ النَّظَرَ فِی: نظرِ ثانی کرنا، دوبارہ غور کرنا۔
اَعَادَ النَّظَرَ فِی القَرَار: تجویز پر نظرِ ثانی کرنا۔
اِعْتَادَ و تَعَوَّدَ الأمْرَ: عادی ہونا۔
اِسْتَعَادَ الشئَ: واپس لینا (۲) بحال کرنا۔
اِسْتَعَادَةُ الشئِ: دوبارہ کرنے کی درخواست کرنا۔
اِسْتَعَادَ الثِّقَةَ بَیْنَهُمْ: اعتماد بحال کرنا۔
اِسْتَعَادَ الصِّحَّةَ: تندرستی بحال کرنا۔
عَادَة: عادت، اخلاق (۲) معمول ج: عَادَات۔
عَادَةً: عام طور سے۔
فَوْقَ العَادَة: غیر معمولی، ہنگامی، خلاف معمول۔
اِجْتِمَاعٌ فَوْقَ العَادَة: ہنگامی میٹنگ، غیر معمولی جلسہ۔

عَادِی: معمولی، معمول کے مطابق (۲) عام (۳) قدرتی (۴) رائج (۵) متداول (۶) آثارِ قدیمہ، قدیم عمارات ج: عَادِیَّات۔
عَائِد: ملاقاتی (۲) عیادت کنندہ ج: عُوَّاد۔
عَائِد: ٹیکس، لگان، بچت ج: عَوَائِدُ۔
عَائِدٌ صَافٍ: خالص بچت۔
العَائِدُ الضَّخْمُ: بھاری آمدنی، زبردست منافع۔
عَائِدَة: پرافٹ، فائدہ، آمدنی، منافع ج: عَائِدَات و عَوَائِدُ۔
عَائِدَاتُ النِّفْط: پٹرول کی آمدنی۔
عَوَائِد: چنگی، ٹیکس۔
عَوَائِدُ الاَمْلاک: جائیداد ٹیکس۔
عَوَائِدُ جُمْرُکِیَّة: کسٹم ڈیوٹی، کسٹم چنگی۔
عَوَائِدُ جُمْرُکِیَّةٌ اِضَافِیَّة: اضافی کسٹم سرچارج۔
عَوَائِدُ الدِّلَالَة: نیلامی فیس، دلالی کی اجرت۔
عَوَائِدُ المُرُوْر: ٹول ٹیکس۔
عَوَائِدُ المِیْنَاء: بندرگاہ ٹیکس۔
عَوْد، عَوْدَة: واپسی۔
عَوْد و عِیَادَة: ملاقات، بیمار پرسی۔
عَوْد و عِیَاد: تکرار۔
عِیَادَةُ طَبِیْبٍ: مطب، ڈسپنسری ج: عِیَادَات۔
عُوْد: (۱) لکڑی (۲) چھڑی (۳) ایک باجا (۴) ایک قسم کی خوشبو۔
عُوْدُ الثِّقَاب: پھول جھڑی۔

عَجَمَ عُوْدَه: آزمانا، تجربہ کرنا، حقیقت معلوم کرنا۔
عِيد: خوشی (۲) خوشی کا دن (۳) تہوار، جشن (۴) میلہ (۵) تعطیل ج: اَعْیَاد۔
عِيدُ اَلْفِيّ: جشنِ ہزار سالہ۔
عِيدُ رَأْسِ السَّنَة: آغازِ سال کا جشن، جشن نوروز۔
عِيدٌ سَنَوِيّ: جشنِ سالانہ۔
عِيدُ الفِصْح: عیسائیوں کا تہوار۔
عِيدٌ مِئَوِيّ: جشن صد سالہ۔
عِيدُ المِيْلَاد: جشنِ ولادت، جنم دن، برسی، برتھ ڈے۔
عِيدٌ فِضِّيّ: سلور جوبلی۔
عِيدٌ وَطَنِيّ: قومی تہوار۔
عِيدِيَّة: تحفۂ عید، عیدی۔
إِعَادَة: (۱) واپسی (۲) تکرار (۳) واگزاری۔
أَعِدْ: دوبارہ (ارشاد فرمایئے) پھر پھر۔
إِعْتِيَادِيّ: دستوری، رائج، معمول کے مطابق۔
مَعَاد: انجام (۲) آخرت۔
مُعْتَاد: معمولی، مُروّج۔
مُعِيد: ڈمانسٹریٹر، معاون مدرس۔
مُعِيدُ الدَّرْس: معاون مدرس۔
مِيْعَاد: وقتِ مقرر ج: مَوَاعِيْد۔
عَوَّذَ و أَعَاذَ: خدا کی حفاظت میں دینا (۲) کسی کے لئے تعویذ کرنا۔
عَاذَ ـُ عَوْذاً و تَعَوَّذَ و اسْتَعَاذَ به: پناہ لینا (۲) حفاظت میں آنا۔
عَوْذ، مَعَاذ: پناہ گاہ۔

عُوْذَة: تعویذ، گنڈا ج: عُوَذ۔
عَوَّرَ تَعْوِيراً: کانا بنانا۔
عَوِرَ ـَ عَوَراً: کانا ہونا۔
أَعَارَهُ إِعَارَةً: قرض دینا، اُدھار دینا، لون دینا، عاریۃً دینا۔
اِسْتَعَارَ الشَّيْءَ: قرض لینا، اُدھار لینا، عاریۃً لینا۔
عَارِيَة: قرض۔
عَوْرَة: قابلِ پوشیدگی اعضائے جسم، ستر ج: عَوْرَات۔
عَوْرَة، عِوَار: عیب۔
أَعْوَرُ: کانا ج: عُوْر۔
مُعِير: قرض دہندہ۔
مُسْتَعِير: قرض گیرندہ۔
مُسْتَعَار: (۱) قرض لیا ہوا (۲) مصنوعی، عارضی (۳) جھوٹا (۴) مجازی۔
عَازَ ـُ عَوْزاً: محتاج ہونا۔
عَوِزَ ـَ عَوَزاً و أَعْوَزَ: مفلس وغریب ہونا۔
عَوِزَ الشَّيْءُ: کم یاب ہونا۔
عَوِزَ الأَمْرُ: دشوار ہونا۔
يُعْوِزُهُ كَذَا: اس میں فلاں چیز کی کمی ہے۔
عَوَز، إِعْوَاز: ضرورت واحتیاج، غربت و افلاس۔
عَوِز، عَائِز، مُعْوِز: مفلس محتاج۔
عَوِصَ ـَ عَوَصاً: کلام کا مشکل ہونا۔
عَوِيص: مشکل، ناقابل فہم۔
مُشْكِلَةٌ عَوِيْصَة: پیچیدہ مسئلہ۔
عَوَّضَ و عَاضَ ـُ عَوْضاً و أَعَاضَ: بدلہ

دینا،معاوضہ دینا،اُجرت دینا۔
عَوَّضَ و اَعَاضَ عَنِ الضَّرَر: نقصان کا تاوان دینا۔
اِعْتَاضَ و تَعَوَّضَ مِنْهُ: بدلہ لینا۔
اِعْتَاضَ عَنْهُ: بدل بننا۔
عِوَضٌ: بدلہ،معاوضہ۔
عِوَضٌ و تَعْوِيْضٌ: انعام۔
عِوَضٌ و تَعْوِيْضٌ عَنْ: تاوان،حرجانہ، معاوضۂ نقصان۔
عِوَضاً عَنْ: بجائے،بدلہ میں۔
لَا يُعَوَّضُ: نا قابلِ معاوضہ۔
تَعْوِيْضٌ: الاؤنس،معاوضہ،حرجانہ،کلیم، انعام ج: تَعْوِيْضَاتٌ۔
تَعْوِيْضُ البَطَالَةِ: بے روزگاری الاؤنس۔
تَعْوِيْضُ العُمَّالِ: مزدوروں کا معاوضہ۔
تَعْوِيْضٌ مَدَنِيٌّ: شہری معاوضہ۔
تَعْوِيْضَاتٌ: معاوضے۔
تَعْوِيْضَاتٌ عَنِ الخَسَائِرِ: نقصانات کے معاوضے۔
عَوَّقَ تَعْوِيْقاً و عَاقَ ـُ عَوْقاً: مؤخر کرنا، روکنا،رکاوٹ ڈالنا۔
تَعَوَّقَ: التوائیں پڑنا،رکنا،مؤخر ہونا۔
عَوْقٌ ، اِعَاقَةٌ: تاخیر،التواء،رکاوٹ۔
عَائِقٌ ، عَائِقَةٌ: رکاوٹ ج: عَوَائِقُ۔
عَوَائِقُ: رکاوٹیں۔
عَوَائِقُ مُصْطَنَعَة: مصنوعی رکاوٹیں۔
عَوَّاقَةُ القِطَارِ الحَدِيْدِيِّ: بریک وین۔
مُعِيْقٌ: مانع۔

اَلْمُعَوَّقُوْنَ: معذور لوگ۔
مُعَوِّقَاتٌ: رکاوٹیں۔
مُعَوِّقَاتٌ تَسْوِيْقِيَّة: خرید و فروخت کی مشکلات۔
عَوَّلَ تَعْوِيْلاً و أعْوَلَ: گریہ وزاری کرنا،آہ و بکا کرنا،واویلا مچانا۔
عَوَّلَ و أعْوَلَ علي: بھروسہ کرنا،اعتماد کرنا۔
عَوَّلَ و أعْوَلَ عَلَى نَفْسِهِ: اپنے پر بھروسہ کرنا۔
عَوَّلَ و أعْوَلَ عَلَى أمْرٍ: پختہ ارادہ کرنا۔
عَالَ ـُ فِي حُكْمِهِ عَوْلاً: ظلم کرنا۔
عَالَ: بھاری ہونا (۲) کسی پر بوجھ بننا۔
عَالَ عِيَالَهُ أوْ غَيْرَهُ ـُ عِيَالَةً: کفالت کرنا، پرورش کرنا، اخراجات کا ذمہ دار ہونا۔
عَالَ و اَعَالَ الرَّجُلُ: کثیر العیال ہونا (۲) مفلس ومحتاج ہونا۔
عَوْلٌ ، عَيْلٌ: ظلم۔
عَوْلٌ و عِيَالَة و إعَالَة: معاشی کفالت،کنبہ پروری،عیالداری،پرورش۔
عَوْلٌ (۲): عیالدار،کنبہ پرور۔
عَوْلٌ و عَوِيْلٌ: گریہ وزاری،واویلا۔
عِيَالٌ عَلَى فُلَانٍ: کسی کا دست نگر، محتاج۔
عَوِيْلٌ ، عِيَالَةٌ عَلَى: دوسرے کا محتاج، دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنے والا۔
عِوَلٌ ، تَعْوِيْلٌ: بھروسہ۔
عَالَةٌ: (۱) چھتری (۲) بوجھ۔

عَائِل: غریب، مفلس، نادار ج: عَالَة و عُيَّل۔
عَائِل (۲) مُعِيل: عیالدار، کنبہ دار۔
عَائِلَة: گھرانہ، خاندان، فیملی، کنبہ ج: عَائِلات۔
العَائِلَةُ المَالِكَة: حکمراں خاندان۔
عَائِلِيّ: ازدواجی، خانگی۔
عَيِّلُ الرَّجُل: اہلِ خانہ جن کی معاشی کفالت مرد کے ذمہ ہو ج: عِيَال۔
مُعَال: زیرِ کفالت، زیرِ پرورش۔
مِعْوَل: کدال ج: مَعَاوِل۔
مُعَوَّل: بھروسہ۔
المُعَوَّلُ عَلَيْه: معتمد علیہ۔
عَوْم: تیراکی۔
لِبَاسُ العَوْم: تیرنے کا لباس۔
خَطُّ العَوْم: تیرنے کی لائن۔
عَوَّمَ السَّفِيْنَةَ: کشتی کھینا۔
عَوَّمَ الثُّلُوْجَ مِنْ مُسْتَقَرِّهَا: برف کو بہادینا، اپنی جگہ سے ہٹادینا۔
عَامَ ـُ عَوْماً: تیرنا، سطح پر رہنا۔
عَائِم: (۱) تیراک (۲) تیرتی ہوئی چیز۔
عَائِمَة: تیر کا مکان، خانہ کشتی، ہاؤس بوٹ۔
عَوْماً، بِالعَوْم: تیر کر۔
عَام: سال ج: أعْوَام۔
عَامَّة و عَوَام: عام لوگ (در عمم)۔
عَوَّام: تیراک، زبردست تیراک۔
عَوَّامَة: مچھلی کے کانٹے کے ساتھ ڈور میں بندھی ہوئی لکڑی جو تیرتی رہتی ہے۔

عَوَّنَ، اَعَانَ، عَاوَنَ: مدد کرنا۔
اَعَانَهُ مِنْه: چھڑانا، جان بچانا۔
عَوْن، إعَانَة، مَعُوْنَة: امداد، سپورٹ، کمک۔
عَوْنَة: بےگار (۲) مزدور، لیبر۔
عَوَان: ادھیڑ عمر ج: عُوْن۔
حَرْبٌ عَوَان: زبردست جنگ۔
عَانَة: پیڑو ج: عَانَات۔
إعَانَة: سپورٹ، مدد، گرانٹ، ریلیف، امداد، کمک، اشتراکِ عمل۔
إعَانَةٌ دِرَاسِيَّة: اسکالرشپ، تعلیمی وظیفہ۔
تَعَاوُنٌ إقْلِيمِيّ: صوبائی تعاون۔
تَعَاوُنٌ بَيْنَ الشُّعُوب: قوموں کا تعاون۔
تَعَاوُنٌ ثُنَائِيّ: دوطرفہ تعاون۔
تَعَاوُنٌ دُوَلِيّ: بین الاقوامی تعاون۔
تَعَاوُنٌ مُتَبَادِل: باہمی تعاون، مشترکہ تعاون۔
تَعَاوُنٌ وَثِيق: زبردست تعاون۔
تَعَاوُنٌ وُدِّيّ: دوستانہ تعاون۔
تَعَاوُنِيّ: امدادِ باہمی کا (۲) معاونت کرنے والا۔
جَمْعِيَّةٌ تَعَاوُنِيَّة: کوآپریٹو سوسائٹی۔
مَعُوْنَةٌ اِجْتِمَاعِيَّة: سوشل ویلفیئر۔
مَعُوْنَةٌ اِقْتِصَادِيَّة: اقتصادی امداد۔
المَعُوْنَةُ الأمْرِيكِيَّة: امریکی امداد۔
مَعُوْنَةٌ ثُنَائِيَّة: دوطرفہ امداد۔
مَعُوْنَةٌ عَسْكَرِيَّة: فوجی امداد۔

مَعُونَةٌ فَنِيَّة: فنی امداد۔
مَعُونَةٌ مَالِيَّة: مالی امداد۔
مَعُونَةٌ مُتبادِلَة: مشترکہ امداد، باہمی امداد، متبادل امداد۔
مُعَاوَنَة: کوآپریشن، ہیلپ۔
مُعَاوِن: شریکِ کار، مددگار، اسسٹنٹ، ہیلپر۔
مُعِين: مددگار۔
المُعِين: اسسٹنٹ۔
عَوَّهَ النباتَ تَعوِيهاً: نباتات کو نقصان پہنچانا۔
عَوَّهَ الانسانَ: مبتلائے مصیبت کرنا۔
عَاهَ ــُ عَوهاً: نباتات کا آفت رسیدہ ہونا۔
عَاهَة: مصیبت، آفت (۲) بیماری ج: عَاهَات۔
مَعُوه، مَعْيُوه: مصیبت زدہ۔
عَوَى ــِ عُوَاءً: کتے اور بھیڑیے کا بولنا، بھونکنا۔
اِنعَوَى: مڑنا۔
عُوَاء: بھونکنے کی آواز۔

ع .... ی

عَيَّبَهُ و عَابَه ــِ عَيباً: عیب لگانا، معیوب قرار دینا، مذمت کرنا، عیب دار بنانا۔
عَابَ عَلَيه: مذاق اڑانا۔
عَيبٌ، مَعَاب: عیب، نقص، خامی، بگاڑ، خرابی۔
عَيبٌ خَفِيّ: نامعلوم خرابی۔
عَيبٌ ظَاهِر: کھلا عیب۔

عَيَّاب: مذمتی، بڑا عیب جو۔
مَعِيب: عیب دار۔
عَاثَ ــِ عَيثاً: فساد پھیلانا، بگاڑ پیدا کرنا۔
عَيَّرَ تَعيِيراً: شرم دلانا، کسی کے فعل کو قابلِ مذمت قرار دینا۔
عَايَرَه مُعَايَرَةً: (۱) فخر کرنا (۲) جانچنا (۳) ناپ تول کرنا (۴) ٹسٹ کرنا۔
عَارَ ــِ عَيراً: حیران و سرگرداں پھرنا۔
عَار: شرم (۲) عیب ج: اَعيَار۔
يَا لِلعَار: شرم شرم، کتنی شرم کی بات ہے۔
عَيرٌ: حیرانی و سرگردانی (۲) جنگلی گدھا۔
عِيرٌ: قافلہ ج: عِيرَات۔
عِيرَة: عارضی چیز۔
اَسنَانُ عِيرَةٍ: مصنوعی دانت۔
عِيَار: مقدار، ناپ ج: عِيَارَات۔
عِيَارٌ نَارِيّ: شوٹ۔
عِيَارٌ (۲): (۱) وزن، باٹ ج: عِيَارات۔
عِيَارُ الذَّهَب: سونے کا وزن۔
عَيَّارٌ، عَائِر: آوارہ گرد، بے مشغلہ۔
عَيَّارٌ: (۱) کرین، آلۂ جرِ ثقیل۔
مِعيَار: اسٹینڈرڈ، پیمانہ، کسوٹی ج: مَعَايِير۔
مِعيَارِيّ: معیاری، اسٹینڈرڈ۔
مَعَايِر: عیوب۔
عِيسٌ و: اَعيَس: بھورے رنگ کا اونٹ۔
عَيَّشَ و اَعَاشَ: زندگی بسر کرانا، زندہ رکھنا۔
عَاشَ ــِ عَيشاً: زندہ رہنا، رہنا، زندگی گزارنا، بسر کرنا۔
عَاشَ فُلَانٌ: زندہ باد (نعرہ)۔
عَاشَ شَيئاً كَذَا: کسی چیز کا ہمیشہ ساتھ

رہنا، کسی مسئلہ کو زندگی کا جزو بنانا، کسی مسئلہ کا ساتھ دینا۔
عَاشَ القَضِيَّةَ: مسئلہ کو اچھی طرح سمجھنا۔
عَاشَ فِي رَغَدٍ: آرام سے زندگی بسر کرنا۔
عَاشَ فِي رَاحَةِ بَالٍ: سکونِ قلب کے ساتھ زندگی گزارنا۔
عَاشَ فِي المَنفَى: جلاوطنی کی زندگی گزارنا۔
عَاشَ على كذا: کسی چیز کے سہارے جینا (۲) کسی چیز کو غذا اور خوراک بنانا۔
عَايَشَهُ مُعَايَشَةً: کسی کے ساتھ زندگی گزارنا، ساتھ رہنا۔
تَعَيَّشَ: زندہ رہنے کی کوشش کرنا (۲) زندگی بنانا۔
التَّعايُش: بقائے باہم۔
التَّعايُشُ السِّلمِيّ: پُرامن بقائے باہم۔
عَيْشٌ: زندگی، گزر بسر (۲) چپاتی۔
عَيْشٌ و عِيشَة: زندگی کی حالت۔
عِيشَةٌ قاسِيَة: تکلیف دہ زندگی۔
عِيشَةُ الكَفَاف: بقدرِ کفاف زندگی۔
عائِشٌ: زندہ، خوشحال۔
عَيَّاش: روٹی بیچنے والا۔
مَعَاش، مَعِيشَة: سامانِ معیشت، گزر بسر کا سامان (۲) روزینہ۔
مَعَاشُ تَقَاعُدٍ: پنشن۔
مَعَاشٌ سَنَوِيّ: سالانہ پنشن۔
مَعَاشُ الشَّيخُوخَة: کبرسنی کی پنشن۔
مَعَاشُ طُولِ الحَيَاة: تاعمر وظیفہ، وظیفہ تاحیات، پنشن تاعمر۔
ذُو مَعَاشٍ: پنشنر، پنشن یافتہ۔
اَحَالَ فُلاناً عَلى مَعَاشٍ: پنشن دینا۔
عَيَّطَ: چیخنا، چلانا۔
عَيَّطَ على: پکارنا، آواز دینا (۲) رونا۔
عِيَاط: چیخ وپکار (۲) رونا۔
عَيْف: ناگواری، نفرت۔
عَافَ الشيئَ ـِ عَيفاً و عِيَافاً: گھن کرنا، برا سمجھنا، نفرت کرنا۔
عَافَ الطَّائِرُ على الشيئ ـِ عَيفاً: گھومنا۔
عَيِلَ و اَعْيَلَ: کثیر العیال ہونا۔
عَيَّلَ عِيَالَهُ: کفالت کرنا۔
عِيلَ صَبْرُه: اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگیا۔
عَيِّلٌ: (ذا) بچہ۔
عَالَ ـِ عَيلاً: محتاج ومفلس ہونا۔
عَالَ عِيَالَه: کفالت کرنا، پرورش کرنا۔
عَالَ الرَّجُلُ: کثیر العیال ہونا، کنبہ دار ہونا۔
عَيْلَة، عَائِلَة: کنبہ، گھرانہ، فیملی۔
اِبْنُ عَيلَةٍ: فیملی کا ایک فرد۔
رَبُّ عَيلَة: صاحبِ کنبہ۔
عائِلِيّ: خاندانی، گھریلو۔
عَائِل: فقیر محتاج۔
عِيَالَة: کفالت، پرورش۔
مُعِيل: عیالدار، کنبہ دار۔
عَيَّنَ تَعْيِيناً: (۱) مقرر کرنا (۲) تخصیص کرنا (۳) تحدید کرنا (۴) ممتاز کرنا (۵) سوراخ کرنا (۶) نامزد کرنا۔

عَيَّنَ الحُدُودَ: حد بندی کرنا، سرحدیں متعین کرنا۔
عَيَّنَ حَارِساً قَضَائِيّاً على: رسیور مقرر کرنا، کسی جائیداد کا نگراں مقرر کرنا۔
عَيَّنَ لَجْنَةً: کمیشن مقرر کرنا۔
عَيَّنَ وَصِيّاً: جانشین مقرر کرنا۔
عَيَّنَ وَصِيّاً إِدَارِيّاً: انتظامی جانشین مقرر کرنا۔
عَيَّنَهُ فی وَظِيفَةٍ أو مَرْكَزٍ: کسی اسامی یا عہدے پر تقرر کرنا۔
عَايَنَ و تَعَيَّنَ: معائنہ کرنا، دیکھنا، مشاہدہ کرنا، سروے کرنا۔
تَعَيَّنَ: مقرر ہونا (۲) نامزد ہونا۔
تَعَيَّنَ عليه: لازم ہونا۔
تَعَيَّنَ فی وَظِيفَةٍ: کسی پوسٹ پر تقرر ہونا۔
تَعَيَّنَ المَوْعِدُ مَعَ أَحَدٍ لِلزِّيَارَة: اپائنٹ منٹ ہونا، کسی سے ملاقات کا وقت مقرر ہونا۔
عَيْنٌ: آنکھ ج: عُيُون (۲) نقد مال، سونا وغیرہ (۳) آفتاب (۴) چشمۂ آب (۵) قسم، نوع (۶) ذات (۷) حصہ (۸) کمپارٹمنٹ (۹) گھٹنا (۱۰) سردار، سربرآوردہ ج: أَعْيَان (۱۱) جاسوس ج: عُيُون (۱۲) منتخب چیز (۱۳) بعینہ۔
العَيْنُ العَارِيَة: بے چشمہ آنکھ، مُجرّد آنکھ۔
عَيْنُ العَطْف: نگاہِ شفقت۔
عَيْنُ الشَّمْس: قرصِ آفتاب، سورج کی ٹکیہ۔

شَاهِدُ عَيْنٍ: عینی شاہد۔
نَزَلَ مِنَ العَيْنِ: نظروں سے گر جانا۔
العَيِّنَة: اصل، پیس، نمونہ، سیمپل ج: عَيِّنَات۔
عَيْنِيّ: چشم دید، عینی (۲) غیر منقول۔
عَيِّنٌ: جلد رو پڑنے والا۔
عِيَان: مشاہدہ۔
بَدَا لِلْعِيَان: آنکھوں کے سامنے آگیا۔
شَاهِدُ عِيَانٍ: عینی شاہد۔
عِيَانِيّ: ظاہر۔
عُوَيْنَات: (وا) چشمہ، عینک۔
عُيَيْنَة: چھوٹی سی آنکھ۔
تَعْيِين: تحدید (۲) نامزدگی (۳) تقرر۔
تَعْيِينُ المُوَظَّفِين: اسٹاف کا تقرر، عملہ کا تقرر۔
تَعْيِينُ الجُنْدِيّ: (جِرَايَة) راشن۔
مَعِين: آبِ جاری، چشمۂ آب ج: مُعُن۔
مُعَيَّن: مقرر (۲) نامزد (۳) محدود۔
مُعَيَّنٌ فی مَنْصِبٍ: کسی عہدہ پر مامور۔
مُعَايَنَة: مشاہدہ، جانچ پڑتال، سروے۔
عَيِيَ و عَيَّ ـَ عِيّاً و عَيَاءً: تھکنا، عاجز ہونا۔
أَعْيَاهُ إِعْيَاءً: تھکانا، عاجز بنانا۔
عِيٌّ، عَيَاءٌ: عجز، بیماری، تھکان۔
دَاءٌ عَيَاءٌ: لاعلاج بیماری۔
عَيَّان، مُعْيِي: درماندہ، عاجز، بیمار۔

غ

غ .... ب

غَبَّ ۔ُ غِبّاً: ایک دن چھوڑ کر ملاقات کرنا، تیسرے دن آنا (زارَهُ غِبّاً): اس نے وقتاً فوقتاً ملاقات کی۔

اَغَبَّتهُ الحُمّٰی و عَلَیهِ: ایک دن کے ناغے سے بخار آنا، تیسرے دن بخار آنا۔

غُبٌّ: چھوٹی خلیج۔

غِبٌّ: بعد۔

غِبٌّ ، مَغَبَّة: انجام، نتیجہ۔

حُمَّی الغِبِّ: باری کا بخار، تیسرے دن کا بخار۔

غَبِیب: باسی۔

غَبَرَ ۔ُ غُبُوراً: گزرنا۔

غَبِرَ ۔َ غَبَراً و اغْبَرَّ: گردآلود ہونا (۲) گرد اُڑنا۔

تغبّرَ: گردآلود ہونا۔

غَبراءُ: زمین۔

غُبرَة ، غَبَرَة ، غَبار: گرد۔

لَا غُبارَ علیه: بے غبار، صاف۔

غابِرٌ: گزشتہ۔

اَغبَرُ: مٹی کے رنگ کا، بھورا۔

غَبِشَ ۔َ غَبَشاً: تاریک ہونا۔

غَبَشٌ: رات کی تاریکی۔

غَباشَة: تاریکی۔

غَبَطَ الرَّجُلَ ۔ِ غِبطَةً: رشک کرنا، کسی کے اچھے حال کی تمنا کرنا۔

اِغْتَبَطَ: خوش ہونا، اچھی حالت میں ہونا۔

غِبطَة: رشک (۲) خوشی (۳) خوشحالی۔

مَغبُوط: خوش قسمت۔

غَبَنَ الثَّوبَ ۔ُ غَبناً: کپڑے کو چٹ دینا۔

غَبَنَ: دھوکہ دینا، نقصان پہنچانا۔

غَبنٌ: نقصان، ظلم، دھوکہ۔

غَبنَة: (فی ثوب) کپڑے کی چٹ۔

مَغبُون: نقصان رسیدہ، فریب خوردہ۔

غُبُون: (مع) ایک قسم کا بندر۔

غَبِیَ الشَّیءَ و عَنهُ ۔َ غَباوَةً: (۱) ناواقف ہونا (۲) نابلد ہونا (۳) کند ذہن ہونا، ڈل ہونا۔

غَبِیَ الشَّیءُ عَلَیهِ: ذہن سے نکلنا۔

غَباوَة: کند ذہنی (۲) غفلت (۳) بے وقوفی۔

غَبِیّ: کند ذہن، نابلد، جاہل ج: اَغبِیاء۔

غ .... د

غُدَّة ج: غُدَد: گوشت کی گرہ جو کسی بیماری سے جسم میں اُبھرتی ہے۔
غَدَرَ الرَّجُلَ و بهٖ ـِ غَدْراً: دھوکہ دینا (۲) بے وفائی کرنا۔
غَدَرَ عَلَيْه: (دا) ناراض ہونا۔
غَادَرَ مُغَادَرَةً: چھوڑنا، روانہ ہونا۔
غَادَرَ القَصْرَ إلى: وہ محل سے فلاں جگہ روانہ ہوا۔
غَدْرٌ: دھوکہ (۲) بے وفائی، عہد شکنی۔
غَدِيْر: تالاب (۲) چھوٹی نہر ج: غُدْرَان و غُدُر۔
غَدِيْرَةٌ: چوٹی ج: غَدَائِرُ۔
غَدَق: نعمت (۲) فراخی، وسعتِ مالی۔
غُدَاف: پہاڑی کوا ج: غِدْفَان۔
غَدِقَ ـَ غَدَقاً و أغْدَقَ المَطَرُ: بارش بکثرت ہونا۔
أغْدَقَ الشَّيْءُ عليه: خوب دینا، دریا بہانا۔
أغْدَقَ السِّلاحَ عَلَى أحَدٍ: ہتھیاروں کی ریل پیل کرنا۔
أغْدَقَ المَالَ عَلَى شيءٍ: دھڑ لے سے خرچ کرنا، بے دریغ خرچ کرنا، خوب خرچ کرنا۔
غَدِقٌ، مُغْدِق: بے حد، کثیر۔
غُدْوَة، غَدَاة: صبح ج: غُدُوٌّ و غَدَوَات۔
غُدْوَة: آمد (۲) دوپہر کا کھانا، لنچ (دا)۔
غَدَا ـُ غُدُوّاً: صبح کو جانا (۲) ہونا بمعنی صَارَ (۳) روانہ ہونا۔
غَدِيَ ـَ غَدَءً و تَغَدَّى: ناشتہ کرنا، (۲) دوپہر کا کھانا کھانا۔
غَدَّى تَغْدِيَةً: ناشتہ دینا (۲) لنچ دینا۔
غَدٌ: کل آئندہ (۲) مستقبل۔
غَدٌ أفْضَلُ: شاندار مستقبل۔
الغُدُوُّ والرَّوَاحُ: آمد و رفت۔
غَـدَاء: (ا) ناشتہ (۲) دوپہر کا کھانا، لنچ ج: أغْدِيَة۔

غ .... ذ

غَذَّ ـِ غَذّاً: زخم سے پیپ نکلنا۔
غَذْوٌ، تَغْذِيَة: غذا رسانی، رسد رسانی۔
غَذَا ـُ غَذْواً و غَذَّاهُ تَغْذِيَةً: کھلانا، غذا دینا، خوراک دینا، رسد بہم پہنچانا۔
غِذَاءٌ: خوراک، کھانا ج: أغْذِيَة۔
غِذَاءُ الحِمْيَة: پرہیزی کھانا۔
أغْـذِيَة: کھانے کی اشیا، اشیائے خوردنی و: غِذَاء۔
أغْـذِيَةُ إغَاثَةٍ: ریلیف غذائیں، امدادی غذائیں۔
أغْذِيَةٌ تَالِفَة: خراب غذائیں۔

غ .... ر

غَرَبَ ـُ غُرُوْباً: چھپنا، غروب ہونا۔
غَرَبَ و غَرَّبَ: چلا جانا، دور ہونا۔
غَرَّبَ تَغْرِيْباً: جانب مغرب میں جانا۔
غَرَّبَهٗ: جلاوطن کرنا، شہر سے دور کرنا۔
غَرَبَ ـُ غُرْبَةً: مسافر ہونا۔
غَرُبَ ـُ غَرَابَةً: نامانوس ہونا۔
أغْرَبَ: عجیب بات کرنا (۲) مبالغہ کرنا۔
أغْرَبَ فِي البِلَادِ: ممالک میں گھومنا۔
أغْـرَبَ فـي الضِّحْـک: حد سے زیادہ ہنسنا۔

تَغَرَّبَ ، اِغْتَرَبَ: بے وطن ہونا، حقوق شہریت سے دست بردار ہونا، پردیسی ہونا، اجنبی بننا۔
اِسْتَغْرَبَ الأمْرَ: تعجب کرنا (۲) عجیب سمجھنا۔
غَرْبٌ: (۱) آنسو بہنے کی جگہ (۲) آنسو (۳) دھار ج: غُرُوب (۴) مغرب۔
غَرْبُ اَفْرِيقِيَا: مغربی افریقہ۔
غَرْبِيّ: (۱) مقابل شرقی (۲) یورپین، مغربی طرز کا، مغربی قوم کا۔
غَرْباً: جانب مغرب میں۔
غُرْبَة: پردیس، سفر، جلاوطنی۔
غُراب: کوا ج: غِرْبَان و اَغْرِبَة۔
غَرابَة: انوکھا پن (۲) اجنبیت (۳) تعجب۔
غَرِيبٌ: اجنبی (۲) نامانوس (۳) پردیسی، فارن کا، غیر ملکی (۴) مسافر (۵) عجیب، نادر ج: غُرَبَاءُ۔
بَدَلُ اغْتِرَاب: سفر کا الاؤنس، پردیس میں رہنے کا الاؤنس۔
مَغْرِب: جانب غربی (۲) سورج چھپنے کا وقت اور جگہ۔
بِلادُ المَغْرِب: مراکش۔
مَغْرِبِيّ: مراکشی ج: مَغَارِبَة۔
مُتَغَرِّب: پردیسی، مسافر۔
مُسْتَغْرَب: غیر مانوس۔
غَرْبَلَة: چھاننا۔
غِرْبَال: چھلنی ج: غَرَابِيلُ۔
مُغَرْبَل: چھنا ہوا۔
غَرِدَ ـــ غَرَداً و غَرَّدَ و اَغْرَدَ: پرندوں کا گانا چہچہانا۔
غَرَدَ، تَغْرِيد: گانا، چہچہاہٹ۔
غِرِّيد ، مُغَرِّد: گانے والا، مُغَنّی، گویا۔
غَرَّرَ به تَغْرِيراً: خطرہ کے سامنے لا کھڑا کرنا، خطرات کا نشانہ بنانا۔
غَرَّهُ ـــ غَرّاً و غِرَّةً و غُرُوراً: دھوکہ دینا (۲) غلط بات کہنا (۳) غلط امید دلانا۔
اَغَرَّهُ و اسْتَغَرَّهُ: بے خبری میں آنا۔
اِغْتَرَّ و اسْتَغَرَّ: دھوکہ کھانا۔
اِغْتَرَّ بِنَفْسِه: خود فریبی میں مبتلا ہونا، دھوکہ میں پڑنا۔
غِرٌّ: ناتجربہ کار، سادہ لوح، بھولا ج: أغْرار۔
غِرَّة: غفلت، بے خبری۔
عَلَى غِرَّة: بے خبری میں۔
غُرَّةُ الشيء: کسی چیز کا اول حصہ۔
غُرَّة: گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی (۲) چمک (۳) سفیدی ج: غُرَر۔
غُرَّةُ الشَّهْر: یکم، مہینہ کی پہلی تاریخ۔
غَرّ ، غِرَار: تلوار کی دھار۔
غِرَار (۲): ماڈل، نمونہ، طرز۔
علی غِرَارٍ: عجلت میں۔
علی غِرَارِ کذا: مثل، مانند، نمونہ پر۔
علی غِرَارٍ وَاحِدٍ: ایک ہی طرز پر۔
غَرارَة: سادگی، بھولاپن، ناتجربہ کاری۔
غِرارَة: بوری، بڑا تھیلا ج: غَرائِرُ۔
غُرُوْر: دھوکہ، تکبر، بڑائی۔
الغُرُوْرُ بالقُوَّة: طاقت کا گھمنڈ۔
مَغْرُوْر: فریب خوردہ، متکبر۔
مَغْرُوْرٌ بنَفْسِه: خود فریبی میں مبتلا۔

اَغرُّ: روشن (۲) شاندار ج: غُرٌّ۔
غَرَزَ ۔ِ غَرزاً و غَرَّزَ و اَغرَزَ: کانٹا وغیرہ چبھانا (۲) گاڑنا۔
غَرِیزَۃ: طبیعت ج: غَرَائِزُ۔
غَرِیزِیّ: طبعی، قدرتی، فطری۔
غَرَسَ ۔ِ غَرساً و اَغرَسَ: درخت لگانا، پودا لگانا (۲) بونا۔
غَرَسَ العَقِیدَۃَ فِی: اعتقاد قائم کرنا۔
غَرسٌ: پودا ج: اَغرَاس۔
غِرسٌ: (۱) بیج (۲) جو چیز بوئی جائے۔
غِرَاس: درخت لگانے کا وقت۔
غَرِیسَۃ: نرسری پودا، پودا جو ایک جگہ سے اُکھاڑ کر دوسری جگہ لگایا جائے ج: غَرَائِسُ۔
غَرَضٌ: مقصد (۲) مراد، منشا (۳) فائدہ (۴) ضرورت ج: اَغرَاض۔
اَغرَضَ الغَرَضَ: مقصد کو پالینا۔
تغرَّضَ: ٹوٹ جانا، مڑنا (۲) شاخ وغیرہ کا ٹوٹ کر لٹک جانا، الگ نہ ہونا۔
غَرَضٌ ظَاهِر: نمایاں نشانہ۔
غَرِیض: تازہ (تازہ گوشت)۔
اَغرَاضٌ سِلمِیَّة: پرامن مقاصد۔
لِاَغرَاضِ الدِّفَاع: دفاعی مقاصد کے لئے۔
مُغرِض: خود غرض، غرض مند ج: مُغرِضُون۔
غَرغَرَۃ و تَغَرغُر: غرارہ کرنا، پانی حلق میں ڈال کر گھمانا (۲) آگ پر پانی کا غرغر ہونا۔
غَرغَرَۃ (۲): وہ چیز جس سے غرارہ کیا جائے۔

غَرَفَ ۔ِ غَرفاً و اغتَرَفَ الشیَٔ: (۱) چلو سے پانی لینا (۲) ڈونگے یا چمچہ سے کوئی چیز نکالنا۔
غِرفَة: سینڈل (ایک قسم کا جوتا) ج: غِرَف۔
غُرفَة: روم، کمرہ، چیمبر (۲) بالاخانہ (۳) دیوان ج: غُرَف و غُرُفَات۔
غُرفَةُ الاِسعَاف: ایمبولنس روم۔
غُرفَةُ الاِستِقبَال: ملاقاتی کمرہ۔
غُرفَةُ اغتِسَالٍ: واش روم، غسل خانہ۔
غُرفَةُ الاُمُورِ المُستَعجَلة: مجلسِ ہنگامی امور۔
غُرفَةُ تِجَارِیَّة: ایوانِ تجارت، تجارتی کمرہ، چیمبر آف کامرس، ایوانِ تُجّار۔
غُرفَةُ تَغییرِ المَلَابس: کلاک روم، کپڑے بدلنے کا کمرہ۔
غُرفَةُ الرَّاحَة: ریسٹ روم، آرام کا کمرہ۔
غُرفَةُ الطَّعَامِ اَوِ الاَکل: ڈائننگ روم، کھانے کا کمرہ۔
غُرفَةُ العَرض: شوروم۔
غُرفَةُ العَمَلِیَّات: آپریشن روم، وہ جگہ جہاں سے جنگی احکامات جاری کئے جائیں۔
غُرفَةُ القِیَادَة: ہدایات کا کمرہ۔
غُرفَةُ المُرَاقَبة (فی المَطَار): کنٹرول روم۔
غُرفَةُ المُصَوِّر: اسٹوڈیو۔
مِغرَفَة: بڑا چمچہ، ڈوئی ج: مَغَارِف۔
غَرِقَ ۔َ غَرَقاً: ڈوبنا۔
غَرِقَ فِی کذا: منہمک ہونا۔
غَرَّقَ و اَغرَقَ: ڈبونا، غرق کرنا (۳) خوب

بھگونا۔

غرَّق و اَغرَق المكَانَ: کسی جگہ خوب پانی بھرنا۔

غرَّق و اَغرَق السُّوقَ بالبِضَاعة: بازار کو سامان سے بھرنا۔

اَغرَقَ: مبالغہ سے کام لینا۔

اِغتَرَقَ النَّفَسَ: ہانپنا، اندر کو سانس لینا۔

اِستَغرَقَ الشيئَ: (۱) کُل لینا (۲) احاطہ کرلینا، گھیرنا (۳) بالکل مشغول بنانا۔

اِستَغرَقَ العَمَلُ وَقتاً كَذَا: کام کا وقت کو گھیرنا، کام میں وقت لگنا۔

اِستَغرَقَ فِي النَّوم: بے خبر سونا، نیند میں غوطہ لگانا، محوِ خواب ہونا۔

اِغرَورَقَتِ العَينُ: آنکھ میں آنسو بھر آنا۔

غَرِيق ، غَارِق ، غَرقَان: ڈوبنے والا، ڈوبتا ہوا، غرق شدہ۔

غَرِيقٌ فِي كَذَا: منہمک، مصروف، مستغرق۔

غَارِق: غوطہ زن۔

اَلغَارِقُ فِي التَّفكِير: سوچ میں ڈوبا ہوا۔

غَارُوقَة ، غَرُوقَة: (دا) صرف ہونے والا مال۔

اِغرَاق: مبالغہ، مبالغہ آمیزی۔

مُستَغرِقٌ كَامِلَ سَاعَاتِ الدَّوَامِ المُعتَادَة: فُل ٹائم کام کرنے والا۔

غَرِمَ ـــ غَرَامَةً: نقصان اُٹھانا (۲) جرمانہ ادا کرنا، تاوان دینا۔

غَرَّمَ و اَغرَمَ: جرمانہ کرنا، جرمانہ عائد کرنا، سرچارج کرنا۔

أُغرِمَ بِهِ: دلدادہ ہونا۔

تَغَرَّمَ: جرمانہ ادا کرنا (تَغَرَّمَ بِخَمسَةِ جُنَيهَاتٍ) پانچ گنی جرمانہ ادا کیا۔

غُرمٌ: نقصان، تاوان۔

غَرَام: عشق، فریفتگی، محبت۔

غَرَامِيّ: عشقیہ۔

عَلَاقَةٌ غَرَامِيَّة: عشقیہ تعلق۔

غَرَامَة ج: غَرَامَات: جرمانہ۔

غَرَامَةُ تَاخِير: ڈیمریج، سامان کی وصولیابی میں تاخیر کا جرمانہ۔

غَرَامَةٌ مَالِيَة: جرمانہ، پنالٹی۔

غَرِيم: قرض خواہ (۲) قرض دار ج: غُرَمَاء۔

غَرِيم (۲): مقابل، مخالف۔

مَغرَم: خسارہ، نقصان ج: مَغَارِم۔

مُغرَمٌ به: عاشق، فریفتہ۔

غَرِين و غِرِّين: وہ مٹی، ریت وغیرہ جو سیلاب کے ذریعہ سے آکر جمع ہو جاتی ہے یا جو دریا کی تہہ میں جم جاتی ہے۔

غُرنُوق ، غِرنِيق: ایک آبی پرندہ (۲) خوبصورت نوجوان ج: غَرَانِيقُ۔

غَرَا ـــ غَروًا: تعجب کرنا۔

غَرَا و غَرَّى: سریش سے جوڑنا۔

غَرِيَ و أُغرِيَ بكذا: فریفتہ ہوجانا، کسی چیز کی غیر دانش مندانہ خواہش کرنا۔

أَغرَاهُ بكذا: رغبت دلانا، اُبھارنا، لالچ دینا۔

أَغرَاهُ ضِدَّ: اُکسانا، اشتعال دلانا۔

أَغرَى العَدَاوَةَ بَينَهُم: دشمنی کی آگ بھڑکانا۔

غِرَاءٌ ، غِـرَا: سریش، وہ چیز جس سے کوئی چیز جوڑی جائے۔
غَرَوِیّ: چپکنے والی چیز، لیس دار۔
لَا غَرْوَ مِنْ: کوئی تعجب نہیں۔
إغْـراء: اشتعال انگیزی، برانگیختگی، تشویش۔
مِغْرَاة، غَرَّايَة: (دا) گوندانی۔
مُـغْـر: محرّک، اشتعال انگیز، مشوّق، اشتیاق انگیز۔

غ .... ز

غَزُرَ ـُ غَزَارَةً: کثیر ہونا، بہت ہونا۔
غَزِيْر: بے پایاں، کثیر، بہت۔
مَطَرٌ غَزِيْر: موسلا دھار بارش۔
غَزَارَة: کثرت، فراوانی۔
غَـزَلَ ـِ غَزْلاً و اغْتَزَلَ: روئی یا اون کاتنا، بٹ دینا۔
غَـزِلَ ـَ غَزَلاً و تَغَزَّلَ بِالشيءِ: فریفتہ ہونا۔
تَغَزَّلَ بِالمَرْأَة: عشق لڑانا۔
غَازَلَه مُغَازَلَةً: ورغلانا، پھسلانا، عاشقانہ باتیں کرنا۔
غَزْلٌ: (۱) کتائی (۲) سوت۔
غَزْلُ القُطْن: سوتی دھاگہ۔
غَزَلٌ: عاشقۂ زنان، عشق بازی۔
غَزَلِيّ: عشقیہ، عاشقانہ۔
غَزَال: ہرن ج: غِزْلَان۔
غَزَالَة: ہرنی (۲) آفتاب۔
غَزَّالٌ: سوت کاتنے والا۔
مِغْـزَل: (۱) تکلا (۲) چرخا (۳) سوت کاتنے کی مشین ج: مَغَازِلُ۔
مَغْزُوْل: کتا ہوا، بٹا ہوا۔
مُغَازَلَة: عشق بازی۔
مُغَازِل: عشق باز، عاشق مزاج۔
غَـزَا ـُ غَزْواً: حملہ کرنا، یورش کرنا (۲) دشمن سے جہاد کے لئے جانا (۳) قصد کرنا (۴) چھا جانا۔
غَـزَتِ المُنْتَجَاتُ الأَجْنَبِيَّةُ السُّوْق: غیر ملکی سامان بازار پر چھا گئے۔
غَزْوٌ: جنگ، حملہ۔
غَزْوٌ عَقَائِدِيّ: مذہبی جنگ۔
غَزْوُ الفَضَاء: خلائی جنگ۔
غَزْوٌ كَبِيْر: بڑا حملہ، زبردست حملہ۔
غَزْوَة: یورش، حملہ، جہاد ج: غَزَوَات۔
غَازٍ: (۱) مجاہد (۲) حملہ آور ج: غُزَاة و غُزًّى۔
غَازِيَة: رقاصہ، ایکٹریس، آرٹسٹ ج: غَوَازٍ۔
مَـغْـزًى: (۱) مقصدِ کلام، خلاصۂ کلام، ماحصل (۲) معنویت، نتیجہ (۳) جنگ (۴) جنگ کی جگہ ج: مَغَازٍ۔

غ .... س

غَسَق: ابتدائی رات کی تاریکی۔
غَسَلَ ـِ غَسْلاً: دھونا۔
غَسَّلَ تَغْسِيْلاً: خوب دھونا۔
غَسَّلَ المَيِّتَ: مُردہ کو غسل دینا۔
اِغْتَسَلَ: غسل کرنا۔
غَسْل، غَسِيْل: دھلائی، واشنگ۔
طِشْتُ الغَسْل: سلفچی۔
الغَاسِل: واشر۔
غَسِيْل: دھلا ہوا۔

غَسِیل: دھلائی کے کپڑے یا دُھلے ہوئے۔
مِشْبَکُ الغَسِیل: کلاتھ پن۔
مَکِنَةُ الغَسِیل: واشنگ مشین۔
غُسْل، غَسُول: دھونے کا پاؤڈر (۲) صابن۔
غَسُول: دھونے کی چیز (۲) زخم کی پیپ وغیرہ دھونے کی دوا۔
غَسَّال: دھوبی، کپڑا دھونے والا، واشر مین۔
غَسَّالَة: واشنگ مشین، واشر، کپڑے دھونے کی مشین (۲) لانڈری (۳) دھوبن۔
الغَسَّالَةُ الآلِیَة: خودکار واشنگ مشین۔
غَسَّالَةٌ کَهْرَبَائِیَة: واشنگ الیکٹرک مشین۔
غُسَالَة: وہ پانی جو دھوکر بچ گیا ہو۔
غَاسُول: صابن۔
مَغْسَل: دھونے کا ٹب یا حوض جو دیوار سے ملحق ہوتا ہے (۲) سلفچی (۳) لانڈری ج: مَغَاسِلُ۔
مَغْسَلَة: واش اسٹینڈ، دُھلائی کے سامان کی میز۔
مِغْسَلَة: واشر (۲) واشنگ مشین۔
مُغْتَسَل: غسل خانہ۔

غ .... ش

غَشَّش و غَشَّ ـُـ غَشّاً: دھوکہ دینا۔
غَشَّ الشیئ: (۱) جعلی بنانا (۲) کھوٹ ملانا، کھوٹا اور غیر خالص بنانا، ملاوٹ کرنا۔
غَشَّهُ: کسی کے ساتھ چال چلنا۔
اِغْتَشَّ، اِنْغَشَّ: کھوٹ شامل ہونا، کھوٹا ہونا، فریب شامل ہونا۔
اِغْتَشَّ و اسْتَغَشَّ: کسی کو خائن و دھوکہ باز خیال کرنا۔
غِشّ: دھوکہ (۲) خیانت (۳) غداری، دھوکہ دہی، جعل سازی (۴) کھوٹ، ملاوٹ۔
غَشَّاش: دھوکہ باز، جعل ساز، ملاوٹ کرنے والا۔
مَغْشُوش: (۱) فریب خوردہ (۲) کھوٹا (۳) جعلی (۴) دھوکے کا۔
غَشَمَ ـُـ غَشْماً: ظلم کرنا (۲) بے سوچے کام کرنا۔
اِسْتَغْشَمَ: بے وقوف سمجھنا۔
غَشُوم، غَاشِم: ظالم، غاصب۔
غَشِیم: نا تجربہ کار، اناڑی۔
غَشِیم: (۱) خام شے (حَدِیْدٌ غَشِیم) خام لوہا۔
غَشْوَة، غِشَاوة: پردہ (۲) ڈھکن۔
غَشَا ـُـ غَشْواً: (۱) کسی جگہ یا کسی کے پاس آنا (۲) ڈھانکنا۔
غَشِیَ المَکَانَ ـَـ غَشْیاً و غِشْیَاناً: (۱) آنا (۲) لاحق ہونا (۳) نازل ہونا (۴) ڈھانپنا، گھیر لینا۔
غَشِیَهُ النُّعَاسُ: اونگھ آنا، نیند غالب ہونا۔
غَشِیَهُ المَوْتُ: موت کا گھیر لینا۔
غَشِیَهُ المَوْجُ: موج کا گھیر لینا، موج میں پھنس جانا۔
غَشِیَهُ بِالسَّوْط: کوڑے برسانا۔
غَشِیَ المرأَةَ: ہم بستری کرنا۔
غَشِیَ و أَغْشَى اللَّیْلُ: تاریک ہونا۔
أَغْشَى علی بَصَرِہ: نگاہ پر پردہ ڈالنا۔
غُشِیَ علیہ غَشَیَاناً و غَشْیَةً: بے ہوش

ہونا۔
غَشَّاہُ تَغشِیَۃً: (۱) ڈھانکنا، پردہ پوشی کرنا (۲) احاطہ کرنا، گور کرنا (۳) پالش وغیرہ کرنا۔
غِشَاءٌ: (۱) غلاف (۲) جھلی (۳) جلد (۴) کیپسول ج: اَغشِیَۃ۔
غُشیٌ، غَشیَۃ، غَشیَان: غشی، بے ہوشی۔
غَاشِیَۃ: (۱) دل کا پردہ (۲) حاضر باش (۳) خدام مجلس (۴) مصیبت ج: غَوَاشٍ۔
مَغشِیٌّ علیہ: بے ہوش۔

غ............ص

غَصَبَ ـِ غَصباً: مجبور کرنا۔
غَصَبَ و اغتَصَبَ: جبراً کوئی چیز لینا، لوٹنا (۲) اغوا کرنا (۳) زنا بالجبر کرنا (۴) حق چھیننا۔
غَصبٌ: جبر وزبردستی۔
مَغصُوب: مجبور۔
غَصَّ الرَّجُلُ بالطَّعَام و الشَّرَاب ـَـ غَصصاً: اچھو لگنا، کھانا یا پانی حلق میں اٹکنا۔
غَصَّ و اغتَصَّ المَکَانُ: بھرنا، کھچا کھچ بھرنا، پُر ہونا۔
اَغَصَّ: اچھو لگوانا۔
غُصَّۃ: رنج وغم (۲) اچھو، حلق میں اٹکا ہوا کھانا، لقمہ ج: غُصَص۔
غَاصٌّ، مَغصُوصٌ: بھرا ہوا۔
غَصَّنَ ... الشَّجَرُ: درخت پر شاخیں نکل آنا۔
غُصنٌ: شاخ، ٹہنی ج: اَغصَان و غُصُون۔

غ............ض

غَضِبَ ـَـ غَضباً و تَغَضَّبَ عَلَیہ: ناراض ہونا، غصہ ہونا۔
اَغضَبَہُ و غَاضَبَہ: ناراض کرنا۔
غَضَبٌ: ناراضگی، غصہ۔
غَضُوب: جلد ناراض ہونے والا، سریع الغضب۔
غَضَّرَ عنہ ـِ غَضراً: اعراض کرنا۔
غَضَرَ عَلَیہ: مہربانی وشفقت کرنا (۲) ناراض ہونا، دھمکی دینا۔
غَضِرَ ـَـ غَضَراً و غَضُرَ ـُـ غَضَارَۃً: سرسبز وشاداب ہونا (۲) آسودہ ہونا۔
غَضِرٌ غَضِیرٌ: شاداب، آسودہ۔
غَضَارَۃ: سرسبزی، شادابی۔
غَضَّ طَرفَہ ـُـ غَضّاً: نگاہ نیچی کرنا۔
غَضَّ الطَّرفَ و النَّظَرَ عَنْ: نگاہ پھیرنا۔
غَضَّ صَوتَہُ و مِنْ صَوتِہ: آواز پست کرنا۔
غَضَّ مِنْ فُلَانٍ: حیثیت کم کرنا۔
غَضَّ النَّبَاتُ ـَـ غَضَاضَۃً: تروتازہ ہونا۔
غَضٌّ، غَضِیض: تروتازہ، شگفتہ۔
بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ: فلاں چیز سے قطع نظر۔
غُضَّۃ، غَضَاضَۃ: ذلت (۲) خامی، عیب۔
غَضَاضَۃ، غُضُوضَۃ: تازگی۔
غَضَّنَ: موڑنا، شکن ڈالنا۔
غَاضَنَ المَرأَۃَ. آنکھ لڑانا، آنکھوں سے اشارہ سے اظہار محبت کرنا۔
تَغَضَّنَ: مڑنا، شکن پڑنا۔
غَضَنٌ: شکن (۲) تھکان ج: غُضُون۔
فی غُضُونِ کذا: اس دوران۔
مُغَضَّن، مُتَغَضِّن: مڑا ہوا، شکن دار۔

اَغْضَی عَیْنَه إِغْضَاءً: آنکھ بند کرنا۔
اَغْضَی طَرْفَهُ عَنْ: نگاہ پھیرنا۔
اَغْضَی عَنِ الأَمْرِ: کنارہ کش ہونا، کسی کام سے آنکھ بند کرنا، چشم پوشی کرنا۔
اَغْضَی علی الأَمْرِ: برداشت کرنا، خاموش رہنا۔
اَغْضَی اللَّیْلُ: رات کا تاریک ہونا۔
إِغْضَاء: چشم پوشی (۲) بے توجہی۔

غ............ط

غُطْرَة: سر کو باندھنے کا بڑا اعرابی رومال۔
غَطْرَسَ، تَغَطْرَسَ: تکبر کرنا۔
تَغَطْرَسَ: اکڑ کر چلنا، مٹک کر چلنا۔
غَطْرَسَة: غرور، تکبر، تبختر۔
غِطْرِیس: متکبر، مغرور، خود پسند ج: غَطَارِیس۔
غَطَسَ ــ غَطْساً: غوطہ لگانا (۲) ڈوبنا (۳) غوطہ کھانا۔
غَطَسَ، غَطَّسَ: ڈبونا، غوطہ دینا۔
غَطْسَة: ڈبکی، غوطہ۔
غَطَّاس: غوطہ خور، ڈبکی لگانے والا۔
مِغْطَس: نہانے کا ٹب۔
غَطَشَ اللَّیْلُ ــِ غَطْشاً و اَغْطَشَ: رات کا تاریک ہونا۔
تَغَطَّشَتْ عَیْنُه: نگاہ کمزور ہونا۔
غَطَّ النَّائِمُ ــِ غَطِیطاً: خراٹے لینا۔
غَطَّهُ فِی الْمَاءِ ــُ غَطّاً و أَغَطَّ: پانی میں غوطہ دینا۔
اِنْغَطَّ فی الْمَاءِ: ڈوبنا، پانی میں غوطہ کھانا۔

غَطِیط: خراٹے۔
غَطَّی تَغْطِیَةً: ڈھانکنا، چھپانا (۲) پردہ پوشی کرنا، ستر پوشی کرنا (۳) احاطہ کرنا، کور کرنا۔
__ الأَخْبَارَ: خبریں جمع کرنا، کور کرنا۔
__ الزِّیَارَةَ: دورہ کی تفصیلات منضبط کرنا۔
__ المَظْهَرَ: صورت کو چھپانا۔
__ المَوْقِفَ: صورتِ حال پر پردہ ڈالنا۔
__ النَّفَقَاتِ: اخراجات کو پورا کرنا۔
__ النَّقْصَ: کمی کو پورا کرنا۔
غِطَاء: ڈھکن (۲) غلاف، پردہ (۳) سرپوش، کور ج: اَغْطِیَة۔
غِطَاءُ السَّرِیْرِ: پلنگ پوش۔
غِطَاءُ المَائِدَة: میز پوش۔
غِطَاءٌ جَوِّیّ: فضائی چھتری۔
غِطَاءُ المِدْخَنَة: چمنی کیپ۔

غ............ف

غَفَرَ ــِ غَفْراً و اغْتَفَرَ لَهُ الذَّنْبَ: گناہ معاف کرنا۔
یُغْفَرُ، یُغْتَفَرُ: قابلِ معافی۔
لا یُغْفَرُ: نا قابلِ معافی۔
غَفَّرَ تَغْفِیراً: ڈھانکنا۔
غَفَّرَ عَلَی: پہرہ دینا۔
اِسْتَغْفَرَ الذَّنْبَ: گناہ کی معافی چاہنا۔
غُفْرَة، غِفَارَة: ڈھکن۔
غُفْرَان، غَفِیر، مَغْفِرَة: درگزر، معافی، بخشش۔
غَفِیر: (دا) پہرہ دار، چوکیدار۔
جَمٌّ غَفِیر: زبردست مجمع۔
غِفَارَة: علماءِ یہود کا لباس۔

غَافِر: معاف کرنے والا، بخشندہ۔
غَفَلَ ـُ غُفُولاً عَنْ: بھولنا، غافل ہونا۔
غَفَّلَ: غافل بنانا۔
غَافَلَه، تغَفَّلَهُ، اِسْتَغْفَلَهُ: غفلت سے فائدہ اٹھانا، غفلت کے وقت کا انتظار کرنا۔
غَافَلَه: اچانک آنا، بےخبری میں آنا۔
اَغْفَلَ: چھوڑنا، نظرانداز کرنا۔
تَغَافَلَ: غافل بن جانا۔
تَغَافَلَ عَنْ: لاپرواہی برتنا، بےتوجہی برتنا۔
غُفْلٌ: بےنشان، بےعلامت (۲) سادہ، بغیر لکھا (۳) بےنسب (۴) خام، کام میں نہ لایا ہوا ج: أغْفَال۔
غُفْلٌ مِنَ التَّارِيخ: بلاتاریخ۔
غَفْلٌ، غَفْلَةَ: بےخبری۔
عَلَى غَفْلَةٍ: بےخبری میں، اچانک۔
غَفْلان، غَافِل: لاپرواہ، بےتوجہ۔
الغَفْلِيَّة: مجہول الاسم ہونا، بےنام ونشان ہونا۔
اِغْفَال: لاپرواہی، بےتوجہی۔
مُغَفَّل: بےوقوف، ناتجربہ کار، جلد دھوکے میں آنے والا۔
غَفْوَة: ہلکی نیند، ایک نیند۔
غَفَا ـُ غَفْواً، غَفِيَ ـَ غَفْي و غَفْيَةً: ہلکی نیند سونا، تھوڑی نیند سونا، اونگھنا۔

غ .... ل

غَلَبَ ـِ الرَّجُلَ و عَلَيْه غَلَبَةً: غالب ہونا، غلبہ پانا (۲) فتح یاب ہونا (۳) قابو پانا (۴) اقتدار حاصل کرنا۔
غَلَّبَ و تغَلَّبَ على: قبضہ جمانا۔
غُلِبَ على اَمْرِه: دھوکہ کھانا۔

غَالَبَهُ مُغَالَبَةً: ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کرنا، نیچا دکھانا۔
غَلَبٌ، غَلَبَة: کامیابی، غلبہ، فتح۔
غَالِبٌ: برسرِ اقتدار (۲) قابو یافتہ، کامیاب
غَالِباً، فِي الغَالِب، في الأغْلَب: اکثر، آئے دن، عموماً۔
اَغْلَبُ: زیادہ تر، اکثر، بیشتر۔
اَغْلَبِيَّة: اکثریت، مجارٹی۔
اَغْلَبِيَّةُ الاَصْوَاتِ في جَانِبِه: ووٹوں کی اکثریت اس کے حق میں ہے۔
اَغْلَبِيَّةٌ سَاحِقَة: زبردست اکثریت۔
اَغْلَبِيَّةٌ ضَعِيفَة و ضَئِيلَة: معمولی اکثریت۔
اَغْلَبِيَّةٌ مُطْلَقَة: کامل اکثریت۔
اَغْلَبِيَّةٌ نِسْبِيَّة: تناسبی اکثریت، اضافی اکثریت۔
مَغْلُوب: شکست خوردہ۔
مَغْلُوبٌ عَلَى أمْرِه: بےعقل، کمزور، ذلیل ورُسوا۔
مُغَالَبَة: باہمی رسہ کشی۔
غَلَسٌ: آخررات کی تاریکی ج: اَغْلاس۔
غَلِطَ ـَ غَلَطاً في الأمْر: غلطی کرنا۔
غَلَّطَ، اِسْتَغْلَطَ: غلط قرار دینا (۲) جعلی بنانا۔
غَلَّطَ، غَالَطَ: مغالطہ دینا، غلطی میں مبتلا کرنا۔
غَالَطَ: (دا) دھوکہ دینا۔
غَلَطٌ: غلطی، خطا ج: اَغْلاط (۲) غلط۔
غَلْطَة: ایک غلطی ج: غَلَطات۔
غَلْطَةٌ كِتَابِيَّة: لکھائی کی غلطی۔
غَلْطَةٌ مَطْبَعِيَّة: چھپائی کی غلطی، پریس کی

غلطی، طباعتی غلطی۔
غَلْطَةٌ قَاتِلَة: زبردست غلطی۔
غَالِط ، غَلْطَان: غلطی کرنے والا۔
أُغْلُوطَة ، مَغْلَطَة: مغالطہ آمیز کلام ج: أَغَالِيطُ و مَغَالِطُ۔
المُغَالِط: مغالطہ انگیز۔
المُغَالَطَة: فریب، دھوکہ دہی۔
مُغَالَطَةٌ سِيَاسِيَّة: سیاسی فریب۔
مَغْلُوطٌ فِيهِ: جس میں غلطی کی گئی ہو۔
غَلُظَ ـُـ غِلَظاً و غِلْظَةً: (۱) موٹا ہونا (۲) گاڑھا ہونا (۳) سخت ہونا۔
غَلَّظَ: موٹا بنانا (۲) گاڑھا بنانا، سخت بنانا۔
غَلَّظَ اليَمِينَ: قسم کو سخت کرنا۔
اَغْلَظَ لَهُ القَوْلَ أَوْ فِي القَوْل: سخت بات کہنا، سخت کلامی کرنا۔
المُتَغَلَّظ: (۱) موٹا ہونا (۲) موٹا سمجھا یا پانا۔
غِلَظٌ ، غِلْظَة ، غِلَاظَة: موٹا پن (۲) گاڑھا پن (ضد: خُشُونَة)۔
غَلِيظٌ: موٹا (۲) گاڑھا (۳) سخت ج: غِلَاظٌ۔
غَلِيظُ القَوْل: سخت کلام۔
غَلِيظُ القَلْب: سخت دل۔
غَلِيظُ الرَّقَبَة: (۱) موٹی گردن والا (۲) سرکش۔
غَلْغَلَة ، تَغَلْغُل: داخل ہونا، جاں گزیں ہونا، پیوست ہونا۔
التَّغَلْغُلُ دَاخِلَ المِنْطَقَة: علاقہ میں اثر ورسوخ پیدا کرنا۔
التَّغَلْغُلُ فِي البِلَاد: ملک میں اثر و رسوخ پیدا کرنا۔
غَلَفَ و غَلَّفَ ـُـ غَلْفاً: (۱) غلاف چڑھانا، کور چڑھانا (۲) ڈھانکنا (۳) بند کرنا، لفافہ میں رکھنا۔
غِلَاف: (۱) کور (۲) غلاف (۳) لفافہ ج: اَغْلِفَة۔
غِلَافُ الكِتَاب: کتاب کا سرِ ورق۔
غِلَافُ اللِّحَاف: ابرہ، لحاف کے اوپر کا کپڑا۔
مُغَلَّفٌ: لفافہ میں بند (۲) لفافہ۔
غَلِقَ ـَـ غَلَقاً: تنگ دل ہونا، زچ ہونا (۲) بند ہونا۔
غَلَقَ ـِـ غَلْقاً: بند کرنا۔
غَلَقَ السَّبِيلَ: راہ مسدود کرنا۔
أَغْلَقَ و غَلَّقَ: بند کرنا، لاک کرنا۔
أَغْلَقَ الأَعْيُنَ عَنِ الأَخْطَاء: غلطیوں کو نظر انداز کرنا۔
أَغْلَقَ شَيْئاً عَلَى فُلَان: کسی پر کسی چیز کے دروازے بند کرنا۔
أَغْلَقَ الإِذَاعَاتِ: نشریات بند کرنا۔
أَغْلَقَ المَطَارَ: ہوائی اڈہ بند کرنا۔
أُغْلِقَ عَلَيْهِ الأَمْرُ: کسی بات کا مبہم اور پیچیدہ ہونا۔
اِنْغَلَقَ: بند ہونا۔
اِسْتَغْلَقَ الأَمْرُ: مغلق اور مبہم ہونا، دشوار و نا قابلِ فہم ہونا۔
اِسْتَغْلَقَ عَلَيْهِ الكَلَامُ: نا قابلِ فہم ہونا۔
غَلَقٌ ، مِغْلَاق: تالا، لاک۔
غَلِقٌ: نا قابلِ فہم، مشکل الفہم۔
مُغْلَقٌ: لاکر۔

مُغلَّق: بند (۲) او-ڈی اکاؤنٹ۔
غَلَّ و غَلَّ یَدَیْه ـُـ غَلًّا: ہاتھ باندھنا (۲) ہتھکڑی لگانا۔
غَلَّلَ: داخل ہونا (۲) داخل کرنا۔
غُلَّ - غُلَّةَ: سخت پیاس لگنا۔
غَلَّتْ و اَغَلَّتِ الاَرْضُ: زمین میں غلہ پیدا ہونا۔
اِسْتَغَلَّ الاَرْضَ: زمین سے غلہ حاصل کرنا۔
اِسْتَغَلَّ المَالَ: مال سے نفع حاصل کرنا۔
اِسْتَغَلَّ الشَّیْئَ: فائدہ اٹھانا (۲) ناجائز فائدہ اٹھانا، غلط استعمال کرنا۔
اِسْتَغَلَّ القُوَّةَ: طاقت کا استعمال کرنا۔
اِسْتَغَلَّ الاَغْلَبِیَّةَ: اکثریت حاصل کرنا۔
اِسْتَغَلَّ الفُرْصَةَ: موقع سے فائدہ اٹھانا۔
اِسْتَغَلَّ الرَّجُلَ: استحصال کرنا، خاص مقصد کے لئے استعمال کرنا۔
اِسْتَغَلَّ النُّفُوْذَ: اثرورسوخ کا غلط استعمال کرنا۔
اِسْتَغَلَّ الوَضْعَ: صورتِ حال سے فائدہ اٹھانا۔
غُلٌّ: قید (۲) بیڑی (۳) ہتھکڑی ج: اَغْلَال۔
غُلٌّ و غُلَّةٌ و غَلِیْل: سخت پیاس۔
غِلٌّ، غَلِیْل: کینہ، حسد۔
غَلَّ ـِـ غِلًّا: کینہ ور ہونا۔
اَرْوَی غَلِیْلَهُ: پیاس بجھانا۔
شَفَی غَلِیْلَهُ: حسد کی آگ بجھانا۔
غَلَّة: آمدنی، پیداوار (۲) اناج ج: غِلَال و غَلَّات۔
غِلَالَة: باریک چھلکا (۲) نیچے پہننے کا ایک کپڑا، عورت کا ایک کرتا ج: غَلَائِلُ۔
اِسْتِغْلَال: نفع اندوزی، استحصال، ناجائز استعمال۔
مُغِلّ: کینہ ور، حاسد (۲) بارآور، نفع بخش، نتیجہ خیز۔
مَغْلُول: سخت پیاسا (۲) حاسد، کینہ ور۔
مَغْلُول، مُغَلَّل: مقید، بندھا ہوا۔
مُسْتَغَلّ: آمدنی، فائدہ ج: مُسْتَغَلَّات۔
مُسْتَغِلّ: سرمایہ کار، فائدہ اٹھانے والا۔
غَلِمَ ـَـ غَلَماً و اغْتَلَمَ: شہوت پرست ہونا۔
غُلْمَة: شہوت۔
غُلَام: لڑکا، بوائے (۲) جوان (۳) خادم ج: غِلْمَان۔
غُلَامُ السَّفِیْنَةِ: کیبن بوائے۔
غُلُوْمَة: نوجوانی، بلوغ (۲) جنسی شہوت۔
غُلُوّ، غُلْوَاء: مبالغہ، حد سے تجاوز۔
غَلْوَة: ایک تیر کی زد کا فاصلہ۔
غَلَا السِّعْرُ ـُـ غَلَاءً: بھاؤ بڑھنا، گرانی ہونا (۲) حد سے متجاوز ہونا۔
اَغْلَی و غَلَّی السِّعْرَ: بھاؤ بڑھانا، قیمت بڑھانا۔
غَالَی مُغَالَاةً: مبالغہ کرنا۔
اِسْتَغْلَی الشَّیْئَ: گراں محسوس کرنا۔
غَلَاء: گرانی۔
غَلَاءُ المَعِیْشَةِ: زندگی کی گرانباری۔
غَالٍ، غَلِیّ: قیمتی، گراں (۲) گرانقدر۔
اَغْلَی: زیادہ قیمتی، بیش قیمت۔

غلی ۔ِ غَلْیاً و غَلَیَاناً: جوش مارنا، کھولنا، گرم ہونا، اُبلنا۔
غَلَّی و أَغْلَی: ابالنا، جوش دینا۔
غَلَّی و أَغْلَی السِّعْرَ: بھاؤ بڑھانا، قیمت بڑھانا۔
غَلْیٌ ، غَلَیَان: جوش، اُبال۔
الغَلَیَانُ الشَّعْبِیّ: عوامی جوش۔
غَلَیَانُ المُعَارَضَة: مخالفت کا جوش۔
غَلاَّیَة: پانی گرم کرنے کی ٹنکی، سماور۔
مُغْلَی الأَعْشَاب: جوشاندہ، چائے۔
غِلِیسرِین: (مع) گلیسرین۔
غَلْیُونُ التَّدْخِین: تمباکو پائپ (۲) حقہ۔

ع .... م

غَمَدَ السَّیْفَ ۔ُ غَمْداً و أَغْمَدَ: میان میں رکھنا۔
غَمَدَ ، غَمَّدَ ، تَغَمَّدَ: چھپانا۔
غِمْدٌ: میان ج: غُمُود و أَغْمَاد۔
غَمَرَ المَاءُ المَکَانَ ۔ُ غَمْراً: پانی کا ہر جگہ پھیلنا، احاطہ کرنا، گھیرنا، ڈھانپنا۔
غَمَرَہُ بِفَضْلِه: مہربانیاں کرنا، احسانات کی بارش کرنا۔
غَمُرَ ۔ُ غَمَارَةً: پانی کا کثرت سے ہونا۔
غَامَرَ مُغَامَرَةً: جان کی بازی لگانا۔
غَامَرَ بِنَفْسِه: خطرہ مول لینا، جان پر کھیلنا۔
غَمْرٌ : (۱) کثرت (۲) بڑا دریا ج: غِمَار و غُمُور۔
غُمْر: گودبھر (۲) ناتجربہ کار، بھولا ج: أَغْمَار۔
غَمْرة: سختی، شدت۔
غَمَرَاتُ المَوْت: موت کی تکلیف۔

غَامِرٌ: کثیر (۲) غیر آباد (ضد عَامِرٌ)۔
مَغْمُور: گمنام (ضد مَشْهُور)۔
مَغْمُورٌ بِالمَاء: پانی سے ڈھکا ہوا، زیرِ آب۔
مَغْمُورٌ بِالدَّیْن: قرض میں دبا ہوا۔
مُغَامِر: جاں باز، خطرہ مول لینے والا، خطروں سے کھیلنے والا۔
مُغَامَرَة: جاں بازی (۲) خطرناک فعل، خطرناک اقدام، خطرے کا کام۔
مُغَامَرَةٌ ذَاتُ مَعْنًی: بامقصد جاں بازی۔
مُغَامَرَات: جاں بازیاں۔
مُغَامَرَاتٌ عَسْکَرِیَّة: فوجی کارنامے۔
غَمَزَ ۔ِ غَمْزاً: ٹٹولنا (۲) آنکھ سے اشارہ کرنا۔
غَمَزَ بِه و عَلَیْه: طعنہ دینا، تنقید کرنا، تعریض کرنا۔
غَمَزَ فِي مَشْیِه: لنگڑا کر چلنا۔
تَغَامَزَ: ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کرنا۔
غَمْزٌ: اشارۂ چشم۔
غَمْزَة: ایک اشارہ۔
مَغْمَز: عیب ج: مَغَامِزُ۔
غَمَسَ ۔ِ غَمْساً: پانی میں غوطہ دینا۔
اِنْغَمَسَ و اغْتَمَسَ فی کذا: ڈوبنا، مستغرق ہونا۔
غَمُوس: مشکل کام، سخت کام ج: غُمُس۔
یَمِیْنٌ غَمُوس: جھوٹی قسم جو جان بوجھ کر کھائی جائے۔
غَمُضَ الکَلَامُ ۔ُ غُمُوضاً: دقیق ہونا جس

کے معنی جلد نہ سمجھ میں آئیں۔
غَمَّضَ وَأَغْمَضَ عَيْنَه: آنکھ بند کرنا۔
غَمَّضَ الكَلامَ: دقیق و مبہم بنانا۔
أَغْمَضَ عَنْ كذا: چشم پوشی کرنا۔
أَغْمَضَ على: برداشت کرنا، تحمل سے کام لینا۔
اِنْغَمَضَ، اِغْتَمَضَ طَرْفُه: آنکھ بند ہونا۔
غُمْض، غِمَاض: نیند۔
غُمْضُ عَيْنٍ: آنکھ کی جھپک۔
فِي غَمْضَةِ عَيْنٍ: پلک جھپکنے میں۔
غُمُوض، غُمُوضَة: ابہام، خفا، غیر یقینی صورتِ حال۔
غَامِض: دقیق، مبہم، خفی المراد، نا قابلِ فہم۔
غَامِض، مُغَمَّض: بند۔
سِرٌّ غَامِض: سربستہ راز۔
غَامِضَة: پوشیدہ بات ج: غَوَامِض۔
غُمَّيْضَة، غُمَّيْضَاء (اِسْتُغُمَّايَة): آنکھ مچولی۔
غَمَطَ النِّعْمَةَ ـــ غَمْطاً: ناشکری کرنا، ناقدری کرنا (۲) حقیر سمجھنا۔
غَمْغَمَ الكَلامَ: مبہم بات کرنا، بڑبڑانا، منہ سے الفاظ اس طرح نکالنا کہ اس سے کچھ معنی نہ سمجھے جائیں۔
غَمِقَ ـــ غَمَقاً: تر اور نم ہونا، جگہ کا تر اور نم ہونا۔
غَمَّقَ: گہرا کرنا۔
غُمْق: گہرائی (دا)۔
غَمِيق: گہرا (دا)۔

غَامِق: سیاہی مائل، سانولا، کالا۔
غَمَّمَ عَيْنَيْه: (دا) آنکھوں کو ڈھانکنا۔
غَمَّ ـــ غَمّاً: (۱) ڈھانکنا (۲) رنج دینا۔
غَمَّ و اَغَمَّ: رنجیدہ بنانا۔
أَغَمَّتِ السَّمَاءُ: آسمان کا ابر آلود ہونا۔
غُمَّ عَلَيْهِ الأَمْرُ: مخفی رہنا۔
اِغْتَمَّ، اِنْغَمَّ: مغموم ہونا، رنجیدہ ہونا۔
غَمٌّ: رنج، ملال ج: غُمُوم۔
غَمٌّ، غَامٌّ، مُغِمٌّ: انتہائی گرم۔
غَامّ، مُغِمّ: (۱) رنج دہ، غم ناک (۲) انتہائی ابر آلود۔
غَمام: بادل و: غَمامَة۔
حَبُّ الغَمام: اولا۔
غُمامَة: آنکھوں کا پردہ۔
غُمامَةُ الخَيْل: گھوڑوں کی آنکھوں کا پردہ۔
مَغْمُوم، مُغْتَمّ: رنجیدہ۔
غُمْنَة: پاؤڈر جو منہ کو ملا جائے۔
غُمِيَ غَمًى و أُغْمِيَ عليه: غشی طاری ہونا، بے ہوش ہونا۔
غَمَى البَيْتَ ـــ غَمْياً: مکان کی چھت ڈالنا۔
غَمَّى: آنکھوں کو ڈھانکنا۔
غَمْيٌ، إِغْمَاء: بے ہوشی۔
غَمْيَان: بے ہوش۔
لُعْبَةُ الاِسْتِغْمَايَة: آنکھ مچولی کا کھیل۔

غ......ن

غَنِجَ ـــ غَنْجاً و تَغَنَّجَ: ناز نخرے کرنا، ادائیں دکھانا۔
غُنْج و غُنَاج: ناز نخرے۔
غَنِجَة، غَنُوجَة، غَنَّاجَة: ناز نخرے والی۔

غَنجو: (مع) ریل کے ڈبوں کو درمیان سے جوڑنے والی زنجیر۔
غَنِمَ الشئیَ ــَ غُنماً: پانا، حاصل کرنا۔
غَنَّمَ و اَغنَمَ: عطا کرنا، دینا۔
اِغتَنَمَ الفُرصَةَ. موقع سے فائدہ اٹھانا۔
غُنمٌ، غَنِیمَة، مَغنَم: مالِ غنیمت، مالِ مفت (۲) فائدہ، حاصل۔
غَنائِمُ الحَرب: جنگی مالِ غنیمت۔
غَنَمٌ: بکری ج: اَغنام۔
غَنَّام: بکریاں چرانے والا۔
غَنِیَ ــَ غِنًی و غَنَاءً: مالدار ہونا۔
غَنِیَ بِالمَکان: مقیم ہونا۔
غَنِیَ و استَغنَی عَن: بے نیاز ہونا۔
اِستَغنَی و اغتَنَی الرَّجُلُ: مالدار ہونا۔
غَنَّی تَغنِیَةً و تَغَنَّی: گانا۔
غَنَّی بہ أو بِمَدحِہ: کسی کے گن گانا (۲) تعریف کرنا، مدح سرائی کرنا۔
أغنَاہُ: مالدار بنانا (۲) کافی ہونا۔
أغنَاہُ عَن: بے نیاز کرنا، کفایت کرنا۔
غِنًی، غَنَاء: تموّل، فراخ دستی۔
غِنًی غُنیَة: مالِ کفایت، مالِ استطاعت۔
مَالِیُ عَنہُ غِنًی: میں اس سے بے نیاز نہیں ہوسکتا۔
لا غِنًی عَنہُ، لا یُستَغنَی عَنہ: ضروری، جس کے سوا چارہ کار نہ ہو۔
غَنِیّ: مالدار ج: اَغنِیَاء۔
غَنِیّ، مُستَغنٍ عَنہ: بے نیاز۔
غَنِیٌّ عَنِ البَیان: محتاجِ بیان نہیں۔
غِنَاءٌ: گانا۔
غِنَاءٌ بالمَبیعَات: پھیری والوں کی آواز۔
غَانِیَة: حسین عورت ج: غَوَانٍ۔
أُغنِیَّة: گانا ج: اَغانِی۔
مُغَنٍّ: گانے والا، گویّا۔

غ.........ہ

غَهِبَ عَنہُ ــَ غَهَباً: غافل ہونا، بھولنا۔
غَیهَب: تاریکی ج: غَیاهِبُ۔

غ.........و

غَوث، غِیَاث، إغاثَة: امداد، مدد، ریلیف۔
غَوث، اِستِغَاثَة: فریاد، مدد کی درخواست۔
الغَوث: مدد مدد!
غَاثَ ــُ غَوثاً: مدد کرنا، امداد دینا۔
اِستَغَاثَ الرَّجُلَ و بہ: مدد چاہنا، اپیل کرنا۔
غَوَّرَ تَغوِیراً و غَارَ ــُ غَوراً فی الشَّئِ: (۱) گہرائی میں پہنچنا (۲) ڈوبنا (۳) پانی کا زمین میں اُترنا۔
اَغارَ عَلَی إغَارَةً: یورش کرنا، حملہ کرنا۔
غَارٌ: گڑھا ج: اَغوَار و غِیرَان۔
غَارَة: حملہ ج: غَارَات۔
غَارَةٌ جَوِّیَّة: فضائی حملہ۔
غَارَاتٌ اِرهَابِیَّة: دہشت پسندانہ حملے۔
غَارَاتٌ مَحمُومَة: زبردست حملے۔
شَنَّ الغَارَةَ علی: ہلّہ بولنا، یلغار کرنا، یورش کرنا، حملہ کرنا۔
غَورٌ: گہرائی (۲) تلی۔
سَبرَ غَورَہ: حقیقت جاننا، جانچنا۔
غَائِر: گہرا۔
غَائِرُ العَینَین: دھنسی ہوئی آنکھوں والا۔

مَغَارٌ ، مَغَارَة: غار، پہاڑ کی کھوہ۔
مِغْوَار: (۱) دلیر (۲) جنگ جو (۳) تیز رو ج: مَغَاوِیرُ۔
غَوَّزَ الشئُ تَغْوِیزاً: گیس چھوڑنا (۲) گیس میں تبدیل کرنا۔
غَاز: گیس ج: غَازَات۔
غَاز، جَاز: (۱) پٹرول (۲) مٹی کا تیل۔
غَازٌ ضَحَّاک: ہلکی نیند لانے والی گیس۔
غَازٌ سَامٌّ: زہریلی گیس۔
غَازٌ اَبیَضُ: پٹرولیم۔
غَازٌ خَانِق: مہلک گیس۔
غَازٌ طَبِیْعِیّ: قدرتی گیس۔
غَازٌ لِلتَّدْفِئَة: ہیٹر آئل۔
غَازٌ للوُقُود: جلانے والی گیس۔
غَازٌ مُخَدِّر: نشہ آور گیس۔
نُورُ الغَاز: گیس کی روشنی۔
قِنَاعُ الغَازَاتِ السَّامَّة: گیس بچاؤ ٹوپ، گیس بچاؤ نقاب، گیس ماسک۔
مِقْیَاسُ ضَغْطِ الغَازَات: مینومیٹر۔
غَازِیّ: گیس کا، گیس جیسا۔
غَوَّصَ تَغْوِیصاً: غوطہ دینا، ڈبونا۔
غَاصَ فِی المَاءِ ـُ غَوْصاً: غوطہ لگانا۔
غَوْص: غوطہ، ڈبکی۔
غَوَّاص: غوطہ زن۔
غَوَّاصَة: غوطہ مار کشتی، غوطہ خور جہاز، آبدوز کشتی ج: غَوَّاصَات۔
مَغَاص: غوطہ گاہ۔
مَغَاصُ اللُّؤْلُؤ: موتی نکالنے کی جگہ۔
غَوَّطَ تَغْوِیطاً: گہرا کرنا۔
تَغَوَّطَ: قضاء حاجت کرنا۔
غَائِط: پاخانہ (۲) قضائے حاجت۔
غَوْط: گہرائی۔
غَوِیط: گہرا۔
غَوْغَاء ، غَاغَة: نچلے درجہ کے لوگ۔
غَوْغَاء ، غَوْغَة: (وا) شور و ہنگامہ۔
غُوْل: جن، بھوت (۲) مصیبت (۳) بھیانک چیز ج: أغْوَال و غِیْلَان۔
غُولَة بھوتنی، چڑیل۔
غَائِلَة: مکار، چالباز (۲) مصیبت ج: غَوَائِلُ۔
غِیْلَة: دھوکہ۔
غَالَه ـُ غَوْلاً و اغْتَالَهُ اغْتِیَالاً: دھوکے سے قتل کرنا، بے خبری میں مار ڈالنا۔
اِغْتِیَال: قاتلانہ حملہ، ناگہانی قتل، اچانک حملہ۔
اِغْتِیَالٌ سِیَاسِیّ: سیاسی قتل۔
غَوَی ـِ غَیّاً و غَوِیَ ـَ غَوَایَة: گمراہ ہونا (۲) مجرم ہونا (۳) ہلاک ہونا۔
غَوَّی ، اَغْوَی ، اِسْتَغْوَی: گمراہ کرنا۔
غَیّ ، اِغْوَاء: گمراہی، بے راہ روی۔
غَاوٍ: گمراہ، دھوکہ باز۔

غ .... ی

غَابَ ـِ غَیْبُوبَة: غائب ہونا، چھپنا۔
غَابَ و تَغَیَّبَ عَنْ: غیر حاضری کرنا، غیر حاضر رہنا۔

غَابَ عَنِ الصَّوَاب: ہوش اُڑنا۔
غَابَ الشيُّ في الشيِّ: گم ہوجانا۔
غَابَه ـ غِيبَةً: پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔
غَابَ عَنِ البَال: ذہن سے نکلنا، بھولنا۔
غَابَ عَنْ صَوَابِه: بے ہوش ہونا۔
غَيْب: پوشیدہ۔
غَيْباً و مَشْهَداً: خلوت وجلوت میں، سامنے اور پیچھے۔
غِيَاب: غیر حاضری (۲) غروب۔
غِيَابِياً: غائبانہ۔
حُكْمٌ غِيَابِيّ: فیصلۂ عدم موجودگی ملزم۔
حُوكِمَ غِيَابِياً: اس پر اس کی عدم موجودگی میں مقدمہ چلایا گیا۔
غَيْبُوبَة: عدم موجودگی (۲) غفلت۔
غَابَة: بانس کا جنگل، گھنا جنگل ج: غَابَات۔
غَائِبٌ بالإجازَة: رخصت پر۔
مُغِيب ، مُغِيبَة: بیوی جو شوہر سے الگ ہو۔
عَقَّارٌ مُغَيِّب: بے ہوش کرنے والی دوا۔
مُغْتَاب: چغل خور، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا۔
غَيْث: بارش۔
غَيَّرَ: بدلنا، تبدیل کرنا۔
___ على الجُرْح: زخم کی پٹی بدلنا۔
___ مَلابِسَهُ: لباس تبدیل کرنا۔
___ العُمْلَةَ الأجْنَبِيَّةَ: غیر ملکی کرنسی بدلنا۔
___ المَسَارَ: رُخ پھیرنا، بدلنا۔
___ مَسَارَ الطَّائِرَة: ہوائی جہاز کا رخ بدلنا۔
___ و أغَارَ: تغیر پذیر بنانا۔
غَارَ مِنهُ ـ غَيْرَةً: کسی سے غیرت آنا۔
غَارَ عَلَيْه: کسی پر غیرت آنا (غَارَ فُلانٌ مِنْ فُلانٍ عَلى امْرَأتِه)۔
غَايَرَ مُغَايَرَةً: مخالفت کرنا (۲) مبادلہ کرنا۔
تَغَيَّرَ: بدلنا، بدل جانا۔
تَغَايَرَتِ الأشْيَاءُ: باہم متغایر ہونا، مختلف ہونا۔
غَيْر: سوا (۲) علاوہ (۳) خلاف، ضد (۴) دوسرا (۵) اجنبی (۶) نہیں۔
غَيْرَ أنَّ: لیکن، مگر یہ کہ، اس کے باوجود، تاہم، پھر بھی۔
غَيْرُ اعْتِيَادِيّ: اسپیشل، غیر معمولی۔
غَيْرُ تَامِّ الصُّنْع: نامکمل، ناپختہ۔
غَيْرُ ثَابِت: لوز، ناپائیدار۔
غَيْرُ جَدِيد: سیکنڈ ہینڈ۔
غَيْرُ خَاضِعٍ لِلرُّسُوم: ڈیوٹی فری، جس پر محصول نہ لگتا ہو۔
غَيْرُ خَاضِعٍ لِلمُكُوس: ڈیوٹی فری، جس پر محصول نہ لگتا ہو۔
غَيْرُ سَائِغ: نامرغوب، ناقابلِ ہضم۔
غَيْرُ صَالِح: ناقابل، نااہل، اَن فٹ۔
غَيْرُ طَبِيعِيّ: غیر معمولی۔
غَيْرُ عَادِل: غیر منصفانہ۔
غَيْرُ عَمَلِيّ: ناقابلِ عمل۔
غَيْرُ عَادِيّ: غیر معمولی۔
غَيْرُ عَصْرِيّ: آوٹ آف ڈیٹ۔
غَيْرُ قَابِلٍ لِلاسْتِعْمَال: ناقابلِ استعمال۔

غَيْرُ قَابِلٍ للاسْتِهْلاک: ناقابلِ صرف۔
غَيْرُ كَافٍ: ناکافی۔
غَيْرُ كُفْوٍ: اَن فٹ، بے جوڑ۔
غَيْرُ لَائِقٍ: نامناسب۔
غَيْرُ مُبَاشِرٍ: ان ڈائریکٹ۔
غَيْرُ مَأْلُوفٍ: نامانوس، ناپسندیدہ۔
غَيْرُ مَبْتُوتٍ فيه: پینڈنگ میں پڑا ہوا۔
غَيْرُ مُتَوَازِنٍ: غیر متوازن۔
غَيْرُ مُثَقَّفٍ: بے پڑھا لکھا، غیر تعلیم یافتہ، غیر مہذب۔
غَيْرُ مُجْزٍ: ناکافی۔
غَيْرُ مَدْفُوْعٍ: غیر ادا شدہ۔
غَيْرُ مُرْتَاحٍ: غیر مطمئن۔
غَيْرُ مُرَخَّص: بے لائسنس۔
غَيْرُ مُسْتَدِيْمٍ: ٹمپریری، عارضی۔
غَيْرُ مُسْتَرِيْحٍ: غیر مطمئن۔
غَيْرُ مُسَدَّدٍ: غیر ادا شدہ۔
غَيْرُ مَشْرُوْعٍ: غیر قانونی، ناجائز۔
غَيْرُ مُشْهِيٍّ: نامرغوب۔
غَيْرُ مُصَرَّحٍ به: غیر تصریح شدہ، بے لائسنس۔
غَيْرُ مُصَرَّحٍ بِصَرْفِه: منجمد، جس کے خرچ کی اجازت نہ ہو۔
غَيْرُ مَضْمُونٍ: غیر یقینی۔
غَيْرُ مُطَابِقٍ: نامساعد۔
غَيْرُ مُعَبَّأ: کھلا ہوا۔
غَيْرُ مَعْلُومِ التَّارِيْخ: بلا تاریخ، جس پر تاریخ نہ ہو۔
غَيْرُ مَفْصُوْلٍ فيه: پینڈنگ میں، جس کا فیصلہ نہ ہوا ہو۔

غَيْرُ مَقْرُوْءٍ: پڑھا نہ جانے والا، غیر واضح۔
غَيْرُ مُلَائِمٍ: نامساعد۔
غَيْرُ مُمْكِنٍ بَيْعُه: ناقابلِ فروخت۔
غَيْرُ مُنْتَظَرٍ: غیر متوقع۔
غَيْرُ مَنْظُورٍ: بے سوچا سمجھا۔
غَيْرُ الْمُنَفَّذِ مِنَ الطَّلَب: بیک آرڈر، غیر تعمیل شدہ فرمائش۔
غَيْرُ مَوْثُوقٍ به: ناقابلِ اعتماد۔
غَيْرُ مُؤَهَّلٍ: اَن فٹ، نااہل۔
لَا غَيْرُ: فقط۔
مِنْ غَيْرِ: بغیر، بلا۔
عَلٰى غَيْرِ الْعَادَة: خلافِ معمول۔
غَيْرَة: حمیت، نخوت، جوش۔
غِيَار: تبادلہ۔
قِطَعُ الْغِيَار: فالتو پرزے۔
غَيُوْر و غَيْرَان: غیرت مند، صاحبِ نخوت ج: غُيُر و غَيَارَى۔
تَغَيُّرٌ جَوْهَرِيّ: بنیادی تبدیلی۔
تَغَيُّرٌ فِي خَوَاصِ الْغِذَاء: غذا کی خاصیت میں فرق آنا۔
تَغَيُّرٌ يُذْكَرُ: قابلِ ذکر تبدیلی۔
تَغْيِيْر: تبدیلی ج: تَغْيِيْرَات۔
تَغْيِيْرٌ فِي الظُّرُوْف: حالات میں تبدیلی۔
تَغْيِيْرٌ فِي غَيْرِ وَقْتِه: بے وقت تبدیلی۔
تَغْيِيْرَات: تبدیلیاں۔
التَّغْيِيْرَاتُ الْجِذْرِيَّة: بنیادی تبدیلیاں۔
مُغِيْر: حملہ آور۔

مُـغَیِّـر (نَـاقِلُ التُّـرُوْس، مُبَـدِّلُ السُّـرْعَة): گیر شِفٹ، موٹر میں رفتار بدلنے والا آلہ۔
مُغَیِّرُ التُّرُوْس: گیر لیور۔
غَیْض: نامکمل بچہ (سِقْط)۔
غَیْضَة: جھاڑی ج: غِیَاض۔
غَـاضَ الـمَـاءُ ـِ غَیْضاً: پانی خشک ہونا، کم ہونا، زمین میں جذب ہونا۔
غَیْط: کھیت، باغ، میدان ج: غِیْطَان۔
غَیْطَانِیّ: کھیت والا، باغ والا۔
غَاطَ ـِ غَیْطاً فی: داخل ہونا۔
غَیَّـظَ تَغْیِیْظاً و غَاظَه ـِ غَیْظاً و أَغَاظَ و غَایَظَ: غصہ دلانا، ناراض کرنا۔
تَغَیَّظَ، اِغْتَاظَ: غصہ آنا، ناراض ہونا۔
مَغِیْظ، مُغْتَاظ: ناراض، برہم۔
غِیْلَة: دھوکہ (دیکھیے غَوْل)۔
غَال: تالا ج: غَالَات (در غَوْل)۔

اِغْتِیَال: اچانک حملہ (در غول)۔
غَیَّـمَتِ السَّـمَـاءُ و غَـامَتْ و أَغْیَمَتْ: آسمان کا ابر آلود ہونا۔
غَیْم: بادل ج: غُیُوْم۔
غَیْمَة: بدلی، ایک بادل۔
غَائِم: ابر آلود۔
غَیَّا الرَّایَةَ: جھنڈا گاڑنا، پرچم لگانا۔
غَیَّـا و اَغْیَـا و تَـغَیَّی الغَـایَةَ: مقررہ حد پر پہنچنا۔
غَـایَة: (۱) پرچم (۲) حد (۳) کنارہ (۴) مقصد (۵) منتہائے کار ج: غَایَات۔
غَایَةُ التَّاجِر: سَین بورڈ۔
غَایَةٌ شَرِیْفَة: اعلیٰ مقصد۔
لِغَایَةِ کَذَا: اس حد تک۔
لِغَایَةِ مَا: یہاں تک، تا آنکہ، جب تک۔
لِغَایَةِ مَبْلَغِ کَذَا: اس رقم کے اندر اندر۔
لِلْغَایَة: بے حد، بہت، انتہائی۔

ف

ف: پھر (۲) پس (۳) اس وجہ سے (۴) چنانچہ (۵) اس کے بعد۔

یَوماً فَیَوماً: دن بدن۔

سَنَةً فَسَنَةً: سال بہ سال۔

ف .... أ

فُؤاد: دل ج: اَفئِدة۔

مِنْ صَمِیمِ الفُؤاد: تہِ دل سے۔

فَأرُ البَیْت: چوہا ج: فِئرَان۔

فَأرُ الغَیط: جنگلی چوہا۔

فَأس: کلہاڑی (۲) کدال (۳) پھاوڑا ج: فُؤُوس۔

فَأل: نیک شگون (ضد شُؤم) ج: فُؤُول۔

تَفَاءَلَ بِه: نیک شگون لینا، اچھا گمان کرنا، پُر امید ہونا، اچھی توقع قائم کرنا۔

تَفَاؤُل: نیک توقع، نیک فال، خوش فہمی، رجائیت۔

مُتَفَائِل: پُر امید، اچھی توقع رکھنے والا، خوش فہم، رجائیت پسند۔

فِئَة: گروپ، کیٹا گری، جماعت، گروہ، کلاس، زُمرہ، قسم ج: فِئَات۔

فِئَةُ الکُتَّاب: کلرکوں کا درجہ، جماعت، کلریکل کلاس۔

فِئَةُ النَّقد: نوٹوں کی قسم جیسے پانچ یا دس وغیرہ (خَمسَةُ نُقُودٍ مِن فِئَةِ عِشرِینَ)۔

فِئَةُ النَّاس: لوگوں کا طبقہ، قسم۔

الفِئَاتُ الکَبِیرَة: بڑے ٹکڑے (سکہ کے)۔

فَازِلِین: (مَرهَمٌ یُصنَعُ من النِّفط): ویسلین۔

فَانُوس: (در فنس)۔

فَاوَضَ: (در فَوض)۔

فَایِظ: نفع، سود (دا)۔

فَایِظجِیّ: (دا) نفع خور، سود خور۔

ف .... ب

فِبرَایِر: ماہِ فروری۔

فَبرِیقَة: کارخانہ (مع)۔

ف .... ت

فَتِئَ عَنْ ـَـ فَتأً: رُکنا، باز آنا۔

مَا فَتِئَ (مَازَالَ): برابر، مسلسل۔

فَتَّ ـُـ فَتّاً و فَتَّتَ: توڑنا، چورنا، روٹی چورنا، ٹکڑے کرنا۔

فَتَّ فی سَاعِدِه: بازو کو توڑنا، کمزور کرنا۔

فَتَّ وَرَقَ اللَّعِب: تاش کے پتے ملانا، پھینٹنا،

توڑنا۔
تَفَتَّتَ ، اِنْفَتَّ: چورا ہونا، ٹکڑے ہونا۔
فَتَّة ، فَتِیتَة: شوربے میں بھیگی ہوئی روٹی۔
فُتَات ، فَتِیتَة: چورا۔
فَتَحَ ۔ فَتْحاً: کھولنا۔
___ الاِحْتِمَالاتِ: امکانات پیدا کرنا۔
___ الاِرْسَالِیَّاتِ: ڈاک کھولنا۔
___ إعْتِمَاداً: (بینک میں) کھاتہ کھولنا۔
___ اعْتِمَاداً مَالِیّاً: فنڈ کھولنا، فنڈ قائم کرنا۔
___ بَابَ التَّرَقِّیَ أَمَامَ أَحَدٍ: ترقی کا دوازہ کھولنا۔
___ بَابَ الحِوَارِ مَعَ: کسی کے ساتھ بات چیت کا آغاز کرنا۔
فَتَحَ البَخْتَ: قسمت بتانا، تقدیر کا لکھا بتانا۔
___ البَصَائِرَ: آنکھیں کھولنا۔
___ الثَّغَرَاتِ: شگاف ڈالنا، رخنے پیدا کرنا۔
___ الحِسَابَ: حساب کھولنا، اکاؤنٹ کھولنا۔
___ خَطَّ السِّکَّةِ الحَدِیْدِیَّةِ: ریلوے لائن کو چالو کرنا۔
___ مَظَارِیْفَ العَطَاءَ ات: ٹینڈر کے لفافے کھولنا۔
___ المِلَفَّ: فائل پر کارروائی شروع کرنا۔
___ المَوْضُوْعَ: موضوع پیدا کرنا۔
___ النُّورَ الکَهْرَبِیَّ: بجلی کا سوئچ کھولنا۔
___ علیه: بتانا، بھولے ہوئے کو بتانا، انکشاف کرنا۔
___ اللّٰهُ عَلَیْه: خدا اس کی مدد کرے۔
___ و افْتَتَحَ: آغاز کرنا، افتتاح کرنا۔
___ و افْتَتَحَ البِلادَ: فتح کرنا۔
___ و افْتَتَحَ المَکَانَ: کسی جگہ کا افتتاح کرنا (۲) سنگِ بنیاد رکھنا۔
___ و افْتَتَحَ المَکْتَبَ الجَدِیْدَ: نیا دفتر کھولنا۔
فَتَّحَ الزَّهْرُ: پھول کھلنا۔
فَاتَحَ: آغاز کرنا، گفتگو میں پہل کرنا۔
تَفَتَّحَ ، اِنْفَتَحَ: کھلنا، وسیع ہونا (۲) کھلنا، شگفتہ ہونا۔
تَفَتَّحَتِ المَدَارِکُ: ذہن کھلنا، وسیع ہونا۔
اِسْتَفْتَحَ: آغاز کرنا، افتتاح کرنا (۲) کھلوانا۔
فُتْحَة: کشادگی (۲) سوراخ ج: فُتَح۔
فَتَّاحَةُ عُلَب: ڈبے کھولنے کی چابی۔
فَتَّاحَةُ قَوَازِیْز: بوتلیں اور شیشیاں کھولنے کا پیچ، چابی۔
فَاتِح: پہل کرنے والا، آغاز کنندہ۔
فَاتِحُ البَخْت: قسمت بتانے والا۔
فَاتِحَة: آغاز، ابتداء۔
فَاتِحَةُ الکِتَاب: مقدمہ۔
اِفْتِتَاحٌ رَسْمِیّ: باضابطہ افتتاح۔
اِفْتِتَاحِیّ: افتتاحی، ابتدائی۔
اِفْتِتَاحِیَّة: ایڈیٹوریل۔
اِفْتِتَاحِیَّة (فی صَحِیْفَة): لیڈنگ آرٹیکل۔
مِفْتَاح ج: مَفَاتِیْح: چابی (۲) ریلوے لائن کا کانٹا بدلنے کا آلہ (سوئچ)۔
مِفْتَاحُ مَسَافَاتِ الاَسْطُر: (ٹائپ رائٹر میں) لائن اسپیس۔

مِفْتَاحُ انْطِلَاقِ الْعَرَبَة: کیرج لیور۔
مِـفْتَـاحُ بَـدْءِ حَـرَكَةِ الأُتُـمْبِيـل: اسٹارٹر۔
مِفْتَاحُ التَّرْجِيع (فِي الآلَةِ الكَاتِبَة): بیک اسپیکر۔
مِـفْتَـاحُ حَـلِّ الأُسْطُوَانَةِ الدَّاخِلِيَّة: پیپر ریلیز (ٹائپ رائٹر میں)۔
مِـفْتَـاحُ حَـلِّ الهَامِش: (ٹائپ رائٹر میں) مارجن ریلیز۔
مِفْتَاحُ الشَّفْرَة: خفیہ تحریر کی کنجی، ٹیلیگراف کی کنجی۔
مِفْتَاحُ صَمُولَةٍ: چابی جس سے کابلا کھولا جائے۔
المِفْتَاحُ الكَهْرَبَائِيّ: سوئچ۔
مِفْتَاحَجِيّ: ریلوے کا ٹابد لنے والا۔
فَتَـرَ ـُـ فُتُوراً و تَفَتَّر: ڈھیلا پڑنا (۲) ست پڑنا، تیزی کے بعد ہلکا ہونا (۳) پانی ٹھنڈا ہونا یعنی حرارت ختم ہونا (۴) جسم کا ڈھیلا اور کمزور ہونا۔
فَتَـرَ عَنِ العَمَل: کوتاہی کرنا (۲) کام میں سستی کرنا۔
فَتَّـرَ و أَفْتَـرَ: (۱) ست بنانا (۲) گرم پانی کو ٹھنڈا کرنا۔
اِفْتَرَّ عَنْ: ظاہر ہونا، منکشف ہونا۔
فَتْـرَةٌ: (۱) وقفہ، عرصہ، پیریڈ (۲) درمیانی وقت، ہاف ٹائم (۳) صلح (۴) سستی۔
فَتْرَةُ ازْدِهَارِ عُنْفُوَان: جوانی کی بہار کا زمانہ۔
فَتْرَةُ الانْتِقَال: عبوری دور۔
فَتْرَةُ التَّعْتِيم (تُفْرَضُ خِلَالَ غَارَةٍ جَوِّيَّة): بلیک آؤٹ۔
فَتْرَةُ الخُطَّة: منصوبہ کا وقفہ، مدت۔
فَتْرَةٌ دَقِيقَة: نازک دور۔
فَتْرَةُ الضَّرِيبَة: وقفہ انکم ٹیکس۔
فَتْرَةٌ فَاصِلَة: انٹرول۔
فَتْرَةُ المُعَانَاةِ والآلَام: مصائب وآلام کا دور۔
فَتَرَاتٌ مُتَقَارِبَة: قریب قریب وقفے۔
فِـي فَـتَـرَاتٍ مُتَقَطِّعَة: مختلف اوقات میں۔
فُتُور: (۱) سستی، اضمحلال (۲) نیم گرمی۔
فُتُورُ الجِسْم: کمزوری۔
فُـتُـورُ الـوُدِّ أَو العَـلَاقَـات: دوستی یا تعلقات کمزور پڑنا۔
فُتُورُ الهِمَّة: کم ہمتی، پست حوصلگی۔
فَاتِر: (۱) نیم گرم (۲) کم حوصلہ، کم ہمت۔
فَاتِرُ العَزِيمَة: پست ہمت، کم حوصلہ۔
فَـاتُـورَـة، فَاتُور: (۱) کسی مطلوبہ چیز کا بل، بیجک (۲) نمونہ ج: فَوَاتِير۔
فَاتُورَةٌ أَصْلِيَّة: اوریجنل بیجک۔
فَاتُورَةٌ قُنْصُلِيَّة: کونسلر فارم۔
فَـاتُـورَةُ الـمَـصَارِيف: پرچۂ اخراجات، اخراجات کا بل۔
فَاتُورَةٌ مُصَدَّقٌ عَلَيْهَا: تصدیق شدہ بیجک۔
فَوَاتِيرُ مُسْتَحِقَّةُ الدَّفْع: واجب الادا بل۔
مُتَفَتِّر: (مُسْتَمِرّ کی ضد) غیر مسلسل، وقتاً فوقتاً ہونے والا، وقفہ دار۔
فَتَشَ: تحقیق کرنا (۲) معاینہ کرنا، جانچ پڑتال کرنا (۳) مکان وغیرہ کی تلاشی لینا۔

فَتَّشَ عَنْ: تحقیق کرنا، پوچھ تاچھ کرنا۔
فَتَّشَ السِّرَّ: راز افشا کرنا۔
فَتَّاش: تحقیق کنندہ، جانچ کنندہ۔
تَفْتِیش: تحقیق، تلاش و جستجو، پوچھ تاچھ، جانچ پڑتال، معاینہ، ریسرچ۔
تَفْتِیشُ الحِسَاب: حساب کی جانچ۔
مُفَتِّش: کنٹرولر، انسپکٹر۔
مُفَتِّشٌ اَوَّلُ: چیف انسپکٹر۔
مُفَتِّشُ التَّذَاکِر: ٹکٹ کنٹرولر، ٹکٹ چیکر۔
مُفَتِّشٌ ثَان: سب انسپکٹر۔
مُفَتِّشُ الضَّرَائِب: ٹیکس انسپکٹر۔
المُفَتِّشُ العَامّ: انسپکٹر جنرل۔
فُتُغْرَافِیَا: (مع) عکسی تصویر (۲) کیمرہ۔
صُورَةٌ فُتُغْرَافِیَة: عکسی تصویر۔
فَتَقَ ـُـ فَتْقاً و فَتَّقَ الثَّوْبَ: کپڑے کے ٹانکے نکالنا، ادھیڑنا (۲) چاک کرنا (۳) چیرنا (۴) بیچ میں سے دو کرنا۔
الحَاجَةُ تَفْتِقُ الحِیْلَةَ: ضرورت تدبیر پیدا کرتی ہے۔
تَفَتَّقَ، انْفَتَقَ: پھٹنا، شق ہونا۔
فَتْقٌ: دراڑ، شگاف ج: فُتُوق۔
فَتِیْق، مَفْتُوق: پھٹا ہوا، چرا ہوا۔
فَتَکَ بِہ ـِـ فَتْکاً: حملہ کرنا (۲) ہلاک کرنا (۳) گرفت میں لینا۔
فَتَّاک: مُہلک، قاتل۔
فَتَلَ ـِـ فَتْلاً: رسّی وغیرہ کو بٹ دینا، اون وغیرہ کو بٹ دینا، دھاگہ بنانا۔
تَفَتَّلَ، انْفَتَلَ: بٹ چڑھنا۔
فَتْلَة: ایک بٹ۔

فَتَّال: بٹ دینے والا۔
فَتِیْل، فَتِیْلَة: لیمپ وغیرہ کی بتی، پٹاخوں کی بتی ج: فَتَائِل۔
فَتِیْلُ الجُرُوح: زخموں پر چڑھائی جانے والی بتی۔
فَتِیْلُ المُفَرْقَعَة: فیوز، پٹاخے کی بتی۔
فَتِیْل، مَفْتُول: بٹا ہوا۔
فَتَائِلُ الانْفِجَار: دھماکہ کی بتیاں، آتشیں فتیلے۔
فَتَائِلُ الانْفِجَارِ المَزْرُوعَة: پھیلے ہوئے آتشیں فتیلے۔
مَفْتُولُ العَضَل: مضبوط، طاقتور۔
فَتْمِنَة: وِٹامن دینا۔
فَتَنَ ـِـ فَتْناً و فَتَّنَ و اَفْتَنَ: گمراہ کرنا (۲) فریفتہ بنانا (۳) آزمائش میں ڈالنا (۴) دیوانہ بنانا (۵) مسحور کرنا۔
فَتَنَہُ عَنْ دِیْنِہ: دین سے ہٹانا۔
فُتِنَ و افْتُتِنَ بِہ: فریفتہ ہونا۔
فِتْنَة: (۱) آزمائش (۲) مصیبت (۳) گمراہی (۴) کفر (۵) ہنگامہ (۶) رسوائی (۷) پریشانی، گھبراہٹ ج: فِتَن۔
فِتْنَةٌ طَائِفِیَّة: فرقہ وارانہ فساد۔
فَتَّان، فَاتِن: فتنہ انگیز، سحر انگیز۔
فَتِیْن، مَفْتُون: دیوانہ، عاشق، گرفتارِ الفت۔
فُتُوَّة: سخاوت، کرم (۲) جوانی، جوانمردی۔
فَتْوَی: قانونی رائے، فقہی رائے، شرعی حکم ج: فَتَاوَی۔
أَفْتَی فِی مَسْئَلَةٍ: شرعی حکم بیان کرنا، قانونی رائے ظاہر کرنا۔

اِستِفتَاء: فتویٰ لینا، شرعی حکم معلوم کرنا (۲) عام لوگوں کی رائے معلوم کرنا (۳) قانونی رائے طلبی، استصواب رائے، رائے شماری، ووٹنگ۔

فَتِیَ ـ فُتُوّاً و فَتَاءً: جوان ہونا (۲) طاقت ور ہونا۔

فَتیً: نوجوان (۲) لڑکا ج: فِتیَان و فِتیَة۔

فَتَاة: لڑکی، گرل، جوان عورت ج: فَتَیَات۔

اِستِفتَاءُ الشَّعب: ریفرینڈم، عوامی رائے شماری۔

اِستِفتَاءُ النَّاخِبِین: رائے شماری، ریفرینڈم۔

اِستِفتَاءٌ عَامٌّ و شَامِلٌ: عام رائے شماری۔

المُستَفتَی عَلَیه: وہ مسئلہ جس پر رائے شماری کی گئی ہو۔

ف.........ج

فَجَاءَهُ ـ فَجَاءَةً و فَاجَاءَهُ مُفَاجَاءَةً: اچانک آنا۔

فُوجِئَ بِشَیءٍ: دوچار ہونا، یکا یک معلوم ہونا۔

فُجَاءَة، فُجَاءَةً: اچانک۔

فُجَائِی، فَاجِئٌ، مُفَاجِئٌ: ہنگامی، اچانک پیش آنے والا، غیر متوقع، اتفاقی۔

مُفَاجَاَة: ہنگامی صورتِ حال، نئی بات، ناگہانی واقعہ یا صورتِ حال۔

فَجٌّ، فُجَاجٌ: دو پہاڑوں کا درمیانی راستہ۔

فِجٌّ: ناپختہ، کچا۔

فَجَرَ ـ فَجراً و فَجَّرَ تَفجِیراً: پانی جاری کرنا، نہر وغیرہ نکالنا (۲) پھاڑنا، دھما کہ کرنا، دھما کہ خیز بنانا۔

فَجَرَ ـ فُجُوراً و أَفجَرَ: بدکار ہونا، گنہگار ہونا (۲) زنا کرنا۔

فَجَّرَ الثَّورَةَ: انقلاب برپا کرنا۔

فَجَّرَ الفَضَائِحَ: رسوا کن امور کا انکشاف کرنا۔

فَجَّرَ قَنَابِلَ دُخَانٍ: دھوئیں کے گولے چھوڑنا۔

فَجَّرَ المَوقِفَ: صورتِ حال کو دھما کہ خیز بنانا، صورتِ حال بگاڑنا۔

فَجَّرَ الوَضعَ الأَمنِیَّ: امن کی صورتحال کو خراب کرنا۔

اِنفَجَرَ و تَفَجَّرَ المَاءُ: پانی جاری ہونا، نہر وغیرہ جاری ہونا (۲) دھما کہ ہونا، بھرسٹ ہونا، پھٹنا۔

اِنفَجَرَ الخِلَافُ فَجأَةً: اچانک اختلاف پیدا ہو جانا۔

اِنفَجَرَتِ الاِشتِبَاکَاتُ: فسادات پھوٹ پڑنا۔

اِنفَجَرَتِ القَنَابِلُ فِی مَکَانٍ: کسی جگہ بموں کا دھما کہ ہونا۔

اِنفَجَرَتِ المَعرَکَةُ: لڑائی چھڑنا۔

اِنفَجَرَت یَنَابِیعُ الشَّیءِ من کذا: کسی شے کے سوت ابلنا۔

اِنفَجَرَ غَضَباً: غصہ سے بھڑکنا۔

اِنفَجَرَ النِّزَاعُ: جھگڑا اٹھ کھڑا ہونا۔

اِنفَجَرَ النَّاسُ عَلَی: ٹوٹ پڑنا، دھاوا بولنا۔

فَجرٌ: طلوع، آغاز صبح، اُجالا۔

فُجُور: بدکاری، زنا۔
اِنغَمَسَ فی الفُجُور: گناہ میں مبتلا ہونا۔
فَاجِرَة: زانیہ، فاحشہ۔
اِنفِجَار: دھماکہ ج: اِنفِجَارَات۔
اِنفِجَارٌ ذَرِّیّ: ایٹمی دھماکہ۔
تَفجِیرٌ ذَرِّیّ: ایٹمی دھماکہ۔
اِنفِجَارِیّ، مُتفَجِّر: دھماکہ خیز۔
المُتَفَجِّرَات: دھماکہ خیز اشیاء، آتشگیر مادے۔
فَجَعَ ـَـ فَجعاً: دل دُکھانا، تکلیف دینا۔
فُجِعَ فی کَذا أو بِکَذا: اسے فلاں چیز سے تکلیف پہنچی۔
تَفَجَّعَ: دردمند ہونا، دکھی ہونا۔
فَجُوع، فَاجِع: دردناک، اندوہناک، دل دوز، بے دردانہ۔
فَاجِعَة: مصیبت، تکلیف دہ حادثہ ج: فَوَاجِعُ۔
فَجِیعَة ج: فَجَائِعُ: مصیبت، اندوہناک حادثہ۔
اَفجَعُ: انتہائی بے دردانہ۔
فُجلٌ: مُولی و: فُجلَة۔
فَجوَة: کشادگی، دو چیزوں کے درمیان کا فاصلہ یا کشادہ جگہ، کھلی جگہ، خلاء، گیپ، کھائی، گڑھا، خلیج ج: فَجَوَات۔
فَجَا ـُـ فَجواً: کھولنا، کشادہ کرنا۔

ف............ح

فَحَّ الثُّعبَانُ ـِـ فَحّاً: سانپ کا پھنکارنا۔
فَحِیحُ الأَفعَی: سانپ کی پھنکار۔
فَحَتَ: (ا) کھودنا۔
فَحُشَ ـُـ فَحَاشَةً: بُرا ہونا (۲) بداخلاق و قابلِ مذمت ہونا (۳) حد سے بڑھا ہوا ہونا (۴) عورت کا بدکار ہونا۔
اَفحَشَ و فَاحَشَ فِی الکَلَام: بدکلامی کرنا۔
فُحشٌ: قباحت، برائی۔
فُحشُ القَول: بُری اور گندی بات، سخت بات۔
فَحشَاء، فَاحِشَة: (ا) بدکاری، گناہ (۲) زنا (۳) انتہائی مذموم حرکت ج: فَوَاحِشُ۔
اِرتَکَبَ الفَحشَاءَ: گناہ کرنا، جرم کرنا۔
فَاحِشَة: زانیہ۔
فَاحِش: سخت، زبردست، ناقابل تسلیم، مذموم، بد، بُرا۔
فَحَصَ ـَـ فَحصاً: جانچنا، ٹسٹ کرنا (۲) معاینہ کرنا (۳) حسابات کی جانچ کرنا (۴) پیشاب وغیرہ کا ٹسٹ کرنا۔
فَحصُهُ بِدِقَّةٍ: مکمل طور پر جانچ کرنا۔
فَحَصَ بالمِسمَاع: اسٹیتھسکوپ سے دیکھنا۔
فَحَصَ البَولَ: پیشاب ٹیسٹ کرانا، کرنا۔
فَحَصَ و تَفَحَّصَ: تحقیق کرنا، جانچ پڑتال کرنا۔
فَحص: جانچ، معاینہ، تحقیق و تفتیش، ریسرچ، چیکنگ، سروے، ایگزامنیشن، ٹیسٹنگ، چیک اَپ ج: فُحُوص و فُحُوصَات۔
فَحصُ الحِسَابَات: حسابات کی جانچ۔
فَحصُ الحَقَائِب: بکسوں کی جانچ۔
فَحصُ الدَّفَاتِر: رجسٹروں کی جانچ۔

فَحصُ الدَّم: بلڈ ٹیسٹ، خون کا ٹیسٹ۔
فَحصٌ جِسمَانِيٌّ عَامٌ: چیک اپ۔
فَحصٌ شَامِل: مکمل سروے۔
فَحصٌ طِبِّي: طبی تحقیق، طبی معاینہ، جانچ۔
فَحصٌ عَامٌ: جنرل سروے۔
فَاحِصٌ: جانچنے والا، معاینہ کرنے والا، ٹسٹ کنندہ، ایگزامینر (۲) انسپکٹر (۳) تجسس آمیز۔
فَاحِصُ حِسَابَات: حسابات چیک کرنے والا، آڈیٹر حسابات۔
فَحل: سانڈ ج: فُحُول۔
فَحلٌ و أُنثىٰ: نر و مادہ۔
شَاعِرٌ فَحلٌ: زبردست شاعر، قادر الکلام شاعر۔
فَحلَة: مردوں کی سی خصلت رکھنے والی عورت۔
فُحُولُ العُلَمَاء: زبردست علماء، بلند پایہ علماء۔
اِستَفحَلَ الأَمرُ: (۱) سنگین ہونا، قوی ہونا (۲) بڑا اور اہم ہونا۔
اِستَفحَلَ الخِلَاف: اختلاف بڑھنا۔
اِستَفحَلَ النِّزَاع: جھگڑا بڑھ جانا۔
فَحَمَ ـــ فَحماً و فُحُوماً: لاجواب ہونا، ساکت و خاموش ہونا۔
فَحَمَ، فَحِمَ، أُفحِمَ بِالبُكَاء: روتے روتے خاموش ہو جانا۔
فَحُمَ ـُ فَحَامَةً: سیاہ ہونا، کالا ہونا۔
أَفحَمَ الخَصمَ: مخاطب کو دلیل سے خاموش کرنا، لاجواب کر دینا۔
فَحَّمَ تَفحِيماً: کالا کرنا (۲) کوئلہ بنانا۔

فَحمٌ نَبَاتِيّ: کوئلہ و: فَحمَة۔
فَحمٌ عُضوِيّ: کاربن۔
فَحمٌ حَجَرِيّ أو مَعدِنِيّ: پتھر کا کوئلہ، معدنی کوئلہ۔
قَلَمُ فَحم: کالی پنسل۔
فَحمَة: کوئلہ کا ٹکڑا ج: فِحَام و فُحُوم۔
فَحمِيّ: کوئلہ کا (۲) کالا۔
جَمرَةٌ فَحمِيَّة: بھیڑ تپ، بھیڑوں یا مویشیوں کا طحالی بخار۔
فَحِيم، فَاحِم: سیاہ فام، بالکل کالا۔
فَحَّام: کوئلہ فروش۔
مُفحَم: مُسکت، لاجواب کنندہ۔
جَوَابٌ مُفحِم: مُسکت جواب۔
فَحوَى، فَحوَاء: مصداق (۲) مطلب، مقصد، خلاصہ (۳) معنی۔

ف............خ

فَخٌّ: پھندا (۲) جال (۳) ذریعۂ شکار (۴) چال ج: فُخُوخ و فِخَاخ۔
وَقَعَ فِي فَخّ: جال میں پھنسنا۔
فَخَتَ ـــ فَختاً: سوراخ کرنا۔
فَاخِتَة: فاختہ، ایک پرندہ ج: فَوَاخِت۔
فَخذ: ران ج: أَفخَاذ۔
فَخَرَ ـــ فَخراً و افتَخَرَ: فخر کرنا، ناز کرنا، فوقیت جتانا۔
اِفتَخَرَ و تَفَاخَرَ بِكَذَا: فخر کرنا، نازاں ہونا۔
فَخِرَ ـــ فَخراً و تَفَخَّرَ: بڑائی کرنا۔
فَاخَرَهُ مُفَاخَرَةً: کسی پر فوقیت لے جانا، کسی کے مقابلے میں فخر کرنا۔
اِستَفخَرَهُ: قابلِ فخر سمجھنا، شاندار سمجھنا۔

فَخر ، فُخرة، فَخار: اعزاز، سربلندی۔
فَخرِیّ: اعزازی۔
عُضوٌ فَخرِیّ: اعزازی ممبر۔
فَخُور ، فَخِیر: نازاں، فخر کنندہ۔
فَخَّار: پکی ہوئی مٹی، ٹھیکرا۔
أوَانٍ فَخَّارِیَّة: مٹی کے برتن۔
فَخَّارِیّ ، فَخَرَانِیّ (دا)، فَاخُورِیّ: مٹی کے برتن بنانے والا، کمہار۔
اِفتِخَار: سُرخ روئی، سربلندی۔
فَاخِر ، مُفتَخَر: قابلِ فخر، قابلِ عزت (۲) شاندار، بھڑکدار، پرشکوت، ڈیلکس، فینسی، نفیس۔
وَلِیمَةٌ فَاخِرَة: پُرتکلف دعوت۔
فَاخُورَة: مٹی کے برتن بنانے کا کارخانہ (دا)۔
مَفخَرَة: کارنامہ، قابلِ فخر کام ج: مَفَاخِرُ۔
مُفتَخِر: نازاں۔
فَخَّمَ تَفخِیماً: تعظیم کرنا، بڑا رتبہ دینا۔
فَخُمَ ـُـ فَخَامَةً: عظیم الشان ہونا (۲) زبردست ہونا، بھاری بھرکم ہونا۔
فَخم: شاندار، ڈیلکس (۲) زبردست (۳) عظیم، بڑا۔
فَخَامَة: عظمت، شان وشوکت (۲) لقب جو مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے: عالیجناب، عزت مآب۔
مُفَخَّم: زبردست، بڑا، شاندار۔

ف .... د

فَدَحَ ـَـ فَدحاً: گرانبار بنانا۔
فَادِح: گرانبار، بوجھل، دشوار۔
فَادِحَة: مصیبت ج: فَوَادِح۔
خَسَارَةٌ فَادِحَة: زبردست نقصان۔
مَطَالِبُ فَادِحَة: بھاری مطالبات۔
فَدَاحَة: گرانباری۔
فَدَخَ ـَـ فَدخاً: توڑنا۔
فَدَّنَ: موٹا بنانا۔
فَدَّانُ بَقَرٍ: بیلوں کا جوڑا جو ہل وغیرہ میں ایک ساتھ جُتا ہوا ہو۔
فَدَّانُ أرضٍ: ایک ایکڑ زمین (تقریباً ۴ ہزار مربع میٹر)۔
فَادِن: معمار کا سائل جس سے چُنائی کی یکسانیت کو دیکھا جاتا ہے ج: فَوَادِن۔
فَدَی ـِـ فِدَاءً: فدیہ دینا، مال دے کر جان چھڑانا۔
فَدَاهُ بِحَیَاتِهِ ـِـ فِدَاءً: جان نثار کرنا۔
تَفَادَی من كذا: بچنا، گریز کرنا۔
فِدًی ، فِديَة ، فِدَاء: مالِ فدیہ۔
فِدَاء: جان نثاری، قربانی۔
فِدَائِیّ: رضاکار (جنگی رضاکار)، جانباز سپاہی، گوریلا ج: فِدَائِیُّون۔
فِدَائِیَّة: جانبازی، قربانی۔
فَادٍ: بخت دہندہ، جان چھڑانے والا۔

ف .... ذ

فَذّ: اکیلا، تنہا، یکتا، بے مثال ج: أفذاذ و فُذُوذ۔
فَذلَكَة: خلاصہ، لُبِ لباب۔

ف .... ر

فَرث: گوبر جو اوجھ میں بھرا ہو ج: فُرُوث۔
فَرَجَ ـِـ فَرجاً و فَرَّجَ بَینَ الشَّیئَینِ: فصل کرنا، کشادگی پیدا کرنا (۲) کھولنا۔

فَرَّجَ عَنْهُ: راحت پہنچانا، سکون عطا کرنا، تکلیف زائل کرنا، مصیبت دور کرنا، رہا کرنا۔
فَرَّجَ: (دا) تماشہ دکھانا۔
اَفْرَجَ عَنِ المَكَان: چھوڑنا۔
اَفْرَجَ عنه: رہا کرنا، آزاد کرنا۔
تَفَرَّجَ، انْفَرَجَ: (۱) کھلنا (۲) غم زائل ہونا (۳) تکلیف دور ہونا۔
تَفَرَّجَ عَلَى: تماشہ دیکھنا (۲) مشاہدہ کرنا۔
اِنْفَرَجَ: کشادہ اور وسیع ہونا۔
فُرُج: بات محفوظ نہ رکھنے والا، بھانڈا پھوڑ۔
فَرَجٌ: کشادگی، فراخی، وسعت۔
فَرْجُ الانْثَى: عورت کی شرمگاہ ج: فُرُوج۔
فَرْجٌ، فُرْجَة: سوراخ، چھید، گیپ، وسعت، درمیانی فاصلہ۔
فُرْجَة: (دا) تماشا، ہنسی کی بات۔
فَرَارْجِيّ: (دا) مرغیاں پالنے والا۔
فَرُّوج، فَرُّوجَة: (دا) مرغی کا بچہ ج: فَرَارِيْج۔
تِفْرِجَة: سوراخ، جھروکا، روشن دان (۲) خلا ج: تَفَارِيْج۔
مُتَفَرِّج: تماشبین۔
مُنْفَرِج: کشادہ۔
فِرْجَار: پرکار (مع)۔
خطٌّ فِرْجَارِيّ: گول خط، گول لکیر۔
فِرْجَاطَة: (مع) جنگی جہاز (بحری)۔
فِرْجَوْن: جانوروں کے بدن پر پھیرنے کا برش (۲) برش۔

فَرِحَ ـَ فَرَحاً: خوش ہونا۔
فَرَّحَ تَفْرِيْحاً: خوش کرنا۔
فَرِحٌ، فَرْحَان: خوش، شاداں۔
فَرَحٌ: خوشی (۲) شادی ج: أَفْرَاح۔
رَقَصَ فَرَحاً: خوشی سے ناچنا۔
فَرْحَةٌ غَامِرَة: زبردست خوشی۔
مُفْرِحٌ: خوش کن، مسرت بخش۔
فَرَّخَ و أَفْرَخَ النَّبَاتُ: گھاس اُگنا۔
فَرَّخَ الطَّائِرُ: پرندہ کا بچہ نکالنا۔
فَرَّخَ البَيْضُ: انڈے کا بچہ سے الگ ہونا۔
فَرْخ: پرندہ کا بچہ ج: أَفْرَاخ و فُرُوخ۔
فَرْخ وَرَق: کاغذ کا ایک شیٹ۔
فَرْخَة: مرغی ج: فِرَاخ۔
فِرَاخ: (دا) مرغیاں (۲) پالتو پرندے۔
فَرِدَ ـُ فُرُوداً: اکیلا اور یکتا ہونا۔
فَرَدَ ـُ فُرُوداً عَنْ: الگ ہونا، علیحدہ ہونا۔
فَرَدَ: پھیلانا، کھولنا (ضد مَدَّ و طَوَى)۔
أَفْرَدَ الشَّيْئَ: علیحدہ کرنا، الگ کرنا۔
أَفْرَدَ بَاباً لِكَذا: کتاب کا حصہ خاص کرنا۔
تَفَرَّدَ و انْفَرَدَ بِالعَمَل: کسی کام کو تنہا کرنا، کسی کام میں منفرد ہونا۔
تَفَرَّدَ: یکتا و بے مثل ہونا۔
اِنْفَرَدَ بِالسُّلْطَة: تنہا اقتدار کا مالک ہونا، تنہا اقتدار حاصل کرنا۔
اِسْتَفْرَدَهُ: تنہا پانا، منفرد پانا (۲) کسی کام کو تنہا کرنا۔
فَرْدٌ: ایک (۲) طاق (۳) منفرد (۴) شخص ج: أَفْرَاد۔

فَرْدٌ ، فَرْدَة: جوڑے کا ایک فرد۔
فَرْدٌ ، فَرِیْد: بے نظیر، یکتا۔
فَرْدٌ: (دا) پستول۔
فَرْدٌ بِسَاقِیَة: ریوالور۔
فَرْدٌ بِمُشْطٍ: آٹومیٹک پستول۔
فَرْداً فَرْداً: ایک ایک، تنہا تنہا۔
عَدَدٌ فَرْدٌ أَوْ فَرْدِیّ: طاق عدد۔
فُرَاداً ، فُرَادَیٰ: ایک ایک۔
فَرِیْد: یکتا، تنہا، بے مثل۔
فَرِیْدَة: یکتا موتی، قیمتی موتی ج: فَرَائِدُ۔
فَرِیْدَةُ وَرَقٍ: (۲۴ فَرْخاً) کاغذ کا ایک دستہ۔
اِنْفِرَاد: تنہائی۔
عَلَی انْفِرَادٍ: تنہا۔
مُفْرَد: ایک، سنگل (ضد جَمع)۔
بِمُفْرَدِهٖ: تنہا، بلا مددگار۔
مُفْرَدَات: آئیٹم، تفصیلات، الفاظ، کلمات۔
مُفْرَدَاتُ المِیْزَانِیَة: بجٹ آئٹم۔
مُنْفَرِد: اکیلا، علیحدہ، تنہا۔
فِرْدَوْس: جنت، باغ ج: فَرَادِیْس۔
فَرَّ ـِ فَرّاً و فِرَاراً: بھاگنا، فرار ہونا۔
فَرَّ إِلَی جَانِبِ العَدُوّ: دشمن سے ملنا۔
أَفَرَّ: بھگانا، فرار کرنا۔
أَفَرَّ الوَلَدُ: بچہ کے دودھ کے دانت گر کر نئے دانت نکلنا۔
اِفْتَرَّ: مسکرانا۔
اِفْتَرَّ الثَّغْرُ: دانت کھلنا۔
اِفْتَرَّ البَرْقُ: بجلی چمکنا۔
لَاذَ بِالفِرَار: راہِ فرار اختیار کی۔

فَرَّار: پارہ (زِئْبَق)۔
فَرَّار ، فَارّ: بھاگنے والا۔
مَفَرّ: راہِ فرار۔
لَا مَفَرَّ مِنْهُ: چھٹکارا نہیں۔
فَرَزَ ـِ فَرْزاً و أَفْرَزَ: جدا کرنا (۲) چھٹائی کرنا (۳) پرکھنا۔
فَرْزٌ: علاحدگی (۲) ڈاک وغیرہ کی چھٹائی، شرٹنگ۔
فَرْزُ الخِطَابَات: خطوط کی چھٹائی، شرٹنگ۔
فَرْزٌ و فِرْزَانُ الشِّطْرَنْج: شطرنج کی رانی۔
فَرْزَة: سخت زمین کا شگاف۔
فَرَّازُ الحَلِیْب: کریم نکالنے کی مشین۔
إِفْرِیْز: کارنس ج: أَفَارِیْز۔
مَفْرَزَة: (جَمَاعَةٌ مِنَ الجُنْدِ یُنَاطُ بِهَا أَدَاءُ مُهِمَّةٍ مَّا) پارٹی ج: مَفَارِز۔
مَفْرُوْز: علیحدہ کیا ہوا، چھانٹا ہوا۔
فَرَسَ ـِ فَرْساً و افْتَرَسَ: (۱) شکار کرنا (۲) پھاڑ کھانا (۳) مار ڈالنا۔
فَرَسَ ـِ فِرَاسَةً: بھانپنا، تاڑنا، سمجھنا۔
فَرَسَهٗ و تَفَرَّسَ فِیْهِ: غور سے دیکھنا، پہچاننے کی کوشش کرنا۔
فَرُسَ ـُ فُرُوْسَةً و فُرُوْسِیَّةً: شہسوار ہونا، گھوڑوں کا ماہر ہونا۔
فَرَس: (۱) گھوڑا (۲) گھوڑی ج: أَفْرَاس۔
فَرَسُ الرِّهَان: ریس کا گھوڑا، دوڑ میں شرط لگایا ہوا گھوڑا۔
فُرْس: ملک فارس کے رہنے والے و: فَارِسِیّ۔
بِلَادُ الفُرْس: ملک ایران۔
فَارِسٌ: گھوڑ اسوار، شہسوار، مرد میدان ج:

فُرُسَان۔
فَرَاسَة، فُرُوسَة، فُرُوسِيَّة: گھوڑ اسواری، شہسواری۔
فِرَاسَة: سمجھ، دانائی، ہوشیاری۔
فَرِيْسَة: شکار، وہ جانور جسے درندے کھاتے ہیں ج: فَرَائِس۔
مُفْتَرِس: خونخوار، درندہ۔
فَرْسَخ: ۳ ½ میل انگریزی ج: فَرَاسِخ۔
فَرَشَ ـُـ فَرْشاً و فِرَاشاً و افْتَرَشَ: بچھانا۔
فَرَشَ: (۱) جھوٹ بولنا۔
فَرَشَ المَنْزِلَ: مکان میں فرنیچر لگانا، سامان سے آراستہ کرنا، فرش بچھانا۔
فَرَشَ و فَرَّشَ الأَرْضَ: زمین پر پلاسٹر کرنا (۲) فرش لگانا۔
فَرَّشَ الثِّيَابَ: (۱) کپڑوں پر برش پھیرنا۔
فَرْش: بچھانے کا کپڑا، بستر۔
فَرْشُ البَيْت: فرنیچر، گھر کا سامان۔
فَرْش: (۱) بنیاد۔
فَرْشُ البَائِعِ المُتَجَوِّلِ: پھیری والے کا خوانچہ۔
فَرْشَة، فِرَاش: گدا، بیڈ ج: فُرُش و أَفْرِشَة۔
فَرْشَةُ قَشٍّ: (طَرَّاحَة) پھونس بھرا ہوا گدا۔
طَرِيْحُ الفِرَاش: صاحبِ فراش، بیمار۔
فُرْشَة، فُرْشَاة: برش ج: فَرَاشٍ۔
فُرْشَةُ الثِّيَاب: کپڑے صاف کرنے کا برش۔
فُرْشَةُ الأَسْنَان: دانتوں کا برش۔
فُرْشَةُ البُوْدَرَة: پاوڈر برش۔

فُرْشَةُ الحِلَاقَة: حجامت کا برش۔
فُرْشَةُ البُوْيَة: پالش برش، روغن برش۔
فُرْشَةُ رِيْشٍ: باریک برش (پروں کا)۔
فَرَّاش: خادم، چپراسی، فرنیچر لگانے والا۔
فَرَاشَة: تتلی ج: فَرَاش و فَرَاشَات۔
مِفْرَشُ السَّرِيْرِ: پلنگ پوش۔
مِفْرَشُ السُّفْرَة: دستر خوان، میز پوش۔
مَفْرُوْش: پھیلا ہوا (۲) بچھا ہوا (۳) فرنیچر اور سامان سے آراستہ (۴) پختہ بنا ہوا۔
مَفْرُوْشَات: گھریلو سامان، فرنیچر۔
فُرَشِيْنَة: بالوں کا کلپ۔
فَرَصَ ـُـ فَرْصاً: کاٹنا، پھاڑنا۔
اِفْتَرَصَ الفُرْصَةَ: موقع پانا۔
فُرْصَة: موقع (۲) وقت (۳) چانس (۴) تعطیل ج: فُرَص۔
فُرْصَةٌ مُتَاحَة: فراہم شدہ موقع۔
فُرْصَةٌ مُتَكَافِئَة: حاصل شدہ موقع، فراہم شدہ موقع۔
فُرْصَةٌ مُوَاتِيَة: مناسب موقع۔
فُرْصَةٌ نَادِرَة: نادر موقع۔
الفُرْصَةُ لِلدِّرَاسَة: غور کرنے کا موقع۔
إِعْطَاءُ الفُرْصَة: موقع دینا۔
اِنْتِهَازُ الفُرْصَة: موقع سے فائدہ اٹھانا۔
تَضْيِيْعُ الفُرْصَة: موقع کھونا۔
فَرِيْصَة: مونڈھے اور پہلو کے درمیان کا گوشت جو خوف و گھبراہٹ کے وقت حرکت کرنے لگتا ہے۔

اِرْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُ: وہ لرزا، گھبرایا۔
فَرَضَ ۔ِ فَرْضاً: ضروری قرار دینا (۲) فرض کرنا (۳) مقرر کرنا (۴) حصہ مقرر کرنا (۵) فرض کر لینا یعنی تصور کر لینا (۶) سر مڑھنا، کسی کی بلا منشا کوئی کام سپرد کرنا۔
__ الْأَحْكَامَ الْعُرْفِيَّةَ عَلَى الْبِلَادِ: مارشل لا نافذ کرنا۔
__ الإِرَادَةَ علی: مرضی تھوپنا، کسی پر اپنی رائے مُسلط کرنا۔
__ الحِرَاسَةَ علی شيءٍ: نگرانی قائم کرنا، پہرہ بٹھانا۔
__ الحِصَارَ عَلَى المَوَانِي: بندرگاہوں پر پابندی لگانا۔
__ الحَظْرَ علی: پابندی عائد کرنا۔
__ حَظْرَ التَّجَوُّلِ: کرفیو لگانا۔
__ الرِّقَابَةَ علی: سنسر قائم کرنا، نگرانی عائد کرنا۔
فَرَضَ الضَّرَائِبَ علی: ٹیکس لگانا۔
__ الطَّابَعَ الأَمْرِيكِيَّ: امریکی طرز لاگو کرنا۔
__ العُقُوبَاتِ علی المُعْتَدِي: حملہ آور کو سزا دینا۔
__ القَرَارَ عَلَى الدَّوْلَةِ: ملک پر فیصلہ کو تھوپنا۔
__ القُيُودَ عَلَى الجَرِيدَةِ: اخبار پر پابندیاں لگانا۔
__ المُقَاطَعَةَ: بائیکاٹ کرنا۔
__ النِّظَامَ الإِقْطَاعِيَّ: جاگیرداری نظام قائم کرنا۔
__ النِّظَامَ علی: ڈسپلن قائم کرنا۔
__ الهَيْبَةَ عَلَى: رعب قائم کرنا، دھاک بٹھانا۔
__ وافْتَرَضَ الأَحْكَامَ: فیصلے کرنا، قوانین بنانا۔
فَرْضٌ و فَرِيضَةٌ: فرض اور ضروری قرار دیا ہوا کام، فریضہ ج: فُرُوض و فَرَائِض۔
فَرْضٌ مَدْرَسِيٌّ: ہوم ورک، اسکول کا کام جو گھر میں کیا جائے۔
فَرْضٌ مَنْزِلِيٌّ: گھریلو کام، ہوم ورک۔
عَلَى فَرْضِ أَنْ ......: بالفرض۔
فَرْضِيٌّ: اندازہ کی ہوئی چیز، فرض کیا ہوا۔
اِفْتِرَاضَات: مفروضات۔
مَفْرُوض: مقدر (۲) واجب (۳) مقرر۔
فَرَطَ ۔ُ فَرْطاً و فُرُوطاً: آگے بڑھنا، سبقت کرنا۔
فَرَطَ مِنْهُ كذا: سرزد ہونا، جلدی میں زبان سے بات نکلنا (۲) فعل سرزد ہونا۔
فَرَطَ مِنْهُ الشيءُ: ضائع ہونا، ہاتھ سے نکلنا۔
فَرَطَ فُلَانٌ وَلَداً: کسی کی چھوٹی اولاد مر جانا۔
فَرَّطَ: ضائع کرنا۔
فَرَّطَ فِي: غلط استعمال کرنا (۲) کوتاہی کرنا (۳) ترک کرنا (دا)۔
فَرَّطَ و أَفْرَطَ: حد سے بڑھنا۔
اِنْفَرَطَ: ڈھیلا ہونا۔
اِنْفَرَطَ عَقْدُ الاجْتِمَاعِ: جلسہ ختم ہونا۔
فَرْط: شدت، حد سے تجاوز۔

فَرْطُ الإِحْسَاس: شدتِ احساس۔
فَرْطٌ: (۱) فائدہ مال، نفع۔
مُفْرِطٌ: حد سے بڑھنے والا۔
مُفْرِط: فضول خرچ۔
فَرْطَحَة: پھیلانا (۲) چوڑا کرنا۔
فَرَّعَ المَسَائِلَ مِنَ الأَصْل: کسی اصل سے جزئی مسائل نکالنا۔
فَرَّعَ الشَّجَرُ: درخت کی شاخیں نکلنا۔
تَفَرَّعَ: پھیلنا، شاخیں نکلنا۔
فَرْع: شاخ، ضد أَصْل (۲) برانچ، سیکشن (۳) حصہ، جزء ج: فُرُوع۔
فَرْعٌ مَحَلِّيٌّ مِنْ مُنَظَّمَةٍ: کسی تنظیم کی لوکل شاخ۔
فَرْعِيّ: (۱) شاخ کا، شاخ سے متعلق (۲) جزئی۔
فَرِعَ ـَ فَرْعاً: بلندی پر چڑھنا۔
فَارِع: لمبا۔
مُتَفَرِّعَات: جزئیات۔
فَرْعَنَة: چالباز و مکار ہونا، مغرور ہونا۔
تَفَرْعَنَ: مغرور و چالباز ہونا۔
تَفَرْعَنَ النَّبَاتُ: گھاس کا لمبا اور مضبوط ہونا۔
فَرَغَ ـُ فَرَاغاً: خالی ہونا، فارغ ہونا (۲) ختم ہونا۔
فَرَغَ الصَّبْرُ: صبر کی طاقت نہ رہنا۔
فَرَغَ مِنْ جَدْوَلِ الأَعْمَال: ایجنڈے سے فارغ ہونا۔
فَرَّغَ و أَفْرَغَ: خالی کرنا۔
فَرَّغَ و أَفْرَغَ الشَّحْنَةَ: جہاز وغیرہ سے سامان اُتارنا۔
فَرَّغَ و أَفْرَغَ حُمُولَةَ الطَّائِرَة: ہوائی جہاز سے سامان اتارنا۔
فَرَّغَ و أَفْرَغَ البِضَاعَةَ إِلى البَرّ: خشکی پر سامان اُتارنا۔
فَرَّغَ و أَفْرَغَ المَاءَ: پانی انڈیلنا، نکالنا۔
فَرَّغَ و أَفْرَغَ فِي قَالَبٍ: سانچہ میں ڈھالنا۔
فَرَّغَ و أَفْرَغَ و اسْتَفْرَغَ: ختم کرنا۔
اِسْتَفْرَغَ: قے کرنا۔
اِسْتَفْرَغَ مَجْهُودَه: طاقت صرف کرنا۔
تَفَرَّغَ مِنَ العَمَل: کام سے سبکدوش ہونا۔
تَفَرَّغَ لِلْأَمْر: کسی کام کے لئے وقت نکالنا، تیار ہونا (۲) کسی کام کے لئے وقف ہونا۔
فَرَاغ: خالی جگہ، خلاء ج: فَرَاغَات۔
فَرَاغ مِنَ العَمَل: بے کاری۔
وَقْتُ الفَرَاغ: فرصت کا وقت۔
فَارِغ: خالی (۲) بے مغز، بے فائدہ۔
اِمْرَأَةٌ فَارِغَة: غیر شادی شدہ عورت۔
مَفْرُوغٌ مِنْهُ: ختم شدہ۔
فَرَقَ ـُ فَرْقاً بَيْنَ: جدائی کرنا، فرق کرنا، دو چیزوں میں امتیاز کرنا (۲) چیرنا۔
فَرِقَ ـَ فَرَقاً: گھبرانا، ڈرنا۔
فَرَّقَ: (۱) جدا کرنا (۲) منتشر کرنا (۳) برباد کرنا (۴) تیرہ تین کرنا (۵) ڈرانا۔
فَرَّقَ بَيْنَهُم: پھوٹ ڈالنا۔
فَرَّقَ التَظَاهُرَة: مظاہرہ کو منتشر کرنا۔
فَرَّقَ المُظَاهِرِين: مظاہرین کو منتشر کرنا۔

فَارَقَهُ مُفَارَقَةً: جُدا ہونا، الگ ہونا۔
فَارَقَتِ الرُّوْحُ الْجَسَدَ: جسم سے روح کا نکلنا، پرواز کرنا۔
فَارَقَ النَّوْمُ عَيْنَهُ: آنکھ نہ لگنا، نیند اچٹ جانا۔
تَفَرَّقَ: منتشر ہونا (۲) ہلاک و برباد ہونا۔
اِنْفَرَقَ عَنْهُمْ: الگ ہونا۔
فَرْق ج: فُرُوْق: امتیاز (۲) خصوصیت (۳) بیلنس، باقی (حساب کی اصطلاح)۔
فَرْقُ عُمْلَةٍ: ایکسچینج۔
فَرْقٌ فِي شَعْرِ الرَّأْس: بالوں کی مانگ۔
فَرَق: ڈر، گھبراہٹ۔
فِرْقٌ: (۱) ڈار، بکریوں وغیرہ کا گلہ (۲) حصہ (۳) سیکشن۔
فِرْقَة: جماعت، گروہ، پارٹی، گروپ، فرقہ، دستہ، ٹیم ج: فِرَق۔
فِرْقَةٌ تَمْثِيْلِيَّةٌ: ایکٹنگ کرنے والی پارٹی۔
فِرْقَةٌ عَسْكَرِيَّةٌ: فوج کا ایک ڈویژن، فوجی ٹیم۔
فِرْقَةُ عُمَّالٍ: مزدور گروپ۔
فِرْقَةٌ مُوْسِيْقِيَّةٌ: موسیقار گروپ، میوزک بینڈ۔
فِرْقَةٌ مِنَ الْفِدَائِيِّيْن: کمانڈوز۔
فِرْقِي: ڈویژنل۔
فُرْقَة، فِرَاق، اِفْتِرَاق: جدائی، علیحدگی، پھوٹ۔
فِرَاق: روانگی۔
فُرْقَان: بُرہان، دلیل (۲) قرآنِ کریم۔
فَرِيْق: جماعت، پارٹی۔
فَرِيْقٌ أَوَّلُ: فرسٹ پارٹی۔
فَرِيْقٌ فِي الْأَلْعَابِ الرِّيَاضِيَّةِ: کھیل کی ٹیم۔
فَرِيْقٌ فِي دَعْوَى: پارٹی، مقدمہ کا فریق۔
فَرِيْقٌ فِي عَقْدٍ: پارٹی، معاہدہ کا فریق۔
فَرِيْقٌ فِي نِزَاعٍ: پارٹی، جھگڑے کا فریق۔
فَرِيْقٌ مُهَاجِمٌ: حملہ آور گروپ۔
فَرِيْق (۲): ایک فوجی عہدہ، لیفٹیننٹ جنرل۔
فَارِق: خطِ فاصل، وجہِ امتیاز، حد، فرق ج: فَوَارِق۔
تَفْرِقَة: امتیاز، پھوٹ۔
التَّفْرِقَةُ الْعُنْصُرِيَّةُ: نسلی امتیاز۔
تَفَارِيْق: ریزگاری، خوردہ۔
بِالتَّفْرِيْق: (۱) تفصیل کے ساتھ (۲) ٹکڑے ٹکڑے کر کے (۳) خوردہ، ریٹیل میں (بِالْجُمْلَة کی ضد)۔
مَفْرِق: نقطۂ انفصال (۲) مرکزِ اختلاف۔
مَفْرِقُ الطُّرُق: وہ جگہ جہاں کئی راستے ملتے ہوں۔
أَرْبَعَةُ مَفَارِق: چوراہا (دا)۔
فَرْقَعَة: انگلیاں چٹخانا (۲) دھماکہ۔
تَفَرْقَعَ: انگلیوں کا چٹخانا۔ دھماکہ ہونا۔ پٹاخہ وغیرہ پھٹنا۔
مُفَرْقَعَات: دھماکہ خیز چیزیں، پٹاخے وغیرہ۔
فَرَكَ ـُ فَرْكاً: ملنا، رگڑنا، کھرچنا۔
فَرَكَ عَيْنَهُ بِيَدِهِ: آنکھیں ملنا۔
تَفَرَّكَ و انْفَرَكَ: مطاوع فَرَكَ
فَرَاك: (مع) فراک، فراک کوٹ،

ایک خاص قسم کا لباس۔
فَرِیک ، مَفرُوک: رگڑا ہوا، مَلا ہوا۔
الفَرلَنغ: (مع) فرلانگ (۲۲۰ گز)۔
فَرَمَ اللَّحمَ ـُ فَرماً: گوشت کا قیمہ کرنا۔
فَرمَة: گوشت کا چھوٹا ٹکڑا ج: فَرمات۔
فُرمَةُ المِطبَعَة: (مع) پریس کا فرمہ۔
فَرَّامَةُ و مِفرَمَةُ اللَّحم: قیمہ کرنے والی مشین۔
مَفرُوم: قیمہ، کٹا ہوا۔
لَحمٌ مَفرُوم: قیمہ، کٹا ہوا گوشت۔
فَرمَان: (مع) حُکم عالی، فرمان ج: فَرامِین۔
فَرمبُواز: (مع) تُوتِ فرنگی۔
فَرمَلَة: (ضَابِطَةُ و كَمَّاحَةُ العَربة): بریک ج: فَرامِل۔
فَرمَلَةٌ تَالِفَة: فیل بریک۔
فَرمَلجِيُّ القِطَار: بریک مین، ریل گاڑی کو بریک لگانے والا۔
فُرنٌ: تنور، بھٹی، اسٹوو (۲) نان بائی کی دوکان (۳) بسکٹ بنانے کا کارخانہ، بیکری ج: أفران۔
الفُرنُ الذَّرِّيّ: ایٹمی بھٹی۔
فَرَّان: نان بائی، بسکٹ وغیرہ بنانے والا، بیکری۔
فَرنَجَ و تَفَرنَجَ: انگریز جیسا بننا۔
إفرُنج ، إفرُنجة: انگریز لوگ۔
إفرُنجِيّ: انگریز، فرنگی، یورپین۔
فَرنسا: (مع) فرانس۔
فَرنسِيّ: (مع) فرانس کا رہنے والا، فرانسیسی۔
فَرنک: فرانسیسی سکہ ج: فَرنکات۔
فَروٌ ، فَروَة: پوستین، سنجاب (۲) جانور کی بال دار کھال ج: فِرَاء۔
فَرَى ـِ فَرياً و افتَرَى عَلَيهِ الكَذِبَ: الزام لگانا، کسی کے متعلق بے بنیاد بات کہنا۔
فَرَى عليه: چغلی لگانا (۲) شکایت کرنا۔
فَرَى و فَرَّى و افرَى: کاٹنا، چاک کرنا۔
فِريَة ، اِفتِرَاء: الزام، بہتان (۲) چغلی (۳) شکایت۔
مُفتَرٍ: افترا پرداز، الزام تراش۔

ف .... ز

فَزَرَ ـُ فَزراً: پھاڑنا، چیرنا۔
فَزَرَ فُزُوراً و تَفَزَّرَ و انفَزَرَ: شق ہونا۔
فَزَارَة: چیتے کی مادہ۔
فَزَّ ـِ فَزّاً و فَزَازَةً: مضطرب ہونا، تڑپنا، بے چین ہونا (۲) جست لگانا، کودنا۔
فَزَّ وَافَزَّ: پریشان کرنا، دور کرنا۔
فَزَّ و استَفَزَّ: ڈرانا، سہانا۔
اِستفزّہ: بھڑکانا، مشتعل کرنا۔
الاِستِفزَاز: جارحیت، تخویف، اشتعال انگیزی۔
فَزَّة: جست، چھلانگ۔
فَزِعَ ـَ فَزَعاً: ڈرنا، گھبرا جانا، سہمنا۔
فَزِعَ إلَيهِ: پناہ لینا، سہارا لینا۔
فَزَّعَ و افزَعَ: ڈرانا۔
فَزَع: ڈر، گھبراہٹ۔
فَزِع ، فَزعَانٌ ، مُفزَع: ڈرا ہوا۔
فَزَّاعَة: ڈراونی اور بھیانک چیز۔
مُفزِع: بھیانک، خوفناک۔

ف .... س

فُسْتَان: فراک، ایک زنانہ لباس ج: فَسَاتِیْنُ۔
فُسْتُق: پستہ۔
فُسْتُقِیُّ اللَّوْن: پستی رنگ۔
فَسَّحَ: کشادہ کرنا، وسیع کرنا۔
فَسَحَ لَهُ ـَ فَسْحاً و فُسُوحاً: جگہ دینا۔
فَسُحَ المَكَانُ ـُ فَسَاحَةً: جگہ کا کشادہ ہونا۔
تَفَسَّحَ و انْفَسَحَ: کشادہ ہونا، وسیع ہونا۔
تَـفَسَّـحَ: (۱) قضاء حاجت کرنا (۲) پاک ہونا۔
فَسْح: (جَوَازُ السَّفَر) پاسپورٹ۔
فُسْـحَة: گنجائش، جگہ، کشادگی (۲) تفریح (۳) تعطیل ج: فُسَحٌ۔
فُسْحَةٌ بَيْنَ سَاعَاتِ الدَّرْس: درمیانی وقفہ۔
فُسْحَةٌ في عَرَبَةٍ: جگہ گنجائش (گاڑی میں)۔
فَسْحَة: (۱) گھر کا صحن۔
فَسِيْحٌ: کشادہ۔
فَسَخَ ـَ فَسْخاً و فَسَّخَ: معاملہ ختم کرنا (۲) توڑنا (۳) بے اثر بنانا (۴) پھاڑنا (۵) مچھلی کو نمک لگانا۔
فَسَخَ العَقْدَ أو المُعَاهَدَةَ: معاہدہ ختم کرنا، منسوخ کرنا۔
تَفَسَّخَ: پھٹنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔
اِنْفَسَخَ: معاملہ ختم ہونا (۲) ٹوٹنا۔
اِنْفَسَخَتِ الخِطْبَةُ: منگنی ختم ہونا۔
فَسْخ: منسوخی۔
فَسِيْخ: نمک لگی ہوئی مچھلی۔
فَسَدَ ـُ فَسَاداً و انْفَسَدَ: خراب ہونا، متعفن ہونا۔

اَفْسَدَ و فَسَّدَ: خراب کرنا، بے نتیجہ بنانا (۲) ناکام بنانا (۳) بگاڑنا۔
اَفْسَدَ بَيْنَهُمْ: اختلاف پیدا کرنا، بگاڑ پیدا کرنا۔
اَفْسَدَ تأثِيْرَهُ: اثر زائل کرنا۔
اَفْسَدَ الخُلُقَ: اخلاق خراب کرنا۔
اَفْسَدَ النَّوَايَا: ارادوں پر پانی پھیرنا۔
اَفْسَدَ الخُطَّةَ عَلَى أحَدٍ: منصوبہ کو فیل کردینا، ناکام بنادینا۔
فَسَـاد: خرابی، بگاڑ، گڑبڑی، ابتری، کرپشن (۲) بدبو، تعفن۔
فَسَادُ الحُكْم: حکومت کا بگاڑ۔
فَسَادُ دَوْلَةٍ: ملک کا بگاڑ۔
فَسَرَ البَوْلَ ـُ فَسْراً: پیشاب کاٹسٹ کرنا۔
فَسَّرَ تَفْسِيْراً: تشریح کرنا، وضاحت کرنا (۲) ترجمہ کرنا (۳) تاویل کرنا (۴) مُراد بتانا۔
فَسَّرَ الشَّيْءَ بكذا: کسی بات کے کوئی معنی لینا۔
تَفْسِيْر: تشریح، وضاحت، نوٹ، مطلب۔
تَفْسِيْرٌ مُوْجَز: مختصر نوٹ۔
تَفْسِيْرُ نَتِيْجَةِ الاسْتِفْتَاء: الیکشن کے نتیجہ کی وضاحت۔
اِسْتِفْسَـار: انکوائری، پوچھ تاچھ ج: اِسْتِفْسَارَات۔
فُسْطَاط: ڈیرہ، خیمہ، تمبو، ٹینٹ ج: فَسَاطِيْط۔
الفُسْطَاط: قدیم مصر۔
فُسَيْفِسَاء: پچی کاری، مختلف رنگ کے ٹکڑے جوڑ کر فرش تیار کرنا۔

فَسَقَ ـُـ فُسُوْقاً: گمراہ ہونا، راہِ حق سے انحراف کرنا۔
فَسَقَ بالمَرْأة: زنا کرنا۔
فِسقِيَةُ الماء: پانی کا فوارہ ج: فَساقِیّ۔
فَسُوّ: گوز۔
فَسَا ـُـ فَسْواً و فُساءً: بلا آواز ریح خارج کرنا۔
فِسيُولُوجِيَة: علم وظائف الاعضاء۔

ف .... ش

فَشِـزْم، فَـاشِيَّة: فاشزم، فسطائیت، ایک اٹالین سیاسی نظریہ۔
فَاشِيّ: فاشزم کو ماننے والا، فسطائی، فاشسٹ۔
فَشَكَة: کارتوس ج: فَشَكات۔
فَشِلَ ـَـ فَشَلاً: ہمت ہارنا (۲) ناکام ہونا۔
فَشِلَتِ الجُهُودُ: کوشش ناکام رہنا۔
فَشِلَتِ الخُطَّةُ: اسکیم فیل ہونا۔
فَشِلَتِ المُحاوَلَةُ لكذا: ارادہ ناکام ہونا۔
فَشِلَتِ المفاوَضاتُ: بات چیت کا ناکام ہونا۔
فَشِلَتْ مُؤامَرَةُ الاغْتِيال: قتل کی سازش کا ناکام ہونا۔
فَشِلَ فى المَعْرَكَة: جنگ میں ناکام ہونا۔
فَشِلَ فى الامتحان: امتحان میں فیل ہونا۔
أفْشَلَ: ناکام بنانا۔
فَشَلٌ: ناکامی، نامرادی۔
فَشِلٌ و فَشِلٌ: کم ہمت، ہمت ہارنے والا (۲) ناکام، نامراد ج: أفْشَال۔
فَاشِل: ناکام، بے نتیجہ، بے سود۔
فَشَا ـُـ فَشْواً: ظاہر ہونا (۲) پھیلنا، شائع ہونا۔
فَشَا وتَفَشَّى: بیماری وغیرہ کا پھیلنا۔
أفْشَى: ظاہر کرنا، منکشف کرنا، راز کھولنا، بھانڈا پھوڑنا۔
فَاشٍ، مُتَفَشٍّ: پھیلا ہوا، منتشر۔

ف .... ص

فَصُحَ ـُـ فَصَاحَةً: سلیس ہونا، فصیح ہونا۔
أفْصَحَ الرَّجُلُ: صاف بات کہنا (۲) وضاحت کرنا (۳) فصاحت کے ساتھ بولنا (۴) مُراد بتانا۔
أفْصَحَ عَنْ: ظاہر کرنا۔
أفْصَحَ الأمْرُ: ظاہر و آشکارا ہونا۔
فَصِيح: فصیح، سلیس، صاف۔
فَصَاحَة: سلاست، روانیٔ کلام۔
مُفْصِح: واضح، ظاہر۔
فَصَدَ ـِـ فَصْداً: فصد کرنا، فاسد خون نکالنا (رگ کھول کر)۔
فَصَدَتْ و انفَصَدَتْ أنفُهُ: ناک سے خون جاری ہونا۔
فَصْدٌ و فِصَادُ الأنْف: نکسیر۔
مِفْصَدٌ: نشتر ج: مَفاصِدُ۔
فَصَّصَ الخاتَمَ: انگوٹھی پر نگینہ لگانا۔
فَصَّصَ: مٹر وغیرہ کا چھلکا اتارنا۔
فَصٌّ: نگینہ ج: فُصُوْص (۲) اصل۔
فَصَلَ ـِـ فَصْلاً: جدا کرنا، الگ کرنا (۲) کاٹنا (۳) دور کرنا۔
فَصَلَ الوَلَدَ: دودھ چھڑانا۔
فَصَلَ اسْمَ التِلْمِيْذ: نام خارج کرنا۔
فَصَلَ الخِياطَةَ: سلائی اُدھیڑنا۔

فَصَلَ القُوَّاتِ: فوجوں کو علیحدہ کرنا۔
فَصَلَ العِبَارَةَ إلى فِقرَاتٍ: پیراگراف بنانا۔
فَصَلَهُ عَنِ المَدرَسَة: اخراج کرنا۔
فَصَلَهُ عَنِ الوَظِيفَة: برطرف کرنا، معطل کرنا، سسپنڈ کرنا۔
فَصَّلَ تَفصِيلاً: تفصیل بیان کرنا (۲) حصے بخرے کرنا (۳) تقسیم کرنا (۴) کپڑا کترنا۔
اِنفَصَلَ: الگ ہونا، جدا ہونا (۲) کٹنا، جماعت وغیرہ سے نکلنا (۳) دراڑ پیدا ہونا۔
اِنفَصَلَتِ الخِيَاطَةُ: سلائی اُدھڑنا۔
فَصلٌ: (۱) تفریق، تقسیم، اخراج، برطرفی (۲) حصہ، ٹکڑا (۳) قسم (۴) سیکشن، شعبہ (۵) کلاس، درس گاہ، روم (۶) موسم، سیزن ج: فُصُول۔
فَصلٌ مِن كِتَابٍ: کتاب کا جز، کتاب کا ایک حصہ، چیپٹر۔
فَصلٌ مِن رِوَايَةٍ تَمثِيلِيَّة: ڈرامائی کہانی کا ایک باب، ایک منظر۔
فَصلٌ بِدُونِ إخطَارٍ سَابِقٍ: بلانوٹس اخراج۔
فَصلٌ فِي الخُصُومَاتِ: فیصلہ مقدمات۔
فَصلٌ إضَافِيٌّ: خصوصی کلاس۔
فَصلٌ مَدرَسِيٌّ: اسکول ٹرم۔
يَومُ الفَصلِ: قیامت کا دن۔
فَصِيلٌ: دودھ چھڑایا ہوا بچہ۔
فَصِيلَة: کنبہ، گھرانہ، نسل، کیٹا گری (۲) قسم، نوع، قبیل۔
فَاصِلٌ: آڑ، رکاوٹ، پارٹیشن کی دیوار (۲) فیصلہ کن، قطعی۔
فَاصِلَة (شَولَة): کاما [،]۔
اِنفِصَال: علاحدگی۔
اِنفِصَالِيَّة: علاحدگی پسندی۔
تَفصِيل: ڈیٹیل، تفصیل۔
تَفصِيلاً و تَفصِيلِيّاً: تفصیل سے، مُفصّل طور پر۔
تَفَاصِيل: تفصیلات (۲) مُفردات۔
التَّفَاصِيلُ المُرتَبِطَةُ بِكذا: متعلقہ تفصیلات۔
مَفصِل: جوڑ، دو ہڈیوں کے ملنے کی جگہ ج: مَفَاصِل۔
مَفصِلِيّ: جوڑوں کا، جوڑوں والا۔
مُفَصَّل: کٹنگ شدہ کپڑا (۲) تفصیلی۔
مِفصَلَة، مُفَصَّلَة: قبضہ جس پر کواڑ گھومتے ہیں۔
مَفصُول: جُدا، علیحدہ کیا ہوا۔
فَصَمَ ـِ فَصماً: کاٹنا، الگ کرنا۔
اِنفِصَام: جُدا ہونا، منقطع ہونا۔

ف .... ض

فَضَحَ ـَ فَضحاً: (۱) رسوا کرنا (۲) بدنام کرنا (۳) عیب لگانا (۴) انکشاف کرنا۔
فَضَحَ الدَّسَائِسَ و المُؤَامَرَاتِ: سازشوں اور دسیسہ کاریوں کو بے نقاب کرنا۔
فَضَحَ المُعَمَّى: مُعمہ حل کرنا۔
اِفتَضَحَ الأمرُ: انکشاف ہونا، راز کھلنا، بھانڈا پھوٹنا، پول کھلنا۔
اِفتَضَحَ الرَّجُلُ و انفَضَحَ: رسوا ہونا، جگ ہنسائی ہونا، برائیاں کھلنا۔

فَضِیح ، مَفضُوح: رُسوا، بدنام۔
فَضِیحَة: رسوائی، بدنامی ج: فَضَائح۔
فَاضِح: رسواکن، شرمناک۔
فَضَّضَ: چاندی کا ملمع کرنا۔
فَضَّ ـــُ فَضّاً: (۱) سوراخ کرنا (۲) کھولنا (۳) منتشر کرنا، تحلیل کرنا، برخاست کرنا (۴) مہر (سیل) توڑنا۔
فَضَّ الاجْتِمَاعَ: جلسہ برخاست کرنا، ختم کرنا۔
فَضَّ الاشْتِبَاکَ بَیْنَ الْمُتَحَارِبَیْن: تصادم کو روکنا۔
فَضَّ الجَلْسَةَ: جلسہ برخاست کرنا۔
فَضَّ الخَتْمَ: مہر توڑنا، سیل توڑنا۔
فَضَّ الدُّمُوعَ: آنسو بہانا۔
فَضَّ النِّزَاعَ: جھگڑا چکانا، اختلاف ختم کرانا۔
فَضَّ و افْتَضَّ البَکَارَةَ: بکارت زائل کرنا۔
اِنْفَضَّ: کھلنا (۲) زائل ہونا، ٹوٹنا۔
اِنْفَضَّ و تَفَضَّضَ: منتشر ہونا۔
اِنْفَضَّ المُؤتَمَرُ: کانفرنس ختم ہونا۔
لَافُضَّ فُوکَ: تمہارا منہ سلامت رہے۔
فِضَّة: چاندی، سلور۔
فِضِّیّ: چاندی کا، سلور کا۔
فِضِّیَّات: چاندی کے برتن۔
مُفَضَّض: چاندی کا ملمع کیا ہوا۔
فَضْفَضَة: کپڑے کو ڈھیلا اور کشادہ کرنا۔
فَضْفَاض: ڈھیلا، کشادہ۔
فَضِلَ ـــَ و فَضَلَ ـــُ فَضْلاً: باقی بچنا۔
فَضَلَهُ و عَلَیْهِ ـــُ فَضْلاً: فوقیت لے جانا۔

فَضَّلَ تَفْضِیْلاً: ترجیح دینا، پسند کرنا (۲) باکمال بنانا۔
تَفَضَّلَ علی: مہربانی کرنا، کرم فرمانا۔
تَفَضَّلْ: مہربانی فرمایئے (تشریف لایئے)۔
تَفَضَّلُوا بِزِیَارَةِ مَعْرُوضَات: سامان کو ملاحظہ فرمایئے (جمع مذکر)۔
تَفَضَّلِي: آیئے (واحد مونث)۔
تَفَضَّلْنَ: آیئے (جمع مونث)۔
فَضْلٌ: احسان، کرم (۲) اعزاز (۳) فضیلت (۴) کمال (۵) استحقاق (۶) مہربانی (۷) اچھا رول، کریڈٹ ج: اَفْضَال۔
الفَضْلُ (فِی أمْرٍ کَذَا) عَائِدٌ علی فُلَانٍ: فلاں کام کا سہرا فلاں کے سر ہے۔
بِفَضْلِهِ: اس کے طفیل سے، اس کے سبب سے۔
بِفَضْلِکُمْ: آپ کے طفیل سے، سبب سے۔
مِنْ فَضْلِکَ: براہِ کرم، ازراہِ کرم، مہربانی فرما کر۔
مِنْ فَضْلِ فُلَان: فلاں کے طفیل، فلاں کی بدولت۔
فَضْلاً عَنْ کَذَا: چہ جائے کہ، علاوہ اس کے۔
فَضْلَة ، فُضَالَة: بقیہ، باقی ماندہ (۲) زائد، بچی ہوئی چیز (۳) پس خوردہ۔
فَضِیْلَة: (۱) بلند اخلاق (ضد رَذِیلَة) (۲) امتیازی وصف، خوبی (۳) ترجیح (۴) فوقیت (۵) برتری ج: فَضَائِلُ (۶) ایک اعزازی لقب جو علماء و مشائخ کے

ناموں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے
(فضِيلَةُ فُلان، صَاحِبُ الفضِيلَة)
(۷) گریجویشن، فاضل کی ڈگری۔
فَاضِلٌ: (۱) باقی (۲) صاحب کمال۔
اَفْضَلُ: بہتر، ممتاز۔
اَفْضَلُ فُرْصَةٍ: بہترین موقع۔
اَفْضَلِيَّة: امتیاز، ترجیح۔
المُفَاضَلَةُ في الاَسْعَار: نرخوں میں کمی بیشی۔
مِفْضَل و مِفْضَال: بڑا مہربان۔
مُفَضَّل: مراعات یافتہ، پسندیدہ۔
فَضَا ـُ فُضُوّاً: خالی ہونا۔
اَفْضَى إِلَي: پہنچانا (۲) راہنمائی کرنا۔
اَفْضَى بِالتَصْرِيح: بیان دینا۔
أَفْضَى بِسِرِّه: راز فاش کرنا۔
تَفَضَّى: خالی ہونا۔
فَضَاء: کھلی جگہ، خلا۔
فَاضٍ: خالی (۲) بے کار (۳) زائد از ضرورت۔

ف .... ط

فَطْحَل: زبردست عالم ج: فَطَاحِلُ۔
فَطَرَ ـُ فَطْراً: پیدا کرنا (۲) شق کرنا۔
فَطَرَ و اَفْطَرَ: روزہ افطار کرنا (۲) صبح کا ناشتہ کرنا۔
فُطِرَ عَلَي: کسی چیز کا فطری ہونا، عادی ہونا۔
فَطَّرَ صَائِماً: روزہ دار کو روزہ افطار کرنا۔
أَفْطَرَ علي شيْءٍ: کسی چیز سے افطار کرنا (۲) ناشتہ کرنا۔
اِنْفَطَرَ و تَفَطَّرَ: پھٹنا، پارہ پارہ ہونا۔
فِطْرَة: نیچر، فطرت (۲) فطری حالت۔
فِطْرَةٌ سَلِيمَة: عقلِ سلیم، کامن سینس۔
فُطُور: افطاری (۲) ناشتہ۔
فُطُورِيّ: (دا) افطاری۔
فَطِير: (۱) خمیری روٹی (۲) ناپختہ روٹی (۳) پیسٹری۔
فَطِيرَة: پیسٹری، کیک، پوری، کچوری، پراٹھا ج: فَطَائِرُ۔
فَطِيرَةٌ مَحْشُوَّةٌ بلَحْمٍ: قیمی، سموسے وغیرہ جن میں گوشت بھرا ہوا ہو۔
فَطَائِرِيّ: کیک پیسٹری بنانے والا۔
فَاطِرٌ: پیدا کرنے والا (۲) ناروزہ دار۔
فَاطِرٌ ، مُفْطِر: روزہ توڑنے والا۔
فَطِسَ ـَ فَطَساً: چپٹی ناک کا ہونا۔
فَطَسَ ـِ فَطْساً و فُطُوساً: مرنا۔
فَطَّسَ: مارنا (۲) گلا گھونٹنا۔
اَفْطَسُ: چپٹی ناک والا ج: فُطْسٌ۔
فَطَمَ الرَّضِيعَ ـِ فَطْماً: بچہ کا دودھ چھڑانا۔
فِطَام: دودھ چھڑانے کا زمانہ (۲) دودھ چھڑانا۔
فَطِيم ، مَفْطُوم: دودھ چھڑایا ہوا بچہ۔
فَطِنَ لِلأَمْرِو إلَيْه ـَ فَطَناً: سمجھنا (۲) حقیقت جاننا، تہہ کو پہنچنا۔
فَطَّنَه تَفْطِيناً: سمجھانا، یاد دلانا۔
فَطِنٌ ، فَطِيْن: ذکی، ہوشیار ج: فُطُن۔
فِطْنَة: سمجھ، ہوشیاری۔

ف .... ظ

فَظٌّ: سخت، بداخلاق، سخت کلام ج: اَفْظَاظ۔
فَظَاظَة: سختی، بداخلاقی، درشت کلامی۔
فَظُعَ ـُ فَظَاعَةً: بُرا اور مکروہ ہونا، انتہائی قبیح ہونا۔

فَظِعَ ۔ فَظَعاً: گھبرا جانا، خوف کھانا۔
اِسْتَفْظَعَ: بُرا سمجھنا۔
فَظَعٌ: ڈر، خوف، گھبراہٹ۔
فَظِعٌ، فَظِیْعٌ، مُفْظِعٌ: کریہہ، بُرا، بھونڈا۔
فَظَاعَة: بھونڈا پن، قباحت۔
فَظِیْعَة: بھیانک پن، ہولناکی۔
فَظَائِعُ الحَرْب: جنگ کی ہولناکیاں۔

ف.........ع

فَعَلَ ۔ فِعْلاً: کرنا۔
فَعَلَ بہ: بنانا۔
فَعَّلَ الشِّعْرَ: شعر کا وزن کرنا۔
اِنْفَعَلَ: کام ہونا (۲) متاثر ہونا (۳) مشتعل ہونا، ناراض ہونا۔
اِفْتَعَلَ: گھڑنا (۲) جعلی بنانا۔
تَفَاعَلَ الشَّیْئَانِ: ایک دوسرے پر اثر انداز ہونا، باہم تعامل کرنا۔
تَفَاعَلَ مَعَهُ: ہم آہنگ ہونا، گھل مل جانا (۲) متاثر ہونا، اثر لینا۔
فِعْلٌ: عمل، کارروائی (۲) تاثیر ج: أَفْعَال۔
فِعْلاً: عملی طور پر، عملاً، فی الواقع۔
بالفِعْلِ: عملاً، فی الواقع، درحقیقت (۲) ابھی۔
فِعْلِیّ: عملی، واقعی، موجود۔
فِعْلِیَّة: ڈیوٹی۔
فَعْلَة: ایک فعل، خاص فعل۔
فَعَلَة: (وا) مزدور، کارکنان و: فَاعِل۔
فَعَّال: مؤثر، تیز، مستعد، کامیاب۔
فَعَّالِیَّةُ الاِتِّفَاقِیَّة: معاہدہ کی صلاحیت، معاہدہ کا اثر۔

فَاعِلِیَّة: تاثیر (۲) صلاحیتِ کار، قوت، کارکردگی (۳) چستی، مستعدی۔
اِنْفِعَال: تأثر، اشتعال، ناراضگی، زود رنجی، بیشحساسیت (۲) متاثر ہونا۔
اِنْفِعَالٌ عَاطِفِیّ: جذباتی تاثر۔
تَفَاعُل: باہمی تعاون (۲) باہمی اثر اندازی، جوابی عمل، تاثیر و تاثر، ری ایکشن۔
المُفَاعِلُ الذَّرِّیّ: ایٹمی ری ایکٹر۔
مَفْعُوْل: تاثیر، اثر (۲) معمول۔
سَارِی المَفْعُوْل: اثر انگیز۔
مُفْتَعَل: جعلی، من گھڑت۔
مُنْفَعِل: متاثر، مشتعل، ناراض۔
فَعَمَ ۔ فَعْماً و أَفْعَمَ: لبالب بھرنا۔
مُفْعَمٌ: لبالب بھرا ہوا، چھلکتا ہوا۔
مُفْعَمٌ بکذا: فلاں چیز سے پُر، لبریز۔
أَفْعَی: سانپ، بڑا سانپ ج: أَفَاعٍ۔
أُفْعُوَان: نر سانپ۔
أُفْعُوَانِیّ: سانپ کی طرح لپٹا ہوا۔

ف.........غ

فَغَرَ فَمَهُ ۔ فَغْراً: منہ کھولنا۔
فُغْرَةُ الوَادِی: وادی کا دہانہ ج: فُغَر۔
فَاغِرٌ فَاهُ: منہ کھولے ہوئے۔

ف.........ق

فَقَأَ الدُّمَّلَ ۔ فَقْأً: پھوڑے پھنسی وغیرہ کو چیرنا، شگاف کرنا۔
فَقَأَ العَیْنَ: آنکھ پھوڑنا۔
فَقَدَ ۔ فَقْداً: ضائع کرنا، گم کرنا۔
فَقَدَ الشَّیْئَ: اس کے پاس سے وہ چیز غائب ہو

گئی۔
فَقَدَ الاَعْصَابَ: بے قابو ہونا، قابو سے باہر ہونا، ہوش اڑنا۔
فَقَدَ الاِتِّزَانَ: بیلنس کھونا، توازن کھو بیٹھنا۔
فَقَدَ الاَمَلَ كُلِّيَّةً: بالکل ناامید ہو جانا۔
فَقَدَ الآدَمِيَّةَ: آدمیت سے دور ہونا۔
فَقَدَ الثِّقَةَ: اعتماد کھونا۔
فَقَدَ الثِّقَةَ فی القِيَادَةِ: قیادت سے اعتماد اُٹھ جانا۔
فَقَدَ السَّيْطَرَةَ علی النَّفْسِ: بے قابو ہونا۔
فَقَدَ الهَيْبَةَ: وقار کھو بیٹھنا۔
فَقَدَ الوَعْيَ: ہوش میں نہ رہنا، بے برداشت ہونا، جوش میں آنا۔
أَفْقَدَهُ الشَّيْئَ: ضائع کرانا، گم کرانا، ہاتھ سے نکال دینا، موقع نکلوا دینا۔
تَفَقَّدَ و افْتَقَدَ: تلاش کرنا، جائزہ لینا، معاینہ کرنا۔
تَفَقَّدَ و افْتَقَدَ: عیادت کرنا۔
تَفَقَّدَ الأَحْوَالَ: حالات کا جائزہ لینا۔
اِسْتَفْقَدَهُ: کمی محسوس کرنا، گم پانا۔
فَقْدٌ ، فُقْدَان: محرومی، کمی۔
فَقِيد ، مَفْقُود: ضائع، گم شدہ۔
اَلْفَقِيد: مرحوم، متوفی۔
فَقِيدُ المِثَال: بے نظیر، بے مثال۔
فَاقِد: گم کردہ۔
فَاقِدُ الإِحْسَاس: بے حس، جس پر جذبات کا اثر نہ ہو، سرد مہر۔
فَاقِدُ الشُّعُوْر: بے حس، جس پر جذبات کا اثر نہ ہو، سرد مہر۔

فَاقِدُ الكِيَان: بے جان، بے حیثیت۔
فَقَّرَ الكَلَامَ أو العِبَارَةَ: پیرا گراف بنانا۔
فَقَرَ ـِ فَقْراً: سوراخ کرنا، کھودنا۔
فَقُرَ ـُ فَقْراً و افْتَقَرَ: محتاج ہونا، نادار ہونا، مفلس ہونا۔
اِفْتَقَرَ إِلَی: ضرورت مند ہونا۔
فَقْرٌ: غربت، افلاس، تہی دستی۔
فِقْرَة: جملہ، پیرا گراف ج: فِقْرَات و فِقَر۔
فِقْرَة ، فَقْرَة ، فَقَارَة: ریڑھ کی ہڈی۔
فَقِيْر: غریب و مفلس (۲) محتاج ج: فُقَرَاء۔
فَقَسَ الطَّائِرُ بَيْضَهُ ـِ فَقْساً: پرندہ کا انڈا توڑنا۔
فَقَسَ: توڑنا، چیرنا۔
فَقَسَ الحِيْلَةَ: سازش فاش کر دینا، چال کھول دینا۔
فَقَشَ ـُ فَقْشاً: توڑنا۔
فَقَطْ: بس، صرف۔
فَقَعَ اللَّوْنُ ـُ فَقْعاً: رنگ زرد ہونا، بالکل زرد ہونا (۲) شدتِ گرمی سے مرنا (۳) شدتِ غم سے مرنا (۴) توڑنا، شق کرنا۔
فَقَّعَ تَفْقِيْعاً: چٹخانا، تڑقانا۔
فُقَّاعَة: پانی کا بلبلہ ج: فَقَاقِيْع۔
فَاقِع: زرد، بھڑکدار، کھلا ہوا رنگ۔
فَقِمَ ـَ فَقَماً و فَقَامَةً: سنگین ہونا، بڑھنا، بڑا ہونا۔
تَفَاقَمَ: سنگین ہونا، بڑھنا، تشدد، زیادتی، اضافہ۔
تَفَاقُمُ الأزْمَة: بحران میں اضافہ ہونا۔
تَفَاقُمُ أزْمَةِ السَّكَن: رہائشی بحران کا

سنگین ہونا۔
تَفَاقُمُ الأزْمَةِ الغِذَائِيَّة: غذائی بحران میں اضافہ۔
تَفَاقُمُ الصِّرَاعِ عَلَى السُّلْطَة: اقتدار کی کشمکش بڑھنا۔
تُفَاقُمُ حِدَّةِ مَوْقِفٍ: صورتحال کی ابتری میں اضافہ۔
تَفَاقُمُ الصُّعُوبَاتِ و الآلام: مصائب وآلام میں اضافہ ہونا۔
تَفَاقُمُ الضَّغط: دباؤ بڑھنا۔
تَفَاقُمُ المَخَاطِر: خدشات بڑھنا۔
تَفَاقُمُ المُشْكِلات: مشکلات میں اضافہ ہونا۔
تَفَاقُمُ المَوْقِف: صورتِ حال کا سنگین ہونا۔
فَقِهَ ــ فِقْهاً و تَفَقَّهَ: سمجھنا۔
فَقَّهَ و أَفْقَهَ: سمجھانا (۲) سکھانا۔
فِقْهٌ: علم (۲) سمجھ (۳) احکامِ شرعیہ کا علم۔
فِقْهُ اللُّغَة: لسانیات، علم اللّسان۔

ف.........ک

فَكَرَ ــ فِكْراً و فَكَّرَ و تَفَكَّرَ و افْتَكَرَ فِی الأَمْر: سوچنا، غور کرنا۔
فَكَّرَ فی شيْءٍ بِدِقَّةٍ: کسی چیز پر پوری طرح غور کرنا۔
فَكَّرَ فی المَوْضُوْع: مسئلہ پر غور وفکر کرنا۔
فَكَّرَ مِنْ زَاوِيَةِ كَذا: کسی نقطۂ نظر سے سوچنا۔
فَكَّرهُ بِالأَمْر: یاد دلانا۔
افْتَكَرَ: یاد آنا۔

فِكْرٌ، فِكْرَة: خیال، آئیڈیا (۲) رائے، تجویز (۳) نظریہ (۴) غم (۵) ذہنی تشویش۔
فِكْرَةٌ بَسِيطَة: معمولی خیال۔
الفِكْرَةُ الثَّابِتَة: فکسڈ آئیڈیا، مستقل نظریہ۔
فِكْرَةٌ حَكِيمَة: دانشمندانہ خیال۔
فِكْرِيّ: نظریاتی، فکری، آئیڈیل۔
فِكْرِيّاً: نظریاتی طور پر۔
الفِكْرِيَّات: آئیڈیالوجی، علمِ تفکیر۔
أفْكَار: خیالات، نظریات و: فِكْرٌ۔
أفْكَارٌ بَلِيدَة: گندے خیالات۔
أفْكَارٌ زَائِفَة: غلط تصورات۔
أفْكَارٌ مُعَادِيَة: مخالفانہ خیالات۔
أفْكَارٌ وَسَطٌ: معتدل خیالات۔
تَفَكُّر: غور، تدبّر۔
مُفَكِّرَة: یادداشت، نوٹ (۲) میمورنڈم، ایجنڈا۔
مُفَكِّرَةُ جَيْب: نوٹ بک۔
مُفَكِّرَةٌ يَوْمِيَّةٌ: روزنامچہ، ڈائری۔
المُفَكِّرُوْنَ: دانشوران۔
فَكَّ ــ فَكّاً: (۱) کھولنا (۲) ڈھیلا کرنا، پرزے الگ کرنا (۳) بٹن وغیرہ کھولنا۔
فَكَّ الأسِيرَ: قیدی کو رہا کرنا۔
فَكَّ الارتبَاطَ: علیحدگی کرنا۔
فَكَّ الحِصَارَ: ناکہ بندی ختم کرنا، توڑنا، محاصرہ ختم کرنا۔
فَكَّ الحُزْنَ: غم دور کرنا۔
فَكَّ الخَتْمَ: مہر توڑنا، سیل توڑنا۔
فَكَّ الرَّهْنَ: رہن چھڑانا۔
فَكَّ الرَّهْنَ عَنِ العَقَار: زمین کا رہن

چھڑانا۔
فَکَّ الشیْءَ المَحْزُومَ: پیکٹ کھولنا۔
فَکَّ الضائِقَةَ: تنگی دور کرنا۔
فَکَّ المَفصِلَ أو العَظْمَ: جوڑ یا ہڈی علیحدہ کرنا۔
فَکَّ المِسْمارَ اللَّوْلَبِیَّ: پیچ دار کیل کھولنا۔
فَکَّ اللُّغزَ أو المَسْئلَةَ: معمہ یا مسئلہ حل کرنا۔
فَکَّ النُّقُودَ: رقم کی ریز گاری بنانا۔
فَکَّ یَدَهُ: ہاتھ کھولنا۔
فَکَّکَ تَفْکِیْکاً: کمزور و ڈھیلا کرنا۔
فَکَّکَ الصُّفُوفَ: صفوں میں انتشار پیدا کرنا۔
فَکَّکَ العُرَی: شیرازہ بکھیرنا۔
اِنْفَکَّ الشیْءُ: کھلنا، ڈھیلا ہونا، الگ ہونا۔
تفَکَّکَ: ڈھیلا ہونا، جوڑ کھلنا۔
تَفَکَّکَ عَنِ المُجْتَمَعِ: معاشرے سے الگ ہونا۔
فَکٌّ: جبڑا ج: فُکُوک۔
فَکَّةُ النُّقُودِ: چینج، ریز گاری۔
تَفَکُّک: ڈھیلا پن، انتشار، کمزوری، خلفشار، رخنہ، دراڑ، پھوٹ۔
التَّفَکُّکُ الدَّاخِلِیّ: اندرونی خلفشار، داخلی انتشار۔
مِفَکّ: پیچ کش، پیچ کھولنے کی چابی۔
مَفْکُوک: کھلا ہوا۔
فَکِهَ ـــ فَکِهاً و فَکَاهَةً: خوش طبع ہونا، مزیدار ہونا۔

فاکَهَهُ مُفاکَهَةً: مذاق کرنا۔
فَکِهٌ، فاکِهٌ: (۱) مسخرا (۲) خوش طبع (۳) مزیدار (۴) پُر لطف، دلچسپ۔
فُکَاهَة: مسخرا پن، خوش طبعی، دلچسپی، لطیفہ۔
فُکَاهِیّ: دلچسپ، مزاحیہ، لطیفہ کی قسم کا۔
فَاکِهَة: میوہ، پھل ج: فَوَاکِه۔
فَاکِهَةٌ جافَّةٌ: خشک میوہ۔
فَاکِهَةُ الشِّتَاءِ: آگ۔
فَاکِهَانِیّ: میوہ فروش۔

ف.........ل

فَلَتَ ـِـ فَلْتاً و أَفْلَتَ: رہا کرنا۔
فَلَتَ و أَفْلَتَ و انفَلَتَ: رہا ہونا، چھٹکارا پانا، قبضہ سے نکلنا، بچ نکلنا۔
أُفْلِتَ الزِّمَامُ: لگام چھوٹ جانا۔
فَلْتٌ، إفْلاتٌ: چھٹکارا۔
فَلْتَة: لغزش ج: فَلَتَات۔
فَلْتَةً: بے سوچے۔
فَلَجَ ـِـ فَلْجاً و فَلَّجَ: پھاڑنا۔
فُلِجَ و انْفَلَجَ: فالج زدہ ہونا۔
مَفْلُوج: فالج زدہ، معطّل۔
فَلَحَ ـَـ فَلْحاً: زمین جوتنا، بونا۔
فَلَحَ، أَفْلَحَ: کامیاب ہونا۔
فَلِحَتِ الشَّفَةُ أو الیَدُ ـــ فَلَحاً و انفَلَحَتْ و تفَلَّحَتْ: (سردی کی وجہ سے) ہونٹ یا ہاتھ کا پھٹنا۔
فَلْح، فِلاحَة: زمین کی جتائی۔
فِلاحَة: کاشتکاری، زراعت۔
فِلاحَةُ البَسَاتِین: باغ کاری۔
فَلَّاح: کسان، کاشتکار (۲) دیہاتی۔

فَلاحٌ: کامیابی۔
فِلْحٌ: دیہات۔
فِلْحِیٌ: دیہاتی (۲) کاشتکارانہ۔
فَالِحٌ ، مُفْلِحٌ: کامیاب۔
فِلْذَة: ٹکڑا ج: فِلَذٌ و افلاذ۔
فِلْذَةُ کَبِدٍ: جگر گوشہ۔
أفْلاذُ لأرْض: زمین کے خزانے۔
أفْلاذُ الأكْبَاد: جگر پارے، اولاد۔
فُولاذ: فولاد، اسٹیل ج: فَوَالِیذ۔
فَلَّسَ التَّاجِرَ: تاجر کو مفلس قرار دینا، دیوالیہ ہونے کا اعلان کرنا۔
فَلَسَ ، و أفْلَسَ التَّاجِرُ: مفلس ہونا، دیوالیہ ہونا، فیل ہونا۔
فَلْسٌ: ایک قدیم سکہ مساوی ۲/ املیم۔
فَلّاس: سکہ تبدیل کرنے والا، صراف۔
تَفْلِیْسَة: دیوالیا پن، محرومی۔
فَلْسَفَ و تَفَلْسَفَ: فلسفی بننا۔
فَلْسَفَة: حکمت، فلسفہ۔
فَلْسَفَةٌ طَبِیْعِیَّة: سائنس، فزکس۔
فَیْلَسُوْف: صاحب حکمت، فلسفی، فلاسفر ج: فَلاسِفَة۔
مُتَفَلْسِف: فلسفہ کا دعویدار۔
فُلْط: (مع) وولٹ، برقی قوت کی اکائی۔
الفُلْطِیَّة: (القُوَّةُ المُحَرِّكَةُ الكَهْرَبَائِیَّة) وولٹیج۔
الفُلْطَامِتْر: (مِقْیَاسُ التَّحْلِیْلِ الفُلْطِیّ) وولٹا میٹر۔
فَلْطَحَة: پھیلانا۔
فَلَعَ ـــَ فَلْعاً و فَلَّعَ: پھاڑنا۔

فَلْفَلَ الطَّعَامَ: مرچ ڈالنا۔
فِلْفِلٌ: مرچ۔
فُلْفُلٌ أسْوَدُ: کالی مرچ، فلفل سیاہ۔
فِلْفِلِیّ: مرچوں دار، چٹپٹا۔
رُزٌّ مُفَلْفَل: مرچوں کے چاول۔
فَلَقَ ـــِ فَلْقاً: پھاڑنا، پیدا کرنا۔
اِنْفَلَقَ ، تَفَلَّقَ: پھٹنا۔
اِنْفَلَقَ الصُّبْحُ: صبح نمودار ہونا۔
فَلْقٌ: دراڑ، شگاف ج: فُلُوْق۔
الفَلَق: (۱) تمام مخلوق (۲) فجر، صبح۔
فِلْقَة: کسی چیز کا ٹکڑا، آدھا حصہ۔
فَیْلَق: لشکرِ عظیم ج: فَیَالِق۔
شَاعِرٌ مُفْلِقٌ: باکمال شاعر۔
مَفْلُوْق: منقسم۔
فُلْکٌ: کشتی۔
فَلَکٌ: آسمان ج: أفْلاک۔
عِلْمُ الفَلَکِ: علم ہیئت، فلکیات۔
فَلَکِیّ: منجم، ماہر فلکیات۔
فُلُوْکَة: بادبانی کشتی (۲) چھوٹی کشتی۔
فَلَّلَ و فَلَّ ـــُ فَلّاً: دھار خراب کرنا، دندانے پڑنا (۳) شکست دینا۔
فَلٌّ: شکست خوردہ (۲) دندانہ جو تلوار وغیرہ کی دھار میں پڑ جائے ج: فُلُوْل۔
سَیْفٌ أفَلُّ: تلوار جس میں دندانے پڑ گئے ہوں۔
فُلٌّ: ایک قسم کا پھول، چنبیلی کی قسم کا پھول۔
فِلَّة: فلیٹ، بنگلہ۔
فِلْمٌ و فِیْلَم: (مع) فلم، ریل، سین ج: أفْلام۔

فِیلَمٌ سِینَمَائِیّ: فلم۔
فِیلَمٌ أَخبَارِیّ: نیوز ریل۔
أَفلَامٌ مُلَوَّنَة: رنگین فلمیں۔
فَلَنکَة: ریلوے پٹری کا سلیپر (دا)۔
فَـلا، فَـلاة: بیابان ج: فَلَوات۔
فَلٰی ـِ فَلْیاً و فَلّٰی: جوں صاف کرنا۔

ف..........م

فَمٌ: منھ، دہانہ ج: أفْواه و أَفْمام۔
فَمُ التُّرْعَة: نہر کا دہانہ۔
فَمُ السِّجَارَة: سگریٹ ہولڈر۔

ف..........ن

فِنجَان: کپ، پیالی ج: فَنَاجِین۔
فِنجَانٌ و صَحْنُه: پیالی وطشتری۔
فَنَّدَ تَفْنِیداً: تکذیب کرنا، غلط ٹھہرانا۔
فُنْدُق: ہوٹل ج: فَنَادِق۔
فَـنَـار: (مع) مینار (۲) لائٹ ہاؤس ج: فَنَارَات۔
فَانُوس: قندیل، لالٹین ج: فَوَانِیس۔
فَانُوسٌ زِینِیّ: آرائشی فانوس۔
فَانُوسُ السَّیَّارَة الخَلفِیُّ: موٹر کا پچھلا لیمپ۔
فُنُغْرَاف: (حَاکٍ) گرامفون۔
أُسْطُوَانَةُ الفُنُغْرَاف: گرامفون ریکارڈ۔
طَبْلَةُ الفُنُغْرَاف: ساؤنڈ بکس۔
فِنلَّة: (مع) ایک قسم کا کپڑا، فلالین۔
فَـنَّـنَ: نوع بنوع کرنا، متنوع بنانا (۲) مخلوط بنانا۔
تَفَنَّنَ فِی الحَدِیث: تنوع پیدا کرنا۔
تَفَنَّنَ: (دا) ایجاد کرنا۔

فَـنٌّ: (۱) قسم (۲) آرٹ (۳) عملی علم (۴) کرتب (۵) ڈھنگ، طریقہ (۶) معزز پیشہ ج: فُنُون۔
فَنُّ البَیع: سیل مین شپ، سیلز مینی۔
فَنُّ التَّمثِیل: ایکٹنگ، فنِ اداکاری۔
فَنُّ الخِیَاطَة: ٹیلرنگ۔
فَنُّ المُوسِیقٰی: میوزک۔
فَنُّ وَضعِ تَصْمِیمٍ: ڈیزائن سازی۔
الفُنُونُ الجَمِیلَة (کالرَّسم و النَّحت والمُوسِیقٰی): فائن آرٹس، فنون لطیفہ۔
فَنِّیّ: ٹیکنیکل، فنکارانہ، ماہرانہ۔
فَنَّانٌ و مِفَنّ: آرٹس، ماہر فن کار۔
أَفَانِینُ الکَلَام: اسالیب کلام، طرز ہائے گفتگو، تنوعات۔
فَنَنٌ: شاخ ج: أَفْنَان۔
فَنِیَ ـَ و فَنِیَ ـَ فَنَاء: برباد ہونا، ہلاک ہونا، ختم ہونا۔
أَفْنٰی: ہلاک کرنا، ختم کرنا، گنوانا۔
تَفَانٰی فِی أَمْرٍ: انتھک کوشش کرنا، مرمٹنا، جان لڑادینا۔
فَنَاء: ہلاکت، موت، زوال۔
فِنَاء: صحن، آنگن ج: أَفْنِیَة۔
الفِنَاءُ المُقَضَّب (فی مَحَطَّةِ للسِّکَّةِ الحَدِیدِیَّة): ریلوے یارڈ۔
فَانٍ: زوال پذیر، مٹ جانے والا (۲) بوڑھا۔
لا یَفْنٰی: لازوال۔
التَّـفَـانِی: سرفروشی، جاں بازی، جاں نثاری۔

فِنِیک: (مع) فنیل، ایک قسم کی دوا جو کیڑوں وغیرہ کو مارتی ہے۔

ف..........ه

فَهْدٌ: چیتا ج: فُهُود۔
فَهْرَسَ الكِتَابَ فَهْرَسَةً: کتاب کے مضامین کی فہرست مرتب کرنا۔
فِهْرِس و فِهْرِسْت: فہرست، لسٹ، اشاریہ، انڈکس ج: فَهَارِس۔
فِهْرِسْتُ البطاقات: کارڈ انڈکس۔
فَهِمَ ۔َ فَهْماً: (۱) سمجھنا (۲) جاننا۔
فَهَّمَ و أَفْهَمَ: سمجھانا۔
تَفَهَّمَ الأَمْرَ: اچھی طرح سمجھنا۔
تَفَاهَمُوا على أَمْرٍ: باہم سمجھوتہ کرنا۔
اِسْتَفْهَمَ مِنْهُ عَنْ شَيْءٍ: دریافت کرنا۔
فَهْمٌ: سوجھ بوجھ، سمجھ۔
سُوْءُ الفَهْمِ: غلط فہمی۔
حُسْنُ الفَهْمِ: غلط فہمی۔
تَفَاهُمٌ: سمجھوتہ، اتفاقِ رائے، یکجہتی۔
تَفَاهُمٌ أَكْبَر: زیادہ سے زیادہ اتفاقِ رائے۔
التَّفَاهُمُ بَيْنَ البَلَدَيْن: دو ملکوں کے درمیان سمجھوتہ۔
تَفَاهُمٌ ثُنَائِيٌّ: دو فریقی سمجھوتہ۔
سُوْءُ التَّفَاهُم: غلط فہمی۔
مَفْهُوم: مراد، مقصد، حیثیت۔
المُتَفَهِّم: سنجیدہ۔

ف..........و

فَاتَ ۔ُ فَوْتاً و فَوَاتاً: گزرنا (۲) ضائع ہونا (۳) ختم ہونا (۴) حد سے بڑھنا (۵) چھوٹنا (۶) دست بردار ہونا (۱۰)۔
فَاتَهُ شَيْءٌ: بس ہونا۔
فَاتَهُ أَنْ يَفْعَلَ كذا: وہ ایسا نہ کر سکا۔
فَاتَهُ القِطَارُ: اس کی ریل نکل گئی۔
فَاتَهُ أَنْ يَذْكُرَ: اسے بتانا رہ گیا۔
فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ: اس کی نماز چھوٹ گئی۔
فَاتَتْهُ الفُرْصَةُ: اس کے ہاتھ سے موقع نکل گیا۔
فَوَّتَ و أَفَاتَ: گزارنا۔
فَوَّتَ و أَفَاتَ عليه كذا: ضائع کرنا۔
فَوَّتَ عَلَيْهِ الفُرْصَةَ: موقع ضائع کرا دینا، ہاتھ سے نکلوا دینا۔
تَفَاوَتَ الشَّيْئَانِ: دو چیزوں کے درمیان باہم فرق ہونا (۲) مختلف ہونا۔
اِفْتَاتَ: (۱) گھڑنا (۲) ظلم کرنا (۳) حد سے بڑھنا۔
تَفَاوُت: فرق، اختلاف۔
تَفَاوُتٌ فِي الأَسْعَار: نرخوں کا فرق۔
فَوَاتُ الأَوَان: موقع چھوٹ جانا، وقت نکل جانا۔
فَوَاتُ المِيعَاد: وقت گزر جانا۔
فَائِت: گزرنے والا، زوال پذیر، عارضی (۲) گزشتہ، فوت شدہ۔
فُوتُوغرافِيَة: فوٹوگرافی۔
فَوْج: جماعت ج: أَفْوَاج۔
فَوْجٌ جَرَّارٌ: لشکرِ جرار۔
فَوْجُ الدَّبَّابَات: ٹینکوں کا دستہ۔
فَاحَ ۔ُ فَوْحاً و فَوَحَاناً: خوشبو مہکنا،

پھیلنا۔
فَارَ ـُ فَوْراً و فَوَرَاناً: اُبلنا، جوش میں آنا، خون کھولنا۔
مِنْ فَوْرِہِ، عَلَى الفَوْرِ، فَوْراً: اسی وقت، فوری طور پر۔
فَوْراً: ابھی، ہاتھ کے ہاتھ (۲) نقد۔
فَوْرِیّ: فوری، ہنگامی۔
فَوْرَةُ دَم: خون کا جوش۔
فَوَّرَ تَفْوِیْراً: جوش دینا، اُبالنا۔
فَوَّرَ الدَّمَ: خون میں جوش پیدا کرنا۔
فَائِر: اُبلتا ہوا، کھولتا ہوا۔
فَوَّار: زور سے اُبلتا ہوا، جوش مارتا ہوا۔
فَوَّارَة: فوارہ، چشمہ، سوتا ج: فَوَّارَات۔
فَوْرِیقَة: (مع) فیکٹری۔
فَازَ ـُ فَوْزاً: (۱) کامیاب ہونا (۲) نجات پانا (۳) فتحیاب ہونا۔
فَازَ بِه: حاصل کرنا، پانا۔
فَازَ بالکَأس: ٹرافی جیت لینا۔
فَازَ بِطَائِلٍ: فائدہ حاصل کرنا۔
فَازَ بِانْتِخَابَاتِ کذا: الیکشن جیتنا۔
فَازَ الاقْتِرَاحُ بِالقُبُول: تجویز کا منظور ہونا۔
فَازَ الفَرِیْقُ بالبُطُولَة: ٹیم کا چمپیئن شپ حاصل کرنا۔
فَازَ فَرِیْقٌ علی فَرِیْقٍ: ایک ٹیم کا دوسری ٹیم کے مقابلے میں کامیاب ہونا۔
فَازَ مِنَ المَکْرُوہ: مصیبت سے چھٹکارا پانا۔
الفَائِزُ بِالجَائِزَة: انعام یافتہ، پرائز حاصل کرنے والا۔
مَفَازَة: جنگل، بے آب وگیاہ میدان ج: مَفَازَات۔
فَوَّضَ إِلَيْه: سپرد کرنا۔
فَوَّضَهُ: اختیار دینا، مختار بنانا۔
فَوَّضَهُ السُّلْطَةَ: اقتدار سپرد کرنا، اختیار سپرد کرنا۔
فَاوَضَ فِي الأَمْر و تَفَاوَضَ: بات چیت کرنا۔
فَوْضَى: طوائف الملوکی، لاحکومیت، بدنظمی، لاقانونیت، افراتفری، بے اصولی، انتشار۔
فَوْضَى دُوَلِيَّة: بین الاقوامی لاقانونیت۔
فَوْضَوِيَّة: لاقانونیت، انارکزم۔
فَوْضَوِيّ: لاقانونیت پسند، انارکسٹ (۲) بدنظمی کا۔
تَفَاوُض: (سیاسی) بات چیت۔
تَفْوِیْض: اختیار، پاور (۲) وارنٹ۔
تَفْوِیْضٌ شَرْعِیّ: سرکاری اختیار، پاور۔
تَفْوِیْضٌ کِتَابِیّ (لِلبَنک لِدَفْعِ مَبَالِغ مُعَيَّنَة): بینک آرڈر۔
تَفْوِیْضٌ مُطْلَق: مکمل اختیار، اختیارِ کامل، فُل پاور۔
مُطْلَقُ التَّفْوِیْض: فُل پاور آدمی، مکمل اختیار رکھنے والا۔
مُفَاوَضَات: بات چیت، مذاکرات و: مُفَاوَضَة۔
مُفَاوَضَاتُ الاَسْلِحَة: ہتھیاروں کی بات چیت۔
مُفَاوَضَاتٌ ثُنَائِيَّة: دوفریقی بات چیت،

دوفریقی مذاکرات۔
مُفَاوَضَاتُ السَّلَام: امن بات چیت۔
مُـفَـاوَضَـاتٌ سِلْمِيَّة: پُرامن بات چیت۔
المُتَفَاوِضُ المُبَاشِر: براہِ راست بات چیت کرنے والا۔
مُفَوَّض: قائم مقام، کمشنر، افسر با اختیار، مختار، ناظم الامور، نمائندہ، سفیر۔
المُفَوَّضُ السَّامِي: ہائی کمشنر۔
مُـفَـوَّضِيَّة: لگیشن، نمائندگی، نیابت، سفارت کا عہدہ (۲) چھوٹا سفارت خانہ۔
فُـوطَةُ الأَيْدِیْ: ہاتھ صاف کرنے کا کپڑا ج: فُوَط۔
فُوطَةُ الوَجْه: تولیہ۔
فُوطَةُ صُحُوْن: پلیٹیں صاف کرنے کا کپڑا۔
فُـوطَةُ الـمَـدْرَسَة: (لِلْبَنَات) لڑکیوں کا فراک۔
فَوْعَة: خوشبو۔
فَـوْق: اوپر (۲) پر (۳) زائد (۴) بہتر، اعلیٰ (۵) بڑھ کر۔
فَوْقَ الكُلِّ: سب سے بڑھ کر۔
فَوْقَ العَادَة: غیر معمولی، ہنگامی۔
فَوْقَ الطَّاقَة: نا قابلِ برداشت۔
فَوْقَ التَّصَوُّر: خیال سے باہر۔
فَوْقَ التَّقْدِيْر: اندازے سے زیادہ۔
فَوْقَ المُتَوَسِّط: اوسط سے زیادہ۔
فَوَّقَ عَلَى: فوقیت دینا، ترجیح دینا۔
فَوَّقَ (۲): ہوش میں آنا (دا)۔

فَـاقَ ـُـ فَوْقاً: غالب آنا (۲) بلند ہونا (۳) بڑھنا (۴) زیادہ ہونا۔
فَاقَ بِنَفْسِه: مرنا۔
فَاقَ إِلَى الأَمْر: یاد کرنا، یاد آنا (دا)۔
فَاقَ و تَفَوَّقَ عَلَى: برتری حاصل کرنا۔
فَاقَهُمْ عَدَداً: اُن سے عدد میں بڑھ گیا۔
أَفَـاقَ و اسْـتَـفَـاقَ مِنْ نَوْم: بیدار ہونا، چونک جانا، آنکھ کھلنا۔
أَفَاقَ مِنْ مَرَض: صحت یاب ہونا۔
أَفَاقَ مِنْ إِغْمَاء: ہوش میں آنا۔
فُوْق، فُوَاق: برتری، فوقیت۔
فَوْقَانِيّ: بالائی۔
فَاقَة: حاجت، ضرورت ج: فَاقَات۔
فَائِق: برتر، ممتاز، اعلیٰ۔
تَفَوُّق: برتری، بالاتری، بلندی، مہارت۔
التَّفَوُّقُ الجَوِّيّ: فضائی برتری۔
تَفَوُّقٌ عَسْكَرِيّ: فوجی بالاتری۔
مُتَفَوِّق: غالب، ماہر، آگے۔
فُولَاذ: (مع) فولاد، اسٹیل (در فلذ)۔
فُـونُـوغـرَاف و فُـنُـغـرَاف: فونوگراف، گرامفون۔
فُوْه، فَاه، فِيْه: منہ ج: أَفْوَاه۔
فُـوهَة و فُـوَّهَة: دہانہ، سوراخ، منہ ج: فُوهَات و فُوَّهَات۔
فُوَّهَةُ البُرْكَان: دہانۂ آتش فشاں۔
فَـاهَ ـُـ فَوْهاً و تَفَوَّهَ بِكَلِمَة: زبان سے نکالنا، بولنا۔
أَفْوَاه: (تَوَابِل) مسالے ج: أَفَاوِيْه
مُفَوَّه بَلِيْغ۔

ف .... ی

فِــیْ: میں (۲) اندر (۳) پاس (۴) برائے (۵) بسبب (۶) بنسبت (۷) مقابلہ میں (۸) بسلسلہ (۹) پر (۱۰) درمیان (۱۱) دوران (۱۲) برائے ضرب۔
فَیَّأَ الشَّجَرُ: درخت کا سایہ دینا۔
تَفَیَّأَ الشَّجَرَةَ: سایہ حاصل کرنا۔
فِیتَامِین: وٹامن۔
فِیتَامِین – سی: وٹامن سی۔
فِیتُو: ویٹو۔
فَیُون: (مع) فٹن، گھوڑا بگی۔
فَیَّحَ: برباد کرنا، منتشر کرنا۔
فَیْح: انتشار، کشادگی، وسعت۔
فَیْحَاء: کشادہ، وسیع۔
فَاحَ ـ فَیْحاً: منتشر ہونا، پھیلنا۔
فَادَتْ له فَائِدَةٌ ـ فَیْداً: فائدہ حاصل ہونا۔
أَفَادَ: فائدہ پہنچانا، نفع دینا (۲) دلالت کرنا (۳) فائدہ اٹھانا، استفادہ کرنا۔
اِسْتَفَادَ به: پرافٹ حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا۔
اِسْتَفَادَ منه: اخذ کرنا۔
فَائِدَة: نفع، منافع، حاصل، نتیجہ ج: فَوَائِد
فَائِدَةُ المَال: سود۔
الفَائِدَةُ المُرَكَّبَة: سود در سود۔
الفَائِدَةُ الصَّافِیَة: خالص سود۔
فَوَائِدُ مُسْتَحَقَّة: واجب الادا سود۔
مُسْتَفِید: جس کو رقم دی گئی ہو (بینک وغیرہ سے)۔
مُسْتَفِیدٌ مِنَ المَعَاش: پنشن کا فائدہ اٹھانے والا۔
فِیشَة: ٹوکن (۲) پلگ۔
فِیشَةُ تِلِیفُون: ٹیلیفون پلگ۔
فِیشَةُ الكَهْرَبَاء: الیکٹرک پلگ۔
فَیْض: کثرت، زیادتی، فراوانی۔
فَیْض، فَیَضَان: طوفان، بہاؤ۔
فَیَضَانُ النَّهْر: طغیانی، سیلاب۔
فَیَّاض: کثیر، سخی۔
فَاضَ ـ ـِ فَیْضاً: بھرنا، چھلکنا (۲) بہتات ہونا۔
فَاضَ النَّهْرُ عَلَى مَكَان: سیلاب آنا۔
فَاضَ الخَبَرُ: خبر پھیلنا۔
فَاضَ بِمَكْنُونِ صَدْرِه: دل کی بات ظاہر کی۔
فَاضَتْ كَأْسُهُ: (۱) جام چھلکنا (۲) پیمانہ لبریز ہونا۔
فَاضَتْ رُوحُهُ أو نَفْسُهُ: روح پرواز کرنا۔
أَفَاضَ الدَّمْعَ: آنسو بہانا۔
أَفَاضَ المَاءَ: پانی ڈالنا، بہانا۔
أَفَاضَ الإِنَاءَ: لبالب بھرنا، چھلکانا۔
أَفَاضَ بِكَلِمَةٍ: لفظ بولنا۔
أَفَاضَ فِي الحَدِیثِ: (۱) مفصل کلام کرنا (۲) مشغول رہنا۔
أَفَاضَ إِلَى: جانا، روانہ ہونا۔
اِسْتَفَاضَ: شائع ہونا، پھیلنا۔
فَائِض: (۱) جاری (۲) کثیر (۳) فالتو، ضرورت سے زیادہ (۴) حد سے بڑھا

ہوا۔
فَائِضٌ غِذَائِیٌّ: فالتو غذا۔
فَائِضُ المِیْزَانِیَّۃ: بجٹ کا زائد حصہ۔
فَیْظ: موت۔
فَاظَ۔ِ فَیْظاً: مرنا۔
فَایِظ: (دا) سود، نفع۔
فَایِظْجِیّ: (دا) سودخور۔
فِیلٌ: ہاتھی ج: اَفْیَال۔
فَیَّال: فیل بان۔
فِیلُولُوجِیَا: علمِ لغت، لسانیات۔
فَیْنَۃ: وقت۔
بَیْنَ الفَیْنَۃِ و الفَیْنَۃ: وقتاً فوقتاً۔

ق

ق .... ب

قَبَّ: گنبد بنانا (۲) گنبد دار بنانا۔

قُبَّة: گنبد ج: قِبَاب و قُبَب۔

القُبَّةُ الزَّرْقَاء: نیلگوں گنبد، آسمان۔

مُقَبَّب: گنبد دار۔

قَبُحَ ــُ قَبَاحَةً: برا اور بدشکل ہونا۔

قَبَّحَ: برا کرنا، بدصورت بنانا۔

قَبَّحَ عَلَيهِ فِعْلَه: مذمت کرنا۔

اِسْتَقْبَحَ: برا سمجھنا (۲) ناپسند کرنا۔

قَبِيح: برا، بدشکل، عیب دار، بدزبان، بے وقوف۔

قَبِيحَة: برائی، عیب ج: قَبَائِح۔

اَقْبَحُ سُبَّة: انتہائی بدنما داغ۔

قَبَرَ ــِ قَبْراً: دفن کرنا۔

قَبْرِيَّة: قبر کا کتبہ۔

قُبْرُس: بحرِ روم کا ایک جزیرہ۔

قَبَسَ ــِ قَبْساً و اقْتَبَسَ مِنْهُ النَّارَ: شعلہ اٹھانا (۲) آگ لینا (۳) استفادہ کرنا (۴) اخذ کرنا (۵) اقتباس کرنا، عبارت نقل کرنا۔

قِبْسٌ: اصل، جڑ۔

قَبَسٌ، مِقْبَاس: انگارہ، شعلہ، آگ۔

القَابِس: پلگ۔

اِقْتِبَاس، مُقْتَبَس: نقل کردہ عبارت، اخذ کیا ہوا ٹکڑا، اقتباس، تراشہ، ماخوذ ج: اِقْتِبَاسَات و مُقْتَبَسَات۔

عَلَامَةُ الاِقْتِبَاس: [“ ”]۔

قَبَضَ ــِ قَبْضاً: لینا، پکڑنا۔

__ بِه: گرفت میں لینا۔

__ عليه: گرفتار کرنا (۲) کیچ کرنا۔

__ على الجَرِيْدَة: اخبار ضبط کرنا۔

__ عَلٰى نَاصِيَةِ الاَحْوَال: صورتِ حال پر قابو پانا۔

__ الدَّخْلَ: آمدنی لینا۔

__ المَالَ: وصول کرنا۔

__ قِيمَةَ الشِّيْك: چیک کیش کرانا۔

__ البَطْنَ: پیٹ میں قبض پیدا کرنا۔

__ عَنْ: رکنا، باز رہنا۔

قَبَّضَ المَالَ فُلَاناً: ادائیگی کرنا، دینا۔

تَقَبَّضَ و انْقَبَضَ: سکڑنا، منقبض ہونا۔

اِنْقَبَضَ البَطْنُ: قبض ہونا۔

اِنْقَبَضَ صَدْرُه: تنگ دل ہونا۔

قَبْض: (۱) پکڑ، گرفتاری (۲) وصولیابی۔
قُبْضَة: مٹھی، مُشت بھر، ہاتھ بھر۔
قَبْضَة، مِقْبَض: ہینڈل، قبضہ۔
قَبْضَةٌ حَدِيدِيَّة: آہنی قبضہ۔
فی قَبْضَتِه: ملکیت میں۔
فی قَبْضَةِ اخْتِيَارِه: اختیار میں۔
قَابِض: گیرندہ، وصول کنندہ (۲) قبض پیدا کرنے والی چیز۔
مُنْقَبِضُ الصَّدْر: تنگ دل۔
مَقْبُوض: وصول شدہ۔
مَقْبُوضٌ عليه: گرفتار۔
مَقْبُوضَاتٌ نَقْدِيَّة: نقد وصولیابیاں۔
قِبْط ج: اَقْبَاط: مصر کے نصاریٰ۔
قُبْطَان: (مع) کپتان۔
قَبَعَ ــــ قَبْعاً: (۱) خنزیر کا بولنا (۲) آدمی کا چیخنا۔
قَبَعَ فِی مَكَانِه: دھرنا دینا، ایک جگہ جمنا۔
قَبَعَ الشیٔ: اکھاڑنا۔
قُبَعُ البَنَّاء: بسولی۔
قُبَع: بگل۔
قُبَّعَة: ہیٹ، انگریزی ٹوپی۔
قَبْقَابٌ: کھڑاؤں ج: قَبَاقِيبُ۔
قَبْقَابُ الفَرْمَلَة: بریک لگانے کا ہینڈل۔
قَبْقَابُ الزُّحْلَقَة: پھسلواں کھڑاؤں۔
قَبِلَ ــ قُبُولاً: منظور کرنا، تسلیم کرنا، اعتبار کرنا۔
قَبِلَ به قَبَالَةً: ضامن بننا۔
قَبِلَ المُرَافَعَة: اپیل منظور کرنا۔
قَبِلَ الدَّوْلَةَ عُضْواً فی الأُمَمِ المُتَّحِدَة: کسی ملک کو اقوام متحدہ کا ممبر بنانا۔

لا يَقْبَلُ التَّخْفِيضَ: نا قابلِ تخفیف۔
قَبَّلَ: بوسہ دینا (۲) جانبِ جنوب میں چلنا۔
قَابَلَـه: سامنا کرنا (۲) مقابل ہونا (۳) ملاقات کرنا۔
قَابَلَ الشیٔ بالشیٔ: ایک چیز کا دوسری سے مقابلہ کرنا، ملان کرنا۔
قَابَلَ الفِعْلَ بِمِثْلِه: ردِ عمل کرنا۔
قَابَلَ الشَّرَّ بالشَّرّ: برائی کا جواب برائی سے دینا۔
قَابَلَ الاحْتِيَاجَاتِ: ضروریات سامنے آنا (۲) ضروریات سے نمٹنا۔
ــــ الاقْتِرَاحَ بالرَّفْضِ الشَّدِيد: تجویز کو سختی سے مسترد کر دینا۔
ــــ الخَطَرَ: خطرے کا سامنا کرنا۔
ــــ الشَّغَبَ بِحَزْمٍ و شِدَّةٍ: غنڈہ گردی سے سختی کے ساتھ نمٹنا۔
ــــ بِحَفَاوَةٍ بَالِغَة: پُر جوش استقبال کرنا۔
ــــ العَمَلَ بالعَرْقَلَة: کام میں رکاوٹ پیدا کرنا۔
اَقْبَلَ: قریب ہونا (وقت کا)۔
اَقْبَلَ إِلَيْه: آنا، سامنے سے آنا۔
اَقْبَلَ عَلَى الأَمْر: متوجہ ہونا (۲) شروع کرنا۔
اَقْبَلَ المَحْصُولُ: پیداوار زیادہ ہونا۔
تَقَبَّلَ: قبول کرنا (۲) لینا۔
تَقَابَلَ مَعَهُ: ملاقات کرنا، ملنا۔
اِسْتَقْبَلَ: سامنے آنا (۲) ملاقات کرنا، استقبال کرنا۔
اِسْتَقْبَلَ الحَالَاتِ: حالات کو انگیز کرنا۔

اِسْتَقْبَلَه بِأَذْرُعٍ مَفْتُوحَة: ہاتھوں ہاتھ لینا، خوش آمدید کہنا۔
قَبْلَ: پہلے، قبل، بیفور۔
قَبْلَ المِيعَاد: قبل از وقت، بیفور ٹائم۔
قَبْلاً، مِنْ قَبْلُ: قبل ازیں، اس سے پہلے، پیشتر، سابق میں۔
مِنْ ذِي قَبْلُ: پہلے سے۔
قِبَل: طاقت، ہمت (۲) طرف۔
لِيْ قِبَلَه دَيْنٌ: اس کی طرف میرا قرض ہے۔
مِنْ قِبَلِ ابْنِيْ: میرے بیٹے کی طرف سے۔
قُبْلَة: بوسہ ج: قُبَل و قُبُلَات۔
قِبْلَة: توجہ گاہ۔
قِبْلِيّ: جانب جنوب (۲) جنوبی۔
قُبَالَة: جانب، طرف (۲) سامنے۔
قَبَالَة: ذمہ داری (۲) معاہدہ۔
قِبَالَة: دایہ گری، دایہ کا پیشہ۔
قُبُول: منظوری، ایڈمیشن (۲) تسلیم ورضا (۳) صلاحیت، توجہ۔
قُبُولٌ بِلاَ شَرْطٍ: بلاشرط منظوری۔
قُبُولٌ جُزْئِيّ: جزوی منظوری۔
قُبُولٌ عَامّ: عام مقبولیت۔
قَبِيل: ضامن۔
مِنْ قَبِيلِ كَذَا: اس قسم سے۔
مِنْ هٰذَا القَبِيل: اسی طرح، اسی جیسا، اسی قسم کا۔
قَابِل: (۱) منظور کنندہ (۲) آنے والا، آئندہ۔
قَابِلُ الالْتِهَاب: آتش گیر۔
قَابِلُ الرِّشْوَة: رشوت خور۔
قَابِلٌ لِلاِبْدَال: تبدیلی کے قابل۔
قَابِلٌ لِلاِسْتِهْلاَك: قابلِ صرف۔
قَابِلٌ لِلاِنْفِجَار: دھماکہ خیز۔
قَابِلٌ لِلتَّحْوِيل: ٹرانسفر کے قابل، تبدیلی کے قابل۔
قَابِلٌ لِلتَّصْدِير: ایکسپورٹ کے قابل۔
قَابِلٌ لِلتَّعَامُل: لین دین کے قابل۔
قَابِلٌ لِلتَّلَف: ضائع ہونے کے قابل۔
قَابِلٌ لِلاِلْغَاء: قابلِ منسوخی، کینسل کرنے کے قابل۔
قَابِلٌ لِاَنْ تُفْرَضَ عَلَيْهِ الضَّرَائِبُ: ٹیکس لگانے کے قابل۔
قَابِلٌ لِلكَسْر: قابلِ شکستگی۔
قَابِلٌ لِلمُقَاضَاة: مقدمہ کے قابل۔
قَابِلٌ لِلمُنَاقَشَة: قابلِ بحث۔
قَابِلٌ لِلنَّفَاد: ختم ہونے والا۔
قَابِلٌ لِلنُّهُوض: قابلِ ترقی۔
قَابِلَة: (مُوَلِّدَة) دایہ، مڈوائف۔
قَابِلِيَّة: استعداد (۲) توجہ (۳) خواہش۔
قَابِلِيَّةُ التَّأَثُّر: اثر پذیری۔
قَابِلِيَّةٌ لِلتَّحْوِيل: تبدیلی کی صلاحیت۔
إِقْبَال: آمد (۲) توجہ، دلچسپی (۳) رجوع (۴) مانگ (۵) مقبولیت۔
عَلَيْهِ إِقْبَالٌ: اس کی مقبولیت ہے، اس چیز کی مانگ ہے۔
إِقْبَالاً و إِدْبَاراً: آمدورفت میں۔
اِسْتِقْبَالٌ حَافِل: زبردست استقبال۔
غُرْفَةُ الاسْتِقْبَال: ڈرائنگ روم،

استقبال کا کمرہ۔
مُقْبِل: آئندہ۔
مُقْبِلٌ إِلَى: سامنے سے آنے والا۔
مُقْبِلٌ عَلَى: متوجہ ہونے والا، شروع کرنے والا۔
مَقْبُول: منظور شدہ، داخل شدہ، قابلِ قبول۔
مُقَابِل: سامنے (۲) جانب (۳) بدلہ، عوض۔
مُقَابِلُ الحُضُور: حاضری فیس۔
مُقَابِلَ كذا، فی مُقَابِلِ ذلک: اس کے بدلہ میں۔
بِلا مُقَابِلٍ: مفت۔
مُقَابَلَة: ملاقات (۲) مقابلہ۔
مُقَابَلَةٌ دَافِئَة: گرم جوشانہ ملاقات۔
مُقَابَلَةٌ عَاجِلَة: فوری ملاقات۔
مُقَابَلَةٌ مَعَ أَحَدٍ: انٹرویو۔
مُقَابَلَةٌ صَحَفِيَّة: اخباری انٹرویو۔
مُقَابَلَةٌ تِلِفِزْيُونِيَّة: ٹیلی ویژن انٹرویو۔
مُقَابَلَةٌ شَخْصِيَّةٌ عِنْدَ التَّوَظُّف: اپائنٹ منٹ انٹرویو۔
مُقْتَبَلُ الشَّبَاب: نوجوانی۔
فِي مُقْتَبَلِ العُمْر: نوعمر، نوخیز۔
مُسْتَقْبَلٌ زَاهِرٌ: روشن مستقبل، تابناک مستقبل۔
فِي المُسْتَقْبَل: آگے، آئندہ۔

ق.........ت

قَتَبٌ: کجاوہ (۲) کمر کا کوب ج: أَقْتَاب۔
قَتَّاتٌ: چغل خور۔
قَتَاد: خاردار نبات۔
قَتَرَ ـِـ قَتْراً و قَتَّرَ و أَقْتَرَ على: اہل وعیال کے خرچ میں تنگی کرنا۔
أَقْتَرَ: مفلس ہونا۔
قَتِير: دونو کی کیل۔
قَاتِر، مُقْتِر: بخیل، کنجوس۔
قَتَلَ ـُـ قَتْلاً: مار ڈالنا، ختم کرنا۔
قَتَلَ نَفْسَه: خودکشی کرنا۔
قَتَلَ شَخْصِيَّتَه: شخصیت فنا کرنا۔
قَاتَلَ بِالبَسَالَة: بہادری سے جنگ کرنا۔
اِسْتَقْتَلَ فی: جان کی بازی لگانا، جان ہتھیلی پر رکھنا۔
قَتْلُ الذَّاتِ أو النَّفْس: خودکشی۔
قَتْلٌ و نَهْبٌ: ماردھاڑ، لوٹ مار۔
قِتَال: لڑائی، جنگ، معرکہ۔
قِتَالٌ حَتَّى المَوْت: تا موت جنگ۔
قِتَالٌ عَنِيف: گھمسان کی جنگ۔
قِتَالٌ عَنِيفٌ بِالدَّبَّابَات: ٹینکوں کی گھمسان کی جنگ، خوفناک جنگ۔
قِتَالٌ مَجِيد: شاندار لڑائی۔
قَاتِل: مہلک، تباہ کن۔
اِقْتِتَال: لڑائی۔
مَقْتَل: ہلاکت، قتل (۲) جائے قتل۔
مَقْتَلُ شَخْصٍ فی حَادِثِ كذا: فلاں حادثہ میں ایک آدمی ہلاک۔
مُقْتَتَل: میدانِ کارزار۔
مُقَاتِل: جنگجو، سپاہی۔
مُقَاتِلاتٌ قَاذِفَةُ القَنَابِل: جنگی بمبار طیارے۔

قَتَمَ ـُ الغبارُ: گرد اُٹھنا۔
قَتَّمَ: سیاہ کرنا۔
اِقْتِمام: سیاہ ہونا۔
قُتْمَة، قَتَمَة، قَتَام: تاریکی (۲) سیاہی۔
قَاتِم: تاریک (۲) سیاہ۔
اَسْوَدُ قَاتِمٌ: گہرا سیاہ۔
ظَلامٌ قَاتِم: سخت تاریکی۔

ق............ث

قُثَّاء: کھیرا، ککڑی۔
مِقْثَة: (طَبْطَابَة) بیٹ، بلاّ۔

ق............ح

قَحَبَ ـُ قَحْباً: کھانسنا۔
قَحِطَ ـَ قَحْطاً: بارش نہ ہونا۔
قَحِطَ و قُحِطَ و اُقْحِطَ العَامُ: خشک سالی ہونا، سال میں قحط پڑنا۔
قَحْط: فقدان (۲) خشک سالی۔
قَحَفَ و اِقْتَحَفَ: برتن کا تمام پانی پینا۔
قِحْفٌ: کھوپڑی ج: اَقْحَاف۔
قَحِلَ ـَ قَحْلاً و تَقَحَّلَ: خشک ہونا۔
قَحْل، قُحُولَة: خشکی۔
قَحَمَ فِی الاَمْرِ ـُ قُحْماً: کسی چیز میں انجام پر نظر کئے بغیر کود پڑنا۔
قَحَّمَ و اَقْحَمَ فی الاَمْر: کسی کام میں ڈھکیلنا، لگانا۔
اِقْتَحَمَ الاَمْرَ و الشَّیْءَ: خطرناک جگہ میں گھسنا، خطرہ کے کام میں لگنا، کود پڑنا، جان خطرہ میں ڈالنا۔
اِقْتَحَمَ المَکَانَ: خطرہ سے بے پرواہ کود پڑنا، بے پرواہ داخل ہونا، دھاوا بولنا۔
اِقْتَحَمَ المَخَاطِرَ: خطرات مول لینا۔
قُحْمَة: مشکل کام (۲) ہلاکت۔
مِقْحَام: مصائب کا مقابلہ کرنے والا۔
قُحْوَان، اُقْحُوَان: گلِ بابونہ۔

ق............د

قَدَحَ فیه ـَ قَدْحاً: مذمت کرنا، عیب لگانا، بٹہ لگانا، مجروح کرنا۔
قَدَحَ فی عِرْضِه: عزت پر حملہ کرنا۔
قَدَحَ و اقْتَدَحَ النَّارَ بالزَّنْد: پتھر یا چقماق کے ذریعہ آگ نکالنا۔
قَدَحَ و اقْتَدَحَ شَرَراً: چنگاریاں پھینکنا۔
قَدْح: مذمت (۲) عیب جوئی۔
قَدَحٌ: گلاس، پیالی ج: اَقْدَاح۔
قَدَّاحَة: سگریٹ لائٹر (۲) چقماق۔
قَادِح: معترض، عیب دار بنانے والا۔
قَدَّدَ و قَدَّ ـُ قَدّاً و اقْتَدَّ: لمبائی میں کاٹنا (۲) جڑ سے اکھاڑنا (۳) بوٹیاں کرنا (۴) ٹکڑے کرنا۔
قَدٌّ: قامت (۲) مقدار۔
عَلَی قَدِّه: اس کے مطابق۔
قِدٌّ: چمڑے کا ٹکڑا۔
قِدَّه: لکڑی یا دھات کی تختی۔
قَدِیْد: ٹکڑے کیا ہوا گوشت۔
قَدِرَ ـَ و قَدَرَ ـِ قُدْرَةً و اقْتَدَرَ: قادر ہونا، طاقت رکھنا۔
ــــ . ــــ علی: کر سکنا، قادر ہونا۔
قَدَّرَ: (۱) مقدر کرنا، قسمت میں لکھنا (۳) اندازہ لگانا، حساب لگانا (۴) قیمت لگانا۔
ــــ الشَّیْءَ بالشَّیْءِ: ایک کو دوسری چیز پر قیاس

کرنا۔
__ الإيرادات و المصروفات: بجٹ تیار کرنا، آمدوخرچ کا حساب لگانا۔
__ الظُّرُوف: حالات کا اندازہ لگانا۔
__ المَوْقِف: صورتِ حال کا اندازہ لگانا۔
قَدَّرَ المَسْحُ كذا: سروے سے پتہ چلنا۔
__ : قدر کرنا، حیثیت دینا۔
__ الضَّرائِب: ٹیکس لگانا، ٹیکس کی مقدار مقرر کرنا۔
__ : (دا) گمان کرنا۔
__ و اَقْدَرَهُ عَلَى: قدرت دینا، قادر بنانا۔
لا قَدَّرَ اللّٰهُ: خدانخواستہ، خدانہ کردہ۔
تَقَدَّرَ: متعین ہونا، مقدار متعین ہونا۔
قَدْرٌ: (۱) مقدار (۲) درجہ، مرتبہ، حیثیت (۳) قیمت ج: اَقْدار۔
القَدْرُ الكافِي: بقدرِ ضرورت۔
بِهٰذا القَدْر: اتنا۔
قَدَرٌ: تقدیر، فیصلہ خداوندی۔
قَدَرِيّ: تقدیر کو ماننے والا۔
القَدَرِيَّة: ایک فرقہ جو تقدیرِ الٰہی کا منکر ہے اور کہتا ہے کہ بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں، اس کے برعکس فرقہ جَبَرِيَّة ہے۔
قِدْرٌ: دیگچی، پکانے کا برتن (۲) دیگ ج: قُدُور۔
قِدْرُ القَلْي: کوکر۔
قُدْرَة ت، صلاحیت، توانائی، اختیار۔
قُدْرَة حِصانِيَّة: ہارس پاور۔
قُدْرَةٌ شِرائِيَّة: قوتِ خرید۔
قُدْرَةٌ عَلَى التَّصَرُّف: کام کی صلاحیت۔
قُدْرَةٌ عَلَى الحَياة: جینے کی صلاحیت۔
القُدْرَةُ علي الدَّفع: ادائیگی کی صلاحیت۔
القُدْرَةُ القانُونِيَّة: قانونی پاور۔
قُدْرَةٌ عَلَى القِتال: جنگی صلاحیت۔
قُدْرَةٌ قِتالِيَّة: لڑنے کی صلاحیت۔
قُدْرَةٌ مالِيَّة: پاکٹ، مالی گنجائش۔
قُدْرَةُ المَحَطَّة: اسٹیشن کی صلاحیت، پاور۔
قُدْرَةٌ هُجُومِيَّة: اقدامی صلاحیت، حملہ کی طاقت۔
قُدُرات: صلاحیتیں، توانائیاں۔
قُدُراتٌ خَلّاقَة: تخلیقی صلاحیتیں۔
قُدُراتٌ نَوَوِيَّة: ایٹمی توانائیاں۔
قَدِير: باصلاحیت، ماہرفن، عبور یافتہ۔
اِقْتِدار: طاقت، قدرت (۲) لیاقت۔
تَقْدِير: اندازہ، تخمینہ، اسٹیمیٹ (۲) اہمیت، معیار (۳) خیال، نشانہ (۴) خراجِ عقیدت، خراجِ تحسین۔
تَقْدِيرُ الاِيرادات: حسابِ آمدنی، تخمینۂ آمدنی۔
تَقْدِيرٌ تَعَسُّفِيّ: غیر منصفانہ تخمینہ۔
التَّقْدِيرُ الخاطِئ: غلط اندازہ۔
تَقْدِيرٌ صادِق: صحیح قدردانی، صحیح اندازہ۔
تَقْدِيرُ العَقار: زمین کا تخمینہ۔
يَسْتَحِقُّ التَّقْدِير: واجب الاحترام۔
تَقْدِيرِيّ: قیاسی، تخمینی، خیالی، فرضی۔
تَقْدِيراً: بطورِ فرض۔
تَقْدِيرات: اندازے، تخمینے، معیار۔
تَقْدِيراتُ التَّخْطِيط: پلاننگ

اسٹیمیٹ، منصوبہ بندی کے نشانے۔
تَقْدِيرَاتُ مِيزَانِيَّة: بجٹ نشانے۔
مُقَدَّر: پوشیدہ، فرض کیا ہوا، مقبول۔
مُقَدَّرٌ بكذا: اتنی قیمت کا، اتنا تخمینہ لگایا ہوا۔
مُقَدِّر: تخمینہ لگانے والا۔
مُقَدِّرُ الأَثْمَان: قیمتیں لگانے والا۔
مَقْدِرَة: صلاحیت، طاقت، ہمت، سکت ج: مَقْدِرات۔
المَقْدِرَةُ التَخْطِيطِيَّة: پلاننگ کی صلاحیت۔
المَقْدِرَةُ عَلَى الشِّرَاء: ڈیمانڈ، قوتِ خرید۔
مَقْدُور: اختیار، طاقت، گنجائش۔
مِقْدَار: مقدار، سائز، درجہ، حیثیت، قیمت، اندازہ ج: مَقَادِير۔
المِقْدَارُ الأَكْبَر: مجارٹی، اکثریت۔
المِقْدَارُ الكَافِي: ضروری مقدار، کورم۔
مِقْدَارٌ مِنَ السِّلَعِ المُشْتَرَاة: آرڈر کا مال۔
بِمِقْدَارٍ مَّا: کسی بھی مقدار میں، کتنا ہی۔
قَدُسَ ـُ قَدَاسَةً: پاک ہونا (۲) بابرکت ہونا (۳) لائق تعظیم ہونا۔
قَدَّسَ: تعظیم کرنا (۲) پاک ومقدس بنانا۔
قُدْس: پاک جگہ۔
القُدْس: بیت المقدس (شہر)۔
قُدُس: پاک (۲) پاکی۔
رُوحُ القُدُس: پاک روح، مراد حضرت جبرئیل۔

قَدَاسَة: پاکی (۲) عظمت، بزرگی، احترام (۳) برکت۔
قُدَّاس: عیسائیوں کی نماز۔
قُدُّوس، قِدِّيس: پاک، طاہر۔
القُدُّوس: ذاتِ باری جو جملہ نقائص سے پاک ہے۔
قِدِّيس: عیسائیوں کا ولی، بزرگ، قابل احترام۔
تَقْدِيسُ الإِنْسَانِيَّة: احترامِ انسانیت۔
قَدِمَ ـَ قُدُوماً: آنا (۲) لوٹنا۔
قَدُمَ ـُ قَدَامَةً: پرانا ہونا۔
قَدَّمَ تَقْدِيماً: پرانا کرنا (۲) آگے کرنا (۳) پیش کرنا (۴) ذکر کرنا (۵) آگے بڑھانا، ترقی دینا (۶) لانا (۷) دینا (۸) پیشکش کرنا۔
___ الثَّمَنَ: پیشگی قیمت دینا۔
___ السَّاعَةَ: گھڑی تیز کرنا۔
___ الاِحْتِجَاجَ إِلَى: احتجاج کرنا۔
___ الاِسْتِقَالَةَ إِلَى: استعفا دینا، استعفا پیش کرنا۔
___ أَغْلَى التَّضْحِيَاتِ: زبردست قربانیاں دینا۔
___ عَرْضاً: آفر کرنا، پیشکش کرنا۔
___ الكِتَابَ بِمُقَدِّمَةٍ: کتاب پر مقدمہ لکھنا۔
___ لَهُ وإِلَيْهِ التَّسْهِيلاتِ: آسانیاں بہم پہنچانا۔
الوَفْدُ البَحْثَ إِلَى الاِجْتِمَاع: وفد نے جلسہ میں تحقیقی مقالہ پیش کیا۔

___ عَرِيْضَةً إلَى: پٹیشن داخل کرنا۔
قَدَّمَ فَاتُورَةً إلَى: بل پیش کرنا۔
___ فُلاناً لِفُلانٍ: کسی کا کسی سے تعارف کرانا۔
___ لائِحَةَ الاتِّهام: چارج شیٹ پیش کرنا، لگانا۔
___ المُقْتَرَحَاتِ: تجاویز پیش کرنا۔
___ المِيزَانِيَةَ: بجٹ پیش کرنا۔
___ الوَقْتَ سَاعَةً: وقت کو ایک گھنٹہ مقدم کرنا۔
___ الهَدِيَّةَ التَّذْكَارِيَّةَ إلَى اَحَدٍ: یادگاری ہدیہ دینا۔
___ الاسْتِقَالَةَ اِحْتِجَاجاً علی كذا: بطورِ احتجاج استعفاء دینا۔
___ التَّقْرِيْرَ عَنِ النَّتَائِج: نتائج کی رپورٹ دینا۔
___ التَّنَازُلاَتِ: رعایتیں دینا۔
___ التَّوْصِيَاتِ إلَى: سفارشات پیش کرنا۔
___ الدَّعْمَ والعَوْنَ لِفُلانٍ: امداد وتعاون پیش کرنا۔
___ شَكْوَى: شکایت کرنا۔
___ شِيْكاً لِلدَّفْع: ادائیگی کے لئے چیک دینا۔
قَدَّمَ الضَّمَانَاتِ: گارنٹی دینا۔
___ العَرْضَ: پیش کش کرنا۔
اَقْدَمَ عَلَى: اقدام کرنا (۲) ہمت کرنا (۳) شروع کرنا، کام کرنے کے لئے تیار ہونا۔
اَقْدَمَ عَلَى وَظِيفَةٍ: ملازمت کی درخواست دینا۔
تَقَدَّمَ: آگے بڑھنا (۲) ترقی کرنا (۳) جاری رہنا (۴) بہتر ہونا (۵) کامیاب ہونا (۶) اُبھرنا۔
تَقَدَّمَ عَلَيْه: کسی پر فوقیت لے جانا۔
تَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَىْ: پیش ہونا۔
تَقَدَّمَ إلَى المَحْكَمَة: عدالت میں جانا، عدالت سے رجوع کرنا۔
تَقَدَّمَ إلَى الاخْتِبَار: امتحان میں بیٹھنا۔
تَقَدَّمَ بشيْءٍ: پیش کرنا۔
تَقَدَّمَ بِالإبْلاغ إلَى الشُّرْطَة: پولیس میں رپورٹ کرنا۔
اِسْتَقْدَمَ: طلب کرنا، بلوانا، حاضر کرنا۔
قَدَم: پیر (۲) ڈگ (۳) فٹ ج: اَقْدَام۔
قَدَمٌ مُرَبَّع: مربع فٹ۔
عَلَى قَدَمِ المُسَاوَاة: برابری کے طور پر۔
قَدَمَةُ العَمُود: ستون کا پایہ، نچلا حصہ۔
قَدَمِيَّة: ڈاکٹر وغیرہ کی فیس، فیس چارج (۲) پیڈل۔
قِدَم: قدامت (ضد حَدَاثَة)۔
مُنْذُ القِدَم: قدیم زمانہ سے۔
قُدَّام: سامنے، آگے (۲) پہلے۔
قُدُوم: آمد۔
القُدُوم والعَوْدَة: آمدورفت۔
قَدُوم: بسولہ۔
قَدِيماً: پرانے زمانہ میں یا زمانہ سے۔
قَادِم: آئندہ، آنے والا۔
اَقْدَم: بہت پرانا۔

اَقْدَمُ مَرْكَزاً أو مَقاماً: سینیر۔
اَقْدَمُ عُضْوٍ فی کذا: سب سے پرانا ممبر، قدیم ترین ممبر۔
الاَقْدَمِیَّة: سینیارٹی، تقدم۔
الاَقْدَمِیَّةُ العَسْکَرِیَّة: فوجی برتری۔
تَقَدُّم: ترقی، پیش قدمی، پیش رفت (۲) پہل (۳) مارچ۔
تَقَدُّمٌ اِجتِماعِیّ: معاشرتی ترقی۔
تَقَدُّمٌ اِقتِصادِیّ: اقتصادی ترقی۔
تَقَدُّمٌ فَنِّیّ: ٹیکنیکل ترقی۔
تَقَدُّمِیّ: ترقی پسند، فارورڈ۔
تَقْدِمَة: پیش کش (۲) نذرانہ، ہدیہ۔
تَقْدِیم: پیش کش (۲) تعارف (۳) انٹروڈکشن۔
مَقْدَم: آمد۔
مَقْدَمُ الاِشْتِراکِیَّة: سوشلزم کا ظہور۔
مَقْدَمُ الرَّأسمالِیَّة: سرمایہ داری کا ظہور۔
مُقَدَّم: اگلا حصہ، فرنٹ۔
مُقَدَّماً: پیشگی، ایڈوانس۔
مُقَدَّم: لفٹیننٹ کرنل (ایک فوجی عہدہ)۔
مُقَدَّمُ عُمّال: اُورسیر (۲) فورمین۔
مُقَدِّمُ العَطاء: ٹینڈر داخل کرنے والا، ٹینڈر دینے والا۔
مُقَدِّمُ الطَّلَب أو العَرِیضَة: درخواست دہندہ، درخواست گزار۔
مُقَدِّمَة: سامنے کا حصہ، پیشانی (۲) پیش خیمہ۔
مُقَدِّمَةُ الجَیْش: فوج کا پہلا دستہ۔
فی مُقَدِّمَةِ کذا: آگے آگے، پیش پیش۔
مُقَدِّمات: تمہیدات۔
مِقْدام: جری، اقدام کرنے والا (۲) کامیاب (۳) ترقی یافتہ۔
مُتَقَدِّم: ترقی یافتہ (۲) کامیاب۔
مُتَقَدِّمٌ فی العُمْر: عمر رسیدہ۔
المُتَقَدِّمُ ذِکْرُہ: مذکورہ بالا۔
قُدْوَة: نمونہ۔

ق .... ذ

قَذُرَ ـُ قَذارَةً: گندا ہونا۔
قَذَّرَ تَقْذِیراً: گندا کرنا۔
قَذارَة: گندگی۔
قَذِرٌ: گندہ، ناپاک، آلودہ۔
قاذُورَة: گندگی، کوڑا کرکٹ ج: قاذُورات۔
قَذَفَ ـِ قَذْفاً: پھینکنا (۲) نکالنا (۳) تہمت لگانا (۴) کشتی کھینا۔
__ القَنابِلَ و بالقَنابِل: بمباری کرنا۔
__ القُنْبُلَةَ الذَّرِّیَّة: ایٹم بم مارنا۔
__ القُوّاتِ: فوجوں پر بمباری کرنا۔
__ النّارَ: آگ برسانا۔
__ القُوّاتِ إلَی: فوجیں بھیجنا۔
__ الکُرَةَ نَحْوَ الهَدَف: شوٹ کرنا۔
تَقاذَفُوا الشَّتائِمَ: باہمی گالی گلوچ کرنا۔
تَقاذَفَتْهُ الاَمْواجُ: موجوں کا اچھالنا۔
قَذْف: گولہ باری۔
قَذْفُ الحِجارَة: سنگ باری، پتھراؤ۔
قَذْفُ القَنابِل: بمباری۔

قَذِیفَة ج: قَذَائِفُ: گوپیا، گولہ۔
قَذِیفَةُ مِدْفَعِیَّة: توپ کا گولہ۔
قَذِیفَةٌ نَارِیَّة: بم، گولہ، پٹاخہ۔
قَذِیفَةُ الیَد: دستی گولہ۔
قَاذِفَاف: بمبار جہاز۔
قَاذِفَاتٌ بَعِیدَةُ المَدَی: دور مار بمبار جہاز۔
قَوَاذِفُ مُضَادَّةٌ لِلدَّبَّابَات: ٹینک شکن راکٹ۔
مَقْذُوفَات: گولے۔
مَقْذُوفَاتُ البُرْکَان: آتشیں مادہ جو پہاڑ سے نکلتا ہے۔
قَذَی و اَقْذَی عَیْنَه: آنکھ میں کنک ڈالنا (۲) تکلیف پہنچانا۔
قَذَی، قَذَاة: آنکھ کی کنک۔

ق .... ر

قَرَأَ ـــ قِرَاءَةً: پڑھنا، تلاوت کرنا۔
ـــ عَلَیْهِ الدَّرْسَ: کسی سے سبق پڑھنا۔
ـــ العِلْمَ علی: کس سے علم حاصل کرنا۔
ـــ بِبُطْءٍ: آہستہ پڑھنا۔
اَقْرَأَه و قَرَّأَ: پڑھانا۔
اِسْتَقْرَأَ الاَمْرَ: تحقیق کرنا، چھان بین کرنا۔
اِسْتَقْرَأَهُ الکِتَابَ: کتاب پڑھوانا۔
القِرَاءَةُ و الکِتَابَةُ: پڑھائی لکھائی۔
مِقْرَأ: پڑھنے کا اسٹینڈ، ڈیسک۔
مَقْرُوْءٌ، مَقْرِیّ: پڑھا ہوا (۲) پڑھا جانے والا (۳) واضح۔
ـ ـ مَقْرُوْء: نہ پڑھا جاسکنے والا، مٹا ہوا۔
مُقْرِئ: پڑھانے والا (۲) قاری۔
قَرُبَ ـــ قُرْباً: نزدیک ہونا۔
قَرَّبَ: (۱) نزدیک کرنا (۲) قربانی پیش کرنا (۳) نیاز پیش کرنا۔
قَرَّبَ شُقَّةَ الخِلَاف: اختلافات کی خلیج کم کرنا۔
قَرَّبَ بَیْنَ وِجْهَتَیِ النَّظَر: نقطۂ نظر کے بُعد کو دور کرنا۔
قَارَبَه: قریب ہونا۔
اِسْتَقْرَبَ: قریب سمجھنا (۲) قریبی راستہ اختیار کرنا۔
تَقَرَّبَ اِلَیْه: مقرب بننا (۲) خوشنودی حاصل کرنا۔
تَقَرَّبَ مِنَ المَسْئُولِین: ذمہ داران کا قرب حاصل کرنا۔
قُرْبَ کذا: آس پاس، اس کے قریب۔
بِقُرْبِ کذا، بالقُرْبِ مِنْ: قریب ہی تھوڑے فاصلہ پر۔
عَنْ قُرْبٍ: نزدیک ہوکر، قریب سے۔
قُرْبَان: نذرونیاز، قربانی، بھینٹ ج: قَرَابِین۔
قِرْبَة: مشکیزہ، مشک، صراحی ج: قِرَب۔
قِرَابٌ: میان، پستول کا کیس۔
قَرَابَة، قُرْبَی: رشتہ، رشتہ داری، آپس داری۔
قَرَابَةَ کذا: تقریباً اتنا، اس کے قریب۔
قَرِیْب: نزدیک (۲) رشتہ دار ج: اَقْرِبَاء۔
قَرِیْبٌ مِنْ دَرَجَةٍ بَعِیْدَة: دور کا رشتہ دار۔
قَرِیْبُ العَهْد: نیا، قریبی زمانہ کا، حال ہی میں۔
فِی القَرِیْبِ العَاجِل: جلد ہی۔

قَرِیْباً: جلد ہی، عنقریب (۲) کچھ عرصہ قبل۔
قَارِبٌ: چھوٹی کشتی، چھوٹا جہاز ج: قَوَارِب۔
قَارِبٌ دُخَانِیٌّ: اسٹیمر۔
بِأَقْرَبِ سُرْعَةٍ مُمْكِنَةٍ: بعجلت ممکنہ۔
فِی أَقْرَبِ فُرْصَةٍ تَسْنَحُ لَكُمْ: قریب سے قریب وقت میں۔
مَقْرُبَة، مَقْرَب: قرب (۲) مختصر راستہ۔
مُقَارِب: اوسط درجہ کا، اچھا خاصا۔
مِقْرَاب: ٹیلسکوپ۔
قَرِحَ ـــ قَرْحاً و قَرَحَ و تَقَرَّحَ: زخم پڑنا، زخموں والا ہونا۔
قَرَحَ ـــ قَرْحاً و قَرَّحَ: زخمی کرنا۔
اِقْتَرَحَ: (۱) فی البدیہہ کلام کرنا (۲) نئی بات نکالنا (۳) تجویز پیش کرنا۔
اِقْتَرَحَ علیه كذا و بكذا: کسی کے سامنے رائے یا تجویز رکھنا۔
اِقْتَرَحَ تَعْدِيلاً: ترمیم پیش کرنا۔
قَرِحٌ، مُتَقَرِّح، مُقَرَّح: زخموں والا، السر کا مریض۔
قُرْحَة: زخم ج: قُرُوح۔
قَرَاح، قَرِيح: صاف پانی۔
قَرِيحَة: عقل (۲) ذہن (۳) طبیعت ج: قَرَائِح۔
قَارِحٌ: (دا) مکار، چالباز۔
اِقْتِرَاح: تجویز، نئی بات ج: اِقْتِرَاحَات (۲) فی البدیہہ کلام
الاِقْتِرَاحُ البَدِيل: متبادل قرارداد۔
اِقْتِرَاحُ تَعْدِيل: تجویز ترمیم۔
اِقْتِرَاحٌ لَمْ يُصَوَّتْ عليه بَعْدُ: اس تجویز پر ابھی تک رائے نہیں لی گئی۔
الاِقْتِرَاحُ المُقَدَّمُ مِنْ فُلَانٍ: کسی کی طرف سے پیش کردہ تجویز۔
اِقْتِرَاحٌ مُضَادّ: مخالف تجویز۔
اِقْتِرَاحٌ مُوَافَقٌ عليه: پاس شدہ تجویز، ریزولیشن۔
مُقْتَرَح: تجویز، مجوزہ۔
مُقْتَرَحَات: تجاویز۔
قِرْدٌ: بندر ج: قُرُود و قِرَدَة۔
قُرَد، قُرَاد: چچڑی جو کتوں اور دوسرے جانوروں کے جسم میں پیدا ہو جاتی ہے۔
قَرَّاد، قُرْدَاتِي: بندر والا۔
قَرَّرَ تَقْرِيراً: مقرر کرنا (۲) طے کرنا، ٹھان لینا، تہیہ کرنا (۳) فیصلہ کرنا، قرار دینا (۴) بیان کرنا (۵) گواہی دینا۔
ـــ الرَّجُلَ: اقرار کرانا۔
ـــ فی نَفْسِهِ: دل میں ٹھان لینا۔
ـــ ذٰلِكَ نِهَائِياً: آخری فیصلہ کرنا۔
ـــ غَيْرَ صَالِحٍ لِـ: اَن فِٹ کرنا، نامناسب قرار دینا۔
ـــ الأَمْرَ بِدُونِ مُنَاقَشَةٍ: بلا بحث و اختلاف تجویز پاس کرنا۔
قَرَّرَ المَصِيرَ: قسمت کا فیصلہ کرنا، تقدیر کا فیصلہ کرنا (۲) مقصد کا تعین کرنا، انجام طے کرنا۔
ـــ مَصِيرَ البَلَدِ: ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنا۔
ـــ الشَّعْبُ مَصِيرَهُ: عوام نے اپنی قسمت کا فیصلہ کر لیا۔

___ و أَقَرَّ: ثابت کرنا، جمانا، برقرار رکھنا۔
أَقَرَّ: متعین کرنا، پاس کرنا۔
أَقَرَّ الدُّسْتُورَ: دستور پاس کرنا۔
أَقَرَّ القَرارَ: تجویز پاس کرنا۔
أَقَرَّ وقْفَ إِطْلاقِ النَّار: فائر بندی کو پائیدار بنانا۔
أَقَرَّ بكذا: اعتراف کرنا، تسلیم کرنا۔
قَرَّ ـِ اليَوْمُ قَرّاً: ٹھنڈا ہونا۔
___ قَراراً و اسْتَقَرَّ فی المَكان: ٹھہرنا، قرار پانا (۲) ٹھکانا بنانا۔
___ رَأيُه عَلَى كذا: رائے قرار پانا، کسی بات پر رائے جمنا۔
تَقَرَّرَ: طے ہونا، ثابت ہونا۔
تَقَرَّرَ مَصِيرُ البَلَد: ملک کی قسمت کا فیصلہ ہونا۔
تَقَرَّرَ نِهائِياً أن: آخری طور پر یہ طے ہوا۔
قَرٌّ، قَارٌّ: ٹھنڈا۔
قُرٌّ، قِرَّة: ٹھنڈک، خنکی۔
قُرَّةُ العَيْن: آنکھ کی ٹھنڈک، نور۔
قَرار: تلی (۲) تہہ (۳) سکون (۴) قیام گاہ۔
قَرار: فرمان، فیصلہ۔
قَرارٌ فی مَسْئَلَةٍ: ریزولیشن، قرارداد ج: قَرارات۔
قَرارُ الاتِّهام: فردِ جرم۔
قَرارٌ اَخِير: الٹی میٹم۔
قَرارُ الاغْلَبِيَّة: اکثریتی فیصلہ۔
قَرارٌ بالاِجْماع: متفقہ فیصلہ۔
قَرارٌ بقانُون: قانون کا فیصلہ۔

قَرارٌ باللُّوم: قراردادِ مذمت۔
قَرارٌ تَعَسُّفِيّ: سخت فیصلہ، ظالمانہ فیصلہ۔
قَرارٌ جائِر: ظالمانہ فیصلہ۔
قَرارٌ جَرِئٌ: جرأت مندانہ فیصلہ۔
قَرارٌ جُمْهُورِيّ: جمہوری فیصلہ، عوامی فیصلہ۔
قَرارٌ حاسِمٌ لا رَجْعَةَ فيه: قطعی فیصلہ۔
قَرارٌ رَسْمِيّ: سرکاری حکم۔
قَرارٌ عَبْقَرِيّ: تاریخی بے مثال فیصلہ۔
قَرارٌ قَضائِيّ: رولنگ، عدالتی فیصلہ۔
قَرارٌ مُجْحِفٌ بِحَقِّ اَحَدٍ: کسی کے حق میں ظالمانہ تجویز۔
قَرارُ المُحَكَّم: حَکَم کا فیصلہ، پنچایتی فیصلہ، بذریعہ ثالث کسی کارروائی کا فیصلہ۔
القَرارُ النِهائِيّ: آخری فیصلہ۔
قَرارٌ وِزارِيّ: آرڈیننس۔
قَرارةُ النَّفْس: دل کی گہرائی۔
قَارَّة: خشکی، برِّاعظم ج: قَارَّات۔
القَارَّةُ السَّوْدَاء: افریقہ۔
قَارُورَة: بوتل ج: قَوارِير۔
اِقْرار: ڈکلریشن (۲) اقرار نامہ۔
اِقْرارُ تَلَفٍ: نقصان کا اعتراف۔
اِقْرارٌ جُمْرُكِيّ: کسٹم، ڈکلریشن۔
اِقْرارٌ رَسْمِيّ: سرکاری تصدیق، سرکاری اقرار نامہ۔
اِقْرارٌ سَنَوِيّ: سالانہ ڈکلریشن، سالانہ اعلان۔
اِقْرارٌ كِتابِيّ: حلف نامہ، تحریری حلفی بیان، تحریری اقرار۔
اِقْرارٌ مُوَقَّت: عارضی ڈکلریشن۔

اِسْتِقْرَار: سکون، ٹھہراؤ، امن وامان۔
اِسْتِقْرَارٌ سِيَاسِيٌّ: سیاسی استحکام۔
اِسْتِقْرَارُ السَّلَام: استحکامِ امن۔
تَقْرِيْر: رپورٹ (۲) فیصلہ ج: تَقَارِيْر وَ تَقْرِيْرَات۔
تَقْرِيْرُ الْبَعْثَة: وفد کی رپورٹ۔
تَقْرِيْرٌ سِرِّيٌّ: خفیہ رپورٹ۔
التَّقْرِيْرُ السَّنَوِيّ: سالانہ رپورٹ۔
تَقْرِيْرٌ عَنِ الشَّيْءِ: روئداد، رپورٹ، محضر۔
تَقْرِيْرُ مَجْلِسِ الْإِدَارَة: مجلسِ انتظامیہ کی رپورٹ۔
تَقْرِيْرُ الْمُرَاجِع: آڈیٹر رپورٹ۔
تَقْرِيْرٌ مُسْتَنِدٌ اِلَى الْحَقَائِق: حقائق پر مبنی رپورٹ۔
تَقْرِيْرٌ رَسْمِيٌّ أو حُكُوْمِيٌّ: سرکاری بیان، اعلان، رپورٹ۔
تَقْرِيْرُ الْمُعَايَنَة: سروے رپورٹ۔
تَقْرِيْرٌ يَوْمِيٌّ: یومیہ رپورٹ۔
تَقْرِيْرُ الْمُتَابَعَة: جائزہ رپورٹ۔
مَقَرّ: سیٹ، اسٹینڈ (۲) قیام گاہ، صدر مقام، ہیڈکوارٹر ج: مَقَرَّات۔
مَقَرُّ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَة: اقوامِ متحدہ کا ہیڈ کوارٹر۔
مَقَرٌّ رَئِيْسِيٌّ: ہیڈکوارٹر۔
مَقَرُّ السَّفِيْر: ایمبیسی، سفارتخانہ۔
مَقَرُّ الْعَمَل: ڈیوٹی اسٹیشن، ٹھکانہ، کام کا مستقر۔
مَقَرُّ الْقُنْصُلِيَّة: کونسلیٹ۔
مُقَرِّر: رپورٹر۔

مُقَرَّر: طے شدہ۔
مُقَرَّرٌ تَعْلِيْمِيٌّ: کورس، نصاب، سلیبس۔
مُقَرَّرَات: تجاویز (۲) کورس۔
الْأَمْوَالُ الْمُقَرَّرَة: ڈائرکٹ ٹیکس۔
الْأَمْوَالُ غَيْرُ الْمُقَرَّرَة: اِن ڈائرکٹ ٹیکس۔
مُسْتَقَرّ: قرار پذیر، جما ہوا۔
قَرِسَ الْبَرْدُ ـــ قَرَساً: سخت سردی ہونا۔
قَارِس: سخت، شدید (بَرْدٌ قَارِس)۔
قَرَشَ ـــ قَرْشاً: کاٹنا۔
قَرَشَ و قَرَّشَ و اقترش لِعِيَالِه: اہل وعیال کے لئے کمائی کرنا۔
قَرَصَ ـــُـ قَرْصاً: ڈنک مارنا (۲) تکلیف دینا۔
قَرَصَ لَحْمَه: چٹکی بھرنا، چٹکی لینا۔
قَرَّصَ و قَرَصَ الْعَجِيْنَ: آٹے کے پیڑے بنانا، ٹکیہ بنانا۔
قُرْص: ٹکیہ (۲) پیڑا ج: اَقْرَاص۔
ــــ و قُرْصَة: چپاتی۔
ــــ دَوَاءٍ: دوا کی گولی، ٹیبلیٹ۔
ــــ دَوَّام: پھرکی۔
ــــ سُكَّرِيّ: شکر کی ٹکیہ۔
ــــ النَّحْل: شہد کی مکھی کا چھتا۔
ــــ الهَاتِف: ٹیلیفون ڈائل۔
اَدَارَ قُرْصَ الْهَاتِف: ٹیلیفون ڈائل گھمانا۔
قَرْصَة: (بالأصابع و أمثالها) چٹکی، نیش زنی (ایک دفعہ کاٹنا)۔

قَرُوصَة: (۲ ا دَسْتَة) گُرس۔
قَارِص: تکلیف دہ۔
قَرْصَنَة: ڈاکہ زنی، سمندری چوری، بحری ڈاکہ، قزاقی۔
قُرْصَان: قزاق، بحری ڈاکو ج: قَرَاصِنَة۔
قرض الشِّعْرَ ـِ قرضاً: شعر کہنا۔
___ رِبَاطَه: مرنا۔
___ الشيءَ: کترنا، کاٹنا۔
___ و قَرَّضَ: کھانا، کھوکھلا کرنا۔
اَقْرَضَ: قرض دینا، لون دینا۔
اِقْتَرَضَ مِنْه: قرض لینا، ادھار لینا۔
اِقْتَرَضَ عِرْضَه: غیبت کرنا۔
اِنْقَرَضَ: ختم ہونا، منقطع ہونا۔
اِسْتَقْرَضَ مِنْه: قرض طلب کرنا، ادھار مانگنا۔
قَرْض ج: قُرُوض: ادھار۔
قَرْضٌ بِدُوْنِ ضَمَانٍ: قرض بلاضمانت۔
قَرْضٌ بِفَائِدَةٍ: لون، سودی قرض۔
قَرْضٌ طَوِيْلُ الأَجَل: طویل المیعاد قرض۔
قَرْضَة، قَرَاضَة: کیڑا۔
قُرَاضَة: کٹنگ، کترن۔
قُرَاضَةُ الذَّهَب: سونے کا برادہ۔
قُرُوضٌ اِسْتِثْمَارِيَّة: سرمایہ کاری کے قرضے۔
قُرُوضٌ بِتَأْمِيْنِ بِضَاعَةٍ: قرض بضمانتِ سامان، سامان رکھ کر دیا ہوا قرض۔
قُرُوضٌ بِدُوْنِ ضَمَانٍ: بلاضمانت قرضے۔
قُرُوضٌ بِضَمَان: ضمانت پر دیئے ہوئے قرضے، قرض ضمانت پر۔
قُرُوضٌ ذَاتُ شُرُوطٍ سَهْلَةٍ: آسان شرطوں پر قرضے۔
قُرُوضٌ طَوِيْلَةُ الاَجَل: طویل المیعاد قرضے۔
قُرُوضٌ قَصِيْرَةُ الآجَل: مختصر المیعاد قرضے۔
قُرُوضٌ لِآجَالٍ قَصِيْرَةٍ: مختصر المیعاد قرضے۔
قُرُوضٌ مَضْمُوْنَةٌ بِرَهْنٍ: رہن پر دیئے ہوئے قرض۔
حَيَوَانٌ قَارِض: دانتوں سے کترنے والا جانور، چوہا وغیرہ ج: قَوَارِض۔
اِنْقِرَاض: خاتمہ۔
مِقْرَاض: قینچی ج: مَقَارِيْض۔
قَرَطَ ـُ قَرْطاً: کترنا، چھوٹے ٹکڑے کرنا۔
قَرَّطَ الفَتِيْلَةَ: گل جھاڑنا۔
قَرَّطَ عليه: سختی کرنا (۲) تھوڑا تھوڑا دینا۔
قَرَّطَ الرِّبَاطَ: ٹائی باندھنا۔
قَرَّطَتْ بَطْنُه: پیٹ میں ٹھہر ٹھہر کا مروڑ اٹھنا۔
قُرْط: کانوں کا زیور، بالی ج: اَقْرَاط۔
قِيرَاط: (۱) $2\frac{1}{2}$ سنٹی میٹر (۲) انچ (۳) ہر چیز کا چوبیسواں حصہ۔
قَرْطَسَة: نشانہ پر پہنچنا۔
قِرْطَاس: نشانہ (۲) مقصد ج: قَرَاطِيْس۔
قِرْطَاس و قَرْطَس: سادہ کاغذ، وہائٹ پیپر (۲) کاغذ کا شیٹ۔
قِرْطَاسِيَّة: اسٹیشنری۔
قَرَّظَ: تعریف کرنا (۲) کتاب پر تبصرہ کرنا۔
قَرِيْظ و تَقْرِيْظ: تعریف، تبصرہ۔
قَرَعَ ـَ قَرْعاً: کھٹکھٹانا (۲) پیٹنا (۳) ڈھول بجانا۔
قَرَعَهُ ضَمِيْرُه: ملامت کرنا (ضمیر کا)۔
قَرِعَ الرَّجُلُ ـَ قَرَعاً: گنجا ہونا، سر کے بال

گرنا۔

قَرِعَ المَكَانُ: خالی ہونا۔

قَرَّعَ: سختی کرنا، دھمکی دینا۔

قَارَعَ و تَقَارَعَ: لڑنا، زدوکوب کرنا۔

اِقْتَرَعَ: ووٹ دینا، قرعہ ڈالنا۔

اِقْتَرَعَ ضِدَّ فُلانٍ: خلاف ووٹ ڈالنا۔

قَرْعَة: ایک چوٹ، ایک دفعہ کی کھٹکھٹاہٹ۔

قُرْعَة: حصہ، قرعہ ج: قُرُوْع۔

اِلْقَاءُ القُرْعَة: قرعہ ڈالنا۔

قَارِعَة: چالاک (۲) سخت مصیبت، حادثہ (۳) قیامت ج: قَوَارِع۔

قَارِعَةُ الطَّرِيْق: وسطِ راہ۔

اَقْرَعُ: گنجا ج: قُرْع و قُرْعَان۔

اِقْتِرَاع: قرعہ اندازی، ووٹنگ۔

اِقْتِرَاعٌ سِرِّيٌّ لشيءٍ: خفیہ قرعہ اندازی، خفیہ رائے دہی، خفیہ پرچہ اندازی، خفیہ ووٹنگ۔

اِقْتِرَاعٌ عَلَنِيّ: کھلی پرچہ اندازی، کھلی ووٹنگ۔

اِقْتِرَاعٌ مُفْرَد: انفرادی ووٹنگ۔

مُقْتَرِع: ووٹر۔

مِقْرَعَة: کوڑا۔

قَرَفَ ـ قَرْفاً: چھیلنا، کھرنڈ اتارنا۔

قَرَفَ: (دا) معدہ کو قے پر آمادہ کرنا (۲) گھن کرنا۔

اِقْتَرَفَ الذَّنْبَ: جرم کا ارتکاب کرنا۔

اِقْتَرَفَ المَرَضَ: بیماری کے قریب ہونا۔

اِقْتَرَفَ الجَرَائِمَ الكَبِيْرَةَ: بڑے جرائم کرنا۔

قِرْفَة: چھلکا (۲) زخم کا کھرنڈ۔

مُقْرِف: قابلِ نفرت (۲) متلی لانے والا۔

مُقْتَرِف: مجرم۔

قَرْقَتِ الدَّجَاجَةُ ـُ قَرْقاً: مرغی کا کڑکڑانا۔

قَرْقَرَ الحَمَامُ: کبوتر کا بولنا (۲) اونٹ کا بولنا (۳) پیٹ میں قراقر ہونا۔

قَرْقُوشَة: خستہ بسکٹ، بھُربھری روٹی۔

قَرْقَضَ عَلَى اَسْنَانِه: دانت پیسنا۔

قَرْمَدَ الحَائِطَ أَوِ الأَرْضَ: دیوار پر پلاسٹر کرنا (۲) ٹائل لگانا۔

قِرْمِيْد: لال پختہ اینٹ (۲) کھپریل (۳) ٹائل (فرش کا) و: قِرْمِيْدَة۔

قِرْمِيْد و قَرْمَد: پلاسٹر، مسالہ جس کی لپائی کی جائے۔

قِرْمِز: سرخ رنگ۔

قِرْمِزِيّ: سرخ رنگ کا۔

قَرْمَشَ الخُبْزَ: روٹی کو خستہ بنانا۔

قَرَنَ الشَّيْءَ بكذا ـِ قَرْناً: ملانا۔

قَرَنَ الثَّوْرَيْنِ فِي نِيْرٍ: بیلوں کو جوئے میں جوتنا۔

قَارَنَه: ساتھ رہنا، ہم نشینی کرنا۔

قَارَنَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ: موازنہ کرنا، مقابلہ کرنا۔

اَقْرَنَ الصَّيَّادُ: ایک فائر سے دو شکار کرنا۔

اَقْرَنَ و اسْتَقْرَنَ: پھوڑے پھنسی کا پکنا۔

اِقْتَرَنَ بكذا: ملنا۔

اِقْتَرَنَ بالمَرْأَة: شادی کرنا۔

قَرْنٌ: سینگ (۲) صدی، سو سال (۳) زمانہ (۴) نسل ج: قُرُوْن۔
قَرْنُ الجَبَلِ: پہاڑ کی چوٹی۔
قِرْن: نظیر، مثل (۲) ہم عمر ج: اَقْرَان۔
قُرْنَة: پیشانی۔
قِرَان، اِقْتِرَان: شادی (۲) زبردست تعلق (۳) جوڑ۔
قَرِيْنٌ: ملا ہوا (۲) ساتھی (۳) ہم نشین، ہم رتبہ، ہم مجلس (۴) خاوند، شوہر ج: قُرَنَاءُ۔
قَرِيْنَةٌ: بیگم، اہلیہ، بیوی ج: قَرِيْنَات (۲) تعلق (۳) احوالی علامت ج: قَرَائِنُ۔
اَقْرَنُ الحَوَاجِب: ملی ہوئی ابروؤں والا۔
مِقْرَن: (نیوٌ) جوا جو بیلوں کے کاندھوں پر رکھا جاتا ہے ج: مَقَارِن۔
مُقْتَرِن: شادی شدہ (۲) ملا ہوا۔
مُقَارَنَة: موازنہ، مقابلہ، ملان۔
مُقَارَنَةُ الحِسَابَات: حسابات کا بیلنس۔
بِالمُقَارَنَةِ مَعَ: اس کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے۔
قَرَنْفُل: لونگ۔
قَرَنْفُلِيُّ اللَّوْن: لونگ کے رنگ کا، کتھی رنگ کا۔
قَرَى ـــ قِرًى و اَقْتَرَى الضَّيْفَ: ضیافت کرنا، مہمان نوازی کرنا۔
قَرْيَة: گاؤں، بستی، ٹاؤن ج: قُرًى۔
قَرَوِيّ: گاؤں کا رہنے والا۔
اُمُّ القُرَى: پایہ تخت (۲) مکہ معظمہ۔
اُمُّ القِرَى: آگ۔
مِقْرًى، مِقْرَاء: مہمان نواز۔

ق............ز

قَزَحٌ: مسالہ (زیرہ وغیرہ)۔
قَزَّزَ الزُّجَاجَ: شیشہ فٹ کرنا (۲) شیشہ بنانا۔
قَزٌّ: ریشم۔
قَزَّاز: ریشم فروش، ریشم کا کپڑا بنانے والا۔
قِزَاز: شیشہ۔
قِزَازَة: بوتل۔
قَازُوْزَة: شیشی۔
تَقَزُّز: متلی (۲) نفرت، کراہت۔
قَزَل: لنگڑا پن۔
قَزَّمَ القُوَى تَقْزِيْماً: طاقتوں کو گھٹانا، کمی کرنا۔
قَزَم: چھوٹے جسم کا، بونا، بالشتیہ۔
قَزَان: پانی گرم کرنے کا چھوٹا سماور۔

ق............س

قَسْحَرَة: (دا) درجۂ حرارت معلوم کرنا۔
قِسْحَر: حرارت پیما۔
قَسَرَ ـــِ قَسْراً و اَقْتَسَرَ عَلَى الأَمْرِ: مجبور کرنا۔
قَسْرٌ: جبر۔
قَسْراً: جبراً، لازماً۔
قَسْرِيّ: جبری، غیر اختیاری۔
قِسِّيْس: پادری، پجاری، کاہن۔
قُسُوْسَة: پادری گری۔
قَسَّاس: چغل خور۔
قَسَطَ ـــُ قِسْطاً و اَقْسَطَ: انصاف کرنا۔

قَسَّطَ: (ا) ٹکڑے کرنا (۲) قسطیں متعین کرنا۔
قَسَّطَ الدَّيْنَ: قرض کوقسط وار ادا کرنا۔
قَسَّطَ الشئَ علی مُدَّةٍ: قسطوں پر دینا۔
قَسَّطَ المَبْلَغَ علی: رقم کی قسطیں مقرر کرنا۔
قَسَّطَ المَبْلَغَ المُسْتَحِقَّ: واجب رقم کی قسطیں مقرر کرنا۔
قِسْطٌ: انصاف (۲) انصاف پرور (۳) مقدار (۴) ترازو (۵) حصہ، واجب الادا رقم کا ایک حصہ ج: اَقْساط۔
قِسْطُ الاِکْتِتاب: چندہ کی قسط۔
قِسْطٌ مِنَ الرَّاحَة: کچھ آرام۔
بالاَقْساطِ المُساوِيَة: مساوی قسطوں پر۔
مُقْسِط: انصاف پرور۔
قِسْطاسٌ: ترازو۔
قَسْطَل: پانی کا پائپ۔
قَسَمَ ـــ قَسْماً و قَسَّمَ: تقسیم کرنا، اجزاء کرنا، ٹکڑے کرنا (۲) سیکشن بنانا (۳) حصہ دینا۔
قَسَّمَ العِبارَةَ إلَی فِقْراتٍ: پیراگراف بنانا۔
قَسَّمَ المِنطقَةَ إلَي عَدَدٍ مِنَ الوَحَدات: علاقہ کو یونٹوں پر تقسیم کرنا۔
قاسَمَهُ الشئَ: کسی سے اپنا حصہ لینا (۲) قسم دینا، قسم کھانا۔
اِقْتَسَمَ: تقسیم کرنا۔
اَقْسَمَ: قسم کھانا، حلف اٹھانا۔
اَقْسَمَ علی المُصْحَف: قرآن کی قسم کھانا۔
اَقْسَمَ بِيَمِينِ الوَلاءِ لِأحَدٍ: حلف وفاداری اٹھانا۔
اِنْقَسَمَ، تَقَسَّمَ: منقسم ہونا (۲) پھوٹ پڑجانا۔
قِسْمٌ: حصہ (۲) پارٹ، ڈویژن (۳) سیکشن (۴) شعبہ، ڈپارٹمنٹ، محکمہ (۵) نوع ج: اَقْسام۔
قِسْمٌ مِنْ بَلادٍ: ضلع، ڈسٹرکٹ۔
قِسْم: (دا) پولیس اسٹیشن (مَرْكَزُ الضَّابِطَة)۔
قِسْمُ الاَبْحاث: ریسرچ ڈپارٹمنٹ، شعبۂ تحقیقات۔
قِسْمُ اِصْدارِ اَوْراقِ النَّقْد: نوٹوں کے اجراء کا محکمہ۔
قِسْمُ الاَعْمالِ المَصْرِفِيَّة: بینک ڈپارٹمنٹ۔
قِسْمُ البُرُوتُوكُول: پروٹوکول محکمہ، محکمۂ استقبالیہ۔
قِسْمُ البَرِيْد: میل ڈپارٹمنٹ، محکمۂ ڈاک۔
قِسْمُ التَّصْدِيْر: ڈسپیچ ڈپارٹمنٹ، محکمۂ روانگی سامان۔
قِسْمُ التَّكالِيْف: کاسٹنگ ڈپارٹمنٹ۔
قِسْمُ الحِسابات: شعبۂ محاسبی، محکمۂ محاسبی۔
قِسْمُ الخزِينَة: کیش ڈپارٹمنٹ۔
قِسْمٌ فَرْعِيٌّ: سب ڈویژن، ذیلی شعبہ، ماتحت شعبہ۔
قِسْمُ المَحْفُوظات: قدیم تاریخی دستاویزوں کا محکمہ۔
قِسْمُ المُراسَلات: شعبۂ مراسلات۔
قِسْمُ المُشْتَرَيات: خریداری، ڈپارٹمنٹ۔
قِسْمُ الوَفاء: حلف وفاداری۔

قَسَمَةُ الوَجه ج: قَسَمَات: چہرہ کے خط و خال۔
قِسْمَة: تقسیم، عملِ تقسیم (۲) حصہ۔
قَسَامَة، قَسَام: حُسن۔
قَسِيم: حصہ دار ج: قُسَمَاء۔
قَسِيمَة: (۱) رسید وغیرہ کا مُثنیٰ، کوپن (۲) واؤچر، سِلِپ (۳) زمین کا پلاٹ ج: قَسَائِم۔
قَسِيمَةُ اِيدَاع: جمع رقم کا سِلِپ، کریڈٹ سلپ۔
قَسِيمَةُ الطَّلَب: آرڈر فارم۔
اِقْتِسَامُ الأَرْبَاح: منافع کی تقسیم۔
اِنْقِسَام: پھوٹ، تفرقہ، اختلاف، خلفشار ج: اِنْقِسَامَات۔
اِنْقِسَامٌ حَادّ: زبردست پھوٹ۔
اِنْقِسَامٌ دَاخِلِيّ: اندرونی خلفشار، پھوٹ۔
تَقْسِيم: پارٹیشن (۲) بٹوارا، تقسیم۔
تَقْسِيمُ العَمَل: تقسیم کار۔
تَقْسِيمِيّ: ڈویژنل۔
مُقَاسَمَة: مشارکت۔
مُقَسَّمٌ إلَى دَوَائِر: ڈپارٹمنٹل، مختلف محکموں سے متعلق۔
قَسْوَة، قَسَاوَة: سختیِ دل، سنگ دلی۔
قَسَا ــُـ قَسْوًا: سخت ہونا۔
قَسَا مَعَه و عليه: سختی کرنا، سختی کا برتاؤ کرنا۔
قَسَّى و اَقْسَى: سخت بنانا۔
قَاسَى مُقَاسَاةً: مصیبت جھیلنا، تکلیف اٹھانا۔
قَاسٍ، قَسِيّ: سخت، شدید (۲) بے رحم (۳) سخت دل (۴) پختہ۔
تَجْرِبَةٌ قَاسِيَة: تلخ تجربہ۔
شُرُوطٌ قَاسِيَة: سخت شرطیں۔

ق .... ش

قَشَبَ الطَّعَامَ ــِـ قَشْبًا: زہر ملانا۔
قَشْبٌ، قِشْب: زہر ج: اَقْشَاب۔
قَشِيب: نیا (۲) پاکیزہ، ستھرا۔
قَشَدَ ــُـ قَشْدًا: برہنہ کرنا، کھولنا۔
تَقَشَّدَ اللَّبَنُ: کریم بن جانا۔
قِشْدَة: بالائی، کریم۔
قَشَرَ ــُـِ قَشْرًا و قَشَّرَ: چھیلنا، چھلکا اتارنا، کھال اتارنا۔
تَقَشَّرَ و انْقَشَرَ: چھلکا اترنا۔
تَقَشَّرَ الجِلْدُ: کھال اترنا۔
تَقَشَّرَ الطِّلَاءُ: روغن یا پالش اُترنا۔
قِشْرٌ: چھلکا (۲) بکل (۳) غلاف، جھلّی (۴) چمڑا ج: قُشُور۔
__ الرَّغِيف: روٹی کا پاپڑ۔
__ الجُرْح أو القُرْحَة: کھرنڈ۔
__ السَّمَك: مچھلی کی جھلّی۔
__ الحَيَّةِ المُنْسَلِخ: سانپ کی کانچلی۔
بِقِشْرَة: چھلکوں دار۔
مُقَشَّر، مَقْشُور: چھلا ہوا، بے چھلکا۔
قَشَّ النَّبَاتُ ــُـ قَشًّا: خشک ہونا۔
قَشَّ: جمع کرنا، سمیٹنا۔
قَشٌّ: گھاس پھوس۔
قَشُّ الأَرُزّ: پرالی، دھان کی پرالی۔
مِقَشَّة: پھوس کی جھاڑو۔
قَشَطَ ــُـ قَشْطًا عَنْهُ: کھینچنا، اُتارنا۔

قَشطَ القِشدَة: بالائی اُتارنا۔
قَشَّطَ: (۱) ڈھکن اُتارنا (۲) لُوٹنا۔
قِشطَةُ اللَّبن: بالائی۔
قُساطُ الطَّاوِلَة: میز پر رکھنے کا پتھر۔
مِقشَطُ الكِتَابَة: حرف چھیلنے کا چاقو۔
قَشَعَ ـَ قَشعاً و اَقشَعَ: منتشر کرنا، تیرہ تین بارہ باٹ کرنا۔
اِنقَشَعَ و تَقَشَّعَ: منتشر ہونا، برباد ہونا (۲) بادل چھٹنا (۳) تاریکی دور ہونا۔
اِنقَشَعَتِ الغِشَاوَةُ عَنِ العَین: آنکھوں سے پردہ ہٹنا۔
قَشعَرَ و اقشَعَرَّ: (سردی سے) کانپنا، بدن کے رونگٹے کھڑے ہونا۔
یَقشَعِرُ البَدَنَ: لرزہ خیز۔
قُشَعرِیرَة: کپکپی، لرزہ۔
قُشَعرِیرَةُ الحُمَّی: بخار کا لرزہ۔
قَشُفَ ـُ قَشَافَةً و تَقَشَّفَ: بدحال ہونا، گندہ چلد ہونا۔
تَقَشَّفَ: (ضد تَنَعَّمَ) تنگ حال رہنا، خشک (زاہدانہ) زندگی گزارنا۔
قَشَفٌ، تَقَشُّف: موٹا جھوٹا چلن، زاہدانہ طرزِ عمل۔

ق......ص

قَصَبٌ: نرسل، بانس۔
قَصَبُ السُّكَّر: گنا۔
اَحرَزَ قَصَبَ السَّبقِ: کامیابی حاصل کرنا، فوقیت لے جانا۔
قَصَبَة: نَے، نرسل، بے بنا قلم۔
قَصَبَةُ البِلاد: صدر مقام۔
قَصَبَة و قَصَابَة: پائپ۔
قَصَّاب: قصاب (۲) سروے کرنے والا، زمینوں کی پیمائش کرنے والا۔
قِصَابَة: قصائی کا پیشہ۔
قَصَدَ الرَّجُل و إلیه ـِ قَصداً: جانا (۲) ارادہ کرنا (۳) دل میں سوچنا (۴) رُخ کرنا (۵) بتانا۔
___ و اقتَصَدَ فی: کفایت شعاری کرنا، میانہ روی اختیار کرنا۔
___ . ___ و اَقصَدَ: نظم لکھنا، قصیدہ کہنا۔
تَقَصَّدَ و انقَصَدَ: ٹوٹنا۔
قَصدٌ: ارادہ، نیت، مقصد (۲) میانہ رَوِی، کفایت شعاری۔
بِحُسنِ قَصدٍ: نیک نیتی سے۔
بِسُوءِ قَصدٍ: بدنیتی سے۔
عَن قَصدٍ: بالقصد، بالارادہ۔
قَصداً: بالارادہ (۲) براہِ راست۔
قَصدَکَ، قُصَادَکَ: سامنے۔
قَصِید: بے عیب۔
قَاصِد: پیام رساں۔
القَاصِدُ الرَّسُولِیّ: پیغمبرانہ نمائندہ، ہادیانہ نمائندہ۔
قَاصِدٌ لَهُ: آمادہ۔
القِصَادَة: پیام رسانی۔
اِقتِصَاد: میانہ روی، کفایت شعاری، مال کو خاص تدبیر کے ساتھ خرچ کرنا۔
اِقتِصَادٌ فی: بچت کرنا (۲) بچت، سیونگ۔
اِقتِصَادٌ مُتَحَرِّک: متحرک اقتصادیات، متحرک معاشی حالت۔

اِقْتِصَادٌ مُتَدَهْوِر: خراب اقتصادیات، گرتی ہوئی معاشی حالت۔
اِقْتِصَادُ مَنْزِلٍ: خانگی آمد وخرچ کا نظام۔
الاِقْتِصَادُ المُوَجَّهُ: منصوبہ بند معاشیات۔
الاِقْتِصَادُ المَالِيّ: مالی کفایت شعاری، مالی بچت۔
اِقْتِصَادٌ سَاكِن: منجمد اقتصادیات، منجمد معاشی حالت۔
اِقْتِصَادٌ غَيْرُ مُتَغَيِّر: منجمد اقتصادیات۔
اِقْتِصَادٌ فِي التَّكْلِفَة: اخراجات میں کفایت۔
اِقْتِصَادٌ مُتَأَزِّم: بحران زدہ معاشی حالت۔
عِلْمُ الاِقْتِصَاد: علم معاشیات، وہ علم جس میں دولت کی پیدائش اور تقسیم سے بحث کی جائے۔
اِقْتِصَادِيّ: معاشیات سے متعلق، معاشی، کفایت شعاری سے متعلق (۲) علمِ معاشیات کا ماہر، ماہر اقتصادیات۔
اِقْتِصَادِيّ و مُقْتَصِدٌ: کفایت شعار۔
اِقْتِصَادِيَّةُ التَّكَالِيف: لاگت میں کمی، اخراجات میں کمی۔
اِقْتِصَادِيَّات: علمِ اقتصادیات، اکنامکس۔
مَقْصَد: ارادہ، غرض ج: مَقَاصِد۔
مَقْصِد: جائے روانگی۔
قَصْدِيْر: قلعی، رانگا، رانگ جس سے برتنوں پر قلعی کی جاتی ہے (۲) ٹانکا لگانے کا مسالہ۔
قَصُرَ ـُ قِصَراً: کوتاہ قد ہونا، چھوٹا ہونا (ضد طَالَ)۔
قَصَرَ ـُ قُصُوراً و قَصَرَ عَنْ: مقصد سے ہٹنا، نشانہ پر نہ پہنچنا۔
قَصَرَ الدَّعْوَةَ عَلَى الأَعْضَاء: دعوت ممبران تک محدود رکھنا۔
قَصَّرَ عَنْ: عاجز رہنا (۲) عاجز بنانا۔
قَصَّرَ فِي الأَمْر: کوتاہی کرنا۔
قَصَّرَ و أَقْصَرَ: (ضد اَطَالَ) چھوٹا کرنا، لمبائی کم کرنا۔
قَصَّرَ و اَقْصَرَ الكَلَامَ: کلام مختصر کرنا۔
قَصَرَ ـِ قَصْراً: روکنا (۲) منحصر کرنا (۳) مقید و محدود کرنا۔
اِقْتَصَرَ عَلَى: اکتفا کرنا (۲) محدود رہنا۔
أَقْصَرَ و تَقَاصَرَ عَنِ الأَمْر: عاجز رہنا۔
تَقَاصَرَ: اظہار عجز کرنا (۲) رات کا چھوٹا اور مختصر ہونا۔
اِسْتَقْصَرَه: چھوٹا یا پست قد سمجھنا۔
قَصْرٌ: محل، ہاؤس، پیلس ج: قُصُور۔
___ رِئَاسِيّ، قَصْرُ الرِّئَاسَة: صدارتی محل، راشٹر پتی بھون۔
___ جُمْهُورِيّ: گورنمنٹ ہاؤس۔
___ مَلَكِيّ: شاہی محل۔
___ الضِّيَافَة: شاہی یا سرکاری مہمان خانہ۔
___، قِصَر: خلافِ طُول۔
قَصْرٌ، قُصُور: سستی، کوتاہی۔
قُصَارَى و قُصَار: غایت درجہ، زیادہ سے زیادہ۔
قُصَارَى القَوْل: خلاصہ کلام۔
قُصُور: خامی، خرابی (۲) کم عمری۔
قُصُورٌ فِي الإِدَارَة: انتظامی خامی۔

قَصَّارُ الاَقْمِشَة: دھوبی۔
قَصِير: پست قامت، ناٹا (۲) چھوٹا، شارٹ۔
___ العُمْر: کم عمر۔
___ اليَدِ أو البَاعِ: کمزور، ناتواں۔
___ النَظَر: کوتاہ نظر، تنگ نظر۔
___ الأَجَل: مختصر المیعاد۔
قَاصِر: نابالغ، کم عمر (ضد الرَّاشِد) (۲) لازم ضد متعدی (مِنَ الاَفْعَال)۔
قَاصِرُ اليَد: کوتاہ دست۔
قَصْرِيَّةُ الزَّرْع: (۱) گملا (۲) پیشاب رکھنے کا برتن۔
قَيْصَر: شہنشاہ، ملکِ معظم ج: قَيَاصِرَة۔
قَيْصَرِيّ: شہنشاہی۔
قَيْصَرِيَّة، قِيسَارِيَّة: بازار۔
اِقْتِصَار: کمی، محدودیت۔
تَقْصِير: کوتاہی (۲) کوتاہ قامتی (۳) لاپرواہی، بے توجہی (۴) عیب۔
مُقَصِّر: کوتاہ، لاپرواہ، پس ماندہ، کوتاہ کار۔
مُقَصِّرٌ عَنْ اِتْمَامِ شَيْءٍ: فیل، ناکام۔
مَقْصُور، مُقَصَّر: پست، کم، چھوٹا (۲) محدود۔
نَسِيجٌ مَقْصُور: دھلا ہوا کپڑا۔
مَقْصُورَة: چھوٹا کمرہ، کوٹھڑی ج: مَقَاصِير (۲) سینما گھر یا ہوٹل کا کیبن، بکس (۳) خلوت کا کمرہ۔
مَقْصُورَةُ الصَّحَفِيِّين: پریس گیلری۔
مَقْصُورَةٌ فِي قِطَارٍ: کمپارٹمنٹ، ریل میں چھوٹا کمرہ۔

مُقْتَصَر: مختصر۔
قَصَّص: کاٹنا۔
قَصَّ ـُ قَصًّا: قینچی سے کترنا (۲) ناخن وغیرہ کاٹنا (۳) اون وغیرہ کترنا۔
قَصَّ و اقْتَصَّ: واقعہ بیان کرنا۔
قَصَّ و اقْتَصَّ الاَثَر: نشان پر چلنا۔
اِقْتَصَّ منه و قَاصَّه: سزا دینا۔
اِقْتَصَّ منه: بدلہ لینا۔
قَاصَّه: دوبدو جواب دینا۔
قَصٌّ، قَصَص، قُصَاصَة: کٹنگ۔
قُصَاصَةُ وَرَق: کاغذ کی کترن ج: قُصَاصَا۔
قُصَاصَةُ الصُّحُف: اخبارات کی کٹنگ۔
قِصَاص: (۱) بدلہ (۲) سزا (۳) جرمانہ، پنالٹی۔
قَصَّاص: بکریوں وغیرہ کے بال کترنے والا۔
قَصَّاصَةُ الشَّعْر: بال کاٹنے کی مشین۔
قَصَصِيّ، قَاصٌّ: قصہ نویس، افسانہ نگار، ناولسٹ، افسانہ نویس، واقعہ نگار۔
قِصَّة: واقعہ، کہانی، اسٹوری ج: قِصَص۔
قِصَّةٌ خَيَالِيَّة: ناول۔
قِصَّةٌ اُسْطُورِيَّة: کہاوت، عوامی کہانی، من گھڑت افسانہ۔
قِصَّةٌ بُولِيسِيَّة: جاسوسی ناول۔
قِصَّةُ الحَيَاة: آپ بیتی۔
قِصَّةٌ طَوِيلَة: ناول۔
قِصَّةٌ قَصِيرَة: افسانہ۔
قِصَّةٌ هَزْلِيَّة: مزاحیہ افسانہ۔
قَصَّة: کاٹ، کاٹنے کا طرز۔
قُصَّة: بالوں کی لٹ، پیشانی کے بال۔
مِقَصّ: قینچی۔

قَصَعَ ـَ قَصْعاً: نگلنا۔
قَصْعَة: پیالہ لکڑی کا، بادیہ ج: قِصَاع۔
قَصْعَةُ الشَّرِيطِ الحَدِيدِيّ: ریلوے لائن کا سلیپر۔
قَصَفَ الرَّعْدُ ـِ قَصْفاً: گرج ہونا (۲) توڑنا (۳) کھانے پینے میں مشغول۔
قَصَفَ المَكَانَ بِالقَنَابِل: بمباری کرنا، گولے مارنا، گولہ باری کرنا، دھماکہ کرنا، تباہ کرنا۔
قَصَفَ بِالصَّوَارِيخ: راکٹوں سے حملہ کرنا۔
قَصَفَ الأَهْدَاف: نشانوں پر گولے برسانا۔
قَصَفَ قَصْفاً مُرَكَّزاً: جم کر گولہ باری کرنا۔
قَصْف: گونج، گرج (۲) گولہ باری۔
قَصْفٌ صَارُوخِيّ: راکٹوں سے حملہ۔
قَصْفُ طَيَرَان: فضائی حملہ۔
قَصْفٌ عَشْوَائِيّ: اندھادھند گولہ باری۔
قَصْفٌ كَثِيف: سخت گولہ باری۔
قَصْفٌ مِدْفَعِيّ: توپوں کی گولہ باری۔
قَصْفٌ مُرَكَّز: زبردست گولہ باری۔
قَصْفٌ و قُصُوف: کھانا پینا۔
قَصِفٌ، قَصِيف: جلد الگ ہو جانے والا۔
مِقْصَف: اسٹال ج: مَقَاصِف۔
قَصَلَ ـِ قَصْلاً: کاٹنا۔
مِقْصَلَة: گردن اڑانے کا آلہ۔
قَصَمَ ـِ قَصْماً: توڑنا۔
تَقَصَّمَ و انْقَصَمَ: ٹوٹنا۔
قَصِمٌ، قَصِيم: جلد ٹوٹنے والا۔
قَصَمَ ـِ قَصْماً: توڑنا
قَصْوٌ، قَصَاء: دوری، بُعد۔
قَصِيٌّ، قَاصٍ: دُور۔
قَصِيَ ـَ قَصاً: دوری پر ہونا۔
قَصِيَ و تَقَصَّى عَنْهُمْ: دور ہونا۔
تَقَصَّي و اسْتَقْصَى الأَمْرَ: کسی کام کی انتہائی چھان بین کرنا۔
تَقَصَّى الجَرَائِم: جرائم کی کھوج لگانا۔
تَقَصَّى الحَقَائِق: حقائق کی چھان بین کرنا۔
تَقَصَّى الرَّأْيَ العَامَّ: رائے عامہ معلوم کرنا۔
اِسْتَقْصَى عَنْ: معلومات حاصل کرنا۔
أَقْصَى عَنْ: دور کرنا، ہٹانا، برطرف کرنا۔
أَقْصَى عَنِ المَنْصِب: عہدے سے ہٹانا۔
أَقْصَى الشَّيْءِ: انتہا، آخر، آخری درجہ۔
أَقْصَى مَا يُمْكِنُ: زیادہ سے زیادہ، آخری سے آخری۔
بِأَقْصَى حَدٍّ: زیادہ سے زیادہ۔
بِأَقْصَى سُرْعَةٍ: انتہائی تیزی سے۔
الأَقْصَى: بہت دور ج: أَقَاصٍ۔
الضَّرُورَةُ القُصْوَى: سب سے بڑی ضرورت۔
الغَايَةُ القُصْوَى: اعلیٰ ترین مقصد۔
أَقَاصِي البُلْدَان: دور دراز ممالک۔
تَقَصٍّ، اِسْتِقْصَاء: چھان بین، تحقیق سروے، ریسرچ۔
اِسْتِقْصَاءُ الرَّأْي: رائے شماری۔

ق.........ض

قَضَبَ ـِ قَضْباً و قَضَّبَ الشَّجَرَ: درخت

کی شاخیں کاٹنا۔
اِقْتَضَبَ: (۱) کاٹنا (۲) مختصر کرنا (۳) فی البدیہ اور بے ساختہ کلام کرنا۔
قُضَابَة: شاخوں کا تراشہ۔
قَضِيْب: کٹی ہوئی شاخ (۲) چھڑی (۳) ریل کی پٹڑی ج: قُضْبَان۔
قُضْبَانٌ حَدِيْدِيَّة: لوہے کی پٹڑیاں۔
مِقْضَب: شاخ تراش قینچی۔
مُقْتَضَب: بے ساختہ (۲) مختصر۔
قُضَضٌ، قَضٌّ: پتھروں کا چورا۔
بِقَضِّهِمْ و قَضِيْضِهِمْ: اپنے چھوٹے بڑے جملہ سامان کے ساتھ۔
قَضَّ ـُ قَضًّا: سوراخ کرنا (۲) کترنا (۳) منہدم کرنا (۴) اکھاڑنا۔
قَضَّ و اَقَضَّ الْمَضْجَعُ: کھردرا ہونا، سخت و ناہموار ہونا۔
اَقَضَّ مَضْجَعَه: کھردرا بنانا (۲) نیند حرام کرنا (۳) پریشان کرنا۔
اِنْقَضَّ: (۱) پرندہ کا نیچے اترنا۔
اِنْقَضَّ عليهم: حملہ کرنا، پل پڑنا، ٹوٹ پڑنا۔
قَضَعَ ـَ قَضْعاً: جبر کرنا۔
قَضَع و قُضَاع: مثلی۔
قَضَمَ ـَ قَضْماً: کترنا۔
قَضْمٌ: تلوار۔
قَضَى ـِ قَضَاءً و قَضَى الْعَمَلَ: کام انجام دینا، پورا کرنا۔
___ مِنْه وَطَرَهُ: ضرورت پوری کرنا۔
___ الْوَاجِبَ: فرض ادا کرنا۔
___ الْحَاجَةَ: قضاءِ حاجت کرنا۔
___ حَاجَتَه: حاجت پوری کرنا۔
___ الدَّيْنَ: قرض ادا کرنا۔
___ الْوَقْتَ: وقت صرف کرنا، گزارنا۔
___ الْمُدَّةَ: وقت کو پورا کرنا۔
___ عَلٰى: خاتمہ کرنا (۲) ہلاک کرنا (۳) منسوخ کرنا (۴) ناکام بنانا، ارادوں پر پانی پھیرنا (۵) قتل کرنا (۶) کسی کے خلاف فیصلہ کرنا۔
قَضٰى عَلَيْه بالاِعْدَام: سزائے موت کا حکم دینا۔
___ عَلَى الْبَلْبَلَة: بے چینی ختم کرنا۔
___ عَلٰى اَسْبَابِ الْمُشْكِلَة: مسئلہ کے اسباب کو ختم کرنا۔
___ عَلَى النُّفُوْذ: اقتدار ختم کرنا، اثر و رسوخ ختم کرنا۔
___ عَلَى الْمَشَاعِرِ و الْاَحَاسِيْس: جذبات و احساسات کو ختم کرنا۔
___ له: کسی کے حق میں فیصلہ کرنا۔
___ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ: دو فریق کے درمیان معاملہ طے کرنا، فیصلہ کرنا۔
___ بشيء: کسی بات کا فیصلہ کرنا۔
___ اَجَلَه: عمر پوری کرنا، وفات پانا۔
___ مِنْهُ الْعَجَبَ: تعجب کرنا۔
قُضِيَ و انْقَضٰى: گزرنا۔
قُضِيَ الْاَمْرُ: (۱) معاملہ ختم ہوا (۲) تیر کمان سے نکل گیا (۳) مر گیا۔
قَاضٰى فُلَاناً اِلَى الحَاكِمِ: جج کے پاس کسی کے خلاف مقدمہ لے جانا۔

قَاضَى و اَقام قَضِيَّةً عَلَى: مقدمہ دائر کرنا۔
اِنْقَضَى: ختم ہونا (۲) پورا ہونا (۳) گزرنا۔
اِنْقَضَى الأَجَلُ: عمر پوری ہونا۔
اِنْقَضَى اَجَلُ المُعَاهَدَة: معاہدہ کی مدت کا ختم ہونا۔
اِنْقَضَى الاِلْتِزَامُ: ذمہ داری ختم ہونا۔
اِنْقَضَتِ السَّيْطَرَةُ: اقتدار مٹنا۔
اِنْقَضَتِ المُدَّةُ: مدت گزر جانا، مدت ختم ہو جانا۔
تَقَاضَى الشَّئَ و به: طلب کرنا، وصول کرنا۔
تَقَاضَى الثَّمَنَ: قیمت وصول کرنا۔
تَقَاضَى مُرَتَّباً: تنخواہ لینا۔
تَقَاضَى المُحَامِي عَنِ القَضِيَّةِ مَبْلَغاً: مقدمہ کی پیروی کے لئے وکیل کا رقم طلب کرنا۔
اِقْتَضَى: مقتضی ہونا محتاج ہونا۔
قَضَاء: اتمام، انجام دہی۔
القَضَاءُ عَلَى الاِسْتِعْمَار: خاتمۂ سامراجیت۔
القَضَاءُ عَلَى الاِنْتِهَازِيَّة و الاِسْتِغْلَال: موقع پرستی اور مفاد پرستی کا خاتمہ۔
القَضَاءُ على الحُرِيَّة: آزادی کا خاتمہ۔
القَضَاءُ على المَجَاعَة: فاقہ مستی کا خاتمہ۔
قَضَاء و قَضىً: فیصلہ، جج منٹ (۲) مقدمہ (۳) قانون ج: اَقْضِية۔
قَضَاءُ اللّٰه: موت (۲) تقدیر، قسمت۔
قَضَاءً و قَدَراً: غیر ارادی طور پر، اتفاقاً، ناگہاں۔
بِالقَضَاء و القَدَر: حکم خداوندی سے۔
دَارُ القَضَاء: عدالت، کچہری۔
كُرْسِيُّ القَضَاء: کرسی عدالت۔
قَضَائِيّ: عدالتی۔
حَارِسٌ قَضَائِيّ: قرق کرنے والا۔
قَضَاء: ضلع، تعلقہ (۲) صوبہ ج: اَقْضِيَة
قَضِيَّة ج: قَضَايَا: مقدمہ، کیس (۲) مسئلہ، مختلف فیہ معاملہ۔
___ جِنَائِيَّة: مقدمہ فوجداری۔
___ مَدَنِيَّة: مقدمہ دیوانی، سول کیس۔
___ عِلْمِيَّة: علمی مسئلہ۔
___ خَاسِرَة: ہارا ہوا کیس۔
___ كَبِيرَة: بڑا مقدمہ، بڑا مسئلہ۔
___ مُشْتَرَكَةٌ: مشترکہ مسئلہ۔
___ مَعْرُوضَةٌ لِلْمُنَاقَشَة: زیر بحث مسئلہ۔
___ غَيْرُ مَفْصُولٍ فِيهَا: پینڈنگ میں پڑا ہوا کیس۔
قَضِيَّةُ الحُرِيَّة: آزادی کا مسئلہ۔
مَصَارِيْفُ القَضِيَّة: اخراجاتِ مقدمہ۔
حِفْظُ القَضِيَّة: مقدمہ کو شاملِ مسل کرنا۔
شَطْبُ القَضِيَّة: مقدمہ خارج کرنا۔
اَوْقَفَ القَضِيَّةَ: التوا میں ڈالنا۔
قَضَايَا: مسائل، مقدمات و: قَضِيَّة۔
قَضَايَا دُوَلِيَّة: بین الاقوامی مسائل۔
قَضَايَا ذَاتُ الاِهْتِمَامِ المُشْتَرَكِ: باہمی دلچسپی کے مسائل و معاملات۔
قَضَايَا شَخْصِيَّة: پرسنل لاء۔
قَضَايَا مُعَقَّدَة: پیچیدہ مسائل۔

قَاضٍ: فیصلہ کرنے والا (۲) جج (۳) حاکمِ عدالت (۴) مجسٹریٹ، جسٹس ج: قُضَاۃ۔
قَاضِي الاُمُورِ المُستَعجِلَۃ: مجسٹریٹ برائے ہنگامی امور، اسپیشل مجسٹریٹ۔
قَاضِي الاِستِئنَاف: اپیل جج۔
قَاضِي التَّحقِيق: افسرِ تحقیقات۔
قَاضِي الصُّلح: چھوٹے درجہ کا مجسٹریٹ، معمولی مقدمات طے کرنے والا۔
قَاضِي القُضَاۃ: چیف جسٹس، سپریم جج۔
قَاضٍ عُرفِيّ: ثالث، پنچ، حَکَم۔
قَاضٍ: پورا کرنے والا، مکمل کرنے والا (۲) فیصلہ کُن (۳) مہلک۔
اِقتِضَاء: ضرورت، وقتی یا طبعی تقاضا۔
عِندَ الاِقتِضَاء: وقتِ ضرورت۔
الاِنقِضَاء: اختتام۔
مَقضِيّ: فیصلہ کیا ہوا (۲) پورا کیا ہوا۔
مَقضِيّ عَلَیہ: خاتمہ کیا ہوا۔
مُقتَضَیَات: لوازم، ضروریات۔
بِمُقتَضَي ذٰلِکَ: اس لحاظ سے۔

ق..........ط

قَطَبَ ـُ قَطباً: (۱) جمع کرنا (۲) کاٹنا۔
___ و قَطَّبَ جَبِینَہ: پیشانی پر شکن ڈالنا، شکن پڑنا۔
___ . ___ وَجهَہ: منہ بگاڑنا، ناک بھوں چڑھانا۔
اِستَقطَبَ: جمع کرنا۔
اِستَقطَبَ التَّأیِیدَ: حمایت حاصل کرنا۔
قُطبٌ: محور، مدار (۲) سربراہِ قوم ج: اَقطَاب۔
اَقطَاب: چوٹی کے لیڈر و: قُطب۔
اَقطَابُ السِّیَاسَۃ: چوٹی کے سیاستداں۔
اَقطَابُ الصِّنَاعَۃ: بڑے صنعت کار۔
قَطُوب، قَاطِب: ترش رُو۔
قَاطِبَۃً: تمام، سب کے سب۔
تَقطِیب: چہرہ کا بگاڑ، ترش روئی۔
مُقَطَّبُ الجَبِین: شکن آلود پیشانی والا۔
قَطَرَ المَرکَبَ ـُ قَطراً: گاڑی کھینچنا۔
___ و قَطَّرَ: لائن میں لگانا، قطار میں لگانا۔
___ . ___ المَاءَ: پانی ٹپکانا۔
___ و تَقَطَّرَ المَاءُ: پانی ٹپکنا، بہنا۔
قَطَّرَ المَاءَ: مقطر کرنا، صاف کرنا۔
اِستَقطَرَ الشَّيءَ: نچوڑنا، قطرے نکالنا۔
قَطرٌ: بارش ج: قِطَار۔
قِطَار: (۱) ریل گاڑی، ٹرین (۲) اونٹوں کی قطار، لائن ج: قُطُر۔
قِطَارُ البَضَائِع: مال گاڑی، بیج ٹرین، گوڈس ٹرین۔
قُطَارُ الرُّکَّاب: پاسنجر ٹرین۔
قِطَارُ الرُّکَّابِ البَطِيء: سست رفتار پاسنجر ٹرین۔
القِطَارُ السَّرِیع: اسپیشل ٹرین، فاسٹ ٹرین، ایکسپریس گاڑی۔
قِطَارٌ طَوَّال: ڈائرکٹ ٹرین، لمبے سفر کی گاڑی۔
قِطَارٌ مُتَوَقِّفٌ فِی جَمِیعِ المَحَطَّات: لوکل ٹرین۔
قُطرٌ: ملک، کنٹری (۲) صوبہ (۳) عود، اگر ج: اَقطَار۔

اَقْطَارٌ نَامِيَة: ترقی پذیر ممالک۔
اَقْطَارٌ نَائِيَة: دور دراز ممالک۔
قِطْرٌ: پگھلا ہوا تانبا۔
قَطْرَة: بوند، قطرہ، ڈراپ ج: قَطَرَات۔
قَطْرَةُ العَيْن: آنسو۔
قَطَّارَة: پچکاری، ڈراپر۔
قَاطِرَة: انجن (ریلوے) ج: قَاطِرَات۔
تَقْطِير: صفائی، تنقیہ۔
مِقْطَر، مِقْطَرَة: عود دان۔
قَطْرَنَة: تارکول ڈالنا۔
قِطْرَان: تارکول۔
قَطَّطَ الخَشَبَ: لکڑی کو چھیل کر ہموار کرنا (۲) چھیلنا۔
قَطَّ و قَطِطَ الشَّعْرُ قَطَطاً: بالوں کا چھوٹا اور گھنگریالا ہونا۔
قَطَّ القَلَمَ ـُ قَطّاً: قلم پر خط لگانا۔
قَطَّ ـُ قَطّاً: چھیلنا (۲) نقش کرنا (۳) کھودنا۔
قَطُّ، فَقَطُّ: صرف۔
قَطُّ: بالکل نہیں، ابتک نہیں۔
قَطٌّ: بالوں کی صفت، گھنگھریالے۔
قِطٌّ: بلی (نر) ج: قِطَطَة۔
قِطَّة: بلی (مادہ)۔
قُطَيْطَة: بلی کا بچہ ج: قُطَيْطَات۔
قَطَّاط: خراد کا کام کرنے والا۔
قَطَعَ ـَ قَطْعاً: کاٹنا، کترنا (۲) زخمی کرنا (۳) منقطع کرنا (۴) ختم کرنا۔
__ الرَّجَاءَ: امید منقطع کرنا۔
__ المَسَافَة: فاصلے طے کرنا۔
__ الوَقْتَ: وقت گزارنا۔
__ الاِتِّصَالَ: کنکشن کاٹنا، رابطہ ختم کرنا۔
__ الأَمَلَ: آس توڑنا۔
__ خُطُوطَ التَّمْوِيْن: سپلائی لائن بند کرنا۔
__ الرِّحْلَة: سفر طے کرنا (۲) دورہ ختم کرنا۔
__ العَلَاقَاتِ الدِّبْلُومَاسِيَّة: سفارتی تعلقات ختم کرنا۔
__ العَلَاقَاتِ السِّيَاسِيَّة: ڈپلومیٹک تعلقات منقطع کرنا۔
__ الغَابَاتِ: جنگلات کاٹنا۔
__ كَلِمَتَه بِالتَّصْفِيْقِ الحَادّ: تقریر کے دوران زوردار تالی بجانا۔
__ الكُوبُون: کوپن کاٹنا۔
__ المُكَالَمَة: کال کاٹنا، بات چیت ختم کرنا۔
__ المُكَالَمَةَ التِّلِيفُونِيَّة: ٹیلیفون کال کاٹنا۔
قَطَعَ المُوَاصَلَاتِ: رابطے ختم کرنا۔
__ المَرَاحِلَ: مرحلے طے کرنا۔
__ التَّيَّارَ الكَهْرَبِيّ: سوئچ دبانا (لائٹ بجھانے کے لئے)۔
__ العَهْدَ: عہد کرنا۔
__ الطُّرُقَ: راہزنی کرنا، ڈاکہ ڈالنا۔
__ الطَّرِيْقَ علی: راستہ روکنا۔
__ وَرَقَ اللَّعِب: تاش کے پتے کاٹنا۔
__ دَابِرَه: جڑ اکھاڑنا، خاتمہ کرنا۔
__ لِسَانَه: خاموش کرنا۔
__ عَلَيْه: بات کاٹنا۔
__ عَنْ: محروم کرنا۔

___ الصَّدِيقَ: ترکِ تعلق کرنا۔
___ فِی القَوْلِ: یقین ووثوق سے کہنا، زور کے ساتھ کہنا۔
___ فِیهِ الکَلَامُ: اثر کرنا۔
___ عَقْلَه: قائل کرنا۔
___ تَذْكِرَةً: (۱) ٹکٹ دینا (۲) کاٹنا۔
قَطَّعَ تَقْطِيعاً: ٹکڑے ٹکڑے کرنا (۲) شعر کی تقطیع کرنا۔
قَاطَعَه و اَقْطَعَ عَنْه: علیحدگی اختیار کرنا، بائیکاٹ کرنا۔
اُقَاطِعُ کَلَامَکُمْ: آپ کا قطع کلام ہوتا ہے، میں آپ کا قطع کلام کرتا ہوں۔
اَقْطَعَ النَّهْرَ: نہر کو کاٹ کر دوسری طرف پانی لے جانا۔
اَقْطَعَهُ الاَرْضَ: زمین دینا، الاٹ کرنا۔
اَقْطَعَهُ مَعَاشاً: پنشن دینا۔
قَطِعَ، اِنْقَطَعَ: کٹنا۔
___ التَّيَّارُ: کرنٹ کٹنا
اِنْقَطَعَ التَّيَّارُ الكَهْرَبِیُّ: بجلی غائب ہو جانا۔
اِنْقَطَعَ اِرْسَالُ التِّلْفَازِ: ٹیلی ویژن لائن کٹنا۔
اِنْقَطَعَ الشَّیُ: گیپ ہونا۔
اِنْقَطَعَتْ حَرَكَةُ المُرُوْرِ: ٹریفک بند ہونا، آمدورفت بند ہونا۔
اِنْقَطَعَتِ العَلَاقَةُ بِه: تعلق منقطع ہونا۔
اِنْقَطَعَتِ الحِبَالُ: ذرائع واسباب کا ختم ہوجانا۔
اِقْتَطَعَ مِن: کسی چیز سے ٹکرا لینا (۲)

تنخواہ کا کوئی حصہ وضع کرنا، کٹوتی کرنا۔
اِسْتَقْطَعَ اَرْضاً: زمین الاٹ کرانا، الاٹمنٹ کی درخواست کرنا۔
تَقَاطَعَ الخَطَّانِ: دو خطوں کا ایک دوسروں کو کاٹنا، کراس کرنا۔
قَطْعٌ: سائز ج: اَقْطَاع (۲) کٹنگ (۳) تراش۔
قَطْعٌ كَبِيرٌ اَوْ صَغِيرٌ: بڑا یا چھوٹا سائز۔
قَطْعُ الطُّرُقِ: راہ زنی۔
قَطْعُ العَلَائِقِ: قطعِ تعلق۔
قَطْعاً: بے شک (۲) بالکل نہیں۔
قَطْعِیّ: حتمی، آخری۔
قَاطِعٌ: تیز (۲) فیصلہ کن، قطعی (۳) لاجواب (۴) تُرش۔
قَاطِعُ الطُّرُقِ: ڈاکو، رہزن۔
قَاطِعُ التَّذَاكِرِ (فی قِطَارٍ او اُوْ تُوبُوس): کنڈیکٹر۔
قَطَّاع: کٹر، کاٹنے کا اوزار۔
قَطَّاعِی: (۱) خُردہ، رٹیل۔
بالقَطَّاعِی: خُردہ میں، رٹیل میں۔
تَاجِرُ القَطَّاعِی: خردہ فروش۔
قِطَاع: سیکشن، شعبہ، سیکٹر، میدان، علاقہ، کسی چیز کا حصہ۔
قِطَاعٌ حُكُومِیٌّ: سرکاری سیکٹر۔
قِطَاعٌ خَاصٌّ: پرائیویٹ سیکٹر۔
قِطَاعٌ عَامٌّ: پبلک سیکٹر۔
قِطَاعٌ مَدَنِیٌّ: سول سیکٹر۔
قِطَاعَاتُ المَدِينَةِ: شہر کے سیکٹر، حصے۔
قِطَاعَاتُ العَمَلِيَّاتِ: کارروائیوں کے سیکٹر۔

قِطْعَة: ٹکڑا، حصہ، پیس، پارٹ، کوپن ج: قِطَع۔

قِطعَةُ اَرْضٍ: پلاٹ، قطعہ زمین۔

قِطعَةُ الغِیار: فالتو پرزہ۔

قِطَعٌ نَقدِیَّةٌ صَغِیرَة: چینج ریز گاری۔

قِطَعُ الغِیار: فالتو پرزے۔

قَطُوع: (ا) پارٹیشن، کسی جگہ کو الگ کرنے والی چیز یا دیوار ج: قَوَاطِیعُ۔

قَطِیع: قطار، بکریوں کا گلہ، ریوڑ (۲) جانوروں کا گلہ ج: قُطعَان۔

قَطِیعَة: بے تعلقی، علیحدگی۔

قَطِیعَة، اِقْطَاعَة: جاگیر ج: اِقْطَاعَات۔

اِقْطَاعِیّ: جاگیردار، زمیندار (۲) جاگیر کا، جاگیری طریقہ کا یا اس سے مشابہ۔

اِقْطَاعِیَّة: جاگیرداری۔

اِنْقِطَاع: بندش، رکاوٹ، خاتمہ۔

تَقَطُّع: ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔

تَقْطِیع: سائز (۲) قدوقامت (۳) پیٹ میں مروڑ۔

تَقَاطِیعُ الوَجه: چہرہ کے خط وخال۔

تَقَاطُعُ الشَّوَارِع: سڑک کا موڑ، چوراہا۔

نُقْطَةُ التَّقَاطُع: مرکزِ اتصال (۲) ریلوے جنکشن۔

اِسْتِقْطَاعَات: وضع کردہ حصے، منہا کردہ حصے۔

مَقْطَعُ النَّهر: نہر کے گزرنے کی جگہ۔

مَقْطَعُ الطُرُق: کراسنگ، وہ جگہ جہاں سے مختلف راستے نکلتے ہوں، چوراہا۔

مَقْطَعٌ لِعُبُورِ القِطَار: ریلوے کراسنگ پھاٹک۔

مِقْطَع: کاٹنے کا آلہ، چاقو۔

مُقَاطَعَة: (ا) علیحدگی، بائیکاٹ (۲) انتظامی علاقہ، صوبہ ج: مُقَاطَعَات۔

مُقَاطَعَةٌ اِقْتِصَادِیَّة: اقتصادی ناکہ بندی۔

مُقَاطَعَةٌ تِجَارِیَّة: تجارتی بائیکاٹ۔

مُقَاطِعاً كَلَامَكُمْ: آپ کا قطع کلام ہوتا ہے۔

مُتَقَطِّعاً: رُک رُک کے، وقفہ سے۔

قَطَفَ ـــ قَطْفاً: پھول توڑنا، پھل توڑنا (۲) اُچکنا۔

قِطْف: ٹوٹے ہوئے پھول یا پھل ج: قُطُوف۔

قِطَاف: پھل توڑنے کا موسم۔

قَطِیفَة: مخمل (۲) نقلی مخمل (۳) مخمل جیسا سوتی کپڑا: قَطَائِف و قُطُف۔

قَطِیفَةُ المَفرُوشَات: پلاش، ایک قسم کا مخمل کی طرح ملائم سوتی کپڑا۔

مِقْطَف: درانتی۔

مُقْتَطَف: اقتباس۔

مُقْتَطَفَات: اقتباسات، منتخبات۔

قَطَلَ ـُ قَطْلاً و قَطَّلَ: کاٹنا۔

قَطِیلَة: تولیہ۔

قَطَمَ ـــ قَطْماً: دانتوں سے کاٹنا۔

مَقْطَم: ذائقہ، ٹیسٹ۔

مِقْطَم: پنجہ ج: مَقَاطِم۔

قِطْمِیر، قِطْمَار: گٹھلی اور کھجور کے درمیان کی جھلی۔

قَطَنَ فِی المَکانِ و بہ ـُـ قُطُوناً: رہنا، آباد ہونا۔
قَطَّنَ: بسانا، آباد کرنا۔
قُطْنٌ: روئی، کاٹن۔
قُطْنِیّ: روئی کا (۲) سوتی۔
مَقْطَنَة: روئی کا کھیت۔
یَقْطِین: کدو کی بیل (۲) گول کدو۔

ق .... ع

قَعَدَ ـُـ قُعُوداً: بیٹھنا۔
___ لہ: گھات میں لگنا، تاک میں لگنا۔
___ عَنْ: چھوڑنا (۲) رُکنا۔
___ و اَقْعَدَ بالمَکان: مقیم رہنا۔
___ بہ و اَقْعَدَہُ: بٹھانا (۲) حوصلہ پست کرنا۔
تَقَعَّدَ و تَقَاعَدَ عَنْ: دست بردار ہونا۔
تَقَاعَدَ عَنْ: چھوڑنا، بیٹھ رہنا۔
تَقَاعَدَ: ریٹائر ہونا۔
قَعَدٌ: کم ہمت لوگ جو جنگ میں نہ جائیں، گھر بیٹھے رہیں۔
قَعْدَة: بیٹھک، نشست۔
قُعَدَة: اپاہج، نکما، سست و کاہل۔
قَعِیْدٌ: ہم نشین (۲) نگراں۔
قَاعِدُ الھِمَّة: کم ہمت۔
قَـاعِـدَة: بنیاد، بیس، فاؤنڈیشن (۲) پایہ (۳) عمارت کی کرسی (۴) اصول و ضابطہ (۵) طرز، نمونہ، فارمولا (۶) اڈہ ج: قَوَاعِد۔
قَاعِدَةُ البِلاد: ملک کا صدر مقام۔
قَاعِدَةٌ ثَابِتَة: مقررہ ضابطہ۔
قَاعِدَةٌ بَحْرِیَّة: بحری اڈہ۔
قَاعِدَةُ البِنَاء: عمارت کی کرسی۔
قَاعِدَةٌ جَوِّیَة: فضائی اڈہ، فوجی فضائی ٹھکانہ۔
قَاعِدَةٌ حَرْبِیَّة: جنگی اڈہ۔
قَاعِدَةٌ صُلْبَة: ٹھوس بنیاد۔
قَاعِدَةٌ عَسْکَرِیَّة: فوجی اڈہ۔
قَاعِدِیّ: بنیادی، اصولی، بیک۔
قَوَاعِدُ المِیزَانِیَّة: بجٹ کے ضوابط۔
تَقَاعُد: ترکِ عمل، دست برداری، ریٹائر منٹ۔
مَعَاشُ تقَاعُدٍ: پنشن۔
مَعَاشُ تَقَاعُدِ الشَّیْخُوخَة: بڑھاپے کا الاؤنس۔
مَقْعَد: جگہ، سیٹ، بنچ، صوفہ ج: مَقَاعِد
مَقْعَدُ القَاضِی: کرسیِ عدالت۔
مَقْعَدٌ طَوِیْلٌ: بینچ۔
مَقْعَدَةُ السِّرْوَال: پاجامہ کا رومال۔
مَقَاعِدُ المَجْلِسِ النِّیَابِیّ: پارلیمنٹری سیٹیں۔
مُتَقَاعِد: پنشنر، ریٹائرڈ۔
قَعُرَ ـُـ قَعَارَة: گہرا ہونا۔
قَعَرَ ـَـ قَعْراً و قَعَّرَ: گہرا کرنا۔
قَعَّرَ: کھوکھلا کرنا (۲) چیخنا۔
تَقَعَّرَ: گہرا ہونا (ضد تحدَّبَ)۔
قَعْرٌ: تلی (۲) گہرائی ج: قُعُور۔
مُقَعَّر: (ضد مُحدَّب) گہرا۔
قَـعِسَ ـَـ قَعَساً: سینہ باہر اور پیٹھ کا اندر ہونا (ضد حَدِبَ)۔
تَـقَـاعَـسَ عَنِ الاَمْر: باز رہنا، کسی کام سے پیچھے ہٹنا۔
تَـقَـاعَـسَ عَنِ المَسْئُولِیَّة: ذمہ داری سے پیچھے ہٹنا۔

قَعقَعَةُ السِلاحِ: ہتھیاروں کی جھنکار۔
قَعقَعَةُ الرَّعد: گرج کی آواز۔
اَقعَی الکَلبُ اِقعاءً: کتے کا بیٹھنا، پیر کھڑے کر کے بیٹھنا۔

ق.........ف

قَفَرَ الاَثَرَ ـُ قَفراً و اقتَفَرَ: نشان پر چلنا، نشان تلاش کرنا۔
اَقفَرَ المَکانُ: جگہ خالی ہونا۔
اَقفَرَ المَکانَ: جگہ کو خالی کرنا۔
قَفرٌ: بے آب وگیاہ، ویران، خالی، اُجاڑ ج: قِفارٌ۔
خُبزٌ قَفارٌ و قَفرٌ: روکھی روٹی۔
قَفِیرُ النَّحل: شہد کی مکھیوں کا چھتہ۔
قَفَزَ ـِ قَفزاً: اچھلنا، کودنا، جمپ لگانا۔
قَفَزَ العَدَدُ اِلی کذا: تعداد بڑھنا۔
تَقَفَّزَ: دستانہ پہننا۔
قَفزٌ: چھلانگ، جمپ۔
قَفزَةٌ کَبِیرَةٌ: بڑی چھلانگ، ترقی۔
قُفّازٌ: دستانہ ج: قَفافِیزُ۔
قَفَصٌ: پنجرہ ج: اَقفاص۔
قَفَصُ المُجرِمِین، قَفَصُ الاتِّهام: مجرموں کا کٹہرا، عدالت کا کٹہرا۔
قُفطان: ایک قسم کا زنانہ لباس۔
قُفَّةٌ: کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ٹوکری ج: قُفَفٌ۔
قُفَّة، قُفُوفٌ: لرزہ، کپکپی۔
قَفقَفَ و تَقَفقَفَ مِنَ البَردِ: لرزنا۔
قَفَلَ ـُ قُفُولاً: لوٹنا (۲) غلہ وغیرہ کا اسٹاک کرنا۔
قَفَلَ و اَقفَلَ: بند کرنا (۲) نل کی ٹونٹی بند کرنا (۳) لائٹ بند کرنا۔
قَفَلَ الدَّفاتِرَ: رجسٹر بند کرنا۔
قَفَّلَ و اَقفَلَ: تالا ڈالنا، لاک کرنا، بند کرنا۔
اَقفَلَ المُؤَسَّسَةَ: ادارہ بند کر دینا۔
اَقفَلَ الحَدِیثَ مَعَ اَحَدٍ: بات چیت بند کرنا۔
اَقفَلَ الحِسابَ: حساب بند کرنا۔
اَقفَلَ المَحضَرَ: رجسٹر بند کرنا۔
قُفل: تالا، لاک ج: اَقفال۔
قَفّال، قُفلانِیّ: قفل ساز (۲) تالا فروش۔
مُقفِل: لاکر۔
مُقفَل: بند، لاک۔
قَفاهُ ـُ قَفواً و اقتَفاهُ: پیچھے چلنا۔
اِقتَفی اثرہ: نقش قدم پر چلنا، نشان تلاش کرنا۔
قَفَّی فُلاناً زَیداً اَو بہ: پیچھے لگانا، نقش قدم پر چلانا۔
قَفا، قَفاءٌ: گدی (۲) پشت۔
قَفا القُماش: کپڑے کا الٹا رخ۔

ق.........ق

قاقُلَّة: الائچی۔

ق.........ل

قَلَبَ ـِ قَلباً: پلٹنا، الٹنا، برعکس کرنا، الٹا کرنا، اوندھا کرنا۔
قَلَّبَ الاَمرَ بِعَقلِه: کوئی بات دماغ یا ذہن میں گھمانا۔
قَلَّبَ الاَمرَ عَلی وُجُوهِ المُختَلِفَة: معاملہ کے مختلف پہلوؤں کو دیکھنا۔
قَلَّبَ المَوازِینَ فِی المِنطَقَة: علاقہ کا

توازن بگاڑنا۔

قَلَبَ المَسْئَلَةَ عَلٰی جَمِيعِ وُجُوهِهَا: مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر غور کرنا۔

تَقَلَّبَ: پلٹنا (۲) متغیر ہونا (۲) کروٹ لینا۔

قَلْبٌ: تبدیلی (۲) عکس (۳) دل ج: قُلُوب۔

قَلْبٌ (۲): دماغ (۲) عقل (۳) باطن۔

قَلْبٌ (۳): جوف، وسط (۲) قوت، دل گردہ، بہادری۔

قَلْبٌ عَفِيفٌ طَاهِرٌ: پاک وصاف دل۔

قَلْبٌ ج: قُلُوبَات و قِلَبَة: بادام یا اخروٹ کی گری۔

قَلْباً و قَالَباً: دل وجان سے۔

عَرَبَةٌ قَلَّابَةٌ: سامان ڈھونے کی گاڑی۔

قَالِب: سانچہ ج: قَوَالِب۔

تَقَلُّب: تغیر، اتار چڑھاؤ (۲) غیر مستقل مزاجی۔

تَقَلُّبَاتٌ: اتار چڑھاؤ، تغیرات، تبدیلیاں، انقلابات۔

تَقَلُّبَاتُ الأَسْعَار: نرخوں کی تبدیلیاں۔

تَقَلُّبَاتٌ لَا مُبَرِّرَ لَهَا: بے وجہ تبدیلیاں۔

تَقَلُّبَاتٌ مَوْسِمِيَّةٌ: موسمی تبدیلیاں، موسمی تغیرات۔

اِنْقِلَابٌ عَسْكَرِيٌّ: فوجی انقلاب۔

اِنْقِلَابٌ عَسْكَرِيٌّ فَاشِل: ناکام فوجی انقلاب۔

اِنْقِلَابٌ فَاشِل: ناکام انقلاب۔

اِنْقِلَابٌ قَامَتْ بِهِ قُوَّاتُ الجَيْش: فوجی انقلاب۔

مُتَقَلِّبُ الأَطْوَار: غیر مستقل مزاج۔

مُنْقَلَب: انجام (۲) مدار۔

قَلَدَ: گلے میں ہار ڈالنا (۲) نقل کرنا، تقلید کرنا، اتباع کرنا (۳) کاپی بنانا۔

قَلَّدَهُ المَسْئُولِيَّةَ: ذمہ داری سپرد کرنا۔

تَقَلَّدَ: ہار پہننا (۲) گلے میں ڈالنا (۳) قبول کرنا، ذمہ لینا۔

تَقَلَّدَ الأُمُورَ: کام سنبھالنا۔

تَقَلَّدَ المَنْصِبَ: عہدہ سنبھالنا۔

تَقَلَّدَ بِفُلَانٍ: نقش قدم پر چلنا۔

قِلَادَة: ہار ج: قَلَائِد۔

تَقْلِيد: رسم، روایت ج: تَقَالِيد۔

التَّقْلِيدُ المُتَّبَعُ: مُروّجہ رسم۔

تَقْلِيدِيّ: روایتی، کلاسیکل، قدیم۔

تَقْلِيدِيّ: روایت پسند ج: تَقْلِيدِيُّون۔

تَقَالِيدُ: رسم ورواج، روایات، آداب۔

التَّقَالِيدُ الإِقْطَاعِيَّةُ: جاگیردارانہ رسم و رواج۔

تَقَالِيدُ وِرَاثِيَّة: آبائی رسم ورواج۔

مِقْلَد، مِقْلَاد: چابی، باگ۔

مَقَالِيدُ الأُمُور: کاموں کی ذمہ داریاں۔

قُلْزُم: بحر احمر۔

قَلَسَ ـِ قَلْساً: گانے کے ساتھ ناچنا (۲) جی متلانا۔

قَلَّسَ لَه: کسی کے سامنے جھکنا۔

قَلَّسَهُ: ٹوپی اڑھانا۔

قَلْسٌ: موٹی رسی ج: أَقْلَاس و قُلُوس۔

قَلَنْسُوَة: ٹوپی ج: قَلَانِس۔

قَلَّصَ: سمیٹنا، اوپر چڑھانا۔
قَلَصَ ۔ قُلُوصاً و تَقَلَّصَ: سمٹنا، سکڑنا۔
تَقَلَّصَ الظِّلُّ: سایہ کم ہونا۔
تَقَلَّصَ الاِنْتَاجُ: پیداوار کم ہونا۔
تَقَلَّصَ النُّفُوذُ: اثر ورسوخ کم ہونا۔
تَقَلَّصَتِ الفَجْوَةُ: خلیج کم ہونا۔
تَقَلَّصَتِ التِّجَارَةُ: تجارت کا دائرہ کم ہونا۔
قَلاوُوظ: (۱) بحری جہاز کا پائلٹ۔
قَلَعَ ۔ قَلْعاً و قَلَّعَ و اقْتَلَعَ: اکھاڑنا، جڑ سے نکالنا (۲) کپڑا اتارنا۔
اَقْلَعَ المَرْكَبُ: جہاز کا لنگر اٹھانا۔
اَقْلَعَ عَنْ: چھوڑنا، باز رہنا۔
اَقْلَعَتِ الطَّائِرَةُ مِنَ المَطَار: ہوائی جہاز کا روانہ ہونا۔
اِقْتَلَعَ جُذُوْرَ التَّفْرِقَةِ الْعُنْصُرِيَّةِ: نسلی امتیاز کا قلع قمع کرنا۔
اِقْتَلَعَ السُّلْطَةَ مِنْ: اقتدار چھین لینا۔
قِلْعُ السَّفِيْنَةِ: بادبان ج: قُلُوع۔
قَلْعَة: محل، قلعہ (۲) ٹاور ج: قِلاع۔
قَلْعَةٌ مَنِيْعَة: مضبوط قلعہ۔
قَلْعَةٌ حَصِيْنَة: محفوظ قلعہ۔
مِقْلاع: پتھر پھینکنے کا ایک قدیم آلہ، گوپیا۔
قَلَفَ الشَّجَرَ ۔ قَلْفاً: چھال اتارنا۔
قِلْفٌ، قُلافَة: درخت کی چھال۔
اَقْلَفُ: غیر مختون ج: قُلْف۔
قَلِقَ ۔ قَلَقاً: پریشان ہونا، بے چین ہونا۔
اَقْلَقَهُ: بے چین بنانا، پریشان کرنا۔
قَلَقٌ: پریشانی، آزردگی، تشویش، اداسی۔
قَلَقٌ بَالِغ: زبردست تشویش۔
قَلَقٌ عَمِيْق: گہری تشویش۔
قَلَقٌ كَبِيْر: زبردست تشویش۔
قَلِق: مضطرب، بے چین، پریشان، مشوش، اداس۔
مُقْلِق: تشویش انگیز، پریشان کن۔
قُلْقَاس: اروی (ایک ترکاری)۔
قَلْقَلَ: ہلانا (۲) جھنجھوڑنا (۳) پریشان کرنا۔
تَقَلْقَلَ: ہلنا، پریشان ہونا۔
تَقَلْقَلَ مِنْ مَكَانِهِ: جگہ سے ہلنا۔
قَلْقَلَة: اضطراب، بے اطمینانی ج: قَلاقِل۔
مُقَلْقِل: غیر اطمینان بخش۔
قَلَّلَ، اَقَلَّ: کم کرنا۔
قَلَّلَ مِنْ شَأنِهِ: حیثیت گھٹانا۔
اَقَلَّ الشَّيْءَ: اٹھانا، لادنا (۲) لے جانا، منتقل کرنا۔
قَلَّ ۔ قِلَّةً: کم ہونا، تھوڑا ہونا، کمیاب ہونا۔
قَلَّ عَنْ: ناقص ہونا، گھٹ جانا۔
قَلَّمَا: بہت کم، شاذ و نادر، شاید باید۔
اِسْتَقَلَّ الشَّيْءَ: اٹھانا (۲) تھوڑا سمجھنا (۳) حقیر سمجھنا۔
اِسْتَقَلَّ الرَّجُلُ: مستقل ہونا (۲) خودمختار ہونا۔
اِسْتَقَلَّ فِي رَأْيِهِ: ذی رائے ہونا، اپنی رائے کا مختار ہونا۔
اِسْتَقَلَّ بَاخِرَةً، عَرَبَةً، قِطَاراً وغَيْرَهُ: سفر کرنا (کسی سواری پر)۔
قُلَّة: چوٹی (۲) پانی کا گھڑا ج: قُلَل۔
قِلَّة: شارٹیج، کمی۔

قِلَّةُ اختِبَارٍ: ناتجربہ کاری۔
قِلَّةُ الاستِهلَاک: کھپت کی کمی۔
قِلَّةُ الخِبرَة: ناتجربہ کاری۔
قِلَّةُ السُّکَّان: آبادی کی قلت۔
قُلٌّ، قِلٌّ: تھوڑا مال، بقدرِ کفایت۔
قَلِیل: تھوڑا، کم، معمولی۔
قَلِیلُ الادَب: بدتہذیب، بے ادب۔
قَلِیلُ الحَیَاء: بے شرم۔
قَلِیلُ الوُجُود: کمیاب۔
قَلِیلُ العَدَد: کم یا تھوڑی تعداد میں۔
قَلِیلُ الخِبرَة: ناتجربہ کار۔
اَقَلُّ: کمترین، کم درجہ۔
عَلَی الاَقَلِّ: کم از کم۔
اِستِقلَال: خودمختاری، آزادی۔
اِستِقلَالٌ اِدَارِیّ: سیلف گورنمنٹ، داخلی خودمختاری۔
اِستِقلَالٌ سِیَاسِیّ: سیاسی خودمختاری۔
الاستِقلَالُ عَن: علیحدگی، سبکدوشی۔
الاستِقلَالُ الوَطَنِیّ: قومی خودمختاری، ملکی خودمختاری۔
مُستَقِلّ: خودمختار، آزاد۔
قَلَمَ ـــ قَلماً و قَلَّمَ: تراشنا، ناخن یا درخت کی بڑھی ہوئی شاخیں کاٹنا۔
قَلَم: قلم ج: اَقلام۔
قَلَمُ اَردُوَازٍ: سلیٹ پنسل۔
قَلَمُ بَسطٍ (قَصَب): نرسل کا قلم۔
قَلَمُ (رَصَاص): پنسل۔
قَلَمُ حِبرٍ: فونٹین پین۔
قَلَمُ جَدوَلٍ: (مِسطَار) خط کش۔
قَلَمُ کُوبِیَة: (۱) کاپنگ پنسل، نقل بنانے کا قلم۔
قَلَم (۲): طرزِ کتابت، لکھائی (۲) خط، لمبی لکیر (۳) حسابی مد (۴) دفتر (۵) محکمہ، ڈپارٹمنٹ (۶) شعبہ۔
قَلَمُ الادَارَة: ہیڈ آفس۔
___ الاستِعلَامَات: انکوائری آفس۔
___ الحِسَابَات: صیغۂ محاسبی۔
___ الحِسَابَات بِالبَنک: بینک کا لیجر ڈیپارٹمنٹ۔
___ التَّثمِین: کاسٹنگ ڈپارٹمنٹ۔
___ التَّحرِیر: ادارۂ تحریر۔
___ التَّحصِیل: محکمۂ وصولیابی۔
___ التَّصدِیر: ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ۔
___ التَّعوِیضَات: کلیم ڈپارٹمنٹ۔
___ الخَزِینَة: محکمۂ خزانہ، کیش ڈپارٹمنٹ۔
___ التَّسجِیل: رجسٹری آفس۔
___ کُتَّابِ المَحکَمَة: کورٹ رجسٹرار آفس۔
___ الکَمبِیَالَات: بل ڈپارٹمنٹ۔
___ المُخَابَرَاتِ الحَربِیَّة: محکمۂ اطلاعاتِ جنگ۔
___ المُخَابَرَاتِ السِّرِّیَّة: محکمۂ سراغ رسانی، محکمۂ اطلاعات جنگ۔
___ مُرَاجَعَةِ الحِسَابَات: آڈٹ آفس۔
قُلَامَة: کترن، تراشہ۔
قَلَّمَا: بہت کم، شاذ و نادر۔
اِقلِیم: ملک (۲) صوبہ (۳) ضلع (۴) علاقہ (۵) موسم، آب و ہوا ج: اَقَالِیم۔
اِقلِیمٌ مُتَمَتِّعٌ بِالحُکمِ الذَّاتِیّ:

خودمختار صوبہ۔
اِقْلِیمِیّ: صوبائی، ریجنل (۲) ملکی (۳) موسمی۔
مَجْلِسٌ اِقْلِیمِیّ: علاقائی کونسل، صوبائی اسمبلی۔
مِقْلَمَة: قلمدان (۲) قلم تراش۔
قَلَنْسُوَة: ٹوپی ج: قَلَانِس۔
تَقَلْنُس: ٹوپی اوڑھنا۔
قَلَى ـــ قَلْياً: بھوننا، تلنا، فرائی کرنا۔
قَلِيَ ـــ قِلًى: دشمنی رکھنا، بغض رکھنا۔
مِقْلَى، مِقْلاة: فرائنگ پن۔
مَقْلِيّ: تلا ہوا، بھنا ہوا۔
مَقْلِيَات: تلی ہوئی چیزیں۔

ق............م

قَمْح: گیہوں۔
قَمْحَة: گیہوں کا دانہ (۲) آدھی رتی برابر۔
قَمَّاح: گیہوں فروش۔
قَمِرَ ـــ قَمَراً: روشن ہونا، سفید ہونا۔
قَمَرَ ـــ قَمْراً و قَامَرَ: جوا کھیلنا۔
قَامَرَ علی کِیَانِه: اپنے وجود کو داؤ پر لگانا، جان کی بازی لگا دینا۔
اَقْمَرَ اللَّيْلُ: رات کا چاند سے روشن ہونا۔
لَيْلَةٌ مُقْمِرَة: چاندنی رات۔
قَمَرٌ صِنَاعِيّ: مصنوعی سیارہ۔
قَمَرِيّ: چاند جیسا۔
قَمْرَة: (وا) کیبن، کمرہ۔
قِمَار، مُقَامَرَة: جوا۔
قَامِرٌ: جوئے باز۔
مُقَامَرَةٌ سِيَاسِيَّة: سیاسی جوا، سیاسی داؤ۔

قَمَسَ ـــ قَمْساً و قُمُوساً: غوطہ لگانا۔
قَامُوس: بڑا سمندر (۲) ڈکشنری ج: قَوَامِيس۔
قَمَشَ ـــ قَمْشاً و قَمَّش: کپڑے کو سمیٹنا (۲) سلوٹ ڈالنا۔
قُمَاش: ردّی (۲) کپڑا ج: اَقْمِشَة۔
قُمَاشُ الْبَيْت: فرنیچر۔
قُمَاشُ الْبِطَانَة: استر کا کپڑا۔
قُمَاشٌ جَاهِز: تیار شدہ کپڑا۔
قُمَاشٌ مُشَمَّع: آئل کلاتھ۔
قُمَاشٌ قُطْنِيّ: سوتی کپڑا، کاٹن کلاتھ۔
قُمْصَانٌ رِجَالِيَة: مردانہ کرتے۔
قُمْصَانٌ فی قِيَاسَاتٍ مُخْتَلِفَة: مختلف سائز کے کرتے۔
قَمْع: خاتمہ، صفایا۔
قَمْعُ الافکار: آزادی سلب کرنا۔
قَمْعُ الحُرِّيَة: آزادی ختم کرنا۔
قَمْعٌ عَسْكَرِيّ: فوجی کارروائی۔
قُمَامَة ج: قُمَامَات: کوڑا کرکٹ۔
قِمَّة: آخری حد، ہائی، ٹاپ کا (۲) چوٹی، چوٹی کانفرنس۔
قِمَّةُ الاِنْتِصَارِ السِّيَاسِيّ: عظیم سیاسی کامیابی۔
قِمَّةُ التَّأَلُّق: انتہائی چمک۔
قِمَّةٌ عَرَبِيَّة: عرب سربراہ کانفرنس۔
فِی قِمَّةِ السَّعَادَة: انتہائی خوش۔

ق............ن

قِنَّب: سن کا درخت۔
قُنْبُلَة: بم ج: قَنَابِل۔
قُنْبُلَةٌ تِلِفِزْيُونِيَّة: ٹیلی ویژن بم۔
قُنْبُلَةٌ ذَرِّيَّة: ایٹم بم۔

قُنبلَةٌ زَمَنِيَّةٌ: ٹائم بم۔
القُنبلَةُ الصَّارُوخِيَّة: راکٹ بم۔
قُنبلَةُ الغازِ المُسِيلِ للدُّمُوع: آنسو گیس کا گولہ۔
قُنبلَةٌ مُسِيلَةٌ للدُّمُوع: آنسو گیس کا گولہ۔
قُنبلَةٌ مُوَقُوتَة: ٹائم بم۔
القُنبلَةُ الهِيدُرُوجِينِيَة: ہائیڈروجن بم۔
قَنَصٌ: شکار۔
قَنَّاص: شکاری۔
قَنَّاصَات: پیچھا کرنے والے جہاز۔
اِقتِنَاصُ السُّلطَة: اختیارات حاصل کرنا۔
قُنصُلٌ: کونسل۔
قُنصُلٌ عَامٌ: جنرل کونسلر، کونسل جنرل۔
قُنصُلٌ فَخرِيٌ: اعزازی کونسل، آنریری کونسل۔
قُنصُلِيٌ: کونسل سے متعلق۔
قُنصُلِيَّة: کونسلیٹ، کونسل خانہ۔
قُنصُلِيَّةٌ عامة: جنرل کونسلیٹ۔
قَنطَرَ البِنَاءَ: ڈاٹ لگانا۔
تَقَنطَرَ: بھرسٹ ہونا۔
قَنطَرَة: ڈاٹ کا پُل (۲) بلند عمارت (۳) ڈاٹ ج: قَنَاطِر۔
بَابُ القَنطَرَة: پانی روکنے کا دروازہ۔
قَنَاطِرُ البِنَاء: نصف دائرہ نما ڈاٹیں۔
قِنطَار: ایک وزن ۱۲۱ رطل مصری۔
قَنِعَ ـــ قَنعاً و اقتَنَعَ بکذا: اکتفا کرنا، قائل ہونا، تسلیم کرنا، ماننا، مطمئن ہونا۔
قَنَّعَ الوَجهَ: چہرہ پر نقاب ڈالنا۔
قَنَّعَ، اَقنَعَ: قائل کرنا، تشفی کرنا، مطمئن کرنا، رضامند کرنا (۲) منوانا (۳) قانع بنانا۔
اَقنَعَ الاِنَاءَ: برتن کو پانی نکالنے کے لئے ترچھا کرنا۔
تَقَنَّعَ بِالقِنَاع: لقاب اوڑھنا، گھونگھٹ کرنا۔
قِنعٌ، قِنَاعٌ: نقاب، آنچل، مفلر ج: اَقنِعَة۔
قِنَاعُ التَنَكُّر: مصنوعی چہرہ جو کاغذ وغیرہ کا منہ پر لگایا جاتا ہے۔
قِنَاعُ التَّستُّر: برقع۔
قِنَاعُ الوِقَايَة: گیس وغیرہ سے بچاؤ کا نقاب جو پورے چہرہ کو ڈھانپتا ہے۔
قِنَاعُ الغَازِ: گیس بچاؤ نقاب، گیس ماسک۔
کَشفَ القِنَاعَ: پردہ ہٹانا، حقیقت ظاہر کرنا۔
قَنَاعَة: یقین، انشراح، اطمینان۔
قَنَاعِيَّة: اقرار، مسلمہ حقیقت۔
اِقتِنَاعُ المُجتَمَعِ الدُّوَلِيِّ: بین الاقوامی برادری کی رضامندی۔
اِقنَاعِيّ، مُقنِع: تشفی بخش، قابلِ تسلیم۔
قَانِع، مُقتَنِع بکذا: مطمئن، راضی۔
قُنفُذ: خاردار چوہا ج: قَنَافِذ۔
قَنَال: نہر۔
قَنَّنَ: قواعد وضوابط بنانا، قانون بنانا۔
اِقتِنَان: غلام بنانا۔
قِنٌّ: غلام ج: اَقنَان۔
قُنٌّ: مرغی خانہ ج: اَقنَان۔
قُنُّ القَمِيص: کف۔
قُنَّة: پہاڑ کی چوٹی۔
قُنُونَة، قِنَانَة: غلامی۔

قِنِّینَة: بوتل (۲) شیشی۔
قِنِّینَةُ الشَّرَاب: جگ، صراحی۔
قِنِّینَةُ الدَّم: خون کی بوتل۔
قَـانُون: آئین، قانون، ضابطہ، دستور ج: قَوَانِین۔
قَانُونُ الاَحْوَالِ الشَّخْصِیَّة: پرسنل لا۔
قَانُونُ البِلَاد: ملکی قانون۔
قَانُونُ الجَزَاء: قانونِ تعزیرات۔
قَـانُونٌ جِنَائِیّ ، قَانُونُ العُقُوبَات: قانونِ تعزیرات، آئین فوجداری۔
قَانُونٌ دُوَلِیّ: بین الاقوامی قانون۔
قَانُونٌ اَسَاسِیّ: کانسٹی ٹیوشن۔
قَانُونٌ بَلَدِیّ: آرڈیننس۔
قَانُونُ التَّسْوِیْق: خرید وفروخت کا قانون۔
قَانُونٌ تَوْجِیْهِیّ: راہنما ضابطہ۔
قَانُونُ الشَّرِکَات: کمپنی ایکٹ۔
قَـانُونُ صِیَـانَةِ الاَمْنِ الدَّاخِلِیّ: میسا کا قانون۔
قَـانُونُ الـطَّوَارِی: ہنگامی قانون، ایمرجنسی قانون۔
قَانُونٌ عَامّ: کامن لا، قانونِ عامہ۔
القَانُونُ العُرْفِیّ: رواجی قانون۔
القَانُونُ القَضَائِیّ: آئین دیوانی۔
قَانُونٌ مَحَلِّیّ: آرڈیننس۔
قَـانُونٌ مَـدَنِـیّ: سول لا، شہری قانون، سول قانون، سول کوڈ۔
قَانُونِیَّة: قانونی حیثیت، جواز۔
مَشْرُوْعُ القَانُون: مسودہ قانون، بل۔
تَقْنِیْن: قانون سازی۔

قَـنَـا ـُـ قَنْواً و اقْتَنَى: جمع کرنا، حاصل کرنا، مالک ہونا۔
قُنْوٌ: کھجور یا کیلے کا گچھا ج: اَقْنَاء۔
قَنَّى تَقْنِیَةً: نہر کھودنا۔
قَـنِـیَ الاَنْفُ ـَـ قَنَاً: ناک کا بیچ سے اٹھا ہوا ہونا۔
قَنَاةٌ: نہر (۲) نیزہ کی لکڑی ج: قُنِیّ (۲) بڑی نالی ج: قَنَوَات۔
قَـنَـاةٌ ، قَـنَـایَة: نلکی، ٹیوب (۲) نالی (۳) راستہ۔
قَنَوَاتُ المِلَاحَة: جہاز رانی کی نہریں۔
قَانٍ: تیز، گہرا سرخ۔
قَانٍ ، مُقْتَنٍ: حاصل کرنے والا، مالک۔
اَقْنَی: مڑی چونچ والا (۲) اُبھری ناک والا۔
مُقْتَنَى: حاصل شدہ، جمع کردہ۔
تِقْنِیَّة: ٹکنالوجی۔

ق..........ه

قَهَرَ ـَـ قَهْراً: زیر کرنا (۲) مغلوب بنانا (۳) مجبور کرنا۔
قَهْرٌ سِیَاسِیّ: سیاسی دباؤ۔
قَهْرٌ عَسْکَرِیّ: فوجی دباؤ۔
قَهْراً: زبردستی، بزور۔
قَهْرِیّ: جبری، غیر ارادی، لازمی۔
قُوَّةٌ قَهْرِیَّة: زبردست طاقت۔
ظُرُوف قَهْرِیَّة: مجبور کن حالات۔
قَاهِرٌ: غالب (۲) زبردست۔
لَا یُقْهَرُ: ناقابلِ تسخیر۔
مَقْهُور: مجبور (۲) تابع (۳) مغلوب۔

قَهرَمان: میر منشی، نگراں ج: قَهارِمَة۔
قَهرَمانَة: گھر کی نگراں (۲) مربیہ۔
قَهقَرَة، تقَهقُر: پیچھے لوٹنا (۲) رجعت۔
تقَهقُر: پیچھے ہونا، انحطاط پذیر ہونا۔
قَهقَهَة: کھلکھلا کر ہنسنا۔
قَهوَة: کافی۔
مَقهَى: قہوہ خانہ، کافی ہاؤس ج: مَقاهٍ۔
قَهوَجِيّ: قہوہ پلانے والا۔

ق............و

قَوَّبَ: زمین کو گولائی میں کھودنا۔
تَقَوَّبَتْ و انقَابَتِ البَيضَة: انڈا ٹوٹنا۔
قَابٌ: (۱) مقدار (۲) کمان کے درمیان کا فاصلہ۔
عَلَى قَابِ قَوسَين: بہت قریب۔
قُوب: مرغی کا بچہ، چوزہ ج: اَقوَاب۔
قَابَة، قَائِبَة: انڈا، چوزا۔
قُوت: غذا (۲) کھانا، خوراک، آب ودانہ ج: اَقوَات۔
قَاتَ ـــ قَوتاً، اَقَاتَ، قَوَّتَ: خوراک دینا، غذا دینا، کھلانا۔
اِقتَاتَ، تَقَوَّتَ: خوراک بنانا یا لینا، غذا بنانا۔
اِقتَاتَ بِالشيءِ: کھانا۔
مُقِيت: غذا بخش۔
قَوَّدَ، قَادَ ـــ قِيادَة و اِقتَادَ: رہنمائی کرنا، نکیل پکڑ کر چلنا، چلانا، لے جانا۔
قَادَ السَّيَّارَة: ڈرائیوری کرنا۔
قَادَ الجَيش: فوج کی کمان کرنا۔
قَادَ خُطَاه: قدم آگے بڑھانا۔

اِقتَادَ المُتَّهَم لِلمَخفَر أو إلى النِّظارَة: ملزم کو پکڑ کر تھانے لے جانا۔
اِنقَادَ، اِقتَادَ: پیچھے چلنا، پیروی کرنا۔
اِنقَادَ لَهُ: تابعدار ہونا (۲) سرِ تسلیم خم کرنا۔
قِيدٌ، قَادٌ: مقدار، مسافت۔
قِيدُ اِصبَع: بقدرِ انگشت۔
سَلِسُ القِياد: تابعدار، آسانی سے قابو میں آنے والا۔
قِياد، مِقوَد: رسّی، زمام۔
قِيادَة: راہنمائی، کمان (۲) لیڈر شپ (۳) جنرل شپ۔
القِيادَةُ العُليَا: ہائی کمان۔
قِيادَةٌ اِجتِماعِيَة: سوشل رہنمائی۔
قِيادَةُ الثَّورَة: انقلابی کمان۔
القِيادَةُ الحَكِيمَة: دانشمندانہ قیادت۔
قِيادَةُ سَيَّارَة: موٹر ڈرائیوری۔
قِيادَةٌ شَعبِيَّة: عوامی لیڈر شپ۔
قِيادَةٌ مُرتَبِكَة: کمزور کمان، بے تدبیر قیادت۔
قِيادِيّ: کمان سے متعلق، راہ نمایانہ۔
قَوَّاد: دلال۔
قَائِد: راہنما، لیڈر، سربراہ، گائڈ، جنرل، کمانڈر، ڈائرکٹر ج: قَادَة۔
قَائِدُ الجَيش: فوج کا کمانڈر ج: قُوَّاد۔
قَائِدُ الاُسطُول: امیر البحر۔
القَائِدُ الاَعلَى: سپریم کمانڈر۔
القَائِدُ الاَعلَى لِلقُوَّاتِ المُسَلَّحَة: کمانڈر انچیف۔

اَلْقَائِدُ الْعَامّ: کمانڈر جنرل، کمانڈر انچیف۔
قَائِدُ عَامُّ الْقُوَّاتِ الْمُسَلَّحَة: متحدہ بحری وبری افواج کا سپہ سالار۔
قَائِدُ الْفِرْقَةِ الْمُوْسِيْقِيَّة: بینڈ ماسٹر۔
قَائِدُ اللِّوَاء: بریگیڈیر۔
قَائِدُ الْمُرُوْر و النَّجْدَة: ٹریفک افسر۔
قَادَةُ الْكَتَائِب: فوجی دستوں کے کمانڈر۔
اِنْقِيَاد: تسلیم، اطاعت، تقلید۔
اِنْقِيَادٌ اَعْمَى: کورانہ تقلید۔
مِقْوَد: لگام (۲) موٹر کار کا اسٹیرنگ ج: مَقَاوِد۔
مَقُوْدٌ، مُنْقَاد: تابعدار۔
قَوَّرَ و اقْتَوَرَ الشئَ: بیچ میں سوراخ کرنا (۲) گول کاٹنا۔
تَقَوَّرَتِ الْحَيَّةُ: سانپ کا بل کھانا، کنڈلی مارنا۔
قَارٌ: تارکول۔
قَارَة: براعظم ج: قَارَات (دیکھئے: قرر)۔
تَقْوِير: عمارت کا چھجا۔
تَقْوِيْرَةُ الثَّوْب: کرتے وغیرہ کا گلا۔
مُقَوَّر: (۱) کھوکھلا (۲) تارکول ملا ہوا (۳) بیچ میں سے کٹا ہوا یا کھلا ہوا۔
قُوْرْمَة: (دا) قورمہ، گوشت کا سالن۔
قَوِسَ ـــَـ قَوَساً و تَقَوَّسَ: مڑنا، کماندار ہونا (۲) کمر جھکنا۔
قَوَّسَ: ن دار بنانا، موڑنا (۲) فائر کرنا۔
قَوْس: کمان ج: اَقْوَاس و قِسِيّ۔
قَوْسُ الْقَنْطَرة: پل کی ڈاٹ۔
قَوْسُ نَبْلٍ: تیر کمان۔
قَوْسُ نَصْر: محراب فتح، استقبالیہ محراب، وہ دروازہ جو کسی جشن وغیرہ پر لگایا جاتا ہے۔
قَوْسُ النَّدْف: روئی دھنکنے کا آلہ۔
قَوْسَان: (هِلَالا الحصْر) بریکٹ ( )۔
قَوْسَانِ مَعْقُوفَان: اسکوائر بریکٹ [ ]۔
قَوَّاس: تیر کمان بنانے والا (۲) شکاری۔
قَايِش: استرا تیز کرنے کا چمڑا یا پتھر۔
قَيَّشَ الْمُوسَى على القَايِشِ: استرا تیز کرنا۔
قَوَّضَ، قَاضَ ـــُـ قَوْضاً: منہدم کرنا، گرانا (۲) صحت خراب کرنا۔
تَقَوَّضَ وَانْقَاضَ: منہدم ہونا، گرنا، صحت گرنا۔
قَوْطٌ: بکریوں کا گلہ ج: اَقْوَاط۔
قُوْطَة: (دا) ٹماٹر۔
قَاعٌ: ہموار زمین ج: اَقْوَاع و قِيْعَان۔
قَاعَة: ہال کمرہ ج: قَاعَات۔
قَاعَةُ الاِجْتِمَاعِ الْعُمُوْمِيَّةُ: مجلس ہال۔
قَاعَةُ اسْتِقْبَالٍ: ڈرائنگ روم۔
قَاعَةُ الْمَحْكَمَة: کمرۂ عدالت، کورٹ روم۔
قَاعَةُ الْمُؤْتَمَر: کانفرنس ہال۔
قَاعَةُ الْوَلَائِم: دعوت ہال۔
قَوْقَأَتِ الدَّجَاجَةُ: مرغی کا کڑکڑانا۔
قَوَّلَ و اَقَالَ: غلط بات منسوب کرنا۔
قَالَ ـــُـ قَوْلاً: بولنا، کہنا۔

قَالَ بِكَذا: بیان کرنا۔
قَالَ ضِدَّه و عَلَيْه: خلاف بولنا۔
قَالَ فِيْه و عَنْه: کسی کے بارہ میں کہنا۔
قَالَ رَأيَه: اظہارِ خیال کرنا۔
قَاوَلَ: حجت بازی کرنا، بحث مباحثہ کرنا (۲) سودا کرنا، معاملہ کرنا (۳) معاہدہ کرنا (۴) ٹھیکہ لینا۔
تَقَوَّلَ عَلَيْه: الزام لگانا، جھوٹ گھڑنا۔
قَوْلٌ: بات، کلام ج: أقْوَال۔
قَوْلٌ مَأثُورٌ: کہاوت، مشہور بات (۲) ضرب المثل۔
تَقَوُّلَات: من گھڑت باتیں۔
مَقَالٌ افْتِتَاحِيٌّ: اداریہ، ایڈویٹوریل۔
مَقَالٌ رَئِيْسِيٌّ (بِمَجَلَّةٍ): لیڈنگ آرٹیکل۔
مَقَالَة: مضمون، آرٹیکل ج: مَقَالات۔
مَقَالَةٌ افْتِتَاحِيَّة: ایڈیٹوریل، لیڈنگ آرٹیکل۔
مَقَالَةٌ إنْشَائِيَّة: تخلیقی مضمون۔
مَقَالَةٌ رَئِيْسِيَّة: ایڈیٹوریل، اداریہ۔
مَقَالَةٌ قَصِيْرَة (فِي صَحِيْفَةٍ يَوْمِيَّة): نوٹ، پیراگراف۔
مَقُوْلَة: دعویٰ۔
مَقَاوِل: ٹھیکیدار، کنٹریکٹر۔
مُقَاوِلُ مَبَانٍ: بلڈنگ ٹھیکیدار، بلڈنگ کنٹریکٹر۔
مُقَاوَلَةٌ على عَمَلٍ: کسی کام کا ٹھیکہ۔
بالمُقَاوَلَة: ٹھیکہ پر۔
شُغْلٌ بالمُقَاوَلَة: ٹھیکہ داری۔

قَوَّمَ تَقْوِيْماً: سیدھا کرنا، درست کرنا (۲) قیمت لگانا (۳) کھڑا کرنا۔
قَامَ ـُ قِيَاماً: کھڑا ہونا (۲) ترقی کرنا (۳) شروع کرنا (۴) چڑھنا (۵) روانہ ہونا۔
قَامَ الأمْرُ: سدھرنا، درست ہونا۔
قَامَ الوَضْعُ الخَطِيْرُ: خطرناک پوزیشن ہونا۔
قَامَ العَجِيْنُ: آٹے میں خمیر اٹھنا۔
قَامَ المَاءُ: پانی کا منجمد ہوا۔
قَامَ الهَوَاءُ و الغَضَبُ: فرو ہونا۔
قَامَ مِنْ نَوْمِه: جاگنا۔
قَامَ مِنْ: روانہ ہونا۔
قَامَ عَلَى كذا: مشتغل ہونا۔
قَامَ بِالأمْرِ: کام کی ذمہ داری لینا۔
قَامَ بِالوَاجِب: فریضہ ادا کرنا۔
قَامَ بالعَمَل: انجام دینا۔
قَامَ الوَفْدُ بِدَوْرٍ مُهِمٍّ فِى كذا: وفد کا اہم کردار ادا کرنا۔
قَامَ الوَفْدُ بالسَّلَامِ عَلَى فُلَانٍ: وفد کی طرف سے کسی کو سلامی دینا۔
قَامَ بِاتِّصَالِ فُلَان: کسی سے رابطہ قائم کرنا۔
قَامَ بالإحْصَاءَ ات: اعداد و شمار جمع کرنا۔
قَامَ بِأدَاءِ الوَاجِبَاتِ: فرائض ادا کرنا۔
قَامَ بِأعْمَالٍ إرْهَابِيَّة: دہشت انگیزی کرنا۔
قَامَ بالإقْتِحَام: دھاوا بولنا۔
قَامَ بِأمُوْرِ المَعْهَد: ادارہ چلانا۔

قَامَ بِبَحْثٍ عِلْمِيّ: ریسرچ کرنا۔
قَامَ بِتَفْتِيْشِ القِطَار: ریل گاڑی کی چیکنگ کرنا۔
قَامَ بالجَمِيْلِ نَحْوَ اَحَدٍ: احسان کرنا۔
قَامَ بِجَوْلَةٍ اِسْتِطْلاعِيَّةٍ: تفتیشی دورہ کرنا، تحقیقاتی دورہ کرنا۔
قَامَ بِحَمْلَةٍ اِنْتِخَابِيَّةٍ لِصَالِحِ اَحَدِ المُرَشَّحِيْن: کسی امیدوار کے حق میں الیکشن مہم انجام دینا۔
قَامَ بالدَّوْرِ الايْجَابِيّ: مثبت کردار ادا کرنا۔
قَامَ بالزِّيَارَةِ: دورہ کرنا۔
قَامَ بعَمَلِ التَّحْسِيْنَات: اصلاحات کا کام کرنا۔
قَامَ بِعَمَلِ التَّرْتِيْبَاتِ اللّازِمَة: ضروری انتظامات کرنا۔
قَامَ بِعَمَلِيَّةِ الاخْتِطَاف: اغواء کی کارروائی کرنا۔
قَامَ بِعَمَلِيَّةِ التَّفْتِيْش: تفتیش کا کام کرنا، تحقیق کرنا۔
قَامَ بِعَمَلِيَّاتِ الاِسْتِكْشَاف: سراغ رسانی کے کام کرنا۔
قَامَ بِغَارَاتٍ فِدَائِيَّة: گوریلے حملے کرنا۔
قَامَ بِفَحْصِ القَنَابِل: بموں کی جانچ کرنا۔
قَامَ بالكِفَاحِ المُسَلَّح: مسلح جدوجہد کرنا۔
قَامَ بالمُخَاطَرَة: خطرہ مول لینا۔

قَامَ بالمُغَامَرَة: خطرہ مول لینا، خطرناک کام کرنا۔
قَامَ الضَّيْفُ بجَوْلَةٍ عَلَى الاَقْسَام: مہمان کا تمام شعبوں کو دیکھنا۔
قَامَ مَعْرِضٌ فَنِّيٌّ فِي كَذا: فنی نمائش ہونا۔
قَامَ بِالوَعْد: وعدہ کا خیال رکھنا، پورا کرنا۔
قَامَ بِالمَصَارِيْف: اخراجات برداشت کرنا۔
قَامَ مَقَامَه: قائم مقام ہونا۔
قَامَ بِمُظَاهَرَةٍ: مظاہرہ کرنا، جلوس نکالنا۔
قَامَتْ لَهُ قَائِمَة: وزن ہونا، حیثیت ہونا۔
قَامَتِ المُمَثِّلَةُ بالتَّمْثِيْل فِى الفِيْلَم: سینما میں اداکارہ نے پارٹ ادا کیا۔
قَامَتِ المَمْلَكَةُ بِالدَّوْرِ القِيَادِيّ: قائدانہ پارٹ ادا کرنا۔
قَامَتْ سُلْطَاتُ الاحْتِلال بالحَمْلَة: قابض فوجوں کا حملہ آور ہونا۔
قَامَتِ السُّلْطَاتُ بِاغْتِيَال الفِدَائِيِّيْن: حکام کا گوریلوں کو ختم کرنا۔
قَاوَمَ مُقَاوَمَةً: مقابلہ کرنا، ڈٹنا۔
قَاوَمَ بالقُوَّة: طاقت سے مقابلہ کرنا۔
أَقَامَ إِقَامَةً: کھڑا کرنا، اٹھانا (۲) قائم کرنا (۳) قیام کرنا، رہنا (۴) جوش دلانا۔
أَقَامَه مَقَامَ اَحَدٍ: قائم مقام بنانا۔
أَقَامَ الدَّلِيْلَ علی: دلیل پیش کرنا۔
أَقَامَ عَلَى كَذا: ثابت قدم رہنا۔

أَقَامَ لَهُ وَزْناً: اہمیت دینا۔
أَقَامَ عَرْضاً: نمائش لگانا۔
أَقَامَ الكُبَارِی: پل تعمیر کرنا۔
أَقَامَ مُخَيَّماً: کیمپ لگانا۔
أَقَامَ مِهْرَ جَاناً: جشن منانا۔
أَقَامَ لَهُ مَأْدُبَةَ عَشَاءٍ: کسی کو ڈنر دینا۔
أَقَامَ المُسْتَعْمَرَاتِ: نوآبادیاں قائم کرنا۔
أَقَامَ المُسْتَوْطَنَاتِ: کالونیاں تعمیر کرنا۔
أَقَامَ جَنَازَةً رَسْمِيَّةً: سرکاری اعزاز کے ساتھ جنازہ لے جانا۔
أَقَامَ الحَفْلَ تَكْرِيماً لِفُلَانٍ: کسی کے اعزاز میں پارٹی دینا۔
أَقَامَ حَفْلَ شَايٍ: ٹی پارٹی دینا۔
أَقَامَ الحَوَاجِزَ: رکاوٹیں کھڑی کرنا۔
أَقَامَ حَيَاةً نِيَابِيَّةً سَلِيمَةً: صاف ستھری پارلیمنٹری زندگی بنانا۔
أَقَامَ الدَّعْوَى علی: دعوی دائر کرنا، مقدمہ دائر کرنا، کیس کرنا۔
أَقَامَ السَّلَامَ: امن قائم کرنا۔
أَقَامَ الشَّغَبَ: فساد پھیلانا۔
أَقَامَ عَدَالَةً اِجْتِمَاعِيَّةً: سوشل انصاف قائم کرنا۔
أَقَامَ عَلَاقَاتٍ دِبْلُومَاسِيَّةً: سفارتی تعلقات قائم کرنا۔
أَقَامَ العَلَاقَاتِ الجَيِّدَةَ مع الأَقْطَارِ المُجَاوِرَةِ: پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا۔
أَقَامَ فِي المُخَيَّمِ: کیمپ کی زندگی گزارنا۔
أَقَامَ القَاعِدَةَ فی كذا: اڈا بنانا۔
أَقَامَ القُدَّاسَ فی الكَنِيسَةِ: کنیسہ میں مخصوص نماز ادا کرنا۔
أَقَامَ الجُسُورَ علی: پل قائم کرنا، پل بچھانا۔
أَقَامَ أُمْسِيَّةً ثَقَافِيَّةً: ثقافتی شام منانا۔
أَقَامَ البَرَامِجَ فِي الإِذَاعَةِ: ریڈیو پروگرام بنانا۔
اِسْتَقَامَ: معتدل ہونا، سیدھا ہونا۔
قَوْمٌ: قوم، پبلک ج: أَقْوَام۔
قَوْمِيٌّ: عوامی، نیشنل۔
قَوْمِيَّةٌ: نیشنلازم، نیشنلٹی۔
قَوَام: اعتدال (۲) بنیاد (۳) قوت (۴) کثافت، قوام (۵) اجزاء ترکیبیہ (۶) مددگار، سہارا۔
قِوَامُ الوَفْدِ: ارکانِ وفد۔
قَوِيم: معتدل، سیدھا۔
قَامَة: قد۔
قَائِم: (۱) کھڑا ہوا (۲) سیدھا (۳) ترقی یافتہ۔
قَائِمٌ بكذا: ذمہ دار (۲) انجام دہندہ۔
قَائِمٌ بِذَاتِه: خودمختار (۲) بلاسبب موجود رہنے والا۔
القَائِمُ بِأَخْذِ الأَصْوَاتِ (لِتَقَصِّی الرَّأْيِ العَامِّ): ووٹ شمار کرنے والا۔
قَائِمٌ بِأَعْمَالٍ: ناظم الامور۔
القَائِمُ بِأَعْمَالِ المُدِيرِ: ایکٹنگ

ڈائرکٹر۔
القَائِمُ بالاَعْمال مُوَقّتاً: نائب سفیر، قائم مقام سفیر۔
قَائِمٌ بِنَفقَاتِه: خود کفیل۔
القَائِمَقَام: تحصیلدار (۲) لیفٹنٹ کرنل (ایک فوجی عہدہ)۔
قَائِمُونَ عَلَى الاُمُور: منتظمین۔
قَائِمَةٌ: پایہ (۲) ستون، پلر (۳) فہرست، لسٹ (۴) نقشہ، کیلنڈر ج: قَوَائِم۔
قَائِمَةُ الاَسْعَار: قیمتوں کی فہرست، نرخنامہ۔
قَائِمَةٌ اِنتِخَابِيَة: ووٹر لسٹ، انتخابی فہرست۔
قَائِمَةُ الانتِظَار: ویٹنگ لسٹ۔
قَائِمَةُ الإيجَار: رینٹ رول۔
قَائِمَةُ الحِسَاب: گوشوارہ۔
قَائِمَةُ الجَرْد: تجارتی سامان کی فہرست، تجارتی چٹھا۔
قَائِمَةُ أَصْنَافِ المَاكُولَات: کھانوں کی فہرست، مینو۔
قَائِمَةُ المَوْجُوْدَات: موجودہ اشیایا سامان کی فہرست۔
قَائِمَةُ التَّكَالِيف: فہرستِ اخراجات۔
قَائِمَةُ الصَّادِرَات: ایکسپورٹ لسٹ۔
قَائِمَةُ النَّاخِبِين: ووٹر لسٹ۔
قَائِمَةُ الوَفَيَات: فہرستِ اموات۔
القَائِمَةُ السَّوْدَاء: بلیک لسٹ۔
قَيِّم: سیدھا (۲) معتدل (۳) نگراں، کیپر، کسٹوڈین (۴) قیمتی، بیش قیمت، گراں بہا۔
القَيِّمُوْنَ عَلَى: ذمہ داران، نگراں حضرات۔
قِيمَة: قیمت، پرائز (۲) لاگت، وزن (۳) قدر (۴) حیثیت، ویلیو (۵) معیار ج: قِيَم۔
القِيمَةُ الاَسَاسِيَّة: اصلی قیمت۔
قِيمَةٌ اِسْمِيَّة: ظاہری قیمت، دکھاوے کی قیمت۔
قِيمَةُ الإيجَار: کرایہ۔
القِيمَةُ الثَّابِتَة: ٹھیری ہوئی قیمت۔
قِيمَةُ الجَائِزَة: انعام کی قیمت، معیار۔
القِيمَةُ الحَقِيقِيَّة: واقعی قیمت۔
قِيمَةٌ سُوْقِيَة: مارکیٹ قیمت، مارکیٹ ویلیو۔
قِيمَةٌ كُلِّيَة: تھوک قیمت۔
القِيمَةُ المُتَّفَقُ عَلَيْهَا: متفق علیہ قیمت۔
القِيمَةُ المُحَدَّدَة: مقررہ قیمت۔
القِيمَةُ المُضَاعَفَة: دگنی قیمت۔
قِيمَةٌ مُطْلَقَة: عام قیمت۔
قِيمَةٌ مُعْلَنَة: اعلان کردہ قیمت۔
لَا قِيمَةَ له: بے وقعت۔
قِيَمٌ و مَقَايِيس: اقدار و معیار، اقدار و پیمانے۔
قِيَمٌ اِنْسَانِيَّة: انسانی قدریں۔
قِيَمٌ عُلْيَا: اعلیٰ اقدار۔
قِيَمٌ خُلُقِيَّةٌ فَاضِلَة: اعلیٰ اخلاقی قدریں۔

قِيَمُ أُسْرَةٍ: خاندانی روایات۔
قَيَّام، قَيُّوم: نگراں، ذمہ دار۔
قِيَام: وجود (۲) بے داری، جاگ (۳) ترقی (۴) کھڑا ہونے کی حالت۔
اِقَامَةٌ: قیام، رہائش (۲) تعمیر۔
اِقَامَةٌ مُوَقَّتَة: عارضی قیام۔
مَحَلُّ الاِقَامَة: رہائش گاہ۔
اِسْتِقَامَة: درستگی، ثابت قدمی۔
تَقْوِيْم: اصلاح، سدھار۔
تَقْوِيْمُ الاَخْلَاق: اصلاحِ اخلاق، اخلاق کی درستگی۔
تَقْوِيْمُ البُلْدَان: گزیٹر، جغرافیائی ڈائرکٹری، جغرافیائی رہنما کتاب۔
تَقْوِيْمٌ سَنَوِيّ، تَقْوِيْمُ السَّنَة: کیلنڈر، جنتری ج: تَقَاوِيْم۔
مُقَام: جگہ۔
مَقَام: (۱) جگہ (۲) پوزیشن، مرتبہ، حیثیت، پرسٹیج، عزت۔
مُقَوِّم: قیمت لگانے والا۔
مُقَوِّمَات: قیمتی اشیا (۲) ضروریات، لوازم، بنیادی اجزا، اجزائے ترکیبی۔
مُقَوِّمَاتُ الحَيَاة: لوازمِ زندگی، زندگی کی بنیادی ضروریات۔
مُقَوِّمَاتُ النَّصر: کامیابی کے اسباب و ذرائع، کامیابی کے بنیادی اسباب۔
مُقِيْم: رہائش پذیر (۲) دائمی۔
مُقَاوِم: (۱) مخالف (۲) مقابلہ کرنے والا۔
مُقَاوَمَة: مقابلہ۔
مُقَاوَمَة شَعْبِيَّة: عوامی مزاحمت۔
مُقَاوَمَةٌ حَتَّى آخِرِ طَلْقَةٍ: آخری گولی تک مقابلہ۔
قُوْمِيْسَر: (مع) کمشنر، نمائندہ۔
قُوْمِيْسَارِيَّة: کمشنری۔
قُوْمِيْسُوْن: (مع) تحقیقاتی کمیشن۔
قُوْمِنْدَان: (مع) کمانڈار، کمانڈر
قُوْمِنْدَانُ البُوْلِيْس: پولیس افسر۔
قَوِيَ ـَـ قُوَّةً: طاقتور ہونا۔
قَوِيَ عَلَى اَمْرٍ: قادر ہونا (۲) ہمت کرنا (۳) قابو پانا۔
قَوِيَ المَكَانُ: خالی ہونا۔
قَوِيَ قَوًى: انتہائی بھوکا ہونا۔
قَوَّى: مضبوط بنانا، جمانا، تائید کرنا۔
قَوَّى الدِّفَاعَ عَنْ شَيْءٍ: دفاع مضبوط کرنا۔
قَوَّى العَلَاقَاتِ مَعَ: تعلقات مضبوط کرنا۔
قَاوَاهُ مُقَاوَاةً: قابو پانا۔
اَقْوَى الرَّجُلُ: محتاج و مفلس ہونا۔
اَقْوَى المَكَانُ: ویران ہونا، خالی ہونا۔
قَوَاء، قَوًى: بھوک (۲) بے آب و گیاہ زمین، ویران زمین۔
قُوَّة: طاقت، سختی، تشدد، زور، ہمت، دلیری (۲) تندرستی (۳) فوجی طاقت، فوج ج: قُوًى و قُوَّات۔
قُوَّةٌ آلِيَة: مشینی طاقت۔
ــــ مَعْنَوِيَّة: روحانی طاقت۔
ــــ عَسْكَرِيَّة: فوجی طاقت، فورس۔
ــــ بَشَرِيَّة: افرادی طاقت۔
ــــ الدَّفْع: ادائیگی کی طاقت، قوتِ خرید۔

___ شِرائِيَّة: قوتِ خرید۔
___ صَاعِدَة: بڑھتی ہوئی طاقت۔
___ طَلِيعَة: اولین طاقت۔
___ مُحَرِّكَة: موٹر۔
___ قَهرِيَّة: زبردست طاقت۔
___ لا تُقْهَرُ: ناقابلِ تسخیر طاقت۔
___ الشَّدِ: کھچاؤ میں زیادتی۔
___ تَأْثِيرٍ خَارِقَةٌ: غیر معمولی اثرانگیزی۔
___ البُولِيس: پولیس فورس۔
___ جَوِّيَّة: ایرفورس، ہوائی طاقت۔
القُوَّةُ الأرْضِيَة: زمینی فوج۔
قُوَّةُ الأمْنِ العَرَبِيَّةُ: عرب حفاظتی فوج۔
قُوَّةٌ بَرِّيَة: بری فوج۔
قُوَّةُ الشُرطَة: پولیس فورس۔
قُوَّةُ الطَّوارِئ: ہنگامی فوج، ایمرجنسی۔ فورس: ناگہانی ضرورت کے لئے فوجی طاقت۔
قُوَّةُ الطَّوارِئ التَّابِعَةُ لِلأُمَمِ المُتَّحِدَة: اقوام متحدہ کی ہنگامی فوج، ایمرجنسی فورس۔
قُوَّةُ الطَّيَران: ایرفورس، ہوائی فوج۔
قُوَّةُ الحِرَاسَةِ المُعِينَةُ عَلَى: کسی پہرہ پر متعینہ فوج۔
قُوَّةُ الرَّدْعِ العَرَبِيَّةُ: عرب امن فوج۔
قُوَّةُ السَّلام: امن فوج۔
قُوَّةُ السَّلامِ العَرَبِيَّةُ: عرب امن فوج۔
قُوَّةٌ لِلدِّفَاع: دفاعی فوج۔
قُوَّةٌ مُنَتَظِمَة: باضابطہ فوج۔
القُوَى العَامِلَة: لیبرفورس، کام کرنے والی طاقتیں۔
القُوَى المُعارِضَة: مخالف طاقتیں۔

القُوَّات: فوجیں۔
القُوَّاتُ البَرِّيَّة: بری افواج۔
القُوَّاتُ البَحْرِيَة: بحری افواج۔
اَلْقُوَّاتُ ألاِحْتِلَال: قابض فوجیں۔
قُوَّاتُ الاحْتِيَاط: ریزروفوج۔
قُوَّاتُ الأمْن: سیکورٹی فورس، پی-اے-سی، حفاظتی پولیس، امن فوج۔
قُوَّاتُ الأمْنِ الدُّوَلِيَّة: بین الاقوامی حفاظتی فوج۔
قُوَّاتُ الأمْنِ المَرْكَزِيَّة: سینٹرل سیکورٹی فورس، مرکزی حفاظتی فوج۔
قُوَّاتُ أمْنٍ نِظَامِيَّةٌ: باضابطہ امن فورس۔
قُوَّاتُ الجَيْش: افواج۔
قُوَّاتُ الرَّدْع: امن فوج۔
قُوَّاتٌ رَمْزِيَّة: دکھاوے کی فوج، علامتی فوج۔
قُوَّاتُ الطَّوارِئ: ہنگامی فوج، ایمرجنسی فوج۔
القُوَّاتُ الغَازِيَة: حملہ آور فوجیں۔
قُوَّاتُ الغَزْو: حملہ آور فوج۔
اَلقُوَّاتُ غَيْرُ النِظَامِيَة: بے قاعدہ افواج۔
قُوَّتُ المِحْوَر: محاذ کی فوج۔
قُوَّاتُ المُسَلَّحَة: ملٹری، مسلح فوجیں، مسلح افواج۔
قُوَّاتٌ مُنهَكَة: تھکی ہوئی فوجیں۔
القُوَّاتُ النِظَامِيَة: باقاعدہ افواج۔
قَوِيٌّ: مضبوط، طاقتور (۲) سخت (۳) تندرست (۴) تیز (۵) قادر۔
شَايٌ قَوِيّ: تیز چائے۔
إقْوَاء: مفلسی۔
تَقْوِيَة: نشاط انگیزی، طاقت افزائی،

ہمت افزائی (۲) پشت پناہی، سپورٹ۔
مُقوٍ: ٹانک۔
مُقوًّى: مضبوط۔
وَرَقٌ مُقوًّى: کارڈ بورڈ، دفتی۔

ق .... ی

قَيأ و أقاء: قے کرانا۔
قاءَ ــِ قيئاً و تقيّأ: قے کرنا۔
قِيثار: بربط، سارنگی ج: قَيَاثير۔
قَيّح، تقيّح، قَاحَ ــِ قَيحاً: پیپ پڑنا۔
قَيحٌ: پیپ۔
قَيحِيّ: پیپ دار۔
مُقيّح: پیپ پیدا کرنے والی چیز۔
قَيّدَ: پیر میں بیڑی ڈالنا (۲) روکنا (۳) باندھنا (۴) درج رجسٹر کرنا (۵) نوٹ کرنا، یادداشت کے لئے لکھنا۔
قَيّدَ المَجالَ: میدان محدود کرنا۔
قَيّدَ اسمَهُ لِلْخِدمَةِ العَسكَرِيّةِ: فوجی ملازمت کے لئے نام لکھوانا۔
قَيّدَ الشئَ فِي دَفتَرِ اليَومِيّةِ: روزنامچہ میں درج کرنا، نوٹ کرنا۔
تَقَيّدَ بالشئ: پابند ہونا، پابندی کرنا۔
تَقَيّدَ بِالقَرارات: فیصلوں کی پابندی کرنا۔
تَقَيّدَ بِالمَواعِيد: اوقات کی پابندی کرنا۔
قَيْدٌ: بیڑی (۲) ہتھکڑی (۳) رکاوٹ، بندھن، بندش (۴) شرط، پابندی ج: قُيُود۔
قَيْدٌ (۲): انٹری، اندراج۔
قَيْدٌ مُزدَوِج: ڈبل انٹری۔

قَيد، قِيد: مقدار، فاصلہ۔
على قِيدِ خُطوَةٍ: ایک قدم کے فاصلہ پر۔
قَيدَ التَّنفِيذ: زیرِ عمل، زیرِ تنفیذ۔
قَيدَ المُناقَشة: زیرِ بحث۔
قُيُود: پابندیاں۔
قُيُودٌ عَلَى الاستِيراد: درآمدات پر پابندی۔
قُيُودٌ عَلَى الصّادِرات: برآمدات پر پابندی۔
فَرَضَ القُيُودَ عَلَى: پابندیاں لگانا۔
تَقْييد: انٹری، رجسٹریشن، اندراج۔
مُقَيّدٌ بِدُستُور: لیمیٹڈ، آئین کا پابند۔
قَيّرَ: تارکول ملنا، تارکول ڈالنا۔
قِيرٌ، قارٌ: تارکول، تارکول جیسا مصالحہ۔
قِيراط: انچ ج: قَرارِيط۔
قاسَ ــِ قَيساً: ناپنے چلنا۔
قاسَ الثَّوبَ قِياساً: کپڑا پہن کر دیکھنا، ٹرائی کرنا۔
قاسَ الشئَ بكذا: ناپنا۔
قاسَ الحَرارَةَ بالمِيزان: تھرمامیٹر سے بخار دیکھنا۔
قاسَ الغيرَ بِمَقايِيسِه: دوسرے کو اپنے اوپر قیاس کرنا۔
قايَسَ بَينَ الشَّيئَين: موازنہ کرنا۔
اِقتاسَ به: پیروی کرنا۔
قِياس: پیمانہ، ناپ (۲) سائز (۳) قاعدہ (۴) اٹکل ج: قِياسات۔
قِياساً: اٹکل سے۔
بِالقِياسِ الطَّبِيعِيّ: فل اسکیپ۔
عَلَى القِياس: قاعدہ کے مطابق۔

قِیـاسِیّ: قیاس کے مطابق، منطقی، قاعدہ کے مطابق (۲) نسبتی (۳) نارمل، حسبِ معمول۔
رَقْمٌ قِیاسِیّ: ریکارڈ، کسی کام کا آخری درجہ۔
ضَرَبَ رَقماً قِیاسِیاً: ریکارڈ قائم کرنا۔
قِیاسِیاً: قیاس سے، قاعدہ سے۔
قِیَّاس: پیمائش کنندہ۔
قَیَّاسُ الاَرَاضِي: سروے کنندہ۔
قَیَّاسَة: (دا) بڑی بادبانی کشتی۔
مَقَاسٌ: سائز ج: مَقَاسَات۔
مِـقْیَـاس: ترازو (۲) آلۂ پیمائش، گیج، ٹیسٹ (۳) مقدار (۴) معیار، اسکیل ج: مَقَایِیس۔
مِقْیَاسُ الحَرَارَة: تھرمامیٹر۔
مِقْیَاسُ الزَّلَازِل: زلزلہ پیما۔
مِقْیَاسُ الضَّغْطِ الجَوِّيّ: بادپیما۔
مِـقْیَاسُ الـمَطَر: بارش کی مقدار معلوم کرنے کا آلہ۔
مُقَایَسَة: اندازہ، تخمینہ، اسٹیمیٹ، خیال، تفصیلی خاکہ۔
مُـقَایَسَـةٌ تَقْرِیبِیَّة: سرسری اندازہ، رف اسٹیمیٹ۔
قَیَّضَ اللّٰهُ له: مقدر کرنا۔
قَـاضَ الشَّـيْءَ مِنَ الشَّـيْءِ: ایک چیز کو دوسری سے بدلنا۔
قَـاضَ ـــ قَیْضاً: پھاڑنا، چیرنا (۲) پھٹنا۔

قَایَضَ بکذا: تبادلہ کرنا۔
تَقَیَّضَ، اِنْقَاضَ: ٹوٹنا، منہدم ہونا۔
مُقَایَضَة: تبادلہ۔
قَیْظٌ: گرمی کی شدت (۲) گرمی کا موسم۔
قَاظَ النَّهَارُ ـِ قَیْظاً: گرم ہونا۔
قَیَّفَهُ: پیچھا کرنا، تعاقب کرنا۔
قِیَافَة: (دا) ہیئت (۲) حسنِ صورت۔
قَیْلٌ: نواب ج: اَقْیَال۔
قَیْلٌ هِندِيّ: راجہ، نواب۔
قَالَ ـِ قَیْلُولَةً: قیلولہ کرنا۔
اَقَـالَ: فسخ کرنا (۲) معاف کرنا (۳) سبکدوش کرنا، برطرف کرنا۔
اَقَالَه مِنْ مَنْصِبِه: عہدہ سے ہٹانا۔
اِسْتَقَالَ البَیْعَ: فسخِ بیع کا مطالبہ کرنا۔
اِسْتَقَـالَ مِنَ الـخِدْمَة: مستعفی ہونا، استعفادینا۔
إقَالَة: فسخ، معزولی (۲) معافی (۳) برطرفی۔
إقَالَةُ الوِزَارَة: وزارت کی برطرفی۔
اِسْتِقَالَة: استعفا، سبکدوشی۔
مُقِیل: فسخ کنندہ۔
مُسْتَقِیل: استعفادہندہ۔
قَیَّمَ تَقْیِیماً: قیمت لگانا، اندازہ لگانا (۲) معیار مقرر کرنا، پیمانہ مقرر کرنا (۳) حیثیت دینا، قدر کرنا، حیثیت بلند کرنا۔
تَقْیِیم: اندازہ، جائزہ، قدر افزائی۔
قَیَّنَ: مُزیّن کرنا۔
قَیْنَة: گانے والی، مغنیہ ج: قِیَان۔

ک

ک: مانند، مثل (برائے تشبیہ) (۲) تجھکو، ضمیر منصوب متصل (۳) تیرا، تیری، ضمیر مجرور متصل

ک .... أ

كَئِبَ ـَ كَآبَةً واكْتَأَبَ: اُداس ہونا، غمگین ہونا، شکستہ خاطر ہونا۔

أكْأَبَهُ: رنج پہنچانا۔

كَئِيب، مُكْتَئِب: رنجیدہ، ملول، افسردہ، آزردہ، آبدیدہ۔

كَأْدَاء: رنج، سختی۔

عَقَبَةٌ كَأْدَاءُ: دشوار گزار گھاٹی۔

كَأْس: پیالہ، گلاس، جام ج: أكْؤُس و كُؤُوس۔

كَأْسُ المَنِيَّةِ أو الحِمَام: جامِ اجل۔

كَاثُولِيكِيّ: (مع) کیتھولک۔

كَأَنَّ: گویا کہ۔

كَانُون: (دیکھیے: کنن)۔

ک .... ب

كَبَّ ـُ كَبًّا: اوندھا کرنا۔

أكَبَّ و انكَبَّ عَلَى وَجْهِهِ: اوندھا ہونا۔

أكَبَّ و انكَبَّ عَلَى أمْرٍ: مشغول ہونا۔

كُبَّةُ الغَزْل: دھاگے کا گولہ ج: كُبَب۔

مِكَبُّ الخَيْط: دھاگے کی ریل، نلکی۔

كَبَتَ ـِ كَبْتًا: رُسوا کرنا (۲) توڑنا (۳) غصہ یا خواہش پر قابو پانا۔

كَبَتَ الحَقِيقَةَ: حقیقت کو چھپانا۔

كَبَتَ الدَّوَافِعَ الطَّبِيعِيَّةَ: فطری جذبات کو دبانا۔

كَبُّوت: (دا) اوورکوٹ۔

كَبُّوتُ العَرَبَةِ: رکشا یا تانگے کی چھتری۔

كَبَحَ الدَّابَّةَ بِاللِّجَام ـَ كَبْحًا: جانور کو روکنے کے لئے لگام کھینچنا (۲) باز رکھنا، روک تھام کرنا۔

كَبَحَ العَوَاطِفَ: جذبات پر قابو پانا۔

كَبَحَ جِمَاحَ أحَدٍ: مزاج درست کر: مغلوب کرنا۔

كَبْح: قابو، کنٹرول، ضبط، مزاحمت۔

مِكْبَح: بریک۔

كَبِدٌ: جگر (۲) وسطِ شے (۳) جوف ج: أكْبَاد۔

كُبَاد: جگر کی بیماری، جگر کا درد۔

کَابَدَ، تَکَبَّدَ: مشقت اٹھانا، جھیلنا۔
تَکَبَّدَ: (۲) وسط میں ہونا۔
تَکَبَّدَتِ الشَّمْسُ: سورج کا سر پر آنا۔
کَبَّدَهُ الخَسَارَةَ: نقصان پہنچانا۔
کَابَدَ الخَسَائِرَ: نقصانات اٹھانا۔
مَکَابِدُ: مشقتیں۔
کَبِرَ فِی السِّنِّ ۔ کِبَراً: عمر رسیدہ ہونا۔
کَبَرَ فُلاناً ۔ کُبْراً: کسی سے عمر میں بڑا ہونا۔
کَبُرَ ۔ کِبَراً و کُبْراً: حجم یا مرتبے میں بڑا ہونا (ضد: صَغُرَ)۔
کَبُرَ عَلَیْهِ الأَمْرُ: شاق گزرنا، گراں ہونا۔
کَبَّرَ: بڑا بنانا، بڑا کرنا (۲) اضافہ کرنا (۳) ترقی دینا (۴) تعظیم کرنا (۵) ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا (۶) مبالغہ سے کام لینا (۷) بڑا قرار دینا۔
کَبَّرَ عُمْرَہ: عمر زیادہ ظاہر کرنا۔
کَابَرَهُ: دشمنی و عناد کرنا (۲) غالب آنا۔
أَکْبَرَ: بڑا سمجھنا (۲) تعظیم کرنا۔
تَکَبَّرَ، تَکَابَرَ، اِسْتَکْبَرَ: بڑا بننا (۲) تکبر کرنا۔
اِسْتَکْبَرَ: بڑا سمجھنا (۲) تکبر کرنا۔
کِبْرٌ، کِبْرِیَاءُ: بڑائی، آل (۲) شان (۳) تکبر۔
کِبَرٌ، کُبْرٌ: اعزاز، عظمت (۲) بڑاپن۔
کُبَارٌ، کُبَّارٌ، کَبِیرٌ: بڑا، بڑے حجم کا۔
کَبِیرٌ: بڑا (۲) بلند مرتبہ، چیف، جنرل (۳) بنیادی (۴) بڑے حجم کا ج: کِبَار۔
کَبِیرُ الأُمَنَاءِ: چیف سیکرٹری۔
کَبِیرُ العَدَدِ: بھاری تعداد میں۔
کَبِیرُ الکُتَّابِ: ہیڈ کلرک۔
کَبِیرُ المُمَثِّلِینَ: سینیر نمائندہ۔
کَبِیرُ المَقَامِ: بڑی پوزیشن والا۔
کَبِیرُ المُهَنْدِسِینَ: چیف انجینئر۔
کَبِیرُ الوُزَرَاءِ: چیف منسٹر، وزیر اعلیٰ۔
کَبِیرُ الوَزْنِ: ہیوی، بھاری۔
کِبَارُ المُوَظَّفِینَ: اعلیٰ عہدہ داران۔
مُکَبِّرُ الصَّوْتِ: لاؤڈ سپیکر۔
مُکَابِرٌ: مخالف، معاند۔
کُبْرِیٌ، کُوبْرِیٌ: (مع) پُل ج: کَبَارِی۔
کُبْرِیٌّ عَائِمٌ: تیرتا ہوا پُل (کشتیوں کا پُل)۔
کَبْرَتَ الشَّیْءَ: گندھک ملانا۔
کِبْرِیتٌ: گندھک، سلفر (۲) ماچس۔
کِبْرِیتُ عُمُودٍ: گندھک کی بتی۔
کِبْرِیتَةٌ: ایک ماچس۔
کِبْرِیتِیٌّ: گندھک کا، گندھک جیسا۔
حَامِضٌ کِبْرِیتِیٌّ: گندھک کا تیزاب۔
مُکَبْرَتٌ: گندھک ملا ہوا۔
کَبَسَ عَلَی: دباؤ ڈالنا، اثر ڈالنا۔
کَبْسٌ: دباؤ، داب۔
کَبْسُ الکَهْرَبَاءِ: فیوز FUSE۔
کَبَّاسٌ، مِکْبَسٌ: پریس، دبانے کی مشین۔
کَبَّاسٌ و مِکْبَسُ الطُّلُمْبَةِ: شکنجہ، رولدار شکنجہ۔
مِکْبَسٌ بُخَارِیٌّ: اسٹیم پریس۔
مِکْبَسٌ لِأَخْذِ صُوَرِ المُسْتَنَدَاتِ: کاپنگ پریس، نقل بنانے کی مشین۔
مَکْبُوسٌ: دبایا ہوا، پریس کیا ہوا۔
کَبْشٌ: مینڈھا ج: أَکْبَاشٌ۔

كُبْشَة: مُشت بھر (۲) گُچھا۔
كُبْشَةُ الثِّيَاب: ٹک اور تکمہ۔
كَبَلَ ـِ كبلاً و كَبَّلَ: قید کرنا، بیڑی ڈالنا (۲) جکڑنا۔
كَبْل: بیڑی ج: كُبُول و أَكْبُل۔
كَبُولِيّ: بریکٹ جو دیوار میں تختہ رکھنے کے لئے لگایا جاتا ہے۔
مُكَبَّل: جکڑ بند، مقید۔
كَبْوَة: ایک ٹھوکر جس کے بعد آدمی گر جائے۔
كَبَا ـُ كَبْواً و انكَبَى لِوَجْهِهِ: ٹھوکر کھا کر گرنا (۲) منھ کے بل گرنا۔
كَبَا الكُوزَ: پیالہ کو پانی گرا کر خالی کرنا۔
كَبَا النُّورُ: روشنی ختم ہونا، مدہم ہونا۔
كَبَا اللَّوْنُ: رنگ پھیکا پڑنا۔
كَبَا وانكَبَى الزَّنْدُ: چقماق سے آگ نہ نکلنا۔

ک............ت

كَتَبَ ـُ كِتَابَةً: لکھنا (۲) تصنیف کرنا (۳) تحریر کرنا (۴) نقش وغیرہ بنانا۔
كَتَبَ لَهُ بِكَذا: وصیت کرنا۔
كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْه: فرض کرنا۔
كَتَّبَ: لکھوانا، املا کرانا (۲) لکھنا سکھانا۔
كَاتَبَهُ مُكَاتَبَةً: خط و کتابت کرنا۔
اِكْتَتَبَ في كذا: چندہ دینا (۲) شریک ہونا (۳) اخبار یا رسالہ کا خریدار بننا۔
تَكَاتَبُوا: باہم مراسلت کرنا۔
اِسْتَكْتَبَ: املا کرانا (۲) املا کی درخواست کرنا۔
كَتْبٌ، كِتَابَة: لکھائی۔

كِتَاب: کتاب (۲) خط، لیٹر (۳) پیغام (۴) تحریر۔
الكِتَابُ الأَزْرَق: بلو بک۔
كِتَابٌ رَائِجٌ جِدّاً: کثیر الاشاعت کتاب۔
كِتَابُ الزَّوَاج: نکاح نامہ۔
كِتَابٌ سَنَوِيّ: سالنامہ۔
كِتَابُ الطَّلَاق: طلاق نامہ۔
كِتَابٌ مَدْرَسِيّ: کلاس بک۔
كِتَابُ مُطَالَعَةٍ: ریڈنگ بک۔
الكِتَابُ المُقَدَّس: تورات و انجیل۔
كِتَابِيّ: تحریری (۲) اہل کتاب میں سے ایک شخص۔
عَمَلٌ كِتَابِيّ: تحریری کام۔
غَلْطَةٌ كِتَابِيَّة: تحریری غلطی۔
كُتَّاب: مکتب، چھوٹا مدرسہ ج: كَتَاتِيب۔
كِتَابَة: تحریر، لکھائی، ہینڈ رائٹنگ (۲) مضمون نگاری، مضمون نویسی، انشاء پردازی۔
كِتَابَةُ الاختِزَال: مختصر نویسی، شارٹ ہینڈ، اسٹینو گرافی۔
كِتَابَةٌ سِرِّيَّة: خفیہ تحریر۔
كِتَابَةُ القِصَص: افسانہ نویسی۔
وَرَقُ الكِتَابَة: رائٹنگ پیپر۔
أَدَوَاتُ الكِتَابَة: اسٹیشنری۔
كُتُبِيّ: کتب فروش، بک سیلر۔
كُتَيِّب: کتابچہ، پمفلٹ۔
كَتِيبَة: فوج کا ایک ڈویژن، بٹالین ج: كَتَائِب۔
كَاتِب: رائٹر، مصنف، مضمون نگار، انشا پرداز ج: كُتَّاب۔

كَاتِبٌ ج: كَتَبَة: محرّر، منشی، کلرک۔
كَاتِبُ الاختِزَال: مختصر نویس، اسٹینوگرافر۔
كَاتِبُ الاستاد: ٹیچر کلرک۔
كَاتِبُ الانتِباجِيَّات: ایڈیٹر۔
الكَاتِبُ الاوَّل: چیف کلرک، ہیڈ کلرک۔
كَاتِب حِسا:۔
كَاتِبُ حِسابات: کلرک، محاسب۔
كَاتِبُ الحِفْظ: فائلنگ کلرک۔
الكَاتِبُ الرِّوَائِيّ: افسانہ نگار، ناول نگار۔
كَاتِبُ السِّرّ: پرائیوٹ سکریٹری۔
كَاتِبُ عَدْل: رجسٹرار۔
كَاتِبُ العُقُوْد: عرائض نویس، وثیقہ معاملات لکھنے والا۔
كَاتِبٌ عَلَى الآلَةِ الكَاتِبَة: ٹائپسٹ۔
كَاتِبٌ عُمُومِيّ: کلرک۔
كَاتِبٌ مُبْتَدِئٌ: جونیئر کلرک۔
كَاتِبُ المُراسلات: مراسلہ نویس۔
كَاتِبٌ مَوْثُوقٌ به: قابل اعتماد کلرک۔
آلَةٌ كَاتِبَة: ٹائپ رائٹر۔
اِكْتِتَاب: چندہ، اخبار یا رسالہ میں حصہ ج: اِكْتِتَابَات۔
مَكْتَب: مدرسہ (۲) دفتر، آفس (۳) لکھنے کی میز، ڈیسک ج: مَكَاتِبُ۔
مَكْتَبُ الاستعلامات: انکوائری آفس، دفتر تحقیقات، دفتر معلومات۔
مَكْتَبُ الاعْلامِ القَوْمِيّ: قومی محکمہ اطلاعات۔
مَكْتَبُ البَرِيْد: پوسٹ آفس، ڈاکخانہ۔
مَكْتَبُ البَرِيْدِ العَامّ: جنرل پوسٹ آفس۔
مَكْتَبُ تَحْقِيقِ الشَّخْصِيَّة: ایڈنٹی آفس۔
مَكْتَبُ تَخْدِيم: امپلائمنٹ آفس، کام دینے والا محکمہ۔
مَكْتَبُ التَّذَاكِر: ٹکٹ آفس، بکنگ آفس۔
مَكْتَبُ التَّسْجِيل: رجسٹری آفس، رجسٹرار آفس۔
مَكْتَبُ تَسْجِيلِ العَفْش: بگیج رجسٹریشن آفس۔
مَكْتَبُ تَسْجِيلِ العُقُود: رجسٹری آفس۔
مَكْتَبُ التِلِغْرَاف: ٹیلیگراف آفس، تار گھر۔
مَكْتَبُ التَّوْظِيف: امپلائمنٹ آفس، ملازمت دینے والا محکمہ۔
مَكْتَبُ الجُمْرُك: کسٹم ہاؤس۔
مَكْتَبُ خَتْمِ الدَّمْغَة: اسٹامپنگ آفس۔
المَكْتَبُ الدُّوَلِيّ: بین الاقوامی بیورو، انٹرنیشنل بیورو۔
المَكْتَبُ الرَّسْمِيّ: سرکاری دفتر، باضابطہ دفتر۔
المَكْتَبُ الرَّئِيْسِيّ: سنٹرل آفس، مرکزی دفتر، صدر دفتر۔
مَكْتَبُ صِرَافَة: سکہ بدلنے کا دفتر۔
مَكْتَبُ العَمَل: لیبر آفس۔
مَكْتَبُ العَمَلِ الدُّوَلِيّ: بین الاقوامی لیبر آفس۔
المَكْتَبُ الفَرْعِيّ: برانچ آفس، سب

آفس۔
مَكْتَبُ الْمُدِيْر: ڈائرکٹر آفس، دفتر اہتمام۔
الْمَكْتَبَة: بک شاپ، لائبریری، کتب خانہ (۲) درس گاہ۔
المَكْتَبَةُ العَامَّة: پبلک لائبریری۔
مَكْتَبَةٌ لِلاسْتِعَارَة: کتابیں کرایہ پر دینے والی لائبریری۔
مِكْتَاب: ٹائپ مشین، ٹائپ رائٹر۔
مَكْتُوب: لکھاہوا (۲) خط (۳) پیغام۔
مَكْتُوبٌ عَلَيْه: مقدر۔
مَكْتُوبَةٌ بِخَطِّ المُؤَلِّف: آٹوگراف۔
مَكْتُوبَةٌ بِخَطِّ اليد: مخطوطہ۔
مُكَاتِب: نامہ نگار، مراسلہ نگار، خطوط نویس۔
مُكَاتَبَة: خط وکتابت، نامہ نگاری۔
كُتُشِينَة: (دا) تاش کے پتے۔
كَتِعَ ــــ كَتَعاً: لُنجا ہونا (۲) سکڑنا۔
أَكْتَع: یک دست آدمی، لُنجا۔
كَتَفَ ـــــ كَتْفاً و كَتَّفَ: دونوں ہاتھ پیچھے باندھنا، مشکیں کسنا۔
كِتْفٌ، كَتِفٌ: کندھا ج: أَكْتَاف۔
كِتَاف: مشکیں کسنے کی رسّی ج: أَكْتِفَة۔
مَكْتُوف: دست بستہ۔
مَكْتُوفُ الأَيْدِي: بےبس۔
كَتْكُوت: (دا) مرغی کا بچہ، چوزہ۔
كَتَلَ ـــ كَتْلاً و كَتَّلَ: قید کرنا، جمع کرنا، دھڑا بنانا۔
تَكَتُّل: یکجا ہونا، جمع ہونا، دھڑا بنانا، پیکٹ کرنا (۲) دھڑابندی، بلاک، گروپ۔
تَكَتُّلٌ اِقْتِصَادِيّ: اقتصادی بلاک۔
تَكَتُّلٌ سِيَاسِيّ: سیاسی دھڑابندی۔
اَلتَّكَتُّلَات: گروپ بندیاں، دھڑے بندیاں۔
تَكَتُّلَاتٌ عُمَّالِيَّة: مزدوروں کے گروہ، دھڑے۔
كُتْلَة: (۱) ڈھیر، انبار، تودہ (۲) لوگوں کا بڑا گروہ، ممالک کا متحدہ گروہ، بلاک (۳) پیکٹ ج: كُتَل۔
الْكُتْلَةُ الاِسْتَرْلِينِيَّة: اسٹرلنگ بلاک۔
كُتْلَةٌ إِسْلَامِيَّة: اسلامی بلاک۔
الْكُتْلَةُ الافْرِيقِيَّةُ الآسِيَوِيَّة: افروایشین بلاک۔
كُتْلَةٌ اِقْتِصَادِيَّة: اقتصادی بلاک۔
كُتْلَةٌ أَمْرِيكِيَّة: امریکن بلاک۔
كُتْلَةٌ آسِيَوِيَّة: ایشیائی بلاک۔
كُتْلَةُ خَشَب: لکڑی کی گانٹھ۔
الْكُتْلَةُ السُّوفِيتِيَّة: روسی بلاک۔
كُتْلَةٌ سِيَاسِيَّة: سیاسی دھڑا، گروہ۔
الْكُتْلَةُ الشَّرْقِيَّة: مشرقی بلاک۔
الْكُتْلَةُ الشُّيُوعِيَّة: کمیونسٹ بلاک۔
كُتْلَةُ عَدَمِ الانْحِيَاز: غیر جانبدار بلاک، ناوابستہ بلاک۔
الْكُتْلَةُ الغَرْبِيَّة: مغربی بلاک۔
كَتَمَ ـــ كَتْماً و كِتْمَاناً: چھپانا، پوشیدہ رکھنا۔
كَتَمَ نَفَسَهُ: دم چرانا۔
كَاتِمُ السِّرِّ: رازدار بنانا۔
اِسْتَكْتَمَهُ السِّرَّ: راز میں رکھانا۔

كِتَامُ البَطْن: (دا) قبض۔
كَاتِمُ السِّرّ أو الأسْرَار: پرائیویٹ سکریٹری، سکریٹری۔
كَتُومُ: رازدار، پیٹ کا گہرا، اپنی باتیں چھپانے والا۔
تَكَتُّم: رازداری۔
تَكَتُّم شَدِيْدٌ: زبردست رازداری۔
مَكْتُوم: صیغۂ راز میں۔
مَكْتُومُ البَطْن: قبض کا مریض۔
كَتَنٌ: جالا، دھبہ۔
كَتَّان: سن، ایک قسم کا ریشہ جس سے مضبوط کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔
نَسِيْجُ الكَتَّان: سوتی کپڑا، کتان کپڑا۔
كَتَّانِيّ، مِنَ الكَتَّان: سوت کا۔

ک .... ث

كَثَبٌ: قُرب، نزدیکی۔
عَنْ كَثَبٍ، مِنْ كَثَبٍ: نزدیک سے۔
كَثِيْب: پہاڑوں کے درمیان کی نشیبی زمین ج: كُثْبَان۔
كَثَّ ـــِ كَثَاثَةً و كِثَثاً: (۱) گھنا ہونا (۲) گاڑھا ہونا، بالوں کا گنجان ہونا۔
كَثُرَ ـــُ كَثْرَةً: زیادہ ہونا۔
كَثُرَ عَنْ: بڑھنا، زائد ہونا۔
كَثَّرَ و أكْثَرَ: زیادہ کرنا، اضافہ کرنا۔
كَثَّرَ مِنْ فِعْلٍ: کسی کام کو بہ کثرت کرنا۔
كَثَّرَ فِي الكَلَام: بہت بولنا۔
كَثِيْرٌ جِدّاً: از حد، بہت زیادہ۔
أكْثَرُ مِنَ اللَّازِم: ضرورت سے زیادہ۔
أكْثَر فَأكْثَر: زیادہ سے زیادہ۔

مُكْثِر: بہت مالدار۔
مِكْثَار: باتونی، بسیار گو۔
كَثُفَ ـــُ كَثَافَةً: گنجان ہوا، گاڑھا ہونا، گھنا ہونا، کثرت سے ہونا۔
كَثَّفَ: گاڑھا کرنا (۲) گھنا بنانا (۳) بڑھانا، تیز کرنا۔
كَثَّفَ الجُهُودَ: کوششوں کو تیز کرنا۔
كَثَّفَ النَّشَاطَ: فعالیت بڑھانا، سرگرمی تیز کرنا۔
كَثَافَة: گھنا پن، کثرت، شدت۔
كَثَافَةُ السُّكَّان: کثرتِ آبادی، آبادی میں اضافہ۔
الكَثَافَةُ السُّكَّانِيَّة: آبادی کی کثرت۔
كَثِيْف: گاڑھا (۲) گنجان (۳) گھنا (۴) زبردست۔
مُكَثَّف: زبردست، گھنا۔
مُكَثَّفٌ جِدّاً: ٹائٹ، بہت گھنا۔
كَثُولِيْكِيّ: (مع) کیتھولک۔

ک .... ح

كُحَّة: کھانسی۔
كَحْكَحَة: رُک رُک کر کھانسنا۔
كَحَلَ العَيْنَ ـــَ كَحْلاً و كَحَّلَ و اكْتَحَلَ: سرمہ لگانا۔
كَحَلٌ: پلکوں کی سیاہی۔
كُحْل، كِحَال: سرمہ۔
كُحْلَةُ أو تَكْحِيْلُ البِنَاء: اینٹوں کی ٹیپ، دیوار پر اینٹوں کے نشان۔
كَحَّال: آنکھوں کا ماہر ڈاکٹر۔
أكْحَلُ: سیاہ چشم ج: كُحْلٌ م:

کَحلاءُ۔
کُحُول، الکُحُول: الکوہل۔
مِکحَال و مِکحَل: سرمہ لگانے کی سلائی۔
مُکحُلَة: سرمہ دانی ج: مَکاحِلُ۔

ک..........د

کَدَحَ ـَ کَدحاً: جانفشانی کرنا، جسمانی محنت کرنا۔
اِکتَدَحَ لِعِیَالِه: اہل وعیال کے لئے روزی کمانا۔
کَدحٌ: محنت، جانفشانی۔
کَدحُ الذِّهن: ذہنی کاوش۔
کَادِحٌ: محنت کش۔
کَدَّ ـُ کَدّاً: محنت کا کام کرنا، مشقت اُٹھانا (۲) کاوش کرنا۔
کَدُودٌ: بڑا محنتی، جفاکش۔
کَدِرَ ـَ کَدَراً و کَدُرَ ـُ کُدرَةً: گدلا ہونا۔
کَدِرَ العَیشُ: زندگی تنگ ہونا۔
کَدَّرَ تَکدِیراً: گدلا کرنا، مکدر کرنا (۲) تنگ کرنا، پریشان کرنا (۳) غصہ دلانا۔
تَکَدَّرَ: گدلا ہونا (۲) ناراض ہونا، بُرا ماننا۔
کَدَرٌ، کُدرَة: گدلا پن۔
کَدَرٌ: پریشانی، تکدر، ملال، رنج۔
کَدِرٌ: گدلا، غیر صاف شدہ۔
کَادِرٌ: وہ جماعت جو کسی خاص کام کے لئے تیار کی گئی ہو ج: کَوَادِر۔
کَدَّسَ تَکدِیساً: ڈھیر لگانا، انبار لگانا۔
کَدَّسَ الاَسلِحَةَ: ہتھیاروں کے ڈھیر لگانا، انبار لگانا۔
تَکَدُّسُ السُّکَّان: آبادی کی کثرت۔
کَدَی ـِ کَدیاً و اَکدَی: بخل سے دینا (۲) ناکام ہونا۔
کَدِّی: بھیک مانگنا۔
کُدیَة: بھیک۔

ک..........ذ

کَذَا، کَذٰلِکَ، هٰکَذَا: ایسے ہی، اسی طرح۔
کَذَا وَ کَذَا: ایسا ایسا، یہ اور وہ، چناں وچنیں۔
کَذَبَ ـِ کِذباً: جھوٹ بولنا۔
کَذَبَ علیه: الزام لگانا۔
کَذَبَتِ العَینُ: نگاہ کا دھوکہ دینا۔
کَذَّبَ: جھٹلانا، جھوٹا قرار دینا۔
کَذَّبَ الوَقَائِعَ: واقعات کو جھٹلانا۔
مَا کَذَّبَ أنْ فَعَلَ کَذا: اس نے بلاتوقف ایسا کیا۔
اَکذَبَهٗ: جھوٹ بولنے پر مجبور کرنا۔
کِذبَة، اُکذُوبَة: جھوٹی بات۔
کِذبَةُ أبرِیل: اپریل فول۔
تَکذِیبٌ رَسمِیٌّ: سرکاری تردید۔
تَکذِیبُ المَزَاعِم: دعووں کی تردید۔
کَذٰلِکَ: ایسے ہی، اسی طرح (۲) نیز، بھی۔

ک..........ر

کَرَبَ ـُ کَرباً: پریشان کرنا، بے چین و پریشان ہونا، غم میں مبتلا ہونا۔
کَرُب: غم، پریشانی، بے چینی ج: کُرُوب۔
مَکرُوب: پریشان، بے چین۔
مِکرُوب: جرثومہ، چھوٹا کیڑا، مائیکروب

(مع)۔
کُرْبَاج: (مع) کوڑا۔
کَرْبُون: کاربن، کوئلہ، کوئلہ جیسا سیاہ مادہ (مع)۔
وَرَق کَرْبُون: کاربن پیپر، نقل گیر کاغذ۔
کَرْبُونِیّ: کوئلہ جیسا، کوئلہ کا۔
کَرْتَنَ علیه: قرنطینہ لگانا، کسی وبا پھیلنے کے خوف سے حجاج کو کسی مقام پر روک دینا۔
کُرْنْتِینَة: قرنطینہ، پابندی۔
کَرْتُون: کارڈبورڈ (مع)۔
کَرَثَ الغَمُّ فُلاناً و اَکْرَثَ: غم کا گھلانا۔
اِکْتَرَثَ لِلأمْرِ: پروا کرنا۔
عَدَمُ اکْتِرَاث: بے پروائی۔
کَارِثَة: حادثہ ج: کَوَارِث۔
کَارِثَةٌ جَوِّیَّة: فضائی حادثہ۔
الکَارِثَةُ المُحَقَّقَة: یقینی حادثہ۔
کَارِثَةٌ مُرَوِّعَة: خوفناک حادثہ۔
کَرِجَ ۔ کَرَجاً: متعفن ہونا۔
کَرَّاجَة: سائکل۔
کُرْد: عراق کی ایک سرحدی قوم ج: اَکْرَاد۔
کَرَّرَ: اعادہ کرنا۔
کَرَّرَ النِّفْطَ أو البِتْرُول: پٹرول صاف کرنا۔
کَرَّرَ الدَّعْوَةَ لِلأکْل: کھانے کے لئے اصرار کرنا۔
کَرَّ ۔ کُرُوراً: لوٹنا (۲) پیچھے ہٹنا۔
کَرَّ رَاجِعاً: لوٹ کر آنا۔
کَرَّ علیه: حملہ کرنا، ٹوٹ پڑنا۔
تَکَرَّرَ: باربار ہوا۔

کَرٌّ، کَرَّةٌ: حملہ۔
کَرَّة: ایک دفعہ (۲) باری (۳) ایک لاکھ۔
تَکْرِیر: صفائی، تنقیہ، ریہرسل۔
مَعْمَلُ التَّکْرِیر: تیل صاف کرنے کا کارخانہ، ریفائنری۔
کَرَزَ ۔ کُرُوزاً: پوشیدہ ہونا۔
کَرَّسَ البِنَاءَ: بنیاد رکھنا۔
کَرَّسَ: تنظیم کرنا (۲) صرف کرنا، مسلسل کرنا۔
کَرَّسَ الشیَٔ لکذا: مخصوص کرنا۔
کَرَّسَ نَفْسَهُ علی شیٍٔ: خود کو وقف کرنا۔
کَرَّسَ الجُهُودَ: کوششیں صرف کرنا۔
کَرَّسَ الاحْتِلَالَ: قبضہ جاری رکھنا۔
کَرَّسَ الهَیْمَنَةَ: کنٹرول برقرار رکھنا۔
کُرْسِیّ: کرسی، چیر ج: کَرَاسِیّ۔
__ الأُسْتَاذِیَّة: پروفیسری کی مسند۔
__ بِلا ظَهْرٍ: اسٹول۔
__ بِمَسَانِد: آرام کرسی۔
__ خَیْزُرَان: بید کی کرسی۔
__ العَمُود او التِّمْثَال: ستون یا مجسمہ کا چبوترہ۔
__ قَشّ: موڑھا، بانس یا بید کی بنی ہوئی کرسی۔
__ القَضَاء: کرسی عدالت۔
__ قُمَاش: کپڑے کی آرام کرسی۔
__ المَلِک: تخت شاہی۔
__ المَمْلَکَة: پایۂ تخت۔
__ هَزَّاز: متحرک کرسی۔
کُرَّاس، کُرَّاسَة: کتاب کا ایک جز (۲) پمفلٹ (۳) کاپی، یادداشت ج:

كُرَّاسَات و كَرَارِيس۔
كَرِشَ ۔ كَرَشاً و تَكَرُّش: کھال سکڑنا۔
كِرْشٌ : اوجھ ج: كُرُوش۔
كِرْش: (وا) پیٹ۔
كَرِعَ ۔ كَرْعاً و كُرُوعاً: برتن میں منھ ڈال کر پانی پینا۔
تَكَرَّعَ الرَّجُلُ: اطرافِ بدن پر پانی بہانا۔
كُرَاع: بکرے وغیرہ کے پائے، انسان کے گھٹنے سے نیچے کا حصہ ج: اَكَارِع۔
كَرَفس: اجوائن کا درخت۔
كُرْكِيّ: سارس ج: كَرَاكِيّ۔
كَرَّاكَة: نالیوں کا پانی نکالنے کی مشین۔
كَرْكَدَّن: گینڈا۔
كَرُمَ ۔ كَرَامَة: بیش بہا ہونا (۲) صاحب عزت ہونا (۳) عالی ظرف ہونا (۴) فیاض وسخی ہونا (۵) فراخ دل و بے تعصب ہونا۔
كَرَّمَ، اَكْرَمَ: عزت کرنا۔
كَارَمَ فُلاناً: فیاضانہ سلوک کرنا۔
كَارَمَهُ فِي الثَّمَن: کسی سے اعزازی قیمت وصول کرنا۔
تَكَرَّمَ: سخاوت کرنا (۲) مہربانی کرنا۔
تَكَرَّمَ عَلَيْه بكذا: نوازش کرنا، نوازنا۔
تَكَرُّماً مِنكَ: ازراہ کرم۔
كَرَمٌ: سخاوت، فیاضی، کشادہ دلی (۲) مہربانی۔
كَرَمُ الأَخْلاَق: عالی ظرفی۔
كَرَماً: ازراہِ کرم (۲) ازراہِ سخاوت۔
كَرْم: باغ (۲) انگور کی بیل (۳) انگور ج: كُرُوم۔

بِنْتُ العِنَب أو الكَرْمَة: شراب۔
كَرْمَةُ العِنَب: انگور کی بیل۔
كَرَامَة: اعزاز (۲) شان (۳) حیثیت (۴) سخاوت، فیاضی (۵) شرافت۔
كَرِيْم: سخی، فیاض (۲) شریف النفس (۳) مہمان نواز (۴) معزز (۵) مہربان ج: كُرَمَاء و كِرَام۔
كَرِيْمُ الأَخْلاَق: وسیع الاخلاق، بلند اخلاق۔
كَرِيْمُ الأَصْل: شریف النسب۔
كَرِيْمُ المَحْتِد: شریف النسل۔
حَجَرٌ كَرِيْم: قیمتی پتھر، ہیرا۔
مَعْدِنٌ كَرِيْم: قیمتی دھات۔
كِرِيْم: کریم۔
الكِرِيْمُ البَارِد: کولڈ کریم۔
كَرِيْمَةُ الرَّجُل: بیٹی۔
الكَرِيْمَتَان: دونوں آنکھیں۔
تكْرِيْم: اعزاز۔
تَكْرِيْماً و تَقْدِيْراً لِأَحَدٍ: کسی کے اعزاز میں۔
تكْرِيْمِيّ: اعزازی۔
إِكْرَاماً له: اعزاز میں۔
إِكْرَاماً لِخَاطِرِ فُلاَنٍ: فلاں کی دلداری کے لئے۔
إِكْرَاماً لِوُجُودِه: فلاں کے اعزاز میں۔
إِكْرَامِيَّةُ المُحَامِي: بیرسٹر کی فیس (محنتانہ)۔
مَكْرُمَة: کارنامہ، قابلِ قدر کام ج: مَكَارِم۔
كَرِهَ ۔ كُرْهاً: ناپسند کرنا، نفرت کرنا۔
كَرَّهَ فُلاناً الشيئَ و إِلَيْه: نفرت دلانا۔

أَكْرَهَ عَلَى: مجبور کرنا۔
تَكَرَّهَ و اسْتَكْرَهَ الشيْءَ: برا سمجھنا۔
كُرْهٌ ، كَرَاهَة ، كَرَاهِيَة: ناپسندیدگی۔
كُرْهٌ ، كَرَاهَة: نفرت، بغض، دشمنی۔
الكَرَاهِيَةُ العُنْصُرِيَّة: نسلی نفرت۔
كُرْهاً ،و عَلَى كُرْهٍ ، عَنْ كَرَاهِيَةٍ: مجبوراً، بے رضا، ناخوشی سے۔
كَرِهٌ ، كَرِيهٌ: ناپسندیدہ، قابل نفرت۔
كَرِيهُ الرَّائِحة: بدبودار۔
كَرِيهُ الطَّعْم: بدذائقہ۔
كَرِيهُ الْمَنْظَرُ: بدصورت۔
إِكْرَاه: جبر وتشدد۔
سَرِقَةٌ بِإِكْرَاهٍ: ڈاکہ زنی۔
تَكَرُّه: ناگواری، ناپسندیدگی۔
مَكْرُوهٌ ج: مَكَارِهُ: مصیبت، ناخوشگوار بات، ناپسندیدہ، قابلِ نفرت۔
مَكْرُوهَة: سختی، مصیبت ج: مَكَارِهُ۔
كَرَا ـُـ كَرْواً و كَرَى ـِـ رْياً: کھودنا (٢) کروی بنانا، گول بنانا۔
كُرَة: گولا، گلوب ج: كُرَات۔
كُرَةُ القَدَم: فٹ بال۔
كُرَةُ اللَّعِب: گیند، بال۔
كُرَةُ السَّلَّة: باسکٹ بال۔
كُرَوِيّ: گول۔
كَرِيَ ـَـ كَرًى و تَكَرَّى: سونا۔
كَرَى ـِـ كَرْياً: نہر کھودنا، صاف کرنا۔
كَارَى و أَكْرَى: کرایہ پر دینا۔
اِكْتَرَى ، اِسْتَكْرَى: کرایہ پر لینا۔
كَرًى: نیند۔

كِرَاء: کرایہ، مزدوری۔
مُكْرٍ ، مُكَارٍ: کرایہ پر دینے والا۔
مُسْتَكْرٍ: کرایہ دار۔
كِرِيكِتٌ: (مع) کرکٹ۔

ک............ز

كُزْبُرَة: دھنیا۔

ک............س

كَسَبَ ـِـ سْباً و اكْتَسَبَ: کمانا، مال حاصل کرنا (٢) نفع اٹھانا، پانا۔
__ فی المُبَارَة أو المُسَابَقَة: میچ جیتنا۔
__ أَكْسَبَ ، كَسَّبَ: دلانا، عطا کرنا۔
__ أَحداً إِلَى صَفِّهِ: ساتھ ملانا۔
__ الأَرْضَ بالقُوَّة: بزور زمین حاصل کرنا۔
__ إِعْجَابَ النَّاس: مقبولیت حاصل کرنا۔
__ التَّأْيِيدَ: حمایت حاصل کرنا۔
__ الثِّقَةَ: اعتماد حاصل کرنا۔
__ الرَّأْيَ العَامَّ لكذا: رائے عامہ ہموار کرنا۔
__ الوُدَّ: دوستی حاصل کرنا۔
__ الوَقْتَ: مہلت لینا، موقع یا وقت حاصل کرنا۔
اِكْتَسَبَ الاسْتِحْقَاق: استحقاق حاصل کرنا۔
اِكْتَسَبَ السُّمْعَةَ: شہرت حاصل کرنا۔
اِكْتَسَبَ سُمْعَةَ فَضْلٍ: کریڈٹ حاصل کرنا۔
اِكْتَسَبَ المَهَارَةَ: مہارت حاصل کرنا۔
اِكْتَسَبَ النُّفُوذَ: اقتدار ورسوخ حاصل کرنا۔

اِکْتَسَبَ الْخِبْرَةَ: تجربہ حاصل کرنا۔
اِکْتَسَبَ الْمُبَارَاةَ: میچ جیتنا۔
کَسْبٌ: کمائی، پرافٹ (۲) فائدہ، نفع (۳) کامیابی۔
کَسْبٌ غَیْرُ شَرْعِیّ: ناجائز آمدنی۔
کَسْبٌ غَیْرُ مَشْرُوْع: ناجائز فائدہ، ناجائز کمائی۔
مَکْسَب: کمائی (۲) ذریعۂ آمدنی ج: مَکَاسِبُ۔
مَکْسَبٌ رَائِع: شاندار کامیابی۔
مَکَاسِبُ: منافع، آمدنی، فوائد، مفادات، کامیابیاں۔
مَکَاسِبُ إِقْلِیمِیَّة: زمینی مفادات، صوبائی کامیابیاں۔
مَکَاسِبُ رَخِیْصَة: سستے مفادات۔
مَکَاسِبُ شَعْبِیَّة: عوامی مفادات۔
مُکْسِب: نفع بخش، فائدہ مند۔
مُکْتَسَب: کسبی، محنت سے حاصل کیا ہوا۔
مُکْتَسَبٌ بِالْکَدِّ وَالْعَمَل: پسینہ کی کمائی۔
کُسْتُبَان: (مع) انگشتانہ۔
کَسَحَ ـَـ کَسْحاً: جھاڑو دینا۔
کَسَحَ الْبِئْرَ: کنواں خالی کرنا۔
اِکْتَسَحَ: صفایا کرنا، ہڑپ کرنا۔
اِکْتَسَحَ الْبَالُوعَةَ: نالی صاف کرنا۔
کُسَاحَة: کوڑا کرکٹ۔
مِکْسَحَة: جھاڑو۔
کَسَدَ ـُـ کَسَاداً: مندا ہونا، بازار میں کسی چیز کی مانگ نہ رہنا۔
کَسَدَتِ السُّوْقُ أو التِّجَارَةُ: بازار یا کاروبار ٹھپ ہونا، مندا ہونا۔
کَسَاد: مندا، کساد بازاری۔
کَسَادٌ حَادٌّ: زبردست مندا۔
کَاسِد: (ضد رَائِج) وہ شے جس کی بازار میں مانگ نہ ہو، غیر چالو۔
کَسَرَ ـِـ کَسْراً: (سخت چیز) توڑنا (۲) مفلس بنانا (۳) شکست دینا (۴) شعر کا وزن توڑنا (۵) روشنی کو اس کے خط سے ہٹانا (٦) تیزی کم کرنا (۷) زور ختم کرنا (۸) دل توڑنا۔
کَسَرَ الاحْتِکَارَ: اجارہ داری قائم کرنا۔
کَسَرَ الحَاجِزَ: رکاوٹ دور کرنا۔
کَسَرَ الحَلْقَةَ الفُولاذِیَّةَ: آہنی حصار توڑنا۔
کَسَرَ الرَّقْمَ القِیَاسِیَّ: ریکارڈ توڑنا۔
کَسَرَ الصَّمْتَ: سکوت ختم کرنا، توڑنا۔
کَسَرَ الصَّمْتَ الْمُخَیِّمَ عَلٰی جَوِّ الاجْتِمَاع: میٹنگ پر چھائی ہوئی خاموشی کا پردہ چاک کرنا۔
کَسَرَ القَرَارَ: تجویز کی خلاف ورزی کرنا۔
کَسَرَ المَبْدَأَ: ضابطہ توڑنا۔
کَسَرَ شَرَفَه: بٹہ لگانا، بدنام کرنا، بے عزتی کرنا۔
___ عَنْ مُرَادِهِ: نامراد بنانا۔
اِنْکَسَرَ، تَکَسَّرَ: ٹوٹنا، کریک ہونا (۲) مفلس ہونا (۳) گرمی یا تیزی کم ہونا۔
اِنْکَسَرَ الْعَطَشُ: پیاس بجھنا۔
کَسْرٌ: ٹکڑا، حصہ، جُزء (۲) فریکچر، کریک ج:

كُسُور۔
كَسْرٌ عُشْرِيّ: اعشاری اجزاء جیسے دس، بیس، تیس وغیرہ۔
كَسْرَة: شکست ج: كَسَرَات۔
كِسْرَة: ٹکڑا، ریزہ ج: كِسَرٌ۔
كَسَّارَةُ الجوْز أو اللّوْز: سروتا، اخروٹ وغیرہ توڑنے کا آلہ۔
كَسِيْر: شکستہ۔
كَسِيْرُ الخَاطِر: شکستہ دل، رنجیدہ۔
كَاسِر: (١) توڑنے والا (٢) عقاب۔
طَيْرٌ كَاسِرٌ: حملہ آور پرندہ۔
كَاسُوْر: (وا) پتھر توڑنے کا ہتھوڑا۔
اِكْسِيْر: روح، خلاصہ۔
كَسْرُوْلَة: (مع) کڑچھا۔
كَسَفَ ـــ كُسُوفاً: سورج اور چاند کو گہن لگانا (٢) گہن لگنا (٣) شرمندہ کرنا (٤) رسوا کرنا۔
اِنْكَسَفَ: سورج کو گہن لگنا (٢) شرمندہ ہونا۔
كَسِلَ ـــ كَسَلاً و تَكَاسَلَ: سست ہونا۔
أَكْسَلَ، كَسَّلَ: سست بنانا۔
كَسِلٌ، كَسْلَان، كَسُوْل: سست۔
مِكْسَال: انتہائی کاہل۔
كِسْوَة: لباس، پوشاک، وردی، غلاف ج: كِسًى۔
كِسْوَةُ الكَعْبَة: غلاف کعبہ۔
كِسْوَةٌ رَسْمِيَّة: یونیفارم، سرکاری لباس۔
كِسَــاء: کپڑا، ڈریس، تن پوش، اوڑھنے کی چادر ج: أَكْسِيَة۔
الكِسَاءُ و الغِذَاءُ: روٹی کپڑا۔
كَسَاهُ ـــ كَسْواً و أَكْسَاهُ: پہنانا۔
كَسَا الشّيْئَ بالذّرُوْر: پاؤڈر ملنا۔
كَسَاهُ بالإسْمَنْت: سمنٹ کا پلاسٹر کرنا۔
كَسَاهُ بِثَوْب: کپڑا چڑھانا۔
كَسَاهُ بالجَص: پلاسٹر کرنا، چونے کا پلاسٹر کرنا۔
كَسَاهُ بالسَّجَّاد: کارپیٹ (قالین) بچھانا۔
كَسَــاهُ بِصَفَائِحَ مَعْدِنِيَّة: جستی پلیٹ چڑھانا۔
كَسِيَ ـــ كَسًا و اكْتَسَى: پہننا۔
كَاسٍ: تن پوش (ضد عارٍ)۔
مُكْسُوٌّ بكذا: ڈھکا ہوا۔

ك .... ش

كُشْتُبَان: انگشتانہ (وا)۔
كَشَحَ ـــ كَشْحاً: باہر نکالنا، دھتکارنا۔
كَشَحَ لَه و كَاشَحَهُ بالعَدَاوَة: دشمنی کرنا۔
اِنْكَشَحَ القَوْمُ: منتشر ہونا۔
اِنْكَشَحَ: (وا) بادل یا تاریکی کا چھٹنا۔
كَشْحٌ: پہلو ج: كُشُوح۔
طَوَى كَشْحَهُ عَلَى الأمْر: کسی کام پر متوجہ ہونا، مشغول ہونا۔
طَوَى كَشْحَه عَنْ: توجہ ہٹانا۔
كَشَاحَة: چھپی دشمنی۔
كَشَرَ و كَشَرَ ـــ عَنْ أَسْنَانِه: دانت نکالنا۔
كَشَّرَ: (وا) ترش رو ہونا۔
مُكَاشِر: قریبی پڑوسی۔
كَشَطَ ـــ كَشْطاً: جھاگ اُتارنا (٢) کھال اُتارنا (٣) کھرچنا (٤) مٹانا۔

کَشَفَ ـــــ کَشْفاً: کھولنا (۲) برہنہ کرنا (۳) ظاہر کرنا۔
کَشَفَ السِّتْرَ أو القِنَاعَ: نقاب یا پردہ اٹھانا۔
کَشَفَ عَنْ: اظہار کرنا، انکشاف کرنا۔
کَشَفَ سَیِّئَاتِهِ: رسوا کرنا۔
کَشَفَ عَلَیْهِ طِبِّیاً: (دا) معاینہ کرنا، چیک کرنا۔
کَشَفَ عَنِ السِّرِّ: افشائے راز کرنا۔
کَشَفَ عَنِ اللُّغْزِ: معمہ حل کرنا۔
کَشَفَ عَنِ المَوْهِبَة: صلاحیت جاننا۔
کَشَفَتِ الحَرْبُ عَنْ سَاقِهَا: لڑائی بھڑک اٹھنا۔
کَشَفَتِ المُظَاهِرَاتُ النِّقَابَ عَنْ کَذَا: مظاہروں سے یہ بات سامنے آئی۔
کَاشَفَهُ بکذا: کسی کے سامنے بیان دینا (۲) خبردار کرنا۔
کَاشَفَهُ بالعَدَاوَة: کھلی دشمنی کرنا۔
اِنْکَشَفَ انطویٰ و تَکَشَّفَ: کھلنا، پتہ لگنا، ظاہر ہونا۔
اِکْتَشَفَ: دریافت کرنا، سراغ لگانا، پتہ چلانا، پانا۔
اسْتَکْشَفَ الأَمْرَ: جستجو کرنا، تفتیش کرنا۔
تَکَشَّفَ النِّقَابُ عَنْ وَجْهِهِ: نقاب اٹھنا، بے نقاب ہونا۔
کَشْفٌ: اظہار، انکشاف، معاینہ (۲) رپورٹ، لسٹ، فہرست، چارٹ، شیٹ۔
ـــ اِکْتِشَاف: ایجاد یا دریافت، نئی تحقیق۔
ـــ الأُجُور: تنخواہوں کا شیٹ۔
ـــ الأَسْلِحَةِ المَطْلُوبَة: مطلوبہ ہتھیاروں کی فہرست۔
ـــ تَحْصِیل: کلکشن شیٹ۔
ـــ تَفَاصِیلِ القَضِیَّة: مقدمہ کی تفصیلات کی فہرست۔
ـــ حِسَاب: بل، گوشوارہ، تفصیلِ حساب۔
ـــ الدَّخْل: چارٹ آمدنی۔
کَشْفُ صَرْفٍ: گوشوارہ خرچ، پے لسٹ۔
ـــ طِبِّیّ: طبی رپورٹ، ڈاکٹری معاینہ۔
ـــ المَاهِیَات أو الرَّوَاتِب: گوشوارہ مشاہرات، پے شیٹ۔
ـــ مُحْتَوِیَاتِ حُزَمٍ: پیکنگ لسٹ۔
کَشْفُ الحِجَاب: بے نقابی۔
کَشْفُ النِّقَاب: نقاب کشائی۔
کَشْفُ المُؤَامَرَة: سازش کا انکشاف۔
کَشْفٌ عَلَى نَحْوٍ سَافِرٍ: واضح انکشاف۔
کَشَّاف، کَاشِف: انکشاف کنندہ۔
کَشَّـــاف: اسکاؤٹ، وہ سپاہی جو دشمنوں کی تعداد و حالت کے متعلق معلومات بہم پہنچانے کے لئے بھیجے جاتے ہیں ج: کَشَّافَة۔
النُّورُ الکَشَّاف: سرچ لائٹ۔
کَشَّافُ الضَّوْءِ: بیٹری، ٹارچ۔
الکَشَّـافَة: وہ جماعت جو خدمتِ خلق وغیرہ کے لئے تیار کی جائے۔
الفِتْیَانُ الکَشَّافَة: جماعتِ اسکاؤٹ کے جوان۔
کِشَافَة: جماعتِ اسکاؤٹ کا کام، اسکاؤٹنگ (۲) مخبری، جاسوسی۔
اِکْتِشَاف: ایجاد، دریافت۔

اِكْتِشَاف عِلْمِيّ: علمی تحقیق۔
اِكْتِشَافَات: انکشافات، دریافتیں۔
طَائِرَةُ اكْتِشَاف: سراغ رساں جہاز۔
كُشْك: (۱) کوٹھری، پہرہ دار کی کوٹھری (۲) لکڑی وغیرہ کا کیبن۔
كُشْفُ التِّلِيفُون: ٹیلیفون بوتھ، کال بکس۔
كُشْكُ الدَّيْدُبَان: سنتری بکس، پہریدار کے کھڑے ہونے کا بکس، کیبن۔
كُشْكٌ لِبَيْعِ الجَرَائِد: نیوز پیپر اسٹال۔
كُشْكٌ لِبَيْعِ الكُتُب: بک اسٹال۔
كُشْكٌ لِلْكُتُب: بک اسٹال۔
كَشْكُول: بھکاری کا چنبل (۲) اخبار یا کتاب کے تراشوں کا مرقع۔

ک .... ظ

كَظَّ ـُ كَظّاً: بھرنا۔
كَظَّ الطَّعَامُ الرَّجُلَ: کھانے کا سانس کو روک دینا۔
كَظَّ، اِكْتَظَّ بكذا: پُر ہونا، جگہ کا لوگوں سے پُر ہوا۔
اِكْتَظَّ مِنَ الطَّعَام: جی متلانا، کھانے کی زیادتی سے طبیعت خراب ہوا (۲) سانس نہ آنا (شکم پُری سے)۔
كِظَّة: بدہضمی، شکم پُری کی تکلیف۔
كَظِيظ، مَكْظُوظ، مُكْتَظّ: پُر۔
كَظَمَ ـِ كَظْماً: غصہ پینا، ضبط کرنا۔
كَظَمَ عَلَى: خاموش رہنا، سکوت برتنا۔
كَظِيمَة: تھرماس ج: كَظَائِمُ۔

ک .... ع

كَعَبَ الثَّدْيُ ـَ كُعُوباً: اُبھرنا، پورا ہونا۔
كَعَبَتِ الصَّبِيَّةُ ـِ كُعُوباً: لڑکی کا سینہ ابھرنا
كَعَّبَ: چوکور بنانا۔
كَعْبٌ: ایڑی (۲) اعزاز (۳) جوتے کی ایڑی ج: اَكْعَاب۔
كَعْبُ جِلْدٍ: چمڑے کا پشتہ (جلد میں)۔
كَعْبُ المُسْتَنَدَات: کاغذات کا پیڈ۔
كَعْبُ جِلْدَةِ الكِتَاب: کتاب کی جلد کا پشتہ۔
كَاعِب: ابھرواں، بلند (۲) لڑکی جس کا سینہ ابھرا ہوا ہو۔
كَعْكٌ: کیک۔
كَعْكَة: ایک کیک ج: كَعْكَات۔

ک .... ف

كَفَأَ ـَ كَفْأً و أَكْفَأَ الإِنَاءَ: اوندھا کرنا۔
كَفَأَ: ہٹنا، مڑنا، الگ ہونا۔
كَافَأَهُ مُكَافَأَةً: بدلہ دینا (۲) برابر کرنا۔
تَكَافَأُوا: برابر ہونا، ہم پلہ ہونا۔
تَكَافَأَتِ الفُرَصُ لِلجَمِيعِ: یکساں موقع ملنا، فراہم ہونا۔
اِنْكَفَأَ: لوٹنا (۲) پیچھے ہٹنا۔
اِنْكَفَأَ اللَّوْنُ: رنگ بدلنا۔
اِنْكَفَأَ الإِنَاءُ: اوندھا ہونا، الٹنا۔
كَفُؤَ ـُ كَفَاءَةً: اہل ہونا، ہمپلہ وہم حیثیت ہونا۔
كُفْءٌ: باصلاحیت، اہل ج: أَكْفَاء۔
كَفَاء، كَفَاءَة: برابری، مساوات (۲) اہلیت، لیاقت، صلاحیت، قابلیت، کوالیفکیشن، اختیار۔
الكَفَاءَةُ الإِدَارِيَّة: انتظامی قابلیت، انتظامی صلاحیت۔

كَفَاءَ ةُ الأَدَاء: کارکردگی کی صلاحیت۔
الكَفَاءَ ةُ الإِنْتَاجِيَّة: پیداواری صلاحیت۔
كَفَاءَ ةُ الجَيْش فى إِدَارَةِ مَعْرَكَةٍ: جنگ لڑنے کی صلاحیت۔
كَفَاءَ ةٌ حَرْبِيَّة: جنگی صلاحیت۔
كَفَاءَ ةُ الطَّائِرَة: جہاز کی صلاحیت۔
الكَفَاءَ ةُ القِتَالِيَّةُ العَالِيَة: اعلیٰ جنگی صلاحیت۔
كَفَاءَ ةُ المُسْتَخْدَم: ملازم کی لیاقت۔
الكَفَاءَ ةُ المُمْتَازَة: برتر صلاحیت۔
التَّكَافُؤُ بَيْنَ العُمْلَتَيْن: دوسکوں کے درمیان برابری۔
مُكَافَأَة: پیمنٹ، الاونٹ، وظیفہ، فیس، معاوضہ، محنتانہ۔
مُكَافَأَةُ أَعْضَاءِ مَجْلِس الإِدَارَة: ڈائرکٹرس فیس، انتظامی مجلس کے ذمہ داران کا الاونس۔
مُكَافَأَةُ الخِدْمَة: خدمت کا صلہ۔
مُكَافَأَةٌ سَنَوِيَّة: سالانہ وظیفہ۔
المُكَافَأَةُ المَالِيَة: مالی انعام۔
مُكَافَأَةُ مُرَاقِبِ الحِسَابَات: آڈیٹر فیس۔
كَفَتَ ـِ كَفْتاً: پھیرنا، ہٹانا۔
كَفْتٌ: موت۔
خُبْزٌ كَفْتٌ: روکھی روٹی۔
كَفَحَ ـَ كَفْحاً و كَافَحَ العَدُوَّ: دشمن کا سامنا کرنا (٢) مقابلہ کرنا۔
كَافَحَه: لڑنا۔
كَافَحَ عَنْه: دفاع کرنا۔
كَافَحَ الأَمْرَ: کام کو خود انجام دینا۔

كِفَاح، مُكَافَحَة: لڑائی، مقابلہ، جدوجہد۔
كِفَاحٌ مُسَلَّح: مسلح جدوجہد۔
كِفَاحٌ نَام: بڑھتی ہوئی جدوجہد۔
الكِفَاحُ مِنْ اَجْلِ البَقَاء: زندہ رہنے کے لئے جدوجہد۔
لَقِيْتُهُ كِفَاحاً: میں اس کے رُوبرو ہوا۔
مُكَافَحَةُ التَّضَخُّمِ المَالِيّ: افراطِ زر کو ختم کرنا۔
مُكَافَحَةُ التَّكَتُّل: دھڑابندی ختم کرنا۔
مُكَافَحَةُ الفَقْر: افلاس دور کرنا۔
كَفَرَ ـُ كُفْراً و كَفَّرَ: چھپانا۔
كَفَرَ بِاللّٰه: خدا کا انکار کرنا۔
كَفَرَ بِالنِّعْمَة: ناشکری کرنا۔
كَفَّرَ عَنْ: کفارہ دینا، تدارک کرنا۔
كَفَّرَ و أَكْفَرَ: کافر بنانا، کافر ٹھہرانا۔
كَفَّرَ لَهُ الذَّنْبَ: گناہ معاف کرنا۔
كَفْر: چھوٹی بستی ج: كُفُور۔
كُفْرٌ، كُفْرَان: انکارِ خدا، ناشکری۔
كَفَفٌ، كَفَافٌ: ضرورت بھر روزی، بقدرِ ضرورت، پیٹ بھر۔
كَفَفٌ (٢): بھیک۔
كَفَّ الثَّوْبَ ـُ كَفّاً و كِفَافَةً: تُرپنا، بخیہ کرنا۔
كَفَّ عَنْ: باز رہنا۔
كَفَّ العَامِلُ عَنْ أَدَاءِ الوَظِيْفَة: فیل ہونا۔
كَفَّهُ عَنْ: باز رکھنا، روکنا۔
كَفَّ الإِنَاءَ: لبالب بھرنا۔
كُفَّ و كُفَّ بَصَرُه: نابینا ہونا۔
تَكَفَّفَ و اسْتَكَفَّ النَّاسَ: ہاتھ پھیلا

کر مانگنا۔
اِسْتَكَفَّ: دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا۔
كُفَّ: ٹھیرو۔
كَفٌّ: دستانہ (٢) ہتھیلی ج: أَكُفّ۔
كَفُّ الحَيَوان: پنجہ۔
كِفَّة: ترازو کا پلڑا ج: كِفَف۔
كُفَّة و كِفَاف: حاشیہ، گوٹ۔
كِفَاف: دھار۔
كَفَافٌ مِنَ الرِّزْق: ضرورت بھر روزی۔
كِفَافَة: ترپائی، حاشیہ کی سلائی۔
كَفِيف ، مَكْفُوفُ البَصَر: نابینا، معذور۔
كَافَّة: سب، بلا استثناء۔
كَفْكَفَ الدَّمْعَ: آنسو روکنا، بار بار آنسو پونچھنا۔
كَفْكَفَ عَنْ: باز رکھنا، روکنا۔
كَفَلَ ـُ كَفَالَةً: ضامن ہونا، کفیل ہونا، ذمہ دار ہونا۔
كَفَلَ الكَيْلُ المُتَّهَمَ: مجرم کی ضمانت لینا۔
كَفَلَ لَهُ حِمَايَةً مُنَاسِبَةً: ضروری حفاظت کی ذمہ دار لینا۔
كَفَلَ النَّفَقَاتِ: اخراجات برداشت کرنا۔
كَفَلَ وَ كَفَّلَ عِيَالَه: پرورش کرنا، نان نفقہ کا ذمہ دار ہونا۔
كَفَّلَه و أَكْفَلَه إِيَّاهُ: ضامن بنانا، ذمہ دار بنانا۔
كَافَلَه: معاہدہ کرنا۔
تَكَفَّلَ بِشَيٍ: تمنا، ذمہ داری لینا۔
كَفَالَة: ضمانت، ذمہ داری، گارنٹی (٢) پرورش، اخراجات کی ذمہ داری۔
بِكَفَالَةٍ: ضمانت پر۔
أُفْرِجَ عَنْهُ بِكَفَالَةٍ: ضمانت پر رہا کیا گیا۔
كَفَالَات: ضمانتیں۔
كَفِيل: ضامن، ذمہ دار، گارنٹی دینے والا ج: كُفَلاء۔
كَفِيلٌ بِكَذا: موثر، مفید۔
تَكَافُل: باہمی ضمانت، باہمی تعاون، مشترکہ ذمہ داری۔
مَكْفُول: جس کی ضمانت دی گئی ہو، گارنٹڈ (٢) جس کی پرورش اور کفالت کی جائے۔
كَفَنَ ـِ كَفْناً و كَفَّنَ: مردہ کو دبانا (٢) کفن پہنانا۔
كَفِنٌ: پھیکا، بے نمک۔
كَفَنٌ: مُردہ کا لباس ج: أَكْفَان۔
اِكْفَهَرَّ اللَّيْلُ اِكْفِهْرَاراً: رات تاریک ہونا۔
اِكْفَهَرَّ السَّحَابُ: بادل کا گہرا اور سیاہ ہونا۔
اِكْفَهَرَّ الجَوُّ: فضا ابر آلود ہونا، فضا خراب ہونا۔
اِكْفَهَرَّ الوَجْهُ: تیوری چڑھنا۔
اِكْفَهَرَّتِ السَّمَاءُ: کالی گھٹا چھانا۔
مُكْفَهِرّ: تاریک (٢) ترش رو۔
كُفُوٌ: نظیر، مثل (٢) لائق، اہل (دیکھیے: كفأ)۔
كَفَى ـِ كِفَايَةً: کافی ہونا۔
كَفَاهُ الشَّرَّ: شر سے محفوظ رکھنا۔
كَفِيٌّ لِكَذا: اہل، لائق۔
كَافَاهُ مُكَافَاةً: بدلہ دینا۔

اِكْتَفَى بكذا: قناعت کرنا، اکتفا کرنا۔
كِفَايَة: بقدرِ ضرورت شے (۲) بے نیازی (۳) قناعت۔
اِكْتِفَاء: قناعت، آسودہ خاطری۔
اِكْتِفَاءُ اِقْتِصَادِيّ: معاشی خودکفالتی، معاشی بہتری۔
الاِكْتِفَاءُ الذَّاتِيّ: خود کفالت، خود کفیل ہونا۔
مُكْتَفٍ: قانع، آسودہ خاطر۔

ک .... ل

كَلَأَ ـــ كِلَاءَةً: حفاظت کرنا۔
كَلَأٌ: گھاس ج: أَكْلَاء۔
كَلْءٌ، كِلَاءٌ، كِلَاءَة: حفاظت۔
كَلِبَ الرَّجُلُ ـــ كَلَبًا و اسْتَكْلَبَ: کتے کے کاٹنے سے دیوانہ ہوا (۲) کتے کی طرح بھونکنا۔
تَكَالَبُوا عَلَى شَيْءٍ: سب لوگوں کا کسی چیز کی خواہش کرنا، حرص ہونا، ٹوٹ پڑنا۔
كَلْبٌ: کتا ج: كِلَاب۔
كَلْبَة: کتیا۔
كَلْبَتَان: (۱) زنبور، فنِ جراحی کی چمٹی۔
كَلِبٌ: لالچی۔
كُلَّابَة: دانت نکالنے کا زنبور۔
كَلَحَ ـــ كُلُوحًا و أَكْلَحَ و تَكَلَّحَ الوَجْهُ: چہرہ پر شکن پڑنا، ترش رو ہونا۔
كَالِحٌ: ترش رو۔
كَلَّسَ و تَكَلَّسَ: چونا بنانا یا بننا۔
كَلَّسَ البَيْتَ: چونے کا پلاسٹر کرنا (۲) چونا پھیرنا۔
كِلْسٌ: (مع) چونا۔
كِلْسِيّ: چونے کا۔
كَلْسِيُوم: (مع) کیلشیم۔
كَلِفَ الوَجْهُ ـــ كَلَفًا: چہرہ پر چھائیں پڑنا۔
كَلِفَ بِالشَّيْءِ: دلدادہ ہونا، فریفتہ ہونا، عاشق ہونا۔
كَلَّفَهُ بكذا: مامور کرنا، پابند بنانا (۲) مشکل کام کا حکم دینا۔
كَلَّفَهُ الأَمْرُ كذا مِنَ المَصَارِيفِ: لاگت آنا (هٰذَا البِنَاءُ يُكَلِّفُنَا أَلْفَ مِائَةِ رُوبِيَة)۔
تَكَلَّفَ: تکلف کرنا، رسمیات اختیار کرنا۔
تَكَلَّفَ الأَمْرَ: کسی کام میں صعوبت اٹھانا۔
كُلْفَة: صعوبت (۲) لاگت، کاسٹ ج: كُلَف۔
كُلْفَةُ الإِنْتَاج: پیداواری لاگت۔
كُلْفَةُ البِنَاء: تعمیری لاگت۔
كَلَفٌ: فریفتگی (۲) چھائیں۔
تَكْلِيف: پابندی (۲) حکم (۳) تکلف (۴) ذمہ داری (۵) لاگت ج: تَكَالِيف۔
تَكَالِيف: چارجس، اخراجات، لاگت، کاسٹ۔
تَكَالِيفُ الإِنْتَاج: پیداواری لاگت۔
تَكَالِيفُ التَّشْغِيلِ اليَوْمِيَّة: روزمرہ کے کام کے اخراجات۔
التَّكَالِيفُ الثَّابِتَة: مستقل اخراجات۔

التَّكَالِيفُ الصِّنَاعِيَّة: صنعتی اخراجات۔
تَكَالِيفُ العَمَل: لیبر اخراجات۔
تَكَالِيفُ غَيْرُ مُبَاشِرَة: بالواسطہ اخراجات۔
التَّكَالِيفُ المُتَغَيِّرَة: تغیر پذیر اخراجات۔
التَّكَالِيفُ المُضَافَة: اضافی اخراجات۔
تَكْلِفَة: کاسٹ، لاگت، خرچ۔
التَّكْلِفَةُ الاَسَاسِيَّة: اصل لاگت۔
التَّكْلِفَةُ الفِعْلِيَّة: فوری خرچ، فوری لاگت۔
تَكْلِفَةُ الفُرْصَةِ البَدِيلَة: عوضی کی اجرت۔
تَكْلِفَةُ مُبَاشِرَة: اصل لاگت۔
مُكَلَّف: پابندِ حکم، ذمہ دار (۲) ٹیکس ادا کرنے والا۔
مُكَلَّفٌ بِاسْمِهِ أوْ عَلَى اسْمِهِ: کسی جائیداد کا کسی کے نام رجسٹرڈ ہونا۔
مُكَلَّفٌ بِالضَّرَائِب: ٹیکس کی ادائیگی جس پر واجب ہو۔
مُكَلَّفَة: (۱) زراعتی زمینوں کا رجسٹر جس پر لوگوں کے نام درج ہوں۔
كَلَّلَهُ تَكْلِيلاً: تاج پہنانا۔
كَلَّلَ عَلَى: (۱) کسی کے ساتھ عقد کر دینا۔
كَلَّلَ و كَلَّ ــِ كَلاًّ: کند ہونا، بے دھار ہونا۔
كَلَّ ــِ النَّظَرُ و الفَهْمُ: نگاہ اور فہم کا کمزور ہونا۔

كَلَّ: تھکنا، قویٰ مضمحل ہونا۔
أَكَلَّهُ إِكْلالاً: تھکانا۔
أَكَلَّ النَّظَرَ: نگاہ کو کمزور بنانا۔
تَكَلَّلَ: تاج پہننا۔
تَكَلَّلَ عَلَيْهَا: شادی کرنا۔
كُلٌّ: سب (۲) ہر ایک۔
كُلَّ أُسْبُوعَيْنِ: پندرہ روزہ۔
كُلَّ ثَلاثَةِ اَشْهُر: سہ ماہی۔
كُلَّ سَنَتَيْن: دو سالہ۔
كُلَّ شَهْرَيْن: دو ماہی۔
كُلُّ شَيْءٍ صَحِيْحٌ: سب ٹھیک۔
كُلِّيَّة: (۱) عمومیت (۲) کالج ج: كُلِّيَّات۔
الكُلِّيَّةُ العَسْكَرِيَّة: ملٹری کالج۔
كُلِّيَّةُ قُوَى الاَمْنِ الدَّاخِلِي: اندرونی حفاظتی فورس کالج۔
كُلِّيَّة، بِالكُلِّيَّة: بالکلیہ، قطعاً، پورے طور پر۔
بِكُلِّيَّتِهِ: تمام، سب کا سب۔
كَلٌّ و كَلِيلُ البَصَر: کم نگاہ، کمزور نگاہ۔
كَلٌّ و كَلِيلُ الفَهْم: کند ذہن۔
كَلٌّ، كَلِيلٌ: کند، بے دھار۔
إِكْلِيل: تاج ج: أَكَالِيل۔
كَلَمَ ــِ كَلْماً و كَلَّمَ: زخمی کرنا۔
كَلَّمَه و كَالَمَهُ: بات کرنا، خطاب کرنا۔
تَكَلَّمَ مَعَه: بولنا، بات چیت کرنا۔
تَكَلَّمَ عَلَى شَخْص: مذمت کرنا۔
تَكَلَّمَ فِي: تعریف کرنا۔
تَكَلَّمَ بِالعَصَبِيَّة: تعصب سے بات کرنا۔
كَلْمٌ: زخم ج: كُلُوم و كِلَام۔

كَلِمَة: لفظ (۲) بات (۳) مضمون، پیراگراف (۴) تقریر ج: كَلِم و كَلِمَات۔
كَلِمَةٌ إِذَاعِيَّة: نشری تقریر۔
كَلِمَةُ الإِعْجَاب: کلمہ تحسین۔
كَلِمَةُ التَّحْرِير: اداریہ، ایڈیٹوریل۔
كَلِمَةُ الشُّكْر: سپاس نامہ۔
إِلْقَاءُ الكَلِمَة: تقریر کرنا۔
كَلِمَةً فَكَلِمَةً (حَرْفِيًا): لفظ بہ لفظ۔
كَلِمَاتٌ عَوِيصَة: مشکل الفاظ۔
كَلِمَاتٌ قَاسِيَة: سخت باتیں۔
كَلَام: بات، باتیں، گفتگو، اقوال۔
كَلَامٌ رَائِع: شاندار باتیں۔
كَلَامٌ مُذْهِل: حیرت انگیز باتیں۔
كَلَامٌ فَارِغ: بے معنی باتیں، فضول باتیں۔
كَلَامٌ مُزَخْرَف: چکنی چپڑی باتیں۔
الكَلَامُ المَعْسُول: چکنی چپڑی باتیں۔
الكَلَامُ المُنَمَّق: چکنی چپڑی باتیں۔
كَلِيم، مُتَكَلِّم: مقرر، بات کرنے والا، نیابت میں گفتگو کرنے والا۔
كَلِيم، مَكْلُوم: زخمی۔
مُكَالَمَة: گفتگو، بات چیت۔
مُكَالَمَةٌ تِلِيفُونِيَّة: ٹیلیفون کال، ٹیلیفون بات چیت۔
مُكَالَمَةٌ هَاتِفِيَّة: ٹیلیفون کال۔
كَلِيَ و كُلِيَ ۔ كَلًى: درد گردہ میں مبتلا ہونا۔
كُلْيَة: گردہ ج: كُلًى۔
كُلْوِيّ: گردہ کا۔
كِلَا و كِلْتَا: دونوں۔

كِلِيسِرِين: (مع) گلیسرین۔

ک .... م

كَمْ: کتنا؟ کس قدر میں (۲) بہت۔
كَمْ: کلومیٹر مخفف کلومیٹر کا۔
كَمَا: جیسا۔
كَمَا هُوَ: جوں کا توں، بحالتِ موجودہ، وہ جیسا بھی ہے۔
كَمْبِيَالَة: (رقم کا) ڈرافت، نوٹ، بل، ہنڈی، پرامیسری نوٹ۔
كَمْبِيَالَةٌ تُدْفَعُ عِنْدَ الطَّلَب: ڈیمانڈ بل۔
كَمْبِيَالَةٌ خَالِيَةٌ مِنْ إِسْمِ المُسْتَفِيد: بغیر نام کا ڈرافٹ۔
كَمَتَ الغَيْظَ ۔ كَمْتًا: غصہ پینا۔
كُمَيْت: سرخ وسیاہ رنگ کا۔
كُمَّثْرَى: ناسپاتی۔
كُمَّثْرَاةٌ: ایک ناسپاتی۔
كَمَحَ ۔ كَمْحًا: لگام کھینچ کر روکنا۔
كَمَّاحَةُ القِطَار: بریک (فَرْمَلَة)۔
كُمَاخ: تکبر، غرور۔
كَامِخ: چٹنی ج: كَوَامِخ۔
كَمِدَ اللَّوْنُ ۔ كَمَدًا: رنگ کا سیاہی مائل ہونا۔
كَمِدَ الرَّجُلُ: مغموم ہونا۔
أَكْمَدَهُ: مغموم بنانا۔
كُمْسَارِيّ: کنڈیکٹر، ٹکٹ دینے والا۔
كُمْسَارِيُّ القِطَارِ الحَدِيدِيّ: ریلوے گارڈ۔
كَمَشَ: دامن سمیٹنا۔
إِنْكَمَاش: سکڑنا۔

اِنْكِمَاشُ الجلد و تَكَمُّشه: سلوٹیں پڑنا، سکڑنا، سمٹنا۔
الانْكِمَاشُ في الاقْتِصَاد: اقتصادیات میں کمی۔
اِنْكِمَاشُ الطَّلَب: مانگ میں کمی، ڈیمانڈ کم ہونا۔
اِنْكِمَاشُ العُمْلَة: سکہ کے چلن میں کمی۔
الانْكِمَاشُ النَّقْدِيّ: سکہ کی کمی۔
كَمَّاشَة: موچی کا زنبور، کیل وغیرہ نکلنے کا اوزار۔
كَمَّاشَةُ النَّجَّار: بڑھئی کا زنبور۔
كَمَعَ ـَ كَمْعاً: کاٹنا۔
كَمُلَ ـُ كَمَالاً: پورا ہونا، مکمل ہونا۔
كَمَّلَ، أَكْمَلَ: پورا کرنا، مکمل کرنا۔
كَمَّلَ المَسِيْرَةَ: مشن پورا کرنا۔
اِكْتَمَلَ و تَكَمَّلَ: مکمل ہونا۔
اِكْتَمَلَ حُضُورُ المَدْعُوِّيْنَ: تمام مدعووین کا آجانا۔
اِكْتَمَلَ العَدَدُ: تعداد پوری ہوجانا۔
اِكْتَمَلَتِ الصُّورَةُ عَنْ كَذَا: چہرہ سامنے آجانا، تصویر مکمل ہوجانا۔
اَسْتَكْمَلَ العَدَدَ: تعداد پوری کرنا۔
اِسْتَكْمَلَ المَسِيْرَةَ: سفر پورا کرنا، مشن پورا کرنا۔
كَمَالِيَّات: زیب وزینت کا سامان۔
كَامِل: فل، مکمل۔
كَامِلُ الصَّلاحِيَّات: مختارِ کل، بااختیارات۔
تَكَامُل: یکجہتی، ہم آہنگی۔
التَّكَامُلُ الاقْتِصَادِيّ: اقتصادی یکجہتی۔
تَكَامُلٌ إِقْلِيمِيّ: صوبائی یکجہتی۔
تَكَامُلٌ سِيَاسِيّ: سیاسی یکجہتی
تَكَامُلٌ كَامِل: مکمل یکجہتی۔
مُتَكَامِل: ہمہ جہتی۔
مُتَكَامِلُ الابْعَاد: ہمہ جہتی۔
كَمَّمَ و كَمَّ ـُ كَمّاً: منہ بند کرنا، جانور کے منہ پر جالی لگانا۔
كَمَّمَ و اَكَمَّ القَمِيْصَ: آستین لگانا۔
كَمَّ ـُ كَمّاً: چھپانا، ڈھانپنا۔
كَمّ، كَمِّيَّة: مقدار۔
كَمِّيّ: مقدار والا۔
كُمّ: آستین ج: اَكْمَام و كِمَعَة۔
كِمّ: غلافِ شگوفہ، کلی کے اوپر کی جھلی ج: اَكْمَام و اَكِمَّة۔
كُمَّةُ المِصْبَاح: لمپ شیڈ۔
كِمَامُ الفَم، كِمَامَة: منہ بند۔
كِمَامُ و كِمَامَةُ الوِقَايَةِ مِنَ الغَازَاتِ السَّامَّة: چہرہ پوش، گیس ماسک۔
كَمَنَ ـُ كُمُوناً: پوشیدہ ہونا۔
كَمِيْن، كَامِن: پوشیدہ۔
كَمِيْن، مَكْمَن: کمین گاہ، چھپنے کی جگہ۔
قُوَّة كَامِنَة: مستور طاقت۔
كَمَنْجَة: سارنگی۔
كَمَه: کورچشمی، اندھاپن۔
اَكْمَه: کورچشم، اندھا۔

ک .... ن

كَنَبَة: صوفہ، تکیہ دار کرسی (دا)۔
الكِنْتَال: (مع) کوئنٹل۔
كَنَدَ ـُ كُنُوداً: ناشکری کرنا۔

کَنُود: ناشکرا، ناسپاس۔
کَنَدا: کینڈا۔
کَنَدِیّ: کینڈا کا رہنے والا۔
کَنَزَ ۔ِ کَنْزاً: جمع کرنا، ذخیرہ کرنا، زمین میں مال دبانا۔
کَنْزٌ: مدفون خزانہ ج: کُنُوز۔
کَنَسَ ۔ِ کَنْساً: جھاڑو دینا۔
الکَنْسُ والتَّنْظِیْفُ: آرائشِ بلدہ۔
کَنَّاس: جاروب کش۔
کُنَاسَة: کوڑا کرکٹ۔
کَنِیْسُ الیَهُود: یہود کا عبادت خانہ۔
کَنِیْسَة: گرجا، یہود و نصاریٰ کا عبادت خانہ ج: کَنَائِسُ۔
الکنیست: اسرائیلی پارلیمنٹ۔
مِکْنَسَة: جھاڑو ج: مَکَانِسُ۔
کَنَفَ ۔ُ کَنْفاً: حفاظت کرنا۔
کَنَفَ، کَانَفَ، اَکْنَفَ: مدد دینا۔
اِکْتَنَفَ الشَّیْءَ: احاطہ کرنا، گھیرنا۔
کَنَفٌ: جانب، کارہ (۲) پہلو، بازو (۳) حفاظت، حمایت (۴) گود (۵) سایہ ج: اَکْنَاف۔
کَنِیْف: جانوروں کا باڑا (۲) پاخانہ، بیت الخلا ج: کُنُف۔
کَنَّ وکَنَّ ۔ُ کَنّاً و اَکَنَّ: چھپانا۔
اِسْتَکَنَّ و اِکْتَنَّ: پوشیدہ ہونا۔
کِنٌّ: گھونسلا (۲) گھر ج: اَکْنَان۔
کَنَّة: بہو (۲) بھاوج ج: کَنَائِنُ۔
کُنَّةُ البَاب: دروازہ کا گھونگھٹ۔
کُنَّة، کِنَّة: پردہ۔

کَانُون: چولہا، اسٹوو ج: کَوَانِیْن۔
کَانُونُ الاَوَّلُ: ماہِ دسمبر۔
کَانُونُ الثَّانِی: جنوری۔
کُنْهٌ: خلاصہ (۲) حقیقت، اصل (۳) اصلیت (۴) صفت (۵) تہہ۔
اَدْرَکَ کُنْهَ الشَّیْءِ: حقیقت کو پالینا۔
اِکْتَنَهَ الاَمْرَ: معاملہ کی تہہ کو پہنچنا۔
کَنَی ۔ِ کِنَایَةً عَنْ کَذا: کنایہ کرنا، ایک لفظ بول کر اس کا غیر مدلول مراد لینا، اشارہ کرنا۔
کَنَاهُ بکَذا ۔ کُنْیَةً: کنیت دینا، لقب دینا۔

ک .... ہ

کَهْرَبَة: کسی جگہ بجلی پہنچانا، بجلی کا بنانا، برقانا۔
کَهْرَبَةُ الرِّیْف: دیہات میں بجلی پہنچانا۔
کَهْرَبَةُ سِکَّةٍ حَدِیْدِیَّةٍ: ریلوے لائن کو بجلی والا بنانا۔
تَکَهْرُب: بجلی جیسا ہونا، بجلی دار ہونا۔
کَهْرَبٌ، کُهَیْرِب: برقی شعاع، الکٹران۔
کَهْرَبَاء، کَهْرَبِیَّة: بجلی، برق، الیکٹرک۔
طَلَی بِالکَهْرَبَاءِ: برقی رو سے چاندی چڑھانا۔
کَهْرَبِیّ، کَهْرَبَائِیّ: برقی، بجلی کا (۲) برقی کام کرنے والا، الیکٹرانک۔
إعْدَامٌ کَهْرَبِیّ: برقی ذریعہ سے ہلاک کرنے کا عمل۔
جَرَسٌ کَهْرَبِیّ: برقی گھنٹی۔
دَافِعٌ کَهْرَبِیّ: برقی رو۔
مُحَرِّکٌ کَهْرَبِیّ: برقی موٹر۔
عِلَاجٌ کَهْرَبِیّ: برقی علاج۔

کَاشِفٌ کَهْرَبِیّ: برق نما۔
سَالِبٌ کَهْرَبِیّ: منفی برق سے متعلق۔
مُوْجِبٌ کَهْرَبِیّ: مثبت برق سے متعلق۔
مُوَلِّدٌ کَهْرَبِیّ: بجلی بنانے کی مشین۔
مُکَهْرَب: برقایا ہوا، بجلی کا بنایا ہوا۔
کَهْفٌ: غار، کھوہ ج: کُهُوف۔
کَهَلَ ۔ کُهُولاً و کَهُلَ ۔ کُهُولَةً و اکْتَهَلَ: ادھیڑ ہوا، تیس اور پچاس سال کے درمیان ہونا۔
کَهْلٌ: درمیانی عمر کا، ادھیڑ عمر ج: کُهُول۔
کُهُولَة: میانہ عمری، ادھیڑ عمری۔
کَاهِلٌ: پیٹھ کا بالائی ج: کَوَاهِل۔
کَهَنَ ۔ کَهَانَةً و تَکَهَّنَ: اٹکل سے آئندہ کی خبریں دینا۔
کَهُنَ کَهَانَةً: کاہن بننا۔
کِهَانَة: کاہن کا پیشہ (۲) غیب دانی (۳) نجومی کا پیشہ۔
کِهَانَة، کَهَنُوت: پروہتائی، عیسائی، ملاّ گری۔
کَاهِن: پروہت (۲) پادری (۳) پجاری (۴) مذہبی پیشوا ج: کَهَنَة۔
کَاهِنٌ هِنْدُوکِیّ: گرو، ہندو مذہب کا پیشوا۔
کَاهِن، مُتَکَهِّن: پیش گوئی کرنے والا نجومی، جوتشی۔
کُهْنَة: پرانا، ناقابلِ مرمت (۲) پھٹے پرانے کپڑے، چیتھڑے۔

ک .... و

کَوَالِینِیّ: (دا) قفل ساز۔
کُوب: کپ، پیالہ، پیالی، آبخورہ، گلاس ج: اَکْوَاب۔
کُوبْرِیّ: پُل ج: کَبَارِی۔
الکُوبْرِیُّ الجَوِّیّ: فضائی پل۔
کُوبُون: (قَسِیْمَة) کوپن۔
کَوْث: سلیپر ج: اَکْوَاث۔
کَوْثَر: خیر کثیر (۲) جنت کی ایک نہر۔
کُوْخ: جھونپڑی (۲) معمولی مکان ج: اَکْوَاخ۔
کَاخِیَة: گورنر کا سکریٹری۔
کَوَّدَ: ڈھیر لگانا۔
کَوْدَة: ڈھیر ج: أَکْوَاد۔
کُود: کوڈ۔
رَقْمُ الکُود: کوڈ نمبر۔
کَادَ ۔ کَوْداً: قریب ہونا۔
مَا کَادَ یَفْعَلُ کَذَا: وہ ایسا کرنے بھی نہ پایا تھا۔
کَوَّرَ العِمَامَةَ تَکْوِیراً: عمامہ کو سر پر لپیٹنا، پیچ دینا۔
کَوْرٌ: عمامہ کا ایک چکر، پھیر ج: أَکْوَار۔
کُورُ الحَدَّاد: لوہار کی بھٹی ج: اَکْوَار و کِیرَان۔
کُوْر: اونٹ کا کجاوہ اَکْوُر۔
کُوْر: (دا)، کِیْرٌ: دھونکنی۔
کُوْرَة: صوبہ (۲) ضلع (۳) چھوٹا قصبہ ج: کُوَر۔
کُوْرَة (دا): (کُرَة) گولا، گیند۔
مَکْوَرَة: عمامہ، پگڑی۔
کُورَنْتِینَا: (مع) قرنطینہ، وبا کی وجہ سے کسی

مقام پر روکنا۔
کُوز: مگ، ڈونگا، ڈنڈی دار پیالہ ج: اَکْوَاز۔
کُوسٌ: مثلث پیمانہ (۲) بڑھئی کا پیمانہ ج: کُوسَان۔
کُوفِیَّة: سر کو لپیٹنے کا رومال۔
کَوْکَب: ستارہ ج: کَوَاکِب۔
کَوْکَب: صدر، بڑا آدمی۔
کَوْکَبُ الاَرْض: چمکدار پتھر۔
کَوْکَبَة: جماعت، لوگوں کی ٹکڑی (۲) ستاروں کا مجموعہ۔
کَوْکَبِیّ: ستاروں کا (۲) عالمی۔
کُولُمْبُس: امریکہ کی دریافت کرنے والا۔
کَوَّمَ تکویماً: ڈھیر لگانا، جمع کرنا۔
تکَوَّمَ: ڈھیر لگنا۔
کُوْمَة: ڈھیر ج: کُوَم و اکوام۔
کُوْمٌ مِنَ النُّقُود: روپوں کا ڈھیر۔
کَوْمَخ ج: کَوَامِخُ: اچار، چٹنی۔
کُومَنوِیلث (رَابِطَةُ الشُّعُوب): کومنویلتھ۔
کَوَّنَ تکویناً: بنانا، وجود میں لانا۔
کَوَّنَ مِنْ کذا: مرکب بنانا۔
کَوَّنَ الحِزْبَ: پارٹی بنانا۔
کَوَّنَ الرَّأیَ فی کذا: رائے بنانا، ذہن بنانا۔
کَوَّنَ شَرِکَةً: کمپنی بنانا۔
کَوَّنَ کُتْلَةً اِسْلَامِیَّةً: اسلامی بلاک بنانا۔
کَوَّنَ مُنَظَّمَةً: تنظیم قائم کرنا۔
تکَوَّنَ مِنْ: مرکب بنانا، مرکب ہونا۔
اِسْتَکَانَ: عاجز وذلیل ہونا۔

کَانَ ـُ کَوْناً: ہونا، پیدا ہونا۔
کَانَ: وہ تھا۔
أیٌ مَن کَانَ: جو بھی تھا، جو بھی ہو۔
کَمَا لَوْ کَانُوا هُنَا: جیسے کہ جب وہ یہاں ہوتے۔
کَوْن، کِیَان، کَیْنُونَة: وجود، ہستی، ذات۔
کَوْن: حالت۔
الکَوْنُ: عالمِ وجود، کائنات۔
کَوْنِیّ: عالمی، کائناتی۔
کِیَان: (۲) فطرت، طبیعت، ڈھانچہ۔
الکِیَانُ الاقْتِصَادِیّ: اقتصادی ڈھانچہ۔
کِیَانٌ صِنَاعِیّ: صنعتی ڈھانچہ۔
کِیَانٌ قَانُونِیّ: قانونی وجود۔
کِیَانٌ مُتَمَیِّز: مستقل وجود۔
کِیَانٌ مُسْتَقِلٌّ: مستقل ہستی۔
کِیَانٌ مُنْفَصِل: جداگانہ وجود۔
کِیَانٌ وَطَنِیّ: قومی وجود۔
کَائِن: موجود (۲) پیدا ہونے والا۔
کَائِنٌ حَیٌّ: مخلوق، زندہ وجود۔
الکَائِنَات: موجودات۔
مَکَان ج: أمْکِنَة: جگہ (۲) موقع (۳) وہ جگہ جسے کوئی شے گھیرے ہوئے ہو (۴) پوسٹ، حیثیت، مرتبہ (۵) گنجائش (لَیْسَ لَهُ مَکَانٌ فِی البَیْت)۔
مَکَانُ اَخْذِ الاَصْوَات: پولنگ بوتھ۔
مَکَانُ تَقَاطُعِ الطُّرُق: چوراہا، کراسنگ لیول۔
مَکَانُ الحَادِث: جائے واردات۔

مَكَانُ الصَّحَفِيين: پریس گیلری۔
مَكَانٌ لِتَرْبِيَةِ الحَيَوان: فارم۔
مَكَانٌ لِوُقُوفِ المَرْكَبَات: پارکنگ کی جگہ۔
مَكَانٌ مُخَصَّصٌ للإِعْلان: اشتہار کی جگہ۔
المَكَانُ المَرْمُوق: نمایاں پوزیشن۔
مَكَانٌ مُوحِش: وحشت ناک جگہ۔
مَكَانُ المِيلاد أو المَوْلِد: جائے پیدائش۔
مَكَانَة: جگہ (۲) پوزیشن، رُتبہ، اثر و رسوخ۔
مَكَانَةٌ دُوَلِيَة: بین الاقوامی پوزیشن۔
مَكَانَكُم: ٹھیرو، اپنی جگہ رہو۔
كُوَّة: روشندان، کھڑکی ج: كُوًى و كُوَّات۔
كَوَى ـِ كَيًا: لوہے سے داغ دینا (۲) آگ سے جلانا (۳) ڈنک مارنا۔
كَوَى المَلَابِسَ: کپڑوں پر استری کرنا۔
اِكْتَوَى بالنَّار: آگ میں جلنا، داغ لگنا۔
كَيٌّ: داغ، جلن۔
كَاوٍ: جلانے والا، داغ دینے والا۔
بُوتَاسَا كَاوِيَة: (مع) کاسٹک پوٹاش۔
صُودَا كَاوِيَة: (مع) سوڈا کاسٹک۔
كَوَّاءُ المَلَابِس: استری کرنے والا۔
مِكْوَاة: استری ج: مَكَاوٍ۔
مَكْوِيّ: داغ دیا ہوا (۲) استری شدہ۔

ک .... ی

كَيْ: تاکہ۔
كَيْد: دھوکہ، مکر۔
كَادَ ـِ كَيْدًا: مکر کرنا، دھوکہ کرنا۔
كادلَهُ: چال چلنا، خفیہ تدبیر کرنا۔
مَكِيدَة: چال ج: مَكَائِد۔
كِيرُ الحَدَّاد: لوہار کی دھونکنی۔
كَيْس، كِيَاسَة: عقل (۲) ذکاوت، ہوشیاری۔
كِيَاسَة (بالمَعْنى السَيّئ): نزاکت، عیاری، بڑا اپتا ہوتے ہوئے چھوٹے پتے سے جیتنے کی ترکیب۔
كِيسٌ: تھیلا (۲) بوری (۳) بیگ (۴) بٹوا، پاکٹ ج: أكْيَاس۔
كِيسُ الوِسَادَة: تکیہ کا غلاف۔
كِيسُ الثَّلج: آئس بیگ۔
كِيسُ الدَّرَاهِم: پرس۔
كِيسُ الغاز: گیس بیگ۔
كِيسٌ لِلإِرْسَالِيَات: میل بیگ۔
كِيسُ نُقُودٍ: منی بیگ۔
كَيِّسٌ: ہوشیار، سمجھدار، عقل مند۔
كَيَّفَ تَكْيِيفًا: مخصوص کیفیت قائم کرنا، کیفیت مقرر کرنا (۲) شکل دینا۔
كَيَّفَ الحُجْرَةَ بالهَوَاء: کمرہ کو ایر کنڈیشن بنانا۔
كَيَّفَ السِّيَاسَةَ: سیاست کو رخ دینا۔
كَيَّفَ النَّفْس بكذا: خود کو کسی چیز کے مطابق بنانا۔
كَيَّفَهُ مَعَ كذا: ہم آہنگ بنانا۔
تَكَيَّفَ: کیفیت اختیار کرنا۔
تَكَيَّفَ بالهَوَاء: ایر کنڈیشن ہونا۔
كَيْفَ: کیسا، کیوں کر۔
كَيْفٌ: حالت، کیفیت، مزاج۔

کَیْفَمَا کَانَ: کسی طرح، خواہ کسی طرح، کسی طرح بھی (۲) جیسا بھی ہو۔
کَیْفِیَّۃ: حالت (۲) صورت (۳) صفت ج: کَیْفِیَّات۔
تَکْیِیْفُ الْھَوَاء: ایر کنڈیشنگ۔
مُکَیِّفٌ بِالْھَوَاء: ایر کنڈیشن۔
کَیَّلَ تَکْیِیْلاً و کَالَ ۔ِ کَیْلاً: ناپنا، پیمانہ سے وزن کرنا۔
کَایَلَهُ مُکَایَلَةً: ترکی بہ ترکی جواب دینا، برابر کا معاملہ کرنا۔
کَیْلٌ: ناپ۔
مِکْیَال: پیمانہ ج: مَکَایِیْلُ۔

کِیْلُوجرَام أو غِرَام: کلوگرام، ایک ہزار گرام۔
کِیْلُوفُولت: کلووولٹ (۱۰۰۰ وولٹ)۔
کِیْلُولِتْر: کلولیٹر (۱۰۰۰ لیٹر)۔
کِیْلُومِتْر: (کِیْلُو مِتْرَات) کلومیٹر (۱۰۰۰ میٹر)۔
کِیْلُو وَات: کلوواٹ (۱۰۰۰ واٹ)۔
کِیْمِیَائِیّ: دوافروش (۲) کیمیادان۔
کِیْمِیَا: کیمسٹری، خاصیاتِ اشیا کا علم (۲) معادن کو سونے میں تبدیل کرنے کی کوشش۔
کِیْنَا، کِیْنِیْن: (مع) کونین، بخار کی دوا۔

ل

ل: برائے (۲) نزد۔

ل............أ

لَألَأ، تلألأ: چمکنا۔

لَألَأ بِلِسَانِه: ہانپنا۔

لَأْلَاء: موتی فروش۔

لُؤْلُؤ: موتی ج: لآلِی و: لُؤْلُؤَة۔

لَأَمَ ـَـ لَأْماً: زخم پر پٹی باندھنا۔

لَأَمَ، لَاءَمَ: درست کرنا (۲) مرمت کرنا۔

لَاءَمَ بَيْنَهُمْ: مصالحت کرانا۔

لَاءَمَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ: دو باتوں میں تطبیق کرنا۔

لَاءَمَـهُ مُلَاءَمَةً: موافق ہونا، راس آنا، فِٹ ہونا۔

لَاءَمَهُ جَوُّ بَلَدٍ: آب وہوا راس آنا۔

لَـؤُمَ ـُـ لُؤْماً و لَآمَةً: کمینہ ہونا، کم درجہ ہونا، تنگ ظرف ہونا، بخیل ہوا۔

اِلْتَـأَمَ: درست ہونا (۲) جُڑنا، ملنا (۳) متفق ہونا (۴) زخم بھرنا (۵) لوگوں کا اکٹھا ہونا (۶) مجلس منعقد ہونا۔

اِلْتِئَامُ الْمَجْلِسِ: مجلس کا اتحاد۔

تَـلَاءَمَ مع: جوڑ لگنا، میل کھانا۔

تَـلَاؤُم: اتحاد، اتفاق، صلح وآشتی۔

لُؤْم: گھٹیا پن (۲) بخیل (۳) تنگ ظرفی۔

لَئِيم: تنگ ظرف (۲) خسیس (۳) کمینہ (۴) دھوکہ باز ج: لِئَام۔

مُلَائِم: مناسب، موزوں، رائٹ، فٹ۔

لَا: (حرف نفی (۲) حرف نہی) نہیں۔

لَا إِرَادِيّ: غیر ارادی۔

لَا سِلْكِيّ: بے تار برقی، وائرلیس۔

رِسَالَةٌ لَا سِلْكِيَّة: وائرلیس پیغام۔

لَا يَلِينُ: بے رحم۔

لَا يَهْدَأُ: غیر منقطع۔

ل............ب

لِبَـأ: کھیس، بیاہی بھینس و گائے کا کیلوں دار دودھ، پیوسی ج: أَلْبَاء۔

لَبَاة، لَبُوَة: شیرنی ج: لَبَات و لَبَوَات۔

لَبَّبَ الْجَوْزُ و اللَّوْزُ: بادام یا اخروٹ میں گری پڑنا، مغز پیدا ہونا۔

لَبَّ الْجَوْزَةَ ـُـ لَبّاً: اخروٹ توڑ کر گری نکالنا۔

لَبَّ بِالْمَكَانِ ـُـ لَبّاً: قیام کرنا۔

لَبَّ ـَـ لَبّاً و لَبَابَةً: دانشمند ہونا۔

لُبّ، لُبَاب: ہر چیز کا خالص حصہ، گری، مغز، جوہر، خلاصہ۔

لُبُّ الثَّمَر: گودا۔
لُبُّ الخُبز: روٹی کا بیچ کا حصہ۔
لُبُّ الوَرَق: وہ خمیر شدہ مادہ جس سے کاغذ تیار کیا جائے۔
لُبٌّ: عقل (۲) دل ج: اَلْبَاب۔
لَبِیب: عقل مند، دانش مند ج: اَلِبَّاء۔
تَلْبِیب: طوق، گریبان ج: تَلَابِیْبُ۔
اَخَذَ بِتَلَابِیْبِه: گریبان پکڑنا۔
لَبَّیْکَ: میں حاضر ہوں، میں آپ کی خدمت کے لئے تیار ہوں۔
لَبِثَ ـَ لُبْثاً و تَلَبَّثَ: ٹھیرنا، قیام کرنا۔
مَا لَبِثَ أَنْ فَعَلَ كَذَا: اس نے بلاتاخیر ایسا کیا۔
تَلَبَّثَ: توقف کرنا۔
لُبْثَة: تھوڑا توقف۔
لَبَخَ ـَ لَبْخاً: مارنا۔
لَبْخَة: پولٹس (وَضِیْعَةٌ سَاخِنَةٌ)۔
لَبَدَ ـُ لُبُوداً: قیام کرنا، کسی جگہ سے چمٹ جانا، الگ نہ ہونا۔
لَبَدَ ـِ لَبْداً و لَبَّدَ الصُّوفَ: اون کا نمدہ بنانا۔
تَلَبَّدَتِ السَّمَاءُ بِالغُیُوم: آسمان پر بادل چھانا، ابر آلود ہونا۔
لِبْد، لَبَدٌ: اون کا نمدہ۔
لُبْدَةُ الاَسَد: شیر کی گردن کے بال ج: لِبَد و اَلْبَاد۔
لَبَّاد: نمدہ ساز۔
لَبَسَ عَلَیْهِ الاَمْرَ ـِ لَبْساً: خلط ملط کرنا، مشتبہ بنانا۔
لَبِسَ ـَ لُبْساً: پہننا۔

لَبَّسَ عَلَیْهِ الاَمْرَ: مشتبہ بنانا۔
لَبَّسَ تَلْبِیْساً: عیب چھپانا، دھوکہ دینا۔
لَابَسَهُ مُلَابَسَةً: میل جول کرنا۔
تَلَبَّسَ و الْتَبَسَ عَلَیْهِ الاَمْرُ: مشتبہ ہونا۔
لِبَاس: پوشاک ج: اَلْبِسَة۔
لِبَاسٌ رَسْمِیٌّ: یونیفارم، خاص لباس، قانونی لباس۔
اللِّبَاسُ التَّامّ: فل ڈریس۔
اَلْبِسَةٌ جَاهِزَة: سلے ہوئے کپڑے۔
اِلْتِبَاس: ابہام، اشتباہ۔
مَلْبَس: لباس، پہننے کا کپڑا ج: مَلَابِس۔
مَلَابِسُ تَحْتَانِیَة: نیچے پہننے کے کپڑے۔
مَلَابِسُ جَاهِزَة: تیار شدہ کپڑے۔
المَلَابِسُ الرِّجَالِیَّة: مردانہ کپڑے۔
المَلَابِسُ المَدَنِیَّة: سول ڈریس، شہری لباس۔
المُلَابَسَات: متعلقات، حالات، احوال۔
مُلَابَسَاتُ الشَّیْء: متعلقات، کوائف۔
مُلَبَّس: (۱) شکر وغیرہ چڑھایا ہوا جیسے بادام پر چڑھائی جاتی ہے۔
مَلْبُوسٌ بِالجِنّ: آسیب زدہ۔
مُلْتَبِسٌ: مبہم، غیر واضح، مشتبہ۔
مُلْتَبِسٌ بِالجَرِیْمَة: جرم میں ملوث۔
مُتَلَبِّسٌ بِالجَرِیْمَة: جرم میں ملوث۔
لَبِقَ ـَ لَبَاقَةً: خوش طبع ہونا (۲) ماہر ہونا۔
لَبِقَ بِه: لائق ہونا، مطابق ہونا۔
لَبِق: لائق، مطابق۔
لَبِقٌ و لَبِق: خوش طبع، چرب لسان (۲) ہوشیار،

ماہر۔
لَبِق ، لَبَاقَة: لیاقت (۲) مہارت، چالاکی۔
لَبَاقَة: خوش اسلوبی، خوش مذاقی، ظرافت۔
لَبَّنَ تَلْبِيناً: اینٹ بنانا۔
اِلْتَبَنَ: (بچہ کا) دودھ پینا۔
لَبِنَ ـــَـ لَبَناً: دودھ والا ہونا۔
لَبَنٌ: دودھ (۲) شیرۂ بادام وغیرہ ج: أَلْبَان۔
___ عُلَبٍ: ڈبوں کا بند دودھ۔
___ حَامِضٌ: کھٹا دودھ۔
___ رَائِبٌ: دہی۔
___ الخَضَ (خَبِيط): چھاچھ۔
اللَّبَنُ الزَّبَادِيّ: دہی۔
لَبَنٌ مَثْلُوجٌ: آئس کریم۔
إِبْرِيقُ اللَّبَن: دودھ دان۔
مِسْمَارُ اللَّبَن: کھیس (دا)۔
سِنُّ اللَّبَن: دودھ کے (بچپن کے) دانت۔
مِيزَانُ اللَّبَن: شیر پیما، دودھ کسوٹی۔
اَبْيَضُ كَاللَّبَن: سفید دودھ سا۔
لِبْن ، لَبِن: خام اینٹ و: لَبِنَة۔
الحَامِضُ اللَّبَنِيّ: لبنی ترشہ۔
لِبَان: شیر خواری۔
لَبَّان: اینٹیں بنانے والا (۲) دودھ فروش۔
لِبَانَة: دودھ کی ڈیری، دودھ مکھن وغیرہ کی دکان۔
لُبَانَة: حاجت، ضرورت۔
قَضَى لُبَانَتَه: حاجت پوری کرنا۔
لَبِنَة ، لَبُون ، لَبُونَة: دودھ دینے والا جانور ج: لِبَان۔
مِلْبَن: دودھ صاف کرنے کی چھلنی (۲) اینٹ کا سانچہ۔

مَلْبَنَة: دودھ کی ڈیری، کارخانہ۔
مِلْبَنَة: چمچہ۔
لَبُوَة: شیرنی ج: لَبَوَات۔
لَبَّى تَلْبِيَةً: جواب دینا، لبیک کہنا، فرمائش یا درخواست کو پورا کرنا۔
___ الحَاجَاتِ: ضرورتیں پوری کرنا۔
___ المُتَطَلَّبَات: مقتضیات کو پورا کرنا۔
___ المُطَالَبَاتِ: مطالبات کو پورا کرنا۔
___ لِلدَّعْوَة: دعوت پر لبیک کہنا۔

ل............ت

لَتَّ ـــُـ لَتّاً: چورہ کرنا، پیسنا۔
لَتَّ الدَّقِيقَ: آٹے میں پانی یا گھی ملانا۔
لَتَّ العَجِينَ: (دا) آٹا گوندھنا۔
لِتْرٌ: لیٹر ج: لِتْرَات۔

ل............ث

لَثِغَ ـــَـ لَثَغاً: ہکلا ہونا۔
لَثَغ ، لُثْغَة: ہکلا پن۔
اَلْثَغُ: ہکلا، توتلا ج: لُثْغٌ۔
لَثَمَ ـــِـ لَثْماً: بوسہ دینا، چومنا۔
لَثَمَ و لَثِمَ و الْتَثَمَ و تَلَثَّمَ بكذا: چہرہ ڈھانکنا، ڈھاٹا باندھنا، نقاب اوڑھنا۔
لَثَمَتِ المَرْأَةُ: گھونگھٹ کرنا۔
لَثْمَة: بوسہ۔
لِثَام: ڈھاٹا، وہ کپڑا جو ناک اور سر کے اردگرد لپیٹا جائے (۲) نقاب، آنچل، گھونگھٹ ج: اَلْثِمَة۔
أَزَاحَ اللِّثَام: نقاب ہٹانا، پردہ اٹھانا۔
مُلَثَّم ، مُتَلَثِّم ، مُلْتَثِم: نقاب پوش۔
لِثَةُ الأَسْنَان: مسوڑھا ج: لِثَات و لِثًى۔

ل .... ج

لَجَأَ ـَ لَجأً و لُجوءً و اِلْتَجأَ إِلَى: پناہ لینا (۲) سہارا لینا (۳) مجبور ہونا۔

لَجأَ إِلَى القَضاءِ: مقدمہ دائر کرنا۔

لَجأَ إِلَى التَّسوِيَةِ السِّلمِيَّةِ: پُرامن تصفیہ کی راہ پر چلنا۔

لَجأَ المُتَظاهِرُونَ إِلَى العُنفِ: مظاہرین کا تشدد اختیار کرنا۔

اِلْتَجأَ إِلَى النَّاسِ: اپیل کرنا (۲) پناہ لینا۔

لَجَّأَه و أَلْجَأَه إِلَى: مجبور کرنا۔

أَلْجَأَهُ: پناہ دینا۔

أَلْجأَ الأَمرَ إِلَى اللّٰهِ: معاملہ خدا کے سپرد کرنا۔

اِلْتِجاءٌ سِياسِيٌّ: سیاسی پناہ۔

لاجِئٌ: پناہ گزین ج: لاجِئُون۔

مَلجَأٌ: پناہ گاہ، کیمپ ج: مَلاجِئ۔

مَلجَأُ الأَيتام: یتیم خانہ۔

مَلجَأُ العُميان: اندھوں کی پرورش گاہ۔

لَجَجٌ، لَجاجٌ، لَجاجَةٌ: سخت اصرار، چم چچڑ پن۔

لَجَّ فِي الخُصُومَةِ ـِ لَجاً: دشمنی میں لگے رہنا، پیچھے پڑنا۔

لَجَّ فِي الأَمرِ: ثابت قدم رہنا۔

لَجَّ عَلَى: ضد کرنا، اصرار کرنا۔

لَجُوجٌ، لاجٌّ: چم چچڑ، چتو، ضدی۔

لَجَمَ ـُ لَجماً: سینا۔

أَلْجَمَ و لَجَّمَ الدَّابَّةَ: لگام ڈالنا۔

لِجام: لگام ج: أَلْجِمَة۔

مُلْجَم، مَلْجُوم: لگام لگا ہوا۔

لَجِنَ بِهِ ـَ لَجَناً: چمٹنا۔

لَجْنَة: کمیٹی (۲) بورڈ (۳) کمیشن ج: لِجان۔

لَجنَةُ اتِّصال: رابطہ کمیٹی۔

لَجنَةُ اختِيارِ أَفرادِ الخِدمَةِ المَدَنِيَّة: سول سروس چناؤ بورڈ۔

لَجنَةُ الإدارَة: انتظامی کمیٹی۔

لَجنَةُ أَركانِ الحَرْب: ملٹری اسٹاف کمیٹی۔

لَجنَةٌ اِستِشارِيَّة: مشیر کمیٹی، صلاح کار کمیٹی۔

لَجنَةُ استِقبال: استقبالیہ کمیٹی۔

لَجنَةُ الإِشرافِ العَسكَرِيَّة: فوجی نگراں کمیٹی۔

لَجنَةُ أَعمال: تیاری کمیٹی۔

لَجنَةُ الإِغاثَة: امداد کمیٹی، ریلیف کمیٹی۔

لَجنَةُ الاقتِراحات: سلیکشن کمیٹی۔

لَجنَةُ الإِقطاع: جاگیرداری کمیشن۔

اللَّجنَةُ الإِقليمِيَّة: ریجنل کمیٹی۔

لَجنَةُ الامتِيازات: مراعات کمیٹی۔

لَجنَةٌ اِنتِخابِيَّة: الیکشن کمیٹی، انتخابی کمیٹی۔

لَجنَةُ الإِسعاف: ریلیف کمیٹی۔

لَجنَةٌ تابِعَة: سب کمیٹی، ماتحت کمیٹی۔

لَجنَةُ تَحرِير: ادارتی کمیٹی۔

لَجنَةُ تَحضِيرِ جَدوَلِ الأَعمال: ایجنڈا کمیٹی۔

لَجنَةٌ تَحضِيرِيَّة: تیاری کمیٹی، استقبالیہ کمیٹی، مجلسِ استقبالیہ۔

لَجنَةُ تَحقِيقٍ فِي كَذا: تحقیقاتی کمیٹی، انکوائری کمیٹی۔

لَجنَةُ التَّرشِيحات: نامزدگی کمیٹی۔

لَجنَۃُ تَصفِیَۃِ الاِقطَاع: خاتمہ زمینداری کمیشن۔
لَجنَۃُ التَّنسِیق: یکجہتی کمیٹی، ترتیب کمیٹی۔
لَجنَۃُ تنظِیم: تنظیمی کمیٹی۔
لَجنَۃ تَنفِیذِیَۃ: انتظامی کمیٹی، مجلسِ عاملہ، ایگزیکٹو کمیٹی۔
لَجنَۃُ التَّوجِیہ: رہنما کمیٹی۔
لَجنَۃُ التَّوعِیَۃِ الاِسلَامِیَّۃ: راہنما اسلامی کمیٹی۔
اللَّجنَۃُ الثَّقَافِیَۃ: کلچرل کمیٹی۔
لَجنَۃٌ خَاصَّۃ: اسپیشل کمیٹی، ایڈہاک کمیٹی۔
لَجنَۃٌ دَائِمَۃ: مستقل کمیٹی، اسٹینڈنگ کمیٹی، مجلس قائمہ۔
اللَّجنَۃُ الدُّستُورِیَۃ: دستوری کمیٹی۔
لَجنَۃُ الصِّیَاغَۃ: مجلسِ مضامی، ڈرافٹنگ کمیٹی۔
لَجنَۃُ الضِّیَافَۃ: ضیافت کمیٹی۔
لَجنَۃُ الطَّاقَۃِ الذَرِّیَۃ: ایٹمی توانائی کمیشن۔
لَجنَۃٌ عَادِیَّۃ: معمولی کمیٹی۔
لَجنَۃٌ عَامِلَۃ: ورکنگ کمیٹی۔
لَجنَۃُ العَلاقَاتِ الخَارِجِیَّۃ: کمیٹی برائے تعلقاتِ خارجہ، خارجی تعلقات کی کمیٹی۔
لَجنَۃُ العَمَل: تیاری کمیٹی، ایکشن کمیٹی۔
لَجنَۃُ العَمَلِ الشَّعبِیَ: عوامی ایکشن کمیٹی، عوامی مجلسِ عمل۔
لَجنَۃُ فَحص: جانچ کمیٹی، جانچ کمیشن۔
لَجنَۃُ فَحصِ اَورَاقِ الاعتِمَاد: اسنادِ سفارت کی جانچ کمیٹی۔
لَجنَۃ فَرعِیَّۃ: سب کمیٹی، ذیلی کمیٹی۔
لَجنَۃُ القَبُول: داخلہ کمیٹی۔
لَجنَۃٌ لِبَحثِ مَوضُوعٍ مُعَیَّن: ایڈہاک کمیٹی۔
اللَّجنَۃُ المَالِیَّۃ: فنانس کمیٹی، مالیاتی کمیٹی، مالی کمیٹی۔
لَجنَۃُ المُتَابَعَۃ: جائزہ کمیٹی۔
لَجنَۃُ المُحَلِّفِین: جیوری، ججوں کی جماعت۔
لَجنَۃٌ مُختَلِطَۃ: مشترکہ کمیٹی۔
لَجنَۃٌ مُستَدِیمَۃ: مستقل کمیٹی۔
لَجنَۃُ المُرَاقَبَۃ: کنٹرول کمیٹی، نگراں کمیٹی۔
لَجنَۃُ المَسَاعِی الحَمِیدَۃ: خیرسگالی کمیٹی۔
لَجنَۃٌ مُشتَرَکَۃ: مشترکہ کمیٹی۔
لَجنَۃٌ مُصَالَحَۃ: مصالحت کمیٹی۔
اللَّجنَۃُ المَلَکِیَّۃ: شاہی کمیشن۔
لَجنَۃُ المُنَازَعَات: تصفیہ کمیٹی۔
لَجنَۃُ مَنعِ الاَسلِحَۃ: اسلحہ بندی کمیشن۔
لَجنَۃُ المَوَاضِیع: مجلسِ مضامین، سبجیکٹ کمیشن۔
لَجنَۃُ مُؤتَمَرِ عُمُومِ الهِند: آل انڈیا کانگریس کمیٹی۔
لَجنَۃٌ مُؤَقَّتَۃ: عارضی کمیٹی، ایڈہاک کمیٹی۔
لَجنَۃُ نَزعِ السِّلَاح: تخفیفِ اسلحہ کمیشن۔
لَجنَۃٌ وِزَارِیَۃ: وزارتی کمیٹی۔
لَجنَۃُ الهُدنَۃ: امن کمیٹی۔
لُجَین: چاندی۔

ل .... ح

اَلَحَّ فِی السُّؤَال: اصرار سے مانگنا۔
اَلَحَّ فِی المُطَالَبَۃِ بِدَین: سخت تقاضا کرنا۔
لَحَدَ ـ لَحداً: دفن کرنا (۲) لحد بنانا۔

لَحَدَ و اِلْتَحَدَ عَنِ الدِّيْنِ: بے دین ہونا۔
لَحَدَ عَنْ كذا: ہٹنا، منحرف ہونا۔
لَحَدَ و اِلْتَحَدَ إلى: مائل ہونا۔
لَحْدٌ: قبر ج: لُحُود۔
لَحَّاد: گورکن۔
لَحَسَ ـَـ لَحْساً: چبا کر کھانا (۲) چاٹنا۔
لَحِسَ ـَـ لَحْساً: چاٹنا (۲) ہونٹوں پر زبان پھیرنا، زبان سے منہ صاف کرنا (الكَلْبُ يَلْحَسُ يَدَ صَاحِبِه)۔
لَحَظَ ـَـ لَحْظاً: کن انکھیوں سے دیکھنا۔
لَحَظَ و لَاحَظَ: دیکھنا (۲) ملاحظہ کرنا (۳) نگہداشت رکھنا (۴) تکنا۔
لَاحَظَ العَمَلَ: نگرانی کرنا۔
لَحْظَةٌ: ایک نظر، سرسری نگاہ (۲) لمحہ، پل، آن: لَحَظَات۔
لَحَظَاتٌ حَاسِمَةٌ: فیصلہ کن لمحات۔
لَاحِظَةٌ: آنکھ ج: لَوَاحِظ۔
مُلَاحِظٌ: گراں، فورمین، سپرنٹنڈنٹ۔
مُلَاحِظُ العَمَلِ: (دا) سپرنٹنڈنٹ۔
مُلَاحِظُ البُولِيس: (دا) پولیس سپرنٹنڈنٹ۔
مُلَاحَظَة ج: مُلَاحَظَات: نوٹ، ریمارکس، سپرویژن، نگرانی، مشاہدہ، رائے، علمی گرفت، تبصرہ۔
مُلَاحَظَةٌ عَنْ كذا و حَوْلَ كذا: رائے، خیال۔
مُلَاحَظَات: خیالات، قابلِ غور امور، تاثرات۔
مُلَاحَظَاتٌ مُنْحَازَة: جانبدارانہ اشارے، ریمارکس۔
مَلْحُوظ: قابلِ لحاظ، قابلِ دید۔
لَحَفَ ـَـ لَحْفاً و أَلْحَفَ: ڈھانکنا۔
اِلْتَحَفَ، تَلَحَّفَ: لحاف اوڑھنا۔
لَحِقَ فُلَاناً و بِه ـَـ لَحْقاً و لَحَاقاً: پالینا، پکڑنا، لاحق ہونا، تابع ہونا۔
لَحِقَهُ: لازم ہونا، پیچھے لگنا، چمٹنا۔
لَاحَقَهُ: پیچھا کرنا، نظر رکھنا۔
لَاحَقَهُ بِهَجَمَاتٍ: تابڑتوڑ حملے کرنا، مسلسل حملے کرنا۔
أَلْحَقَ كَذَا بِكَذَا: منتھی کرنا، منسلک کرنا (۲) شامل کرنا، اضافہ کرنا، ملانا (۳) داخلہ دینا۔
اِلْتَحَقَ بِه: منتھی ہونا، شامل ہونا، منسلک ہونا۔
اِلْتَحَقَ بِالمَدْرَسَةِ: مدرسہ میں داخلہ لینا۔
اِلْتَحَقَ بِالخِدْمَةِ: نوکری پر لگنا، خدمت سے وابستہ ہونا۔
اِلْتَحَقَ بِالسِّلْكِ الدِّبْلُومَاسِيِّ: سفارتی خدمت سے منسلک ہونا۔
تَلَاحَقَ: مسلسل ہونا، پے در پے ہونا۔
لَاحِق: اگلا ضد: سَابِق۔
اِلْتِحَاق: وابستگی، داخلہ، شمولیت۔
تَلَاحُق: تسلسل۔
مُلْحَق: ضمیمہ، سپلی منٹری، اضافہ (۲) اضافی، تابع، شامل (۳) اتاچی، رکنِ عملہ سفارت ج: مُلْحَقَات۔
مُلْحَقٌ بَحْرِيّ: بحری اتاچی، اتاچی

برائے بحری امور۔
مُلحَقٌ تِجَارِیٌ: تجارتی مشیر، کمرشل اتاچی۔
مُلحَقٌ ثَقَافِیٌ: کلچرا تاچی، مشیر تعلیم و تمدن۔
مُلحَقٌ جَوِیٌ: اتاچی برائے فضائی امور۔
مُلحَقٌ صَحفِیٌ: پریس اتاچی، مشیر صحافتی امور۔
مُلحَقٌ عَسکَرِیٌ: فوجی اتاچی، ملٹری اتاچی۔
مُلحَقٌ عُمَّالِیٌ: اتاچی برائے امورِ محنت، لیبرا تاچی۔
مُلحَقٌ فی سِفَارَةٍ سِیَاسِیَّةٍ: اتاچی، رکن عملۂ سفارت۔
مُلحَقات: متعلقات، ضمیمے۔
اِمتِحَانٌ مُلحَق: سپلیمنٹری امتحان۔
لَحَمَ ــ لَحماً: جوڑنا، مسالہ کا ٹانکا لگانا مسالہ سے جوڑنا، لوہے کو آگ میں تپا کر اور چھیت پیٹ کر جوڑنا۔
لَحَمَ و اِلتَحَمَ الجُرحُ: زخم بھرنا۔
لَحِمَ بالمَکَانِ ــ لَحماً: ایک جگہ کو چپکنا۔
لَحُمَ ــ لَحَامَةً: فربہ ہونا۔
لاحَمَ، اَلحَمَ: چپکانا۔
تَلاحَمَ القَومُ: باہم جنگ کرنا۔
تَلاحَمَ مَعَ: متحد ہونا۔
تَلاحَمَ و اِلتَحَمَ بہ: چپکنا، جڑنا۔
اِلتَحَمَتِ الحَربُ بَینَهُم: لڑائی ٹھن جانا

لَحمٌ مَفرُومٌ: قیمہ۔
لَحمَة: گوشت کا ٹکڑا۔
لَحمَةُ و لُحمَةُ النَّسِیج: کپڑے کا بانا۔
لُحمَة: قرابت۔
لِحَام: ٹانکا، ویلڈنگ، جوڑنے کا مسالہ۔
لِحَامٌ بالکَهرَبَاءِ: الیکٹرک ویلڈنگ۔
لِحَّام (عَامِلُ اللِحَام): ویلڈر، ٹانکا لگانے والا۔
تَلاحُم: اتحاد، یکجہتی۔
مَلحَمَة: کشت وخون، خون ریزی ج: مَلاحِم۔
لَحَنَ ــ لَحناً: اعراب میں غلطی کرنا۔
لَحَنَ فِي القِرَاءَةِ: ترنم کے ساتھ پڑھنا۔
لَحنٌ: نغمہ (۲) لَے ج: اَلحَان (۳) لب و لہجہ (۴) زبان (۵) غلطی۔
لَحیٌ: جبڑا ج: لِحَاء و لُحِیٌ و اَلحٍ۔
لِحیَة: داڑھی ج: لُحیٰ۔
لِحَاءٌ: چھال۔
لِحیَانِیٌ، اَلحیٰ: دراز داڑھی، لمبی داڑھی والا۔
لَحیٰ ــ لَحیاً: درخت کی چھال اُتارنا۔
اِلتَحیٰ: داڑھی چھوڑنا، رکھنا۔

ل.........خ

لَخَّصَ الکَلامَ: مختصر کرنا، تلخیص کرنا (۲) وضاحت کرنا، بیان کرنا۔
مُلَخَّص: سمری، خلاصہ۔
مُلَخَّصٌ أدَبِیٌ: ڈائجسٹ۔

ل.........د

لَدَّ ــ لَدداً: سخت دشمنی کرنا، جھگڑالو ہونا۔

لَدُود ، لَدِيد ، اَلَدُّ: جانی دشمن ج: اَلِدَّاءُ۔
لَدَغَ ـــ لَدْغاً: ڈسنا، ڈنک مارنا، زہریلے جانور کا کاٹنا۔
لَدِيغ ، مَلْدُوغ: مار گزیدہ۔
لَدُنَ ـ لَدَانَةً و لُدُونَةً: نرم ہونا۔
لَدَّنَ تَلْدِيناً: نرم بنانا۔
لَدْن: نرم، لچکدار ج: لُدْنٌ۔
لَدُنْ ، لُدُنْ: نزد۔
لَدَانَة ، لُدُونَة: نرمی، لچک۔
لَدَائِن ، لَدْن: پلاسٹک۔
لَدَى: پاس (۲) سامنے۔
لَدَى الطَّلَب: عندالطلب۔
لَدَيْه كَلامٌ: اسے بات کرنی ہے۔

ل.........ذ

لَذَّذَ: مزہ ولانا۔
لَذَّ ـ لَذَاذاً: خوش ذائقہ ہونا۔
اِلْتَذَّ و تَلَذَّذَ به: لطف لینا، مزہ لینا۔
اِلْتَذَّ و تَلَذَّذَ و اسْتَلَذَّ الشیءَ: چکھنا۔
لَذِيْذ: اچھا، ذائقہ دار۔
لَذَعَ ـ لَذْعاً: جلانا، چرکہ لگانا۔
لَذَعَ بِلِسَانِه: زبان سے تکلیف پہنچانا۔
لَذْع : جلن، سوزش۔
لَـذَّاع ، لاذِع: جلانے والا، تیز گرم جو منھ کو جلائے، تیز مرچ جو منھ کو جلائے۔
لَوْذَعِيّ: ذکی، ہوشیار۔
لَذِيَ ـ لَذًى: وابستہ ہونا، چپکنا۔
اَلَّذِي: اسم موصول برائے مذکر غیر عاقل: وہ کہ، جو کہ، جس نے کہ۔

ل.........ز

لَـزَبَ الشیءُ ـ لُزُوباً: جمارہنا، مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا۔
لَزَبَ به: چپکا، چمٹا۔
لَـزِجَ ـ لَزَجاً و لُزُوجاً و تَلَزَّجَ: لیس دار ہونا۔
لَزِجَ بِاِصْبَعِه: انگلی کو لگنا، چپکنا۔
لُزُوجَة: لیس، چپکاہٹ۔
لَزِقَ ـ به لُزُوقاً و اِلْتَزَقَ: چپکنا۔
لَزَّقَ و اَلْزَقَ: چپکانا۔
لِزْق: چپکاہٹ۔
لَزْقَة: پلاسٹر۔
لَزِق: چپکنے والا۔
لِزَاق: چپکانے کی چیز، لیئی، گوند۔
لَـزِمَـه ـ لُزُوماً: لازم ہونا، پیچھے پڑنا، ساتھ ہونا، الگ نہ ہونا۔
لَزِمَ الصَّمْتَ: سکوت اختیار کرنا۔
لَزِمَ بَيْتَه: خانہ نشین ہونا۔
لَزِمَ جَانِبَ الحَذَر: احتیاط سے کام لینا۔
لَزِمَ الحذرَ فی كذا: احتیاط کرنا۔
اَلْزَمَه: مجبور کرنا۔
اَلْزَمَه بكذا: لازم کرنا، پابند بنانا۔
اَلْزَمَه بالدَّفع: ادائیگی پر مجبور کرنا۔
اِلْتَزَمَ: مجبور ہونا۔
اِلْتَـزَمَ الشیءَ و بـه: پابند ہونا، تابع ہونا (۲) وابستہ ہونا (۳) ذمہ دار ہونا۔
اِلْتَـزَمَ العَمَلَ: کام کا ذمہ لینا (۲) اجارہ دار بن جانا۔
اِلْتَزَمَ بِـجَدْوَلِ الاَعْمَال: ایجنڈے کا پابند ہونا۔

اِلْتَزَمَ بِرأیِ الأغْلَبِیَّة: اکثریت کی رائے کی پابندی کرنا۔
اِلْتَزَمَ بِسِیَاسَةِ الدِّفَاع: دفاعی پالیسی پر چلنا۔
اِلْتَزَمَ بِعَمَلٍ مُعَیَّن: ٹھیکہ لینا، ذمہ داری لینا۔
اِلْتَزَمَ بِالقَوَانِین: قوانین کی پابندی کرنا۔
اِلْتَزَمَ بِالتَّقَالِید: رسم ورواج کا پابند ہونا۔
اِلْتَزَمَ الیَقَظَة: چوکنا رہنا۔
اِلْتَزَمَ بِالعَهْد أو الوَعْد: وعدہ کا پابند ہونا۔
اِلْتَزَمَ بِالقَاعِدَة: قانون وضابطہ کا پابند ہوا۔
اِسْتَلْزَمَه: ضروری سمجھنا (۲) مقتضی ہونا، درکار ہونا۔
لُزُوم: ضرورت (۲) اقتضا (۳) فائدہ۔
عِنْدَ اللُّزُوْم: وقتِ ضرورت۔
لَازِمٌ: ضروری (۲) لازمی (۳) واجب۔
لَوَازِمُ: ضروریات۔
لَوَازِمُ السَّفَر: سامانِ سفر۔
لَوَازِمُ المَرَاکِب: جہازوں کا سامان۔
لَوَازِمُ المَعِیْشَة: لوازمِ زندگی۔
اِلْزَامِیّ: جبری، لازمی۔
اِلْتِزَام: (۱) مجبوری، پابندی (۲) فریضہ (۳) اجارہ داری (۴) ٹھیکہ (۵) ذمہ داری (۶) کنسیشن، وہ رعایت جو حکومت کی طرف سے دی جاتی ہے (۷) وابستگی ج: اِلْتِزَامَات۔

اِلْتِزَاماً: ٹھیکہ پر، معاہدہ پر۔
اِلْتِزَامَات: پابندیاں، ذمہ داریاں (۲) ٹھیکے (۳) رعایتیں (۴) شرائط۔
اِلْتِزَامَاتٌ عَلَی: عائد شدہ پابندیاں، فرائض۔
اِلْتِزَامَاتٌ تَعَاقُدِیَّة: معاہدہ کی پابندیاں، شرائط معاہدہ۔
مُلْزَمٌ بِکَذَا: پابند۔
مِلْزَمَة: شکنجہ۔
مُلَازِم: غیر منفک جو جدا نہ ہو (۲) تابع (۳) ماتحت۔
مُلَازِمٌ بَیْتَه: خانہ نشین۔
مُلَازِمُ الفِرَاش: صاحب فراش۔
مُلَازِمٌ أوَّلُ: لفٹنٹ، ایک فوجی عہدہ۔
مُلَازِمٌ ثَانٍ: (۱) سیکنڈ لفٹنٹ۔
مُلْتَزَم، مَلْزُوْم: پابند، مجبور۔
مُلْتَزِم: (مُقَاوِل، عَهِید، مُتَعَهِّد): ٹھیکہ دار، اجارہ دار، ذمہ دار، معاہد کنندہ۔
مَلْزُومِیَّة (اِلْتِزَام): ذمہ داری، مجبوری، پابندی۔

ل.........س

لَسَعَ ـَ لَسْعاً: ڈنک مارنا، ڈسنا۔
لَسَعَ بِلِسَانِه: بدزبانی کرنا، تکلیف پہنچانا۔
لَسَعَ فَمَهُ الفُلْفُلُ: مرچ لگنا۔
لَاسِعٌ، یَلْسَعُ: نیش زن (۲) چبھتا ہوا (۳) جلتا ہوا، چرچرا۔
لَسِنَ ـَ لَسَناً: فصیح اللسان ہونا۔
لَسَنَ فُلَاناً ـُ لَسْناً: کسی کو برائی سے یاد کرنا۔

لَسَنَ و لَسَّنَ: نوک نکالنا، دھار بنانا۔
لَسِنٌ، اَلْسَنُ: فصیح اللسان۔
لِسَانٌ: زبان، جیب ج: اَلْسِنَة۔
لِسَانُ الحَال: ترجمان، زبانِ حال۔
لِسَانُ القَوْم: قوم کا ترجمان۔
طَلِقُ اللِّسَان: خوش بیان۔
طَلَاقَةُ اللِّسَان: خوش بیانی۔
مَعْقُودُ اللِّسَان: جس کی زبان بند ہو، جس سے بات نہ کی جا سکے۔
مَسَکَ لِسَانَه: زبان بند رکھنا۔

ل .... ش

لَا شَاهُ مُلَاشَاةً: معدوم کرنا۔
تَلَاشَي: معدوم ہونا، ناپید ہونا۔
تَلَاشَي الصَّوْتُ: آواز گم ہونا، بے اثر ہونا۔
مُتَلَاشٍ: معدوم۔

ل .... ص

لَصَّصَ البُنْيَان: عمارت کو پختہ بنانا۔
لَصَّ الاَمْرَ ـُ لَصّاً: پوشیدہ طور پر کرنا۔
لَصَّ الشَّئَ: چُرانا۔
تَلَصَّصَ: چور بننا۔
تَلَصَّصَ عَلَيْهِم: کسی کے حالات خُفیہ طریق سے معلوم کرنا، جاسوسی کرنا۔
لِصٌّ: چور ج: لُصُوص۔
لُصُوصِيَّة: چوری۔
لَصَفَ ـُ لُصُوفاً: چمکنا۔
لَصِقَ ـَ لَصْقا و لُصُوقاً: چپکنا۔
لِصْقَ، لَصِيْقَ: متصل، قریب۔
لَصُوْق: پلاسٹر (علاجی)۔

اَلْصَقَ: چپکانا۔
اَلْصَقَ بِهِ: لٹکانا۔
اَلْصَقَ الإِعْلَانَاتِ: اشتہار لگانا، پوسٹر چپکانا۔
اَلْصَقَ رُقْعَةً عَلَى: لیبل لگانا۔
اَلْصَقَ شَيْئاً فِي دَفْتَرٍ: رجسٹر میں چپکانا۔
اِلْتَصَقَ: چپکنا۔
اِلْتَصَقَ الافْتِرَاءُ بِأَحَدٍ: تہمت لگنا۔
مُلْصِقُ الإِعْلَانَات: اشتہار لگانے والا، پوسٹر لگانے والا۔
مُلْتَصِق: چپکا ہوا، لگا ہوا۔

ل .... ط

لَطَخَ ـَ لَطْخاً و لَطَّخَ: آلودہ کرنا۔
لَطَخَ ـَ لَطْخاً السُّمْعَةَ فِي اَعْيُنِ النَّاس: عوام کی نظروں میں حیثیت گرانا۔
تَلَطَّخَ: آلودہ ہونا، ملوث ہونا، گندہ ہونا۔
لُطْخَة: کودن، خبطی، احمق (۲) شراب خوار۔
لَطَسَ ـُ لَطْساً: طمانچہ مارنا۔
مِلْطَاس: نوک دار ہتھوڑی، پتھر توڑنے کی ہتھوڑی ج: مَلَاطِيْس۔
لَطَعَ ـَ لَطْعاً: مارنا، مٹانا۔
لَطَفَ ـُ لُطْفاً بفلان: مہربانی کرنا۔
لَطُفَ ـُ لَطَافَةً: ہلکا پھلکا ہونا، نرم نازک ہونا (۳) مہربان ہونا۔
لَطَّفَ: سختی کم کرنا، تخفیف کرنا۔
لَطَّفَ الأَلَمَ: تکلیف میں کمی کرنا۔
لَطَّفَ وَقْعَ الخَبَرِ السَّيِّئ: بدخبر کے اثر کو ہلکا کرنا۔

لَطَّفَ الشئَ: نرم بنانا، لچک پیدا کرنا۔
لَطَّفَ الحُکمَ: فیصلہ میں لچک رکھنا۔
لَطَّفَ الذَّنبَ: جُرم کوخفیف ثابت کرنا۔
لَطَّفَ الإجراءَ: کارروائی بہترطور پر کرنا۔
لاطَفَہ مُلاطَفَۃً: شفقت کرنا (۲) دلداری کرنا، دل بہلانا (۳) چمکانا (۴) لاڈ پیار کرنا۔
تَلَطَّفَ: نرم بننا، نرمی برتنا (۲) مہربانی کرنا۔
اِستَلطَفَ: مہربانی کی درخواست کرنا۔
لُطف، لَطافۃ: نرمی (۲) لچک (۳) خوش مزاجی۔
لَطافۃ: (ضد: کثافۃ) باریکی، نزاکت۔
لَطِیف: مہربان (۲) خوب رُو (۳) نازک (۴) عمدہ، خوش گوار (۵) خوش مزاج (۶) ہلکا پھلکا (ضد: کثیف)۔
الجنسُ اللَّطِیف: صنفِ نازک۔
مُلَطِّف: تسکین بخش۔
مُلاطَفَۃ: خوش طبعی (۲) دلداری (۳) لاڈ پیار۔
لَطَمَ ـِ لَطماً: تھپڑ مارنا، چہرہ پر مارنا۔
لَطمۃ: طمانچہ، چپت ج: لَطمات۔
تَلاطُم: تصادم، موجوں کا باہم ٹکراؤ۔
مَلطَم: رخسار۔

ل .... ظ

لَظِیَ ـَ لَظًی، تَلَظَّی، اِلتَظَی: آگ بھڑکنا، مشتعل ہونا۔
لَظًی: شعلہ، لپٹ۔

ل .... ع

لَعِبَ ـَ لَعِباً: کھیلنا (۲) مذاق کرنا (۳) بیکار کام کرنا۔
__ القِمارَ: جُوا کھیلنا۔
__ عَلَیہ: ٹھگنا، آنکھوں میں دھول جھونکنا۔
__ فِی الامرِ: کسی معاملہ کو کھیل سمجھنا۔
__ بِالسَّیفِ: پٹا کھیلنا، تیغ بازی کرنا۔
__ بِالنَّار: آتش بازی کرنا۔
__ بِدَورِ کَذا: کسی قسم کا رول ادا کرنا، پارٹ ادا کرنا، کردار ادا کرنا۔
__ بِعَقلِہ: جھانسا دینا، جُل دینا، چونا لگانا۔
لَعَّبَ و اَلعَبَ: کھیل میں لگانا۔
لَعَّبَہ علی اَصابِعِہ: انگلیوں پر نچانا۔
لاعَبَہ مُلاعَبَۃً: کسی کے ساتھ کھیلنا، اٹکھیلیاں کرنا۔
تَلاعَبَ بشئ: کھلونا بنالینا۔
لَعِب: کھیل (۲) مذاق (۳) تفریح ج: اَلعاب۔
لَعِبُ السَّیفِ: پٹا، تیغ بازی۔
اَلعاب: کھیل۔
اَلعابُ خِفَّۃِ الیَد: شعبدہ بازی، بازی گری۔
اَلعابٌ رِیاضِیَّۃ: ورزشی کھیل۔
اَلعابٌ نارِیَّۃ: آتش بازی۔
لُعبۃ: کھلونا ج: لُعَب (۲) وہ شخص جس کا مذاق بنایا جائے۔
لُعبۃ، لِعبۃ: ایک کھیل، کھیل کی ایک قسم۔
لُعبۃُ الغُمَّیضَۃ: آنکھ مچولی۔
لُعَبۃ، لَعّاب، لِعِّیب: کھلاڑی۔
لُعاب: تھوک، منھ کا جھاگ۔

لُعَابُ النَّحل: شہد۔
لُعَابُ البِزْر: شیرہ۔
اُلْعُوبَة: کھلونا ج: اَلاعِیبُ۔
مُلْعُوبٌ: جس کی رال بہتی ہو۔
مَلْعَبٌ: کھیل کا میدان، اسٹیڈیم (۲) تھیٹر، تماشا گاہ ج: مَلاعِبُ۔
مَلْعَبُ تَنِسٍ: ٹینس کا میدان۔
مَلْعَبُ الخَيْلِ وغَيْرِها: سرکس۔
مُلاعِب: کھیل کا رفیق (۲) دھوکہ باز۔
لَعْثَمَ، تَلَعْثَمَ: (فِی الاَدَاء) توقف کرنا، ہچکچانا۔
التَّلَعْثُم: تھوک نگلنا۔
لَعَجَ ـــ لَعْجاً: تکلیف دینا (۲) سوزش پیدا کرنا۔
لَاعِجٌ: دل سوز۔
لَوَاعِجُ الحُبّ: جذباتِ محبت۔
لَعِقَ ـــ لَعْقاً: چاٹنا۔
مِلْعَقَة: چمچہ ج: مَلاعِقُ۔
لَعَلَّ: شاید (۲) ممکن ہے، امید ہے۔

ل.........غ

لَغَزَ ـــ لَغْزاً و اَلْغَزَ و لاغَزَ فِی الكَلَام: بات گھما پھرا کر کہنا، معمہ بنانا، چیستاں بنانا۔
لُغْزٌ: معمہ، چیستاں، پیچیدہ بات ج: اَلْغَاز۔
لُغْزٌ غَامِض: ناقابلِ حل معمہ۔
لَغَطَ ـــ لَغْطاً: شور کرنا۔
لَغْط: لوگوں کے بولنے کا شور، شوروغوغا ج: اَلْغَاط۔
لَغَمَ المَكَانَ ـــ لَغْماً و اَلْغَمَ: سرنگ بچھانا، ڈائنامیٹ کرنا، آتشیں مادہ سے اُڑانا۔
لَغَمٌ: بارودی سرنگ ج: اَلْغَام۔
لَغَا ـــ لَغْواً: بے کار ہونا، لغو ہونا، کالعدم ہونا (۲) کلام کرنا۔
لَغَا، لَغِيَ ـــ لَغًى: بے سوچے سمجھے بولنا (۲) کلام میں غلطی کرنا۔
اَلْغَى إِلْغَاءً: منسوخ کرنا، کالعدم قرار دینا، کینسل کرنا، ملتوی کرنا، بے اثر کرنا۔
اَلْغَى الاتِّفَاق: معاہدہ ختم کرنا۔
اَلْغَى اِجَازَةً مَمْنُوحَةً لِاَحَدٍ: لائسنس منسوخ کرنا۔
اَلْغَى الاَحْكَامَ: فیصلے منسوخ کرنا۔
اَلْغَى الاَحْكَامَ العُرْفِيَّةَ: مارشل لا ختم کرنا، اُٹھانا۔
اَلْغَى الامْتِيَازَ: لائسنس ختم کرنا۔
اَلْغَى الامْتِيَازَاتِ الاَجْنَبِيَّةَ: غیرملکی رعایت ختم کرنا۔
اَلْغَى الاَوَامِرَ: احکام منسوخ کرنا۔
اَلْغَى الحَظْرَ عَنْ: پابندی ختم کرنا۔
اَلْغَى الرِّقَابَةَ: سنسر ختم کرنا۔
اَلْغَى الرِّقَابَةَ عَنِ الصُّحُف: اخباروں کی نگرانی ہٹانا، سنسر شپ ختم کرنا۔
اَلْغَى الطَّلَبَ: آرڈر کینسل کرنا۔
اَلْغَى العَقْدَ: معاہدہ ختم کرنا۔
اَلْغَى القَوَانِينَ: آئین توڑنا، قوانین ختم کرنا۔
اَلْغَى قِيمَةَ العُمْلَة: سکہ کی قیمت ختم کرنا۔
اَلْغَى المُرَافَعَةَ: اپیل خارج کرنا۔

اَلْغی المُرَتَّب: وظیفہ بند کرنا۔
اَلْغی المُعَاهَدَةَ: معاہدہ ختم کرنا۔
اَلْغَی النِظَامَ: سسٹم ختم کرنا۔
اَلْغی النُقُودَ: نوٹ بند کرنا۔
اَلْغی الزِيَارَةَ: دورہ منسوخ کرنا۔
اَلْغَي القَرارَ: فیصلہ یا تجویز منسوخ کرنا۔
لُغَة ج: لُغَات: زبان (۲) اصطلاح۔
لُغَة اِصْطِلاحِيَّة: کوڈ۔
لُغَة اَكْثرُ حِدَّةَ: زیادہ تیز لہجہ۔
لُغَةُ البَلاط: درباری زبان۔
لُغَة خُصُوصِيَّة: لہجہ۔
لُغَة رَسْمِيَّة: سرکاری زبان۔
لُغَةُ الرُّمُوز: خفیہ تحریر۔
لُغَةُ الشَفرة: خفیہ زبان۔
اللُّغَةُ العَامِيَّة: عام بول چال کی زبان۔
اللُّغَةُ العَرَبِيَّة: عربی زبان۔
اللُّغَةُ المُصْطَلَحُ عَلَيْهَا: اصطلاحی زبان۔
لُغَةُ المَوْلِد: مادری زبان۔
عِلْمُ اللُّغَة: الفاظ کے معانی اور ان کے اشتقاقات کے جاننے کا علم۔
كِتَابُ اللُّغَة: ڈکشنری۔
لُغوِیّ: ماہرِ السنہ، فنِ لغت کا ماہر (۲) زبان سے متعلق۔
لَاغٍ: منسوخ، باطل، کالعدم، ختم، بے بنیاد، بے کار، بے اثر۔
اِلْغَاء: منسوخی، ابطال، خاتمہ۔
اِلْغَاءُ العُبُودِيَّة: خاتمہ، غلامی۔
مُلْغَى: منسوخ، نا قابلِ عمل، باطل و کالعدم قرار دیا ہوا۔

ل.........ف

لَفَتَ ـِـ لَفتاً و لَفتَةً: گھمانا، دائیں بائیں موڑنا۔
لَفَتَ ـِـ لَفتاً عَنْ: موڑنا، پھیرنا، منحرف کرنا، توجہ ہٹانا۔
لَفَتَ نَظَرَه و اهتِمَامَه و انتِبَاهَه إلَى: توجہ دلانا، توجہ مبذول کرانا۔
اِلْتَفَتَ و تَلَفَّتَ إلَى: متوجہ ہونا۔
اِلْتَفَتَ يُمْنَةً و يُسْرَةً: دائیں بائیں دیکھنا۔
لِفت: شلجم و: لِفتة۔
لِفتِيُّ الشَّكْل: شلغمی شکل کا۔
لَفتة ، اِلْتِفَاتَة: ایک نگاہ، ایک نظر (۲) نظرِ کرم، توجہ، التفات۔
لَافِتَة: موٹو ج: لَافِتَات و لَوَافِت۔
لَافِتَةُ لِلتَّحْذِير: سگنل۔
لَافِتَاتُ التَّرْحِيب: خیر مقدمی موٹو، استقبالیہ موٹو۔
المُلفِتُ لِلنَّظَر: قابلِ التفات۔
لَفَحَ ـَـ لَفحاً: مارنا، تلوار مارنا (۲) جلانا، جھلسنا۔
لَفْح: آنچ، گرمی، لپٹ۔
لَفَظَ ـِـ لَفظاً: پھینکنا۔
لَفَظَ كَلِمَةً: لفظ بولنا۔
لَفَظَ النَّفَسَ الاخِيرَ: آخری سانس چھوڑنا۔
لَفَظَ و تَلَفَّظَ: بولنا۔
لَافِظ: بولنے والا۔
لَفَعَ ـَـ لَفعاً و لَفَعَ الشَّيبُ رَأسَه: سر پر بڑھاپا چھا جانا، سر سفید ہونا۔

اِلْتَفَعَ و تَلَفَّعَ بكذا: لپٹنا، کسی چیز کو اپنے پر لپیٹنا۔
لِفَاع: مفلر، سر کو لپیٹنے کا کپڑا۔
لَفَفَ و لَفَّ ـــُـ لَفًّا: لپیٹنا، ڈھانپنا، پیک کرنا۔
لَفَّ والْتَفَّ: چکر کھانا۔
اِلْتَفَّ الثُّعْبَانُ: سانپ کا بل کھانا، لپٹنا۔
اِلْتَفَّ عَلَيْهِ القَوْمُ: لوگوں کا کسی کے گرد جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔
لَفّ: پیکنگ، فولڈنگ۔
لَفَّة: لچھا، دھاگوں کا گولا، انٹی۔
لَفَّاف: گھومنے والا۔
بَابٌ لَفَّاف: گھومنے والا دروازہ۔
لِفَافَة: (۱) پٹی (۲) لپیٹنے کا کپڑا (۳) پیکٹ۔
لِفَافَةُ تَبْغ: سگریٹ۔
لِفَافَةُ السَّاق: پنڈلی بند۔
لَفِيف: جماعت، گروپ، مخلوط قسم کا مجمع۔
لَفِيفَةٌ مِنَ التَّبْغ: سگریٹ، بیڑی ج: لَفَائِفُ۔
مِلَفّ، مِلْفَاف: لبادہ (۲) ریپر، اخبار یا کاغذ وغیرہ لپیٹنے کا کاغذ۔
مِلَفّ (د) مِثْقَاب: سوراخ کرنے کا آلہ۔
مِلَفّ: کاغذات کا فائل، ریکارڈ، سیاہ ریکارڈ، فائل ج: مِلَفَّات۔
مِلَفٌّ فَرْعِيّ: ذیلی فائل۔
لَفَقَ ـِـ لَفْقًا: ٹانکے بھرنا (۲) کپڑے کو دوہرا کر کے سینا۔
لَفَّقَ الحَدِيثَ: بات کو باطل سے مزین کرنا۔
لَفَّقَ الكَلَامَ: بات گھڑنا۔
لَفَّقَ التُّهْمَةَ: الزام تراشنا۔
لَفَّقَ الأَخْبَارَ: خبریں گھڑنا۔
لَفْق: سلائی۔
تَلْفِيق: بناوٹ، جعل سازی۔
تَلْفِيقَة: من گھڑت کہانی۔
لَفْلَفَ المَوْضُوعَ لَفْلَفَةً: مسئلہ کو لپیٹ دینا۔
أَلْفَى إِلْفَاءً: پانا۔
تَلَافَى: تدارک کرنا۔
تَلَافَى الشَّرَّ قَبْلَ اسْتِفْحَالِه: فتنہ کے سر اٹھانے سے پہلے اس کی تدبیر کرنا۔

ل............ق

لَقَب: ٹائٹل، لیبل، لقب ج: أَلْقَاب۔
لَقَبُ الأُسْرَة: سرنام، خاندانی نام۔
لَقَحَ و لَقِحَ ـــَـ لَقْحًا و أَلْقَحَ أُنْثَى الحَيَوَان: حاملہ بنانا۔
لَقَّحَ و لَقَحَ النَّبَاتَ: نر اور مادہ کو ملا کر بار آور بنانا۔
لَقَّحه تَلْقِيحًا: انجکشن لگانا۔
لَقَّحه ضِدَّ مَرَض كذا: کسی مرض سے بچاؤ کا ٹیکہ لگانا۔
لَقَّحَه بِلِقَاحِ مَرَضٍ مُعْدٍ: وبائی امراض کا ٹیکہ لگانا۔
لَقَّحه بِمَصْلِ الجُدَرِيّ: چیچک کا ٹیکہ لگانا۔
لِقَاح: مادہ منویہ، نطفہ (۲) کھجور کا شگوفہ جو مادہ میں ڈالا جائے، نر دانہ جو مادہ میں پہنچایا جائے (۳) انجکشن، ٹیکہ، دوا جو بدن میں پہنچائی جائے۔
لِقَاحُ الجُدَرِيّ: چیچک کا ٹیکہ۔

تَلْقِيحٌ صِنَاعِيّ: مصنوعی حمل کاری۔
لَقَطَ ــُ لَقطاً و اِلْتَقَطَ و تَلَقَّطَ: زمین سے اٹھانا۔
اِلْتَقَطَ الصُّوْرَةَ: فوٹو لینا۔
لَقْطَة: منظر ج: لَقَطَات۔
لُقَطَة: پڑی ہوئی چیز (۲) بچی کچھی چیز جو سستی خرید لی جائے۔
لَقِيط: اٹھایا ہوا نومولود بچہ۔
مِلْقَط، مِلْقَاط: چمٹی۔
مِلْقَطُ النَّار: دست پناہ، چمٹا۔
لَقِفَ ــَ لَقفاً، تَلَقَّفَ، اِلْتَقَفَ: کیچ کرنا، اچکنا، جلدی تھام لینا۔
تَلَقَّفَ الطَّعَامَ: نگلنا۔
تَلَقَّفَهُ المَرَضُ: مرض کا گھیر لینا۔
لَقَمَ ــُ لَقماً: دہانہ بند کرنا۔
لَقِمَ الشيءَ ــَ لَقماً: منہ میں لینا۔
لَقِمَ الطَّعَامَ: کھانا ہڑپ کرنا۔
لَقَّمَ و اَلْقَمَ: لقمہ بنانا۔
لُقْمَةٌ سَائِغَة: لقمہ تر، تر نوالہ ج: لُقَم۔
لَقِنَ ــَ لَقناً و تَلَقَّنَ مِنْ: بالمشافہ کوئی چیز حاصل کرنا، سیکھنا۔
لَقَّنَ تَلْقِيناً: سکھانا، بتانا، املا کرانا، بالمشافہ سمجھانا، ذہن میں بٹھانا۔
لَقَانَة: زود فہمی۔
لَقِيَ ــَ لِقَاءً و اِلْتَقَى: پانا، ملنا، واسطہ پڑنا۔
لَقِيَ و اِلْتَقَى به و لاَقَاهُ: ملاقات کرنا۔
لَقِيَ اَسْوَأَ مَصِيْرٍ: اس کا انتہائی برا حشر ہوا۔
لَقِيَ تَجَاوُباً: اسے مقبولیت حاصل ہوئی۔
لَقِيَ حَفَاوَةً بَالِغَةً: اس کا بڑا اعزاز ہوا۔

لَقِيَ القَرَارُ اِسْتِجَابَةً عَامَّةً فی الوَطَنِ: ملک میں فیصلہ کو عام پذیرائی حاصل ہوئی۔
لَقِيَ العَدُوُّ جَزَاءَهُ: دشمن کو اس کی سزا ملی۔
لاَقَاهُ: استقبال کرنا۔
لاَقَى مَصَاعِبَ جَمَّةً: زبردست مشکلات کا سامنا کرنا۔
لاَقَى فُلانٌ العِلاَجَ: حل پا جانا۔
لاَقَى: وصول کرنا۔
اِلْتَقَتِ العُيُونُ: آنکھیں چار ہونا۔
تَلَقَّاهُ: استقبال کرانا (۲) حاصل کرنا، وصول کرنا، ریسیو کرنا۔
تَلَقَّاهُ بِتَرْحَاب: کشادگی سے ملنا۔
تَلَقَّى عَلَيْهِ: کسی سے علم حاصل کرنا۔
تَلَقَّى البَلاَغَ: رپورٹ ہونا، اطلاع ملنا۔
تَلَقَّى تَحِيَّةَ الجَمَاهِيْرِ: سلامی لینا۔
تَلَقَّى التَّدْرِيْبَ العَسْكَرِيَّ مِنْ: فوجی تربیت حاصل کرنا۔
تَلَقَّى الدَّعْوَةَ مِنْ: کسی کی طرف سے دعوت پانا۔
تَلَقَّى الدُّرُوْسَ: سبق حاصل کرنا۔
تَلَقَّى المُسَاعَدَاتِ: امدادیں حاصل کرنا۔
تَلَقَّى مُكَالَمَةً تِلِيفُونِيَّةً: ٹیلیفون کال وصول کرنا۔
أَلْقَى إِلْقَاءً: ڈالنا۔
أَلْقَى عَنْهُ: معاف کرنا۔
أَلْقَى عليه الدَّرْسَ: سبق پڑھانا، سبق کا املا کرانا۔
أَلْقَى عليه سُؤَالاً: سوال کرنا۔

أَلقَی علیه الشئَ: پھینکنا۔
أَلقَی علی عَاتِقِه: ذمہ داری ڈالنا۔
أَلقَی الحَبلَ عَلی الغَارِب: آزاد چھوڑنا۔
أَلقَی القَبضَ علی: گرفتار کرنا، اریسٹ کرنا۔
أَلقَی الشِّقَاقَ بَیْنَهُمْ: لڑائی کرانا۔
أَلقَی الأَوَامِرَ له و إِلَیه: احکام جاری کرنا۔
أَلقَی خُطبَةً: تقریر کرنا، خطبہ دینا۔
أَلقَی خُطبَةً حَمَاسِیَّةً: جوشیلی تقریر کرنا۔
أَلقَی الرُّعبَ فی: خوف پیدا کرنا۔
أَلقَی عَصَا التَّرحَال: قیام کرنا۔
أَلقَی الشئَ فِی رُوْعِه: دل میں ڈالنا۔
أَلقَی القَنابِلَ عَلَی: بمباری کرنا۔
أَلقَی الکَلِمَةَ: تقریر کرنا۔
أَلقَی المَسْئُولِیَّةَ و المُهِمَّةَ علی: ذمہ داری ڈالنا۔
أَلقَی عَلَیْهِ القَولَ: املا کرانا۔
أَلقَی إِلَیهِ القَولَ و بِالقَولِ: بات پہنچانا۔
أَلقَی إلیه الشئَ: ڈالنا۔
أَلقَی إلیه السَّمعَ: کان لگانا، توجہ دینا۔
أَلقَی بِنَفْسِه فی کذا: مبتلا کرنا۔
أَلقَی بِنَفْسِه بَیْنَ أَنْیَابِ المَوْت: خود کو موت کے منھ میں ڈالنا۔
تَلاقَی الشَّیْئَانِ فِی الطَّرِیق: کراس کرنا۔

تَلاقَوْا و الْتَقَوْا: باہم ملنا۔
اِسْتَلْقَی: لیٹنا، چت لیٹنا۔
لِقَاء: مڈبھیڑ، مقابلہ، ملاقات، اجتماع۔
لِقَاءٌ إِسْلَامِیٌّ: اسلامی اجتماع۔
لِقَاءٌ حَضَارِیٌّ: تہذیبی اجتماع۔
لِقَاءٌ صَحَفِیٌّ: پریس انٹرویو۔
لِقَاءٌ فِکرِیٌّ: فکری اجتماع۔
لِقَاءٌ نِهَائِیٌّ: آخری ملاقات۔
لِقَاءَ کذا: بدلہ میں۔
اللِّقَاءَات: ملاقاتیں۔
اللِّقَاءَاتُ الجَانِبِیَّة: یک طرفہ ملاقاتیں۔
تِلْقَاء: ملاقات۔
تِلْقَاءَ: سامنے، بالمقابل۔
مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِه: اپنی طرف سے۔
تِلْقَائِیّ: بدیہی، خود بخود حاصل ہونے والا۔
تِلْقَائِیًا: خود بخود۔
مَلْقَی، مُلْتَقَی: جائے اجتماع۔
مَلْقَی و مُلْتَقَی الخُطُوط و الفُرُوع: جنکشن۔
مَلْقَی و مُلْتَقَی الطُّرُق: چوراہا، کراسنگ۔
مُلْتَقَی: (۲) میٹنگ، سیمینار۔

ل.........ک

لَکَأَ ـَ لَکْأً: مارنا۔
تَلَکَّأَ: توقف کرنا، جھجکنا۔
لَکَزَ ـُ لَکْزاً: مکا مارنا۔
لَکِزٌ: بخیل۔
لَکَّ ـُ لَکّاً: گدی پر مارنا۔

اِلتَکَّ فِی کَلَامِہٖ: غلطی کرنا۔
لَکٌّ: لاکھ ۱۰۰۰۰۰ (۲) لاک جس سے مہر لگائی جاتی ہے (مع)۔
لَکَمَ ـُـ لَکْماً: مکا مارنا۔
لَاکَمَہٗ مُلَاکَمَۃً: مکا بازی کرنا۔
لَکْمَۃٌ: ایک مکا، باکس ج: لَکَمَاتٌ۔
لَکْمَۃٌ وَ جِیْعَۃٌ: سخت مکا۔
اَلْمُلَاکَمَۃُ: مکے بازی، باکسنگ۔
اَلْمُلَاکِمُ: مکے باز، باکسر۔
لَکِنَ ـَـ لَکَناً: ہکلا ہونا، ثقلِ لسانی میں مبتلا ہونا۔
اَلْکَنُ: ہکلا م: لَکْنَاءُ۔
لِکَیْ، لِکَیْمَا: تاکہ۔

ل .... م

لَمْ: نہیں (حرف جازم مضارع)۔
اِنْ لَمْ: اگر نہیں۔
مَا لَمْ: جب تک۔
لَمَّا: جب۔
لَمْبَۃ: (مع) لمپ۔
لَمَحَ ـَـ لَمْحاً و لَمَحَاناً: چمکنا۔
لَمَحَ ـَـ لَمْحاً الشَّیْءَ و إلیہ: اچٹتی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا۔
لَمَحَ إلی: اشارہ کرنا۔
لَامَحَہ: دُزدیدہ نگاہوں سے دیکھنا۔
لَمْحَۃ: اچٹتی نگاہ (۲) چمک۔
لَمْحَۃٌ سَرِیْعَۃ: سرسری نظر۔
لَمْحَۃٌ خاطِفَۃ: اچٹتی نگاہ۔
لَمْحٌ: سرسری نظر۔
کَلَمْحِ الْبَصَرِ: چشم زدن میں۔

مَلَامِحُ: خدوخال، نمایاں آثار، علامات۔
مَلَامِحُ الْمُسْتَقْبَلِ: مستقبل کا نقشہ۔
مَلَامِحُ النُّبُوغ: قابلیت کے آثار۔
مَلَامِحُ الْوَجْہ: چہرہ کے خط وخال۔
لَمَزَ ـِـ لَمْزاً بِالْکَلَامِ: عیب لگانا۔
لَمَزَ بِالْعَیْنِ: اشارہ کرنا۔
لَمَسَ ـُـِـ لَمْساً: چھونا (۲) ٹٹولنا (۳) طلب کرنا۔
لَامَسَہٗ مُلَامَسَۃً: چھونا، ہاتھ لگانا (۲) جماع کرنا۔
تَلَمَّسَ: جستجو کرنا، ڈھونڈنا۔
تَلَمَّسَ عُذْراً: بہانہ تلاش کرنا۔
تَلَمَّسَ طَرِیْقَہ: راستہ معلوم کرنا۔
تَلَمَّسَ الإِمْکَانَاتِ: ذرائع تلاش کرنا۔
تَلَمَّسَ الأَصْوَاتِ فی الانْتِخَابَات: الیکشن میں کنوسنگ کرنا۔
اِلْتَمَسَ: طلب کرنا (۲) اپیل کرنا، درخواست کرنا۔
اِلْتَمَسَ عَنْ شَيْءٍ: تلاش کرنا، جستجو کرنا۔
اِلْتَمَسَ الشَّیْءَ مِنْ فُلَانٍ: مانگنا، کسی چیز کی درخواست کرنا۔
اَللَّمْسُ الْمَنْبُوذ: چھوت چھات۔
اِلْتِمَاس: درخواست، فرمائش، اپیل۔
لَمَعَ ـَـ لَمَعَاناً: چمکنا۔
لَمَعَ و اَلْمَعَ بِیَدِہٖ: اشارہ کرنا۔
لَمَّعَ الْکِتَابَ: رنگین بنانا، رنگوں سے آراستہ کرنا۔
لَمَّعَ الشَّیْءَ: چمکانا، پالش کرنا۔
لَمْعٌ، لَمَعَان: چمک، آب وتاب۔

لَمَّاع: چمکدار، بھڑکدار (۲) وارنش کیا ہوا۔
جِلْدٌ لَمَّاع: پیٹنٹ لیدر، وارنش کیا ہوا چمڑا۔
لَامِع: گولڈن، چمکدار۔
لَمَمٌ: مراق، معمولی درجہ کا جنون۔
لَمَّ ـُ لَمّاً: جمع کرنا۔
اَلَمَّ بِكَذا: واقف ہونا، جاننا۔
اَلَمَّ بِشَئٍ بِصُورَةٍ مُبَسَّطَة و سَرِيعَة: کسی چیز کا سرسری اور معمولی مطالعہ کرنا۔
اَلَمَّ البَلَدَ: ملک کو متحد کرنا۔
اَلَمَّ به كذا: پیش آنا، لاحق ہونا۔
اَلَمَّ بِالذَّنب: گناہ کا ارتکاب کرنا۔
لَمَّا: جب۔
لَمَّة: ہر جمع شدہ چیز (۲) اجتماع۔
لَمَّة: سختی، شدت۔
لَامَّة: نظرِ بد۔
لِمَاماً: وقتاً فوقتاً۔
اِلْمَامٌ بشئٍ: واقفیت، علم، شغف، مہارت۔
مُلِمَّة: مصیبت ج: مُلِمَّات۔
مَلْمُوم: جمع شدہ۔
لِيمُون: لیموں۔

ل............ن

لَنْ: ہرگز نہیں۔
لُنْدُرَة: (مع) لندن۔
لَنش: اسٹیمر، لانچ، موٹربوٹ ج: لَنشات۔

ل............ه

لَهِبَ ـَ لَهَباً: پیاسا ہونا، تشنہ ہونا۔
لَهِبَ، اِلْتَهَبَ، تلَهَّبَ: آگ بھڑکنا، سوزش ہونا۔
اِلْتَهَبَ و تَلَهَّبَ عَطَشاً أو غَيظاً: پیاس یا غصہ سے بھڑکنا۔
اِلْتَهَبَ الشئُ: بھبکنا، آگ لگنا۔
اِلْتَهَبَ اللَّوْزَتَان: گلے آجانا، ٹونسل ہونا، حلق کے غدوں کا ورم آلود ہونا۔
لَهَّبَ و أَلْهَبَ: آگ بھڑکانا (۲) جلانا۔
أَلْهَبَ المَشَاعِرَ: جذبات بھڑکانا۔
أَلْهَبَ الحَمَاسَ: جوش دلانا، مشتعل کرنا۔
أَلْهَبَ عَوَاطِفَ العَامَّة: عوام کے جذبات کو بھڑکانا۔
لُهَاب: پیاس۔
لَهَبٌ: آگ کی لپٹ، شعلہ۔
لَهْبَان: پیاسا۔
لَهِيب: آنچ، لپٹ۔
اِلْتِهَاب: سوزش، ورم۔
اِلْتِهَابُ الأُذُن: کان کا درد۔
اِلْتِهَابُ الرِّئَة: نمونیہ۔
اِلْتِهَابُ الزَّائِدَةِ الدُّودِيَة: اپنڈی سائٹس، ایک مرض جس میں زائد آنت ورم آلود ہو جاتی ہے اور سوزش ہوتی ہے۔
اِلْتِهَابُ الكُلَى: ورم گردہ، دردِ گردہ۔
اِلْتِهَابُ المِعْدَة: سوزشِ معدہ۔
اِلْتِهَابٌ وَرِيدِيّ: سوزشِ ورید۔
سَرِيعُ الالْتِهَاب: جلد آگ پکڑنے والا۔
قَابِلُ الالْتِهَاب: آتش گیر، قابلِ احتراق۔
مُلْتَهِب: برافروختہ، آتش گیر، مشتعل۔
لَاهُوت: الوہیت، خدائیت۔
عِلْمُ اللَّاهُوت: تھیالوجی، دینیات۔
لَاهُوتِيّ: عالمِ دینیات (۲) دینیات سے

متعلق۔

لَهِثَ ـــ لَهَثاً: ہانپنا (پیاس یا تکان سے زبان باہر نکل آنا)۔

لَهِجَ ـــ لَهَجاً و اَلْهَجَ بِالشَّیْ: شیفتہ ہونا، دلدادہ ہونا۔

لَهِجَ بِذِکْرِہ: (ذکرِ خیر کرنا، بار بار ذکر کرنا)۔

لَهْجَة: (۱) نوکِ زبان (۲) مادری زبان (۳) لب و لہجہ، طرزِ کلام، ٹون (۴) کسی علاقے کی خاص زبان ج: لَهَجَات۔

اللَّهَجَاتُ المَحَلِیَّة: مقامی زبانیں۔

لَهَطَ ـــ لَهْطاً: تھپڑ مارنا۔

لَهِفَ ـــ لَهَفاً و تَلَهَّفَ عَلَی: حسرت کرنا، کفِ افسوس ملنا۔

لَهِفَ ـ لَهَفاً عَلَی: حسرت رکھنا، اشتیاق رکھنا۔

لَهَف، لَهْفَة: حسرت (۲) شوق، اشتیاق۔

لَهِمَ ـــ لَهْماً و اَلْتَهَمَ و تَلَهَّمَ: ایک دفعہ میں کھالیا، ہڑپ کرنا (۲) نگلنا۔

اَلْهَمَ فُلاناً الشَّیْئَ: دل میں ڈالنا۔

اِسْتَلْهَمَ: راہنمائی حاصل کرنا۔

لَهِمٌ، لَهُوم: بسیار خور۔

مُلْهَم: خدا کی طرف سے بتایا ہوا، الہامی، الہام شدہ۔

لَهْوٌ: تفریح (۲) کھیل۔

اَمَاکِنُ اللَّهْو: تفریح گاہیں۔

لَهَاةُ الحَلْق: حلق کا کوا ج: لَهَوَات۔

لَهَا ـــُ لَهْواً: کھیلنا (۲) تفریح کرنا (۳) فضول کام کرنا۔

لَهَا بہ و لَهِیَ ـــ لَهاً: محبت کرنا، فریفتہ ہونا۔

لَهَا و لَهِیَ عَنْهُ: غافل ہونا۔

لَهَّی و اَلْهَی عَنْ: غافل بنانا، توجہ ہٹانا۔

تَلَهَّی و تَلاهَی و الْتَهَی بِکَذا: دل بہلانا، تفریحِ طبع کرنا، کھیل میں لگنا۔

لَاہٍ عَنْ شَیْئٍ: غافل، بے خبر۔

مُلْهٍ: تفریح بخش، دل چسپ (۲) غافل بنانے والا۔

مَلْهًی: تفریح، تماشا، کھیل۔

مَلْهًی (۲): تماشا گاہ، تفریح گاہ (۲) تھیٹر۔

مَلْهًی (۳): سینما ج: مَلاہٍ۔

ل .... و

لَوْ: اگر (لَوْجَاءَ لاَعْطَیْتُہ)۔

لَوْ لَمْ: اگر نہیں۔

و لَوْ: اگرچہ۔

لُوبَاء، لُوبِیَا: لوبیا۔

لُوتَارِیَة: (مع) لاٹری۔

لَوَّثَ تَلْوِیثاً: میلا کرنا، گدلا کرنا، لت پت کرنا، آلودہ کرنا۔

تَلَوَّثَ بِکَذا: آلودہ ہونا۔

تَلَوُّث: آلودگی۔

تَلَوُّثٌ جَوِّیّ: فضائی آلودگی۔

تَلَوُّثُ البِیئَة: ماحول کی آلودگی۔

مُتَلَوِّثٌ بِکَذا: آلودہ۔

لَوَّحَ اِلَیْہ: دور سے اشارہ کرنا۔

لَوَّحَ بِسَیْفِہ: ہاتھ میں تلوار لے کر گھمانا۔

لَوَّحَ و اَلاحَ بِیَدِہ اَو بِمِنْدِیلِہ: ہاتھ یا رومال ہلا کر اشارہ کرنا، اشارہ دینا۔

لَوَّحَ الأَرْضَ: (۱) زمین پر لکڑی کے تختے بچھانا۔

لَوَّحَ الشئ بِالنَّار: آگ سے گرم کرنا۔
لَاحَ ـــــ لَوحاً: ظاہر ہونا (۲) چمکنا، جھلملانا (۳) طلوع ہونا۔
لَاحتْ بَوَادِرُ الشئ و دَلَائِله: آثار نظر آنا۔
لَاحَ لِی کَذا: میرے ذہن میں ایسا آیا۔
يَلُوحُ لِی کَذا: مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے، میں ایسا خیال کرتا ہوں۔
لَوْح: تختی ج: اَلْوَاح۔
ــــ زُجَاج: شیشے کا تختہ۔
ــــ اَرْدُوَاز: رائٹنگ سلیٹ۔
ــــ مَعْدِنِیّ: دھات کی پلیٹ۔
ــــ و لَوحَةُ البَاب: دروازہ کی پلیٹ۔
ــــ الکِتَابَة: بلیک بورڈ، تختہ سیاہ۔
لَوحَة: پلیٹ، تختی۔
لَوحَةُ الاَسْعَار: نرخوں کا چارٹ۔
لَـوحَةُ اِعْلَانَاتٍ: نوٹس بورڈ، تختۂ اعلانات، اعلان بورڈ۔
لَوحَةٌ زَيْتِيَّة: قلمی تصویر۔
لَوحَةٌ للعَرْض: شو بورڈ۔
لَـوحَةُ اَلْوَانِ التَّصْوِیْر: رنگوں کی تختی جس پر مختلف رنگوں کو ملایا جاتا ہے۔
لَائِحَة: منظر، ظاہری شکل (۲) پروگرام، پراسپیکٹس (۳) ضابطہ، قانون (۴) رجسٹر ج: لَوَائِح۔
لَائِحَةٌ دَاخِلِيَة: داخلی قانون۔
لَائِحَةُ قَانُون: مسودۂ قانون۔
لَائِحَةُ المُوَظَّفِين: اسٹاف ضابطہ۔
لَوَائِحُ: ضوابط، قوانین، قواعد و ضوابط۔

اللَّوَائِحُ التَّنفِيذِيَّة: ایگزیکٹو قوانین۔
لَوَائِحُ الحُکُومَة: سرکاری قوانین۔
المُلَوِّحُ (عَامِلُ الإِشَارَة): سگنل مین۔
مُلَوِّحَة: سگنل ج: مُلَوِّحَات۔
لَوْذ، لِوَاذ: پناہ۔
لَاذَ بِه ـــــ لَوْذاً: پناہ لینا، کسی کے پاس چھپنا (۲) وابستہ ہونا۔
لَاذَ بالفِرَار: فرار اختیار کرنا۔
مَلَاذ: پناہ گاہ۔
لُورد: (مع) لارڈ۔
لَـوَّزَ التَّـمْـرَ: کھجور کی گٹھلی نکال کر اس میں بادام کی گری بھرنا۔
لَوْز: بادام و: لَوْزَة۔
لَازَ ـــ مِنهُ لَوْزاً: چھٹکارا پانا۔
لَازَ اِلَيْه: پناہ لینا۔
لَازَ اِلَی الکِذْب: جھوٹ کا سہارا لینا۔
لَوْزَةُ الحلق: ٹونسل، غدود۔
اِلْتِهَابُ اللَّوْزَتَيْن: ٹونسل ہونا، حلق کے غدوں کا ورم آلود ہونا۔
لَوْزِیّ: بادام نما۔
لَوَّعَ: عذاب دینا، تکلیف دینا۔
لَاعَ ـــ لَوْعاً: گھبرانا (۲) بیمار ہونا (۳) دھوپ کا چہرہ کو جھلس دینا۔
اِلْتَاعَ قَلْبُه: دل جلنا، سوزش ہونا۔
لَوْعَة: سوزش۔
مُلْتَاع، مُلَوَّع: عشق میں سوزاں۔
لَاکَ ـــ لَوْکاً: چبانا۔
لُوکَانْدَة، لُوکَنْدَة: (مع) ہوٹل۔
لُوکَانْدَةُ اَکْلٍ: ریسٹورنٹ۔

لَـوْلَـب: کیل، پیچ دار کیل، پیچ (۲) اسپرنگ ج: لَوَالِب۔
لَوْلَبِیّ: پیچ دار (۲) اسپرنگ کا۔
لُؤْلُؤَة: موتی (دیکھیے: لَألَأ)۔
لَامَ ـُ لَوْماً: ملامت کرنا، آڑے ہاتھوں لینا۔
اِلْتِیَامٌ: ملامت قبول کرنا۔
اِسْتِلَامَة: لائق ملامت ہونا۔
لَوَّنَ: رنگین بنانا (۲) رنگنا۔
تَلَوَّنَ: رنگین بننا (۲) رنگ بدلنا۔
لَـوْنٌ: رنگ (۲) قسم، صنف (۳) وہ مادہ جس سے رنگا جائے ج: اَلْوَان۔
لَوْنٌ فَاتِح: کھلا ہوا رنگ۔
لَوْنٌ زَاهٍ: شوخ رنگ، بھڑکدار رنگ۔
لَوْنٌ قَاتِم: گہرا رنگ۔
لَوْنٌ اَخْضَر: سبز رنگ، گرین۔
لَوِیَ ـَ لَوًی: ٹیڑھا ہونا، مڑنا۔
لَوِیَتِ الحَیَّةُ: سانپ کا بل کھانا۔
تَلَوَّی، اِلْتَوَی: ٹیڑھا اور پیچ دار ہونا، بل کھانا۔
اِلْتَوَی عَلَیْهِ الاَمْرُ: پیچیدہ اور دشوار ہونا۔
لِـوَاء: پرچم، جھنڈا ج: اَلْـوِیَة (۲) فوج کا ایک حصہ، پریگیڈ (۳) جنرل، میجر جنرل (فوجی عہدہ)
لِوَاءُ دَبَّابَات: ٹینک بریگیڈیر۔
لِوَاءٌ مَحَلِّیّ: بریگیڈیر۔
أَمِیْرُ اللِّوَاء: بریگیڈیر جنرل۔
لَوًی: درد معدہ۔

لَوَی الجَبَلَ ـِ لَیًّا: بل دینا (۲) موڑنا۔
لَوَی أَمْرَه عَنْ: چھپانا۔
لَوَّی و اَلْوَی: پیچیدہ اور دشوار بنانا۔
لَوَّی وَ اَلْوَی: ٹیڑھا کرنا۔
اِلْتِوَاء: پیچیدگی۔
مُلْتَوٍ: پُر پیچ، غیر واضح

ل............ی

لَیْث: شیر ج: لُیُوث
لِیْفُ النَّخل: کھجور کی چھال و: لِیْفَة
أَلْیَاف: ریشے و: لِیْف.
أَلْیَاف صِنَاعِیَّة: مصنوعی ریشے۔
أَلْیَاف عَصَبِیَّة: عصبی ریشے۔
لَیَّقَ: نرم کرنا۔
لَاقَ بِه ـِ لِیَاقَةً: لائق و مناسب ہونا۔
لِیَاقَة: حسنِ ذوق، صلاحیت (۲) اختیار (۳) مناسبت۔
لِیَاقَةٌ لِلعَمَل: کام کی صلاحیت۔
لَائِق: مناسب، فٹ۔
لَیْلٌ: رات ج: لَیَالٍ۔
لَیْلَ نَهَارَ، لَیْلاً و نَهَاراً: رات دن، آٹھ پہر۔
لَیْلِیّ: رات کا، شبینہ۔
لَیَّنَ: نرم بنانا۔
لَیَّنَ البَطْنَ: پیٹ ملنا۔
لَانَ ـِ لِیْناً: نرم ہونا (ضد خشن)۔
لَایَنَهُ مُلَایَنَةً: نرمی برتنا، مہربانی سے پیش آنا۔
لَیِّن: نرم، نرم دل۔
لُیُونَة: نرمی، نرم خوئی، مہربانی۔

م

م .... أ

مُـؤْنَة ، مَـؤُونَة: خوراک، روزینہ (٢) بوجھ
ج: مُؤَن۔

مِئَة ، مِائَة: سو ج: مِئات۔

مِائَةٌ فِي المَائِة: سو فیصدی۔

فی المِائَة: فی صد، پرسینٹ %۔

مِئَوِیّ: صد سالہ، سوسالہ۔

مَا ، مَاذَا: کیا۔

مَابَیْنَ: آپس، درمیان۔

مَالَمْ: جب تک۔

مَاجِسْتِیْر: ایم-اے۔

مَارِس: مارچ (در: موس)۔

المَارْشَال: فیلڈ مارشل۔

مَارْکَة: مارک، خاص نشان، لیبل۔

مَارْکَةٌ تِجَارِیَّة: ٹریڈ مارک۔

مَارْکَةٌ مُسَجَّلَة: رجسٹرڈ مارک۔

مَالطة: جزیرۂ مالٹا۔

مَانُجا ، مَانْجُو: آم، مینگو۔

مَاو: مئی۔

م .... ت

مِتْر: میٹر، ناپنے کا گز وغیرہ جس کا طول، برابر، ٣٧ یا ٣٩ انچ ہے، ایک گز سے کچھ زائد
ج: أَمْتَار۔

مَتَّعَ و أَمْتَعَ: لطف اندوز ہونے کا موقع دینا، دلچسپ بنانا، مستفید کرنا، لطف اندوز کرنا، فائدہ پہنچانا۔

مَتَّعَهُ اللّٰهُ: خدا عمر دراز کرے۔

تَمَتَّعَ ، اِسْتَمْتَعَ بِهٖ: لطف اندوز ہونا، مستفید ہوا۔

تَمَتَّعَ بِالتَّأْیِیْد: تائید حاصل کرنا، حمایت حاصل کرنا۔

تَمَتَّعَ بِثِقَة: اعتماد حاصل کرنا۔

تَمَتَّعَ بِالسُّلْطَة: اختیار حاصل کرنا۔

تَمَتَّعَ بِجَمِیْعِ الامْتِیَازَاتِ المُتَاحَة: حاصل شدہ تمام مراعات سے فائدہ اٹھانا۔

مُتْعَة: لطف، تفریح، سامانِ دلچسپی ج: مُتَع۔

مَتَاع: سامان، لگیج ج: أَمْتِعَة۔

مَتَاعُ و أَمْتِعَةُ البَیْت: فرنیچر۔

أَمْتِعَةُ الجَیْش: فوجی سامان۔

أَمْتِعَةُ سَفَر: سامانِ سفر، لگیج، بیگیج۔

أَمْتِعَةُ المُسَافِرِیْن: مسافروں کا سامان۔

مَتُنَ ـُ مَتَانَةً: مضبوط ہونا۔
مَتَّنَ: مضبوط بنانا۔
مَتْنٌ: پیٹھ ج: مُتُون۔
مَتْنُ الكِتَابِ: کتاب کی اصل عبارت۔
مَتْنُ الطَّرِيْقِ: وسطِ راہ۔
علی مَتْنِ الطَّائِرَةِ: ہوائی جہاز سے۔
مَتِيْن: مضبوط، پختہ، ثابت۔
مَتَانَة: مضبوطی، پختگی۔
مَتَى: کب (۲) جب۔

م..........ث

مَثَلَ ـُ مُثُولاً و تَمَثَّلَ: سامنے آنا، پیش آنا۔
مَثَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ: آداب بجالانا۔
مَثَلَ الشيْئُ أَمَامَ العَيْنِ: آنکھوں میں پھرنا۔
مَثَلَهُ و مَاثَلَه: مشابہ ہونا، یکساں ہونا۔
مَثَلَهُ و مَثَّلَه و مَاثَلَهُ بشيْئٍ: مشابہ بنانا، تشبیہ دینا۔
مَثَلَ و مَثَّلَ بِـه: صورت بگاڑنا، ناک کان وغیرہ کاٹنا۔
مَثَلَ و مَثَّلَ التِمْثَالَ: مجسمہ بنانا۔
تَمَثَّلَ به: مشابہ ہونا۔
تَمَثَّلَ الشيْئَ: کسی چیز کا تصور کرنا۔
تَـمَثَّلَ لَه الشيْئُ: کسی چیز کا سامنے آنا، تصور میں آنا۔
تَمَثَّلَ بِالشَيْ: کسی چیز کو مثال میں پیش کرنا، مثال میں بیان کرنا۔
مَثَّلَ لَـهُ: کسی چیز کا نقشہ کھینچنا، نقل اتارنا (۲) مثال دینا (۳) ضرب المثل بیان کرنا (۴) نمائندگی کرنا۔
مَثَّلَ رِوَايَةً: ایکٹنگ کرنا، کسی کہانی کو عملی شکل دینا۔
مَثَّلَ دَوْراً: کردار ادا کرنا، پارٹ ادا کرنا۔
مَثَّلَ تحوُّلاً هَامًا فِي تَارِيْخ كذا: اس نے تاریخ کے اہم موڑ کی ترجمانی کی۔
اِمْتَثَلَ: مطیع وفرمانبردار ہونا (۲) تعمیلِ حکم کرنا (۳) منظور کرنا۔
اِمْتَثَلَ الطَّـرِيْقَةَ: کسی طریقہ کا اتباع کرنا۔
مِثْلَ: نظیر، مانند۔
بِالمِثْلِ: ایسے ہی، اسی طرح۔
مِثْلَمَا: جیسا کہ۔
مَثَلٌ: (۱) عبرت (۲) ضرب المثل (۳) مشہور قول (۴) تشبیہ ج: اَمْثَال۔
مَثَلٌ اَعْـلَـى: اعلیٰ معیار، اعلیٰ نمونہ، شاندار روایت۔
مَثَلٌ يُحْتَذَى: ماڈل، نمونہ، قابلِ تقلید نمونہ۔
مَثَلٌ بَسِيْط: معمولی مثال۔
مُثُلٌ تَارِيْخِيَّة: تاریخی روایات و: مِثَال۔
مُثُلٌ دِيْمُقْرَاطِيَّة: جمہوری اقدار۔
المُثُلُ الرَّفِيْعَة: اعلیٰ اقدار۔
المُثُلُ العُلْيَا: شاندار روایات، اعلیٰ اقدار۔
الطَّرِيْقَةُ المَثْلَى: مثالی راستہ۔
مِثَـال: عبرت (۲) نمونہ، ماڈل، سیمپل (۳) مقدار ج: أَمْثِلَة۔
مَثَّال: مجسمہ ساز۔
مِثَالِيَّة: مثالیت۔
مَاثِلَة: جھاڑ فانوس۔
مَثِيْل: مشابہ (۲) نظیر، مثال (۳) باکمال۔
مَثِيْلٌ لكذا: اسی جیسا۔

لَیسَ لَهُ مَثِیلٌ: بے نظیر۔

اَمْثَــلُ: افضل، نمایاں ترین، انتہائی بہتر ج: أَمَاثِل۔

اُمْثُــولَة: مثال، نمونہ (۲) سبق ج: أَمَاثِلُ۔

تِمْثَال: مجسمہ ج: تَمَاثِیل۔

تِمْثَالٌ یُعْبَدُ: بت۔

تِمْثَالٌ مَنْحُوت: پتھر کا تراشا ہوا مجسمہ۔

تَــمْثِیــل: تشبیہ (۲) اداکاری، ایکٹنگ (۳) نمائندگی، ترجمانی۔

تَمْثِیلُ الحَقِیقَة: واقعہ کی تصویر۔

التَّـمْثِیـلُ الـدِّبْـلُـومَـاسِـیّ: سفارتی نمائندگی۔

تَمْثِیلٌ سِینَمَائِی: فلمی اداکاری۔

تَمْثِیلُ العَالَم: دنیا کی نمائندگی۔

تَمْثِیلٌ مُتَکَافِئٌ: مساوی نمائندگی۔

تَــمْثِیــلٌ مَسْــرَحِــیّ: ڈرامہ، ڈرامہ اداکاری۔

دَارُ التَّمْثِیل: سینما گھر، تھیٹر۔

تَمْثِیلِیَّة: ڈراما۔

تَمْثِیلِیّ: ڈرامائی۔

مُمَثِّل: کمشنر، نمائندہ، ایجنٹ، آرٹسٹ۔

المُمَثِّلُ الدَّائِم لَدَى المُنَظَّمَة: ادارہ میں مستقل نمائندہ۔

مُمَثِّلُ الرِّوَایَات: ایکٹر۔

مُمَثِّل سِینَمَائِیّ: اداکار، ہیرو۔

الــمُــمَثِّلُ الشَّــخْصِــیّ: ذاتی نمائندہ، پرائیویٹ نمائندہ۔

مُــمَثِّلٌ شَــرْعِــیّ: باضابطہ نمائندہ، جائز نمائندہ۔

مُمَثِّلٌ صَحَفِیّ: صحافتی نمائندہ۔

مُــمَثِّلٌ عَامّ: نمائندہ عمومی، عمومی نمائندہ، جنرل ایجنٹ۔

مُمَثِّلٌ عَلْمَانِی: سیکولر نمائندہ۔

المُمَثِّلُ لِلآمال: ترجمان۔

مُــمَثِّــلٌ مُفَوَّض: ایمبیسیڈر، بااختیار نمائندہ۔

مُمَثِّلٌ وَحِید: واحد نمائندہ۔

مُمَثِّلَة: ایکٹرس، ہیروئن۔

مُمَثِّلُو الجَرِیدَة: اخباری نمائندہ۔

م ج

مجاج. [illegible]

مُجاج النحل. شہد۔

مُجَاجُ العِنَب: شراب۔

مُجَاجُ المُزْن: بارش۔

مُجَاجَة: نچوڑ۔

مَجُدَ ـُ مَجَادَةً و مَجَدَ ـُ مَجْداً: صاحب عظمت ہونا۔

مَجَّدَ: تعظیم کرنا (۲) تعریف کرنا۔

تَمَجَّدَ: بزرگ بننا، بڑا بننا۔

مَجْد: عزت، عظمت، بزرگی ج: اَمْجَاد۔

مَجْدِیّ: عظمت سے متعلق۔

مَجِید: صاحب عظمت، باعزت۔

اَمْجَد: تعظیم ترین، مقدس ترین۔

مَجُوس: آتش پرست

مَجُوسِیّ مَجُوسِیَّة: آتش پرست۔

مَجَلَّة: رسالہ، میگزین (دیکھئے: جلل)۔

مَجَنَ ـُ مُجُوناً و تَمَجَّنَ: بے حیا ہونا، شوخ

ہونا (۲) مذاق کرنا (۳) سخت ہونا۔
مُجُون: شوخی، مذاق، گستاخی۔
مَجَّان، مَاجِن: شوخ، بے حیا، گستاخ۔
مَجَّانٌ، مَجَّانِيٌّ: مفت، بلاقیمت۔
مَجَّاناً: مفت۔

م.............ح

مَحَصَ ــَ مَحْصاً و مَحَّصَ: صاف کرنا، منقح کرنا (۲) جانچ پڑتال کرنا۔
اَمْحَصَ، تَمَحَّصَ: ظاہر ہونا، تاریکی دور ہونا۔
تَمَحَّصَ، اِنْمَحَصَ: صاف و منقح ہونا۔
مَحُضَ ــُ مُحُوضَةً: خالص ہونا۔
مَحَضَ ــَ مَحْضاً و اَمْحَضَ فُلَاناً النُّصْحَ أو الوُدَّ: خالص دوستی کرنا۔
مَحْضٌ: خالص، پیور (۲) صریح (۳) محض، صرف۔
مَحْضُ الوُدِّ: خالص دوستی۔
بِمَحْضِ اخْتِيَارِهٖ: پوری رضامندی سے۔
مَحَقَ ــَ مَحْقاً: ہلاک کرنا، زائل کرنا (۲) مٹانا (۳) باطل کرنا (۴) کسی چیز کی برکت ختم کرنا۔
اَمْحَقَ: مال تباہ ہونا (۲) چاند کا آخری تاریخوں میں ہونا (۳) بے نور ہونا۔
مَحَكَ ــَ مَحْكاً: گفتگو میں جھگڑنا۔
مَاحَكَهٗ: دشمنی کرنا، مخاصمت کرنا۔
مَحِلَ ــَ مَحْلاً و مَحَالَةً: قحط زدہ ہونا۔
مَحِلَ بِهٖ: شکایت کرنا (۲) سازش کرنا۔
اَمْحَلَ الْمَطَرُ: بارش نہ ہونا۔

مَحْلٌ: خشک سالی (۲) سخت بھوک (۳) چال، دھوکہ۔
مَحَال: چرخی جس پر رسی ڈال کر کھینچی جائے۔
لَا مَحَالَةَ: یقیناً۔
مَحَنَ ــَ مَحْناً و امْتَحَنَ: جانچنا، امتحان لینا، آزمانا، پرکھنا (۲) مصیبت میں ڈالنا۔
مِحْنَة: آزمائش، سختی، تجربہ ج: مِحَن۔
مِحْنَةٌ عَارِضَةٌ: ہنگامی مشقت۔
اِمْتِحَان: جانچ، ٹسٹ۔
اِمْتِحَانُ مُسَابَقَةٍ: مقابلہ کا امتحان۔
اِمْتِحَانٌ مُلْحَق: سپلیمنٹری امتحان، ضمنی امتحان۔
الاِمْتِحَانُ النِّهَائِيُّ: فائنل امتحان، سالانہ امتحان۔
مَحَا ــُ مَحْواً: مٹانا، اثر زائل کرنا۔
مَحَا، اِمَّحَى، اِمْتَحَى، تَمَحَّى: مٹنا۔
لَا يُمْحَى: انمٹ، پختہ۔
مِمْحَاة، مَحَّايَة: ربڑ۔

م.............خ

مَخَخَ و امْتَخَ العَظْمَ: گودا نکالنا، بھیجہ نکالنا۔
مُخُّ العَظْمِ: ہڈی کا گودا (۲) ہر چیز کا خالص حصہ، جوہر (۳) دماغ (۴) دماغ کا اگلا حصہ ج: مِخَاخ۔
مَخِيخ: گودے دار۔
مَخَرَ ــُ مَخْراً و مُخُوراً: کشتی کا پانی کو چیرنا (۲) چیرنا۔
مَاخِرَة: کشتی ج: مَوَاخِرُ۔

مَخَضَ اللَّبَنَ ـُ مَخضاً: دودھ بلونا، مکھن نکالنا۔
مَخَضَ الشئَ: زور سے ہلانا۔
مَخَضَ الرَّأیَ: رائے کے ہر پہلو پر غور کرنا۔
مَخِضَتْ و تَمَخَّضَتِ الحَامِلُ: حاملہ عورت کا دردِ زہ میں مبتلا ہونا۔
اِمتَخَضَ و تَمَخَّضَ اللَّبَنُ: دودھ کا بے مکھن ہونا۔
تَمَخَّضَ عَنهُ الشئُ: نتیجہ برآمد ہونا۔
تَمَخَّضَ الشئُ عَنِ النَّتائج: کسی چیز کے نتائج نکلنا۔
مَخَاض: دردِ زہ۔
مَاخِض: دردِ زہ میں مبتلا۔
مَخِیض: مکھن نکلا ہوا دودھ۔
مِمْخَضُ اللَّبَن: مکھن نکالنے کی مشین، دودھ بلونے کی مشین یا برتن۔
مَخَطَ ـُ مَخطاً و تَمَخَّطَ: ناک کی ریزش نکالنا، ناک صاف کرنا۔
مَخَّطَ الوَلَدَ: بچہ کی ناک صاف کرنا۔
مُخَاط: ناک کی ریزش، رینٹ۔

م..........د

مَدَحَ ـَ مَدحاً: تعریف کرنا۔
تَمَدَّحَ: فخر کرنا۔
مَدْحٌ: تعریف، ثناخوانی۔
مَدْحُ الذَّات: خودستائی۔
مَدِیح: تعریف (۲) نعت ج: مَدَائح۔
مَدَّدَ و مَدَّ ـُ مَدّاً: دراز کرنا، بڑھانا، پھیلانا، اضافہ کرنا، توسیع کرنا۔
مَدَّدَ الخُطُوطَ الکَهرَبائیَّة: بجلی لائن بچھانا۔
مَدَّدَ الفَترَةَ: مدت بڑھانا۔
مَدَّتِ الدُّنیَا لَه ذِرَاعَیهَا: دنیا اس کے قدموں میں گر پڑی۔
اَمَدَّهُ بکَذَا: مدد دینا، سپلائی کرنا۔
مَدَّهُ و اَمَدَّهُ: مہلت دینا۔
مَدَّ و أَمَدَّ الجُندَ: فوج کو کمک پہنچانا۔
مَدَّ یَدَ المُسَاعَدَةِ إلی: دستِ تعاون دراز کرنا۔
مَدَّ أجَلَ شئٍ: مدت میں توسیع کرنا۔
مَدَّ أحَداً بالسِّلاح: ہتھیار سپلائی کرنا۔
مَدَّ التَّأثِیرَ: اثر ورسوخ بڑھانا۔
مَدَّ بَصَرَهُ إلی: نگاہ دوڑانا۔
مَدَّ الأرضَ: زمین میں کھاد ڈالنا۔
مَدَّ القَلَمَ: قلم کو روشنائی لگانا، روشنائی میں ڈالنا، ڈبونا۔
مَدَّ بَقَاءَ القُوَّات: فوجوں کے قیام کی مدت میں اضافہ کرنا۔
مَدَّ السَّیطَرَةَ إلی: کنٹرول بڑھانا۔
مَدَّ العَمَلَ بالاِتِّفَاقِیَّة: معاہدہ کو طول دینا، معاہدہ پر عمل میں توسیع کرنا۔
مَدَّ الفَترَةَ: مدت میں توسیع کرنا۔
مَدَّ خَطّاً حَدِیدِیّاً: ریلوے لائن بنانا۔
مَادَّهُ مُمَادَّةً: ٹالا ٹالی (۲) ٹال مٹول کرنا۔
اِمتَدَّ، تَمَدَّدَ: پھیلنا۔
اِمتَدَّ إلی: پہنچنا، دراز ہونا۔
تَمَدَّدَ: بڑھنا، پھیلنا (ضد تقَاصَ) (۲) انگڑائی لینا (۳) لیٹنا۔
اِستَمَدَّ مِن: مدد لینا، حاصل کرنا۔

اِستمدَّ فُلاناً: کسی سے مدد طلب کرنا۔
المَدُّ الإسلامِيّ: اسلامی ترقی، پھیلاؤ۔
مَدَد: کمک اعانت۔
مُدَّة: عرصہ، مدت، ٹائم، پیریڈ۔
مُدَّةُ الإخطار: نوٹس کی مدت۔
مُدَّةُ انعِقادِ المَجلِس: سیزن۔
مُدَّةُ الصَّلاحِيَّة: مدتِ استعمال، مدتِ نفاذ۔
مُدَّةُ الكَمبِيالَة: ڈرافٹ کی مدت۔
مُدَّةُ المُحَاسَبَة: حسابی مدت۔
مُدَّةُ المِيزَانِيَّة: بجٹ کی مدت۔
مِدَّة: پیپ۔
مِدَاد: روشنائی (۲) کھاد (۳) طرز۔
مَدَّاد: مَادٌّ: نباتات کی بیل۔
المَدَّاد: فاؤنٹن پین۔
مَدِيد: دراز۔
مَادَّة: اجزائے ترکیبی، میٹریل (۲) عنصر، ایٹم (۳) قانون کی دفعہ (آرٹیکل) (۴) شرط (۵) مضمون کا مواد، میٹر (۶) بل وغیرہ کی تفصیل ج: مَوَادُّ۔
مَادَّةٌ صَاقِلَة: پالش۔
مَادَّةٌ غِذَائِيَّة: فوڈ۔
مَادَّةُ القَانُون: آرٹیکل، قانون کی دفعہ۔
مَادَّةٌ كِيمِيَائِيَّة (كِيمَاوِيَّة): کیمیکل، کیمیائی اجزا۔
مَادَّةٌ مُلَمِّعَة: پالش۔
المَوَادُّ الأسَاسِيَّة: بنیادی اشیاءِ ضرورت۔
المَوادُّ الاستِهلاكِيَّة: اشیاءِ صرف۔
المَوادُّ الأوَّلِيَّة: ابتدائی سامان، بنیادی میٹریل، خام مال۔
مَوَادُّ البِنَاء: بلڈنگ میٹریل۔
المَوادُّ التَّموِينِيَّة: سامانِ رسد، غذائی اشیاء۔
مَوادُّ الصَّحِيفَة: اخبار کا میٹر، مواد، مضامین۔
المَوادُّ الغِذَائِيَّة: اشیاءِ خوردنی۔
مَوادُّ فَرعِيَّة: جزوی میٹریل، چھوٹا میٹریل۔
مَوادُّ قَابِلَةٌ للفَرقَعَة: دھماکہ خیز اشیاء۔
مَوادُّ مُتَفَجِّرَة: دھماکہ خیز اشیاء۔
المَوادُّ المَضبُوطَة: منضبط اشیاء۔
مَوادُّ مَمنُوعَة: ممنوعہ اشیاء۔
المَوادُّ الخَام: خام اشیاء جن سے ابھی کچھ تیار نہ کیا گیا ہو۔
مَوادُّ الاِتِّفَاق: مضمونِ معاہدہ۔
مَادِّيّ: ضد مَعنَوِيّ (۲) دنیوی (۳) وہ شخص جو صرف مادہ کو کائنات میں متصرف سمجھ کر خدا کا منکر ہو۔
مَادِّيّاً: مادی طور پر۔
مَادِّيّاً و مَعنَوِيّاً: مادی اور اخلاقی طور پر۔
اِمدَادَات: سپلائی۔
اِمتِدَاد: اضافہ، تسلسل، ترقی، پھیلاؤ، سلسلہ۔
تَمدِيد: توسیع، توسیعِ مُدت۔
مُمتَدّ، مَمدُود: پھیلا ہوا، دراز، کشادہ۔
مَدَر: ڈھیلا، گارا جو خشک ہو گیا ہو (۲) قصبہ (۳) گاؤں و: مَدَرَة۔

مَدَّنَ: متمدن بنانا، شہری بنانا۔
تَمَدَّنَ: شہری بننا، متمدن بننا۔
مَدَنِیّ: شہری، سٹیزن، سِول (۲) شہر کا باشندہ، سویلین، غیر فوجی، غیر فوجداری۔
قَانُونٌ مَدَنِیٌّ: سول لا، قانونِ دیوانی۔
قَانُونٌ مَدَنِیٌّ مُوَحَّد: یکساں سول کوڈ۔
دَعْوَیٰ مَدَنِیَّة: مقدمۂ دیوانی۔
مَدِیْنَة: شہر، نگر ج: مُدُن۔
مَدِیْنَةُ السَّلَام: بغداد۔
مَدَنِیَّة: شہریت، تمدن۔
مَدَی: (۱) گنجائش (۲) مسافت، دوری (۳) حد، غایت، منتہا (۴) عرصہ، میعاد۔
مَدَی الاَجْیَال: صدیوں، صدیوں میں۔
المَدَی الاَقْصَی: لیمٹ، آخری حد۔
مَدَی البَصَر: حدِ نگاہ، تا نظر، منتہائے نظر۔
المَدَی البَعِیْد: طویل عرصہ۔
مَدَی التَّأْثِیْرِ عَلَی شَيْئٍ: دائرۂ اثر۔
مَدَی الحَیَاة: تا زیست، تا عمر۔
مَدَی السُّلْطَة: دائرۂ اختیار۔
مَدَی الشَّيْئِ: کسی شے کا طول وعرض۔
مَدَی العُمُر: عمر بھر، تا زیست۔
المَدَی القَصِیْر: مختصر میعاد، مختصر مدت۔
مَدَی الکَارِثَة: حادثہ کی گہرائی، حادثہ کے اثرات۔
مَدَی المِدْفَع: توپ کی مار، زد۔
بَعِیْدُ المَدَی: دوررس۔
مُدْیَة: چھری ج: مُدَیً۔
مَدْوِیّ: چھری بنانے والا۔
مَادَی، اَمْدَی: مہلت دینا۔
تَمَادَی فِی الاَمْر: کام کو طول دینا، ڈھیل دینا (۲) انتہا کو پہنچنا (۳) دور نکل جانا۔
تَمَادَی فِی شَيْئٍ: حد سے بڑھ جانا۔

م.........ذ

مَذَقَ ـُ مَذْقاً: آمیزش کرنا، ملانا۔
مَذَّاق: ملاوٹ کرنے والا۔
مَذَّاق، مُمَاذِق: منافق۔

م.........ر

مَرَأَ، مَرِئَ، مَرُؤَ الطَّعَامُ مَرَاءَةً: کھانے کا مزیدار ہونا، مرغوب وخوش مزہ ہونا۔
مَرُؤَ ـُ مُرُوْءَةً: صاحبِ مروّت ہونا۔
اِسْتَمْرَأَ الشَّيْئَ: مزہ لینا، مزیدار سمجھنا، لطف لینا۔
مَرْءٌ، اِمْرُؤٌ: انسان ج: رِجَال۔
مَرْأَة، اِمْرَأَة: عورت ج: نِسَاء۔
اِمْرَأَةٌ فِی عِصْمَةِ رَجُلٍ: شادی شدہ۔
مُرُوْءَة، مُرُوَّة: انسانیت، ایسا جوہر جس سے انسانِ کامل کی خصلتیں اُبھرتی ہیں۔
مَرِجَ ـَ مَرَجاً: خراب ہونا، درہم برہم ہونا۔
مَرَجَ الدَّابَّةَ ـُ مَرْجاً: جانور کو چرنے کے لئے چھوڑنا۔
مَرْج: چراگاہ ج: مُرُوْج۔
مَرْج، مَرَج: گڑبڑی، فساد، ہنگامہ۔
هَرْجٌ وَمَرَج: ہل چل، بگیر و بزن کا شور، دار و گیر کا غوغا۔
مَرِحَ ـَ مَرَحاً: خوشی سے پھول جانا، خوشی سے اترانا۔
مَرَح: غایت درجہ مسرت، اتراہٹ۔
مَرِح: خوش، شاداں، خوشی میں مست، مگن۔

مَرْحیٰ: واہ واہ، بہت خوب، بہت ٹھیک۔
مَرْحَبَ الرَّجُلَ: خوش آمدید کہنا۔
مَرَدَ: ٹہنی سے پتے صاف کرنا۔
مَرُدَ ـ مُرُوْدَةً و تَمَرَّدَ: نافرمان ہونا، سرکش ہونا۔
تَمَرُّد: بغاوت، حکم عدولی، سرکشی۔
تَمَرُّدٌ عَلَنِیٌّ: علانیہ بغاوت۔
مَارِد: سرکش (۲) بلند۔
مَارِد، مَرِیْد: نافرمان ج: مَرَدَة۔
اَمْرَدُ: بے ریش ج: مُرْدٌ۔
مَرَّرَ: کڑوا بنانا (۲) پاس کرنا، گزارنا۔
مَرَّ ـ مَرَارَةً: کڑوا ہونا۔
مَرَّ ـ مُرُوْراً: گزرنا (۲) جانا (۳) پار ہونا (۴) جگہ کو پاس کرنا، پھلانگنا۔
مَرَّ عَلَیْه: پاس سے ہو کر جانا۔
مَرَّ بِمَرْحَلَةٍ حَرِجَةٍ: نازک دور سے گزرنا۔
اَمَرَّهُ اِمْرَاراً: گزارنا۔
اِسْتَمَرَّ: مسلسل ہونا (۲) برقرار رہنا۔
اِسْتَمَرَّ فِی الْعَمَلِ: کام جاری رکھنا۔
اِسْتَمَرَّ فِی الْمَنْصِبِ: عہدہ پر برقرار رکھنا۔
اِسْتَمَرَّتِ الْعَمَلِیَّةُ: کارروائی جاری رہنا۔
مُرُوْر: گزر، عبور۔
الْمُرُوْرُ بِدُوْنِ اِشَارَاتٍ: بلا سگنل ٹریفک۔
مُرُوْرٌ فِی اتِّجَاهٍ وَاحِدٍ: ون وے ٹریفک۔
الْمُرُوْرُ فِی الطَّرِیْقِ: ٹرانزٹ، راہ گزر۔
مُرٌّ: کڑوا، تلخ (۲) تکلیف دہ۔
مَرَّة: ایک دفعہ ج: مَرَّات۔
بِالْمَرَّةِ: (دا) بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔
مِرَاراً: متعدد بار (۲) کبھی کبھی۔
مِرَّة، مَرَارَة: صفراء، پت۔
مَرَارَة: تلخی، کڑواہٹ۔
بِـمَرَارَةٍ: تلخی و ناگواری کے ساتھ (۲) سختی سے۔
مُرُوْر: عبور، گزر۔
تَذْكِرَةُ الْمُرُوْرِ: پاس۔
حَرَكَةُ الْمُرُوْرِ: ٹریفک۔
مَرِیْر: تلخ، کڑوا (۲) پختہ ارادہ۔
اَمَرُّ: تلخ ترین۔
الْاَمَرَّان: بڑھاپا اور افلاس۔
اِسْتِمْرَار: دوام، تسلسل، برقراری۔
بِاسْتِمْرَارٍ: مسلسل، برابر۔
مَمَرّ: گزرگاہ ج: مَمَرَّات۔
مَمَرٌّ اِلَی الْبَحْرِ: سمندر کو جانے والا راستہ۔
مَمَرُّ الْمُشَاةِ: فٹ پاتھ۔
مَمَرَّاتٌ مَائِیَّةٌ: آبی شاہراہیں۔
مَرَسَ ـ مَرْساً: پانی میں بھگونا، پانی میں حل کرنے کے لئے بھگونا۔
مَرَسَ یَدَهُ بِالْمِنْدِیْلِ: رومال سے ہاتھ پونچھنا۔
مَارَسَ الْعَمَلَ او الْاَمْرَ: مسلسل کرنا، پریکٹس کرنا، کوئی کام بطور پیشہ کرنا۔
مَارَسَ الْاِرْهَابَ: دہشت پسندی اختیار کرنا۔
مَارَسَ الْاَعْمَالَ الْاِجْرَامِیَّةَ: مجرمانہ حرکتیں کرنا۔
مَارَسَ التَّاْثِیْرَ عَلٰی كَذَا: کسی چیز پر اثر ڈالنا۔
مَارَسَ الْحَقَّ: حق کا استعمال کرنا۔

مَارَسَ دَوْرًا: کردارادا کرنا، پارٹ ادا کرنا۔
مَارَسَ السُّلْطَةَ: اختیار کا استعمال کرنا، برسرِ اقتدار ہونا۔
مَارَسَ السِّيَاسَةَ: پالیسی بنانا، پالیسی پر چلنا۔
مَارَسَ الصَّلَاحِيَّاتِ لكذا: اختیارات سے کام لینا۔
مَارَسَ الضَّغْطَ علی: دباؤ ڈالنا۔
مَارَسَ العَمَلِيَّاتِ: کارروائیاں کرنا۔
مَارَسَ لُعْبَةً: کوئی کھیل کرنا۔
مَارَسَ المُحَامَاةَ: وکالت کرنا۔
مَارَسَ المَسْئُولِيَّةَ: ذمہ داری لینا۔
مَارَسَ الوَسَاطَةَ: ثالثی کا کام انجام دینا۔
تَمَارَسُوا: باہمی متصادم ہونا۔
تَمَرَّسَ بالشئ: ٹکرانا، رگڑ لگنا (۲) مشاق ہونا، ماہر ہونا۔
مَرِسٌ: کارآزمودہ، تجربہ کار، مشاق۔
مِرَاس، مَرَاسَة: طاقت، سختی۔
سَهْلُ المِرَاسِ: نرم مزاج۔
صَعْبُ المِرَاسِ: سخت مزاج۔
مَارَسَ: مارچ۔
مَارِسْتَان: (دا) ہسپتال۔
مُمَارَسَة: مشق، مزاولت، پریکٹس، عملی سابقہ، واسطہ، کوشش، تحریک، ایکسرسائز، انجام۔
مُمَارَسَات: سرگرمیاں، کاوشیں و: مُمَارَسَة۔
مُمَارَسَاتٌ نَاشِئَةٌ: ابتدائی سرگرمیاں۔
مَرِضَ ـَـ مَرَضًا: بیمار ہونا۔
مَرَّضَ المَرِيضَ: تیمارداری کرنا۔

مَرَّضَ و أَمْرَضَ: بیمار بنانا۔
مَرَضٌ: بیماری ج: أَمْرَاض۔
مَرَضٌ بَسِيطٌ: ناسازیِ طبع۔
مَرَضُ السُّكَّرِ: شکر کی بیماری، ذیابیطس۔
مَرَضُ القَلْبِ: دل کی بیماری۔
مَرَضٌ مُعْدٍ: متعدی بیماری۔
إِجَازَةٌ مَرَضِيَّةٌ: رخصتِ بیماری۔
أَمْرَاضُ سِمَنٍ: موٹاپے کی بیماریاں۔
أَمْرَاضٌ مُسْتَعْصِيَةٌ: ناقابلِ علاج بیماریاں، خطرناک امراض۔
أَمْرَاضٌ مُعْضِلَةٌ: پیچیدہ امراض۔
مَرِيضُ الصَّرْعِ: مرگی کا مریض۔
تَمْرِيض: نرسنگ، تیمارداری۔
مُمَرِّض: تیماردار۔
مُمَرِّضَة: نرس (۲) نرس ج: مُمَرِّضَات۔
مَرَطَ ـُـ مَرْطًا: بال چونٹنا۔
تَمَرَّطَ الشَّعْرُ: بال اکھڑنا۔
مَرِيط، أَمْرَط: بے بال و پر ج: مِرَاط و مُرْط۔
مَرَغَ بالدُّهْنِ ـَـ مَرْغًا: تیل ملنا۔
مَرِيع: شاداب، زرخیز۔
مَرَّغَ الشئَ فِي التُّرَابِ: مٹی میں لت پت کرنا۔
مَرَّغَ رَأْسَه: سر میں خوب تیل مارنا، تربتر کرنا۔
مَرَّغَ و أَمْرَغَ عِرْضَه: آبرو کو بٹہ لگانا۔
تَمَرَّغَ فِي التُّرَابِ: مٹی میں لوٹنا۔
تَمَرَّغَ فِي الأَمْرِ: متردد ہونا۔
مَرَقَ مِنه ـُـ مُرُوقًا: گزرنا، آرپار ہونا، تیزی سے نکلنا۔

مَرَقَ مِنَ الدِّيْنِ: دین سے الگ ہونا۔
مَرَق: شوربا، سوپ۔
مَارِقٌ عَنِ الدِّيْنِ: مرتد، بے دین، گمراہ، ملحد۔
مُرُوْق: بے دینی (۲) گمراہی۔
مَرْمَر: پتھر کی ایک قسم، سنگِ مرمر۔
مَرَنَ ـُـ مُرُوْنَة: ملائم ونرم ہونا، لچکدار ہونا۔
مَرَنَ عَلَى الشَّيْءِ: عادی ہونا، مشاق ہونا۔
مَرَّنَ عَلَى: مشق کرانا (۲) ٹریننگ دینا (۳) عادی بنانا۔
تَمَرَّنَ عَلَى: مشق کرنا (۲) عادی ہونا۔
مَرِن: نرم، لچکدار۔
مِرَان، تَمْرِيْن: مشق، تمرین، ریہرسل، ایکسرسائز۔
مِرَانٌ جَسَدِيّ: ورزش۔
فِي مِرَانٍ، تَحْتَ مِرَانٍ: زیر مشق و ٹریننگ۔
مُمَرَّن، مُتَمَرِّن: مشق کیا ہوا، ٹریننگ یافتہ، ٹرینڈ۔
مَارَاهُ مُمَارَاةً: جھگڑنا۔
اِمْتَرَى فِي الأَمْر: شک کرنا۔
مِرْيَة: شک۔
مِرْيَه، مِرَاء: جھگڑا۔

م.........ز

مَزَجَ ـُـ مَزْجاً: ملانا، مکس کرنا، ملاوٹ کرنا۔
اِمْتَزَجَ بِہ: ملنا، گڈمڈ ہونا، مکس ہونا۔
مِزَاج: اُفتادِ طبع، مزاج، موڈ ج: اَمْزِجَة۔
مَزِيْج: ملی ہوئی چیز (۲) مرکب، مکسچر، مخلوطہ۔
مَزَحَ ـَـ مَزْحاً: مذاق کرنا۔
مَزَّاح: جوکر۔

مَزَقَ ـِـ مَزْقاً: پھاڑنا، چیرنا، پارہ پارہ کرنا۔
مَزَّقَ: چیرنا، پھاڑنا، تباہ کرنا، دھجیاں اڑانا۔
مَزَّقَ الشَّمْلَ: شیرازہ بکھیرنا، منتشر کرنا۔
مَزَّقَ عِرْضَهُمْ: آبروریزی کرنا۔
مَزَّقَ الأَوْصَالَ: ٹکڑے ٹکڑے کرنا، پرخچے اڑانا۔
مَزَّقَ التَّضَامُنَ: اتحاد کی دھجیاں اُڑانا۔
تَمَزَّقَ: پھٹنا، پارہ پارہ ہونا، پھوٹ پڑنا۔
يُمَزِّقُ القَلْبَ: دل شکن۔
مُزْن: بادل (پانی سے لبریز) و: مُزْنَة۔
حَبُّ المُزْنَة: اولا۔

م.........س

مَسَحَ ـَـ مَسْحاً: پونچھنا، مٹانا (۲) جوتا صاف کرنا۔
مَسَحَ الخَشَبَ: لکڑی پر رندہ کرنا۔
مَسَحَ بِالزَّيْتِ أَوِ الدُّهْنِ: تیل یا روغن ملنا۔
مَسَحَ الدُّمُوْعَ: آنسو پونچھنا۔
مَسَحَ الأَرَاضِيَ: زمینوں کا سروے کرنا۔
تَمَسَّحَ بِالمَاءِ: غسل کرنا۔
مَسَخَ: ثاث ج: مُسُوْح۔
مَسْح و مِسَاحَةُ الأَرَاضِي: زمین کا سروے، پیمائش، رقبہ۔
المَسْحُ المَيْدَانِيّ: فیلڈ سروے۔
مِسَاحَةُ الأَرْض: (۲) رقبہ۔
مِسَاحَةُ البَيْتِ ۴۰۰ مِتْر، مُرَبَّع: گھر کا رقبہ چار سو میٹر مربع ہے۔
مَصْلَحَةُ المِسَاحَة: سروے کا محکمہ۔
مَسَّاحُ الأَرَاضِي: زمین کا سروے کرنے والا۔

مَسَّاحُ الأَحذِیَة: پالش کرنے والا۔
مَسَّاحَة: (دا) مٹانے کا ربڑ۔
مَسِیحِیّ: کرسچن، عیسائی۔
تِمسَاح: مگرمچھ ج: تَمَاسِیحُ۔
مِمسَحَةُ الأَرض: پیمائش کا فیتہ، سروے کرنے کا آلہ (۲) صاف کرنے کا کپڑا، جھاڑو۔
مِمسَحَةُ الأَرجُل: پائدان۔
مَسَخَ ـَــ مَسْخاً: صورت بدلنا، شکل بگاڑنا (۲) کھانے کو بدمزہ بنانا۔
مَسِیخ، مَاسِخ: (دا) بے مزہ۔
مَاسُورَة: نلکی، پائپ ج: مَوَاسِیر۔
مَاسُورَةُ البُخَار: اسٹیم پائپ۔
مَوَاسِیرُ فَخَّار: مٹی کے پائپ۔
مَوَاسِیرُ مِیَاهِ ضَغطٍ عالٍ: ہائی پریشر واٹر پائپ۔
مَسَّ ـُــ مَسّاً و مِسَاساً: ہاتھ لگانا، چھونا (۲) لگنا، لاحق ہونا (۳) متعلق ہونا۔
مَسَّ کَرَامَتَه و بِکَرَامَتِه: عزت کو ٹھیس پہنچانا۔
مَسَّ الشیْ شَرَفَه: عزت پر آنچ آنا۔
مَسَّ السِّیَاسَةَ: پالیسی پر آنچ آنا۔
مَسَّهُ بأذیً: تکلیف پہنچانا۔
مَسَّهُ المَرَضُ: بیماری لگنا۔
مَسَّهُ الکِبَرُ: بڑھاپا آجانا۔
مَسّ، مَسٌّ مِنْ جُنُون: جنون، دیوانگی، دماغ کی خرابی، دماغ میں کریک۔
مِسَاس: تعلق، اثر، جیسے (لَـهُ مِسَاسٌ بکذا)۔

مِسَاسٌ بِعِرضٍ: آبروریزی۔
مِسَاسٌ بکذا: ٹھیس، آنچ۔
مَمسُوس: دیوانہ (۲) محسوس۔
مَسَّکَ تَمسِیکاً: خوشبو لگانا (۲) پکڑوانا، تھمانا۔
مَسَکَ ـُــ مَسْکاً و اَمسَکَ الشیْ و بِـه: پکڑنا، گرفت میں لینا (۲) کھینچ کرنا، دبوچنا، تھامنا۔
مَسَکَ ـُــ لِسَانَه: خاموش ہونا۔
مَسَکَ البَطنَ: قبض کرنا۔
مَسَکَ، تَمَسَّکَ و استَمسَکَ بِه: مضبوطی سے پکڑنا، تھامنا، چمٹنا (۲) محفوظ کرنا۔
مَسَکَ الحِسَابَ: حساب منضبط کرنا۔
اَمسَکَ و استَمسَکَ عَنْ: رکنا۔
اَمسَکَ الشیْ عَلَی نَفسِه: اپنے پاس رکھنا، بدستور قابض رہنا، ہاتھ سے نہ جانے دینا، محفوظ رکھنا۔
اَمسَکَ بالجُنَاة: مجرموں کو پکڑنا، گرفت میں لینا۔
اَمسَکَ الأَعصَابَ: قابو پانا۔
اَمسَکَ الدَّفَاتِرَ: رجسٹروں کو درست کرنا۔
تَمَسَّکَ بالرَّأی: رائے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا۔
تَمَسَّکَ بالسُّلطَة: اقتدار سنبھالنا۔
تَمَسَّکَ بالمَوقِف: پالیسی پر قائم رہنا۔
تَمَسَّکَ بِمَوقِفٍ عَنِیدٍ: معاندانہ

روش اختیار کرنا۔
تَمَسَّکَ بِوُجھَةِ نَظَرٍ: نقطۂ نظر اختیار کرنا۔
تَمَاسَکَ: خود پر قابو پانا۔
تَمَاسَکَ به: پکڑنا، تھامنا۔
اِستَمسَکَ بَولُه: پیشاب رُکنا۔
مُسک: خوراک، غذا۔
مَسکُ الدَّفَاتِرِ التِجَارِيَة: بک کیپنگ۔
مِسک: خوشبو، مُشک۔
مَسکَة: ہینڈل۔
مَسِیک: بخیل۔
مَاسِکُ الدَّفَاتِرِ: بک کیپر۔
مَاسِکُ الوَرَقَةِ فی الآلَةِ الکَاتِبَة: پیپر گریپ۔
إِمسَاک: قبض (۲) بخل۔
إِمسَاکُ الدَّفَاتِرِ: بک کیپنگ۔
تَمَاسُک: اتحاد، ارتباط، یکجہتی، گٹھاؤ، باہمی ربط، باہمی جوڑ، جماؤ۔
تَمَاسُکُ الأعْصَاب: اعصاب پر کنٹرول۔
التَّمَاسُکُ و التَرَابُط: اتفاق واتحاد۔
التَّمَاسُک و التَّکَاتُف: باہمی ربط و ضبط۔
تَمَاسُکُ التَّنظِیم: تنظیم کی مضبوطی۔
مِمسَک: ہینڈل۔
مُتَمَاسِک: گٹھا ہوا۔
مُسکُوبِيّ: (مع) روسی۔
رِیَالٌ مُسکُوبِيّ: روبل، ایک سکہ۔
اَمسَی: ہو گیا (۲) خلاف اَصبَحَ۔

مَسَاء: شام ج: أَمسِيَة۔
مَسَاء الخَیر: گڈ ایوننگ۔
اُمسِيَّة: شب، شام۔
إُمسِيَّةٌ شِعرِيَّة: بزمِ شعر (شبینہ) شامِ سخن۔

م .... ش

مَشَطَ ـُـ مَشطاً و مَشَّطَ: بالوں میں کنگھی کرنا۔
امتَشَطَ و تَمَشَّطَ: بالوں کا سنورنا۔
مُشطٌ: کنگھی، کنگھا ج: اَمشَاط۔
مَاشِطَة: کنگھی کرنے والی خادمہ۔
مِشمِش: زردآلو۔
مَشُوّ: مسہل دوا۔
اَمشَاهُ الدَّوَاءُ: دوا نے دست جاری کر دیئے۔
مَشَی ـِـ مَشیاً: چلنا۔
تَمَشَّی: ٹہلنا، تفریح کے لئے چلنا۔
تَمَشَّی مَعَ: ساتھ چلنا، ساتھ دینا، جوڑ کھانا۔
لَا یَتَمَشَّی مَعَ: بے جوڑ۔
مَشَّی و أَمشَی: چلانا۔
مَشَّی الأُمُورَ: معاملات چلانا، کام چلانا۔
مَاشَاهُ مُمَاشَاةً: ساتھ دینا۔
مَاشٍ: پیدل ج: مُشَاة۔
المُشَاة: (خلاف الخَیَّالَة) پیدل دستہ۔
مَاشِیَة: چوپایہ ج: مَوَاشٍ۔
تَمَشِّیاً مَعَ: مطابق، ساتھ ساتھ، ساتھ دیتے ہوئے۔
تَمَشِّیاً مَعَ الزَّمَن: زمانہ کے ساتھ

ساتھ۔
تَمَشِّياً مَعَ الاهْدَاف: اغراض ومقاصد کی روشنی میں۔
تَمَشِّياً مَعَ السِّيَاسَةِ الحَكِيمَة: دانشمندانہ پالیسی پر چلتے ہوئے۔

م............ص

مَصَّرَ المَكانَ: آباد کرنا۔
تَمَصَّرَ الرَّجُلُ: شہر میں آباد ہونا (۲) مصری بننا۔
مِصْر: شہر، بستی، آباد جگہ (۲) ملکِ مصر۔
مِصْرُ السُّفْلَى: مصر کا سمندر سے ملتا ہوا حصہ۔
مِصْرُ العُلْيَا: بالائی مصر، مصر کا سمندر سے دور کا علاقہ، حصہ۔
مَصَّ ـُـ مَصّاً و امْتَصَّ: چوسنا، جذب کرنا۔
مَصَّ و تَمَصَّصَ: چسکی لگانا۔
اِمْتَصَّ غَضَبَ الشَّعْب: عوام کا غصہ ختم کرنا۔
مُصَاصَاتُ قَصَبِ السُّكر: کھوئی، گنّے کا رس نکلا ہوا فاضل مادہ۔
اِمْتِصَاصُ السِّلَع: سامان کی کھپت۔
مَمْصُوص: چوسا ہوا (۲) دُبلا، کمزور۔
مَصَلَ اللَّبَنُ ـُـ مَصْلاً: ٹپکنا، رسنا۔
مَصَّلَ اللَّبَنَ: پانی ٹپکانے کے لئے دودھ کو کپڑے میں لٹکانا۔

م............ض

مَضَض: درد، گھبراہٹ۔
عَلَى مَضَضٍ: ناگواری کے باوجود، اذیت کے باوجود، تکلیف کے ساتھ، ناگواری سے۔
مَضَّ ـُـ مَضّاً و اَمَضَّ: تکلیف دینا۔
مَضَغَ ـَـ مَضْغاً: چبانا۔
مُضْغَة: لقمہ (۲) گوشت کا ٹکڑا ج: مُضَغ۔
مَضْمَضَ المَاءَ فِي فَمِه: مُنھ میں پانی ڈال کر پھرانا، کلّی کرنا۔
مَضْمَضَ الثَّوْبَ: دھونا۔
مَضَى ـِـ مُضِيّاً: گزرنا (۲) وقت نکلنا (۳) ختم ہونا۔
مَضَى سَبِيلَه أو لِسَبِيلِه: مرنا۔
مَضَى قُدُماً فِي كذا: آگے بڑھنا۔
مَضَى عَلَى وَجْهِه: وہ جدھر مُنھ اٹھا چلا گیا۔
مَضَى عَلَى الأمْرِو أمْضَاهُ: مکمل کرنا۔
مَضَى عَلَى البَيْع: نافذ کرنا۔
مَضَى السَّيْفُ: تلوار کا تیز ہونا۔
مَضَى البَيَانُ يَقُولُ: بیان میں آگے چل کر کہا گیا۔
مَضَى فُلانٌ قَائِلاً: فلاں نے مزید کہا۔
مَضَى وَقْتُه: آؤٹ آف ڈیٹ۔
لَمْ يَمْضِ وَقْتٌ طَوِيْل: زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔
أمْضَى إمْضَاءً: گزارنا (۲) دستخط کرنا۔
أمْضَى السَّيْفَ: تیز کرنا، تلوار چلانا۔
أمْضَى الصَّكَّ: چک اپنے دستخط سے جاری کرنا۔
أمْضَى بالتَّوْكِيل: کسی کی طرف سے دستخط کرنا۔
أمْضَى الوَصِيَّةَ: وصیت پوری کرنا۔
مُضِيّ: رفت، اختتام۔

مَضَاء: تیزی۔
مَاضٍ: گزشتہ (۲) تیز (۳) جانے والا۔
اِمْضَاء: تکمیل۔
اِمُضَاء، اِمُضَاءَ ة: دستخط۔
اِمُضَاءَ اتٌ مُصَدَّقٌ عَلَيْهَا: تصدیق شدہ دستخط۔
مُمُضٍ: دستخط کنندہ۔

م .... ط

مَطَرَتِ السَّمَاءُ ـُـ مَطَراً و اَمُطَرَتْ: آسمان سے پانی برسنا، بارش ہونا۔
أَمُطَرَ وَابِلاً مِنَ الرَّصَاصِ علی: گولیوں کی بوچھار کرنا، گولیاں برسانا۔
أَمُطَرَ وَابِلاً مِنَ القَنَابِلِ علی: بم برسانا۔
اِسْتَمْطَرَ اللّٰهَ: بارش کی دعا کرنا۔
مَطَر: بارش ج: اَمُطَار۔
مَطَرٌ خَفِيف: (رَذَاذ) پھوار۔
مَطَرٌ غَزِيرٌ أو مِدْرَار: موسلا دھار بارش۔
مَطْرَة: بوند، ایک قطرہ (۲) بوچھار، چھینٹا۔
مَطَرِيَّة: چھتری۔
مِمْطَرَة: برساتی، واٹر پروف۔
مِطْرَان: اسقفِ اعظم، بڑا پادری جو اسقف سے بڑا اور بطریک سے نیچے ہوتا ہے ج: مَطَارِنَة۔
مَطَّطَ: ربڑ کی طرح کھینچنا (۲) گالی دینا۔
تَمَطَّطَ: ربڑ کی طرح کھینچنا، دراز ہونا، کھینچ کر پھیلنا۔
مَطَّاط: ربڑ کی طرح کھنچنے والا (۲) ربڑ۔
مَطَّاطٌ اِسْفَنْجِيّ: فوم، اسپنج کا ربڑ۔

مَطَلَ الحَبْلَ ـُـ مَطْلاً: رسّی کو پھیلانا، تاننا۔
مَطَلَ الحَدِيْدَ: لوہے کو چھیت کر پھیلانا، لوہا ڈھالنا۔
مَطَلَ و مَاطَلَ: ٹلانا، کسی کا حق دینے میں ٹال مٹول کرنا۔
مَطْوَة: ایک گھنٹہ۔
مُطْوَة، مِطْوَاة: چھری، چاقو۔
مَطِيَّة: سواری ج: مَطَايَا۔
اِمْتَطَى و أَمْطَى الدَّابَّةَ: سواری کرنا۔
تَمَطَّى: انگڑائی لینا (۲) اکڑ کر چلنا۔

م .... ع

مَعَ: ساتھ۔
مَعَ أَنَّ: حالانکہ، باوجودیکہ۔
مَعَ ذٰلِكَ: اس کے باوجود۔
مَعَ بَعْضِهِمُ البَعْض: آپس میں، ایک دوسرے سے۔
مَعَجَ البَحْرُ ـَـ مَعْجاً: موجیں مارنا۔
تَمَعَّجَ الثُّعْبَانُ: سانپ کا بل کھانا۔
تَمَعَّجَ السَّيْلُ: سیلاب کا بل کھاتے ہوئے گزرنا۔
مَعِدِيّ: معدہ سے متعلق۔
مُعِدَ الرَّجُلُ: دردِ معدہ میں مبتلا ہونا۔
اِلْتِهَابُ المَعِدَة: ورمِ معدہ۔
مَمْعُود: مریضِ معدہ۔
مَعْز: بکری (اسمِ جنس) و: مَاعِز (نر اور مادہ دونوں کے لئے)۔
مَعَّاز: بکریاں چرانے والا۔
مَعِضَ ـَـ مَعَضاً و امْتَعَضَ مِنَ الأَمْرِ: برا ماننا، کشیدہ خاطر ہونا، ناگوار ہوا۔

اِمْتِعَاض: ناگواری، کشیدہ خاطری۔
مُمْتَعِض: ناخوش، نالاں۔
مَعَطَ ــ مَعْطاً: چونٹنا۔
مَعَکَ ــ مَعْکاً: ملنا، رگڑنا۔
مَعْمَعَة: آگ لگنے کی آواز (۲) لڑائی کی شدت۔
مَعَامِع: لڑائیاں۔
مَعْمَعَانُ الشِّتَاء: سردی کی شدت۔
مَعْمَعَانُ الصَّیف: گرمی کی شدت۔
مَعْمَعِیّ، إِمَّعَة: ابن الوقت۔
أَمْعَنَ: گہرائی میں جانا۔
أَمْعَنَ النَّظَرَ: گھورنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، نظر جمانا۔
أَمْعَنَ النَّظَرَ في كذا: تنقیح کرنا، تلاش وتجسس کرنا، گہرائی کے ساتھ غور وفکر کرنا۔
مَعِین: رواں (۲) آبِ جاری۔
مَاعُون: برتن۔
مَاعُونُ وَرَقٍ: (رِزْمَةُ وَرَقٍ) کاغذ کارم۔
مَعَا السِّنَّورُ ــ مُعَاءً: بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔
مِعًى، مَعْیٌ، مِعَاء: آنت ج: اَمْعَاء و اَمْعِیَة۔

م.........ک

مَکْس: محصول، چنگی ج: مُکُوس۔
مَکْسٌ عَلَى السِّلَعِ المُسْتَوْرَدَة: ڈیوٹی، ٹیکس۔
دَارُ المُکُوس: چنگی چوکی، کسٹم ہاؤس۔
تَمَکَّنَ مِنْ كذا: قابو پانا، قادر ہونا۔
تَمَکَّنَ عِنْدَه: مقام حاصل کرنا۔

مَاکِینَة: مشین ج: مَاکِینَات۔
مَاکِینَةٌ آلِیَة: خودکار مشین، آٹومیٹک مشین۔
مَاکِینَةُ الحِلَاقَة: شیونگ مشین، سیفٹی ریزر۔
مَاکِینَةُ خِیَاطَةٍ: سلائی مشین۔
مَاکِینَةٌ لِإِعْدَادِ الفَوَاتِیر: بل بنانے کی مشین۔
مَاکِینَةُ مُبَاشَرَةِ عَمَلٍ: اسٹارٹنگ مشین۔
المَاکِینَات: مشینری۔
مِیکَانِیکِیّ: میکانک، میکانسٹ، مشین مین۔
مِیکَانِیکِیُّ الطَّائِرَة: ہوائی جہاز کا میکانک۔
إِمْکَانَات: وسائل، امکانات، ذرائع ج: إِمْکَان۔
إِمْکَانِیَّة: امکان، صلاحیت، استطاعت ج: إِمْکَانِیَّات۔
الإِمْکَانِیَّةُ الاِقْتِصَادِیَّة: اقتصادی طاقت۔
إِمْکَانِیَّةٌ بِلَا حُدُودٍ: لامحدود وسائل۔
إِمْکَانِیَّةُ التَّطْبِیق أو التَّنْفِیذ: قابلِ تنفیذ ہونا۔
إِمْکَانِیَّاتٌ ضَخْمَة: زبردست وسائل۔
إِمْکَانِیَّاتٌ عَسْکَرِیَّة: فوجی ذرائع۔
إِمْکَانِیَّاتٌ مَحْدُودَة: محدود وسائل۔
مُمْکِن: ممکن، امکانی (۲) ہوسکتا ہے، غالباً۔
مُمْکِنٌ فَصْلُه: قابلِ علاحدگی۔

م.........ل

مَلأَ ۔ مَلْئاً: بھرنا، پُر کرنا۔
مَلأَ الخانَةَ: خانہ پُری کرنا۔
مَلأَ الفَرَاغَ في الاستِمارَة: فارم کی خانہ پُری کرنا، خالی جگہ بھرنا۔
مِلْءُ اليَدِ أو الكفِّ: مٹھی بھر۔
مِلْءُ البَطْنِ: پیٹ بھر۔
أكلَ مِلْءَ بَطْنِه: پیٹ بھر کھانا۔
نَامَ مِلْءَ جَفْنِه: گہری نیند سونا۔
مُلاءَة: پلنگ کی چادر۔
مَمْلُوءٌ بالحَيَوِيَّة: طاقت سے بھرپور۔
مَمْلُوءٌ تَماماً: ٹائٹ۔
مُلْحَة: پُر لطف بات ج: مُلَح۔
مَلَّاح: ملاح (۲) کشتی راں۔
مَلاحَة: حُسن۔
مَلاحَة، مُلُوحَة: شوریت۔
مِلاحَة: جہاز رانی۔
مَمْلَحَة: نمک کی کان۔
مِمْلَحَة: نمک دان۔
مَلِيح: خوبرو، حسین۔
مَلَخَ ۔ مَلْخاً و امْتَلَخَ: اکھاڑنا، قبضہ اکھاڑنا۔
مَلِيخ: بے مزہ۔
مَلِسَ ۔ مَلَساً: چکنا ہونا۔
مَلَّسَ: چکنا بنانا (۲) پھسلواں بنانا۔
تَمَلَّسَ: چکنا ہونا۔
تَمَلَّسَ و انْمَلَسَ مِنْ: ہاتھ سے نکلنا (۲) چھٹکارا پانا۔
مَلِسٌ، أمْلَسُ: چکنا، ملائم (ضد خَشِنٌ)۔
مَلاسَة: چکناہٹ۔
مَلِصَ ۔ مَلَصاً، تَمَلَّصَ: رہا ہونا، ہاتھ سے نکلنا، سرک جانا۔
تَمَلَّصَ مِنْ وَاجِبٍ: فرض سے بھاگنا، جی چُرانا۔
مَلِصٌ، أمْلَصُ، مَلِيص: پھسلواں۔
مَلَطَ ۔ مَلْطاً و مَلَّطَ الحائِطَ: پلاسٹر کرنا۔
مَلَطَ الشَّعْرَ: بال اڑانا، مونڈنا۔
مِلاطُ الحائِط: پلاسٹر ج: مُلُط۔
مالِطَة: جزیرہ مالٹا۔
مَلِقَ ۔ مَلَقاً الرَّجُلَ و مالَقَه و تَمَلَّقَه: چاپلوسی کرنا، خوشامد کرنا۔
أمْلَقَ الرَّجُلُ: مفلس ہونا۔
مَلَقٌ، تَمَلُّق: چاپلوسی، خوشامد، کاسہ لیسی۔
مَلِق، مَلَّاق، مِمْلاق: چاپلوس۔
مَلَّاقَة، مِمْلَقَة: زمین ہموار کرنے کی مشین۔
إملاق: غایت درجہ کا افلاس۔
مَلَكَ ۔ مِلْكاً و تَمَلَّكَ و امْتَلَكَ: مالک ہونا۔
مَلَكَ ۔ مِلْكاً على: حکومت کرنا۔
مَلَكَ نَفْسَه أو حَوَاسَّه: قابو پانا۔
مَلَكَ صَلاحِيَّةً أو خِياراً: اختیار حاصل کرنا۔
تَمَلَّكَ على، إسْتَمْلَكَ: قبضہ کرنا، قبضہ میں لینا، اپنانا، ملکیت میں لینا۔
تَمَلَّكَ على القَوْمِ: بادشاہ بننا۔
تَمَلَّكَه الرُّعْبُ: رعب طاری ہونا۔
تَمَلَّكَه نَوْبَةُ البُكاء: گریہ طاری ہونا۔
مَلَّكَ و أمْلَكَ فُلاناً الشَّيْءَ: مالک بنانا۔
مَلَّكَ و أمْلَكَ على: بادشاہ بنانا۔
تَمالَكَ عَنْ كذا: رُکنا، کسی شے کے

بارے میں اپنے اوپر قابو پانا۔
مِـــلْک: ملکیت (۲) جائیداد، پراپرٹی ج: أَمْلَاک۔
مِلْکٌ ثَابِت: غیر منقولہ جائیداد، ناقابلِ منتقلی جائیداد۔
مِلْکٌ مَنْقُول: منقولہ جائیداد۔
مِلْکُ التَّصَرُّف: کارروائی کا اختیار۔
مِلْکٌ عَقَارِيّ: زمینی جائیداد۔
مِـلْکٌ مَـوْقُـوفٌ عَـلَـى وَرَثَةٍ: وقف علی الاولاد۔
مِلْكِيَّةٌ: پراپرٹی، جائیداد، ملکیت۔
مِلْكِيَّةٌ بِالْمُشَاع: مشترکہ ملکیت۔
مِلْكِيَّةٌ خَاصَّة: پرائیویٹ جائیداد۔
مِلْكِيَّةٌ دُسْتُورِيَّة: آئینی ملکیت۔
مِلْكِيَّةٌ عَامَّة: عوامی ملکیت، عوامی جائیداد۔
المِلْكِيَّةُ الفَرْدِيَّة: شخصی ملکیت، نجی ملکیت۔
مِلْكِيَّةٌ مُشْتَرَكَة: مشترکہ ملکیت۔
مُلْک: حکومت، اقتدار۔
مَلِک: بادشاہ ج: مُلُوک۔
مَلِكَة: رانی۔
مَلِكَةٌ حَاكِمَة: تاجدار رانی۔
مَلَكِيّ: شاہی (۲) سول، غیر فوجی۔
مَرْسُومٌ مَلَكِيّ: شاہی فرمان۔
بَدْلَةٌ مَلَكِيَّة: شاہی لباس۔
حُكُومَةٌ مَلَكِيَّة: شاہی حکومت۔
مُسْتَشَارٌ مَلَكِيّ: شاہی مشیر۔
مُوَظَّفٌ مَلَكِيّ: شاہی ملازم۔
مَلَک: فرشتہ ج: مَلَائِكَة۔
مَلَاک: دیوتا۔

مَلَاکُ الحُبّ: محبت کا دیوتا۔
مَـلَكِيّ، مَلَائِكِيّ: فرشتہ جیسا، فرشتہ صفت، معصومانہ۔
مَلَكَة: انسان کے اندر صفت راسخہ (۲) طبیعت (۳) عادت (۴) سلیقہ۔
مَـلَـكَـاتٌ ذِهْـنِيَّةٌ خَـصِـبَة: زبردست فکری صلاحیتیں۔
مَلَكُوت: ملکِ عظیم، زبردست حکومت، عزت واقتدار۔
مُلَّاکُ الاَطْيَان: جاگیرداران، مالکانِ زمین۔
مُلَّاکٌ بِالمُشَاع: مشترکہ مالکان۔
صِغَارُ المُلَّاک: چھوٹے جاگیردار۔
طَبَقَةُ المُلَّاک: طبقہ جاگیرداران۔
مَالِکُ الاَرَاضِي الزِّرَاعِيَّة: جاگیردار۔
المَالِکُ الشَّرْعِيّ: قانونی حقدار۔
المَالِکُ لِإِرَادَتِه: اپنی مرضی کا مالک۔
مَالِکُ المِطْبَعَة: پرنٹر۔
مَالِکُ المَنْزِل: صاحب خانہ۔
مَلِيک: بادشاہ (۲) مالک۔
اِمْتِلَاک: قبضہ۔
اِمْتِلَاکُ السُّلْطَة: اختیار رکھنا۔
مُـمْـتَـلَک: قبضہ کی ہوئی چیز، مملوکہ شے، جائیداد ج: مُمْتَلَكَات۔
مُـمْـتَـلَكَاتٌ شَـخْـصِـيَّة: پرسنل اسٹیٹ، ذاتی جائیداد۔
الـمُـتَـمَالِکُ لِلاَعْصَاب: اعصاب کو قابو میں رکھنے والا۔
الـمَـمْلَكَةُ المُتَّحِدَة: یونائیٹڈ کنگڈم (برطانیہ)۔

مَمَالِکُ مُتَحارِبَة: برسرِ پیکار ممالک۔
مَلَّ الشیئَ و منه ـَ مَلَلاً: اکتانا، دل اچاٹ ہونا۔
مَلَّ و اَمَلَّ عَلَیْهِ الاَمْرُ: دشوار ہونا۔
اَمَلَّه: دل اچاٹ کرنا، اکتا دینا۔
مَلَل: آزردگی، اکتاہٹ۔
مُمِلّ: ڈل، تکلیف دہ، اکتا دینے والا۔
أَمْلَی القَوْلَ علی: املا کرانا، لکھوانا۔
أَمْلَی إِرَادَتَه علی أَحَدٍ: اپنی مرضی کسی کے سر تھوپنا۔
أَمْلَی عَلَیْهِ الشیئُ کذا: احساس دلانا۔
مَلِیّاً: عرصۂ دراز تک، کچھ عرصہ تک۔
مِلْیار: ایک ارب ج: مِلْیَارَات۔
مِلِّیمِتْر: ملی میٹر۔
مِلْیُون: دس لاکھ ج: مَلاَیِیْن۔
مِلْیُونیر: کروڑ پتی۔
مَلاَیِیْن: لاکھوں۔

م..........ن

مَـنْ: کون (۲) جو، مفرد و جمع ذوی العقول کے لئے اسمِ موصول۔
مِنْ: از، فروم، فلاں جگہ سے۔
مَنْجَة، مَنْجُو: آم۔
مَنَحَ ـَ مَنْحاً: عطا کرنا، دینا۔
مَنَحَ الاِمْتِیَازَ: رعایت دینا۔
مَنَحَ حَقَّ الاِخْتِیَار: حق انتخاب دینا۔
مَنَحَ التَّأْشِیرَة: ویزا دینا۔
مَنَحَ دِبْلُوماً: ڈپلوما دینا۔
مَنَحَ مُهْلَةً: مہلت دینا۔
مَنَحَهُ صِفَةَ کذا: کسی کو کوئی حیثیت دینا۔

مَنَحَهُ الرِّعَایَةَ: تحفظ دینا۔
مَنَحَهُ سُلْطَاتٍ مُطْلَقَةً: مکمل اختیارات دینا۔
مَنَحَهُ المَطَالِبَ: مطالبات پورے کرنا۔
مِـنْـحَة: عطیہ، وظیفہ، کمیشن، امداد، گرانٹ، الاؤنس ج: مِنَح۔
مِنْحَةٌ اَمِیرِیَّة: شاہی عطیہ۔
مِنْحَةٌ تَعْلِیمِیَّة: اسکالرشپ، تعلیمی وظیفہ۔
مِنْحَةُ تَعْوِیض: الاؤنس۔
مِنْحَةٌ حُکُومِیَّة: پنشن۔
مِنْحَةٌ دِرَاسِیَّة: اسکالرشپ، تعلیمی وظیفہ۔
مِنْحَةُ العَجْز: وظیفۂ معذوری۔
المِنْحَةُ المَالِیَّة: مالی عطیہ۔
مِنْحَةٌ مَلَکِیَّة: عطیۂ شاہی۔
مُنْذُ: سے، جب سے، اس وقت سے۔
مَنَعَ ـَ مَنْعاً: روکنا، رکاوٹ بننا۔
مَنَعَهُ الشیئَ و منه و عنه: کسی چیز سے محروم کرنا، منع کرنا، باز رکھنا۔
مَنَعَ جَارَه: طرف داری کرنا، دفاع کرنا۔
مَنَعَ الجَرِیْدَةَ عَنِ الصُّدُور أو التَّصْدِیْر: اخبار پر پابندی لگانا۔
مَنُعَ ـُ مَنَاعَةً: محفوظ ہونا، مضبوط ہونا۔
مَنَّعَ: مضبوط کرنا۔
مَانَعَهُ: آڑے آنا۔
اِمْتَنَعَ و تَمَنَّعَ عَنْ: رکنا، باز رہنا، حصہ نہ لینا، انکار کرنا۔
اِمْتَنَعَ عَنْ إِبْدَاءِ الرَّأْی: اظہارِ خیال نہ کرنا۔
اِمْتَنَعَ عَنِ الإِجْرَاءَات: کارروائی نہ کرنا۔
اِمْتَنَعَ عَنِ التَّصْوِیْت: ووٹنگ میں حصہ

نہ لینا، ووٹ نہ دینا۔
تَمَنَّعَ بکذا: مضبوط ہونا، طاقتور ہونا۔
مَنعُ حَملِ الأسلِحَة: اسلحہ بندی۔
مَنعَة: طاقت۔
مَنعَة، مَناعَة: حفاظت، تحفظ (۲) مضبوطی۔
مَنِیع: محفوظ (۲) مضبوط، طاقتور۔
مَانِع: رکاوٹ، آڑ (۲) محافظ ج: مَوانِع۔
مَمنُوع: ممنوعہ، پابندی لگایا ہوا۔
مَمنُوعٌ وُقُوفُ السَّیَّارَات: نو پارکنگ، کار پارکنگ ممنوع۔
مَنَّ ـــ مَنّاً، اَمَنَّ، تَمَنَّنَ: کمزور بنانا۔
مَنَّ عَلَیهِ: کرم فرمانا، احسان کرنا، حسن سلوک کرنا۔
مَنَّ عَلَیهِ بِمِنَّةٍ: احسان جتانا۔
مَنُون: زبردست محسن (۲) موت۔
رَیبُ المَنُون: مصائب زمانہ۔
مَمنُون: کمزور (۲) احسان مند۔
مَنَّی الرَّجُلَ الشئَ أو بہ: تمنا دلانا، لالچ دلانا، امید دلانا۔
مَنَّی و اَمنَی الدَّمَ: خون بہانا۔
تَمَنَّی الشئَ: آرزو کرنا۔
مَنِیَّة: فیصلہ الٰہی، موت ج: مَنَایَا۔
مُنیَة ج: مُنَی، أُمنِیَّة ج: اَمَانِیّ: آرزو، ارمان، مطلوب

م.........ہ

مُهجَة: دل (۲) روح (۳) خون ج: مُهَج و مُهجَات۔
مَهَدَ و مَهَّدَ ـــ مَهداً: ہموار کرنا، برابر کرنا (۲) راستہ ہموار کرنا، تمہید کرنا (۳) نرم بنانا، آسان بنانا۔
مَهَّدَ السَّبِیلَ لکذا: کسی کام کے لئے راستہ ہموار کرنا۔
مَهَّدَ الطَّرِیقَ: راستہ بنانا۔
مَهَّدَ الامْرَ: درست کرنا۔
مَهَّدَ الفِرَاش: بستر بچھانا۔
مَهد، مِهَاد: بستر، گہوارہ۔
مَهدُ الطِّفل: بچوں کا جھولا۔
فِی المَهد: ابتداء میں، آغاز میں۔
قَضَی عَلَی الشَّرِّ فِی مَهدِه: شر کو سر اٹھانے سے پہلے ہی دبانا۔
تَمهِید: دیباچہ، تمہید، مقدمہ، تعارف (۲) پیش خیمہ۔
تَمهِیدِیّ: ابتدائی۔
اِجرَاءَاتٌ تَمهِیدِیَّة: ابتدائی کارروائی۔
مُمَهِّدَات: تمہیدات۔
مَهَرَ ـــ مَهَارَةً: ماہر ہونا۔
مَهَرَ الخِطَابَ: مہر لگانا، دستخط کرنا۔
مَهَرَ و اَمهَرَ المَرأَةَ: عورت کو مہر دینا۔
مَاهَرَهُ مُمَاهَرَةً: مہارت میں دوسرے سے بڑھ جانا۔
مَهَارَة: آرٹ، کمال، مہارت۔
المَهَارَةُ التِّجَارِیَّة: تجارتی مہلت۔
مُهر: مُہر (۲) گھوڑے کا بچہ۔
مِهرَجَان: جشن، جوبلی، جلسہ ج: مِهرَجَانَات
مِهرَجَانٌ جَوِّیّ: فضائی میلہ، فضائی جشن۔
مِهرَجَانٌ خِطَابِیّ: تقریری جلسہ۔
مِهرَجَانٌ ذَهَبِیّ: گولڈن جوبلی۔
مُهردَار: مُہر دار، مُہر لگانے والا۔

مَهَلَ و تمَهَّلَ: توقف کرنا۔
مَهَلَ ، مَهَّلَ ، اَمهَلَ: مہلت دینا۔
اِستَمهَلَ: مہلت طلب کرنا۔
مَهل ، مُهلَة: آہستگی، نرمی۔
مُهلَة (۲) : وقفہ، ٹرم، مہلت۔
مُهلَةٌ اَخِيرَة: آخری مہلت۔
مُهلَةٌ زَمَنِيَّة: وقت کی مہلت، وقتی مہلت۔
مُهلَةُ القُبول: منظوری کی مہلت۔
عَلَى مَهلٍ: آہستہ، ٹھہر ٹھہر کر۔
عَلَى مَهلِكَ: جلدی نہ کرو۔
مَهمَا: جو بھی، جو کچھ بھی۔
مَهَنَ ـُ مَهَانَةً: حقیر ہونا۔
مَهَنَ الرَّجُلَ ـَ مَهناً: خدمت کرنا۔
مَهَنَ ، مَاهَنَ: پریکٹس کرنا، کسی کام کو بطور پیشہ کرنا۔
اِمتَهَنَ و امتُهِنَ: حقیر ہونا، معمولی ہونا۔
اِمتَهَنَهُ: حقیر سمجھنا، پامال کرنا۔
اِمتَهَنَ إِرَادَةَ الشَّعب: عوام کی خواہش کو پامال کرنا۔
مِهـنَة: پیشہ، کاروبار، ٹریڈ (۲) مشغلہ (۳) ملازمت ج: مِهَن۔
مِهنَةٌ حُرَّة: آزاد پیشہ۔
مِهنَةٌ شَرِيفَة: معزز پیشہ۔
مِهنَةٌ يَدَوِيَّة: ہاتھ کا کام۔
مِهنَةُ السَّمسَرَة: دلالی کا پیشہ۔
مَهِـين ، مُهَـان ، مُـمتَهَـن: ذلیل، حقیر، معمولی۔

م.........و

مُوَاء: بلی کے بولنے کی آواز۔
مَوَّتَ ، اَمَاتَ: موت کا سبب بننا، مارنا، موت دینا۔
مَوَّتَ ، اَمَاتَ نَفسَه: خودکشی کرنا۔
اَمَاتَ شَهَوَاتِه: خواہشات ختم کرنا، نفس کشی کرنا۔
تَـمَـاوَتَ: دم چرانا (۲) کمزوری ظاہر کرنا۔
اِستَمَاتَ: جان کی بازی لگانا، جان دینا، مر مٹنا۔
مَوت: زوال، فنا، ہلاکت۔
مَوتٌ اَبيَض: طبعی موت۔
مَوتٌ اَحمَر: قتل، خونی واردات۔
مَوتٌ اَسوَد: گلا گھونٹنے سے واقع ہونے والی موت۔
مَوتٌ زُؤَام: جلد آنے والی موت۔
مَوتُ المَوضُوع: موضوع کا خاتمہ۔
صَحوَةُ المَوت: موت کا سنبھالا۔
مِيتَة: مُردار ج: مَيتَات۔
مَوَات: فقدانِ حیات (۲) بنجر زمین (۳) بے جان۔
مَائِت: چراغِ سحری (۲) فنا پذیر۔
مَيِّت ، مَيت: مُردہ۔
مَمَات: ہلاکت، موت (مصدرِ میمی)۔
مَوج: لہر ج: اَموَاج و : مَوجَة۔
مَوجَة: لہر، سلسلہ ج: مَوجَات۔
مَوجَةُ الاِضطِرَابَات: سلسلۂ فسادات۔
مَوجَةُ الاِعتِقَالَات: گرفتاریوں کا سلسلہ۔
مَوجَةٌ قَصِيرَة: شارٹ ویو (ریڈیائی لہر)۔
مَوجَاتُ الاَثِير: ایتھر کی لہریں۔

مَاجَ ـُ مَوْجاً و تَمَوَّجَ: لہریں مارنا۔
مَـائِج ، مَوَّاج: ٹھاٹھیں مارتا ہوا، جوش میں، متموج
مَوْز: کیلا و : مَوْزَة۔
مُوْسَى: استراج: مَوَاسٍ۔
مُوْسَى الأَمْن: سیفٹی ریزرو۔
مَاس ، اَلْمَاس: ہیرا۔
مُوْسِيقَى: طرب وغنا۔
مُوْقُ العَيْن: گوشۂ چشم ج: اَمْوَاق۔
مَـوَّلَ: مالدار بنانا (۲) سرمایہ لگانا، روپیہ خرچ کرنا۔
مَوَّلَ الثُّوَّارَ: باغیوں کو سرمایہ فراہم کرنا۔
مَـوَّلَ مَشْـرُوْعَـاتِ التَّنْمِيَة: ترقیاتی منصوبوں پر سرمایہ لگانا۔
مَوَّلَ نَشَـاطَ الحِزْبِ: پارٹی سرگرمیوں پر روپیہ خرچ کرنا۔
مَالَ ـُ مَوْلاً: کسی کام کے لئے ضروری سرمایہ دینا۔
مَالَ و تَمَوَّلَ و اسْتَمَالَ: مالدار ہونا۔
تَمَوَّلَ: کسی کام کے لئے ضروری سرمایہ لینا۔
مَالٌ: سرمایہ، رقم، دولت (۲) سامان ج: اَمْوَال۔
مَالٌ مُوَفَّر: سیونگ، محفوظ سرمایہ۔
مَالٌ مُوْصىً بِه: وصیت کا مال۔
مَالُ الحُكُومَة: ٹیکس۔
مَالُ الأَطْيَان: زمین ٹیکس، مال گزاری۔
مَالُ العَقَارَات: جائیداد ٹیکس۔
المَالُ الاحْتِيَاطِي: ریزرو سرمایہ۔
رَأْسُ المَال ، رَأْسْمَال: سرمایہ، فنڈ۔
بَيْتُ المَال: خزانہ عامہ۔
اَمِيْنُ المَال: خزانچی۔
اَمِـيْنُ الصُّـنْدُوْق: تحویلدار، کیشیر، خزانچی۔
مَالِيّ: مال سے متعلق (۲) مالیات کا ماہر۔
مَالِيّ ، مُتَمَوِّل: دولت مند، سرمایہ دار۔
المَالِيُّوْن: مالدار لوگ۔
مَالِيَّة: مال، متعینہ مال (۲) مالیہ، مالیات۔
المَالِيَّةُ العَامَّة: مالیاتِ عامہ۔
عُقُوبَةٌ مَالِيَّة: مالی سزا، سزائے نقد۔
غَرَامَةٌ مَالِيَّة: جرمانہ۔
وِزَارَةُ المَالِيَّة: وزارتِ مالیات۔
اَمْوَال: جائیداد، سرمایہ۔
اَمْوَالٌ ثَابِتَة: غیر منقولہ جائیداد۔
اَمْـوَالٌ طَـائِلَة: بے حد دولت، بے پناہ دولت، بے حساب دولت۔
اَمْوَالٌ عَاطِلَة: بے کار سرمایہ۔
الاَمْـوَالُ غَيْرُ المُقَرَّرَة: اِن ڈائریکٹ ٹیکس۔
الاَمْوَالُ المُقَرَّرَة: ڈائرکٹ ٹیکس۔
اَمْوَالٌ مَنْقُولَة: منقولہ جائیداد۔
اَمْـوَالٌ مَـوْقُوفَة: وقف جائیداد، ٹرسٹ فنڈ۔
اَمْـوَالٌ مُهَـرَّبَة: اسمگلنگ شدہ، چوری سے لایا ہوا مال۔
تَمْوِيْل: سرمایہ کاری۔
تَمْوِيْلٌ خَارِجِيّ: بیرونی سرمایہ کاری۔
تَمْوِيْلٌ دَاخِلِيّ: داخلی سرمایہ کاری۔

التَّمْوِيلُ الدُّوَلِيّ: بین الاقوامی سرمایہ کاری۔
تَمْوِيلٌ ذَاتِيّ: شخصی سرمایہ کاری۔
مُمَوِّل: سرمایہ کار۔
مُمَوِّلُون: مالدار لوگ۔
مُوم: موم۔
مُومِيَا: محفوظ جثہ جسے دواؤں کے ذریعہ محفوظ رکھا جائے۔
مَوَّنَ و مَانَ ـُ مَوْناً: سپلائی کرنا، بہم پہنچانا، رسد پہنچانا، اشیائے ضرورت مہیا کرنا۔
مَوَّنَ الأَسْلِحَةَ إِلَى كذا: ہتھیار سپلائی کرنا۔
مَوَّنَ بالاحْتِيَاجَات: ضروریات فراہم کرنا۔
تَمَوَّنَ: اشیائے ضرورت جمع کرنا۔
تَمْوِين: سپلائی، بہم رسانی۔
تَمْوِينِي: سپلائی سے متعلق۔
بِطَاقَةُ التَّمْوِين: راشن کارڈ۔
وِزَارَةُ التَّمْوِين: وزارتِ خوراک۔
مُونَة: (مُؤْنَة) خوراک، رسد، ذخیرہ، اشیائے خوردانی ج: مُوَن۔
مَوَّهَ بِكذا: ملمع کرنا، پالش کرنا۔
مَوَّهَ بِمَاءِ الذَّهَب والفِضَّة: سونے اور چاندی کا ملمع کرنا۔
مَوَّهَ الحَقَائِق: حقائق پر پردہ ڈالنا۔
مَاء: پانی ج: مِيَاه۔
مَاءُ الحَيَاة: (مج) شراب۔
مَاءُ الشَّبَاب: جوانی کی بہار۔
مَاءُ النَّار: تیزاب۔
مَاءُ الجِير: آبِ چونہ۔
مَاءُ الذَّهَب: آبِ زر۔
مَاءُ العَيْن: آبِ چشم۔
مَاءُ الفِضَّة: آبِ نقرہ۔
مَاءُ المِلْح: آبِ شور۔
مَاءُ الوَرْد: آبِ گل۔
مَاءٌ نَقِيٌّ عَذْب: آبِ زلال۔
مَائِيّ: پانی سے متعلق (۲) آبی۔
مِيَاهٌ غَازِيَة: سوڈا واٹر، گیس کا پانی۔
مَاهِيَّة: حقیقت (۲) مشاہرہ۔
تَمْوِيه: ملمع سازی۔

م .... ی

مَاحَ ـَ مَيْحاً: چلو سے پانی لینا۔
تَمَيَّحَ، تَمَايَحَ: شاخ کا ہلنا۔
اِمْتَاحَه، اِسْتَمَاحَه: مہربانی چاہنا، بھیک مانگنا۔
اِسْتَمَاحَ عَفْوَه: معافی چاہنا، معذرت چاہنا۔
مَادَ ـِ مَيْداً: ڈانواڈول ہونا۔
مَيْدَان: گراؤنڈ، میدان ج: مَيَادِين۔
مَائِدَة: دسترخوان جس پر کھانا ہو (۲) میز ج: مَوَائِد۔
مَائِدَةُ الأَكْل: کھانے کی میز۔
مَائِدَةُ العَمَلِيَّاتِ الجِرَاحِيَّة: آپریشن ٹیبل۔
مَائِدَةُ الكِتَابَة: لکھنے کی میز۔
مَائِدَةٌ مُشْتَرَكَة: میس۔
مَائِدَةٌ مُسْتَدِيرَة: گول میز۔
مُؤْتَمَرُ المَائِدَةِ المُسْتَدِيرَة: گول میز کانفرنس۔
تَمَايَدَ، تَمَيَّدَ: مضطرب ہونا، ہلنا۔

مَیَّزَ ، اَمازَ: ترجیح دینا۔
مَیَّـزَ بَیْـنَهُمْ: فرق کرنا، امتیاز کرنا (۲) فرق کو سمجھنا (۳) جدا کرنا۔
مَیَّزَ الرَّجُلَ: ممتاز بنانا (۲) فوقیت دینا۔
تَـمَیَّـزَ و امْتَـازَ مِنْ: ممتاز ہونا، الگ ہونا۔
تَمَیَّزَ غَیْظاً: غصہ سے پارہ پارہ ہونا۔
مِیـزَة: خصوصیت ج: مِیـزَات (۲) امتیاز، فوقیت، افضلیت
مِیزَةٌ مُطْلَقَة: مکمل امتیاز۔
اِمْتِیَاز: فرق (۱) خاص حق (۳) رعایت (۴) سرکاری رعایت، کنسیشن (۵) لائسنس ج: اِمْتِیَازَات۔
اِمْتِیَازٌ حُکُومِیّ: کنسیشن۔
اِمْتِیَـازٌ لِسِـکَّةٍ حَـدِیْـدِیَّة: ریلوے کنسیشن۔
اِمْتِیَـازَات: رعایتیں، مراعات، اختیارات، خصوصی اختیارات۔
الاِمْتِیَازَاتُ الاَجْنَبِیَّة: غیر ملکی مراعات۔
اِمْتِیَازَاتٌ اِضَافِیَّة: زائد مراعات۔
اِمْتِـیَـازَاتُ الـبَـرْلَـمَـان: پارلیمنٹری مراعات۔
اِمْتِیَازَاتٌ تُـمْـنَحُ لِدَوْلَةٍ اَجْنَبِیَّةٍ: غیر ملک کو دی جانے والی رعایات۔
اِمْتِیَازَاتٌ دِبْلُومَاسِیَّة: سفارتی مراعات۔
اِمْتِیَازَاتٌ ضَرِیبِیَّة: ٹیکسوں میں مراعات۔
اِمْتِیَازَاتٌ مَمْنُوحَه: دی ہوئی مراعات۔
مُمْتَاز: شاندار، بے مثال، فائق، گولڈن، کلاسیکل۔

مُـمْـتَـازٌ مِـنَ الدَّرَجَةِ الاُوْلٰی: فرسٹ کلاس۔
مُمَیِّز: عاقل، بالغ۔
مَـاطَ ـــِـ مَیْطاً و اَمَاطَ عَن: ہٹنا (۲) ہٹانا۔
اَمَاطَ اللِّثَامَ عَنْ: پردہ ہٹانا، نقاب اٹھانا، فاش کرنا۔
مَیَّعَ: (۱) عقیدہ یا جوش دھیما اور ٹھنڈا کرنا (۲) قیمت یا قوت کو گھٹانا۔
مَاعَ ـِـ مَیْعاً: بہنا، پھیلنا، گھلنا۔
مَیْـعَة ، مُیُوعَة: روانی، سیلان (۲) میلان، لچک۔
مُیُوعَةٌ ظَاهِرَة: ظاہری لچک۔
اَمَـاعَ اِمَـاعَةً: گھلانا، پگھلانا (۲) ہلکا یا پھیکا کرنا۔
مَائِع: سیال، بہنے والا۔
مَائِعَات: سیال چیزیں۔
المِیکْرُو سْکُوب: خوردبین، میکرسکوپ۔
المِیکْرُوفُون: میکروفون۔
مَیَّلَ ، اَمَالَ: جھکانا، ٹیڑھا کرنا۔
مَالَ ـــِـ مَیْلاً: ٹیڑھا ہوا، جھکنا۔
مَـالَ اِلَی: راغب ہونا، متوجہ ہونا (۲) محبت ہوا۔
مَـالَ عَنهُ: اعراض کرنا، بے توجہ ہونا، توجہ ہٹالینا۔
مَالَ عَلَیْهِ: سہارا لینا (۲) ظلم کرنا۔
تَمَایَلَ ، تَمَیَّلَ: ہچکولے کھانا، ڈانوڈول ہونا (۲) جھومنا۔
اِسْتَـمَـالَ: مائل کرنا، اپنانا، کھینچنا، اپنی

طرف کرنا۔
مَیـلٌ: (١) توجہ (٢) جھکاؤ (٣) رغبت (٤) رجحان (٥) محبت (٦) ٹیڑھا پن (٧) انحراف ج: مُیُول۔
مَیْلُ الاَسْعَارِ لِلنُّزُوْلِ: بھاؤ گرنے کا رجحان۔
مُیُوْلٌ: رجحانات، میلانات۔
مُیُوْلٌ شُیُوعِیَّة: کمیونسٹ رجحانات۔
مَائِل: جھومتا ہوا، آڑا۔
مَـائِـلٌ نَـحْوَ الاِنْخِفَاض: مائل بہ کمی، مائل بہ انحطاط۔
مَیْنٌ: جھوٹ۔
مِیْنَاء: بندرگاہ ج: مَوَانِی۔
مِیْنَاءُ التَّفْرِیْغ: سامان اُتارنے کی بندرگاہ۔
مِیْنَاءٌ جَوِّیٌ: ایرپورٹ، ہوائی اڈا۔
مِیْنَاءُ الشَّحْن: سامان کی بندرگاہ، لوڈنگ پورٹ۔
مِیْنَاءُ القِیَام: ڈپارچر پورٹ، روانگی کی بندرگاہ۔
مِیْنَاءٌ لِلتَّصْلِیْح: رپیرنگ پورٹ۔
مِیْنَاءُ السَّاعَة: گھڑی کا ڈائل۔

ن

ن..........ا

نَأی ۔ نَأیاً ، اِنتَأی عَنْ: دور ہونا۔
نَاءَ ی عَنه الشَّرَّ مُناآةً: دفع کرنا، دور کرنا۔
اَنأی: دور کرنا۔
نَاءٍ: دور۔
نَارجِیل: ناریل و: نَارجِیلَة۔
نَارجِیلَة: (۲) حُقّہ۔
نَازِیّ: نازی (NAZI)۔

ن..........ب

نَبَأَ ۔ نبأ: بلند ہونا۔
نَبأَ عَنْ: الگ ہونا، دور ہونا (۲) نفرت کرنا۔
نَبَّأَ ، اَنبَأَ: خبر دینا، بتانا۔
تَنَبَّأَ: نبوت کا دعویٰ کرنا (۲) پیشین گوئی کرنا۔
اِستَنبَأَ: خبر دریافت کرنا۔
نَبأ ج: اَنبَاء: نیوز، خبر۔
نَبأ سَارّ: مسرت بخش خبر۔
اَنبَاءٌ دَولِیَّة: بین الاقوامی خبریں۔
اَنبَاءٌ سُوقِیَّة: بازاری خبریں۔
اَنبَاءٌ عَالَمِیَّة: عالمی خبریں۔
اَنبَاءٌ مَحلِیَّة: مقامی خبریں، ملکی خبریں۔

نُبُوءَة: پیشین گوئی۔
أُنبُوب ، أُنبُوبَة: نلکی، پائپ ج: اَنَابِیبُ۔
نَبَتَ ۔ُ نَبَاتاً: اگنا، بڑھنا۔
نَبَّتَ الشَّجَرَ: درخت لگانا۔
نَبَّتَ الحَبَّ: بیج ڈالنا، بیج بونا۔
نَبْت ، نَبْتَة: سبزی (۲) نمو، پیدائش، اگنا، نتیجہ۔
نَبْت ، نَبَات: گھاس، تنکا، کھیتی، پیداوار۔
نَابِت: افزائش پذیر۔
نَبَاتَاتُ الشَّای: چائے کی پتیاں۔
مَنبَت: اگنے کی جگہ، سرچشمہ، اصل۔
نَبَحَ ۔ُ نُبحاً: بھونکنا۔
نُبَاح: کتے کے بھونکنے کی آواز۔
نُبخَة: ماچس، دیا سلائی۔
نَبَذَ ۔ نَبذاً: پھینکنا (۲) چھوڑنا (۳) نظر انداز کرنا (۴) عہد توڑنا۔
نَابَذَه: مخالفت کرنا۔
نَابَذه الحَربَ: کسی سے اعلانِ جنگ کرنا۔
نُبذَة: ٹکڑا، حصہ (۲) پیرا گراف (۳) رسالہ (جو کسی خاص موضوع پر لکھا جائے)۔

مَنْبُوْذٌ: نظر انداز کیا ہوا۔
مَنْبُوْذٌ هِنْدِيٌّ: اچھوت۔
نَبَرَ ـــ نَبْرًا: بلند کرنا (۲) آواز بلند کرنا (۳) جھڑکنا، ڈانٹنا۔
اِنْتَبَرَ الْجُرْحُ: زخم کا ورم آلود ہونا۔
اِنْتَبَرَ الْخَطِيْبُ: منبر پر چڑھنا۔
نَبْرَة: ورم (۲) بلند آواز ج: نَبَرَات۔
نَبَرَاتُ الصَّوْتِ: آواز کا اتار چڑھاؤ، زیر و بم۔
مِنْبَر: اجتماع عامہ کا مقام، عام مباحثوں کی جگہ، فورم، اسٹیج، پلیٹ فارم ج: مَنَابِرُ۔
مِنْبَرُ الْاُمَمِ الْمُتَّحِدَة: اقوامِ متحدہ کا فورم۔
مِنْبَرُ الْجَلْسَة: اسٹیج۔
مِنْبَرٌ حُرٌّ: آزاد فورم۔
مِنْبَرٌ لِاِعْلَانِ شَيْءٍ: پلیٹ فارم۔
نِبْرَاس: روشنی (۲) لمپ (۳) سڑک پر لگی ہوئی لالٹین ج: نَبَارِيْس۔
نَبَسَ ـــ نَبْسًا: بولنا۔
نَبَشَ ـــ نَبْشًا: مدفون کو نکالنا۔
نَبَشَ السِّرَّ: راز افشا کرنا۔
نَبَشَ بِئْرًا اَوْ قَبْرًا: کنواں کھودنا، قبر کھودنا۔
نَبَشَ الْجُثَّةَ مِنَ الْقَبْرِ: قبر سے لاش نکالنا۔
نَبَّاش: کفن کھسوٹ، کفن چور۔
نَبَضَ ـــ نَبْضًا: رگ کا حرکت کرنا۔
نَبَضَ الْمَاءُ: پانی بہنا۔
نَبَضَ الشَّيْءُ بِكَذَا: کسی چیز سے کوئی چیز ٹپکنا، نمایاں ہونا۔

نَبْضُ الْقَلْبِ: دل کی دھڑکن۔
جَسَّ نَبْضَهُ: نبض پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا۔
نَابِض: متحرک، دھڑکتا ہوا (۲) بندوق وغیرہ کا گھوڑا۔
نَبَطَ ـــ نَبْطًا: زمین یا چشمہ سے پانی ابلنا۔
نَبَطَ، اَنْبَطَ، نَبَّطَ: پانی نکالنا۔
اِسْتَنْبَطَ: دریافت کرنا، ایجاد کرنا (۲) استخراج کرنا۔
نَبَطٌ: گہرائی (۲) عوام الناس۔
نَبَعَ الْمَاءُ ـــ نَبْعًا: پانی ابلنا۔
نَبَعَ النَّهْرُ: نہر جاری ہونا۔
اَنْبَعَ الْمَاءَ: پانی جاری کرنا۔
نَبْع، يَنْبُوْع، مَنْبَع: سرچشمہ، چشمہ ج: نُبُوْع، يَنَابِيْع، مَنَابِع۔
نَابِعٌ مِنْ كَذَا: جاری ہونے والا، کسی جگہ سے نکلنے والا۔
مَنَابِعُ النِّفْطِ: پٹرول کے چشمے۔
نَبَغَ ـــ نُبُوْغًا: ظاہر ہونا، پھیلنا (۲) فوقیت لے جانا، برتر ہونا۔
نُبُوْغ: قابلیت (۲) مہارت۔
نَابِغ، نَابِغَة: عالی مرتبہ (۲) ماہر ولائق، کامل، باکمال ج: نَوَابِغ۔
نَبِق: بیر و: نَبِقَة۔
نَبَلَ ـــ نَبْلًا: تیر مارنا۔
نَبُلَ ـــ نَبَالَةً: عالی نسب ہونا، شریف الاصل ہونا، عالی ظرف ہونا۔
نَبْل: تیر ج: نِبَال۔
نِبْلَة: (صَيَّادَة) غلیل۔
نَبَّال: تیر انداز۔

نَبِیل: شریف الاصل، عالی ظرف، نیک طینت
ج: نُبلاء۔
نُبَلاءُ المَدِینَة: معززین شہر۔
نَبِهَ ــــ نَبهاً و نَباهَةً: زیرک ہونا، معزز ہونا، عقلمند ہونا، مشہور ہونا۔
تَنبَهَ لِلأمر: آگاہ ہونا، سمجھنا۔
تَنَبَّهَ مِن نَوم: بیدار ہونا۔
نَبَهَ علی أو إلی الأمر: آگاہ کرنا، متنبہ کرنا (۲) بیدار کرنا، چوکنا کرنا۔
نُبه، نَباهَة: ذکاوت، بیدار مغزی، ہوشیاری، دانش مندی۔
نَباهَة (۲): شہرت (۳) عز وشرف۔
نَبِهٌ، نَبِیه، نَابِه: زیرک، دانش مند، بیدار مغز، عقلمند (۳) باعزت، مشہور۔
اِنتَبَه: متوجہ ہونا، چونکنا، بیدار ہونا۔
اِنتَبَه للأمر: چوکنا ہونا، نوٹس لینا، اٹینشن ہونا، نوٹ کرنا (۲) تیار وآمادہ ہو جانا۔
اِنتَبَهَ مِنَ النَوم: آنکھ کھلنا۔
اِنتِباه: بیداری، توجہ، احتیاط، ہوشیاری، نوٹس۔
مُنتَبَه: اٹینشن۔
مُنَبِّه: محرک۔
ساعَةٌ مُنَبِّهَة: الارم گھڑی۔
نَبْو، نُبُوّ: تقصیر، کوتاہی، ناکامی۔
نَبا ــــ نَبواً عَن: تیر کا نشانہ سے ہٹنا، اچٹنا (۲) طبیعت کا کسی چیز کو قبول نہ کرنا۔
نَبا المَکانُ بِه: جگہ کا راس نہ آنا۔
نَابٍ: متنفر (۲) بے محل، نا آہنگ۔
ن .... ت

نَتَأَ ــــ نُتوءاً: اُبھرنا۔
نَاتِئٌ: ابھرا ہوا، نمایاں، ظاہر۔
نَتَجَ مِن کذا ــــ نَتجاً: نتیجہ برآمد ہونا، پیدا ہونا، نتیجہ نکلنا۔
نَتَجَ عنه کذا: نتیجہ میں کوئی چیز سامنے آنا۔
نَتَجَتُ و اَنتَجَتِ البَهِیمَةُ: چوپایہ کا بچہ جننا۔
اَنتَجَ: سبب بننا (۲) نتیجہ دینا (۳) پیدا کرنا، تیار کرنا (۴) غلہ اگانا۔
اَنتَجَ الجِهازَ: مشین تیار کرنا۔
اَنتَجَ الاَسلِحَة: ہتھیار تیار کرنا۔
اَنتَجَ فائِدَةً: نفع دینا۔
اَنتَجَ الشَیءَ مِن الشَیء: نتیجہ نکالنا۔
اِستَنتَجَ مِن: نتیجہ برآمد کرنا، اخذ کرنا۔
نِتاج: پیداوار (۲) غلہ۔
نِتاجُ المَصنَع: کارخانہ کی مصنوعات، تیار کردہ مال۔
نَتِیجَة: حاصل، ریزلٹ (۲) انجام (۳) اثر (۴) خلاصہ (۵) کیلنڈر ج: نَتائِج۔
النَتِیجَةُ الحَتمِیَة: لازمی نتیجہ۔
نَتِیجَةُ الشَیء: آخرکار، انجام۔
نَتِیجَةُ عَلی ذٰلِکَ: آخرکار، نتیجتاً۔
النَتائِجُ الإِیجابِیَة: مثبت نتائج۔
نَتائِجُ حاسِمَة: قطعی نتائج
نَاتِجٌ: پیداوار، حاصل، ماحصل
نَاتِجٌ صافٍ: خالص پیداوار۔
نَاتِجٌ مُتَزایِد: روز افزوں پیداوار۔
نَاتِجٌ مُرتَفِع: بڑھتی ہوئی پیداوار۔
نَاتِجٌ مَزرَعِیّ: زرعی پیداوار۔

نَاتِج مُنخَفِض: کم ہونے والی پیداوار۔
اِنتَاج: تخلیق (۲) پیداوار، نتیجہ (۳) مصنوعات۔
اِنتَاجٌ اَدَبِیّ: ادبی تخلیق، لٹریچر، تصنیف۔
اِنتَاجٌ اَهلِیّ: مقامی پیداوار۔
اِنتَاجٌ سَنَوِیّ: سالانہ پیداوار۔
الاِنتَاجُ الصَّغِیر: مختصر پیداوار۔
الاِنتَاجُ الصِّنَاعِیّ: صنعتی پیداوار۔
اِنتَاجٌ عَقلِیّ: ذہنی تخلیق۔
اِنتَاجٌ فِکرِیّ: ذہنی پیداوار، تخلیق۔
اِنتَاجٌ مُتَنَاقِص: انحطاط پذیر پیداوار۔
اِنتَاجَات: پیداوار، مصنوعات، تخلیقات۔
اِنتَاجِیَّة: پیداواری صلاحیت، تخلیقی صلاحیت۔
مُنتِج: تیار کنندہ، صنعت کار۔
مُنتِجُ اَفلَام: فلم ساز، پروڈیوسر۔
مُنتَجَات: مصنوعات۔
مُنتَجَاتُ اَلبَان: دودھ سے بنی اشیا۔
مُنتَجَاتٌ ثَانَوِیَّة: دوسرے درجہ کی مصنوعات۔
مُنتَجَاتٌ کِیمِیَاوِیَّة: کیمیاوی مصنوعات۔
مُنتَجَاتٌ مَعدِنِیَّة: معدنی مصنوعات۔
مُنتَجَاتٌ نِفطِیَّة: پٹرول سے بنی ہوئی مصنوعات۔
مُنتَجَاتٌ یَدَوِیَّة: ہاتھ کی بنی ہوئی اشیاء، دستکاریاں۔
نَتَفَ ـِ نَتفاً و نَتَّفَ: بال اکھاڑنا۔
نَتِنَ ـَ نَتناً و اَنتَنَ: بدبو ہونا، سڑا، تعفن پیدا ہونا۔

ن .... ث

نَثَرَ ـُ نَثراً و نَثَّرَ: بکھیرنا (۲) پھیلانا (۳) نثر میں کلام کرنا۔
اِنتَثَرَ و تَنَاثَرَ: بکھرنا، جھڑنا۔
مُتَنَاثِر: بکھرا ہوا، منتشر۔

ن .... ج

نَجُبَ ـُ نَجَابَةً و اَنجَبَ: نیک خصلت ہونا، شریف الاصل ہونا، لائق ستائش ہونا۔
اَنجَبَ الرَّجُلُ: صاحب اولاد ہونا، شریف اولاد کا باپ ہونا۔
نَجِیب: (۱) ذکی، ہونہار (۲) شریف الاصل ج: نُجَبَاء۔
نَجَابَة: ہوشیاری۔
نَجَحَ ـَ نَجَاحاً: کامیاب ہونا۔
نَجَحَ الاَمرُ: آسان ہونا۔
نَجَحَتِ الخُطَّةُ: اسکیم کامیاب ہونا۔
نَجَّحَ و اَنجَحَ: کامیاب بنانا۔
نَجِدَ ـَ نَجداً: تھکنا (۲) خوف سے پسینہ آنا (۳) پسیجنا۔
اِستَنجَدَ فُلَاناً: مدد لینا، مدد چاہنا۔
نَجد: مدد، اعانت (۲) بلند زمین۔
نَجدَة: امداد، ریلیف (۲) بہادری۔
نَجدَةٌ حَربِیَّة: ریلیف۔
نَجَذَ ـَ نَجذاً: ڈاڑھ سے کاٹنا۔
نَاجِذ: عقل ڈاڑھ، ڈاڑھ ج: نَوَاجِذ۔
نَجَرَ الخَشَبَ ـُ نَجراً: لکڑی چھیلنا، ہموار کرنا۔
نَجَّار: بڑھئی، کارپینٹر۔
نِجَارَة: بڑھئی گری، بڑھئی کا پیشہ، کارپینٹری۔

نَجَزَ ـ نَجزاً: مکمل ہونا، ختم ہونا۔
نَجَزَ ـُ نَجزاً، اَنجز: مکمل کرنا۔
اَنجز الوَعدَ: وعدہ پورا کرنا۔
اَنجز علَی الجَرِیح: زخمی کا دم نکالنا۔
اَنجز الاعمالَ: کاموں کو مکمل کرنا۔
اَنجز الامرَ قَبلَ موعِدِہ: قبل از وقت کام مکمل کرنا۔
نَاجزَہُ: متابلہ کرنا، لڑنا۔
اِنجاز: کامیابی، تکمیل ج: اِنجازات۔
اِنجازُ امرٍ قَبلَ موعِدہ: قبل از وقت کام مکمل کرنا۔
اِنجازُ خُطَطِ التَنمِیَة: ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل۔
اِنجازُ المَشارِیعِ المُخطَّطة: نشان زدہ منصوبوں کی تکمیل، منصوبہ بند کاموں کی تکمیل۔
مُنجزات: کامیابیاں۔
نَجعَ ـ نُجوعاً: فائدہ پہنچانا۔
اِنتجعَ فُلاناً: کسی کے پاس کسی چیز کا طالب ہو کر جانا۔
نُجوع: فائدہ، نفع۔
نَجلٌ: بیٹا (۲) نسل، اولاد ج: اَنجال۔
مِنجل: درانتی ج: مَناجل۔
نَجلزَة: (مع) انگریز بنانا، انگلش بنانا۔
تَنجلز: انگریز بننا، انگلش بننا۔
اِنجلیزِیّ: انگریز ج: اِنجلیز۔
نَجمَ ـُ نُجوماً و اَنجمَ: ظاہر ہونا، طلوع ہونا۔
نَجمَ عَنہ: پیدا ہونا، نتیجہ برآمد ہونا، نتیجہ میں آنا۔
نَجمَ و نَجَّمَ الدَّینَ: قسط وار ادا کرنا۔
نَجمٌ: ستارہ (۲) حصہ، قسط ج: نُجوم۔
نَجمة: ایک ستارہ، اسٹار۔
نَجمةٌ سِینَمائِیَة: فلم اسٹار۔
نَجمُہُ فی صُعُودٍ: اس کا ستارہ عروج پر ہے۔
نَاجم: پیدا شدہ۔
نَاجِمٌ عَن کذا: کسی چیز کے نتیجہ میں آنے والا، کسی چیز کا نتیجہ، پیدا شدہ۔
تَنجِیم: علم نجوم۔
مَنجَم: کان (۲) اصل، سرچشمہ ج: مَناجم۔
مَنجَمُ فَحمٍ: کوئلہ کی کان۔
مَنجَمُ ذَهَبٍ: سونے کی کان۔
حَفرُ المَناجم: کان کنی۔
نَجوَی: رازدارانہ گفتگو۔
مَنجَاة: چھٹکارا (۲) جائے فرار۔

ن .... ح

نَحَبَ ـ نَحباً و نَحِیباً و انتَحَبَ: بآواز رونا، واویلا کرنا۔
نَحب: وقت، عرصہ (۲) موت۔
قَضَی نَحبَه: موت آنا، زندگی ختم ہونا۔
نَحَتَ ـِ نَحتاً: تراشنا۔
نَحتَ الکَلِمَةَ: لفظ بنانا، خاص شکل دینا۔
نَحتَهُ بِلِسانِه: اذیت پہنچانا۔
نَحّات: سنگ تراش، آرٹسٹ۔
مِنحَت: چھینی ج: مَناحِت (۲) بسولی۔
نَحَرَ ـ نَحراً: گلے پر چھری پھیرنا۔

اِنْتَحَرَ: خودکشی کرنا۔
تَنَاحُر: خون خرابہ۔
نَحْس: بدبختی۔
سَاعَةُ نَحْسٍ: منحوس گھڑی۔
نُحَاسٌ اَصْفَر: پیتل۔
نُحَاسٌ اَحْمَرُ: تانبا۔
نَحِيف: کمزور، لاغر جسم۔
نَحَالَة: کمزوری (ک)۔
نَحَلَ، اَنْحَلَ: کمزور بنانا۔
اِنْتَحَلَ مَذْهَباً: مسلک اختیار کرنا۔
نَحْلٌ: شہد کی مکھی و: نَحْلَة۔
نَحْلَة: (وا) لٹو، پھرکی۔
نِحْلَة: عطیہ، بخشش (۲) مذہبی طریقہ، مسلک ج: نِحَل۔
نُحُول: لاغری، بیماری۔
نَحِيل، نَاحِل: لاغر جسم۔
نَحْنَحَ، تَنَحْنَحَ: کھنکھارنا۔
نَحْوٌ: جانب، طرف (۲) رخ (۳) طریقہ (۴) گوشہ ج: اَنْحَاء۔
نَحْوَ: مثل، مانند (۲) تقریباً۔
نَحْوَ الْجُنُوب: ساؤتھ۔
نَحْوَ فُلَان: فلاں کے تئیں۔
عَلٰى نَحْوٍ ضِمْنِيّ: ضمنی طور پر، مبہم طور پر۔
مِنْ نَحْوِي: میری طرف سے۔
نَاحِيَة: (۱) گوشہ، کنارہ، سائڈ (۲) پہلو، جہت ج: نَوَاحٍ۔
النَّاحِيَةُ الْبَيْضَاء: روشن پہلو۔
النَّاحِيَةُ السَّوْدَاء: تاریک پہلو۔

نَحَا ـُ نَحْواً: قصد کرنا (۲) مائل ہونا۔
نَحَا نَحْوَه: نقشِ قدم پر چلنا۔
نَحَا و نَحَّى عَنْ: ہٹانا، علیحدہ کرنا، عہدہ یا ملازمت سے برطرف کرنا۔
نَحَا و نَحَّى الْقُوَّاتِ: فوجوں کو ہٹانا۔
تَنَحَّى عَنْ: ہٹنا، ایک طرف ہونا، ملازمت وغیرہ سے سبکدوش ہونا، باز رہنا۔
تَنَحَّى عَنْهُمْ: چھوڑنا، الگ ہونا۔
تَنَحَّى عَنْ مَكَانِه: اپنی جگہ چھوڑنا۔

ن .... خ

نَخَبَ ـَ نَخْباً و اِنْتَخَبَ: چھانٹنا، چننا، منتخب کرنا، اختیار کرنا، کسی کام یا شخص کا انتخاب کرنا۔
اِنْتَخَبَ الأَعْضَاءَ: ممبر بنانا۔
اِنْتَخَبَ اَعْضَاءَ الْبَرْلَمَان: ممبرانِ پارلیمنٹ کا انتخاب کرنا۔
نُخْبَة: چیدہ، منتخب۔
نَاخِب: انتخاب کنندہ، ووٹر، رائے دہندہ، حق انتخاب رکھنے والا۔
اِنْتِخَابٌ بالإِجْمَاع: بالاتفاق الیکشن۔
اِنْتِخَابٌ حُرٌّ: آزادانہ الیکشن۔
اِنْتِخَابُ رَئِيسِ جَلْسَةٍ: صدرِ جلسہ کا انتخاب۔
اِنْتِخَابُ رَئِيسِ الْجُمْهُورِيَّة: صدر جمہوریہ کا انتخاب۔
اَلاِنْتِخَابُ الشَّعْبِيّ: عوامی ووٹ۔
اِنْتِخَابٌ شَفَوِيّ: زبانی الیکشن۔
الاِنْتِخَابُ الْعَامُّ الْمُبَاشِر: براہ راست

الیکشن۔

الانتخابُ الفردِیّ: نجی الیکشن۔

اِنتِخابٌ فَرعِیّ: ذیلی انتخاب، ضمنی انتخاب، پارلیمنٹ کے کسی ممبر کی جگہ خالی ہونے پر انتخاب۔

اِنتِخَابَاتٌ بَرلَمانِیَة: پارلیمنٹ کے انتخابات۔

اِنتِخَابَاتٌ رِئَاسِیَّة: صدارتی انتخابات۔

الاِنتِخَابَاتُ علی الأبْوَاب: الیکشن سر پر کھڑا ہے۔

اِنتِخَابَاتٌ فی مُنتَصَفِ الدَّورَة: وسط مدتی انتخابات۔

اِنتِخَابَاتٌ نِیَابِیَة: پارلیمنٹری انتخابات۔

اِنتِخَابِیّ: انتخابات سے متعلق، انتخابات کا حق رکھنے والا۔

مُنتَخَب: منتخب، چیدہ۔

نَخَرَ ـُـ نَخراً: ناک میں سانس گھمانا (۲) سوراخ کرنا (۳) مغز کھا کر کھوکھلا کرنا۔

نَخِرَ ـَـ نَخَراً: پرانا اور بوسیدہ ہونا، ریزہ ریزہ ہونا۔

مَنخِر: ناک کا نتھنا ج: مَنَاخِر۔

نَخَّاس: مویشی فروش۔

نِخَاسَة: مویشی کی تجارت (۲) غلام فروشی۔

نَخَلَ الطَّحِینَ ـُـ نَخلاً: چھاننا۔

نَخل: کھجور کا درخت و: نَخلَة۔

نُخَالَةُ الطَّحِینِ: آٹے کا بھوسا۔

مُنخُل: چھلنی ج: مَنَاخِل۔

ن..........د

نَدَبَ ـُـ نَدباً: مردہ کے حالات بیان کر کے رونا۔

نَدَبَ و انتَدَبَ إلی الأمرِ وله: کسی کام کے لئے امیدوار بنانا۔

اِنتَدَبَ اَحداً: نمائندہ بنانا۔

اِنتَدَبه فی شیْئٍ: نمائندگی کرنا۔

اِنتِدَاب: نمائندگی (۲) تفویض۔

اِنتِدَابٌ سِیَاسِیّ او دُوَلِیّ: حکومت کرنے کا عارضی اختیار جو اقوامِ متحدہ کی طرف سے کسی کو دیا جائے۔

مَندُوب: نمائندہ، ڈیلیگیٹ (۲) کمشنر (۳) وکیل، کاموں کا مختار، ایجنٹ۔

مَندُوبٌ اِلَی المُؤتَمَر: کانفرنس میں کسی کا نمائندہ۔

مَندُوبُ الاُمَمِ المُتَّحِدَة: نمائندۂ اقوام متحدہ۔

مَندُوبُ الحُکُومَةِ فی مُقَاطَعَةٍ: کمشنر۔

المَندُوبُ الدَّائِمُ لَدَی الاُمَمِ المُتَّحِدَة: اقوامِ متحدہ میں مستقل نمائندہ۔

مَندُوبٌ سَام: ہائی کمشنر۔

مَندُوبُ الصَّحِیفَة: اخباری نمائندہ۔

مَندُوبٌ عَامّ: عام نمائندہ۔

مَندُوبٌ قَضَائِیّ: عدالتی نمائندہ۔

مَندُوبٌ مُفَوَّض: نمائندۂ مختار، مختارِ کل، وکیلِ مطلق یا وہ سفیر جسے کل اختیارات حاصل ہوں۔

مَندُوبُ نِقَابَة: یونین کا نمائندہ۔

مَنْدُوب ، مُنْتَدَب: منتخب کردہ۔
مَنْدُوبُو الجَرِيْدَة: اخباری نمائندے۔
المَنْدُوبِيَّةُ السَّامِيَة: ہائی کمیشن۔
نَدَحَ ـــ نَدْحاً: کشادہ کرنا۔
مَنْدُوحَة ، مُنْتَدَح: گنجائش۔
لَهُ مَنْدُوحَةٌ عنه: اسے اس کے چھوڑنے کی گنجائش ہے۔
لا مَنْدُوحَةَ عَنْه: اس سے مفر نہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں۔
نَدَّدَ الشئَ: مشہور کرنا۔
نَـدَّدَ بِـفُلان: کسی کے عیوب ظاہر کرنا (۲) مذمت کرنا۔
نَدَّ ـــ نَداً: بھاگنا (۲) آوارہ پھرنا۔
نِدٌّ ، نَدِيْد: نظیر، مثل۔
مَالَهُ نِدٌّ: اس کی کوئی نظیر نہیں۔
نَدَرَ الشئُ ـــ نَدْراً و نُدُوراً: کمیاب ہونا۔
نَدُرَ ـــ نَدَارَةً: نادر ہونا، اچھوتا ہونا۔
نُدْرَة: کمیابی، نایابی، قلت (۲) انوکھاپن، جدت۔
نُدْرَةُ النُّقُود: رقم کی کمیابی۔
نَادِر: نایاب، کمیاب، عجیب۔
نَدَفَ ـــ نَدْفاً: روئی دھننا۔
مَنْدَل: عمل حاضرات۔
فَاتِحُ المَنْدَل: عملِ حاضرات کرنے والا۔
مِنْدِيْل: رومال، دستی ج: مَنَادِل۔
مِنْدَالَة: دُھرمٹ، موگری، سڑک کوٹنے کا انجن۔
نَدِمَ ـــ نَدَماً و نَدَامَةً: پشیمان ہونا۔
نَـادَمَـه مُـنَادَمَةً: ہم لقمہ و ہم نوالا ہونا (۲) ہم نشین ہونا۔

نَدِيْم: ہم نشین، ساتھی ج: نُدَمَاء۔
نَدَا ـــ نَدْواً: جمع ہونا، مجلس میں حاضر ہونا۔
نَدَّى و اَنْدَى: تر کرنا، بھگونا۔
نَادَى: پکارنا، آواز دینا۔
نَادَى بالاَمْر: اعلان کرنا۔
نَادَى بالمَبَادِئ: اصولوں کا اعلان کرنا۔
نَادَى بكذا: مطالبہ کرنا۔
نَـادَى عَـلَـى الاَسْـمَاء لِمَعْرِفَةِ الغِيَاب: حاضری کے لئے نام پکارنا۔
نَادَى على المَبِيْع: آواز لگا کر بیچنا۔
نَـادَوْا بـه مَـلِـكاً: بادشاہ کہنا، بادشاہ کہہ کر پکارنا۔
اِنْتَـدَى و تَـنَادَى القَوْمُ: لوگوں کا مجلس میں جمع ہونا۔
نَدْوَة: جماعت، ایسوسی ایشن (۲) سمپوزیم، سیمینار، مجلس، کنونشن ج: نَدَوَات۔
ـــ عِـلْمِيَّة: علمی کنونشن، سیمینار (۲) لٹریری کلب۔
ـــ البَحْث: پینیل، مجلس مباحثہ۔
ـــ مُـوَسَّـعَة: عمومی مجلس، بڑے پیمانے کی مجلس۔
ـــ نَادٍ ، مُنْتَدَى: کلب، بزم۔
ـــ لَيْلِيَّة: بزم شبینہ، نائٹ کلب۔
نَـادٍ صَـحَـفِـيّ: پریس کلب ج: اَنْدِيَة و نَوَادٍ۔
نَادٍ نَوَوِيّ: ایٹمی کلب۔
نَادِي عَدَمِ الانْحِيَاز: غیر جانبدارانہ کلب۔
نِدَاء: آواز، اپیل۔
نِدَاءٌ تِلِفُونِيٌّ: ٹیلیفون کال۔

نِدَاءٌ عَاقِل: دانشمندانہ نعرہ یا اپیل۔
نِدَاءُ المُتَجَوِّلِين عَلَى المَبِيعَات: پھیری والوں کی آواز۔
نِدَاءَاتُ اسْتِغَاثَة: امداد کی اپیلیں۔
نَدَى، نَدَاوَة: تری (۲) شبنم (۳) سخاوت، کرم۔
نَدِيّ، نَدْيَان: تر، بھیگا ہوا۔
مُنَادَاة: اعلان، منادی (۲) بولی، نیلامی کی بولی۔
مُنْتَدَى: مجلس، کلب ج: مُنْتَدَيَات۔

ن .... ذ

نَذَرَ لِلّٰهِ ـِ نَذْراً و نُذُوراً: منت ماننا۔
نَذَرَ نَفْسَهُ لكذا: وقف کرنا۔
نَذِرَ ـَ نَذَراً: چوکنا ہونا محتاط ہونا۔
أَنْــذَرَه: بتانا، متنبہ کرنا، آگاہ کرنا (۲) اعلان کرنا، الام دینا، نوٹس دینا (۳) انجام سے باخبر کرنا۔
نَذْرٌ، نَذِيرَة: نذرانہ۔
نَــذِيــر: انجام بد سے ڈرانے والا (۲) راہبر (۳) وعید، دھمکی (۴) نذر کیا ہوا۔
نَذِيرُ النَّار: فائر الارم۔
إِنْــذَار: اعلان، اطلاع، نوٹس (۲) تنبیہ، وارننگ۔
إِنْذَارُ تَنْبِيه: الارم۔
إِنْذَارٌ قَضَائِي: سمن عدالت، نوٹس۔
إِنْذَارٌ مُبَكّر: ابتدائی وارننگ۔
إِنْذَارٌ نِهَائِي: آخری نوٹس۔
إِنْذَارٌ بِخَطَر: الارم۔
إِنْــذَارٌ بِــغَــارَةٍ جَوِّيَة: فضائی حملہ کی وارننگ۔
نَــذْل، نَــذِيــل: گھٹیا درجہ کا، بے حیثیت (۲) بزدل۔
نَذَالَة: گھٹیا پن، کمینگی (۲) بزدلی۔
الأنْذَال: کمینے لوگ و: نَذْل۔

ن .... ز

نَزَحَ ـَ نَزْحاً و نُزُوحاً: دور ہونا۔
نَزَحَ البِئْرَ: کنواں خالی کرنا۔
نُزُوحٌ عَنِ الوَطَن: ترک وطن۔
نَازِح: مہاجر، تارک وطن۔
نَــزَعَ ـِ نَزْعاً و انْتَزَعَ و نَزَّعَ: زائل کرنا (۲) برخاست کرنا (۳) کپڑے اتارنا (۴) نکالنا (۵) اکھاڑنا۔
__ السِّلَاحَ عَنْ: نہتا کرنا۔
__ سِلَاحَ اِقْلِيمٍ: کسی صوبہ کو غیر مسلح کرنا۔
__ المِلْكِيَّةَ: ملکیت ختم کرنا، ضبط کرنا۔
__ الكُوبُون: کوپن نکالنا۔
__ إليه نُزُوعاً: مشتاق ہونا۔
__ أَبَاه و إِلَيْه: مشابہ ہونا۔
اِنْتَزَعَ الشَّيْئُ: اکھڑنا، الگ ہونا۔
اِنْتَزَعَ عَنْ: سلب کرنا (۲) حاصل کرنا۔
اِنْــتَــزَعَ الــتَّــنَازُلَات عَنْ: رعایتیں ختم کرنا۔
اِنْتَزَعَ منه الحُرِّيَّةَ: آزادی سلب کرنا۔
اِنْتَزَعَ منه السُّلْطَةَ: اختیار چھین لینا۔
اِنْتَزَعَ منه النُّفُوذَ: اقتدار چھیننا۔
اِنْتَزَعَ الفُرْصَةَ: موقع نکالنا۔
نَــزْعُ الــسِّــلَاح: تخفیف اسلحہ، ہتھیاروں پر پابندی۔

نَزْعُ السِّلاحِ بِصِفَةٍ جُزْئِيَّةٍ: جزوی تخفیفِ اسلحہ۔
نَزْعُ السِّلاحِ بِصِفَةٍ شَامِلَةٍ: ہمہ گیر تخفیفِ اسلحہ۔
نَزْعُ السِّلاحِ الذَّرِيِّ: ایٹمی اسلحہ کی تخفیف۔
نَزْعٌ عَامٌ لِلسِّلاحِ: عمومی تخفیفِ اسلحہ۔
نَزْعٌ لِسِلاحٍ يَشْمُلُ الأَنْوَاعَ: مختلف الانواع تخفیفِ اسلحہ۔
نَزْعَة: رجحان، جذبہ، میلان ج: نزعات۔
نَزْعَةُ الامْتِنَاعِ: علیحدگی پسندی۔
النَّزْعَةُ العُدْوَانِيَّة: حملہ آوری، جارحانہ کارروائی، جارحانہ رجحان۔
نَزْعَةُ المُحَافَظَةِ عَلَى التَّقَالِيد: روایت پسندی۔
نِزَاع: جھگڑا، اختلاف ج: نزاعات۔
نُزُوعٌ إلى: میلان، اشتیاق۔
مُتَنَازَعٌ عَلَيه: تصفیہ طلب۔
مُنَازَعَاتٌ بِشَأْنِ الحُدُود: سرحدی جھگڑے۔
نَزَغَ ــَـ نَزْغاً: بگاڑ پیدا کرنا (۲) شیطان کا ورغلانا۔
نَزَفَ ــِـ نَزْفاً: کنویں کا پانی نکالنا۔
نَزَفَ و أَنْزَفَ: خون بہانا۔
النَّزِيف: خوں ریزی (۲) جریانِ خون۔
النَّزِيفُ الدَّمَوِيّ: خون ریزی۔
اِسْتِنْزَاف: کمزور بنادینا، نچوڑ نکال دینا (۲) خوں ریزی۔
مِنْزَفَة: ڈھیکلی، تالاب وغیرہ سے پانی نکالنے کا ڈول جو بانس میں بندھا ہوتا ہے۔
نَزَلَ ــِـ نُزُولاً: (۱) اترنا (۲) بھاؤ وغیرہ کم ہونا (۳) کم ہونا۔
نَزَلَ عَنْ حَقٍّ: دست بردار ہونا۔
نَزَلَ عَلَى: حملہ کرنا۔
نَزَلَ عَلَى رَأْيِه: اتفاق کرنا۔
نَزَلَ به أَمْرٌ: پیش آنا۔
نَزَلَ بِالقَوْمِ أَوْ عَلَيْهِم: مہمان بننا۔
نَزَلَ فِي المَكَان: مقیم ہونا۔
نَزِلَ الرَّجُلُ ــَـ نَزْلَةً: نزلہ ہونا۔
نَزَّلَ و أَنْزَلَ: اتارنا (۲) کم کرنا، گھٹانا۔
أَنْزَلَ جُنُودَ المِظَلَّات: چھاتا بردار فوج اتارنا۔
أَنْزَلَ الشِّحْنَةَ مِنَ السَّفِينَة: جہاز سے سامان اتارنا۔
أَنْزَلَ القُوَّةَ عِنْدَ مَكَان: فوج اُتارنا۔
أَنْزَلَ بِه عُقُوبَةَ الإِعْدَام: سزائے موت دینا۔
نَازَلَهُ مُنَازَلَةً: میدان میں مقابلہ پر آنا۔
تَنَازَلَ و تَنَزَّلَ عَنْ: دست بردار ہونا (۲) چھوڑنا۔
تَنَازَلَ عَنِ الاجْرَاءَاتِ القَانُونِيَّة: قانونی چارہ جوئی نہ کرنا۔
تَنَازَلَ عَنِ الاقْلِيم: صوبے سے دست بردار ہونا۔
تَنَازَلَ عَنِ الجِنْسِيَّة: حقوق شہریت سے دست بردار ہونا۔
تَنَازَلَ عَنِ السُّلْطَة: اقتدار چھوڑنا۔
تَنَازَلَ عَنِ المُطَالَبَة: مطالبہ چھوڑنا۔

تَنَازَلَ عَنِ المُمتَلَكات: جائیداد سے دست بردار ہونا۔
تَنَازَلَ عَنِ الشيءِ لأحَدٍ: کسی کے حق میں دست بردار ہونا۔
تَنَازَلَ عَنِ العَرْشِ لِصَالِحِ اَحَدٍ: کسی کے حق میں حکومت سے دست بردار ہونا۔
اِسْتَنْزَلَه: دست برداری کی درخواست کرنا۔
اِسْتَنْزَلَ اللَّعَنَاتِ عَلَى: لعنتیں برسانا۔
نُزُل: ہوٹل، سرائے ج: اَنْزَال۔
نَزْلَة وَافِدَة: انفلوئنزا۔
نِزَال: لڑائی، جنگ۔
نُزُولاً عَلَى رَغْبَتِه: کسی خواہش کا احترام کرتے ہوئے۔
فى نُزُولٍ: اُتار پر، بر سرِ انحطاط۔
نَزِيل: مہمان (۲) باشندے ج: نُزَلاء۔
نَزِيلٌ اَجنَبِيٌّ: غیر ملکی باشندہ۔
نَزِيلٌ بِاُجْرَة: کرایہ پر مقیم۔
نَازِلَة: مصیبت ج: نَوَازِل۔
تَنَازُل: رعایت، کنسیشن، لائسنس ج: تنازُلات۔
تَنَازُلِيّ: رعایتی۔
مَنزِل: رہائش گاہ، مکان، ہاؤس، پیلس لاج ج: مَنَازِل۔
مَنزِلُ المُسَافِرِين: مسافر خانہ۔
مَنزِلَة: مقام، مرتبہ، پوزیشن، حالت ج: مَنَازِل۔
مَنزِلَة اِجتِمَاعِيَّة: سماجی پوزیشن۔
مَنزِلِيّ: اندرونی، گھریلو، خانہ ساز۔

مُتَنَازِل: دست بردار۔
المُتَنَازَلُ لَهُ أو إلَيهِ: جس کے حق میں دست برداری ہو، جس کے ذمے کوئی املاک یا حق کیا جائے، جس کے نام منتقل کیا گیا۔
المُتَنَازَلُ عَنهُ: جس چیز سے دست برداری دی جائے۔
نَزَاهَة: پاکی، صفائی (۲) براءت۔
تَنَزَّهَ: تفریح کرنا۔
نَزَّهَ: بری قرار دینا۔
نَزَّهَ التَّارِيخ وغيرَه: پاکیزہ بنانا۔
نُزْهَة: تفریح۔
نُزْهَة خَلَوِيَّة: ہواخوری۔
نَزِيه: مبرا، پاک۔
مُنتَزَه: مُتَنَزَّه: پارک، تفریح گاہ۔
المُتَنَزَّهُ الوَطَنِي: نیشنل پارک۔

ن .... س

نَسَب، نِسبَة: رشتہ داری، آپس داری، تعلق۔
نِسبَة: شرح، تناسب (۲) اوسط ج: نِسَب۔
نِسبَةُ البَطَالَة: بیروزگاروں کا تناسب۔
نِسبَةُ التَّبَادُل: تبادلہ (زر) کا تناسب۔
نِسبَةُ زِيَادَةِ السُّكَّان: اضافۂ آبادی کا تناسب۔
نِسبَة عَالِيَة: زبردست تناسب۔
نِسبَةُ المَوَالِيد: شرح پیدائش۔
نِسبَة مِئوِيَّة: فی صدی تناسب، پرسنٹیج۔
نِسبِيّ: اضافی، نسبتی، متناسب۔
نِسبِيّاً: نسبتاً، کسی قدر۔
نَسِيب: رشتہ دار، نسبتی ج: نُسَبَاء و اَنسِبَاء۔
اِنتِسَابٌ إلَى مَدرَسَة: داخلہ۔
مُنَاسِب: رائٹ، درست۔

فی غَیْرِ الوَقْتِ المُنَاسِب: نامناسب وقت میں۔
مُنَاسَبَة: تعلق (۲) سلسلہ (۳) سبب (۴) موافقت (۵) تقریب، موقع ج: مُنَاسَبَات۔
مُنَاسَبَةٌ وَطَنِیَّة: قومی تقریب۔
مُنَاسَبَةٌ اِجْتِمَاعِیَّة: سماجی تقریب۔
بِهٰذِهِ المُنَاسَبَة: اس سلسلے میں، اس موقع پر۔
نَسَجَ ـِ نَسْجاً: بُننا۔
نِسَاجَة: بُنائی، بُنائی کا پیشہ۔
نَسِیْج: کپڑا ج: اَنْسِجَة۔
نَسِیْجُ الهِنْد: ہندوستان کا بنا ہوا کپڑا۔
اَنْسِجَةُ الدِّمَاغ: دماغ کی نسیجیں۔
مِنْسَج: کرگہ (۲) کپڑا بننے کی کھڈی، ہینڈلوم۔
مِنْسَجٌ آلِیّ: کپڑا بننے کی مشین۔
مِنْسَجُ التَّطْرِیْز: ایمبرائڈری مشین۔
مَنْسِج: کپڑے کا کارخانہ ج: مَنَاسِج۔
مَنْسُوْجَات: کپڑے۔
مَنْسُوْجَاتٌ قُطْنِیَّة: سوتی کپڑے۔
نَسَخَ ـَ نَسْخاً: کینسل کرنا، منسوخ کرنا (۲) کاپی بنانا، نقل کرنا۔
نَسْخ: منسوخی (۲) نقل نویسی۔
نَسْخُ الوَثَائِق: دستاویز نویسی، عرضی نویسی۔
نُسْخَة: کاپی، نقل، مثنی، ڈپلی کیٹ ج: نُسَخ۔
نُسْخَةٌ اَصْلِیَّة: اصل کاپی۔
نُسْخَةٌ ثَانِیَة: ڈپلی کیٹ۔
نُسْخَةٌ طِبْقَ الاَصْل: نقل مطابق اصل۔
نُسْخَةٌ فُوتُو غرَافِیَّة (عَنْ شَیْءٍ): فوٹو کاپی۔
النُّسْخَةُ المَخْطُوطَة: مخطوطہ۔
نُسْخَةٌ مُطَابِقَة: ٹرو کاپی۔
نُسْخَةٌ مَطْبُوعَة: پرنٹ کاپی۔
نُسَخٌ مَخْطُوطَة: مخطوطات۔
نَاسِخ: کاتب، نقل نویس۔
تَنَاسُخُ الاَرْوَاح: آواگون۔
مِنْسَاخ: پنٹوگراف۔
نَسْرٌ: گدھ ج: نُسُور۔
نُسُوْرُ الجَوّ: ہوائی فوج کے سپاہی۔
نَسَفَ ـِ نَسْفاً: عمارت گرانا، ڈائنامیٹ سے اڑانا، بارود سے اڑانا، بم سے اڑا دینا۔
نَسَفَ و اَنْسَفَ: ہلاک کرنا، تباہ کرنا۔
نَسَفَ الجِبَالَ: پہاڑ کو ڈائنامیٹ سے اڑا دینا۔
نَسَفَ المُبَادَرَةَ: مشن کو ناکام بنانا۔
نَسَفَ المُخَطَّطَاتِ الصِّهْیَوْنِیَّة: صیہونی منصوبوں کو ناکام بنانا۔
نَسَّافَة: تارپیڈو کشتی۔
مِنْسَف، مِنْسَفَة: بڑی چھلنی۔
مِنْسَفَة (۲): عمارت منہدم کرنے کی مشین، بلڈوزر۔
نَسَق: ترتیب، نظام۔
تَنْسِیْقُ المَوَاقِف: پالیسیوں میں یکسانیت، طریقہ کار میں یکسانیت پیدا کرنا۔
تَنَاسُق: یکجہتی، یکسانیت۔
تَنَاسَقَ مَعَ شَیْءٍ: جوڑ کھانا، لگنا۔
المُنْسِق: منتظم، مرتب۔
مُنَسَّق: باضابطہ، بالترتیب، آراستہ۔

نُسُک: عبادت۔
نُسّاک: عابدوزاہدلوگ و: نَاسِک۔
نَسِیم: خوشگوارہوا ج: نِسَام۔
تَنَسَّمَ: سانس لینا(۲)خبر کا پتہ لگانا۔
نَسَمَة: انسان(۲)جاندار(۳)ہوا کا جھونکا ج: نَسَمات۔
نُسوِیّ، نِسَائِیّ: زنانہ۔
الحَرَكَةُ النِسَائِيَة: تحریکِ نسواں۔
نِسْیَان: بھول،فراموشی۔
نِسْیَانُ الجَمِیل: احسان فراموشی۔

ن............ش

نَشَأَ ــ نَشْأً: پیداہونا(۲)بڑھنا(۳)تربیت پانا۔
نَشَأَ الفَرَاغُ: خلا پیداہونا۔
نَشَأَ تَنْشِئَةً: تربیت کرنا۔
نَشَأَ جِیلاً: نسل تیار کرنا۔
أَنْشَأَ: پیدا کرنا،بنانا،قائم کرنا،ایجادکرنا۔
أَنْشَأَ الصُّنْدُوق لكذا: فنڈ قائم کرنا۔
أَنْشَأَ علاقَاتٍ تِجَارِيَّةً: تجارتی تعلقات قائم کرنا۔
أَنْشَأَ علاقَاتٍ دِبْلُوماسِيَّةً: سفارتی تعلقات قائم کرنا۔
أَنْشَأَ قَاعِدَةً حَرْبِيَّةً: فوجی اڈا بنانا۔
أَنْشَأَ مَحطَاتٍ للقوى الكَهرَبَائِيَة: بجلی کے پاور اسٹیشن بنانا۔
أَنْشَأَ مُؤَسَّسَةً: ادارہ قائم کرنا۔
نُشُوء: ارتقا(۲)پیدائش۔
نَظَرِيَّةُ النُشوءِ و الارتقاء: نظریۂ ارتقا۔

نَشْأَة: ساخت،پرداخت،نمود،اٹھان،تعمیر،زندگی، اصل،بنیاد۔
النَّشْءُ: نسل۔
النَّشْءُ الجَدِيد: نئی نسل۔
إِنْشَاء: ایجاد(۲)تاسیس(۳)تخلیق (۴)تالیف(۵)انشانگاری،طرزنگارش (۶)تعمیر۔
إِنْشَائِيّ: تعمیری۔
مَقَالَةٌ إِنْشَائِيَة: تخلیقی مضمون(۲) اڈیٹوریل۔
مَنْشَأ: جڑ،سرچشمہ۔
مُنْشِئ: موجد(۲)بانی(۳)مؤلف (۴)انشاپرداز(۵)اڈیٹر۔
مُنْشَأة: فرم،اسٹور،ادارہ(۲)عمارت (۳) بلند نشانِ راہ، بلند کشتی ج: مُنْشَآت۔
مُنْشَأةٌ تِجَارِيَّة: تجارتی ادارہ۔
مُنْشَأةُ التَّعْبِئَة: پیکنگ فرم۔
مُنْشَآت: ادارے،تنصیبات۔
مُنْشَآتٌ اِقْتِصَادِيَّة: اقتصادی ادارے۔
المُنْشَآتُ البَحْرِيَّة: بحری تنصیبات۔
مُنْشَآتٌ حُكُومِيَّة: سرکاری ادارے۔
المُنْشَآتُ السِلْسِلِيَّة: شاخوں والے اسٹور۔
مُنْشَآتُ السِّفَارة: سفارتی گردوپیش کے مقامات۔
مُنْشَآتٌ سِیَاحِيَّة: سیاحتی ادارے۔
نَشِبَ ــ نَشَباً: اٹکنا،لگنا۔
نَشِبَ في: الجھنا،پھنسنا۔

نَشِبَتِ الحَرْبُ بَيْنَ الدَّوْلَتَيْنِ: دوملکوں میں لڑائی ہونا۔
نَشِبَ الخِلَافُ بَيْنَ: اختلاف پیدا ہونا۔
نَشِبَ الصِّرَاعُ بَيْنَ: کشمکش ہونا۔
نَشِبَتِ المَعْرَكَةُ: جنگ چھڑنا۔
نَاشَدَهُ مُنَاشَدَةً: التجا کرنا، اپیل کرنا۔
نَشِيدٌ، أُنْشُودَةٌ: ترانہ، گانا ج: أَنَاشِيدُ۔
نَشِيدٌ وَطَنِيٌّ: قومی ترانہ۔
نُشَادِر: نوشادر۔
مَنْشُودٌ: مقصود، مطلوب۔
المُنَاشِد: اپیل کنندہ۔
نَشَرَ نَشْرًا: پھیلانا، شائع کرنا (۲) پھاڑنا، چیرنا۔
نَشَرَ الخَشَبَ: آرا چلانا۔
نَشَرَ الظُّلْمَ والطُّغْيَانَ: آفت برپا کرنا۔
نَشَرَ الأَفْكَارَ: خیالات کو پھیلانا۔
نَشَرَ اليَوْمِيَّاتِ: ڈائری شائع کرنا۔
اِنْتَشَرَ الاضْطِرَابُ: فساد پھیلنا۔
اِنْتَشَرَ الصَّوْتُ: آواز پھیلنا۔
اِنْتَشَرَ الفَسَادُ دَاخِلَ الحِزْبِ: پارٹی میں پھوٹ پڑنا۔
اِنْتَشَرَتِ الشَّائِعَةُ عَنْ كَذَا: افواہ پھیلنا۔
نَشْر: اشاعت، براڈ کاسٹنگ، تشہیر۔
نَشْرَة: (۱) اعلان (۲) اشاعت، ایڈیشن (۳) سرکلر، منشور، پروگرام (۴) نشریہ، بلیٹن (۵) پمفلٹ ج: نَشَرَات۔
النَّشْرَةُ الأَخْبَارِيَّةُ: نیوز بلیٹن، اخباری نشریہ۔
نَشْرَةٌ أُسْبُوعِيَّةٌ: ہفت روزہ اشاعت۔
نَشْرَةُ البَلَاطِ: کورٹ سرکلر۔
نَشْرَةٌ بِنِطَاقٍ وَاسِعٍ: وسیع پیمانہ پر اشاعت۔
نَشْرَةٌ رَسْمِيَّةٌ: سرکاری اعلان۔
النَّشْرَةُ العَسْكَرِيَّةُ: فوجی اعلامیہ۔
النَّشْرَةُ المَحَلِّيَّةُ: مقامی نشریہ۔
نَشْرَةُ مَسَاءٍ: ایوننگ ایڈیشن۔
نَشْرَةٌ مِنَ الجَرِيدَةِ: اشاعت۔
نَشْرَةٌ يَوْمِيَّةٌ: یومیہ اشاعت۔
نَشَرَات: ہینڈ بل، لٹریچر۔
النَّاشِر: پبلشر۔
نَاشِرُ الكُتُبِ: بک پبلشر۔
نَشَّارُ الخَشَبِ: لکڑیاں چیرنے والا۔
نُشَارَةُ الخَشَبِ: لکڑیوں کا برادہ۔
مِنْشَار: آرا، آری ج: مَنَاشِير۔
مِنْشَارٌ تِمْسَاحٌ: ہاتھ کی آری۔
مَنْشُور: سرکلر، گشتی حکم (۲) عام اعلان نامہ (۳) کتابچہ۔
مَنْشُورٌ تِجَارِيٌّ: تجارتی کتابچہ۔
مَنْشُورٌ مِنْ مَلِكٍ أَوْ حَاكِمٍ: فرمان، آرڈیننس۔
مَنْشُورَات: کتابچے، پمفلٹ، لٹریچر۔
نُشُوز: نافرمانی۔
نَشَّطَ: تیز کرنا، بڑھانا، سرگرم کرنا، چست و فعال بنانا، فروغ دینا۔
نَشَّطَ الحَمْلَةَ: مہم تیز کرنا۔
نَشَّطَ العَمَلَ: کام کو فروغ دینا۔
نَشَاط: (۱) بشاشت (۲) مستعدی، چستی، فعالیت (۳) سرگرمی، جوش، حرکت، چہل پہل ج: نَشَاطَات۔
نَشَاطٌ تَآمُرِيٌّ: سازشی سرگرمی۔

نَشَاطٌ تَبشِيرِيٌ: عیسائی تبلیغی مشن۔
نَشَاطٌ تِجَارِيٌ: تجارتی سرگرمی۔
نَشَاطُ التَّنظِيم: تنظیم کا فعال ہونا۔
نَشَاطُ حَرَكَةِ التِّجَارَة: تجارتی سرگرمی تیز ہونا۔
نَشَاطُ السُّوق: بازار میں چہل پہل ہونا۔
نَشَاطٌ سِيَاسِيٌ: سیاسی سرگرمی۔
النَّشَاطُ الصِّنَاعِيُ: صنعتی ترقی۔
نَشَاطٌ فِدَائِيٌ: سرفروشانہ سرگرمی۔
نَشَاطَات: سرگرمیاں۔
النَّشَاطَاتُ الاجتِمَاعِيَة: سوشل سرگرمیاں۔
النَّشَاطَاتُ المُستَنكَرَة: ناپسندیدہ سرگرمیاں۔
نَشَاطَاتٌ مُكَثَّفَة: زبردست سرگرمیاں۔
نَشِيط: چست، پھرتیلا، سرگرم، چاق و چوبند۔
نَاشِيط: بڑی مصروف۔
اَنشِطَة: سرگرمیاں، سرگرم ادارے۔
و: نَشَاط۔
اُنشُوطَة: گرہ، پھانسا ج: اَنَاشِيط۔
مُنشِط: ٹانک۔
نَشَفَ ـُـ نَشفاً: خشک ہونا (۲) جذب ہونا (۳) خشک کرنا۔
نَشَّاف: جاذب، بلاٹنگ پیپر۔
نَشَّافَةُ، مِنشَفَة: تولیہ۔
نَشَافَةُ مَكتَب: بلاٹنگ پیڈ۔
نَاشِف: خشک (۲) جاذب، خشک کرنے والا۔
نَشُوق: نسوار۔
نَشِقَ ـَـ نَشقاً و تَنَشَّقَ و استَنشَقَ: سانس کے ذریعہ ناک میں چڑھانا، سونگھنا۔

نَشَلَ ـُـ نَشلاً: کھینچنا، نکالنا (۲) بچانا (۳) چھیننا۔
نَشَلَ و انتَشَلَ الجُثَث: لاشیں نکالنا۔
نَشَلَ و انتَشَلَ طَاقَمَ السَّفِينَة: جہاز کے عملہ کو باہر نکالنا۔
نَشَّال: جیب تراش۔
نَشو، نَشوَة: مدہوشی، نشہ، کیف و سرور۔
نَشِيَ ـَـ و انتَشىٰ: نشہ میں ہونا۔
نَشَا، نَشَاء: نشاستہ۔
نَشَاءُ المَرنُطَة: اراروٹ۔
نَشوَان: مدہوش، سرشار، مخمور۔

ن.............ص

نَصَبَ ـِـ نَصباً: قائم کرنا، کھڑا کرنا۔
نَصَبه عَلَى العَرش: تخت نشین کرنا۔
نَصَبَ و نَصَّبَ: عہدہ پر فائز کرنا، تقرر کرنا۔
نَصَبَ له و نَاصَبَهُ الحَرب: لڑائی مول لینا۔
نَصَبَ له العِدَاء: دشمنی کرنا۔
نَصَبٌ: بیماری (۲) تھکان۔
نَصبٌ: مجسمہ (۲) بت ج: اَنصَاب۔
نُصبٌ تِذكَارِيٌ: یادگار مجسمہ۔
نُصبَة: نشانِ راہ، سنگ میل ج: نُصَب۔
نَصبَة: علامت نصب (ـَـ)۔
نِصَاب: اصل (۲) مرجع (۳) مقررہ تعداد یا مقدار ج: نُصُب۔
نِصَابٌ قَانُونِيٌ: کورم۔
نَصِيب: حصہ، شیئر، پارٹ (۲) قسمت، چانس ج: اَنصِبَه۔
يَا نَصِيب: لاٹری۔

تَنْصِیب: نصب کاری، اپائنٹ منٹ۔
مَنْصِبٌ: (۱) عہدہ، مرتبہ (۲) پوسٹ، اسامی ج: مَنَاصِب۔
مَنْصِبُ الأُستاذ: پروفیسری۔
مَنْصِبُ الجَنْرَال: جنرل شپ۔
مَنْصِبُ الدِّكْتَاتُور: ڈکٹیٹر شپ۔
مَنْصِبُ اللِّوَاء: جنرل شپ۔
تَوَلّٰی مَنْصِباً: عہدہ سنبھالنا۔
نَصِیحَة: صلاح، مشورہ، ہمدردی۔
مُنَاصَحَة: ہمدردی۔
نُصرَةٌ لِلحَقّ: حق نوائی، حق پسندی۔
نَصْرَانِیّ: کرسچن۔
نَصِیْر، نَاصِر: مددگار، ہم نوا، حامی، پشت پناہ، طرفدار، حمایتی ج: نُصَراء و اَنْصَار۔
اِنْتِصَارٌ: کامیابی، فتح یابی۔
اِنْتِصَارٌ جَبّارٌ: زبردست کامیابی۔
اِنْتِصَارٌ کَاسِح: ہمہ گیر کامیابی۔
تَنْصِیر: نصرانی بنانا۔
مُنَاصَرَة: ہمنوائی، سپورٹ، حمایت، تائید۔
المُنَاصِرُ لِلدِّیمُقرَاطِیَّة: جمہوریت کا حامی۔
مُنْتَصِر: کامیاب، فاتح۔
نَصَّ عَلٰی ـُ نَصّاً: صراحت کرنا، وضاحت کرنا، تصریح کرنا (۲) تعیین وتحدید کرنا۔
نَصٌّ: صراحتِ معنی (۲) صریح عبارت، اصل عبارت (۳) طرزِ تعبیر (۴) متن، خلاف شرح (۵) شرط ج: نُصُوص۔
النَّصُّ الأَصْلِیّ: اصل متن۔
نَصٌّ حَرْفِیّ: اصل متن۔
نُصُوصُ الاِتِّفَاق: معاہدہ کی دفعات۔
مِنَصَّة: اسٹیج، ڈائس (۲) تقریر کا پلیٹ فارم۔
مِنَصَّةُ الإِطْلَاق (کَإِطْلَاقِ الصَّارُوخ): پیڈ۔
مِنَصَّةُ الخِطَابَة ج: مِنَصَّات: اسٹیج۔
مِنَصَّة فِی قَاعَة: ڈائس۔
مَنْصُوصٌ عَلَیْه: متعین، واضح، مصرح۔
نَصَعَ ـَ نُصُوعاً: ظاہر وروشن ہونا۔
نَاصِع: ظاہر، روشن، واضح۔
نِصْفٌ (غَیْرُ کَامِلٍ أو جُزْئِیّ): ہاف، آدھا۔
نِصْفُ أُسْبُوعِیّ: چہار روزہ۔
نِصْفُ سَنَوِیّ: ششماہی۔
مُنْتَصَفُ اللَّیْل: آدھی رات۔
مُنَصَّف (غَیْرُ کَامِلِ النُّضج: ادھ کچرا۔
تَنَصَّلَ مِنْ: نکلنا، الگ ہونا (۲) بری ہونا۔
نَصْلٌ: چاقو وغیرہ کا پھل، بلیڈ ج: نِصَال۔
نَاصِیَة: پیشانی (۲) کونہ ج: نَوَاصٍ و نَاصِیَات۔

ن.........ض

نَضَبَ ـُ نُضُوباً: پانی کا خشک ہونا (۲) ختم ہونا (۳) مرنا۔
نَضَبَ مَاءُ وَجْهِه: چہرہ کی رونق ختم ہونا۔
نَضَبَتِ المَوَارِدُ: ذرائع آمدنی ختم ہونا۔
نَاضِب: خشک، بے آب، بے خیر (۲) بے نتیجہ (۳) بے نفع۔

نضج ۔ نُضْجاً: پکنا، تیار ہونا، پختہ ہونا۔
نضِجَتِ الفُرْصَةُ: صحیح وقت آجانا۔
نضِجتِ المسْألةُ: مسئلہ کا تیار ہوجانا۔
ناضِج: پختہ، تیار۔
نَضَحَ بالماءِ ۔ نَضْحاً: تر کرنا، پانی کے چھینٹے دینا (۲) پیاس بجھانا (۳) برتن کا ٹپکنا (۴) جسم سے پسینہ نکلنا۔
نَضَّاحَة: آب پاش۔
نَضَدَ ۔ نَضْداً: ترتیب سے لگانا (۲) تہ بہ تہ رکھنا۔
نَضَد، نُضُد: دوکان کا کاؤنٹر۔
تَنْضِيدُ احْرُفٍ: کمپوزنگ۔
مُنَضِّدُ الحُرُوف (فى مِطْبَعَةٍ): کمپوزیٹر۔
مِنْضَدَة ج: مَنَاضِد: تپائی۔
مِنْضَدَةُ كُتُب: کتابوں کی الماری۔
نَضُرَ ۔ نَضَارَةً: تروتازہ ہونا، شگفتہ ہونا (۲) رنگ کا بھڑکدار ہونا۔
نَضَلَ ۔ نَضْلاً: غالب آنا، بازی لے جانا۔
نَاضَلَهُ مُنَاضَلَةً: مقابلہ کرنا۔
نِضَال: سرفروشی، جدوجہد، مقابلہ، جہاد، لڑائی۔
نِضَالٌ سِيَاسِىّ: سیاسی جدوجہد۔
النِّضَالُ ضِدَّ الاسْتِعْمَار: سامراج مخالف جدوجہد۔
نِضَالٌ عَادِل: منصفانہ جدوجہد۔
نِضَالٌ مُسَلَّح: مسلح جدوجہد۔
نِضَالِىّ: سرفروشانہ، مجاہدانہ، برسر پیکار، جدوجہد کرنے والا۔
مُنَاضِل: جانباز، سپاہی، مجاہد، سرفروش، برسر پیکار۔

ن .... ط

نَطَحَ ۔ نَطْحاً: سینگ مارنا۔
نَاطِحَةُ السَّحَاب: فلک بوس عمارت ج: نَاطِحَاتُ السَّحَاب۔
نِطْس، نِطَاسِىّ: عالم (۲) طبیب، ماہر طبیب ج: نُطُس۔
نَطَّ ۔ نَطّاً و نَطِيطاً: اچھلنا، کودنا۔
نِطْع: چرمی فرش ج: نُطُوع۔
نَطَقَ ۔ نُطْقاً: بولنا۔
نَطَقَ بالحُكْم: فیصلہ سنانا۔
نَطَقَ بِلِسَانِ احَدٍ: ترجمانی کرنا۔
اِسْتَنْطَقَ فُلاناً: بیان لینا (۲) جواب طلب کرنا۔
نُطْق: تلفظ، بولی۔
نِطَاق: پیٹی (۲) کمربند (۳) حد (۴) حلقہ، دائرہ، پیمانہ (۵) علاقہ۔
عَلَى النِّطَاقِ الجَمَاهِيرِىّ: عوامی سطح پر۔
عَلَى نِطَاقٍ ضَيِّق: چھوٹے پیمانہ پر۔
عَلَى نِطَاقٍ وَاسِع: بڑے پیمانہ پر۔
فى نِطَاقِ كَذا: کسی کے ضمن میں۔
نَاطِق: بولنے والا۔
النَّاطِقُ بِلِسَانِ هَيْئَةٍ: اسپیکر۔
النَّاطِقُ بِلِسَانِ احَدٍ: ترجمان۔
النَّاطِقُ بِلِسَانِ الحُكُومَة: سرکاری ترجمان۔
النَّاطِقُ الرَّسْمِىّ: سرکاری ترجمان۔
النَّاطِقُ العَسْكَرِىّ: فوجی ترجمان۔

صُورَةٌ ناطِقَة: بولتی تصویر۔
اِسْتِنْطَاق: جواب طلبی۔
مِنْطَقَة ج: مَنَاطِق: حلقہ، زون (۲) علاقہ، ایریا، شہر کا حصہ، خطۂ زمین (۳) ضلع، ڈسٹرکٹ (۴) صوبہ۔
مِنْطَقَةُ الاِنْتِدَاب: حدودِ اقتدار۔
مِنْطَقَةٌ تِجَارِيَّةٌ حُرَّة: آزاد تجارتی ایریا۔
مِنْطَقَةُ التَّوَتُّر: بے چینی اور تناؤ کا علاقہ، کشیدگی کا علاقہ۔
مِنْطَقَةٌ جُمْرُكِيَّة: کسٹم ایریا۔
مِنْطَقَةٌ حَارَّة: گرم علاقہ۔
المِنْطَقَةُ الحَرَام: ممنوع علاقہ، محفوظ علاقہ جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہ ہو۔
مِنْطَقَةٌ حُرَّة: فری علاقہ (جہاں چنگی نہ لگتی ہو)۔
مِنْطَقَةُ السَّلَام: خطۂ امن۔
مِنْطَقَةٌ عَازِلَة: غیر جانبدار علاقہ، بفر علاقہ، محفوظ علاقہ۔
مِنْطَقَةُ العَمَل: سرکل۔
المِنْطَقَةُ الفَقِيرَة: سلم ایریا۔
مِنْطَقَةٌ مُتَنَازَعٌ عَلَيْهَا: متنازع فیہ علاقہ۔
مِـ ـقَةٌ مَنْزُوعَةُ السِّلَاح: غیر مسلح علاقہ۔
مِنْطَقَةٌ مَنْكُوبَة: مصیبت زدہ علاقہ۔
مِنْطَقَةُ النُّفُوذ: اثر و رسوخ کا علاقہ، دائرۂ اختیار۔
مِنْطَقَةُ الوَظِيفَة: ملازمت ایریا۔

مِنْطَقِي: زونل، علاقائی۔
المَنَاطِقُ البُرْكَانِيَة: آتش فشاں علاقے۔
مَنَاطِقُ التَّوَتُّر: کشیدگی کے علاقے۔
مَنَاطِقُ حَضَرِيَة: شہری علاقے۔
مَنَاطِقُ رِيفِيَة: دیہی علاقے۔
المَنَاطِقُ المُصَابَة: متاثرہ علاقے۔
مَنَاطِقُ مُصَابَةٌ بِالكَسَاد: کساد بازاری کے شکار علاقے۔
مَنَاطِقُ النُّفُوذ: اثر و رسوخ والے علاقے۔

ن.............ظ

نَظَرَ ـُ نَظَراً: دیکھنا۔
نَظَرَ إِلَى: نگاہ اٹھانا (۲) گھورنا۔
نَظَرَ فِي: غور کرنا۔
نَظَرَ لَهُمْ: توجہ دینا۔
نَظَرَ بِعَيْنِ الحَسْرَة: حسرت کی نگاہ سے دیکھنا۔
اُنْظُرْ خَلْفَه: پُشت پر دیکھیے۔
تَنَظَّرَ: توقف کرنا (۲) غور کرنا۔
نَظْرَةُ تَفَاؤُل: امید بھری نگاہ ج: نَظَرَات۔
نَظْرَةٌ ثَابِتَة: پختہ نظر، گہری نظر۔
نَظْرَةٌ عَابِرَة: سرسری نظر۔
نَظْرَةٌ غَاضِبَة: غضب آلود نگاہ۔
نَظَرِيَّة: تھیوری ج: نَظَرِيَّات۔
نَظَّارَةٌ حَرْبِيَّة: میدانی دوربین۔
نَظَّارَاتِي: چشمہ فروش۔
نَظَارَة: انتظام، نظامت (۲) وزارت۔
نَاظِر: ڈائرکٹر، منیجر (۲) ناظم، نگراں، انسپکٹر

ج: نُظَّار۔
نَاظِرُ مَحطَةِ سِكَّةٍ حَدِيدِيَّةٍ: اسٹیشن ماسٹر۔
نَاظِرُ مَدرَسَة: ہیڈ ماسٹر۔
نَاظِرَة: آنکھ ج: نَوَاظِر۔
نَظِير: ہم رتبہ ج: نُظَرَاء۔
مُنَاظَرَة: بحث، ڈبیٹ۔
مُنَاظِر: سپروائزر۔
مَنظَر: سین ج: مَنَاظِر۔
مَنظَرٌ تِلِفِزيُونِيّ: سین۔
مَنظَرٌ جَمِيل: سینری، خوبصورت منظر۔
مَنظَرٌ رِوَائِيّ: ڈرامائی سین۔
مَنظَرٌ سِينَمَائِيّ: سین۔
مِنظَار: آنکھ پر لگانے کا شیشہ، دوربین ج: مَنَاظِير۔
مِنظَارٌ حَربِيّ: فیلڈ گلاس، جنگی دوربین۔
مِنظَارٌ قَنَّاص: کیچ کرنے والی دوربین۔
نَظَافَة: صفائی (ک)۔
تَنظِيف: آراستگی۔
التَّنظِيفُ بالفُرشَاة: برش پھیرنا۔
التَّنظِيفُ الجَافُّ: ڈرائی کلینگ۔
تَنظِيفُ المَلَابِس: ڈرامائی کلینگ، کپڑوں کو صاف کرنا۔
مُنَظِّفُ الأَقمِشَة: دھوبی، کپڑا دھونے والا۔
نَظَّمَ: منظم کرنا (۲) ایڈجسٹ کرنا (۳) انتظام کرنا۔
نَظَّمَ الاِستِثمَارَ الصِّنَاعِيّ: صنعتی سرمایہ کاری کو منظم کرنا۔
نَظَّمَ الإِضرَاب: ہڑتال کرانا۔
نَظَّمَ التَّعَاقُد: معاہدہ کرانا۔
نَظَّمَ الزِّيَارَة: ملاقات کرانا، ملاقات کا انتظام کرنا۔
نَظَّمَ المُبَاحَثَات: بات چیت کا انتظام کرنا۔
اِنتَظَمَ: منسلک ہونا (۲) مرتب وباسلیقہ ہونا۔
اِنتَظَمُوا فِي خُطَّةٍ وَاحِدَة: ایک منصوبہ کے تحت اکٹھا ہونا۔
نِظَام: طریقہ (۲) مذہب (۳) ترتیب، نظم و نسق، ڈسپلن (۴) نظام، سسٹم، قاعدہ، اصول وقواعد ج: نُظُم و اَنظِمَة۔
النِّظَامُ الاِتِّحَادِيّ: وفاقی نظام، اصول وفاقیت۔
النِّظَامُ الاِجتِمَاعِيّ: سوشل سسٹم، اصولِ معاشرت، معاشرتی نظام۔
نِظَامُ الأَجرِ و العَلَاوَات: تنخواہوں اور الاؤنس کا نظام۔
نِظَامُ الإِشَارَاتِ الهَادِيَة (فِي السِّكَّةِ الحَدِيدِيَّة): بلاک سسٹم۔
نِظَامُ الأَقدَمِيَّة: سینیارٹی سسٹم۔
النِّظَامُ الإِقطَاعِيّ: جاگیریت، طریقہ جاگیرداری، جاگیردارانہ نظام۔
نِظَامُ البَرِيد: ڈاک سسٹم۔
نِظَامُ البِطَاقَاتِ التَّموِينِيَّة: راشن کارڈ سسٹم۔
نِظَامُ التَّعوِيضَات: معاوضہ سسٹم۔
نِظَامُ تَكلِفَة: لاگت یا خرچ سسٹم۔
نِظَامُ حَظرِ التَّجَوُّل: کرفیو سسٹم۔
نِظَامُ الحُكمِ الدُّستُورِيّ: آئینی نظام

حکومت۔
نِظَامُ الحُكْمِ الذَّاتِيّ: خودمختارانہ نظامِ حکومت۔
نِظَامُ الحُكْمِ القَائِم: موجودہ نظام حکومت۔
نِظَامُ الحُكْمِ المُطْلَق: مطلق العنان حکومت۔
نِظَامُ الدَّرَجَات: گریڈ سسٹم۔
نِظَامُ الدِّفَاع: دفاعی نظام۔
نِظَامُ الرَّوَاتِب: تنخواہوں کا نظام۔
نِظَامٌ رِئَاسِيّ: صدارتی نظام۔
النِّظَامُ الشُّيُوعِيّ: کمیونسٹ نظام۔
نِظَامُ الصِّنَاعَاتِ المَنْزِلِيَّة: گھریلو صنعتوں کا نظام۔
نِظَامُ الطَّبَقَات: طبقاتی نظام۔
نِظَامٌ عُشْرِيّ: اعشاری نظام۔
نِظَامُ العَمَل: روٹین۔
نِظَامُ القَيْدِ المُبَاشِرِ من المُسْتَنَدَات: سلپ سسٹم۔
نِظَامُ القَيْدِ المُزْدَوِج: ڈبل انٹری سسٹم۔
النِّظَامُ المِتْرِيّ: میٹرک سسٹم (پیمائش کا اعشاری نظام۔
نِظَامُ المُحَاسَبَة: حسابی سسٹم۔
نِظَامُ المُحَاسَبَةِ الآلِيَّة: مشینی حساب و کتاب کا طریقہ۔
النِّظَامُ المَصْرِفِيّ: بینک سسٹم۔
نِظَامُ المَعَاشَات: پنشن سسٹم۔
نِظَامُ مُقَاطَعَة: بائیکاٹ سسٹم۔
نِظَامُ النَّقْلِ و المُوَاصَلات: ٹرانسپورٹ سسٹم۔

نِظَامُ الهُدْنَة: صلح سسٹم۔
نِظَامِيّ: باضابطہ، نارمل، اصولی۔
اِنْتِظَامٌ: ترتیب، انسلاک۔
فی غَيْرِ انْتِظَام: بے ترتیب۔
تَنْظِيم: ترتیب، انتظام، ارینجمنٹ
تَنْظِيمُ الأُسْرَة: فیملی پلاننگ، کنبہ بندی۔
تَنْظِيمٌ تِجَارِيّ: کاروباری تنظیم۔
تَنْظِيمٌ جَمَاعِيّ: جماعتی تنظیم۔
تَنْظِيمٌ دَاخِلِيّ: اندرونی تنظیم۔
تَنْظِيمٌ سِرِّيّ: خفیہ تنظیم۔
تَنْظِيمَاتٌ حِزْبِيَّة: پارٹی تنظیمیں، جماعتی تنظیمیں۔
تَنْظِيمَاتٌ عُمَّالِيَّة: لیبر تنظیمیں، مزدوروں کی تنظیمیں۔
المُنْتَظِم: ریگولر، باقاعدہ۔
مُنَظِّم: ریگولیٹر۔
مُنَظَّم: باضابطہ۔
مُنَظَّمَة: آرگنائزیشن، تنظیمی ادارہ، تنظیمی جماعت ج: مُنَظَّمَات۔
مُنَظَّمَةُ الإِغَاثَة: امدادی ادارہ۔
مُنَظَّمَةُ التَّحْرِيرِ الفِلَسْطِينِيَّة: تنظیم آزادیٔ فلسطین۔
مُنَظَّمَةُ تَسْوِيق: خرید و فروخت کا ادارہ۔
مُنَظَّمَةٌ ثَوْرِيَّة: انقلابی تنظیم۔
مُنَظَّمَةُ الدُّوَلِ الأَمْرِيكِيَّة: امریکی ممالک کی تنظیم۔
المُنَظَّمَةُ الدُّوَلِيَّةُ لِلطَّيَرَانِ المَدَنِيّ: شہری ہوابازی کی بین الاقوامی تنظیم۔
مُنَظَّمَةٌ سِرِّيَّة: خفیہ تنظیم۔

مُنَظَّمَةُ الصِّحَّةِ العَالَمِيَّةُ: عالمی صحت کا ادارہ۔
مُنَظَّمَةُ الطَّيَرَانِ الدُّوَلِيِّ المَدَنِيِّ: بین الاقوامی شہری ہوابازی کا ادارہ۔
المُنَظَّمَةُ العَرَبِيَّةُ لِلتَّرْبِيَةِ و الثَّقَافَة: تعلیم وتربیت کی عرب تنظیم۔
مُنَظَّمَةُ العَمَلِ الدُّوَلِيَّةُ: محنت کاری کا بین الاقوامی ادارہ۔
مُنَظَّمَةٌ فَرْعِيَّة: ذیلی تنظیم۔
مُنَظَّمَةُ الوَحْدَةِ الافْرِيقِيَة: تنظیم اتحادِ افریقہ۔
مُنَظَّمَاتٌ تَعَاوُنِيَة: کوآپریشن تنظیمیں۔
المُنَظَّمَاتُ المُتَصَارِعَةُ مَعَ بَعْضِهَا: ایک دوسرے سے برسرِ پیکار تنظیمیں۔

ن............ع

نُعَاب: کوّے کی آواز (ف)۔
نَعَرَ ـُ نُعَاراً و نَعِيراً: خراٹے لینا۔
نَاعُورَة: رہٹ ج: نَوَاعِير۔
نُعَاس: نیند، اونگھ (ف)۔
نَعْش: مردہ کی چارپائی۔
إِنْعَاش: چست بنانا، کیف پیدا کرنا، نشاط بخشنا۔
إِنْعَاشُ الأَرْض: زمین کو قابلِ کاشت بنانا۔
إِنْعَاشُ الإِنْتَاج: پیداوار بڑھانا۔
إِنْتِعَاش: فروغ پانا (۲) صحت یاب ہونا، چست ہونا (۳) زمین کا قابلِ کاشت ہونا۔
إِنْتِعَاشُ الاقْتِصَاد: اقتصادیات میں ترقی ہونا۔
إِنْتِعَاشِيّ: متحرک۔
مُنْعِش: نشاط انگیز، خوشگوار، فرحت بخش۔
مُنْتَعِش: متحرک۔
نَعَقَ ـِ نَعْقاً: کوّے کا بولنا۔
نَعْل: سول (جوتے کا تلا) جوتا، بوٹ، سینڈل، چپل ج: نِعَال۔
نَعَمْ: (بلٰی) یس، ہاں، ووٹ، تائید۔
نَعَمْ اَمْ لَا: ہاں یا نہیں، اقرار یا انکار۔
نَعَمْ لِفُلان: ووٹ فلاں کے لئے۔
نُعُومَة: نرمی (ک)۔
نُعُومَةُ الاظْفَار: بچپن۔
نَاعِم: ملائم (۲) خوشگوار۔
نَعَى فُلاناً ـ نَعْياً: وفات کی خبر دینا۔

ن............ف

نَفَثَ ـُ نَفْثاً: منہ سے تھوک یا جھاگ نکالنا۔
نَفَثَ عَمَّا فِي الصَّدْر: دل کی بات اگلنا۔
نَفَثَاتُ أَقْلَام: رشحاتِ قلم۔
طَائِرَةٌ نَفَّاثَة: جیٹ ہوائی جہاز۔
نَفَخَ ـُ نَفْخاً: پھونک مارنا۔
نَفَخَ الهَوَاءَ فِي: ہوا بھرنا۔
نُفَاخَة: پانی کا بلبلہ۔
مِنْفَاخ: پھکنی ج: مَنَافِيخُ۔
مِنْفَاخُ إِطَارَاتِ العَجَلَات: پمپ۔
نَفِدَ ـَ نَفَاداً: ختم ہونا۔
اِسْتَنْفَدَ قُوَاه: پوری طاقت لگا دینا۔
نَفَاد: خاتمہ۔
نَفْدَةٌ حِسَابِيَّة: حساب کا آئٹم۔
نَفَذَ ـُ نُفُوذاً و نَفَاذاً: چیر کر نکل جانا، پار کر

جانا، چھوٹ جانا۔
نَفَذَتِ الأَوَامِرُ: نافذ ہونا۔
لَا يَنْفُذُ مِنْهُ المَاءُ: واٹر ٹائٹ، واٹر پروف۔
نَفَّذَ: جاری کرنا، احکام نافذ کرنا۔
نَفَّذَ بِالقُوَّة: سختی سے نافذ کرنا۔
نَفَّذَ الطَّلَبَ: آرڈر کی تکمیل کرنا، فرمائش پوری کرنا، مطالبہ پورا کرنا۔
نَفَّذَ عَقْدَ المُنَاقَصَة: ٹینڈر جاری کرنا۔
نَفَّذَ القَرَارَ: تجویز کا نفاذ کرنا۔
نَفَّذَ القَوْلَ: بات کو عملی جامہ پہنانا۔
نَفَّذَ المَشْرُوعَ: اسکیم چلانا۔
نَفَّذَ المُهِمَّةَ: مہم انجام دینا۔
نَفَّذَ الوَعْدَ بِالحَرْفِيَّة: وعدہ کو مکمل طور پر پورا کرنا۔
نَفَذَ الشيُ مِنْه: آر پار کرنا۔
نُفُوذ: اقتدار، اثر ورسوخ۔
النُّفُوذُ الأَعْلَى: اقتدار اعلیٰ۔
نُفُوذٌ و سُلْطَان: اثر ورسوخ۔
نَفَاذ، نُفُوذ: کارروائی۔
نَافِذ: معمول بہ (۲) آر پار۔
نَافِذُ الكَلِمَة: بااقتدار۔
نَافِذُ المَفْعُول: مؤثر۔
نَافِذَة: کھڑکی (۲) روشن دان ج: نَوَافِذ۔
نَافِذَةٌ عَلَى كَذَا: مختصر تعارف۔
تَنْفِيذ: کارروئی، اجرا، تکمیل، نفاذ، انتظام۔
إِيْقَافُ التَّنْفِيذ: کارروائی روک دینا، امتناع حکم۔
تَنْفِيذِيّ: انتظامی، ایگزیکٹو۔

الهَيْئَةُ التَّنْفِيذِيَّة: صیغۂ انتظامیہ، بااختیار باڈی۔
مَنْفَذ: روشندان (۲) راہ، دروازہ ج: مَنَافِذ۔
نَفَّرَه: متنفر کرنا، نفرت دلانا۔
نُفُور: بے گانگی، کشیدگی، بُعد۔
نَفِير: گروپ، جماعت (۲) ہارن، بگل۔
نَافِر: نفرت کنندہ (۲) ابھرا ہوا۔
كِتَابَةٌ نَافِرَة: ابھرے ہوئے نقوش۔
نَفَّسَ عَنْه تَنْفِيساً: تکلیف دور کرنا۔
نَفَّسَ عَنِ الآرَاء: افکار وخیالات ظاہر کرنا۔
تَنَافَسَ فِي شَيْءٍ: بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرنا، مقابلہ کرنا۔
تَنَافُسِيّ: مقابلہ کا۔
نَفْسٌ: روح (۲) جسم (۳) عقل (۴) ذات (۵) شان (۶) حوصلہ (۷) خودداری (۸) ظرف (۹) شخص۔
نَفْسُ المُلَاحَظَة: نفسِ تاثر، ایسا ہی تاثر۔
نَفْسُ الشيء: وہی چیز، بعینہ۔
بِنَفْسِه: از خود، خود۔
نَفْسِيّ: روحانی (۲) عقلی (۳) نفسیاتی۔
نَفْسِيًّا: نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر۔
نَفْسِيَّة: ذہنیت، نفسیات۔
نَفِيس: قیمتی، عمدہ۔
مُنَافِس: مقابل۔
مُنَافَسَة: مقابلہ، کمپٹیشن۔
مُنَافَسَةٌ حَادَّة: زبردست مقابلہ، زبردست کمپٹیشن۔

الْمُنَافَسَةُ الحُرَّة: آزاد مقابلہ۔
مُنَافَسَةٌ حِرَفِيَة: پیشہ وارانہ مقابلہ۔
مُنَافَسَةٌ عَادِيَّة: عمومی کمپٹیشن۔
مُنَافَسَةٌ عَالَمِيَة: بین الاقوامی مقابلہ۔
مُنَافَسَةٌ غَيْرُ عَادِلَة: غیر منصفانہ مقابلہ۔
الْمُنَافَسَةُ الْمُثْلٰی: مثالی مقابلہ۔
مُنَافَسَة: دوڑ، مقابلہ۔
نَفَضَ ـــُ نَفْضاً: کپڑے کا رنگ اڑنا (۲) جھٹکنا (۳) جھاڑنا (۴) درخت سے پھل گرانا (۵) سستی اتارنا۔
نَفَضَ الدُّخَانَ: دھواں چھوڑنا۔
نَفَضَ السُّمُومَ: زہر افشانی کرنا۔
نَفَضَ الْمَرِيْضُ مِنْ مَرَضِه: شفا پانا۔
نَفَضَ يَدَه مِنَ الأَمْر: کسی کام سے ہاتھ کھینچنا۔
اِنْتِفَاضَة: حرکت، بیداری، تحریک۔
اِنْتِفَاضَةٌ شَعْبِيَّة: عوامی بیداری، عوامی انقلاب، عوامی تحریک۔
مِنْفَضَةُ السَّجَائِر: گلدان۔
النِفط: تیل، پٹرول۔
نِفْطَة: آبلہ، چھالا۔
اَلْاِنْتِفَاع: پرافٹ حاصل کرنا، نفع حاصل کرنا۔
نَفْعِيّ: مفاد پرست۔
نَفْعِيَّة: نفع اندوزی۔
مَنْفَعَةٌ ذَاتِيَة: ٹرسٹ، ذات منفعت۔
مَنْفَعِيّ: نفع خور، خود غرض۔
نَفَق: سرنگ ج: اَنْفَاق۔
نَفَاق: بازار کا چلن، سامان کا اٹھاؤ۔

نَفَقَات: اخراجات۔
نَفَقَاتٌ اِضَافِيَة: زائد اخراجات۔
نَفَقَاتٌ اِيْرَادِيَه: آمدنی سے متعلق اخراجات۔
نَفَقَاتٌ طَارِئَة: ہنگامی اخراجات۔
نَفَقَاتُ الْمَعِيْشَة: اخراجاتِ زندگی۔
النَّفَقَةُ الثَّابِتَة: فکسڈ چارج، مستقل خرچ۔
نَافِق: چلتا ہوا (سُوْقٌ نَافِقَة: چلتا ہوا بازار)۔
اِنْفَاقٌ حُكُوْمِيّ: سرکاری خرچ۔
اِنْفَاقٌ مُفْرِط: بے جا خرچ۔
نَفَی ـــِ نَفْياً: انکار کرنا (۲) تردید کرنا (۳) باہر نکالنا، برطرف کرنا۔
نَفَاهُ عَنِ الْوَطَن: جلاوطن کرنا۔
نَفَی الإِشَاعَاتِ: افواہوں کی تردید کرنا۔
نَفَی خَبَراً أو بَيَاناً رَسْمِيّاً: کسی بات کی سرکاری طور پر تردید کرنا۔
نَفَی التُّهْمَةَ عَنْ نَفْسِه: الزام کی تردید کرنا، اپنی صفائی پیش کرنا۔
نَفْيٌ: تردید، انکار (۲) جلاوطنی۔
نَفْيٌ بِصُوْرَةٍ قَاطِعَة: بھرپور تردید۔
نَافٍ: تردید کرنے والا۔
التَّنَافِيْ مَعَ شَيْءٍ: منافی ہونا۔
الْمُنَافَاةُ لِحُقُوْقِ الإِنْسَان: انسانی حقوق کی پامالی۔
الْمَنْفٰی: جلاوطنی کا مقام۔

ن .... ق

نَقَبَ تَنْقِيْباً: کھوج لگانا۔
نِقَابَة: یونین، سنڈیکیٹ، ایسوسی ایشن۔
نِقَابَةٌ تِجَارِيَة: مشترکہ تجارتی جماعت، کارپوریشن۔

نِـقَـابَةُ الـخَـدَمَـاتِ العَـامَّة: پبلک سروس یونین۔
النِّقَابَةُ العَامَة: جنرل یونین۔
نِـقَـابَةُ العُمَّـال: ٹریڈ یونین، لیبر یونین، لیبر ایسوسی ایشن۔
نِقَابَةُ العُمَّالِ الزِّرَاعِيِّين: زراعتی مزدوروں کی یونین، مزدوروں کی انجمن۔
نِقَابَةٌ عُمَّالِيَّة: مزدوروں کی انجمن۔
نِـقَـابَةُ الـمُحَامِين: بارایسوسی ایشن، وکلاء کی انجمن۔
نِقَابَةُ المُعَلِّمِين: ٹیچرز یونین۔
نِقَابَاتُ العُمَّال: مزدوروں کی انجمنیں، لیبر ایسوسی ایشنس۔
نِقَابِيّ: یونین کا۔
نَـقِيْـب: صدر، افسر، نگراں (۲) جہاز کا کیپٹن، پائلٹ ج: نُقَبَاء۔
نَقِيبٌ للصَّحَفِيِّين: پریس کونسل کا سیکرٹری۔
نَقِيبُ كُلِّيَةٍ أو جَامِعَة: ڈین۔
نَقِيبُ المُحَامِين: صدر جماعتِ وُکلاء۔
نَقِيبَة: (۱) نفس (۲) عقل (۳) طبیعت (۴) مشورہ۔
تَنْقِيب: تلاش، کھوج، جستجو۔
التَّـنْقِيبُ عن البِتْرُول والغاز: پٹرول اور گیس کی تلاش۔
مَنْقَبَة: اچھائی ج: مَنَاقِب۔
تَـنْـقِـيح: ایڈٹ کرنا، تصحیح کرنا، اصلاح، نکھار۔
نَقَدَ نَقْداً: پرکھنا (۲) نقد ادا کرنا (۳) تنقید کرنا۔

اِنْتَقَدَ الثَّمَن: ہاتھ کے ہاتھ قیمت لینا۔
اِنْتَقَدَ فُلاناً: تنقید کرنا، آوازہ کسنا۔
اِنْتَقَدَ مَوْقِفَ فُلان: کسی کے موقف پر نکتہ چینی کرنا۔
نَقْد: تنقید، نکتہ چینی (۲) رقم، کرنسی۔
نَقْد، نَقْدِيَّة: کیس، نقدی۔
النَّقْدُ الاَجْنَبِيّ: غیر ملکی کرنسی، فارن کرنسی۔
نَقْدٌ اَجْنَبِيٌّ حُرّ: آزاد فارن کرنسی۔
نَقْدٌ بَنَّاءٌ: تعمیری تنقید۔
نَقْدٌ بَرِيْءٌ: صالح تنقید۔
النَّقْدُ الجَارِح: جارحانہ تنقید۔
نَقْدٌ صَامِتٌ: ہارڈ کیش۔
نَقْدٌ صَغِيرٌ: چھوٹا سکہ۔
النَّقْدُ المُتَدَاوَل: چلتا ہوا سکہ، مروجہ سکہ۔
نَقْدٌ مَرِير: زبردست تنقید۔
النَّقْدُ المُسْتَخْدَم: چلتا ہوا سکہ، مروجہ سکہ۔
وَرَقُ النَّقْد: نوٹ۔
نُقُود: رقم، کیش۔
النُّقُودُ الاَجْنَبِيَّة: باہر کا روپیہ۔
نُقُودٌ رَمْزِيَّة: ٹوکن منی۔
نُقُودٌ مُزَيَّفَة: کھوٹے سکے، جعلی سکے۔
نُقُودٌ مَسْكُوكَة: ڈھلے ہوئے سکے۔
نُقُودٌ مَعْدِنِيَّة: دھات کے سکے۔
نُقُودٌ مُودَعَةٌ في البَنْك: بینک میں موجود کیش۔
نُقُودٌ وَرَقِيَّة: کرنسی نوٹ۔
نَاقِد: معترض، نکتہ چیں ج: نُقَّاد۔
أَنْقَذَ: نجات دلانا، بچا کر لے جانا۔
أَنْقَذَ اَرْوَاحَ الأَبْرِيَاء: بے گناہوں کی

جائیں بچانا۔
أنقذَ الأزمَة: بحران ختم کرنا۔
أنقذَ حياةَ الرهائن: یرغمالیوں کو چھڑانا۔
أنقذَ السُمعَة: لاج رکھنا۔
أنقذَ ماءَ الوجه: لاج رکھنا۔
أنقذَ المَحاصِيلَ الزِرَاعِيَة: زرعی پیداوار کو بچا لینا۔
أنقذَ الموقِف: پوزیشن سنبھالنا،صورت حال درست کرنا، معاملہ کو سلجھانا،صورت حال سے نمٹنا۔
أنقذَ الموقِف المنهار: گری ہوئی پوزیشن کو سنبھالنا۔
استَنقذَ الحقَّ: حق لے لینا۔
مُنقِذ: نجات دہندہ۔
نَقَرَ ـــُ نَقراً: چونچ مارنا (۲) حروف کندہ کرنا (۳) عیب لگانا۔
نقرَ علٰی: کھٹکھٹانا۔
نُقارِيَة: (وا) نقارہ۔
مِنقار: چونچ ج: مَناقِير۔
نَقَشَ ـــُ نَقشاً: کندہ کرنا (۲) رنگوں سے مزین کرنا، پھول پتیاں بنانا۔
نَاقَشَهُ مُناقَشَةً: بحث کرنا، جھگڑنا۔
نَاقَشَهُ الحِسابَ: حساب لینا۔
نَاقَشَ الدُستُورَ: دستور پر بحث کرنا۔
نَاقَشَ الاقتِراحَ نُقطَةً نُقطَةً: تجویز پر پوائنٹ وار بحث کرنا۔
نِقَاش: بحث، جھڑپ۔
نِقَاش دُستُورِيّ: دستوری بحث۔
نَقَّاش: نام وغیر کندہ کرنے والا، رنگ وروغن کرنے والا (۲) پینٹر۔
نِقَاشَة: نقش ونگاری کا پیشہ۔
مُنَاقَشَة: مباحثہ، مذاکرہ (۲) بحث، جھڑپ (۳) گفتگو۔
مُنَاقَشَةٌ حَادَّة أو حَامِيَة: گرما گرم بحث، تیز جھڑپ، زبردست بحث۔
اِنتَقَصَ: کم ہونا۔
اِنتَقَصَه: کم کرنا۔
اِنتَقَصَه حَقَّه: حق کم کرنا۔
اِنتَقَصَ الرَّجُل: عیب لگانا، بدنام کرنا، بدگوئی کرنا۔
اِنتَقَصَ مِن قَدرِه: قدر گھٹانا، وقار گرانا، حیثیت کم کرنا۔
اِنتَقَصَ مِن سُلطَتِه: اختیار کم کرنا، گھٹانا۔
نَقص: خامی، خرابی، کمی، انحطاط، فقدان، شارٹیج۔
نَقصُ العُمَّال: مزدوروں کی کمی۔
نَقصٌ غِذَائِيّ: غذائی کمی۔
نَقصٌ فِي الإنتَاج: پیداوار میں کمی۔
نَقصٌ فی التَغذِيَة: خوراک کی کمی۔
نَقصٌ فی رَأسِ المَال: سرمایہ کی کمی۔
نَقصُ القُوَّةِ الشِرَائِيَة: قوتِ خرید کی کمی۔
نَاقِص: ادھورا۔
نَقِيصَة: عیب ج: نَقَائِص۔
مُنَاقَصَة: ٹھیکہ جو دوسرے کے مقابلہ میں کم قیمت پر لیا جائے، ٹینڈر (ضدہ: المُزَايدة: نیلامی)۔
مُتَنَاقِص: انحطاط پذیر۔
نَقَضَ ـــُ نَقضاً: توڑنا (۲) ختم کرنا (۳)

منہدم کرنا (۴) منسوخ کرنا۔
نَقَضَ الامْرَ السَّابِقَ: سابقہ آرڈر منسوخ کرنا۔
نَقَضَ القرارَ: تجویز یا فیصلہ کی مخالفت کرنا۔
نَقْض: خلل اندازی، خلاف ورزی۔
مَحْكَمَةُ النَقْضِ والابْرام: عدالتِ مرافعہ۔
نُقْض: کھنڈر ج: اَنْقَاض۔
نَقِيْض: اپوزٹ۔ (الٹ)
مُناقَضَة: مخالفت۔
تَنَاقُض: اختلاف، تضاد۔
تَنَاقُضُ القَوانِين: قوانین کا تضاد۔
تَنَاقُضَات: متضاد باتیں، چیزیں۔
المُتَنَاقِضُ مَعَ كذا: بے جوڑ۔
نُقْطَة: نقطہ (۲) پوائنٹ، گفتگو کا بنیادی نقطہ (۳) جگہ (۴) پوزیشن (۵) آئٹم، مسئلہ (۶) فل اسٹاپ ج: نُقَط و نِقَاط۔
نُقْطَةُ اتِّصَال: جنکشن، مرکزِ اتصال۔
نُقْطَةُ الارْتِكاز: توجہ کا مرکز۔
النُقْطَةُ الاساسِيَّة: مین پوائنٹ۔
نُقْطَةُ الانْطِلاق: نقطہ آغاز۔
نُقْطَةُ انْعِطَافٍ: موڑ۔
نُقْطَةً بَعْدَ نُقْطَةٍ: پوائنٹ وار۔
نُقْطَةُ التَّحَوُّل: مرکزِ انتقال۔
نُقْطَةُ التَّقَاطُع: کراسنگ۔
نُقْطَةٌ خَطِرَة: اہم پوائنٹ، خطرناک پوائنٹ۔
نُقْطَةُ ضَعْفٍ: کمزور پوائنٹ۔
نُقْطَةُ كَلام: آئٹم۔
نُقْطَةُ اللاعَوْدَة: ایسی حد جس پر لوٹنا ممکن نہ ہو۔
النُقْطَةُ المُشِيْرَةُ لِلانْتِبَاه: قابلِ توجہ بات۔
نُقْطَةُ وَقْفٍ: اسٹاپ۔
النُقَطُ الحَصِيْنَة: مضبوط مورچے۔
النُقَطُ القَوِيَّة: مضبوط مورچے۔
نَقَعَ ـ نَقْعاً: بھگونا، تر کرنا۔
مُسْتَنْقَع: کچا تالاب (۲) جوہڑ ج: مُسْتَنْقَعَات۔
نَقِيْق: مینڈک کی آواز۔
نَقَلَ الطُرُوْدَ بالبَرِيْد ـ نَقْلاً: پارسل پوسٹ کرنا۔
نَقَلَ المَلَكِيَّةَ لاسْمٍ آخر: نام کرنا، کسی دوسرے کے نام پر ملکیت منتقل کرنا۔
نَقَلَ نَصَّ النِدَاءِ إلى الصَّحَفِيِّيْنَ: پریس والوں کو اصل اپیل بھیجنا۔
نَقَلَ سُرْعَةَ الأُتُمْبِيْل: گیر لگانا۔
اِنْتَقَلَ إلى: منتقل ہونا (۲) کراس کرنا (۳) متوجہ ہونا۔
نَقْل: تبادلہ، منتقلی (۲) ترجمہ (۳) بار برداری (۴) نقل۔
نَقْلُ الاعْتِمَادَات: فنڈوں کا تبادلہ۔
نَقْلٌ بَحْرِيّ: سمندری ٹرانسپورٹ۔
النَقْلُ بِالسَّيَّارَات: موٹر ٹرانسپورٹ۔
نَقْلٌ بَرِّيّ: زمینی ٹرانسپورٹ۔
نَقْلٌ جَوِّيّ: ایر ٹرانسپورٹ۔
نَقْلُ حِسَاب: اکاؤنٹ ٹرانسفر، تبدیلی حساب۔
نَقْلٌ عَلَى مَرَاحِلَ: ریلے کرنا۔
النَقْلُ و الطَيَرَانُ المَدَنِيّ: ٹرانسپورٹ، شہری ہوابازی۔

نَاقِل: بار بردار، ٹرانسپورٹر (۲) منتقل کرنے والا (۳) نقل نویس (۴) مترجم۔
نَاقِلَةُ بِتْرُول: ٹینکر، پٹرول بردار جہاز ج: نَاقِلات۔
نَاقِلَةٌ جَوِّيَة: ٹرانسپورٹ فضائی جہاز۔
نَاقِلُ الحَرَكَة: گیر۔
نَقَّالَةُ المَرْضَى و المَجْرُوحِين: اسٹریچر، بیماروں اور زخمیوں کو اٹھانے والی چارپائی۔
مَنْقُولات: منقولہ جائیداد، قابلِ منتقلی سامان (۲) گھریلو سامان۔
مُتَنَقِّل: متحرک، چلتا پھرتا۔
نَقِمَ عَلَيْهِ نَقْماً: بدلہ لینا (۲) ناراض ہونا (۳) حسد کرنا۔
نَقِيَ ـُ نَقَاءً: صاف ہونا۔
نَقِيَ الصَّوْتُ: آواز صاف ہونا۔
نَقِيّ: خالص، پیور، فریش۔

ن .... ک

نَكْب، نَكْبَة: مصیبت، آفت ج: نَكَبَات۔
مَنْكُوب: مصیبت زدہ، آفت رسیدہ۔
مَنْكُوبٌ بِفَيَضَان: سیلاب زدہ۔
مَنْكُوبُون: مصیبت زدگان۔
مَنْكِب: مونڈھا (۲) جانب، گوشہ ج: مَنَاكِب۔
نَكَثَ (ن) عہد توڑنا۔
اِنْتِكَاث: ٹوٹنا۔
مَنْكُود: بدقسمت۔
النُّكْرَانُ لِلْإِحْسَان: احسان فراموشی۔
تَنَكَّرَ: اجنبی بننا (۲) نامانوس ہونا (۳) حالت وہیئت بدلنا۔
تَنَكَّرَ فِي زِيّ كَذَا: بھیس بدلنا۔
تَنَكَّرَ لَه: کسی کے سامنے بدل جانا، اجنبی بن جانا۔
قِنَاعُ التَّنَكُّر: مصنوعی چہرہ۔
لِبَاسُ التَّنَكُّر: بہروپ کا لباس۔
اِسْتِنْكَار: مذمت، ناپسندیدگی، اظہارِ نفرت۔
المُنْكِرُ لِلْجَمِيل: احسان فراموش۔
مُتَنَكِّر: اجنبی۔
نَكَسَ ـُ نَكْساً: الٹا کرنا، اوندھا کرنا (۲) سرنگوں کرنا۔
نَكَسَ و نَكَّسَ العَلَمَ: پرچم نگوں کرنا۔
نَكَّسَ الرَّأْسَ: سر جھکانا۔
نَكْسَة: شکست (۲) انقلاب۔
تَنَكُّسُ الثَّوْرَة: انقلاب کی ماہیت بدل جانا۔
نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ ـُ نَكْصاً و نُكُوصاً: پیچھے ہٹنا۔
نَكَال: عبرتناک سزا۔
التَّنْكِيلُ الوَحْشِيّ: وحشیانہ سزا۔
نِكَايَة: غلبہ (۲) غصہ (۳) مکر۔

ن .... م

نَمَّرَ: نمبر ڈالنا۔
نَمِرٌ: چیتا ج: أَنْمَار۔
نَمِرَة: چیتے کی مادہ۔
نَمَّارَة: نمبرنگ مشین۔
مُنَمِّر: نمبردار۔
نَامُوس: رازدار (۲) قانون وشریعت (۳)

چغل خور ج: نَوَامِیس۔
نَامُوسَة: مچھر
نَامُوسِیَّة: مچھردانی۔
نِمسَا: ملک آسٹریا۔
نَمط: طرز، طریقہ، فیشن ج: أنماط۔
نَمطِیّ: معیاری، اسٹینڈرڈ، نمونہ کا۔
عَلَی النَّمطِ الحَدِیث: فیشن ایبل۔
نَمَّق: خوبصورت بنانا۔
نَمَّقَ العِبَارَةَ: لیپا پوتی کرنا، عبارت آرائی کرنا۔
التَّنمِیقُ و التَّزوِیق: لیپا پوتی، ملمع سازی۔
نَملٌ و : نَملَة: چیونٹی۔
نَملِیَّة: جالی دار الماری، نعمت خانہ۔
أنمُلَة: انگلی ج: أنَامِل (۲) انگلی کا پور۔
نَمَّ ـــ نَمّاً: ظاہر ہونا (۲) چغلی لگانا۔
نَمَّ عَنْ: ظاہر کرنا، پتہ دینا۔
نَمِیمَة: چغل خوری ج: نَمَائِم۔
نَمُوذَج، أنمُوذَج ج: نمونہ، ماڈل، فارمولا (۲) طرز، ٹائپ (۳) معیار، اسٹینڈرڈ ج: نَمَاذِج۔
نَمُوذَجُ الطَّلَب: آرڈر فارم۔
النَّموذَجُ المُمَاثِل: ملتا جلتا نمونہ۔
نَمُوذَجٌ یُحتَذَی بِه: قابلِ تقلید نمونہ۔
نَمُوذَجِیّ: نمونہ کا، مثالی۔
نَمَا ـــ نُمُوّاً: بڑھنا، ترقی کرنا۔
نُمُوّ: اٹھان، ابھار۔
النُّمُوُّ السُّکَّانِیّ: اضافہ آبادی۔
نُمُوٌّ مُتَوَازِن: متوازن اضافہ۔

نَمَّی: فروغ دینا، ترقی دینا۔
نَمَّی رَوَابِطَ الصَّدَاقَةِ بَینَ البَلَدَین: دو ملکوں کے درمیان دوستی کے تعلقات بڑھانا۔
نَمَّی السُّرعَةَ الطِّبَاعِیَّةَ: ٹائپ کرنے کی صلاحیت یا رفتار بڑھانا۔
نَمَّی السُّوق: بازار کو ترقی دینا۔
نَمَّی العَلَاقَاتِ: تعلقات بڑھانا۔
أنمَی: بڑھانا، ترقی دینا۔
نَمَی ـــ نَمیاً و نَمَاءً: بڑھنا، بڑا ہونا۔
نَمَی الحَدِیثَ إلَی: منسوب کرنا۔
اِنتَمَی إلَی: منسوب ہونا، تعلق رکھنا۔
اِنتَمَی إلَی حِزب: پارٹی سے تعلق رکھنا۔
اِنتَمَی إلَی مُنَظَّمَة: تنظیم میں شریک ہونا۔
تَنمِیَة: اضافہ، ترقی، بڑھاوا، فروغ۔
التَّنمِیَةُ الاقتِصَادِیَّة: اقتصادی ترقی۔

ن.........ھ

نَهَبَ ـــ نَهباً و نَهَباً: لوٹنا۔
نَهَبَ الأرضَ عَدواً: پوری رفتار سے دوڑنا۔
نَهَبَ النِّسَاءَ: اغواء کرنا۔
نَهبٌ: لوٹ کا مال ج: نِهَاب۔
نَهَّاب: لٹیرا۔
مَنهُوبَة: اغوا شدہ خاتون۔
نَهَجَ ـــ نَهجاً: راستہ پر چلنا۔
اِنتَهَجَ: روش اختیار کرنا۔
اِنتَهَجَ سِیَاسَةً: پالیسی پر چلنا، سیاست اپنانا۔

نَهج: راستہ، راہِ راست۔
مَنهَج ، مِنهَاج: طریقہ، راستہ، پروگرام۔
مَنهجُ بَحثٍ: طریقۂ تحقیق۔
مَنهجُ التَعلِيم: طریقۂ تعلیم (۲) نصابِ تعلیم۔
مَنهجٌ دِرَاسِيّ: سلیبس، نصابِ تعلیم۔
مِنهَاجُ الحِزب: پارٹی پلیٹ فارم۔
نَهَدَ ـــ نُهُوداً: پستان اُبھرنا۔
نَاهَدَهُ مُنَاهَدَةً: مقابلہ پر آنا، چیلنج کرنا (۲) مخالفت کرنا۔
تَنَهَّدَ: لمبا سانس لینا۔
نَاهِد: اُبھرے ہوئے سینہ والی ج: نَوَاهِدُ۔
نَهَرَ ـــ نَهراً: جھڑکنا، ڈانٹنا۔
نَهرٌ مِن كِتَابٍ أو صَحِيفَةٍ: کالم۔
نَهَزَ ـــ نَهزاً: دفع کرنا۔
نَاهَزَ مُنَاهَزَةً: قریب ہونا۔
اِنتَهَزَ الفُرصَةَ: موقع پانا، موقع سے فائدہ اٹھانا۔
اِنتِهَازِيّ: موقع پرست۔
اِنتِهَازِيَة: موقع پرستی۔
نَهَّازُ الفُرَص: موقع پرست۔
نَهَشَ ـــ نَهشاً: نوچنا۔
نَهَضَ ـــ نُهُوضاً: اٹھنا، کھڑا ہونا ۲ ترقی کرنا۔
نَهَضَ للأمرِ: تیار ہونا، اٹھ کھڑا ہونا۔
نَهَضَ بِعَمَلٍ: انجام دینا، کسی کام کا بیڑا اٹھانا۔
نَهَضَ بالأعبَاء: ذمہ داریاں اٹھانا۔
نَهَضَ بأعبَاءِ الرِّسَالَة: مشن پر کام کرنا۔
نَهَضَ بالمَسئُولِيَّة و المُهِمَّة: ذمہ داری پوری کرنا۔
نُهضَة: حرکتِ عمل (۲) ترقی (۳) بیداری، نشاتِ ثانیہ ج: نَهضَات۔
نَاهِض: کھڑا ہوا (۲) ترقی یافتہ۔
مُنَاهِضٌ له: مخالف۔
مُنَاهَضَة: مخالفت، مقابلہ۔
نَهِيق: گدھے کی آواز۔
نَهَكَ ـــ نَهكاً: لاغر و کمزور بنانا (۲) کمر توڑنا، طاقت ختم کرنا۔
اِنتِهَاك: خلاف ورزی۔
اِنتِهَاكُ الاتِفَاق و المُعَاهَدَة: معاہدہ کی خلاف ورزی۔
اِنتِهَاكُ الحُرمَة: بے حرمتی، بے عزتی (۲) عصمت دری۔
اِنتِهَاكُ قَرَارِ الحظرِ بكذا: پابندی کے فیصلہ کی خلاف ورزی۔
اِنتِهَاكَات: خلاف ورزیاں۔
مَنهُوكُ القُوَى: ناتواں، لاغر۔
نَهِلَ ـــ نَهلاً: پینا۔
مَنهَل: چشمۂ آب ج: مَنَاهِل۔
نَهَم: کھانے کی حرص، خواہش۔
نَهَمٌ عِلمِيّ: علمی شوق و ذوق۔
في نَهَمٍ: بڑے شوق و رغبت سے۔
أنهَى إنهَاءً: مکمل کرنا (۲) ختم کرنا۔
أنهَى إلَى: اطلاع دینا۔
أنهَى الأزمَةَ بطُرُقٍ سِلمِيَّة: پُر امن طریقہ سے بحران کو ختم کرنا۔
أنهَى حَالَةَ الحَرب: حالتِ جنگ ختم

کرنا۔

اَنْهَى الحَدِيثَ مَعَ اَحَدٍ: بات چیت ختم کرنا۔

اَنْهَى الشَيئَ لِلاَبَد: ہمیشہ کے لئے ختم کرنا۔

اَنْهَى القِتَالَ: لڑائی بند کرنا۔

اَنْهَى المُحَادَثَةَ: بات چیت ختم ہونا۔

اَنْهَى المُعَاهَدَةَ: معاہدہ ختم کرنا۔

اَنْهَى المَعْرَكَةَ: جنگ بند کرنا۔

اَنْهَى المُنَاقَشَةَ: بحث ختم کرنا۔

اِنْتَهَى التَعْيِينُ: تقرر ختم ہو جانا۔

اِنْتَهَى العَقْدُ: معاہدہ ختم ہونا۔

اِنْتَهَتِ الاِنْفِجَارَاتُ: دھماکوں کا بند ہو جانا۔

اِنْتَهَتِ الحَرْبُ: لڑائی ختم ہو جانا۔

اِنْتَهَتِ المَأمُورِيَّةُ: مہم کا پورا ہو جانا۔

اِنْتَهَتِ المُهِمَّةُ: کام یا مشن مکمل ہو جانا۔

اِنْتَهَتِ الهُدْنَةُ: مہلت کا وقت ختم ہو جانا، صلح ختم ہو جانا۔

نِهَايَة: اختتام، انجام۔

نِهَايَةُ الخِطَابِ: خط کا آخری حصہ۔

النِهَايَةُ القُصْوَى: انتہاء۔

حَتَّى النِهَايَةِ: آخر دم تک۔

فِي النِهَايَةِ: آخر کار، آخر میں۔

فِي نِهَايَةِ المَطَافِ: آخر کار۔

نِهَائِيّ: آخری، فائنل، فیصلہ کن۔

بَلَاغٌ نِهَائِيٌّ: الٹی میٹم۔

حُكْمٌ نِهَائِيٌّ: آخری فیصلہ عدالت۔

بِمُنْتَهَى القُوَّةِ: پوری طاقت سے، پوری قوت سے۔

فِي مُنْتَهَى السِّرِّيَّةِ: انتہائی رازداری میں۔

فِي مُنْتَهَى السَّطْحِيَّةِ: انتہائی سطحی۔

ن.........و

نَوْءٌ: بارش ج: اَنْوَاء۔

نَاءَ ـُـ نَوْءًا: مشکل سے اٹھنا۔

نَاءَ بِهِ: بوجھ کا تھکا دینا، بوجھل بنانا۔

نَاءَ: (نَأى) دور ہونا۔

نَاوَأَهُ مُنَاوَأَةً: مقابلہ پر آنا، آڑے آنا۔

نَابَ عَنْهُ ـُـ نِيَابَةً: قائم مقام ہونا (۲) نمائندگی کرنا۔

نَابَهُ و انْتَابَهُ: پیش آنا، طاری ہونا۔

اِنْتَابَهُ الضِيقُ: گھٹن ہونا۔

اِنْتَابَهُ القَلَقُ: پریشانی لاحق ہونا۔

اِنْتَابَهُ رُوحُ الاسْتِسْلَام: احساسِ شکست طاری ہونا۔

اِنْتَابَهُ الحَالَةُ العَصَبِيَّةُ: اشتعال پیدا ہونا۔

اَنَابَهُ عَنْ فُلَانٍ: نمائندہ بنانا، قائم مقام کرنا۔

تَنَاوَبَ الفِعْلَ: باری باری کرنا۔

نَوْبَة: نمبر، باری (۲) ایک دفعہ (۳) بیماری کا حملہ، دورہ۔

نَوْبَةُ الصَّرْعِ: مرگی کا دورہ۔

نَوْبَةٌ عَصَبِيَّةٌ: اعصابی دورہ، ہسٹریائی دورہ۔

نَوْبَةُ غَضَبٍ: طیش۔

نَوْبَةٌ قَلْبِيَّةٌ: دل کا دورہ، ہارٹ اٹیک۔

بِالنَّوْبَةِ: نمبر سے، نمبروار، نمبر پر۔

نَوْبَتْجِیّ: (۱۱) ڈیوٹی پر تعینات۔
نُوبَة، نَائِبَة: آفت، مصیبت ج: نُوَب، نَوَائِب۔
نِيَابَة: قائم مقامی، نمائندگی (۲) کمشنری۔
النِّيَابَةُ العُمُومِيَّة: وزیرِ عدالت کا دفتر، مصری دیوانِ عدالت۔
بالنِّيَابَة: بطورِ نیابت، نیابتاً۔
نِيَابَةً عَنْ اَحَدٍ فِی كَذَا: کسی کی طرف سے، کسی کی نمائندگی کرتے ہوئے، کسی کی قائم مقامی میں۔
نِيَابِیّ: پارلیمنٹری (۲) کسی کی جگہ کام دینے والا، کسی کی نمائندگی کرنے والا۔
حُكُومَة نِيَابِيَّة: پارلیمنٹری حکومت۔
مَجْلِس نِيَابِیّ: پارلیمنٹ۔
نَائِب: کارندہ، ایجنٹ (۲) قائم مقام، نائب (۳) ڈپٹی، اسسٹنٹ، وائس (۴) نمائندہ، ڈیلیگیٹ (۵) پارلیمنٹ کا ممبر ج: نُوَّاب۔
نَائِبُ الاَمِينِ العَامّ: نائب ناظمِ اعلیٰ۔
نَائِبُ الرَّئِيس: وائس چیئرمین، نائب صدر، ڈپٹی چیئرمین، وائس پریسیڈنٹ۔
نَائِبُ الرَّئِيسِ فِی مَجْلِسِ النُّوَّاب: ڈپٹی اسپیکر۔
نَائِبُ رَئِيسِ الوُزَرَاء: ڈپٹی پرائم منسٹر، نائب وزیرِ اعظم۔
نَائِبُ سَفِير: ناظم الامور۔
النَّائِبُ العَامّ: ڈپٹی کمشنر، اٹارنی جنرل، عوامی مقدمات طے کرنے والا مجسٹریٹ۔
نَائِبٌ فِی البَرْلَمَان: پارلیمنٹ کا ممبر۔
نَائِبُ قُنْصُل: ڈپٹی کونسل۔
نَائِبُ المُدِير: ڈپٹی منیجر۔
نَائِبُ المَلِك: وائسرائے۔
نَائِبُ الوَزِير: ڈپٹی منسٹر۔
نُوَّاب: ممبرانِ پارلیمنٹ (۲) ڈیلیگیٹس۔
مُنَاوِب: عوض، کسی کے بدلے کام کرنے والا۔
بالمُنَاوَبَة، بالتَّنَاوُب: باری باری، نمبروار۔
نُوتِیّ: ملاح ج: نَوَاتِیّ۔
مُنَاخ: جائے قیام (۲) آب و ہوا، موسم (۳) ماحول، فضا ج: مُنَاخَات۔
مُنَاخ وِفَاقِیّ: اتحاد کی فضا۔
نَوَّرَ النَّبَات: کلی آنا، پھول آنا۔
نَوَّرَ، اَنَارَ: لائٹ کرنا، روشن کرنا۔
تَنَوَّرَ: روشن ہونا (۲) روشن ضمیر ہونا (۳) روشن خیال بننا۔
نَار: آگ، آتش، آنچ، فائر ج: نِيرَان۔
نَارِیّ: آتشیں (۲) اشتعال انگیز۔
نَوْر ج: اَنْوَار، نُوَّار ج: نَوَاوِير: کلی، پھول۔
نُور: روشنی، اجالا (۲) بتی، لائٹ۔
نُورٌ اَحْمَر: لال بتی۔
نُورٌ اَخْضَر: ہری بتی۔
نُورٌ ضَئِيل: ڈِم لائٹ، ہلکی روشنی۔
نُورُ الغَاز: گیس لائٹ، گیس کی روشنی۔
النُّورُ الكَاشِف: سرچ لائٹ۔
نُورٌ كَهْرَبِیّ: بتی، بجلی، بجلی کی روشنی۔
نُورٌ و تَدْفِئَة: لائٹنگ و ہیٹنگ۔

نُورَة: چونہ (۲) بال صفا۔
نَيِّر: روشن۔
إِنَارَة: لائٹنگ۔
تَنَوُّر: روشن خیالی۔
مَنَار، مَنَارَة: لائٹ اسٹینڈ، لائٹ ہاؤس۔
مَنَارَةُ المَسْجِد: مینار۔
مَنَارَةٌ لِهِدَايَةِ المَلاَّحِين: لائٹ ہاؤس۔
مُنَاوَرَة: داؤں پیچ، چال (۲) پریڈ، عملی مظاہرہ، نمائش، دکھاوا (۳) کوشش، کرتب ج: مُنَاوَرَات۔
مُنَاوَرَةٌ حَرْبِيَّة: جنگی مشق، پریڈ۔
مُنَاوَرَةٌ بَحْرِيَّة: بحری مشق۔
مُنَاوَرَةٌ دِبْلُومَاسِيَّة: سیاسی چال۔
مُنَاوَرَةٌ عَسْكَرِيَّة: فوجی پریڈ، ایکسر سائز۔
مُنَاوَرَة (فِي سِكَّةِ الحَدِيْد): شنٹنگ کرنا۔
وَابُورُ المُنَاوَرَة: شنٹنگ انجن۔
مُنَاوِر: نمائش کرنے والا۔
مُسْتَنِير: روشن ضمیر، روشن خیال۔
نَوْرَج: غلہ گاہنے کی مشین۔
(نوش) مُنَاوَشَة: دشمن کی نوک جھونک، فوجی دستوں کی باہمی جھڑپ ج: مُنَاوَشَات۔
نَوْص، مَنَاص: مفر، چھٹکارا۔
لَا مَنَاصَ مِنْهُ: اس سے مفر نہیں۔
نَوْط: کانوں کا جھمکا (۲) تمغہ ج: أَنْوَاط۔
نَاطَ ـُ نَوْطاً و أَنَاطَ بِكَذَا: وابستہ کرنا، لٹکانا، خدمت سپرد کرنا۔
نَوَّعَ تَنْوِيعاً: نوع بنوع کرنا، تنوع پیدا کرنا۔
نَوْع: ٹائپ، طرز۔
مُنَوَّعَات: متفرقات۔
نَيِّف: کچھ۔
مُنِيف: بلند، پُرشکوہ۔
نُوفَمْبَر: نومبر۔
نَالَ ـُ نَوْلاً و أَنَالَ: دینا۔
نَاوَلَهُ الشَّيْءَ: سپرد کرنا، دینا۔
تَنَاوَلَ الشَّيْءَ: لینا۔
تَنَاوَلَ الطَّعَامَ عَلَى المَائِدَة: میز پر کھانا کھانا۔
تَنَاوَلَ الشَّيْءَ بِالمُنَاقَشَة: کسی چیز کو زیر بحث لانا۔
تَنَاوَلَ البَحْثُ كَذَا: کسی چیز کا زیر بحث آنا۔
تَنَاوَلَتِ المُحَادَثَةُ كَذَا: گفتگو میں زیر بحث آنا۔
تَنَاوَلَتِ المُحَادَثَةُ مَوَاضِيعَ شَتَّى: مختلف موضوعات کا زیر بحث آنا۔
تَنَاوَلَتْهُ الصُّحُفُ بِالتَّعْرِيض: اخبارات کا آڑے ہاتھوں لینا۔
نَوْل، مِنْوَال: کرگہ، لوم، کپڑا بننے کی مشین ج: أَنْوَال، مَنَاوِل۔
نَوْلٌ آلِيّ: پاورلوم۔
نَوْلٌ يَدَوِيّ: ہینڈلوم۔
مِنْوَال: (۲) ڈھنگ، طریقہ، طرز۔
نَوَّمَ تَنْوِيماً: سلانا (۲) بے ہوش کرنا۔
نَامَ ـَ نَوْماً: سونا۔
نَامَ عَنْه: غفلت برتنا۔
نَامَتِ السُّوقُ: بازار مندا ہونا۔
تَنَوَّمَ: احتلام ہونا (۲) سونے کی کوشش

کرنا۔
نُوَام: نیند کا مرض۔
مَنَام: نیند (۲) خواب۔
مَنَام ،مَنَامَة: بستر (۲) سونے کا کمرہ۔
مُنَوِّم: نیند آور، نشہ آور۔
مُنَوِّمَة: نیند آور دوا۔
نُوْنٌ: مچھلی۔
نَوَّهَ تَنْوِيهاً: بلند کرنا۔
نَـوَّهَ به: شہرت دینا (۲) ذکر کرنا (۳) تعریف کرنا (۴) قدر افزائی کرنا۔
نَوَى ـــ نِيَّةً: ارادہ کرنا۔
نَـاوَى مُنَاوَاةً: دشمنی کرنا، مقابلہ پر آنا، آڑے آنا۔
نَوًى: بُعد، دوری (۲) منزل سفر۔
نَوَاة: گٹھلی (۲) تخم ج: نَوَيَات و نَوًى۔
نَوَوِيٌّ: نیوکلیائی، ایٹمی۔
النَّوَايَا العُدْوَانِيَّة: جارحانہ عزائم۔
النَّوَايَا الغَامِضَة: غیر واضح عزائم۔
نَوَايَا مَشْئُومَة: بُرے ارادے۔

ن ...... ی

نَيَّأَ الأمـرَ تَنْيِيئـاً: خام چھوڑنا، بیچ ادھر میں چھوڑنا۔
نَاءَ ـــ نَيْئاً: کچا رہنا۔
نِيْءٌ ، نِيٌّ: کچا، خام (۲) نامکمل، ناقص۔
نَيَّبَ: دانتوں سے پکڑنا۔
نَابٌ: کچلی، دانت ج: أَنْيَاب۔
كَشَّرَ عَنْ أَنْيَابِهٖ: دانت دکھانا۔
نِيْرٌ: بیلوں کا جوا ج: أَنْيَار۔

نِيْرَةُ الأسْنَانِ: دانتوں کا مسوڑھا۔
نَيْسَانُ: اپریل۔
نَيْلٌ: عطیہ۔
نَالَ ـــ نَيْلاً: پانا، حاصل کرنا۔
نَـالَ الاسْتِقْلاَلَ: آزادی وخود مختاری حاصل کرنا۔
نَالَ الاقْتِرَاحُ أَصْوَاتاً: تجویز کو ووٹ ملنا۔
نَـالَ الاقْتِـرَاحُ أَغْلَبِيَّةَ الأصْوَاتِ: تجویز کے حق میں اکثریت کے ووٹ آنا۔
نَالَ الثِّقَةَ: اعتماد حاصل کرنا۔
نَالَ الحُرِيَّةَ: آزادی حاصل کرنا۔
نَالَ التَّقْدِيرَ: خراج تحسین حاصل کرنا۔
نَالَ رِضَاهُ: خوشنودی حاصل کرنا۔
نَـالَ عَطْفَ الشَّعْبِ: عوام کی ہمدردی حاصل کرنا۔
نَالَ خُطْوَةً لَدَيْهِ أَوْ فِي عَيْنَيْهِ: تقرب حاصل کرنا، اعتماد ورسوخ حاصل کرنا۔
نَالَ جَائِزَةً: انعام پانا۔
نَالَ مِنْ فُلاَنٍ: آڑے ہاتھوں لینا، بدنام یا رسوا کرنا۔
نَـالَ مِنْ عِرْضِـهِ: آبرو پر حملہ کرنا، کیچڑ اچھالنا، بدگوئی کرنا، ہتکِ عزت کرنا، بہتان باندھنا۔
مَنَالٌ: حصول۔
صَعْبُ المَنَالِ: مشکل۔
سَهْلُ المَنَالِ: سہل الحصول۔
النَّيْلُون: نائلان۔

و

و.........أ

مَوْئِل: مرکز، جائے پناہ۔

وِئام: اتفاق، اتحاد۔

و.........ب

وَبَاء: عام بیماری ج: أَوْبِئَة۔

تَوْبِیخ: فہمائش، اظہارِ ناراضگی۔

وَبَر: اونٹ کے بال، اون ج: أَوْبَار۔

وَابُور: انجن، مشین ج: بَوَابِیر۔

__ بُخَارِیّ: اسٹیم انجن، ریلوے انجن۔

__ الحَرِیْقَة: فائر انجن۔

__ الزَّلَط: اسٹیم رولر جس سے سڑکیں ہموار کرتے ہیں۔

__ الرَّیّ: آب پاشی کی مشین۔

__ المِیَاه: واٹر ورکس۔

__ الطَّحِیْن: آٹا پیسنے کا انجن۔

__ بَحْر: سمندری جہاز، اسٹیمر۔

__ سِبِرْتُو: اسپرٹ لمپ۔

__ الغَاز: سٹوو۔

مُوْبِقَات: خطرات (۲) گناہ، معاصی۔

وَبْلٌ، وَابِل: بارش، زور کی بارش۔

وَبَالُ الجِسْم: آفتِ جان۔

وَبِیل: بدانجام (۲) سخت، تکلیف دہ۔

و.........ت

وَتِد: میخ، کھونٹی ج: أَوْتَاد۔

وِتْر: عددِ طاق۔

وَتَر: رسّی، تانت ج: أَوْتَار۔

وَتَّرَ العَلَاقَاتِ: تعلقات میں کشیدگی پیدا کرنا۔

تَوَتَّرَ: تانت کی طرح سخت ہونا۔

تَوَتَّرَ الوَضْعُ فِی مِنْطَقَةٍ: صورتِ حال کشیدہ ہونا۔

تَوَتَّرَتِ العَلَاقَاتُ: تعلقات کشیدہ ہونا۔

تَوَتَّرَتِ العَلَاقَاتُ بَیْنَ البَلَدَیْن: دو ملکوں کے باہمی تعلقات کشیدہ ہونا۔

وَتِیْرَة: طریقہ۔

تَتْرَی: لگاتار، پے در پے، مسلسل۔

تَوَتُّر: ٹینشن، کشیدگی، تناؤ، کھچاؤ۔

تَوَتُّر دُوَلِیّ: بین الاقوامی کشیدگی۔

تَوَتُّر طَائِفِیّ: فرقہ وارانہ کشیدگی۔

مُتَوَتِّر: کشیدہ۔

و.........ث

وَثَبَ ـِ وُثُوباً: کودنا، اُچھلنا، چھلانگ لگانا۔
وَثَّبَ: کودانا، اُچھالنا۔
وَثِیر: نرم، ملائم، گداز۔
وِثار: نرم بستر۔
وَثِیرة: تکیہ ج: وَثَائِر۔
وَثَّقَ تَوْثِیقاً: مضبوط بنانا، استحکام پیدا کرنا، مضبوطی پیدا کرنا۔
وَثَّقَ عَلَی: توثیق کرنا، تصدیق کرنا، پاس کرنا، منظور کرنا۔
وَثَّقَ المَوَاقِفَ: پالیسیوں کو مستحکم کرنا۔
وَاثَقَهُ مُوَاثَقَةً: معاہدہ کرنا۔
تَوَثَّقَ: مضبوط ہونا، مضبوط بننا۔
تَوَثَّقَ فِی الأَمْر: اعتماد حاصل کرنا (۲) اعتماد کے ساتھ کام کرنا۔
اِسْتَوْثَقَ مِنَ الشیءِ: اطمینان حاصل کرنا۔
ثِقَة: قابلِ اعتماد (۲) اعتماد۔
ثِقَةٌ مَالِیَة: مالی اعتماد، کریڈٹ۔
الثِّقَةُ المُتَبَادِلَة: باہمی اعتماد۔
ثِقَتُنَا عَالِیَةٌ فِیکُم: آپ پر ہمیں مکمل اعتماد ہے۔
عَلَی ثِقَةٍ: مطمئن، پُر امید۔
الثِّقَةُ بِالنَّفس: خود اعتمادی۔
وِثَاق: بندھن، رسّی، زنجیر۔
وَثِیق: مضبوط۔
وَثِیقَة: دستاویز، چارٹر، واؤچر، ڈاکومنٹ ج: وَثَائِق۔
وَثِیقَةُ اعْتِمَادٍ: تصدیق نامہ۔
وَثِیقَةٌ رَسْمِیَّة: سرکاری کاغذ، سند، ڈپلوما، دستاویز۔
وَثِیقَةٌ سِرِّیَّة: خفیہ دستاویز۔
وَثِیقَةُ عَمَلٍ: دستاویز عمل، طریقۂ کار۔
وَثِیقَةُ عَمَلٍ اَسَاسِیَّة: بنیادی طریقہ کار۔
الوَثِیقَةُ المُلْحَقَة: ملحق دستاویز۔
وَثِیقَةُ الزَّوَاج: نکاح نامہ۔
وَثَائِق: ثبوت، دستاویزات۔
وَثَائِقُ التَّمَلُّک: ملکیت نامے۔
وَاثِق: مطمئن، پُر یقین۔
تَوْثِیق: تصدیق، منظوری۔
مَوْثِق، مِیثَاق: عہد، چارٹر، معاہدہ ج: مَوَاثِیق۔
مِیثَاقُ بَیْنَ طَرَفَیْن: دو فریقی معاہدہ۔
مِیثَاقُ الأُمَمِ المُتَّحِدَة: اقوامِ متحدہ کا چارٹر، منشور۔
مِیثَاقُ العَمَلِ القَوْمِیِّ المُشْتَرَک: مشترکہ قومی جدوجہد کا عہد نامہ۔
مُوَثِّق: وثیقہ نویس، رجسٹرار۔
مُوَثَّقٌ مِنْ جِهَةٍ رَسْمِیَّةٍ و غَیْرِهَا: تصدیق شدہ۔
المَوْثُوقُ به: معتبر، قابلِ اعتماد۔
وَثَن: بت ج: اَوْثَان۔
وَثَنِی: بت پرست۔
وَثَنِیَّة: بت پرستی۔

و............ج

وَجْبَة: ایک خوراک، ایک وقت کا کھانا (۲) دانتوں کی پلیٹ (مصنوعی) ج: وَجَبات۔
وَجَبَاتٌ خَاصَّة: اسپیشل کھانے۔
وَاجِبٌ: ڈیوٹی، فریضہ ج: وَاجِبَات۔

الوَاجبُ الوَطَنِیّ: ملکی فریضہ۔
وَاجبَات: مطالبات۔
اِیْجاب: اثبات۔
اِیْجاباً: مثبت طور پر۔
اِیْجابِیّ: مثبت، مثبت کردار والا آدمی۔
اِیْجابِیَّات: مثبت اقدامات، کامیابیاں۔
تَوَجُّب: دن رات میں ایک بار کھانا کھانا (۲) ضروری ہونا۔
مُوْجِب: سبب، باعث، اقتضا۔
بِمُوْجِبِ کذا: مطابق، بمقتضا، اس کی رُو سے۔
المُوجب: موت۔
وَجَدَ ـِ وُجُوداً: پانا (۲) جاننا۔
وَجَدَ علیه وَجْداً: ناراض ہونا۔
وَجَدَ به: عاشق ہونا۔
وَجَدَ و تَوَجَّدَ له: رنجیدہ ہونا۔
لا یُوجَدُ اِخطار: نوٹس نہیں ملا۔
لا یُوجَدُ رَصِید: فنڈ نہیں ہے۔
لا یُوجَدُ ضَمَان: گارنٹی نہیں ہے۔
لا یُوجَدُ حِساب: اکاؤنٹ نہیں ہے۔
لا تُوجَدُ أوَامِر: آرڈر نہیں ہے۔
اَوْجَدَ: وجود میں لانا، پیدا کرنا (۲) سبب بنا (۳) حاضر کرنا۔
اَوْجَدَ المَشَاکِلَ: مشکلات پیدا کرنا۔
اَوْجَدَ حَلَّ المُشْکِلَة: مسئلہ کا حل نکالنا۔
اَوْجَدَ حَلّاً سِلْمِیاً لکذا: پُر امن حل نکالنا۔
اَوْجَدَ مَخْرَجاً: راہ نکالنا۔
اَوْجَدَ مَخْرَجَ الأزْمَة: بحران سے نکلنے کی راہ پیدا کرنا۔
اَوْجَدَ مُبَرِّراً لشئٍ: جواز پیدا کرنا۔
اَوْجَدَ رَوَابِطَ مُبَاشِرَةً بَیْنَ: براہِ راست تعلقات پیدا کرنا۔
اَوْجَدَ التَّوَازُنَ السِّیَاسِیَّ: سیاسی توازن قائم کرنا۔
اَوْجَدَ التَّوافُقَ و الوَحْدَةَ: اتفاق پیدا کرنا۔
اَوْجَدَ المَنَافِذَ: راہیں نکالنا۔
اَوْجَدَ النَّائِبَ: ممبر بنانا۔
اَوْجَدَ النَّاخِبَ: ووٹر تیار کرنا۔
تَوَاجَدَ: موجود ہونا، شریک ہونا۔
تَوَاجَدَ اَعْضَاءُ اللَّجْنَة: ممبران کمیٹی کا اکٹھا ہونا۔
وُجُود: شخصیت، ہستی۔
الوُجُودُ الشَّخْصِیّ: پرسنلٹی۔
تَوَاجُد: موجودگی، حاضری، وجود، شرکت، اجتماع۔
تَوَاجُدٌ عَسْکَرِیّ: فوجی اجتماع۔
مُتَوَاجِد: موجود۔
مَوْجُودَات: اشیاء، سامان، سرمایہ۔
مَوْجُودَاتٌ سَهْلَةُ التَّحْلِیلِ اِلی نَقْدٍ: نقدی میں تبدیل ہونے والا سرمایہ۔
مَوْجُودَاتٌ غَیْرُ مَلْمُوسَة: غیر محسوس سرمایہ۔
مَوْجُودَاتٌ قَابِلَةٌ لِلاِسْتِبْدَال: قابلِ تبدیل اشیاء۔
مَوْجُودَاتٌ مُتَدَاوَلَة: دست گرداں

سرمایہ۔

مَوْجُودَاتٌ مُسْتَهْلَكَة: قابلِ صرف اشیاء۔

مَوْجُودَاتٌ مَلْمُوسَة: عینی یا مادی سرمایہ۔

مَوْجُودَاتٌ وَهْمِيَّة: فرضی سرمایہ۔

وَجُزَ، وَجَازَة: اختصار۔

وَجِيز: مختصر، معمولی۔

إِيجَاز: اجمال۔

مُوْجَز: خلاصہ۔

مُوْجَزُ الأَنْبَاءِ: مختصر خبریں۔

وَجْسٌ: دل کی کھٹک۔

وَجَعٌ: درد، دُکھ ج: أَوْجَاع۔

وَجَفَ ـِ وَجْفاً و وَجِيفاً: دل دھڑکنا۔

وَجَل: ڈر ج: أَوْجَال۔

وَجَمَ ـِ وُجُوماً: خاموش ہونا، ناگواری سے سر جھکانا۔

وَجْنَة: رُخسار ج: وَجَنَات۔

وَجَّهَ إِلَى: جانا (۲) بھیجنا۔

__ الاتِّهَامَ إِلَى: فردِ جرم عائد کرنا، الزام لگانا۔

__ الاحْتِجَاجَ ضِدَّ كَذَا: احتجاج کرنا۔

__ الدَّعْوَةَ إِلَى: دعوت دینا۔

__ النِّدَاءَ إِلَى: اپیل کرنا۔

__ إِلَيهِ اللَّوْمَ: ملامت کرنا۔

وَجَّهَ إِلَيهِ التُّهْمَةَ: تہمت لگانا۔

__ ضَرْبَةً شَدِيدَةً: زبردست وار کرنا۔

__ سِلَاحَهُ إِلَى: نشانہ لگانا۔

__ النَّارَ إِلَى العَدُوِّ: دشمن پر فائرنگ کرنا۔

__ الإِهَانَاتِ إِلَى: کسی کی مسلسل توہین کرنا۔

__ تَحِيَّةَ تَقْدِيرٍ إِلَى: خراجِ عقیدت پیش کرنا۔

وَاجَهَ الأَخْطَارَ: خطرہ درپیش ہونا (۲) خطروں کا مقابلہ کرنا۔

__ المُعَارَضَةَ: مخالفت کا سامنا کرنا۔

__ المَوْقِفَ: صورتِ حال کا مقابلہ کرنا۔

__ القُوَى الطَّاغِيَةَ: ظالم طاقتوں کا مقابلہ کرنا۔

تَوَجَّهَ إِلَى: قصد کرنا، جانا، رُخ کرنا۔

تَوَجَّهَ التَّفْكِيرُ إِلَى شَيْءٍ: کسی بات کی طرف ذہن جانا۔

تَوَجَّهَ نَحْوَ إِقَامَةِ الحُكْمِ: حکومت قائم کرنے پر توجہ دینا۔

تَوَاجَهَ الرَّجُلَانِ: سامنا ہونا۔

تَوَاجَهَ الشَّيْئَانِ: آمنے سامنے ہونا۔

وَجْهٌ: (۱) سردارِ قوم (۲) ممتاز آدمی ج: وُجُوه (۳) چہرہ (۴) جانب، طرف (۵) پہلو (۶) رُخ، فرنٹ، سامنے کا حصہ (۷) سبب (۸) ذات (۹) طریقہ (۱۰) معنی (۱۱) سطح (۱۲) صورت، مظہر ج: أَوْجُه و وُجُوه۔

وَجْهُ القُمَاش: کپڑے کی سیدھی جانب۔

__ السَّاعَة: گھڑی کا ڈائل۔

__ القَوْم: سربراہ۔

__ مُسْتَعَار: مصنوعی چہرہ۔

__ مُسْتَدِير: آفتابی چہرہ۔

__ مِنَ الكِتَاب: کتاب کا ایک صفحہ۔

الوَجہُ البَحرِیّ: مصر کا زیریں حصہ۔
الوَجہُ القِبلِیّ: مصر کا بالائی حصہ۔
بِوَجہِ الإجمَال: مختصر طور پر (۲) عمومی طور پر۔
بِوَجہِ التَّقرِیب: تقریباً۔
بِوَجہٍ مَّا: کسی طرح بھی۔
فِی وَجہِہٖ: منہ پر، سامنے، روبرو۔
مَضٰی عَلٰی وَجہِہٖ: وہ جدھر منہ اٹھا چلا گیا۔
بَیَّضَ وَجہَہٗ: عزت کرنا۔
اِبیَضَّ وَجہُہٗ: سُرخ رو ہونا، عزت پانا۔
اِسوَدَّ وَجہُہٗ: ذلیل ہونا۔
سَوَّدَ وَجہَہٗ: ذلیل کرنا۔
وَجہاً لِوَجہٍ: آمنے سامنے، بالمقابل۔
بِوَجہَین: دو رُخا۔
اَوجُہُ الاِیرَاد: مدات آمدنی۔
اَوجُہُ الخِلَاف: اختلاف کی وجوہات۔
اَوجُہُ الصَّرف: مداتِ خرچ۔
اَوجُہُ النَّشَاط: سرگرمیوں کی انواع۔
وِجہَة: سمت (۲) قصد گاہ۔
___ النَّظَر: نقطۂ نظر۔
___ نَظَرِ الحَیَاة: زندگی کا نقطۂ نظر۔
___ عِلمِیَّة: علمی نقطۂ نگاہ۔
وِجھَاتُ النَّظَرِ المُتَعَارِضَةُ: متضاد نقطہ ہائے نظر۔
وَجَاھَة: ناموری، عزت و شرف۔
وَاجِھَة: سامنے کا حصہ، چہرہ۔
وَاجِھَةُ العَرض: شوونڈو۔
وَاجِھَةُ مَبنًی: فرنٹ، بلڈنگ کا سامنے والا حصہ۔

وَاجِھَةُ المَحَلّ: دوکان کا اگلا حصہ۔
جِھَات: اطراف و: جِھَةٌ۔
جِھَاتُ الاختِصَاص بکذا: متعلقہ ادارے۔
جِھَاتٌ مُختَصَّة: بااختیار ادارے۔
الجِھَاتُ المُختَصَّةُ بِتَنظِیمِ المُرُور: ٹریفک انتظام کے ادارے۔
تُجَاهَ کذَا: بالمقابل، سامنے (۲) بسلسلہ، تئیں۔
اِتِّجَاہ: رخ (۲) رجحان ج: اِتِّجَاھَات۔
اِتِّجَاہ اِقتِصَادِیّ: اقتصادی رجحان۔
اِتِّجَاہ صُعُودِیّ: اضافہ کا رجحان۔
اِتِّجَاہ ھُبُوطِیّ: کمی کا رجحان۔
التَّوَاجُہ: آمنا سامنا، مقابلہ۔
تَوَاجُہُ المَجَاعَة والجَفَاف: خشکی و قحط سالی کا سامنا۔
تَوجِیہ: ڈائرکشن، ٹریننگ، رہنمائی، ذہن سازی (۲) رجحان، رخ (۳) ہدایت، حکم۔
تَوجِیہٌ رَسمِیّ: سرکاری حکم۔
تَوجِیہٌ سَام: ارشادِ عالی۔
تَوجِیہُ الصِّحَافَة: صحافت کی رہنمائی، صحافت کو صحیح رُخ دینا۔
التَّوجِیہُ المِھَنِی: فنی رہنمائی۔
عَجلَةُ التَّوجِیہ: اسٹیرنگ۔
تَوجِیھِیّ: اصلاحی، رہنمایانہ۔
تَوجِیھَات: ارشادات، نصائح، ہدایات۔
مُوَاجَھَة: سامنا، ملاقات، مقابلہ، ٹکر۔
مُوَاجَھَةُ القُوَّتَین: دو طاقتوں کا ٹکراؤ۔

مُواجَهَةٌ عاتِيَة: سخت ترین مقابلہ۔
مُواجَهَةٌ مُباشِرَة: براہِ راست مقابلہ۔
مُواجَهَةٌ مُحْتَدِمَة: سخت ٹکراؤ، مقابلہ۔
مُواجَهَةُ السَّيْلِ الجارِفِ مِنَ الأَسْئِلَة: سوالات کی بوچھار کا سامنا۔
مُواجَهَة: منہ در منہ، رُو در رُو، براہِ راست۔
مُوَجِّه: ذہن ساز۔
مُوَجَّه: منصوبہ بند۔

و............ح

وَحَّدَ: ایک کرنا، متحد کرنا، مربوط کرنا۔
وَحَّدَ المَجْهُودَاتِ: کوششوں کو اکٹھا کرنا، متحدہ کوششیں کرنا۔
تَوَحُّدُ المَشَاعِرِ: جذبات میں یکسانیت۔
وَحْدَة: تنہائی (۲) انفرادیت (۳) یکتائی (۴) یک جہتی (۵) اتحاد، یونین (۶) اکائی، انتظامی اکائی جو مختلف شاخوں سے مل کر مرکزی شکل اختیار کرلے، یونٹ ج: وَحَدَات۔
وَحْدَةٌ إِدَارِيَّة: انتظامی یونٹ۔
وَحْدَةُ إِنْتَاجٍ: پیداواری یونٹ۔
وَحْدَةٌ إِنْدِمَاجِيَّة: انضمامی اتحاد، دو حکومتوں کا ہر لحاظ سے ایک ہوجانا، ایک دوسرے میں ضم ہوجانا۔
وَحْدَةٌ تَكْلِفَة: کاسٹ یونٹ، اخراجات کی ایک اکائی یا نوع۔
وَحْدَةُ الجِنْسِ: قومیت کی یکسانیت۔
وَحْدَةُ الدَّمِ: رشتۂ نسب۔
وَحْدَةُ الصَّوَارِيخِ الثَّقِيلَة: بھاری راکٹوں کا یونٹ۔
الوَحْدَةُ العَرَبِيَّة: عرب اتحاد۔
وَحْدَةٌ عَسْكَرِيَّة: فوجی یونٹ۔
وَحْدَةُ القُوَّةِ الكَهْرَبَائِيَّة: واٹ۔
وَحْدَةٌ لِقِيَاسِ الحَرَارَة: ڈگری۔
وَحْدَةُ المَصَالِحِ: مفادات کی یکسانیت۔
الوَحْدَةُ الوَطَنِيَّة: قومی اتحاد۔
وَحْدَةُ الهَدَفِ: مقصدی اتحاد۔
وَحَدَاتٌ رَمْزِيَّة: علامتی یونٹیں (اکائیاں)۔
وَحَدَاتٌ مُتَمَاسِكَة: جڑی ہوئی اکائیاں۔
وَحْدَوِيّ: اتحاد کا علمبردار (۲) اتحاد سے متعلق۔
وُحْدَانِيّ: اکیلا (۲) غیر مشترک (۳) غیر شادی شدہ۔
وَحِيد: یکہ وتنہا، اکلوتا (۲) بے یار و مددگار (۳) خلوت پسند۔
وَحِيدُ أَبَوَيْهِ: اکلوتی اولاد۔
وَاحِداً إِثْرَ وَاحِدٍ: یکے بعد دیگرے، آگے پیچھے۔
وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ: تُرکی بہ تُرکی۔
آحَاد: اکائیاں و: أَحَد۔
خَانَةُ الآحَادِ: اکائیوں کا خانہ۔
اِتِّحَاد: اتفاق، یکجہتی (۲) یونین، وفاق، وفاقی انجمن یا جماعت، کنفیڈریشن، ایسوسی ایشن۔
اِتِّحَادُ الاِتِّجَاه: ہم آہنگی، یکجہتی۔
اِتِّحَادُ الآرَاء: ہم خیالی۔
اِتِّحَادٌ تِجَارِيّ: ٹریڈ یونین۔
اِتِّحَادٌ جُمْرُكِيّ: کسٹم یونین۔
اِتِّحَادٌ تَعَاهُدِيّ: کنفیڈریشن۔

اِتِّحادُ الحُقُوقِیِّین: انجمنِ وُکلاء۔
اِتِّحادُ الصَّحَفِیِّین: پریس یونین۔
اِتِّحادُ العُمَّال: لیبر یونین۔
اِتِّحادِی: یونین کا، یونین سے متعلق۔
الأُمَمُ المُتَّحِدَة: اقوامِ متحدہ۔
الوِلَایَاتُ المُتَّحِدَة: امریکا۔
وَحْش: جنگلی جانور، آدم خور ج: وُحُوش۔
وَحْشِیَّة: درندگی۔
وَحْشِیّ: وحشیانہ۔
وَحَل: کیچڑ ج: اَوْحَال۔
وَحْیٌ مِنَ الضَّمِیْر: ضمیر کی آواز۔

و............خ

وَخَزَهُ ضَمِیْرُه ــِ وَخْزاً: اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی۔
وَخْزُ الضَّمِیْر: پشیمانی، ندامت، ضمیر کی ملامت۔
وَخْزَة: چبھن، کچوکا۔
وَخِیم: دیر ہضم (۲) نقصان دہ۔
وَخِیمُ العَاقِبَة: بدانجام۔
تَوَخّٰی: چاہنا، ارادہ کرنا (۲) منتظر ہونا، متوقع ہونا۔
المُتَوَخّٰی: متوقع۔

و............د

وُدّ، وِدَاد، مَوَدَّة: دوستی، تعلق، محبت، فرینڈ شپ، گڈ ویل۔
وُدِّی، وِدَادِی: دوستانہ۔
وَدَّعَ تَوْدِیعاً: الوداع کہنا، خدا حافظ کہنا۔
اَوْدَعَ و اسْتَوْدَعَ الرَّجُلَ الشَّیءَ: کسی کے پاس امانت رکھنا۔
اَوْدَعَ النُّقُودَ فِی المَصْرِف: بینک میں روپیہ جمع کرنا۔
اَوْدَعَ کِتَابَه کذا: ذکر کرنا، لکھنا۔
اَوْدَعَ التَّأمِیْن: ضمانت داخل کرنا، مالِ ضمانت جمع کرنا۔
اَوْدَعَهُ السِّرَّ: راز کہنا۔
اَوْدَعَهُ السِّجْن: جیل میں ڈالنا۔
اَوْدَعَ الجُثَّةَ القَبْر: سپردِ خاک کرنا۔
اَسْتَوْدِعُکُمُ الله: خدا حافظ، گڈ بائی۔
دَعَة، وَدَاعَة: نرم مزاج (۲) سنجیدگی (۳) تواضع وانکساری۔
وَدْع و: وَدْعَة: کوڑی۔
وِدَاع: رخصت۔
وِدَاعاً: خدا حافظ۔
حَفْلَةُ الوِدَاع: وداعی پارٹی۔
وَدِیع: سنجیدہ، پرسکون، خاموش، مسکین صفت۔
وَدِیعَة: امانت، ڈپازٹ ج: وَدَائِع۔
وَدِیعَةٌ مَالِیَّة: بینک میں محفوظ سرمایہ۔
وَدَائِعُ اِدِّخَارِیَّة: سیونگ ڈپازٹ، جمع کردہ امانتیں۔
وَدَائِعُ الأَفْرَاد: پرائیویٹ ڈپازٹ، شخصی امانتیں۔
وَدَائِعُ البُنُوک: بینک ڈپازٹ۔
وَدَائِعُ تُسْحَبُ بَعْدَ اِخْطَار: نوٹس ڈپازٹ۔
وَدَائِعُ مَصْرِفِیَّة: فنڈ، بینک سرمایہ۔
وَادِع: امانت رکھنے والا (۲) رقم جمع کرانے والا، ڈپازیٹر۔
اِیْدَاعٌ لِمُدَّةٍ مَحْدُودَةٍ: فکسڈ ڈپازٹ۔
الاِیْدَاعُ والسَّحْب: لین دین (بینک

سے)۔
اَیْدَاعٌ یُسْحَبُ لَدَی الطَّلَب: عند الطلب لی جانے والی امانت۔
مُوْدِعٌ: ڈپازیٹر، امانت جمع کرنے والا۔
مُوَدِّع: الوداع کہنے والا۔
مُسْتَوْدِع: امانت دار، امانت رکھنے والا، مال چھڑانے والا۔
مُسْتَوْدَع: گودام، ڈپو، میگزین، اسٹور ہاؤس ج: مُسْتَوْدَعات۔
مُسْتَوْدَعُ الاَدَوَاتِ الحَرْبِیَّة: اسلحہ خانہ۔
مُسْتَوْدَعُ بَضَائِع: مال گودام۔
مُسْتَوْدَعُ لِلذَّخِیْرَة و المُعَدَّاتِ العَسْکَرِیَّة: فوجی سامان کا ڈپو۔
وَدَکٌ: چکناہٹ۔
اَوْدَی: ہلاک ہونا۔
اَوْدَی به: ہلاک کرنا۔

و............ر

وَرِثَ ـ وِرْثاً و اِرْثاً: وارث ہونا۔
تَوَارَثَ الشَّیْءَ أَباً عَنْ جَدّ: باپ دادا سے وراثت میں پانا۔
تُـرَاث: مالِ وراثت، ورثہ، میراث، موروثی سرمایہ۔
تُرَاث عِلْمِیّ: علمی سرمایہ، وراثت۔
تُرَاثِیّ: قوی، موروثی۔
وَارِث، وَرِیْث: جانشین۔
وَارِثٌ و وَرِیْثٌ شَرْعِیّ: حقیقی جانشین، ولی عہد۔
الـوَرِیْثُ الافْتِرَاضِیّ: وارث قیاسی، ایسا وارث جس کا حق وراثت زائل نہ ہو بجز اس کے کہ کوئی قریب تر وارث پیدا ہو جائے۔
وِرَاثِیّ: آبائی، موروثی۔
مُتَوَارَث: آبائی، موروثی۔
وَرَدَ ـ وُرُوْداً: آنا۔
وَرَدَتِ الطَّلَبَاتُ: فرمائشیں آنا۔
وَرَدَتِ المَعْلُوْمَاتُ اِلَی کذا: معلومات فراہم ہونا۔
وَرَّدَ، أَوْرَدَ: لانا، حاضر کرنا۔
وَرَّدَ: برآمد کرنا، بیرونِ ملک کوئی چیز سپلائی کرنا۔
وَرَّدَ السِّلَاحَ اللَّازِمَ لِأَحَد: کسی کے لئے ضروری ہتھیار بھیجنا۔
اَوْرَدَ: لانا، ذکر کرنا۔
تَوَرَّدَ: سرخ ہونا۔
اِسْتَوْرَدَ الاَشْیَاء: بیرونِ ملک سے سامان منگانا، درآمد کرنا، امپورٹ کرنا۔
وَرْد: گلاب کا پھول، گلاب و: وَرْدَة۔
وَرْدَة: واشر WASHAR (دا)۔
وَرْدِیّ: گلابی۔
وِرْدٌ: وظیفہ، دعا ج: اَوْرَاد۔
وَرِیْد: گردن کی رگ۔
اِلْتِهَابٌ وَرِیْدِیّ: سوزشِ ورید۔
وَارِد: آمدنی (۲) درآمد ج: وَارِدَات۔
الوَارِدَات: درآمدات، درآمد کردہ سامان۔
اِیْـرَاد: پیش کش (۲) ذکر، بیان (۳) آمدنی، انکم (۴) پیداوار ج: اِیْرَادَات۔
اِیْرَادُ الجَمَارِک: کسٹم آمدنی۔

الایْرَادُ الصَّافِی: خالص آمدنی، خالص نفع۔
الایْرَادُ العَائِلِیَ: فیملی انکم، خاندان کی آمدنی۔
اِیْرَادٌ مَدْفُوعٌ مُقَدَّماً: پیشگی ادا کردہ آمدنی۔
اِیْرَادُ مَدَی الحَیاة: آمد تازیست۔
اِیْرَادٌ مُکْتَسَب: کمائی ہوئی آمدنی۔
اِیْرَادَاتٌ مَقْبُوضَةٌ مُقَدَّماً: پیشگی وصول کی ہوئی آمدنی۔
الایْرَادَاتُ والمَصْرُوفَات: آمدو صرف۔
اِسْتِیْرَاد: درآمدگی۔
تَوْرِیْد: برآمدگی۔
تَوْرِیْدَات: سپلائیاں، مختلف قسم کی سپلائی۔
مُسْتَوْرَد: درآمد کیا ہوا، باہر سے لایا ہوا۔
مُسْتَوْرِد: امپورٹر، درآمد کرنے والا۔
مَوْرِد: ذریعۂ آمدنی ج: مَوَارِدُ۔
مُوَرِّد: سامان مہیا کرنے والا، سپلائر (۲) ٹھیکیدار۔
مَوْرِدَة: نہروں میں کشتیوں کے لنگر انداز ہونے کی جگہ۔
مَوَارِدُ: ذرائع۔
مَوَارِدُ مَادِّيَةٌ ضَخْمَة: زبردست مادی ذرائع۔
مَوَارِدُ مَالِیَة: فنڈ، فینانس، ذرائعِ آمدنی۔
مَوَارِدُ المِیزانِیَة: بجٹ کی آمدنی کے ذرائع۔
وَرْشَة: ورکشاپ، کارخانۂ اصلاح ج: وَرْشَات۔
وَرَّطَ، اَوْرَطَ: ہلاکت میں ڈالنا (۲) مشکل میں پھنسانا، پریشانی میں ڈالنا۔
تَوَرَّطَ، اسْتَوْرَطَ: مصیبت میں پھنسنا، دلدل میں پھنسنا۔
تَوَرَّطَ فِی الجَرِیْمَة: جرم میں ملوث ہونا۔
وَرْطَة: ہلاکت (۲) مشکل (۳) گرداب بھنور (۴) پریشانی، دشواری، آویزش ج وَرَطَات۔
وَرَع: پرہیزگاری، تقویٰ۔
تَوَرَّعَ عَنْ: احتراز کرنا، باز رہنا، احتیاط برتنا، دامن کش ہونا۔
وَرَفَ ـِ وَرْفاً و وَرِیْفاً و اَوْرَفَ: نبات کا تروتازہ ہونا۔
وَارِف: تروتازہ (۲) سایۂ وسیع۔
وَرَق: کاغذ (۲) پتا ج: اَوْرَاق۔
__ طَبْع: پرنٹنگ پیپر۔
__ خِطَابَات: مراسلات کا کاغذ، نوٹ پیپر۔
__ کِتَابَة: رائٹنگ پیپر۔
__ رَسْم: نقشہ کشی کا کاغذ۔
__ نَشَّاف: جاذب، بلاٹنگ پیپر۔
__ نَاعِم اَوْ نَعَام: آرٹ پیپر۔
__ نَاعِمٌ مُمْتَاز: اعلیٰ قسم کا آرٹ پیپر۔
__ نَاعِمٌ مَسْطُور: رولدار کاغذ۔
__ اللَّعِب: تاش کے پتے۔
__ حِیْطَان: دیوار پر لگانے کا کاغذ۔

__ الاِخْتِبَار: ٹیسٹ پیپر۔
__ التَّغْلِیْف: پیکنگ پیپر۔
__ حَجْمِ کَبِیْر: فل اسکیپ سائز کاغذ۔
__ خَشِن: رف کاغذ، اخباری کاغذ۔
__ خِطَاب (مَطْبُوعٌ عَلَیْهِ الْعُنْوَانُ): لیٹر فارم۔
__ زَیْتِیّ: چکنا پیپر۔
__ الصُّحُف: نیوز پیپر۔
__ کَرْبُوْن: کاربن پیپر۔
__ لَفّ: پیکنگ پیپر۔
وَرَق مُجَزَّع: رنگین یا پھولدار کاغذ۔
__ مَدْمُوْغ: اسٹامپ پیپر۔
__ المِرْحَاض: ٹائلیٹ پیپر۔
__ مُشَمَّع: اسٹینسل۔
__ مَصْقُوْل: آرٹ پیپر۔
__ مُقَوًّی: آرٹ کارڈ، گتا، کارڈ بورڈ۔
__ مَنْقُوْش: ابری۔
__ یَا نَصِیْب: لاٹری۔
وَرَقَة: ایک کاغذ، ایک شیٹ (۲) ایک پتا۔
وَرَقَةُ الاتِّهَام: فردِ قرار دادِ جرم۔
وَرَقَةُ اقتِرَاع: ووٹ پیپر، پیپر بیلٹ۔
وَرَقَةُ الانْتِخَاب: انتخابی پرچی، بیلٹ پیپر۔
وَرَقَةُ انْتِخَابٍ بَیْضَاءُ: کورا کاغذ، سادہ پرچۂ انتخاب۔
وَرَقَةُ التَّصْرِیْح: اجازت نامہ۔
وَرَقَةُ التَّصْوِیْت: بیلٹ پیپر، پرچہ رائے دہی۔
وَرَقَةُ عَمَلٍ: نقشۂ کار، تجویز نامہ، پروگرام۔
وَرَقَةٌ مِنَ الدَّرَجَةِ الأُوْلٰی: فرسٹ کلاس کاغذ، فرسٹ کلاس پیپر۔

وَرَقَة نَقْدِیَّة: نوٹ۔
اَوْرَاق و: وَرَق: کاغذات، پرچے۔
اَوْرَاقُ الاِعْتِمَاد: شناختی کاغذات، اسنادِ کار، اسنادِ سفارت، تعارفی کاغذات جو ایک سفیر دوسرے ملک کو پیش کرتا ہے، سفارتی اسناد۔
اَوْرَاقُ تَحْقِیْقِ الشَّخْصِیَّة: شناختی دستاویزات۔
اَوْرَاقُ التَّعْیِیْن: کاغذاتِ نامزدگی۔
اَوْرَاقُ الحَظّ: لاٹری۔
اَوْرَاقُ دَفْع: کاغذاتِ ادائیگی۔
اَوْرَاقُ قَبْض: کاغذاتِ وصولیابی۔
الاَوْرَاقُ المُرْفَقَة: منسلکہ کاغذات۔
وَرَّاق: کاغذ ساز (۲) کاغذ فروش (۳) تاجرِ کتب (۴) اسٹیشنر۔
وِرَاقَة: کاغذ سازی (۲) کاغذ وغیرہ کی تجارت، اسٹیشنری۔
وَرْنِیْش: وارنش (مع) پالش۔
وَرْنِیْش جِزَم: جوتا پالش۔

و..........ز

مِیْزَاب: پرنالہ۔
وِزْر: گناہ، بوجھ ج: اَوْزَار۔
وِزَارَة: وزارت، منسٹری (۲) کیبنٹ، جماعتِ وزراء (۳) وزیر کا آفس۔
وِزَارَةُ الاِرْشَادِ القَوْمِیّ: وزارتِ قومی رہنمائی۔
وِزَارَةُ الاِسْتِعْلَامَات: انفارمیشن منسٹری، وزارتِ اطلاعات۔
وِزَارَةُ الاِسْکَان: ہاؤسنگ منسٹری، وزارتِ آبادکاری۔

وِزَارَةُ الاَشْغَال: وزارتِ محنت۔
وِزَارَةُ الاَشْغَالِ العُمُومِيَّة: وزارتِ محنت عامہ۔
وِزَارَةُ الاِعْلَام: وزارتِ اطلاعات۔
وِزَارَةُ الاَوْقَاف: وزارتِ اوقاف۔
وِزَارَةٌ اِئْتِلَافِيَّة: مشترکہ وزارت۔
وِزَارَةُ البِتْرُول و التَّعْدِين: وزارتِ پٹرول و معدنیات۔
وِزَارَةُ البَحْثِ العِلْمِيّ: وزارتِ تحقیق وریسرچ۔
وِزَارَةُ التَّخْطِيط: وزارتِ منصوبہ بندی۔
وِزَارَةُ التَّخْطِيطِ القَوْمِيّ: وزارتِ قومی پلاننگ۔
وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ و التَّعْلِيم: ایجوکیشن منسٹری، وزارتِ تعلیم وتربیت۔
وِزَارَةُ التَّمْوِين: وزارتِ خوراک، وزارت سپلائی۔
وِزَارَةُ الحَرْبِيَّة: وزارتِ جنگ۔
وِزَارَةُ الخَارِجِيَّة: فارن منسٹری، وزارتِ خارجہ، فارن آفس، دفترِ امورِ خارجہ۔
وِزَارَةُ الخِزَانَة: وزارتِ خزانہ۔
وِزَارَةُ الدَّاخِلِيَّة: وزارتِ داخلہ، ہوم آفس۔
وِزَارَةُ العَدْل: وزارتِ قانون، وزارتِ انصاف۔
وِزَارَةُ الحَقَّانِيَة: وزارتِ قانون۔
وِزَارَةُ الدِّفَاعِ الوَطَنِيّ: وزارتِ قومی دفاع، نیشنل ڈیفنس منسٹری۔
وِزَارَةُ الرَّيّ: وزارتِ آب پاشی۔
وِزَارَةُ السِّيَاحَة: وزارتِ سیاحت، ٹور منسٹری۔
وِزَارَةُ الشُّئُونِ البَلَدِيَّة و القَرَوِيَّة: دیہی اور شہری معاملات کی وزارت۔
وِزَارَةُ شُئُونِ الرِّئَاسَة: وزارتِ صدارتی امور۔
وِزَارَةُ الطَّيَرَانِ المَدَنِيّ: شہری ہوابازی کی وزارت۔
وِزَارَةٌ مَدَنِيَّة: سِول وزارت۔
وِزَارَةُ المُسْتَعْمَرَات: وزارتِ نوآبادکاری۔
وِزَارَةُ النَّقْلِ البَحْرِيّ: وزارتِ بحری ٹرانسپورٹ
وِزَارَةُ المَالِيَّة: وزارتِ خزانہ، وزارتِ مالیات، فنانس منسٹری۔
وِزَارَةُ المُوَاصَلَات: وزارتِ رسل ورسائل۔
وَكِيلُ الوِزَارَة: انڈر سکریٹری آف اسٹیٹ۔
وِزَارِيّ: وزارت کا، وزارت سے متعلق۔
وَزِير: منسٹر، وزیر ج: وُزَرَاء۔
وَزِيرُ الاِسْكَانِ والتَّعْمِير: وزیرِ تعمیر و آبادکاری۔
وَزِيرُ الاَشْغَال: وزیرِ محنت۔
وَزِيرُ الاِعْلَام: وزیرِ اطلاعات۔
وَزِيرُ الاَغْذِيَة: فوڈ منسٹر، وزیرِ خوراک۔
وَزِيرُ البِتْرُول و المَعَادِن: وزیرِ پٹرول و معدنیات۔
وَزِيرٌ بِالنِّيَابَة: قائم مقام وزیر۔
وَزِيرٌ بِالوَكَالَة: قائم مقام وزیر۔
وَزِيرُ التَّخْطِيط: وزیرِ پلاننگ۔
وَزِيرُ التَّعْمِيرِ والاِنْشَاء: وزیرِ تعمیر وترقی۔
وَزِيرُ التَّمْوِين: وزیرِ سپلائی، فوڈ منسٹر۔
وَزِيرُ الخَارِجِيَّة: وزیرِ خارجہ، امریکا کا سیکرٹری آف اسٹیٹ۔
وَزِيرُ الخَارِجِيَّة بِالنِّيَابَة: قائم مقام وزیرِ خارجہ۔
وَزِيرُ الخِزَانَة: وزیرِ خزانہ۔
وَزِيرُ الدَّاخِلِيَّة: وزیرِ داخلہ، برطانیہ کا ہوم سیکرٹری۔

وَزِیرُ الدِّفَاع و الطَّیَران: وزیر دفاع وہوا بازی۔
وَزِیرُ دَوْلَة: وزیر مملکت، کیبنٹ وزیر، وزیر بے قلمدان۔
وَزِیرُ الدَّوْلَة للشُّئُونِ المَالِیَة: وزیر مملکت برائے مالیات۔
وَزِیرُ الشُّئُونِ البَلَدِیَة و القَرَوِیَة: شہری و دیہاتی امور کے وزیر۔
وَزِیرُ الصِّنَاعَة و الطَّاقَة: وزیر صنعت و توانائی۔
وَزِیرُ العَمَل: وزیر محنت۔
وَزِیرٌ فی هَیْئَةِ الوِزَارة: کیبنٹ وزیر۔
وَزِیرُ الکَهْرَبَاء و المَاءِ: وزیر برقاب۔
وَزِیرُ المَعَارِف: وزیر تعلیم۔
وَزِیرٌ مُفَوَّض: وزیر مختار، سفیر مختار، وہ سفیر جسے کامل اختیارات حاصل ہوں۔
وَزِیرُ النَّقْل: وزیر نقل وحمل۔
وَزّ، اِوَزّ: بطخ، مرغابی۔
وَزَعَ ـــ وَزْعاً: روکنا، منع کرنا۔
وَزَّعَ: تقسیم کرنا۔
وَزَّعَ الاخْتِصَاصَاتِ: اختیارات تقسیم کرنا۔
ـــ اَفْرَادَ البُولِیس عَلَی المُدِیرِیَّات: پولیس مینوں کو اضلاع پر تقسیم کرنا۔
ـــ البَیَانَ عَلَی الصُّحُف: اخبارات کو بیان بھیجنا۔
ـــ قُوَّاتِ الأَمْن فِی مَفَارِقِ الطُّرُق: چوراہوں پر پی، اے، سی کو تعینات کرنا۔
ـــ المهامّ علی الاعْضَاء: ممبران کو ذمہ داریاں سونپنا۔
تَوَزَّعَ: تقسیم ہونا، بٹ جانا۔
وَازِع: مانع (۲) عبرت۔
الوَزَّاع: کنٹرولر، نگراں۔
تَوْزِیع: سرکلیشن، اشاعت، تقسیم۔
تَوْزِیعُ الاَرْبَاح: منافع کی تقسیم۔
تَوْزِیعٌ جُغْرَافِیّ: جغرافیائی تقسیم۔
تَوْزِیعُ الدَّوَائِر: حلقوں کی تقسیم۔
تَوْزِیعُ الرَّسَائِل: ڈاک ڈلیوری، خطوط کی تقسیم۔
تَوْزِیعٌ عَادِلٌ: منصفانہ تقسیم۔
تَوْزِیعُ الغِذَاءِ بِالمَقَرَّات: مراکز پر راشن کی تقسیم۔
تَوْزِیعَة: ایک ڈلیوری۔
مُوَزِّع: ڈسٹی بیوٹر، مقسم۔
مُوَزِّعُ المِنْطَقَة: علاقائی مقسم۔
وَزَنَ ـــ وَزْناً: تولنا۔
وَزَنَ الحِسَابَ: حساب لگانا۔
الوَزْنُ الزَّائِدُ فِی العَفْش: سامان کا زائد وزن۔
وَزْنَة: باٹ۔
اِتِّزَان: توازن، سنجیدگی۔
مُوَازَنَة: تقابل، توازن، بیلنس۔
مُوَازَنَةُ الحِسَابَات: بیلنس، حسابات کا ملان، تقابل۔
مِیزَان: توازن، لیول، بیلنس (۲) ترازو، کانٹا ج: مَوَازِین۔
المِیزَانُ التِّجَارِیّ: تجارتی توازن۔
مِیزَانُ البُخَار: اسٹیم پیما، بھاپ پیما، اسٹیم دیکھنے کا آلہ۔

مِیزَانٌ تِجارِیٌّ غَیرُ مُوافِق: نامساعد تجارتی توازن۔

مِیزَانُ الثِقَلِ النَّوعِیِّ: کثافتِ نوعی کا پیمانہ (ڈینسی میٹر)۔

مِیزَانُ ثِقَلِ الهَواءِ: بیرومیٹر، بادپیا۔

مِیزَانُ الحَرَارَة: تھرمامیٹر۔

مِیزَانُ السَّاعَة: بیلنس، موجودہ بیلنس۔

مِیزَانُ ضَغطِ البُخار: دُخان پیما، جو بائلر میں لگا ہوتا ہے جس سے بھاپ کے دباؤ کی مقدار معلوم ہوتی ہے۔

مِیزَانُ القُوىٰ: طاقت کا توازن۔

مِیزَانُ اللَّبَنِ: دودھ کی جانچ کا آلہ، شیر پیما، دودھ کسوٹی۔

مِیزَانُ المَدفُوعَات: ادائیگی بیلنس، ادائیگی کا توازن۔

مِیزَانُ مُرَاجَعَة: حسابی جانچ کی پوزیشن۔

مِیزَانِیَة: بجٹ، بیلنس شیٹ۔

مِیزَانِیَةُ الإِنتَاج: پیداواری بجٹ۔

مِیزَانِیَةُ التَّنمِیَة: ترقیاتی بجٹ۔

مِیزَانِیَةُ الحُکُومَة: سرکاری بجٹ۔

مِیزَانِیَةُ الدِّفَاع: دفاعی بجٹ۔

مِیزَانِیَةٌ ضَخمَة: بھاری بجٹ۔

المِیزَانِیَةُ العَامَّة: عمومی بجٹ، جنرل بجٹ۔

مِیزَانِیَة عُمُومِیَّة: جنرل بجٹ، عمومی بجٹ۔

مِیزَانِیَةٌ مُتَّزِنَة: متوازن بجٹ۔

مِیزَانِیَةُ المُشتَرَیَات: خریداری بجٹ۔

مِیزَانِیَةٌ نَقدِیَة: کیش بجٹ۔

مُتَّزِن: سنجیدہ مزاج (۲) متوازن۔

و..........س

وَسَخ: میل (۲) گندگی ج: اَوسَاخ۔

وِسَادَة: تکیہ (۲) بینچ وغیرہ کا گدا ج: وَسَائِد۔

تَوَسَّدَ: تکیہ پر سر رکھنا۔

وَسْط: بیچ، درمیان۔

وَسْطَ الجُمُوع: ہجوم کے درمیان۔

وَسَــط: مرکز، وسطی حصہ (۲) درمیانی، مڈل، اوسط درجے کا، بَین بَین (۳) مرکزی، سنٹرل (۴) درمیانی چیز۔

وَسَطُ آسِیَا: وسطِ ایشیا۔

وَسَطُ أُورُبَا: وسطِ یورپ۔

وَسط (۲): ماحول، حلقہ، دائرہ ج: اَوسَاط۔

وَسَط، وَسَطَانِیّ: درمیانی درجہ کا۔

وِسَاطَة: ثالثی (۲) ذریعہ (۳) سفارش۔

وَسِیط: ثالث (۲) دلال، وکیل (۳) سفارشی ج: وُسَطَاء۔

وَاسِطَة: ذریعہ (۲) میڈیم۔

بِوَاسِطَةِ کذا: بذریعہ۔

أَوسَط: مڈل، درمیانہ۔

الأَوسَاطُ الأَدَبِیَة: ادبی حلقے۔

الأَوسَاطُ التِجَارِیَة: تجارتی حلقے۔

الأَوسَاطُ الدِّینِیَة: دینی حلقے۔

الأَوسَاطُ العِلمِیَة: علمی حلقے۔

تَوَسَّطَ المَکَانَ: بیچ میں بیٹھنا۔

تَوَسَّطَ بَینَهُم: ثالث بننا، بیچ بچاؤ کرانا۔

مُتَوَسِّط: درمیانی، درمیانہ، مڈل، میڈیم (۲) مرکزی (۳) اوسط۔

مُتَوَسِّطٌ حِسَابِيّ: حساب کا اوسط۔
البَحْرُ المُتَوَسِّط: بحر روم۔
وَسُعَ ۔ سَعَةُ المَکَانُ: کشادہ ہونا، گنجائش ہونا۔
وَسِعَهُ: سمونا، احاطہ کرنا، عام ہونا۔
وَسَّعَ آفَاقَ الشيْءِ: دائروں کو وسعت دینا۔
وَسَّعَ رُقْعَةَ السُّلْطَانِ: دائرہ اقتدار بڑھانا۔
وَسَّعَ رُقْعَةَ المَمْلَکَةِ: مملکت کے رقبہ کو وسیع کرنا۔
وَسَّعَ الاخْتِصَاصَاتِ: اختیارات بڑھانا۔
وَسَّعَ النِّطَاقَ: دائرہ وسیع کرنا۔
وَسَّعَ الوِزَارَةَ: وزارت میں توسیع کرنا۔
تَوَسَّعَ الطَّلَبُ: ڈیمانڈ بڑھنا، مانگ میں اضافہ ہونا۔
اِتَّسَعَتِ الآفَاقُ: دائرے وسیع ہونا۔
اِتَّسَعَتِ الفَجْوَةُ بَيْنَ كذا: خلیج وسیع ہونا، درمیانی بُعد بڑھنا۔
وُسْع: طاقت، پاور۔
بَذَلَ وُسْعَه: طاقت صرف کرنا۔
في وُسْعِه: مقدور میں۔
سَعَة: گنجائش، کشادگی، قدرت، صلاحیت۔
ذُوسَعَة: خوشحال۔
وَاسِعُ الانْتِشَار: کثیر الاشاعت۔
وَاسِعُ الخِبْرَة: بڑا تجربہ کار، وسیع تجربہ رکھنے والا۔
تَوَسُّع: اضافہ۔
تَوْسِعَةُ البِنَاء: عمارت کی توسیع۔
مُتَّسَع: گنجائش (۲) خالی جگہ۔
مُوسِع: مالدار۔
مُوَسَّع: زبردست پیمانہ پر، وسیع پیمانہ پر، وسیع تر، اعلیٰ پیمانہ پر۔
مُوسِعَةُ الحِذَاء: شواسٹریچر، جوتا بنانے کا فرما۔
مَوْسُوعَةٌ عِلْمِيَّة: انسائیکلو پیڈیا۔
مَوْسُوعَةٌ لُغَوِيَّة: لغت کی جامع کتاب۔
وِسْكِي: (مع) ایک قسم کی شراب۔
تَوَسَّلَ الی: کسی سے درخواست کرنا۔
تَوَسَّلَ المَرِيضُ الدَّوَاءَ: مریض کا دوا طلب کرنا۔
وَسِيلَة: راستہ، میڈیم، ذریعہ۔
وَسَائِلُ آلِيَّةٌ حَدِيثَة: جدید مشینی وسائل۔
وَسَائِلُ الاِعْلَام: ذرائع نشر واشاعت، ذرائع ابلاغ۔
وَسَائِلُ الاِعْلَان: ذرائع اشتہار۔
وَسَائِلُ تَنْهَضُ بِالتَّعْلِيم: تعلیمی ترقی کے ذرائع۔
وَسَائِلُ العُنْف: تشدد کے ذرائع۔
الوَسَائِلُ المُتَاحَة: ممکنہ ذرائع۔
وَسَائِلُ المَعِيشَة: معاشی ذرائع۔
وَسَائِلُ النَّقْل: مواصلات۔
وَسَمَ: (ض) علامت لگانا۔
سِمَة: نشان، مارک ج: سِمَات۔
وِسَام: تمغہ، شان، اعزازی نشان ج: أَوْسِمَة و وِسَامَات۔
وَسَامَة: خوبصورتی۔
وَسِيم: خوب رو۔
اِتَّسَامَ الشيْءُ بكذا: حامل ہونا، متصف ہونا۔

مَوْسِم: فصل، سیزن (۲) وقت (۳) تہوار (۴) میلہ، جشن ج: مَوَاسِم۔
مَوْسِمٌ رَاكِدٌ: منجمد موسم۔
مَوْسِمٌ كَاسِد: ڈل سیزن، مندا سیزن۔
مَوْسِمِيّ: سیزن کا، وقتی۔
الرِّيحُ المَوْسِمِيَّة: مون سون۔
مُوسَى: استرا ج: مَوَاسٍ۔

و............ش

وُشْك: نزدیکی، قرب۔
عَلَى وُشْك: قریب، نزدیک۔
وَشَى به إلَى اَحَدٍ ـــ ـِ وَشْياً: چغلی کھانا، شکایت کرنا۔
وَشْيٌ، وِشَايَة: چغل خوری۔

و............ص

وَصَفَ ـــ ـِ وَصْفاً: صفت بیان کرنا، کیفیت بیان کرنا (۲) حلیہ بیان کرنا (۳) دوا تجویز کرنا۔
اِسْتَوْصَفَ الطَّبِيبَ: معالج سے مشورہ لینا، ڈاکٹر یا حکیم سے دوا لکھوانا۔
صِفَة: حیثیت، حالت (فَعَلَ بِصِفَتِهِ طَبِيباً: اس نے بحیثیت طبیب کام کیا)۔
صِفَةٌ دُوَلِيَّة: بین الاقوامی حیثیت۔
بِصِفَةٍ رَسْمِيَّة: باضابطہ، سرکاری حیثیت سے، قانونی طور پر۔
وَصْفُ البِضَاعَة: سامان کی کیفیت۔
وَصْفٌ مُجْمَل: اجمالی خاکہ۔
بِوَصْفِ كذا: بطور، بحیثیت، باعتبار۔
وَصْفَة: نسخہ۔
وَصِيف: خادمِ خاص، غلام۔
وَصِيفَة: خادمہ، کنیز۔
مُسْتَوْصَف: مطب (۲) ڈسپنسری۔
مُوَاصَفَات: اوصاف، تفصیلات، تعارف، شرائط۔
وَصَلَ ـــ ـِ وَصْلاً: ملانا، جوڑنا۔
وَصَلَ ـــ ـِ وُصُولاً: پہنچنا۔
وَصَلَ إِلَى الحَضِيض: گہرائی میں گر جانا۔
وَصَلَ إِلَى لَحْظَةٍ حَرِجَةٍ: نازک موڑ پر پہنچنا۔
وَصَلَتِ الفَتْرَةُ إِلَى ثَلاثِينَ يَوْماً: وقفہ کا تیس دن ہونا۔
وَصَّلَه به: جوڑنا۔ ملانا۔
وَصَّلَه إِلَى: پہنچانا۔
وَاصَلَ العَمَلَ مُوَاصَلَةً: جاری رکھنا، مسلسل کرنا۔
ـــ الإِضْرَابَ عَنِ الطَّعَام: بھوک ہڑتال جاری رکھنا۔
ـــ التَّحْقِيقَ فِي الحَادِث: واقعہ کی تفتیش جاری رکھنا۔
ـــ التَّأْيِيدَ لكذا: حمایت جاری رکھنا۔
ـــ التقدم: پیش قدمی جاری رکھنا۔
ـــ بَذْلَ الجُهُود: جدوجہد جاری رکھنا۔
تَوَصَّلَ إِلَى اتِّفَاقٍ شَامِلٍ حَوْلَ كذا: کسی سلسلہ میں مکمل اتفاق کر لینا۔
تَوَصَّلَ إِلَى تَسْوِيَةٍ لِلأَزْمَة: مسئلہ کے حل پر پہنچنا۔
تَوَصَّلَ إِلَى حَقِيقَةِ شَيْءٍ: کسی چیز کی تہہ تک پہنچنا۔
تَوَصَّلَ إِلَى حَلٍّ لأَزْمَةٍ: مسئلہ کے حل

پر پہنچنا۔
وَصْل: رسید (۲) واؤچر۔
وُصْل: جوڑ ج: اَوْصَال۔
صِلَاتٌ جَوِّيَة: فضائی روابط و: صِلَة۔
وُصُول: آمد (۲) رسید۔
وُصُولِيّ: خودغرض۔
وَصِيلُ الرَّجُل: رفیق، ہم دم۔
وُصْلَة: جوڑ، جنکشن۔
وُصْلَةُ الكَلَام: صفحہ کے آخر کا لفظ جو دوسرے صفحہ پر دُہرایا جائے۔
وَاصِلَة: پلگ۔
وَاصِلَةُ مِسَرَّة: ٹیلیفون پلگ۔
اِتِّصَال: کال، کنکشن۔
اِتِّصَالٌ مُبَاشِر: ڈائرکٹ کال، براہِ راست رابطہ۔
اِتِّصَالٌ جَوِّيّ: فضائی رابطہ۔
اِتِّصَال دِبْلُومَاسِيّ: سفارتی رابطہ۔
اِتِّصَالَاتٌ تِلِيفُونِيَّة: ٹیلیفون رابطے۔
اِتِّصَالَاتٌ سِرِّيَّة: خفیہ روابط۔
اِيْصَال: رسید ج: اِيْصَالَات۔
اِيْصَالُ اَمَانَة: رقم جمع کرنے کی رسید، ڈپازٹ رسید۔
اِيْصَالُ اِيْدَاع: جمع امانت کی رسید۔
اِيْصَالٌ بِكُلِّ المَبْلَغ: پوری رقم کی رسید۔
تَوْصِيل: ڈلیوری۔
تَوْصِيلَة: (دا) سواری کی اُجرت۔
مُتَّصِل، مُتَوَاصِل: مسلسل۔
وَصْمَة: داغ، نشان ج: وَصَمَات۔
وَصْمَةُ الاَصَابِع: نشانِ انگشت۔

وَصْمَةُ بالعَار: کلنک کا ٹیکہ۔
وَصَّى بفُلَان: سفارش کرنا۔
وَصِيّ: ٹرسٹی، نگراں، ولی، سرپرست۔
وَصِيٌّ على تَرِكَة: ترکہ کا وارث۔
وَصِيٌّ عَلَى العَرْش: تخت کا وارث۔
وَصِيٌّ على فُلَان: ولی عہد، وارث، جانشین۔
وِصَايَة: سرپرستی، ولایت، ولایتِ عہدہ، نگرانی، گارجین شپ۔
وَصِيَّة، وِصَايَة: وصیت، حکم (۲) نصیحت ج: وَصَايَا۔
اِيْصَاء: حکم (۲) نصیحت۔
تَوْصِيَة: رہبری، رہنمائی (۲) سفارش ج: تَوْصِيَات۔
مُوْصىً عَلَيْه: رجسٹرڈ۔

و..........ض

وَضَاءَة: صفائی۔
وُضُوح: صاف ہونا، واضح ہونا، روشن ہونا (۲) وضاحت۔
اِيْضَاح: تشریح، تشریح نوٹ۔
اِيْضَاحِيّ: وضاحتی۔
اِسْتِيْضَاح: وضاحت طلب کرنا۔
تَوْضِيحٌ حَوْلَ كذا: وضاحت۔
وَاضِح: صاف، اجاگر، آشکارا، پیٹنٹ۔
وَضَعَ ــ وَضْعاً: رکھنا، ڈالنا۔
___ الكِتَاب: تالیف کرنا۔
___ الحَدِيث: بات گھڑنا۔
___ يَدَهُ على: قابض ہونا۔
___ بَرْنَامجاً: پروگرام بنانا۔
___ خُطَّة: منصوبہ بنانا، اسکیم تیار کرنا۔

__ تَصْمِيماً: ڈیزائن بنانا، خاکہ تیار کرنا۔
__ حَدّاً اَقْصَى: آخری حد مقرر کرنا۔
__ التَّرْتِيبَاتِ: انتظامات کرنا۔
__ قَانُوناً: آئین بنانا۔
__ سِيَاسَةً: پالیسی مرتب کرنا۔
__ جَدْوَلَ اَعْمَالِ المُؤْتَمَرِ: کانفرنس کا ایجنڈا تیار کرنا۔
__ عَلَامَةً: نشان ڈالنا۔
وَضَعَ الاقْتِرَاحَ مَوْضِعَ المُنَاقَشَةِ: تجویز زیر بحث لانا۔
__ الاَغْلَالَ الحَدِيدِيَّةَ فِي اليَدَيْنِ: ہاتھوں میں لوہے کی ہتھکڑی لگانا۔
__ إِكْلِيلَ الزُّهُورِ عَلَى نَعْشٍ: میت پر پھول چڑھانا۔
__ الثِّقْلَ إِلَى جَانِبِ فُلَانٍ: حمایت کرنا۔
__ الجَرَائِمَ عَلَى المَسْرَحِ: جرائم کا پوسٹ مارٹم کرنا۔
__ الجَيْشَ فِي حَالَةِ التَّأَهُّبِ: فوج کو تیار رکھنا۔
__ الحَقَائِقَ اَمَامَ الشَّعْبِ: عوام کو حقائق سے آگاہ کرنا۔
__ القَرَارَ بِالصِّيغَةِ المَرْضِيَّةِ: من پسند الفاظ میں تجویز تیار کرنا۔
__ القَرَارَ مَوْضِعَ التَّنْفِيذِ: فیصلہ کو عملی جامہ پہنانا۔
__ اللَّمَسَاتِ النِّهَائِيَّةَ على كذا: آخری شکل دینا۔
__ لِنَفْسِهِ نَهجاً: اپنے لئے راہ متعین کرنا۔
__ الشَّيْءَ تَحْتَ اَحَدٍ: اختیار میں دینا۔
__ الشَّيْءَ تَحْتَ تَصَرُّفِ اَحَدٍ: حوالہ کرنا، اختیار میں دینا۔
وَضَعَ الشَّيْءَ فَوْقَ كُلِّ اعْتِبَارٍ: ہر چیز پر فوقیت دینا۔
__ الشَّيْءَ فِي الاعْتِبَارِ: ذہن میں رکھنا، خیال رکھنا، اہمیت دینا۔
__ الشَّيْءَ نَصْبَ العَيْنِ: نصب العین بنانا۔
__ الشَّيْءَ فِي الصُّنْدُوقِ: کیس میں رکھنا۔
__ الشَّيْءَ عَلَى العَيْنِ: آنکھوں سے لگانا۔
__ مَشْرُوعاً: اسکیم بنانا۔
__ المِفْتَاحَ عَلَى القُفْلِ: دکھتی رگ پکڑنا۔
__ المِيزَانِيَّةَ: بجٹ تیار کرنا۔
__ النُّصُبَ على الطُّرُقِ: راستوں پر مجسمے نصب کرنا۔
__ النِّظَامَ لكذا: قاعدہ بنانا، سسٹم جاری کرنا۔
__ اللِّحَافَ عَلَى الجِسْمِ: لحاف اوڑھنا۔
__ اللَّزْقَةَ: (بیلاڈونا) پلاسٹر لگانا۔
__ الفِكْرَةَ مَوْضِعَ التَّنْفِيذِ: نظریہ کو عملی جامہ پہنانا۔
وَضَعَ الجَدَاوِلَ الزَّمَنِيَّةَ: ٹائم ٹیبل بنانا، نقشہ اوقات تیار کرنا۔
__ خُطَّةَ العَمَلِ لكذا: لائحہ عمل تیار کرنا۔
__ مُسَوَّدَةً: ڈرافٹ بنانا، مسودہ تیار کرنا۔
__ الذَّاكِرَةَ مَوْضِعَ التَّجْرِبَةِ: حافظہ پر زور ڈالنا۔
__ نِهَايَةَ شَيْءٍ: ختم کرنا۔
__ العَقَبَاتِ فِي طَرِيقٍ: راہ میں رکاوٹیں ڈالنا۔

__ الهَيكَلَ التَّنظِيمِيَّ لِشيءٍ: انتظامی ڈھانچہ تیار کرنا۔
__ المَطارَ تحتَ اِجراءاتٍ اَمنِيَّةٍ: ہوائی اڈہ پر حفاظتی انتظامات کرنا۔
وَضعهُ تحتَ المُراقبة: نگرانی قائم کرنا۔
__ فی القَائمةِ السَّوداء: بلیک لسٹ میں لینا۔
__ فی وَضعٍ صَعبٍ: سخت پوزیشن میں ڈالنا۔
وَضعٌ: صورتِ حال، پوزیشن ج: اَوضاع۔
الوَضعُ المَأسوِيّ: تکلیف دہ صورتِ حال، المناک حالت۔
الوَضعُ المُتَدَهوِر: بگڑی ہوئی صورتِ حال۔
الوَضعُ المُتَعارَفُ عَلَيه: معلوم شدہ صورتحال۔
الوَضعُ الاِقتِصادِيُّ المُنهار: گرتی ہوئی اقتصادی حالت۔
الوَضعُ المُتفجِّر: دھماکہ خیز صورتِ حال۔
الوَضعُ المُتوتِّر: کشیدہ صورتِ حال۔
الوَضعُ المُخطَّط: طے شدہ صورتِ حال۔
وَضعٌ خَطِيرٌ: خطرناک صورتِ حال۔
الوَضعُ الدِّبلُوماسِيّ: سفارتی پوزیشن۔
الوَضعُ الدِّراسِيّ: تعلیمی حالت۔
وَضعٌ دَقِيق: نازک صورتِ حال۔
وَضعٌ صَعبٌ: سخت پوزیشن۔
وَضعٌ طَبعِيّ: اصل پوزیشن۔
وَضعٌ عَسكَرِيّ: فوجی پوزیشن۔
وَضعٌ قانُونِيّ: قانونی پوزیشن۔
وَضعٌ مُعقَّد: پیچیدہ صورتِ حال۔
وَضعٌ نَفسِيّ: نفسیاتی کیفیت۔
وَضعٌ فَوضَوِيّ: لاقانونی صورتِ حال، انتشار کی کیفیت۔
وَضعٌ مَشحُونٌ بالانفِجار: دھماکہ خیز صورتِ حال۔
الوَضعُ قَائِمٌ كَماهُوَ: حالت جوں کی توں ہے۔
الوَضعُ يَسِيرُ نَحوَ التَّرَدِّي: صورتِ حال خراب ہو رہی ہے۔
وَضعُ الخُطَطِ و التَّصامِيم: ڈیزائننگ۔
وَضعُ القَانُون: آئین سازی۔
وَضعُ العَلامَة: نمبرنگ۔
عَلَى وَشكِ الوَضع: ولادت کے قریب۔
وَاضِعُ التَّصمِيم: ڈیزائنر۔
وَاضِعُ المِيزانِيَة: بجٹ تیار کنندہ۔
اَوضَاعٌ: احوال، حالات و: وَضعٌ۔
الاَوضَاعُ الاِقتِصَادِيَة: اقتصادی حالات۔
الاَوضَاعُ الدُّستُورِيَة: آئینی احوال۔
اَوضَاعٌ رَاهِنَة: موجودہ حالات۔
الاَوضَاعُ السَّائِدَةُ فِی البَلَد: ملک کے عام حالات۔
اَوضَاعٌ قَاسِيَة: سخت حالات۔
اَوضَاعٌ مُتَقَلِّبَة: بدلتے ہوئے حالات۔
اَوضَاعٌ مُضطَرِبَة: دِگرگوں حالات، غیر اطمینان بخش حالات، غیر یقینی حالات۔

مَوْضِعٌ ج: مَوَاضِعُ: جگہ، پلیس۔
مَوْضِعُ ثِقَةٍ: قابلِ اعتماد۔
مَوْضِعُ ثِقَةِ المَجْلِس: بورڈ کا معتمد علیہ۔
مَوْضِعُ جَدَلٍ: موضوعِ بحث۔
مَوْضِعُ الخِلَاف: اختلافی مسئلہ۔
مَوْضِعُ سِرٍّ: رازدار۔
مَوْضِعُ الكَرَاهِيَة: مقامِ کراہیت۔
مَوْضِعُ المَخْزُوْن: اسٹاک روم۔
مَوْضِعُ النِّزَاع: محلِ نزاع۔
مَوْضِعُ نِقَاشٍ: زیرِ بحث، موضوعِ بحث۔
مَوْضِعِيّ: لوکل۔
مَوْضُوع: کم درجہ (۲) گھڑا ہوا (۲) مدارِ گفتگو، پائنٹ، ٹاپک (۴) مضمون، میٹر، سبجیکٹ (۵) مسئلہ ج: مَوْضُوعَات و مَوَاضِيع۔
مَوْضُوعُ الحَدِيْثِ اليَوْمِيّ: روزمرہ کی گفتگو کا موضوع۔
المَوْضُوعُ الفَاشِل: ناکام منصوبہ۔
مَوْضُوعُ مُبَاحَثَاتٍ: بات چیت کا موضوع۔
المَوْضُوعُ المَطْلُوب: متعلقہ مسئلہ۔
مَوْضُوعُ نِقَاشٍ: زیرِ بحث، موضوعِ بحث۔
مَوْضُوعًا: بنیادی طور پر۔
مَوْضُوعِيّ: مقصدی۔
مَوْضُوعِيَّة: اصول پسندی۔

و............ط

وَطِئَ ۔ وَطْأً: روندنا، کچلنا۔
وَطِئَ المَشَاعِرَ: جذبات کو کچلنا۔
تَوَاطَأَ معه على كذا: معاہدہ کرنا، پیکٹ کرنا، گٹھ جوڑ کرنا، ساتھ دینا۔
وَطْءٌ: نشیبی زمین۔
وَطْأَة: دباؤ (۲) بیماری کا حملہ۔
وَطِيْءٌ، وَاطٍ: سست رفتار، دھیما، لو۔
تَوْطِئَة: تمہید (۲) تیاری۔
تَوَاطُؤٌ (في جَرِيْمَةٍ وغيرها): گٹھ جوڑ، ملی بھگت، سازباز۔
وَطَّدَ العَلَاقَاتِ تَوْطِيْدًا: تعلقات مضبوط کرنا۔
وَطِيْد: پختہ، مضبوط۔
أَوْطَاد: پہاڑوں کا سلسلہ۔
مِيْطَدَة: موگری، کوٹنے کا آلہ۔
وَطَرٌ: ضرورت، حاجت۔
قَضَى وَطَرَه: ضرورت کو پورا کرنا۔
وَطِيْس: تنور (۲) میدانِ کارزار۔
حَمِيَ الوَطِيْسُ: لڑائی سخت ہوجانا۔
وَطَّنَ: آباد کرنا، بسانا (۲) ملکی یا علاقائی بنانا۔
تَوَطَّنَ البَلَدَ: وطن بنالینا۔
تَوَطَّنَ الشَّيْءُ: علاقائی بننا۔
تَوَطَّنَتِ الصِّنَاعَةُ: صنعت کا علاقائی بننا۔
اِسْتَوْطَنَ: بودوباش اختیار کرنا (۲) نوآبادی قائم کرنا۔
وَطَنٌ: وطن، ہوم لینڈ ج: أَوْطَان۔
وَطَنِيّ: قومی، نیشنل، ملکی (۲) شہری (۳) قوم پرست، محبِ وطن۔
وَطَنِيَّة: قومیت، شہریت (۲) وطن دوستی۔

حُکُومَةٌ وَطَنِیَّة: نیشنل گورنمنٹ۔
لُغَةٌ وَطَنِیَّة: مادری زبان، ملکی زبان۔
مَوْطِن ج: مَوَاطِن: جگہ، ہاؤس، لاج، ہوم۔
مَوْطِنُ الصِّنَاعَة: صنعت گاہ۔
مُوَاطِن: شہری، ملکی، نیشنل (۲) ہم وطن، باشندہ۔
مُوَاطِنٌ عَالَمِیّ: بین الاقوامی شہری۔
مُوَاطِنُ الدَّرَجَةِ الثَّانِیَة: دوسرے درجہ کا شہری۔
مُوَاطَنَة: شہریت۔
المُوَاطِنُونَ العُزَّل: نہتے شہری۔
مُسْتَوْطِن: نوآبادکار۔
مُسْتَوْطَنَة: کالونی۔
مُسْتَوْطَنَات: آبادیاں، بستیاں، کالونیاں۔
مُسْتَوْطَنَاتُ الفَضَاء: خلائی آبادیاں۔

و............ظ

وَاظَبَ عَلَی: پابندی کرنا (۲) قائم رہنا۔
مُوَاظِبٌ عَلَی المَوَاعِید: پابندِ اوقات۔
وَظَّفَ: ملازمت دینا، اپائنٹ منٹ کرنا (۲) کام لینا (۳) ملازم رکھنا (۴) راشن دینا۔
__ الامْکَانَاتِ المُتَاحَة: حاصل شدہ وسائل کو کام میں لانا۔
__ الجُهُودَ لِکَذَا: کوششیں صرف کرنا۔
__ الطَّاقَةَ لِاِنْجَازِ الخُطَّة: منصوبہ کی تکمیل کے لئے توانائی صرف کرنا۔
تَوَظَّفَ: ملازم ہونا۔

وَظِیفَة: راشن، روزینہ (۲) تنخواہ (۳) ملازمت (۴) پیشہ (۵) عہدہ، پوسٹ (۶) ڈیوٹی، خدمتِ مفوضہ، فرضِ منصبی ج: وَظَائِف۔
وَظِیفَةُ حَاکِمٍ أو مُحَافِظ: گورنر یا کلکٹر کا عہدہ۔
وَظِیفَةٌ شَاغِرَة: خالی پوسٹ، خالی اسامی۔
وَظِیفَةٌ شَرَفِیَّة: اعزازی منصب۔
وَظِیفَةُ المَبْعُوث: سفارتی عہدہ یا ذمہ داری۔
وَظِیفَةُ المَنْدُوب: سفارتی عہدہ یا ذمہ داری۔
وَظِیفِیّ: ملازمت سے متعلق۔
الوَظَائِفُ الاِدَارِیَّة: انتظامی عہدے، انتظامی آسامیاں۔
عِلْمُ وَظَائِفِ الاَعْضَاء: فزیالوجی۔
مُوَظَّف: ملازم، کلرک، مامور (۲) تنخواہ دار (۳) افسر۔
مُوَظَّفٌ بالاَرْشِیف: ریکارڈ کیپر۔
مُوَظَّفٌ تَنْفِیذِیّ: ایگزیکٹو افسر۔
مُوَظَّفُ تَوْفِیر: سیونگ کلرک۔
مُوَظَّفُ الجَمَارِک: کسٹم افسر۔
مُوَظَّفُ الجوازات: افسرِ پاسپورٹ۔
مُوَظَّفٌ حُکُومِیّ: سرونٹ، سرکاری ملازم۔
مُوَظَّفُ شُبَّاکِ تَذَاکِرِ السَّفَر: بکنگ کلرک۔
مُوَظَّفٌ عُمُومِیّ: عام ملازم۔
مُوَظَّفٌ فِی البَلَاط: افسر دربار۔
مُوَظَّفٌ فِی البَنْک: بینک کلرک۔
مُوَظَّفٌ فِی السِّلْکِ الدِّبْلُومَاسِیّ: سفارتی افسر۔

الـمُوَظَّفُ المُخْتَصُّ بالشَّفْرَة: خفیہ تحریر تیار کرنے والا ملازم۔
مُوَظَّفٌ مَدَنِيّ: سِول سرونٹ، سرکاری ملازم۔
مُوَظَّفُون: اسٹاف، ملازمین۔
مُوَظَّفُونَ إِدَارِيُّون: انتظامی عملہ۔
المُوَظَّفُونَ التَّنفِيذِيُّون: ایگزیکٹو عملہ۔
الـمُوَظَّفُونَ الدِّبْلُومَاسِيُّون: سفارتی اسٹاف۔
مُوَظَّفُونَ كِتَابِيُّون: کلریکل اسٹاف۔
الـمُـوَظَّفُـونَ الـمُبْتَدِئُون: جونیر اسٹاف۔
مُوَظَّفُونَ يَعْمَلُونَ خَارِجَ المُنْشَأة: آؤٹ ڈور اسٹاف۔
مُوَظَّفُو الحُكُومَة: سرکاری ملازمین، سِول ملازمین۔
مُوَظَّفُو الدَّرَجَاتِ العُلْيَا: سینئر اسٹاف۔
مُوَظَّفُو المَقَرِّ الرَّئِيسِيّ: ہیڈ کوارٹر اسٹاف۔
مُوَظَّفُو المَكْتَب: دفتری اسٹاف، آفس اسٹاف، دفتری عملہ۔

و............ع

اِسْتَوْعَبَ المَوْضُوعَ: احاطہ کرنا۔
اِسْتَوْعَبَ الحَدِيثَ: سمجھ جانا، سمجھ لینا۔
وَعَدَ۔ وَعْداً: وعدہ کرنا۔
مَوْعِد، مِيعَاد: اپائنٹ منٹ، تعینِ وقت برائے ملاقات (۲) ڈیٹ۔
مَوْعِدٌ نِهَائِيّ: آخری وقت۔
مِيعَاد: وقتِ مقررہ (۲) ٹرم ج: مَوَاعِيد۔
مِيعَادُ المَرْأَة: حیض۔
فِي المِيعَاد: وقت پر (وَصَلَ القِطَارُ فِي مِيعَادِهِ: گاڑی وقت پر پہنچ گئی)۔
مَوَاعِيدُ مَصْرُوفَة: مصروف اوقات۔
بَيَانُ مَوَاعِيدِ القِطَار: ریلوے ٹائم ٹیبل۔
مُحَافِظٌ عَلَى المَوَاعِيد: وقت کا پابند۔
وَعِرٌ: دشوار گزار۔
وَعْكَة: خرابی صحت، ناسازیِ طبع (۲) سخت گرمی (۳) بیماری۔
وَعْيٌ: ہوش، شعور، احساس، بیداری، علم۔
وَعْيٌ سِيَاسِيّ: سیاسی شعور۔
وَعْيٌ عَسْكَرِيّ: فوجی شعور۔
وَعْيٌ قَوْمِيّ: قومی جذبہ، شعور۔
تَوْعِيَة: سمجھانا، احساس پیدا کرنا، شعور پیدا کرنا، ذہن بنانا (۲) ذہن سازی۔
التَّوْعِيَةُ الإِسْلَامِيَّة: اسلامی ذہن سازی، اسلامی تربیت۔
تَوْعِيَةٌ عِلْمِيَّة: علمی تربیت، علمی ذہن سازی۔

و............غ

تَوَغَّلَ: اندر تک گھسنا۔
تَوَغَّلَ بالتَّنْظِيم: تنظیم کو آخری حد تک پہنچانا۔
تَوَغَّلَ دَاخِلَ المِنْطَقَة: علاقہ کے اندر تک جانا۔

و............ف

اَوْفَدَ: وفد بھیجنا، روانہ کرنا۔
تَوَافَدُوا علی: اجتماعی طور پر پہنچنا، ہجوم کرنا۔
تَوَافَدَ جُمُوعُ المُوَاطِنِيْنَ علی: شہریوں کا جوق درجوق اکٹھا ہونا۔
وَفْدٌ: جماعت، ڈیلیگیشن، ڈپوٹیشن ج: وُفُود۔
وَفْدٌ مُفَوَّض: بااختیار ڈیلیگیشن۔
وَافِد: آنے والا (۲) نووارد۔
نَزْلَةٌ وَافِدَة: انفلوانزا۔
مُوْفَد: نمائندہ۔
وَفَّرَ تَوْفِيْراً: مہیا کرنا، فراہم کرنا، بہم پہنچانا (۲) بچت کرنا (۳) کفایت شعاری کرنا۔
__ اَسْبَابَ الرَّاحَة كِ: آرام پہنچانا، اسبابِ راحت فراہم کرنا۔
__ اَفْضَلَ الفُرَصِ كِ: اعلیٰ ترین موقعہ فراہم کرنا۔
__ الحِمَايَةَ لِاَحَدٍ: کسی کو حمایت حاصل کرانا۔
__ السَّكَنَ لِاَحَدٍ: رہائش کا انتظام کرنا۔
__ الظُّرُوفَ المُوَاتِيَة له: سازگار حالات پیدا کرنا۔
__ المَبْلَغَ: رقم بچانا۔
__ المَعْلُومَاتِ عَنْ: معلومات فراہم کرنا۔
__ المُنَاخَ: فضا پیدا کرنا۔
تَوَفَّرَ الشيْئُ: مہیا ہونا، فراہم ہونا، موجود ہوا (۲) بکثرت ہونا، افراط ہونا۔
تَوَفَّرَتِ الاِمْكَانِيَّاتُ: وسائل مہیا ہونا۔
__ الظُّرُوفُ لكذا: حالات سازگار ہونا۔
__ الجَوْدَةُ فی البَضَائِع۔ سامانوں میں عمدگی ہونا۔
تَوَافَرَ الشُّعُورُ لَدَيْه: احساس پیدا ہونا۔
تَوَافَرَ الوَقُودُ اللَّازِمُ: ضروری ایندھن مہیا ہونا۔
تَوَافَرَتِ الظُّرُوف: حالات کا درست ہونا۔
تَوَافَرَتِ الثِّقَةُ بَيْنَهُمْ: اعتماد قائم ہونا۔
تَوَافَرَتْ لَهُ القُوَّة: طاقت حاصل ہونا۔
تَوَافَرَتِ القُوَّةُ العَسْكَرِيَّة: فوجی طاقت کا مہیا ہونا۔
وَفْرَة: فراوانی۔
وَفْرٌ، تَوْفِيْرٌ: بچت، کفایت شعاری۔
وَفْرٌ (۲): بچت کا مال ج: وُفُورَات۔
وُفُورَاتٌ دَاخِلِيَّة: دخلی بچتیں۔
تَوْفِيْرُ المَوَادِ الغِذَائِيَّة: غذائی اشیا کی فراہمی۔
تَوْفِيْرُ المِيَاه: آب رسانی۔
صُنْدُوقُ التَّوْفِيْر: بچت فنڈ، سیونگ بینک۔
مُتَوَفِّر: فراہم، موجود (۲) زیادہ۔
وِفْقَ: مطابق۔
وِفْقَ الطَّاقَة: حسب صلاحیت۔
وَافَقَ علی: منظور کرنا، منظوری دینا، یس کہنا۔
__ عَلَی اقْتِرَاح: تجویز منظور کرنا۔
__ عَلَی جَدْوَلِ الاَعْمَال: ایجنڈا منظور کرنا۔

___ عَلٰی شیٔ بالاَغْلَبِیَّة: اکثرت کی وجہ سے منظوری دینا۔
___ علی الطَّلَب: درخواست منظور کرنا۔
___ علی مَشْرُوْعِ قَانُون: بل پاس کرنا۔
اِتَّفَقُوا عَلٰی: فیصلہ کرنا۔
لَا یَتَّفِقُ مَعَ: بے جوڑ۔
وِفاق: اتحاد۔
اِتِّفَاق، اِتِّفَاقِیَّة: معاہدہ، اگریمنٹ ج: اِتِّفَاقَات و اِتِّفَاقِیَات۔
اِتِّفَاقٌ تِجَارِیّ: تجارتی معاہدہ۔
اِتِّفَاقٌ ثُنَائِیّ: دوطرفہ معاہدہ، دوفریقی معاہدہ۔
اِتِّفَاقٌ ثُلَاثِیّ: سہ نفری معاہدہ۔
اِلاتِّفَاقُ الکِتَابِیّ: تحریری معاہدہ۔
اِتِّفَاقٌ وُدِّیّ: دوستانہ معاہدہ۔
اِتِّفَاقَاتُ جَنِیْف: جنیوا معاہدہ۔
الاِتِّفَاقَاتُ الدُّوَلِیَة: بین الاقوامی معاہدات۔
اِتِّفَاقِیَةٌ ثُنَائِیَة: دوفریقی معاہدہ۔
اِتِّفَاقِیَةُ السَّلَام: امن معاہدہ۔
اِتِّفَاقِیَةُ الهُدْنَة: معاہدۂ صلح۔
تَوْفِیق: تسویہ، مصالحت (۲) مطابقت (۳) کامیابی۔
تَوَافُق: اتحاد۔
مُوَافَقَة: منظوری۔
مُوَافَقَةٌ ضِمْنِیَة: ضمناً منظوری۔
مُوَافَقَةٌ مَبْدَئِیَة: اصولی منظوری، ابتدائی منظوری۔
اَلْمُوَافِقَةُ المَلَکِیَة: شاہی منظوری
بِمُوَافَقَةِ البَرْکَمَان: پارلیمنٹ کی منظوری سے۔
مُوَفَّق: کامیاب۔
وَفَی بکذا ـ وَفَاءً: پورا کرنا۔
وَفَی بالالْتِزَامَاتِ: ذمہ داریاں پوری کرنا۔
اَوْفَی الدَّیْنَ: قرض ادا کرنا۔
اَوْفَاهُ حَقَّه: پوراحق دینا۔
وَافَاهُ مُوَافَاةً: اچانک آنا۔
وَافَاهُ الاَجَلُ: وفات پانا۔
تَوَفَّی و اسْتَوْفَی: پورا وصول کرنا، وصول کرنا۔
اِسْتَوْفَی الشُّرُوْط: شرطیں پوری کرنا۔
اِسْتَوْفَی المَطْلُوْبَاتِ: رقومِ واجبہ وصول کرنا۔
وَفَاءٌ بالوَاجِب: فرض کی ادائیگی۔
وَفَاءُ الدَّیْن: قرض کی ادائیگی۔
مُسْتَوْفٍ لِلشُّرُوْط: شرائط کو پورا کرنے والا، شرائط کا حامل۔

و.........ق

وَقَّتَ تَوْقِیْتاً: وقت متعین کرنا۔
وَقْتٌ: ٹائم، وقت۔
وَقْتٌ اِضَافِیّ: زائد وقت، اوورٹائم۔
وَقْتٌ سَابِق: گزشتہ وقت۔
وَقْتٌ ضَائِع: بے کار وقت۔
وَقْتٌ لَاحِقٌ: آئندہ آنے والا وقت۔
الوَقْتُ مُتَأخِرٌ: دیر ہو چکی ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔
وَقْتِیّ: عارضی، ٹمپریری۔
فِی الوَقْتِ الحَاضِر: آج کل۔

فِی الوَقْتِ ذَاتِه: اسی وقت۔
فِی وَقْتٍ سَابِقٍ: کچھ روز قبل۔
فِی وَقْتِه: بروقت۔
فِی الوَقْتِ نَفْسِه: اسی وقت۔
تَوْقِیت: اوقات کی تعیین۔
مُوَقَّت: عارضی، وقتی، ٹمپریری (۲) محدود۔
بِصِفَةٍ مُوَقَّتَة: عارضی طور پر۔
حُکُومَةٌ مُوَقَّتَة: عارضی حکومت۔
مُوَقِّت: ٹائم کیپر۔
مُوَقِّتَةُ البَیْض: انڈوں کی جانچ کا آلہ۔
وَقَاحَة: بے حیائی (۲) گستاخی۔
وَقِح: بے حیا، شوخ (۲) گستاخ۔
وَقُود: ایندھن۔
الوَقُودُ الصُّلْب: خشک ایندھن۔
وَقَّاد: روشن، تیز۔
مَوْقِد: چولہا (۲) انگیٹھی (۳) اسٹوو ج: مَوَاقِد۔
مَوْقِدُ الغَاز: اسٹوو، تیل کا چولہا۔
وَقَعَ الصِّدَامُ بَیْنَ ــ وُقُوعاً: جھڑپ ہونا۔
وَقَعَ اخْتِیَارُه علی اَحَدٍ: کسی پر نظرِ انتخاب ہونا۔
وَقَعَ فِی مَدَی المَدَافِع: توپوں کی زد میں آنا۔
وَقَعَتِ المُفَاجَأةُ: ناگہانی واقعہ پیش آنا۔
ــ المَذْبَحَةُ: خونریزی ہونا۔
ــ الاشْتِبَاکَاتُ بَیْنَ: جھڑپیں ہونا۔
ــ الاِصَابَاتُ: چوٹیں آنا، زخم لگنا (۲) نقصانات ہونا۔

ــ المِنْطَقَةُ تَحْتَ سَیْطَرَةِ القُوَّات: علاقہ کا فوج کے کنٹرول میں آنا۔
ــ الأَضْرَارُ: نقصانات ہونا۔
وَقَّعَ تَوْقِیعاً: دستخط کرنا، سائن کرنا۔
ــ علیه و اَوْقَعَ به عِقَاباً: سزا دینا۔
ــ عَلَیْهِ عُقُوبَةَ الاشْغَالِ الشَّاقَّة: بامشقت سزا دینا۔
اَوْقَعَ بَیْنَهُمْ: اختلاف پیدا کرنا۔
اَوْقَعَ عَلَیْهِ اللَّوْمَ: ملامت کرنا۔
اَوْقَعَ المُغَنِّی: سُر ملانا۔
وَقْعٌ: چوٹ کی آواز، اثر۔
وَقْعُ الاَقْدَام: قدموں کی چاپ، آہٹ۔
الوَقْعُ الحَسَنُ لشيءٍ: اچھا اثر۔
وَقْعَة: صدمہ (۲) حملہ (۳) لڑائی۔
وَاقِع۔صورتِ حال
وَاقِعٌ تَحْتَ تَأثِیرِ فُلانٍ: فلاں کے زیرِ اثر۔
الوَاقِعُ المُؤْلِم: تکلیف دہ صورتِ حال۔
الوَاقِعَة: حادثہ۔
الوَاقِعِي: حقیقت پسند۔
وَاقِعِیَّة: حقیقت پسندی۔
وَقَائِع: تفصیلاتِ کار، روداد۔
وَقَائِعُ الحَفْل: جلسہ کی روداد، تقریب کی کارروائی۔
مَحْضَرُ وَقَائِعِ الجَلْسَة: روداد۔
دَفْتَرُ وَقَائِعِ الجَلْسَة: رجسٹر کارروائی۔
اِیقَاع: اثر۔
اِیقَاعُ الحَرِیق: آتش زنی۔
تَوْقِیع: دستخط، سگنیچر، سائن۔
التَّوْقِیعُ بِخَطِّ الیَد۔ہاتھ کے دستخط

تَوقِیعٌ تَذکَارِیٌ: آٹوگراف۔
تَوقِیعُ المُؤلِّف: آٹوگراف، مصنف کے دستخط۔
تَوقِیعَاتُ طَوَابِع: ٹکٹوں کا البم۔
مُهمَلُ التَّوقِیعِ: بلا دستخط۔
لَیسَ بِه تَوقِیعٌ: گمنام۔
مُوَقِّع: دستخط کنندہ۔
المُوَقِّعُونَ عَلَی العَقدِ: معاہدہ کے فریق۔
مُوَقَّعٌ علیه: دستخط شدہ۔
مَوقِع: پائنٹ، پوزیشن، سیٹ۔
مَوقِعُ السُّلطَةِ: مسندِ اقتدار، کرسی اقتدار۔
مَوقِعَة: لڑائی۔
مَوقِعَةُ حَربٍ: میدانِ جنگ۔
مَوَاقِعُ الجَیشِ: فوجی مورچے۔
مَوَاقِعُ حَصِینَةٌ: مضبوط مورچے۔
مَوَاقِعُ لِلمُشَاةِ: پیادہ فوج کے مورچے۔
وَقَفَ ۔ِ وُقُوفاً: کھڑا ہونا، ٹھیرنا، قائم رہنا۔
__ علی: سمجھنا، جاننا، واقف ہونا۔
__ فی: تردد کرنا (۲) شک کرنا۔
__ عَنْ وَقفاً: روکنا۔
__ الشیءَ: ختم کرنا، روکنا، موقوف کرنا، بند کرنا۔
__ اَعمَالَ القَتلِ: قتل و غارت گری بند کرنا۔
وَقَفَ الزَّحفَ: پیش قدمی روکنا۔
__ الوَارِدَاتِ: درآمدات کو روک دینا۔
__ صَرفَ الشَّیکِ: چیک کی ادائیگی روکنا۔
__ الضُّبَّاطَ عِندَ حَدِّهِم: افسران کو حد پر رکھنا۔
__ العَلاقَاتِ الدِّبلُومَاسِیَّةَ: سفارتی تعلقات موقوف کرنا۔
__ عَمَلِیَاتِ القِتَالِ: جنگی کارروائیاں روکنا۔
__ المَعُونَةَ: امداد بند کرنا۔
__ مِن کذا مَوقِفاً کذا: کسی معاملہ میں کوئی طرز اختیار کرنا۔
__ مَوقِفَ المُتَفَرِّجِ من کذا: تماشائی بنا رہنا۔
__ مَوقِفاً مَعِیباً: خراب طرز اختیار کرنا۔
__ اَرضاً علی شَخصٍ: کسی کے نام پر زمین وقف کرنا۔
__ إلی جَانِبِه: ساتھ دینا، حمایت کرنا۔
وَقَفُوا صَفّاً وَاحِداً: متحد ہونا، ایک لائن میں کھڑے ہونا۔
لَایَقِفُ عِندَ حَدٍّ: روز افزوں۔
وَقَّفَ: ٹھیرانا، بند کرنا (۲) نظر بند کرنا۔
اَوقَفَ: روکنا، منع کرنا (۲) بند کرنا (۳) مانع ہونا (۴) حوالات میں رکھنا، اریسٹ کرنا۔
اَوقَفَ العَامِلَ عَنْ: معطل کرنا۔
اَوقَفَ الاِتِّجَاهَ: رجحان کی روک تھام کرنا۔
اَوقَفَ الاِذَاعَاتِ: نشریات بند کرنا۔
اَوقَفَ الاِعتِدَاءَاتِ: حملے روکنا۔
اَوقَفَ التَّقَدُّمَ: پیش قدمی روکنا۔

اَوْقَفَ التَّنفِيذَ: کارروائی روکنا۔
اَوْقَفَ حَرَكَةَ المُرُوْرِ: آمدورفت بند کرنا، ٹریفک بند کرنا۔
اَوْقَفَ الحَمْلَةَ المُضَادَّةَ له: مخالفانہ مہم بند کرنا، جوابی حملہ بند کرنا۔
اَوْقَفَ الدَفْعَ: ادائیگی روکنا۔
اَوْقَفَ دَفْعَ شِيْكٍ: چیک روکنا۔
اَوْقَفَ العَمَلَ: کام بند کرنا، روکنا۔
اَوْقَفَ عن العَمَل: سسپنڈ کرنا، ڈیوٹی سے روکنا۔
اَوْقَفَ القِتالَ: جنگ بند کرنا۔
اَوْقَفَ المُوتورَ: موٹر بند کرنا۔
اَوْقَفَ النَّشاطَ: سرگرمی کو بند کرنا۔
تَوَقَّفَ: کھڑا ہونا (۲) ٹھیرنا، رک جانا۔
تَوَقَّفَ خَطُّ التَّموِيْن: سپلائی لائن بند ہوجانا۔
تَوَقَّفَ عَنْ: چھوڑنا، باز آجانا، انکار کرنا۔
تَوَقَّفَ العَقْلُ عَنِ التَّفكِير: عقل کا کام نہ کرنا۔
تَوَقَّفَ عَنِ الدَّفْعِ: ادائیگی نہ کرنا۔
تَوَقَّفَ عَنِ العَمَل: کام روکنا، بند کرنا۔
تَوَقَّفَ عَنِ القِتَال: لڑائی بند کرنا۔
تَوَقَّفَ اَمَام كذا: کسی چیز کو اہمیت دینا، غور کرنا۔
تَوَقَّفَ الأَمْرُ عَلَى: معلق ہونا۔
تَوَقَّفَ فِي الأَمْرِ: متردد ہونا۔
تَوَقَّفَتِ الحَيَاةُ: زندگی ٹھپ ہونا، معطل ہوجانا۔
تَوَقَّفَتِ المَجَلَّةُ عَنِ الصُّدُور: رسالہ بند ہونا۔
تَوَقَّفَتْ طَلَقَاتُ المَدَافِع: توپوں کی آوازیں بند ہوجانا۔
اِسْتَوْقَفَ: ٹھیرانا، روکنا۔
وَقْفٌ: ممانعت، التوا، بندش، رکاوٹ، اسٹے۔
وَقْفُ الحَرْب: جنگ بندی۔
وَقْفُ اِطْلاقِ النَّار: فائر بندی۔
وَقْفُ تَنفِيذٍ: اسٹے آرڈر۔
نُقْطَةُ الوَقْف: اسٹاپ۔
وَقْفَة: کردار، طرز۔
وَقْفِيَّة: ایک وقف، وقف کردہ جائیداد۔
وُقُوفُ السَّيَّارَات: کارپارکنگ۔
وَاقِف: اسٹینڈنگ۔
وَاقِفٌ علی: آشنا، شناسا۔
اِيْقَاف: بندش، روک تھام۔
تَوَقُّف: ڈیڈلاک، بندش، خاتمہ۔
مَوْقِف: پوزیشن، حالت، صورتِ حال (۲) رول، کردار، رویہ، طرزِ عمل، طریقہ کار، پالیسی (۳) اسٹینڈ، اڈا، اسٹیشن، پارکنگ پلیس۔
مَوْقِفُ التَّاكْسِي: ٹیکسی اسٹینڈ۔
مَوْقِفُ تِرَامٍ وغَيْرِه: اسٹاپ۔
مَوْقِفٌ جَرِيْئٌ: جرأت مندانہ صورت، موقف۔
مَوْقِفٌ حَاسِمٌ: مضبوط پالیسی۔
مَوْقِفٌ حَرِجٌ: سنگین صورتِ حال، گمبھیر صورتِ حال، نازک پوزیشن۔
المَوْقِفُ الدَّائِم: مستقل پالیسی۔
المَوْقِفُ الرَّاهِن: موجودہ پالیسی۔

اَلْمَوْقِفُ الرَّائِد: راہ نمایانہ کردار۔
اَلْمَوْقِفُ السَّيِّئ: خراب پوزیشن۔
مَوْقِفُ السَّيَّارَات: پارک، اڈا، اسٹینڈ۔
مَوْقِفُ الشَّاهِد فی المَحْكَمَة: گواہ کا کٹہرا۔
المَوْقِفُ الشُّجَاع: دلیرانہ کردار۔
المَوْقِفُ الضَّعِيف: کمزور پوزیشن۔
مَوْقِفٌ عِدَائِيٌّ: معاندانہ رویہ، دشمنانہ طرزِ عمل۔
مَوْقِفٌ عُدْوَانِيٌّ: دشمنانہ روش، جارحانہ روش، جارحانہ رویہ۔
مَوْقِفُ عَرَبَاتٍ او مَرْكَبَاتٍ: کار اسٹینڈ، تانگہ اسٹینڈ، بس اسٹینڈ۔
المَوْقِفُ العَسْكَرِيّ: فوجی پوزیشن۔
المَوْقِفُ العَصَبِيّ: نازک صورتِ حال۔
المَوْقِفُ العَصِيبُ: نازک صورتِ حال۔
مَوْقِفٌ علی وَشْكِ الانْفِجَار: دھماکہ خیز صورتِ حال۔
مَوْقِفٌ مُتَخَاذِل: کمزور کردار۔
مَوْقِفٌ مُتَدَهْوِر: بگڑی ہوئی صورتحال۔
مَوْقِفٌ مُتَصَلِّب: سخت رویہ۔
مَوْقِفٌ مُتَضَامِن: متحدہ پالیسی۔
مَوْقِفٌ مُتَعَنِّت: سرکشانہ رویہ۔
المَوْقِفُ المُتَفَجِّر: دھماکہ خیز صورتحال۔
المَوْقِفُ المُتَقَلْقِل: غیر یقینی صورتحال۔
مَوْقِفٌ مُمَاثِل: یکساں پالیسی۔
مَوْقِفُ المُهَادَنَة: مصالحت کی پالیسی۔
مَوْقِفٌ وَاقِعِيّ: حقیقت پسندانہ رویہ۔
مَوْقُوف: اریسٹ کیا ہوا، گرفتار (۲) معطل۔
مَوَاقِفُ و : مَوْقِف: کردار، احوال، معاملات، حالات، اقدامات۔
المَوَاقِفُ الانْفِعَالِيَة: منفعلانہ اقدامات۔
المَوَاقِفُ الزَّائِفَة: بے حقیقت اقدامات۔
مَوَاقِفُ السِّيرَة: سیرت کے اہم واقعات۔
المَوَاقِفُ الهَوْجَاءُ: سنگین اقدامات۔
مُتَوَقِّفٌ عَلَى شُرُوط: شرائط پر موقوف، مشروط۔
المُتَوَقِّفُ عَنِ الدَّفع: ادائیگی روکنے والا۔
المُتَوَقِّفُ عَنِ العَمَل: کام چھوڑنے والا۔
وَاقٍ مِنَ المَاء: واٹر پروف۔
وَاقٍ مِنَ النَّار: فائر پروف۔
وِقَائِيّ: حفاظتی۔
وِقَايَة مَدَنِيَة: سول ڈیفنس۔

و..........ک

وَكَبَ ـِ وُكُوباً: آہستہ چلنا۔
مُوَاكَبَة: ساتھ دینا، ساتھ چلنا، دوش بدوش ہونا۔
مَوْكِبٌ ج: مَوَاكِب: جلوس، قافلہ۔
مَوْكِبُ التَّشْيِيع: جنازہ کا جلوس۔
مَوْكِبٌ حَاشِد: زبردست جلوس۔

مَوْكِبٌ رَسْمِيٌّ: سرکاری جلوس۔
وَكَّدَ تَوْكِيدًا: مضبوط بنانا، پختہ کرنا، کنفرم کرنا (۲) یقین دلانا، ڈکلیر کرنا۔
تَوَكَّدَ: پختہ ہونا، مضبوط ہونا۔
تَوَكَّدَ مِنْ: یقین کرنا (۲) مطمئن ہونا۔
وَكِيدٌ: پختہ، مضبوط۔
تَوْكِيدٌ: یقین دہانی۔
وَكْرٌ: گھونسلا ج: أَوْكَار۔
وَكَزَ ـ وَكْزًا: مُکا مارنا۔
وَكَّلَ: ایجنٹ بنانا، مختار بنانا۔
وَكِيلٌ: معاون، اسسٹنٹ، ڈپٹی، قائم مقام، نمائندہ، مختار، ٹرسٹی، ایجنٹ ج: وُكَلَاء۔
وَكِيلُ إِعْلَانٍ: ایجنٹ اشتہارات۔
وَكِيلٌ بِالْعُمُولَةِ: کمیشن ایجنٹ۔
وَكِيلُ الْبَيْعِ: سیلنگ ایجنٹ۔
وَكِيلٌ تِجَارِيٌّ: کمرشل ایجنٹ۔
وَكِيلُ التَّذَاكِرِ: ٹکٹ ایجنٹ۔
وَكِيلُ تَصْدِيرٍ بِالْعُمُولَةِ: ایکسپورٹ کمیشن ایجنٹ۔
وَكِيلُ التَّوْزِيعِ: ڈسٹری بیوٹر۔
وَكِيلُ دَعَاوٍ: اٹارنی، وکیلِ مقدمات۔
وَكِيلُ دَوْلَةٍ: قونصل۔
وَكِيلُ السَّفَرِ: ٹریول ایجنٹ۔
وَكِيلُ السِّيَاحَةِ: ٹریول ایجنٹ۔
وَكِيلُ شِرَاءٍ: خریداری ایجنٹ۔
وَكِيلُ الصَّحِيفَةِ: پریس ایجنٹ۔
وَكِيلٌ عَامٌّ: عام نمائندہ۔
وَكِيلٌ فِي التِّجَارَةِ الْعَابِرَةِ: ٹرانزٹ ایجنٹ۔
وَكِيلُ الْقُنْصُلِ: وائس کونسل۔
وَكِيلٌ مُتَجَوِّلٌ: ٹرولر ایجنٹ، دورہ کرنے والا ایجنٹ۔
وَكِيلُ مَجْلِسِ النُّوَّابِ: پارلیمنٹری سکریٹری۔
وَكِيلٌ مُعْتَمَدٌ: بااختیار ایجنٹ۔
وَكِيلُ الْمُفَتِّشِ الْعَامِّ: ڈپٹی انسپکٹر جنرل۔
وَكِيلٌ مُفَوَّضٌ: وکیلِ مختار۔
وَكِيلُ مُدِيرٍ: سب منیجر۔
وَكِيلُ مُدِيرِيَّةٍ: نائب گورنر (۲) ڈپٹی کلکٹر۔
وَكِيلُ النَّائِبِ الْعَامِّ: ڈپٹی اٹارنی جنرل۔
وَكِيلُ النَّقْلِ: ٹرانسپورٹ ایجنٹ، لوڈنگ ایجنٹ۔
وَكِيلُ النِّيَابَةِ: پارلیمنٹری سیکرٹری۔
وَكِيلٌ وَحِيدٌ: سول ایجنٹ۔
وَكِيلُ الْوِزَارَةِ: سیکرٹری وزارت، انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ۔
وَكِيلُ التَّأْمِينِ: انشورنس ایجنٹ۔
وِكَالَةٌ: ایجنسی (۲) دلالی، آڑھت ج: وِكَالَات۔
وِكَالَةُ إِعْلَانٍ: ایجنسی اشتہارات۔
وِكَالَةُ الْأَنْبَاءِ: نیوز ایجنسی، خبر رساں ایجنسی۔
وِكَالَةُ الْأَنْبَاءِ الْإِسْلَامِيَّةِ الدُّوَلِيَّةِ: بین الاقوامی اسلامی خبر رساں ایجنسی۔
وِكَالَةُ الْأَنْبَاءِ الْعِرَاقِيَّةِ: عراقی خبر رساں ایجنسی۔
وَكَالَةُ الْأَنْبَاءِ الْفِلَسْطِينِيَّةِ: فلسطینی خبر رساں ایجنسی۔
وَكَالَةٌ تَابِعَةٌ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ: اقوامِ متحدہ کی ایجنسی۔

وِكَالَةُ التَّوظِيف: ملازمت ایجنسی۔
وِكَالَةُ دِبْلُومَاسِيَّة: ڈپلومیٹک ایجنسی، سفارتی ایجنسی۔
وِكَالَةُ السَّفَر: ٹریول ایجنسی۔
وِكَالَةُ سِيَاحَةٍ: ٹورنگ ایجنسی، ٹریول ایجنسی۔
وِكَالَةُ الصُّحُف: پریس ایجنسی۔
وِكَالَةُ الغَوث: ریلیف ایجنسی۔
وِكَالَةُ مُتَخَصِّصَة: اسپیشل ایجنسی۔
وِكَالَاتٌ دُوَلِيَّة: بین الاقوامی ایجنسیاں۔
تَوْكِيل: ایجنسی، وکالت نامہ، مختار نامہ۔
تَوْكِيلٌ كِتَابِيّ: تحریری وکالت نامہ۔
مُوْكُول: مفوضہ۔
وَكْن: گھونسلا ج: أَوْكَان و وُكُون۔

و............ل

وَلَدَ ـ وِلَادَةً: جننا، بچہ پیدا کرنا۔
وَلَّدَ تَوْلِيداً: پرورش کرنا (۲) پیدا کرنا، بنانا (۳) بچہ جنانا (۴) سبب بننا۔
وَلَّدَ البُخَارَ مِنْ: اسٹیم بنانا۔
وَلَّدَ الكَهْرَبَاءَ: بجلی تیار کرنا۔
تَوَلَّدَ: پیدا ہونا۔
تَوَلَّدَ البُخَارُ مِنْ: اسٹیم تیار ہونا۔
تَوَلَّدَ الشُّعُورُ فِي: احساس پیدا ہونا۔
تَوَلَّدَتِ الصَّدَاقَةُ عَنْ شَيْءٍ: دوستی پیدا ہونا۔
وِلَادَة: پیدائش، برتھ، ڈلیوری (۲) ظہور، آغاز۔
وِلَادَةٌ طَبِيعِيَّة: فطری پیدائش۔
وِلَادَةٌ مُعَجَّلَة: قبل از وقت پیدائش۔
وَلِيد: بچہ، نوزائیدہ بچہ (۲) نتیجہ۔
وَلِيدُ السَّاعَة: وقت کی پیداوار، ابھی کہا ہوا شعر، ابھی ذہن میں آئی ہوئی بات۔
أَوْلَادُ الذَّوَات: بڑوں کی اولاد۔
تَوْلِيد: دایہ گری۔
تَوْلِيدَات: تحقیقات۔
مَوْلِد: ولادت (۲) جائے ولادت (۳) وقتِ ولادت (۴) یومِ پیدائش (۵) وطن۔
المَوْلِدُ النَّبَوِيّ: میلاد النبی ﷺ، یوم پیدائش نبی پاک ﷺ۔
لُغَةُ المَوْلِد: مادری زبان۔
مُوَلِّدٌ كَهْرَبَائِيّ: جنریٹر، بجلی بنانے کا موٹر۔
مُوَلِّدَة: دایہ۔
مُوَلَّد: مخلوط النسب۔
مِيلَاد: پیدائش (۲) وقتِ ولادت۔
عِيدُ المِيلَاد: جشنِ ولادت۔
سَنَةٌ مِيلَادِيَّة: سنِ عیسوی
وَلَع: شغف۔
وَلِع، وَلُوع: دلدادہ، فریفتہ۔
وَلَّاعَة: سگریٹ لائٹر۔
وَلَه: گرویدگی۔
وَلْوَلَ الرَّجُلُ: واویلا کرنا۔
وَلَّى فُلَاناً: حاکم مقرر کرنا۔
وَلَّى فُلَاناً الأَمْرَ: کام سپرد کرنا۔
وَلَّى المَنْصِبَ: منصب پر فائز کرنا۔
وَلَّى الوِزَارَةَ: وزارت سپرد کرنا۔
وَلَّاهُ المَشَاكِلَ: مشکلات میں ڈالنا۔
تَوَلَّى: قبول کرنا، ذمہ لینا۔
تَوَلَّى الأَمْرَ: کام سنبھالنا، چارج لینا۔
تَوَلَّى التَّحْرِيرَ: ایڈٹ کرنا، اخباریا

رسالہ کی ادارت کرنا۔
تَوَلَّى الرِّئَاسَةَ: صدارت کرنا، صدارت پر فائز ہونا۔
تَوَلَّى السُّلْطَةَ: اقتدار یا اختیار سنبھالنا۔
تَوَلَّى سُلْطَةَ السِّيَادَةِ: اقتدار سنبھالنا۔
تَوَلَّى الشُّئُونَ والأعْمَالَ: کام کاج چلانا۔
تَوَلَّى التَّنفِيذَ: اجراء کرنا، انتظام کرنا۔
تَوَلَّى تَنفِيذَ المُؤَامَرَةِ: سازش کو عملی جامہ پہنانا۔
تَوَلَّى المُحَامِي الدِّفَاعَ عَنِ القَضِيَّةِ: وکیل کا مقدمہ کی پیروی کرنا، کیس ہاتھ میں لینا۔
تَوَلَّى المَسْئُولِيَّةَ: ذمہ داری سنبھالنا۔
تَوَلَّى مَقَالِيدَ السُّلْطَةِ: اختیارات سنبھالنا، زمامِ اقتدار ہاتھ میں لینا۔
تَوَلَّى المَنصِبَ أو الحُكْمَ: عہدہ یا حکومت سنبھالنا، منصب سنبھالنا۔
تَوَلَّتِ الصَّحَافَةُ حَمْلَةً بكذا: اخبارات کا کوئی مہم چلانا۔
اِسْتَوْلَى على: قبضہ کرنا، غالب ہونا۔
اِسْتَوْلَى على السُّلْطَةِ: اقتدار پر قابض ہونا۔
اِسْتَوْلَى عَلَيْهِ الذُّهُولُ: بدحواسی طاری ہونا۔
وَلَاءٌ: دوستی، محبت، وفاداری، جاں نثاری، اطاعت (۲) رشتہ داری۔
وِلَاءٌ: تسلسل۔
وِلَايَةٌ: حکومت، اختیار (۲) بالادستی (۳) ریاست، صوبہ، اسٹیٹ۔
الوِلَايَاتُ المُتَحِدَةُ: امریکا۔
وَلِيٌّ: مددگار (۲) دوست (۳) بزرگ ج: أَوْلِيَاءُ۔
وَلِيُّ أَمْرٍ: کسٹوڈین۔
وَلِيٌّ شَرْعِيٌّ: سرپرست۔
أَوْلِيَاءُ أُمُورِ الطَّلَبَةِ: سرپرستانِ طلبہ۔
وَالٍ: حاکم، گورنر ج: وُلَاةٌ۔
وُلَاةُ الأُمُورِ: اصحابِ حل وعقد۔
مُوَالٍ: ہم نوا، حامی۔

و............م

وَمْض، وَمِيض: چمک۔
وَمْضُ العَيْنِ: آنکھ کی چمک۔
وَمَضَات: جھلکیاں۔
وَمَق: محبت، چاہت۔

و............ن

وَنَى ـِ وَنْياً و وَنَى ـَ وَنًى: سست ہونا۔
تَوَانَى: سست پڑنا۔
تَوَانَى في عَمَلِه: سستی برتنا۔
وَنًى، وَنَاء: سستی، کمزوری، تعب۔
مِينَاء: پورٹ، بندرگاہ ج: مَوَانِي۔
مِينَاءُ التَّفْرِيغِ: سامان اتارنے کی بندرگاہ۔
مِينَاءُ الشَّحْنِ: سامان لادنے کی بندرگاہ، لوڈنگ پورٹ۔
مِينَاءُ القِيَامِ: ڈپارچر پورٹ، روانگی کی بندرگاہ۔
مِينَاءٌ لِلتَّصْلِيحِ: ریپیرنگ پورٹ۔

و............ہ

وَهَبَ ـَ وَهْباً: دینا، ہبہ کرنا۔
هِبَةٌ: عطیہ ج: هِبَات۔

هِبَةٌ خَيْرِيَّة: خیراتی عطیہ۔
هِبَةٌ مِنَ السَّمَاء (نَجْدَةٌ غَيْرُ مُتَرَقَّبَة): نعمتِ غیر مترقبہ۔
مَـوْهُـوْب: خداداد (۲) طبع زاد (۳) باکمال، باصلاحیت۔
مَـوْهِبَة: عطیہ (۲) ملکہ، صلاحیت (۳) خداداد قابلیت، وہبی کمال ج: مَوَاهِب۔
مَوَاهِبَةٌ خَارِقَة: غیر معمولی صلاحیت۔
مَوَاهِب: صلاحیتیں (۲) کمالات۔
وَهَـج: آگ کا شعلہ، لپٹ (۲) روشنی، چمک دمک۔
وَهَّاج: انتہائی روشن۔
وَهْدَة: نشیبی زمین ج: وِهَاد۔

وَهْمٌ: خیال (۲) تصور (۳) غلطی۔
وَهْمٌ اِيْدِيُولُوجِيّ: تصوراتی وہم۔
اَنْتَ وَاهِمٌ: تمہارا خیال غلط ہے۔
تُهْمَة: الزام ج: تُهَم۔
وَرَقَةُ الاتِّهَام: فردِ جرم۔
مُتَّهَم: ملزم، ماخوذ۔
مُتَّهَمٌ فِى قَضِيَّة: کسی مقدمہ میں ماخوذ۔
وَهْن: کمزوری۔
وَهْنٌ مِنَ اللَّيْل: رات کا ایک حصہ۔

و............ی

وَاحَة: نخلستان ج: وَاحَات۔
وَيْلَة: مصیبت۔
وَيْلَات: آفات ومصائب۔

ه

ه.........ب

هَبَّ ـُ هُبُوباً: ہوا چلنا۔

__ مِنَ النَّوم: بیدار ہونا، سوکر اٹھنا۔

__ إلَى العَمَل: کام پر لگنا۔

__ لِلْحَرْب: لڑائی کے لئے تیار ہونا۔

__ فِي الحَرْب: شکست کھانا۔

هَبَّتِ العَاصِفَةُ: آندھی چلنا۔

__ رِيَاحُ الخِلَاف: اختلاف پیدا ہونا۔

__ رِيَاحٌ مَصْحُوبَةٌ بالأمْطَار: بادوباراں کا طوفان آنا۔

__ النَّارُ: آگ سلگنا۔

هَبَّةُ رِيحٍ: ہوا کا جھونکا۔

هَبَطَ ـِ هُبُوطاً: اترنا (۲) کمی ہونا۔

هَبَطَ الحَمَاسُ: جوش وخروش سرد ہونا۔

هَبَطَ السِّعْرُ: بھاؤ گرجانا۔

هَبَطَ المُسْتَوَى: معیار گرجانا۔

هَبَطَ المَسْعَى: دوڑ دھوپ کم ہوجانا۔

هَبَطَ تَوْزِيعُ الصَّحِيفَة: اخبار کی اشاعت کا کم ہونا۔

هَبَطَتِ الجُنُودُ بِالبَرَاشُوت: پیراشوٹ سے فوج اُترنا۔

__ دَرَجَةُ الحَرَارَة: درجۂ حرارت کم ہونا۔

__ الصِّحَّةُ: صحت گرجانا، جواب دے دینا۔

__ الطَّائِرَةُ فِي المَطَار: ہوائی اڈہ پر جہاز اترنا، لینڈ کرنا۔

__ القِيمَةُ: قیمت گرجانا۔

__ قِيمَةُ العُمْلَة: سکہ کی قیمت کم ہوجانا۔

__ التِّجَارَةُ: کاروبار کا مندا ہونا۔

هُبُوط: اُتار، کمی، انحطاط۔

__ الأثْمَان: قیمتوں میں کمی۔

__ فِي الأرْبَاح: منافع میں کمی۔

__ الطَّائِرَة: لینڈنگ۔

فِي هُبُوطٍ: اُتار پر، روبہ انحطاط۔

هَبُوط: نشیب۔

مَهْبِطُ الطَّائِرَات: ایرفیلڈ، ہوائی میدان۔

مِهْبَطَة: پیراشوٹ، ہوائی چھتری ج: مَهَابِط۔

هَبَاء: گرد ج: أهْبَاء۔

هَبَاءَةٌ: مٹی کا ایک ذرہ۔

ه.........ت

هَتَرَ ـِ هَتْراً: آبروریزی کرنا (۲) پھاڑنا

(۳) بڑھاپے کا عقل کو زائل کر دینا۔
اِستَهتَرَ: آوارہ ہونا (۲) بیہودہ کام کرنا (۳) حقیر و بے حیثیت سمجھنا۔
مُستَهتِر: آوارہ (۲) لغو و لاطائل باتیں کرنے والا۔
هَتَفَ ـِ هَتفاً و هُتافاً: چیخنا (۲) نعرہ لگانا۔
هَتَفَ به: پکارنا۔
هَتَفَ بحَیاةِ فُلان: زندہ باد کا نعرہ لگانا۔
هَتَفَ بِسُقُوطِه: مُردہ باد کا نعرہ لگانا۔
هَتَفَ بِذِکرِه: مدح سرائی کرنا۔
هُتاف: چیخ (۲) نعرہ ج هتافات:
هُتافُ الاِستِحسَان: نعرۂ تحسین، پُر جوش تائید۔
هُتافُ الحَرب: نعرۂ جنگ۔
هُتافُ الجَماهِیر: عوامی نعرہ۔
الهُتافاتُ العِدائِیةُ ضِدَّ اَحَد: مخالفانہ نعرے۔
الهُتافَاتُ بالحَیاة: زندہ باد کے نعرے۔
هَاتِفٌ: نعرہ لگانے والا (۲) ٹیلیفون۔
هَاتِفٌ دَاخِلِیٌّ: انٹر ٹیلیفون، انٹرکام۔
هَاتِفِیّ: ٹیلیفون سے متعلق۔
هَتَکَ ـِ هَتکاً: پردہ دری کرنا (۲) رُسوا کرنا، آبرو ریزی کرنا۔
هَتکُ الحُرمَة: بے حرمتی۔
هَتکُ السِتر: پردہ دری۔
هَتکُ العِزَّة: آبرو ریزی۔
هَتکُ العِرض: عصمت دری۔
تَهَتُّک: پھٹنا، رسوا ہونا (۲) بے حیائی، آوارگی۔
مُتَهَتِّک: آوارہ۔

ھ............ج

هِجرَة: ترکِ وطن، انتقالِ مکانی، انتقالِ آبادی۔
هِجرَةٌ غَیرُ مَشرُوعَة: غیر قانونی نقلِ وطن۔
الهِجرَةُ مِنَ الوَطَن: ترکِ وطن۔
تَهجِیر: کسی جگہ سے نکالنا، ملک بدر کرنا، ترکِ وطن کرانا۔
مَهجُور: متروک۔
هَجَسَ ـُ هَجساً: دل میں کھٹکنا۔
هَاجِس: خیال ج: هَوَاجِس۔
هَوَاجِس: خطرات، خیالات۔
الهَوَاجِسُ المُتَوَاتِرة: مسلسل خیالات۔
هُجُوع: نیند (۲) سکون۔
هَجِیع: رات کا ایک حصہ۔
هَجَمَ ـُ هُجُوماً: حملہ کرنا (۲) ٹوٹ پڑنا۔
هَجَمَتْ عَلَیهِ الصَّحِیفَةُ: اخبار کا کسی کو آڑے ہاتھوں لینا۔
هَاجَمَ المَوَاقِعَ: ٹھکانوں پر حملہ کرنا۔
هَاجَمَ البُولِیسُ المُتظَاهِرِینَ: مظاہرین پر پولیس کا حملہ آور ہونا۔
هَاجَمَ بأقسَی الکَلِمَات: سخت کلامی سے پیش آنا۔
هَاجَمَتِ الصُّحُفُ أمراً: اخبارات کا کسی چیز پر لے دے کرنا۔
هَجمَة: حملہ ج: هَجَمات۔
هُجُوم: حملہ۔
هُجُومٌ بالهِرَاوَات: لاٹھی چارج۔
هُجُومٌ جَوِّیّ: فضائی حملہ۔
الهُجُومُ الخَادِعُ عَلَی: مغالطہ آمیز حملہ۔

هُجُومٌ خَاطِف: اچانک حملہ، ناگہانی حملہ۔
هُجُومٌ دِبْلُومَاسِيٌّ خَاطِف: ناگہانی ڈپلومیسی حملہ۔
هُجُومٌ شَرِسٌ: زبردست حملہ۔
هُجُومٌ مُسَلَّح: مسلح حملہ۔
هُجُومٌ مُضَادّ: جوابی حملہ۔
هُجُومٌ مُعَاكِس: جوابی حملہ۔
هُجُومِيّ: اقدامی (ضد دِفَاعِيّ)۔
تَهَجُّم: جھڑپ، حملہ۔
التَّهَجُّمَاتُ الْكَلَامِيَّة: زبانی جھڑپیں۔
مُهَاجِم: حملہ آور (۲) گیند پھینکنے والا۔
هَجِين: کمینہ (۲) عیب دار (۳) مخلوط النسل۔
هَجِين، هِجَان: تیز رفتار اونٹنی۔
هَجَّان: شتربان۔
فِرْقَةُ الْهَجَّانَة: شترسوار دستہ۔
اِسْتِهْجَان: ناپسندیدگی۔
هَجْوٌ عَلَنِيّ: علی الاعلان مذمت۔
هَجْوِيّ: مذمت آمیز۔
هَجَّاءٌ: زبردست نقاد۔

ه............و

هَدَأَ ــــ هُدُوءًا: سکون پذیر ہونا، کم ہونا، تھمنا۔
ــــ الْقَلْبُ: اطمینانِ قلب ہونا۔
ــــ الْبَالُ: اطمینان ہونا۔
ــــ فُلَانٌ: مرجانا۔
هَدَأَتِ الْأَحْوَالُ: حالات کا پرسکون ہونا۔
ــــ الثَّوْرَةُ: غصہ ٹھنڈا ہونا (۲) بغاوت ختم ہونا۔
ــــ الْعَاصِفَةُ: آندھی تھمنا، رکنا۔
ــــ الْأَعْصَابُ: پرسکون ہونا، اطمینان ہونا۔
ــــ الْحُمَّى أَوِ الْبَرْدُ: بخار یا سردی کم ہونا، ختم ہونا۔
هَدَأَ الْغَضَبُ: غصہ کم ہونا۔
ــــ بِالْمَكَان: مقیم ہونا۔
هَدَّأَ و اَهْدَأَ: ساکن کرنا، ہلکا کرنا، کم کرنا، فرو کرنا، ٹھنڈا کرنا (۲) پرسکون بنانا، امن و امان قائم کرنا، سکون بخشنا۔
ــــ السُّرْعَةَ: رفتار کم کرنا، سلو کرنا۔
هَدَّأَ بَالَه: تسلی دینا۔
ــــ خَاطِرَه: دل جوئی کرنا۔
ــــ رَوْعَه: اطمینان دلانا (۲) ڈھارس دینا۔
ــــ الْأَخْطَارَ: خطرات دور کرنا۔
ــــ الْأَوْضَاعَ: حالات پرسکون بنانا، حالات پر قابو پانا۔
ــــ الْجَوَّ: فضا میں سکون پیدا کرنا۔
ــــ الطِّفْلَ: تھپکنا۔
ــــ الْغَلَيَانَ: جوش ٹھنڈا کرنا۔
هَدِّئْ رَوْعَك: تم اطمینان رکھو، خاطر جمع رکھو۔
هُدُوْء: سکون، آہستگی، سنجیدگی، متانت۔
هُدُوْءُ الْبَال: اطمینانِ قلب، آسائش۔
هُدُوْءُ الرَّوْع: سکونِ خاطر۔
بِهُدُوْءٍ: اطمینان سے۔
هَادِئ: پُرسکون، سنجیدہ۔
هَادِئُ النَّفْس: مطمئن۔
هَادِئُ الْأَعْصَاب: پُرسکون، سنجیدہ۔
الْمُحِيطُ الْهَادِئ: بحر منجمد۔

هَدَبَ الثَّوبَ: کپڑے میں جھالر لگانا۔
هُدْبٌ: پلک ج: اَهْدَاب (۲) جھالر (۳) پلّہ، دامن۔
هَدَّدَ تَهْدِيْداً: دھمکی دینا، چیلنج کرنا، خطرہ بننا۔
هَـدَّدَ الـحُـقُـوقَ: حقوق کو چیلنج کرنا، حقوق کو نقصان پہنچانا۔
هَدَّدَ مَصَالِحَه: مفادات کو چیلنج کرنا۔
هَـدَّدَ بـاسْـتِـخْـدَامِ الـقُوَّة: طاقت استعمال کرنے کی دھمکی دینا۔
هَدَّدَ السَّلَامَ: امن کو چیلنج کرنا۔
هَدَّدَ المَسِيْرَةَ: تحریک کو چیلنج کرنا۔
هَدَّدَ بِنُشُوبِ العُنْف: تشدد پھوٹ پڑنے کی دھمکی دینا۔
يُهَدِّدُ بالاِنْفِجَار: دھماکہ خیز۔
تَهْدِيْد: خطرہ، چیلنج، دھمکی ج: تَهْدِيْدَات۔
تَهْدِيْدٌ اَجْوَفُ: خالی دھمکی۔
مُهَدَّد: خطرہ میں، خطرہ سے دوچار۔
هَـدِيْـر: کبوتر کی آواز (۲) شیر یا بادل کی گرج (۳) روانی سمندر کی آواز۔
هَدِيْرُ الآلاتِ و اَزِيْزُهَا: مشینری کی آواز۔
هَدِيْرٌ رَهِيْب: خوفناک آواز۔
هَدَفَ إلَى ــِ هَدْفاً: قصد کرنا، مقصد بنانا۔
اِسْتَهْدَفَ الشَّيْءَ: نشانہ بنانا (۲) مقصد بنانا۔
اُسْتُهْدِفَ لكذا: نشانہ بننا۔
هَدَف: مقصد، غرض (۲) نشانہ (۳) گول ج: اَهْدَاف۔
جَعَلَهُ هَدَفاً لكذا: نشانہ بنانا۔
هَدَّاف: نشانہ باز۔

هَادِف: بامقصد، مقصدی۔
اَهْـدَاف و : هَـدَف: اغراض ومقاصد، ٹھکانے، نشانہ۔
الاَهْـدَافُ الـتَّـوَسُّـعِيَّة: توسیع پسندانہ مقاصد۔
اَهْدَاف عَسْكَرِيَّة: فوجی ٹھکانے۔
اَهْدَافُ المَدَافِع: توپوں کے نشانے۔
اَهْدَاف مَدَنِيَّة: شہری ٹھکانے۔
اَهْدَاف مُشْتَرِكَة: مشترکہ مقاصد۔
هَدِيْل: کبوتر کی آواز۔
هَدَمَ الكِيَانَ ــِ هَدْماً: ہستی کو فنا کرنا۔
هَدَمَ صَرْحَ الظُّلْم: ظلم کا قلعہ مسمار کرنا۔
هَدَمَ اَحَداً سِيَاسِيّاً: کسی کو سیاسی شکست دینا۔
هُدِمَ: چکر آنا۔
هَدْم: تخریب کاری۔
هَدَّام: تخریب کار، تخریب پسند (۲) تخریبی۔
هَادِمُ اللَّذَّات: موت۔
تَهْدِيْم: منہدم کرنا (۲) انہدام۔
هُدْنَة: سکون (۲) جنگ بندی، صلح ج: هُدَن۔
هَادَنَه: صلح کرنا (۲) لڑائی بند کرنا۔
مُهَادِن: صلح کنندہ۔
المُهَادَنَة: صلح، مصالحت۔
هُدَىً: راست روی، ہدایت۔
تَهَادَى فِي مِشْيَتِه: جھومنا۔
تَهَادَى فِي السَّيْر: آہستہ چلنا۔

ه..........ذ

تَهْذِيْب: آدمی بنانا (۲) تہذیب، اصلاح، تصحیح۔
تَهْذِيْبُ الاَخْلَاق: اخلاق سنوارنا۔

هَذَی ۔ هَذَیاناً: نامعقول باتیں کرنا، بہکی باتیں کرنا۔
هَذَیان: بوکھلاہٹ، سراسیمگی۔
هَذَیانُ الحُمّی: ہذیان، بڑ، بخار کی حالت میں بے معنی گفتگو۔

ھ............ر

هُراء: فضول کلام۔
هَرَّبَ: بھگانا (۲) چور بازاری کرنا (۳) اسمگلنگ کرنا، چوری سے سامان پاس کرنا (۴) خفیہ طور پر ممنوعہ اشیاء کی خرید وفروخت کرنا۔
هَرَبَ مِنَ المَسئُولِیَة ۔ هُرُوباً: ذمہ داری سے فرار اختیار کرنا۔
تَهَرَّبَ مِنْ: بچ نکلنا، پہلوتہی کرنا، فرار اختیار کرنا، گریز کرنا۔
تَهَرَّبَ مِنَ القَانُون: قانون سے بچ نکلنا۔
تَهَرَّبَ مِنَ الضَّرِیبَة: ٹیکس سے بچنا۔
تَهَرَّبَ مِنَ المَسئُولِیَّة: ذمہ داری سے بچ نکلنا۔
هَارِبٌ مِنْ حُکمِ القَانُون: قانون سے فرار اختیار کرنے والا۔
تَهَرُّب: پہلوتہی، فرار، گریز۔
التَهَرُّبُ الضَّرِیبِیّ: ٹیکس چوری۔
تَهَرُّبٌ مِنَ الضَّرِیبَة: ٹیکس سے فرار۔
تَهرِیبُ البَضَائع: اسمگلنگ، خلاف ضابطہ چوری سے سامان لانا، لے جانا۔
تَهرِیبُ الاَسلِحَة مِنْ مَخَازِنِ الجَیش: فوجی میگزین سے ہتھیاروں کی اسمگلنگ۔
تَهرِیبٌ مِنَ الجُمرُک: اسمگلنگ، ٹول اسمگلنگ۔
مَهرَب: راہ فرار، چھٹکارا۔
مُهَرِّب: اسمگلر، چور بازاری کرنے والا۔
مُهَرَّبَات: غیر قانونی درآمد و برآمد شدہ مال۔
هَرْجٌ و مَرْج: شوروغل، گھبراہٹ و اضطراب و بے چینی، افراتفری، گڑبڑ، بھاگ دوڑ۔
فِی هَرجٍ و مَرْج: سخت پریشانی میں، افراتفری میں۔
التَّهرِیج: ہلڑبازی (۲) ٹھٹھول، مذاق و دل لگی۔
هِرٌّ: بلا، هِرَّة: بلی ج: هِرَرَة و هِرَرٌ۔
هَرَسَ ۔ هَرساً: بھرتہ بنانا، کوٹنا۔
بَطَاطِسُ مَهرُوسٌ: آلو کا بھرتہ۔
مِهرَاس: کھرل (۲) ہاون دستہ (۳) اوکھلی۔
هَرَّش بَینَهُم: فساد ڈالنا۔
هَرِعَ إلَیه هَرَعاً: تیزی سے جانا۔
هَرَم: بڑھاپا، بڑھاپے کی کمزوری۔
هَرِم: بہت بوڑھا۔

ھ..........ز

هَزَأ ۔ هَزءاً و هُزُوءاً و تَهَزّأ و اِستَهزَأ: مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا۔
اِستَهزَأ بالرَّأی: رائے کا مذاق اڑانا۔
هَزَّ ۔ هَزّاً: ہلانا، جھٹکا دینا۔
هَزَّ الکِیَان: وجود کو جھنجھوڑنا، ہلا کر رکھ دینا۔
هَزَّ الاَعصَاب: اعصاب کو جھنجھوڑنا۔
اِهتَزَّ و تَهَزَّزَ: ہلنا (۲) کانپنا۔
اِهتَزَّتْ ثِقَتُه بِفُلان: کسی پر اعتماد میں

فرق آنا۔
هَزَّة: جھٹکا، لرزہ ج: هَزَّات۔
هَزَّةٌ أرضِيَّة: زلزلہ۔
هَزَّةٌ عَنِيفَة: زبردست جھٹکا۔
هَزَّاز: متحرک۔
كُرسِيٌّ هَزَّاز: جھولا کرسی۔
هَزِيزُ الرَّعْد: گرج کی آواز۔
هَزِيع: شب کا ایک حصہ۔
هَزَلَ فِي كَلَامِهِ ـِ هَزْلاً: غیر سنجیدہ کلام کرنا، مذاق کرنا۔
هَزْلِيّ: مزاحیہ، مذاقیہ۔
رِوَايَةٌ هَزْلِيَّة: مزاحیہ ناول۔
صُورَةٌ هَزْلِيَّة: کارٹون۔
هُزَال: لاغری، کمزوری۔
هَزِيل، مَهْزُول: کمزور، لاغر۔
مَهْزَلَة: دلچسپ ومزاحیہ قصہ، کامیڈی ج: مَهَازِل۔
هَزَمَ ـِ هَزْماً: شکست دینا، ہرانا۔
اِنْهِزَام: شکست کھانا، ہارنا۔
اِنْهِزَامِيّ: شکست خوردہ ذہنیت کا، دشمن سے دبنے والا، شکست خوردگی کا احساس رکھنے والا۔
الاِنْهِزَامِيَّة: شکست خوردگی۔
هَزِيمَة: شکست۔
هَزِيمَةُ اقْتِرَاحٍ: تجویز کی پامالی۔
هَزِيمَةٌ نَكْرَاءُ: سخت ناکامی۔
هَزِيمَةٌ مَاحِقَة: زبردست شکست۔

ہ............ش

هَشّ، هَشَاش: نرم، خستہ، قابلِ شکستگی۔
هَشُّ الوَجْه: خندہ رو۔
خُبْزٌ هَشٌّ: خستہ روٹی۔
هَشَاشَة: خندہ روئی۔
هَشَمَ ـِ هَشْماً و هَشَّمَ: توڑنا، چورہ کرنا۔
تَهَشَّمَ، اِنْهَشَمَ: ٹوٹنا، چورہ ہونا۔
هَشِيم: خشک گھاس۔

ہ............ض

هَضْبَة: اونچی زمین، ٹیلہ، چوٹی (۲) پہاڑی سلسلہ، کوہستانی سلسلہ ج: هَضَبَات و هِضَاب۔

ہ............ط

هَطَلَ ـِ هَطْلاً و هَطَلَاناً: بارش ہونا۔
اِنْهِطَالُ الإِحْسَان: احسان کی بارش ہونا۔

ہ............ف

تَهَافَتَ عَلَى: گر پڑنا، ٹوٹ پڑنا۔
التَّهَافُتُ عَلَى الشِّرَاء: خریداری کی کثرت۔
هَفْوَة: لغزش ج: هَفَوَات۔
هَفَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ ـُ هَفْواً: مشتاق ہونا۔

ہ............ک

هَيْكَل: ڈھانچہ (۲) بھاری بھرکم (۳) زبردست عمارت (۴) عبادت خانہ ج: هَيَاكِل۔
الهَيْكَلُ الأَسَاسِيّ: بنیادی ڈھانچہ۔
الهَيْكَلُ الاِقْتِصَادِيّ: اقتصادی ڈھانچہ۔
الهَيْكَلُ التَّنْظِيمِيّ لكذا: تنظیمی ڈھانچہ۔

تَهَكَّمَ الرَّجُلَ و عَلَيهِ: مذاق اڑانا، پھبتیاں کسنا۔
تَهَكَّمَ عَلَى: ناراض ہونا (۲) پشیمان ہونا۔

ہ.........ل

هَلِعَ ـَ هَلَعاً: گھبرانا، دل دہلنا۔
تَهَالَكَ و اسْتَهْلَكَ في: مشغول ہونا (۲) جھٹ پٹ کام کرنا، پھرتی سے کرنا۔
تَهَالَكَ عَلَى: گرپڑنا (۲) جان لڑانا، جان کی بازی لگانا، نثار ہونا۔
تَهَالَكَ في المَشْي: جھومنا۔
اِسْتِهْلَاك: کھپت، خرچ، صرف (۲) فنا کرنا، صرف کرنا ج: اِسْتِهْلَاكَات۔
اِسْتِهْلَاكٌ سَنَوِيّ: سالانہ کھپت۔
اِسْتِهْلَاكٌ مَحَلِّيّ: مقامی کھپت۔
اِسْتِهْلَاكِيّ: صرف کرنے والا، صارف۔
مُسْتَهْلِكُون: صارفین۔
هِلَالَان: قوسین ( )۔
تَهَلَّلَ: چہرہ کا چمک اٹھنا۔
اِسْتِهْلَال: شروع کرنا (۲) چاند نظر آنا۔
تَهْلِيل: نعرہ لگانا، جے پکارنا (۲) نعرہ۔
مُسْتَهَلّ: اول، آغاز۔
هُلَام: جیلی، مختلف میوہ جات کا مربا۔

ہ.........م

هَمَجِيَّة: وحشیت، جہالت۔
هُمُود: سکون، دھیما پن (ن)۔
هَمَرَ ـُ هَمْراً و انْهَمَر: پانی گرنا۔
اِنْهِمَارُ الاَسْئِلَةِ على: سوالات کی بوچھاڑ ہونا۔
هَمْز: (ض) نکتہ چینی (۲) عیب جوئی۔
هَمَسَ ـِ هَمْساً: کان میں بات کہنا۔
هَامِشُ الكِتَاب أو الصَّحِيفَة: حاشیہ۔
هَامِشِيّ: متعلق بہ حاشیہ (۲) کنارے پر واقع۔
هَمَلَتِ العَيْنُ ـُ هَمْلاً: آنسو بھر آنا۔
اِنْهَمَلَ الإِحْسَانُ: احسان کی بارش ہونا۔
إِهْمَال: لاپرواہی، بے توجہی، بے اعتنائی، غفلت، کوتاہی۔
مُهْمِل: لاپرواہ، بدشوق، کم محنت۔
مُهْمَل: متروک، بے کار، ردّی۔
مُهْمَلُ التَّارِيخ: بے تاریخ کا، بلا تاریخ۔
مُهْمَلُ التَّوْقِيع: بے دستخط، بلا دستخط۔
مُهْمَلَات: ردّی، بے کار کاغذات۔
سَلَّةُ المُهْمَلَات: ردّی کی ٹوکری۔
هَمّ: قصد، ارادہ (۲) غم، رنج ج: هُمُوم۔
اَهَمَّهُ كذا اِهْمَاماً: سروکار ہونا، فکرمند ہونا۔
اِهْتَمَّ به: توجہ دینا (۲) اہمیت دینا، دلچسپی لینا۔
اِهْتَمَّ بالسُّلْطَة: اقتدار سے دلچسپی لینا۔
اِهْتِمَام: دلچسپی، توجہ، نوٹس، اٹینشن۔
اِهْتِمَامٌ مُتَبَادِل: باہمی دلچسپی۔
الاِهْتِمَامُ المُشْتَرَك: باہمی دلچسپی۔
اِهْتِمَامَاتٌ رَئِيسِيَّة: بنیادی دلچسپیاں۔
هِمَّة: حوصلہ، عزم ج: هِمَم۔

اِسْتِثَارَةُ الهِمَمِ: حوصلے بلند کرنا۔
تَبْرِيْدُ الهِمَمِ: حوصلے پست کرنا۔
هَامٌّ: اہم، ضروری، قابلِ توجہ۔
اَهَمِّيَّةٌ رَئِيْسِيَّةٌ: بنیادی ضرورت، زبردست اہمیت۔
اَهَمِّيَّةٌ مَصِيْرِيَّةٌ: بنیادی اہمیت۔
مُهِمَّةٌ: کمیشن، مشن، مصروفیت، ورک، منصوبہ، ڈیوٹی، مہم، فرائض ج: مُهِمَّات۔
مُهِمَّةٌ رَسْمِيَّةٌ: سرکاری کام۔
مُهِمَّةٌ مَوْكُوْلَةٌ لَهُ: مفوضہ کام۔
مُهِمَّاتٌ: ضروری سامان، مٹیریل (۲) اہم مسائل۔
مُهِمَّاتُ البِنَاءِ: عمارتی سامان۔
مَهَامّ و مُهِمَّة: اہم کام، مشن، مقصد، ذمہ داریاں، فرائض۔

ھ............ن

هَنَأَ بِكَذَا: مبارکباد دینا۔
هَنَأَ بِحَيَاةٍ هَانِئَةٍ و سَعِيْدَةٍ: خوشگوار زندگی کی مبارکباد دینا۔
هَنِيْئًا لَكَ: مبارک ہو۔
تَهْنِئَةٌ: مبارک ج: تَهَانِي۔
هُنَا: اِدھر، یہاں، اس موقع پر۔
هُنَاكَ: اُدھر، اُس موقعہ پر۔
هُنَا وَ هُنَاكَ: اِدھر اُدھر، یہاں وہاں۔
هَنْدَسَةٌ: انجینئری (۲) فنِ تعمیر۔
هَنْدَسَةُ الطُّرُقِ: روڈ انجینئرنگ، سڑکوں کی تعمیر کا فن۔
الهَنْدَسَةُ المَدَنِيَّةُ: سول انجینئرنگ۔
هَنْدَسَةٌ عِلْمِيَّةٌ: جامیٹری۔

المُهَنْدِسُ: آرکیٹک (۲) انجینئر۔
مُهَنْدِسٌ اِسْتِشَارِيّ: مشیر انجینئر۔
مُهَنْدِسٌ زِرَاعِيّ: زرعی انجینئر۔
مُهَنْدِسٌ مَدَنِيّ: سول انجینئر۔
مُهَنْدِسٌ مِعْمَارِيّ: فنِ تعمیر کا ماہر آرکیٹک۔
هِنْدُوْسِيَّةٌ، هِنْدُوْكِيَّةٌ: ہندو مذہب۔
هِنْدُوْسِيّ، هِنْدُوْكِيّ: ہندو ج: هَنَادِيْس، هَنَادِك۔

ھ............و

هُوِيَّةٌ: شخصیت، ذات، شناخت، حیثیت۔
هُوِيَّةٌ شَخْصِيَّةٌ: پرسنلٹی۔
تَذْكِرَةُ أَوْ بِطَاقَةُ الهُوِيَّةِ: شناختی کارڈ۔
هَوْجَاءُ: تیز رفتار اونٹنی (۲) تیز آندھی۔
هَوَادَةٌ: نرمی (۲) رحم (۳) سستی۔
تَهَاوُد: ہلکا ہونا، نرم ہونا، کم ہونا۔
اِنْهَارَ، تَهَوَّرَ: گرنا (۲) منہدم ہونا۔
اِنْهَارَ جِهَازُ الدَّوْلَةِ: حکومتی ڈھانچہ کمزور ہونا۔
اِنْهَارَتِ القَضِيَّةُ: کیس خراب ہونا۔
اِنْهَارَتِ السُّلْطَةُ: اقتدار ختم ہونا، اقتدار کو زوال آنا۔
اِنْهِيَار: خاتمہ، زوال، گراوٹ، انہدام۔
الانْهِيَار السياسِيّ: سیاسی زوال۔
الانْهِيَارُ العَصَبِيّ: اعصابی کمزوری۔
اِنْهِيَارُ المِلْكِيَّةِ: خاتمہ ملکیت۔
تَهَوُّر: عجلت بازی (۲) لاپروائی (۳) انتہاپسندی۔
الهُوكِي (لُعْبَةُ الكُرَةِ الخَشَبِيَّةِ و الصَّوْلَجَان):

ہاکی۔
هَوَّلَ و هَالَ الأَمْرُ فُلاناً ـُ هَوْلاً: خوف زدہ کرنا، دہشت پیدا کرنا۔
اِنْهَالَ عَلَى: پل پڑنا۔
هَوْل: ڈر، خطرہ ج: اِهْوَال۔
هَائِل: زبردست۔
اَهْوَالُ الحَرْب: جنگ کی ہولناکیاں۔
تَهْوِيْل: دہشت انگیزی۔
هُوْلَنْدَة: ہالینڈ۔
هَامَة: سر ج: هَامٌ۔
هَوَّنَ الأَمْرَ عَلَيْهِ: آسان بنانا، سہولت پیدا کرنا۔
هَوِّنْ عَلَيْكَ: تم فکر نہ کرو، دھیرج رکھو۔
هَانَ الأَمْرُ ـُ هَوْناً: آسان ہونا۔
هَانَ الرَّجُلُ ـُ هَوَاناً: ذلیل ہونا۔
تَهَاوَنَ و اسْتَهَانَ بالأمْر: آسان سمجھنا (۲) حقیر سمجھنا۔
تَهَاوَنَ: لاپرواہی برتنا، سہل انگاری سے کام لینا۔
هُوْن، هَوَان: رسوائی، ذلت (۲) آسانی۔
عَلَى هَوْن: آہستہ، نرمی سے، خاموشی سے۔
هَاوُن: کھرل۔
هُوَيْناً: آہستگی، نرمی۔
هَيِّن: آسان۔
تَهَاوُن: لاپروائی، سہل انگاری، سستی، ڈھیل۔
هُوَّة: گڑھا، کھڈ۔
هُوَّة عَمِيْقَة: گہری خلیج، گہرا گڑھا۔
هَوَى ـِ هُوِيًّا: گرنا (۲) مرنا۔
هَوِيَ ـَ هَوًى: چاہنا، خواہش کرنا، محبت کرنا۔
اِسْتَهْوَى: مائل کرنا، لبھانا، پھسلانا (۲) مسحور کرنا، موہ لینا۔
هَوَاء: ایر، فضا، ہوا۔
الهَوَاءُ وَالمَاءُ: آب وہوا۔
الهَوَائِيّ: ایریل۔
هَـوَايَة: خاص قسم کا شوق، محبوب مشغلہ (۲) دلچسپی، شوق۔
عَلَى هَوَاه: حسب منشا۔
هَاوٍ: شائق ج: هُوَاة۔
هُوَاةُ السُّلْطَة: اقتدار پسند لوگ۔
هَاوِيَة: گڑھا، غار، کھڈ۔
مِهْوَاة: کھڑکی یا روشن دان۔

ہ............ی

هَيَّأَ تَهْيِئَةً: تیار کرنا (۲) آمادہ کرنا (۳) فٹ کرنا۔
هَيَّأَ الجَوَّ: فضا ہموار کرنا۔
هَيَّأَ النَّفْسِيَّةَ: ذہنیت تیار کرنا۔
هَيْـئَة: شکل، صورت (۲) کیفیت، حالت (۳) منظم جماعت، آرگنائزیشن، ادارہ، تنظیم، انجمن، مجلس، سوسائٹی، بورڈ، کمیٹی، باڈی ج: هَيْئَات۔
هَيْئَةُ الأُمَمِ المُتَّحِدَة: انجمن اقوام متحدہ۔
الهَيْئَةُ الاجْتِمَاعِيَّة: انسانی سوسائٹی، انسانی معاشرہ۔
الهَيْئَةُ الحَاكِمَة: برسر اقتدار باڈی۔
الهَيْئَةُ الأُمُّ: اصل باڈی، اصلی ادارہ۔
الهَيْئَةُ الانْتِخَابِيَّة: الیکشن بورڈ۔
هَيْئَة تَابِعَة: ماتحت باڈی، ماتحت ادارہ۔

هَيْئَةُ التَّحرِير: ایڈیٹوریل اسٹاف۔
هَيْئَةُ التَّمْنِيَة: ترقیاتی بورڈ۔
هَيْئَةٌ ثانوِيَّة: دوسرے درجہ کا ادارہ۔
الهَيْئَةُ الدِّبْلُومَاسِيَّة: سفارتی ڈھانچہ، ڈپلومیٹک باڈی۔
هَيْئَةٌ دُوَلِيَّة: بین الاقوامی ادارہ۔
هَيْئَةُ الضِّيافَة: ضیافتی کمیٹی۔
هَيْئَةٌ عامَّة: جنرل باڈی۔
الهَيْئَةُ القائِمَةُ بِالحُكْم: مجلسِ منتظمین۔
هَيْئَةُ القِتال: جنگی بورڈ۔
هَيْئَةُ القُضاة: عدالتی بنچ، ججوں کی جماعت۔
هَيْئَةٌ لِغَرَضٍ مُعَيَّن: ایڈہاک کمیٹی۔
هَيْئَةُ المُحَلَّفِين: جیوری، ججوں کی جماعت۔
هَيْئَةُ المُدَرِّسِين: فیکلٹی، ٹیچنگ اسٹاف، تعلیمی عملہ۔
هَيْئَةُ المُدِيرِين: بورڈ آف ڈائرکٹرس، جماعتِ نظماء۔
هَيْئَةٌ مَرْكَزِيَّة: مرکزی بورڈ۔
الهَيْئَةُ المَرْكَزِيَّةُ لِلتَّخطِيط: مرکزی پلاننگ کمیشن۔
هَيْئَةُ المُوَظَّفِين: اسٹاف، عملہ، کارکنان۔
هَيْئَةُ النَّاخِبِين: انتخاب کنندگان کا بورڈ، رائے دہندگان کی جماعت۔
هَيْئَةُ الوِزارَة: کیبنٹ، وزارت۔
هَيْئَةُ الإدارَة في مُنَظَّمَة: مینجمنٹ، آرگنائزیشن۔
الهَيْئَةُ الاستِشارِيَّة: مجلسِ مشاورت۔
هَيْئَةٌ مُساعِدَة: مددگار جماعت، مددگار باڈی، معاون مجلس۔
هَيْئات: تنظیمیں، ادارے۔
هَيْئاتٌ دُوَلِيَّة: انٹرنیشنل تنظیمیں۔
هَيْئاتٌ غيرُ حُكُومِيَّة: غیر سرکاری ادارے۔
هَيْبَة، مَهابَة: ڈر، رُعب (۲) وقار و عظمت۔
هابَه ــَ هَيْبَةً: ڈرنا (۲) احترام کرنا۔
هَيَّبَ الشيئَ إليه: بھیانک بنانا، بھیانک بنا کر پیش کرنا۔
هَيَّبَ عليه: (وا) ڈرانا، دھمکی دینا۔
تَهَيَّبَهُ: ڈر جانا، خوف زدہ ہونا۔
تَهَيَّبَ فُلاناً: ڈرانا، خوف زدہ کرنا۔
اَهابَ به: اپیل کرنا، پکارنا۔
هَيَّجَ و أهاجَ: مشتعل کرنا، جوش دلانا، اشتعال پیدا کرنا۔
تَهَيَّجَ: مشتعل ہونا۔
هِياج، هَيَجان: جوش، اشتعال، برافروختگی۔
هائِج: مشتعل، برافروختہ، ناراض۔
مَهاجُ الاُتُمبِيل: اسٹارٹر۔
مُهَيِّج: اشتعال انگیز، فساد انگیز، شرارت آمیز، مشتعل کرنے والا۔
مُهَيِّجُ الاضطِرابات: شورش پیدا کرنے والا، فساد انگیز، مشتعل کرنے والا۔
هِيدرُوجِين: ہائیڈروجن۔
هَيَّلَ و هالَ عليه التُّرابَ ــِ هَيْلاً: مٹی ڈالنا۔
اِنهالَ التُّرابُ: مٹی پڑنا۔
هَيَّمَ تَهيِيماً: بھٹکانا۔
هَيَّمَهُ الحُبُّ: عشق و محبت کا پاگل بنا دینا۔
هامَ على وَجهِه ــِ هِياماً: بھٹکنا (۲) آوارہ پھرنا۔
اُستُهِيمَ: دیوانہ ہونا۔
هُيام: شدتِ عشق۔

هَائِم ، مُستَهَام: دیوانہ عشق، ازخود رفتہ، مجنون۔

هَیمَنَ علی: نگراں ہونا (۲) قابض ہونا، حاوی ہونا۔

هَیمَنَتِ البَضائِعُ عَلَی الاَسوَاق: سامان کا بازاروں پر چھا جانا۔

هَیمَنَة: نگرانی، سپرویزن (۲) سیادت، برتری، تسلّط۔

هَیهَاتَ: دور ہو، پرے ہٹ۔

ی

ی .... أ

یَأس: نا امیدی۔
یَارْدَة: (مع) گز، یارڈ، ۳ فٹ۔
یَاقَةُ الثَّوب: طوق، کالر۔
یَاقَةٌ وَاقِفَة: کھڑا کالر۔
یَاقَةٌ مَقْلُوبَة: ڈبل کالر۔

ی .... ب

یُبس: خشکی۔

ی .... ت

یُتم: یتیمی کی حالت۔

ی .... د

یَدٌ: ہاتھ (۲) دستہ ج: اَیدِیٌ (۳) نعمت ج: اَیَادِی۔
یَدَوِیّ: دستی، ہاتھ کا۔
لَهُ یَدٌ فِی: دخل۔
لَـهُ یَـدٌ بَیْـضَـاءُ فِی: اسے کمال حاصل ہے۔
شُغْلٌ یَدَوِیّ: دست کاری۔
اَیْدٍ عَامِلَة: افرادی طاقت، مین پاور۔

ی .... ر

یَـرَاع: قلم (۲) لے (۳) بانسری (۴) جگنو (۵) بزدل و: یَرَاعَة۔

ی .... س

یَسَّرَ: آسان کرنا۔
یُسْر: آسانی (۲) مالی وسعت۔
عَنِ الْیَسَار: بائیں جانب۔
یَسَارِیّ: بائیں طرف کا، بائیں بازو کا۔
یَسِیر: تھوڑا، آسان، معمولی۔
تَیْسِیْرَاتٌ تَقَاعُدِیَّة: پنشنی سہولتیں۔
مَیْسُوْر: آسان۔
مَیْسَرَة: بایاں حصہ۔
مَیْسَرَةُ الجَیْش: فوج کا بایاں بازو۔
یَاسَمِیْن: چنبیلی۔

ی .... ف

یَفطَة، یَافِطَة: سائن بورڈ، دروازے کی تختی۔
یَـفْـطَةُ الطُّرُوْد: پارسلوں پر لگایا ہوا لیبل، چٹ۔

ی .... ق

یَقظَة: بیداری، ہوش مندی۔
یَـقْـظَةُ الْعَـالَمِ الاِسْلَامِیّ: عالمِ اسلام کی بیداری۔
یَقِظ: بیدار، باخبر (۲) محتاط۔

تَيَقُّظ : بیدار مغزی۔
اِسْتِيقَاظ : جاگنا، بیدار ہونا۔
اِسْتِيقَاظٌ مِنْ غَفْوَةٍ : ہوش میں آنا۔
يَقِين : يقين۔
تَيَقَّنَ و اسْتَيْقَنَ : يقين کرنا۔

ی............م

يَمَّمَ : قصد کرنا۔
تَيَمَّمَ الأمْرَ : بالقصد کرنا (۲) تیمم کرنا۔
يَمٌّ : سمندر۔
يُمْن : برکت۔
يَمِين : قسم۔
اليَمِينُ الدُّسْتُورِيَّة : قانونی حلف۔
يَمِينُ الوَلاءِ لَهُ : حلفِ وفاداری۔
اَدَّى اليَمِينَ : حلف اٹھانا۔
مَيْمَنَة : (خلافِ مَيْسَرَة) دایاں حصہ۔
مَيْمُون : بابرکت۔

ی............ن

يَنَايِر : جنوری کا مہینہ۔
يَنِيع ، يَانِع : پختہ۔

ی............و

يُوغَا : (مع) یوگ۔
يُوغِيَّة : یوگزم۔
يُولِيَه ، يُولِيُو : جولائی۔

يَوْمٌ : دن، ڈے ج: اَيَّام۔
اليَوْم : آج، آج کل، موجودہ وقت۔
يَوْمُ انْعِقَادِ الجَلْسَة (فی المَحْكَمَة) : عدالت کا دن۔
يَوْمٌ حَافِل : مصروف دن۔
يَوْمُ عِيد : تہوار کا دن۔
يَوْمُ كِذْبَةِ اِبْرِيْل : اپریل فول ڈے۔
يَوْمٌ قَائِظ : گرم دن۔
يَوْمُ كِذْبَةِ نَيْسَان : اپریل فول ڈے۔
اليَوْمُ المَشْهُود : قیامت کا دن۔
يَوْماً فَيَوْماً : دن بدن، رفتہ رفتہ۔
يَوْمِيَّة : روزنامچہ (۲) ڈائری (۳) ایک دن کی مزدوری ج: يَوْمِيَّات۔
يَوْمِيَّةُ التَّاجِر : تجارتی روزنامچہ۔
يَوْمِيّاً : یومیہ، روزانہ۔
اَيَّامُ التَّفْرِيغ : ڈسچارج کا عرصہ۔
اَيَّامُ السَّمَاح : عرصہ مہلت۔
اَيَّامُ المُهْلَةِ القَانُونِيَّة : قانونی مہلت کا عرصہ۔
فی الاَيَّامِ الحَاضِرَة : آج کل۔
يُونِيَه، يُونِيُو : جون۔

تَمَّ القَامُوسُ الجَدِيدُ بِعَوْنِ الله

القاموس الجدید

ادارہ اسلامیات
پبلشرز، بک سیلرز، ایکسپورٹرز

★ دینا ناتھ مینشن، مال روڈ، لاہور
فون ۷۳۲۴۴۱۲-فیکس ۹۲-۴۲-۷۳۲۴۷۸۵

★ ۱۹۰، انارکلی، لاہور، پاکستان
فون ۷۲۴۳۹۹۱ - ۷۳۵۳۲۵۵

★ موہن روڈ
چوک اُردو بازار، کراچی فون ۲۷۲۲۴۰۱

idara.e.islamiat@gmail.com